

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي جعل في كتابه  
معرفة ما لا يعلمون ولا يدرسون

# فیوض غریبانی

ترجمہ

## افتخار الہربانی

از محبوب عالمی حضرت شیخ محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ مولانا محمد رفیع الدین صاحب قادیان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

تقریب و تصحیح عبدالحکیم شریف قادیان چاندیہ نظامیہ رضویہ لاہور

فرید پبلکیشنز لاہور ۱۹۸۸ء



[www.maktabah.org](http://www.maktabah.org)





[www.maktabah.org](http://www.maktabah.org)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَارَكْنَا فِيْهِ الْكَوْنُ وَالْمَوْعِظَةُ بِالْخَيْرِ  
ترجمہ کی راہ کی طرف بلادِ حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے

# فیوضِ غوثِ سیدانی

ترجمہ

## افتح الربانی

از محبوبِ بحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ: مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ

تقریم: محمد عبد الحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

فرید بک سال ۳۸ اردو بازار، لاہور

کتاب	فیوض غوثِ یزدانی
ترجمہ	اردو الفتح الربانی
تصنیف	محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ترجمہ	مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ
تقدیم و تحریک	محمد عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ
پروف ریڈنگ	قاری طفیل احمد جالندھری، محمد یعقوب صاحب
اصلاح زبان و نظر ثانی	مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری مدظلہ
طباعت باراول	۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء
مطبع	حامد اینڈ کمپنی پرنٹرز، لاہور
صفحات	۷۸۲
قیمت	
کتابت	محمد یعقوب خوشنویس حضرت کیلیا نوالہ
فرید بک سٹال	۳۸، اردو بازار، لاہور نمبر ۲

## فہرست

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۶	تقدیم از مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ	۱
۷۵	نسب نامہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ	۲
۷۶	مجلس ۱: نزول تقدیر کے وقت اعتراض کرنے میں دین و ایمان کی موت ہے	۳
۸۸	مجلس ۲: خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے	۴
۹۷	مجلس ۳: نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی تلقین	۵
۱۱۰	مجلس ۴: جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کب بند ہو جائے	۶
۱۱۹	مجلس ۵: سچی عبودیت کو حاصل کرنے میں کوشاں رہنا چاہیے	۷
۱۲۹	مجلس ۶: اللہ والے خالق کی بادیں گمن رہتے اور مخلوق کو بھول جاتے ہیں	۸
۱۳۵	مجلس ۷: مومن بھی اپنی حالتوں کے لحاظ سے تین قسم کے ہیں	۹
۱۳۸	مجلس ۸: ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بے کار زہد اور ریاکاری ہے	۱۰
۱۴۱	مجلس ۹: اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے	۱۱
۱۴۴	مجلس ۱۰: متقی شکلف سے دور رہتا ہے اور منافق کی فطرت ہی تکلف ہے	۱۲
۱۵۵	مجلس ۱۱: ابدال اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے بدل لیتے ہیں	۱۳
۱۶۳	مجلس ۱۲: طالبانِ حق کیا بی اور نایابی میں کبریت احمر جیسے ہیں	۱۴
۱۷۱	مجلس ۱۳: آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والا دونوں جانوں میں نفع پائے گا	۱۵
۱۸۰	مجلس ۱۴: اولیائے عظام اور علمائے کرام کی توہین کرنے والا منافق بے دین ہے	۱۶
۱۸۸	مجلس ۱۵: مومن آخرت کے لیے زاوراہ بناتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے	۱۷
۱۹۴	مجلس ۱۶: حضور کی توجہ اہل اللہ کے دلوں سے نہیں مٹتی بلکہ انہیں منور کرتی رہتی ہے	۱۸
۱۹۹	مجلس ۱۷: روزی کی منکر نہ کریں کہ تیری روزی تو خود تجھے تلاش کرتی ہے	۱۹
۲۰۷	مجلس ۱۸: ایک جہاد ظاہری ہے اور دوسرا باطنی - باطنی جہاد نفس کے خلاف ہے	۲۰

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۲۱۶	مجلس ۱۹ : قوی ایمان والا قیامت تک کے واقعات کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے	۲۱
۲۲۲	مجلس ۲۰ : عمل کے بغیر زبانی جمع خرچ کام نہیں آئے گا	۲۲
۲۳۳	مجلس ۲۱ : دنیا آخرت سے اور مخلوق خالق سے حجاب ہے	۲۳
۲۳۷	مجلس ۲۲ : دنیا کی محبت کو کس طرح دل سے نکالا جاسکتا ہے۔	۲۴
۲۵۰	مجلس ۲۳ : قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے۔	۲۵
۲۵۷	مجلس ۲۴ : علم عمل کرنے کے لیے ہے نہ کہ حفظ کرنے اور مخلوق کو سنانے کے لیے	۲۶
۲۶۷	مجلس ۲۵ : زہد کپڑوں سے نہیں بلکہ دل کو زہد بنانے سے حاصل ہوتا ہے	۲۷
۲۷۳	مجلس ۲۶ : عاقل مریض طبیب کے ہاتھ یا حکم سے ہی کھاتا ہے	۲۸
۲۸۱	مجلس ۲۷ : اللہ سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو	۲۹
۲۸۵	مجلس ۲۸ : فقر و افلاس محبت رسول کی اور بلا و مصیبت محبت الہی کی شرط ہیں	۳۰
۲۹۳	مجلس ۲۹ : مال داروں کی تعظیم سے دین میں نقصان آتا ہے	۳۱
۳۰۹	مجلس ۳۰ : علم و عمل کی توفیق اور ہدایت مشائخ کے ذریعے ملتی ہے	۳۲
۳۱۵	مجلس ۳۱ : رضا مندی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے	۳۳
۳۲۱	مجلس ۳۲ : سیدنا غوث اعظم کے مقام کو پہچان کر ان سے وابستہ رہنا چاہیے	۳۴
۳۲۷	مجلس ۳۳ : اللہ سے محبت رکھنے والوں کی زیارت خوش بخشتی ہے	۳۵
۳۲۹	مجلس ۳۴ : اللہ والے خدا کا فضل ٹوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں	۳۶
۳۳۰	مجلس ۳۵ : تکبر کرنے والوں کی عبادتیں رائیگاں جاتی ہیں۔	۳۷
۳۳۱	مجلس ۳۶ : دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خرید و جو آخرت میں کام آئے	۳۸
۳۴۲	مجلس ۳۷ : بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت یاد کرواتا ہے	۳۹
۳۵۰	مجلس ۳۸ : کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے	۴۰
۳۵۹	مجلس ۳۹ : اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو	۴۱
۳۶۵	مجلس ۴۰ : جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے دین کی سمجھ دیتا اور نفس کے عبرت نکالتا ہے	۴۲
۳۷۳	مجلس ۴۱ : خدا سے محبت رکھنے کے تقاضے اور اس کی نشانیاں	۴۳

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳۷۸	مجلس ۲۲ : اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا چاہیے	۲۲
۳۸۶	مجلس ۲۳ : فلاح کا خواہاں ہے تو اپنے پروردگار کی موافقت میں نفس کی مخالفت کر	۲۵
۳۹۵	مجلس ۲۴ : مومن دنیا میں قیدی کی طرح ہوتا ہے خواہ وسیع مکان میں رہے	۲۶
۴۰۳	مجلس ۲۵ : اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرنے والا ملعون ہے	۲۷
۴۱۰	مجلس ۲۶ : مخلوق کو دیکھنے والے دروازوں کو بند کر کے خالق کو دیکھنے والا دروازہ کھولنا چاہیے	۲۸
۴۱۳	مجلس ۲۷ : علم حاصل کر کے عمل کر اور مخلوق سے لاتعلقی ہو کر خالق کی عبادت کر	۲۹
۴۱۸	مجلس ۲۸ : ظاہر کو آداب شریعت سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے	۵۰
۴۲۷	مجلس ۲۹ : اللہ والے احکام الہیہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں	۵۱
۴۲۸	مجلس ۳۰ : دنیا کی ہوس کو چھوڑ کر اصلاح احوال اور فکر آخرت میں مشغول ہوں	۵۲
۴۵۵	مجلس ۳۱ : اللہ والے خدا کے سوا کسی کو جانتے پہچانتے ہی نہیں	۵۳
۴۷۳	مجلس ۳۲ : مخلوق کو بقا کی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا کی آنکھ سے دیکھو	۵۴
۴۸۴	مجلس ۳۳ : مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک آزمائش اور امتحان سے گزرتا ہے	۵۵
۴۹۳	مجلس ۳۴ : قلب کو ذکر الہی کے قریب لا اور اسے دوبارہ زندہ ہونا یاد دلا	۵۶
۵۱۰	مجلس ۳۵ : قضا و قدر میں رضا ٹٹے الہی کے خواہاں کو موت یا درکھنی چاہیے	۵۷
۵۱۹	مجلس ۳۶ : دل اور حرکات و سکنات کو خدا سے ڈرنے والوں کے مطابق بناؤ	۵۸
۵۲۸	مجلس ۳۷ : صدق و اخلاص بیش بہا دولت ہے	۵۹
۵۳۴	مجلس ۳۸ : علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ فلاح میسر آسکے	۶۰
۵۳۷	مجلس ۳۹ : طمع والے داعظ کو حتی گوئی نصیب نہیں ہوتی	۶۱
۵۴۹	مجلس ۴۰ : آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے	۶۲
۵۶۱	مجلس ۴۱ : آدمی کے خواطر شیطان، طبیعت، خواہش نفس اور دنیا کی طرف سے ہوتے ہیں	۶۳
۵۹۲	مجلس ۴۲ : توحید کا اننا معتقد ہو کہ مخلوق سے ایک ذرہ بھی تیرے دل میں نہ رہے	۶۴
۵۹۸	۴۵ : الفترحات یعنی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات	
۷۷۸	۶۶ : حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر	

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تقدیم

ایک مختصر ساقیہ گیلان سے روانہ ہو کر مرکز علوم و فنون بغداد جا رہا تھا، منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے تر تک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے وہ تعداد میں ساٹھ تھے۔ انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی اور سب مال و متاع لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا، تمام مسافر مارے دہشت کے دم بخود تھے، ان میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان الیا بھی تھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا، خوف و ہراس کی پرچائیں بھی اس کے چہرے بشرے پر دکھائی نہ دیتی تھیں، ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا کہ نوجوان! تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان نے پرے اطمینان سے جواب دیا ہاں! میرے پاس چالیس دینار ہیں جو میری صدی میں نفل کے نیچے سے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان اندازہ مزاح یہ بات کہہ رہا ہے ورنہ پچھے ہوئے مال کی ڈاکوؤں کو کون نشانہ ہی کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا، کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر آ نکلا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا، وہ بھی یہ خیال کر کے آگے بڑھ گیا کہ اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا، یقینی بات ہے کہ یہ مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔

ڈاکوؤں کا سردار ایک ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا، ایک ڈاکو نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے یقینی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب شخص کی جان کے لئے پڑے ہوئے ہوں اور ہر طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوئی ہو ایسے وقت میں کس کی رگِ ظرافت پھڑک سکتی ہے، دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آچکا ہے تو سردار نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا اس نوجوان کو بلایا جائے، جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس کے ملکوئی حسن، شامانہ وقار، تکنت اور اطمینان و اعتماد سے بھرپور لب و لہجہ سے بے حد متاثر ہوا، اس نے پوچھا صاحبزادے! تیرے پاس چالیس دینار موجود ہیں؟ نوجوان نے اپنی صدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا ہاں! اس جگہ سے ہوئے ہیں، سردار نے قسم حیرت بن کر دوسرا سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں، تم نہ بتاتے تو ہم شاید تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے، تم نے یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ کہ تمہارے پاس چالیس دینار موجود ہیں اور صدیوں سے ہوئے ہیں، نوجوان نے کمالِ سادگی سے جواب دیا،

میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی اتھی سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، میرے یہ چالیس دینار جاتے ہیں

تو جابیں لیکن میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔

نوجوان کے سیدھے سادے جملے براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے، اس کی روح تک کو جھنجھوڑا لا چند لمحوں کے لیے تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ ڈاکو جو زندوں کی طرح مسافروں کو چیر بھاڑ کر رکھ دیتا تھا، تمام ساز و سامان وٹ کر فوچکر ہو جاتا تھا۔ اور اس کے دل پر ذرہ بھر بھی طالع نہ آتا تھا، آج ایک نوجوان کے چند جملے اسے گھائل کر گئے تھے اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ضبط کے تمام بند صحن ٹوٹ چکے تھے، اس کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی بار اشکوں کا سیلاب بہا رہی تھیں، شدت گریہ کے سبب اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، کچھ دیر کے بعد جب اسے قرار ملا تو اس نے بکلتے ہوئے کہا:

صاحبزادے! تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور میں کتنا بد قسمت ہوں کہ زندگی بھر اپنے رب کریم کے عہد کو توڑتا رہا، ہائے افسوس! میری زندگی ایسا متاع عزیز برباد ہو گیا اور میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، صاحبزادے! میں تمہارے ہاتھوں پر اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کا ناحق دل نہیں دکھاؤں گا اور بقیہ زندگی خدا و رسول کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزار دوں گا۔

اس کے ساتھی اس انقلاب کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو شخص موت کے رقص کو دل چسپی سے دیکھتا تھا، جو مرنے والوں کی دل دہلا دینے والی چنجیں سن کر کبھی نہ پسپیتا تھا اور جو قساوت اور سنگدلی کا پیکر ہوا کرتا تھا اسے آج کیا ہوا ہے کہ زار و قطار رو رہا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے دل و دماغ میں ایک برقی رد و لہر تے ہوئے محسوس کی اور سب بیک زبان پکار اٹھے:

سردار! آج تک رہزنی میں تو ہماری قیادت کرتا رہا ہے، بدی کی راہوں پر چلتے ہوئے تو ہماری کمان کرتا رہا ہے،

آج جب کہ تو خدا و رسول کی پسندیدہ راہ پر گامزن ہو چکا ہے اگر ہم اپنی اسی راہ پر چلتے رہے تو اس سے بڑھ کر ہماری بد قسمتی نہیں ہو سکتی، تجھے مہلک ہو کہ اس خوش نتیجہ اور طالع مندی میں ہم بھی تیرے ساتھی ہوں گے اور تو پہلے کی طرح آئندہ بھی ہمارا سردار ہو گا اور ہم تیرے وہی جاں نثار ساتھی ہوں گے، ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ آج جب تم نیکی کے راستے پر چلنے لگے ہو تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں۔

اسی وقت ٹوٹا ہوا سارے کا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا گیا۔ قافلے والوں کی مسرت و شادمانی کا کوئی

اندازہ نہ تھا اور وہ اس نوجوان کو حقیقت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جس کی برکت سے نہ صرف جان بچ گئی بلکہ وہ مال بھی واپس مل گیا جو لٹ چکا تھا، ان کی حیرت بھی بجا تھی کیوں کہ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کان سے نکلا ہوا تیز واپس آجائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ نوجوان، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوگا اور زمانہ بھر کے ادیب اس کے سامنے ادب و احترام سے اپنی گریزیں خم کر دیں گے اور اس کی ذات سے شریعت و طریقت کے کبھی نہ خشک ہونے والے سرچشمے جاری ہوں گے؟ یہ پہلی کھپ ہتی جو آپ کے دستِ اقدس پر تاب ہوئی۔

یہ نوجوان کون تھا؟

دنیا انہیں محبوب سبحانی، قطبِ ربانی، البازِ الاشہب، محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔

## ولادت و نسب :

۲۷۰ھ / ۸۸۰ء کو شمالی فارس میں بحیرہ خزر (کیسپین) کے جزیرے ساحل پر گیلان نامی درخیز صوبہ کی ایک بستی یعقوب میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یا قوت حموی نے اس بستی کا نام بشیر بیان کیا ہے۔ بستی میں اپنے دائرۃ المعارف میں یوں تطبیق دکھایا ہے کہ ایک بستی میں ولادت اور دوسری میں پرورش ہوئی ہوگی۔

حضرت شیخ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست موسیٰ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ ماجدہ ام الخیر امۃ الجبارہ فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ نسب رشتہ مگرچہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے لیکن یہ فضیلت معمولی نہیں ہے کہ آپ کی ذات میں دونوں نسبتیں جمع ہو گئیں۔  
توحیدی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو

اے خضر! مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا

آپ کے والدین کریمین، پھوپھی سیدہ عائشہ اور نانا سید عبداللہ صومعی اپنے دور کے اصحابِ کرامت ادیبانِ مہر تھے، والد ماجد آپ کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے اس لیے آپ کی پرورش جبرہ محترم (نانا) نے فرمائی۔

۱۔ علامہ : شاہ جیلان (رضا کیسٹمی، لاہور) ص ۱۹

۲۔ حاشیہ قلاۃ الجواہر (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۲

۳۔ ص ۱۳۳

۴۔ حدائق بخشش مع ادبی جائزہ (مطبوعہ کراچی) ص ۲۳۳

۵۔ احمد رضا بریلوی، امام

علامہ شطنوفی فرماتے ہیں :

دوبہ کان یعرف حیث کان بجیلان<sup>۱</sup>  
آپ جیلان میں تھے تو انہیں کی نسبت سے معروف تھے۔ تاہم اصناف  
علامہ شطنوفی آپ کے نانا کا نام ابو عبد اللہ صومعی، بیان کرتے ہیں<sup>۲</sup>

## فطری احترام شریعت :

شرعاً نابالغ بچہ، احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ مادر زاد ولی تھے اس لیے شیرخواری کے زمانہ میں ماہ رمضان  
میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں :

میرا بیٹا عبدالقادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا، ایک دفعہ رمضان کا چاند دکھائی  
نہ دیا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے تخت بگرنے دودھ نہیں پیا، بعد میں واضح  
ہو گیا کہ اس دن رمضان ہی تھا، چنانچہ جیلان کے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا  
ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا<sup>۳</sup>

## اشتیاق علم :

بچوں کا کہیں کو دیں مصروف ہونا ایک فطری تقاضا ہے لیکن حضرت شیخ پر تو ابتداء ہی سے حفاظت الہیہ کا پہرہ لگا دیا گیا  
تھلہ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ٹی بی آواز سنائی دیتی :

تعالیٰ الح یا مبارک

اے برکت والے میری طرف آ

تو میں بھاگ کر اپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا، آج بھی میں غلوت میں وہ آواز سناتا ہوں<sup>۴</sup>  
بچپن میں اپنے علاقہ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، فرمایا :

بجۃ الاسرار ص ۸۸

۱۔ علی بن یوسف الشطنوفی، علامہ :

ص ۸۹

۲۔ ایضاً :

۳۔ تلامذہ الجواهر مصطفیٰ البابی، مصر ص ۳

۴۔ محمد بن یحییٰ تافزی، علامہ :

ذیۃ الاسرار (بکسنگ کینی، ممبئی) ص ۶۹

۵۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق :

اس وقت جب میں دس سال کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے ہیں، جب میں مدرسہ پہنچتا تو میں سنتا کہ فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہیں:

افسحوا للولی اللہ حتی یجلس

اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو

شیخ محمد بن قاسم اداوی فرماتے ہیں میں نے سیدی شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دارو مدار کس چیز پر ہے فرمایا:

سچائی پر، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسہ میں پڑھتا تھا،

حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نو عمر تھا، عرفہ کے دن (نزدوا الجمہ) بستی کے باہر نکلا اور ایک گلے کے پیچھے چل دیا۔ گلے نے میری طرف توجہ ہو کر کہا عبدالقادر! تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں گھبرا کر گھرا گیا، مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ حجاج میدان عرفات میں مجتمع ہیں، میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق جنوں خیز پیدا ہو گیا میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ بغداد جا کر علم حاصل کروں اور اولیا کرام کی زیارت کروں، والدہ نے سبب پوچھا تو میں نے ماجرا بیان کر دیا، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ والد کے چھوڑے ہوئے اسی دیناروں میں سے چالیس مجھے دے دیے اور میری صدی میں سی دیے اور چالیس میرے بھائی کے لیے رہنے دیے، مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا اور رخصت کرتے وقت فرمایا:

یا ولدی: اذهب فقد خرجت عنک اللہ عزوجل فہذا وجہ لا اراہ

الحیوم القیمة۔

بیٹے! جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی

راستے میں ڈاکروں کا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی والدہ ماجدہ نقدی کی صورت میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ارسال فرماتی رہیں۔

ورود بغداد اور تحصیل علم:

حضرت شیخ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد پہنچے، پورے غور و غرض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک

پڑھنے کے بعد اپنے دور کے نابغہ روزگار علماء و فضلاء سے فقہ، حدیث اور تصوف کا علم حاصل کیا اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدہ کے دنوار گزار اور مراحل طے کیے۔

### اساتذہ فقہ :

ابو الوفا علی بن مقبل حنبلی، ابو الخطاب محفوظ کوزانی حنبلی، ابوالحسن محمد ابن قاضی ابویعلیٰ حنبلی اور قاضی ابوسعید مبارک بن علی مخزومی حنبلی، ان حضرات سے فقہ کے اصول و فروع اور خلافیات پڑھے۔

### اساتذہ حدیث :

ابو غالب محمد بن الحسن باقلانی، ابوسعید محمد بن عبدالکریم ابوبکر احمد بن مظفر، ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج وغیرہم۔

### استاذ ادب :

ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی

### اساتذہ سلوک :

حضرت ابراہیم خیر محمد بن مسلم بن دروہ دباس اور قاضی ابوسعید مبارک مخزومی، مؤرخ الذکر نے حضرت شیخ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔

حضرت قاضی ابوسعید مخزومی نے فرمایا :

عبدالقادر جیلی نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا اور میں نے ان سے پنا، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے برکت حاصل کرے گا۔

سید محمد بن یحییٰ قاضی، علامہ : قلام الجراح ص ۴

نوٹ : مخزومی پہلا حرف معنوم دوسرا مفتوح تیسرا مشدود، مکرور اور آخر میں یا و نسبت، یہ بغداد کے محدث مخزومی کی طرف نسبت ہے (قلام ص ۵)

سید ایضاً : ص ۵

## ریاضت شاقہ :

حضرت شیخ نے کتاب علم کے ساتھ ساتھ بے مثال ریاضت کے جال گس مراصل کو کمال ثابت قدمی سے طے کیا  
حضرت شیخ فرماتے ہیں :

میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں پچیس سال تنہا مصروف سیاحت رہا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ مجھے  
کوئی پہچانتا تھا، میرے پاس رجال غیب اور جنات کے گروہ درگروہ آتے تھے میں انہیں اللہ تعالیٰ  
کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا، عراق میں داخل ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھ سے دوستی ہو گئی  
اس وقت میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے مجھ سے طے کیا کہ میں ان کے حکم کی خلاف درزی  
نہ کروں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود چلے گئے، ایک سال کے بعد واپس  
آئے، اس طرح میں تین سال وہاں ٹھہرا رہا وہ ایک سال کے بعد آتے اور چلے جاتے تھے  
ایک دوسرا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا جس سے حضرت شیخ قدس سرہ کی بلند ہیبت اور کمال استقامت کا پتا چلتا ہے،  
فرماتے ہیں :

کئی دن کچھ کھائے بغیر گزر گئے، میں عمدہ قبیضہ شریقی میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے پٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا۔  
میں نے وہ کاغذ ایک نانہائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا، میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا،  
جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھائے یا نہ، اتنے میں میری نظر ایک کاغذ  
پر پڑی، اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا :

اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق؟ خواہشات

تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادات کے لیے تیار ہو سکیں،

میں نے کھانا وہیں رہنے دیا، دو رکعت نماز ادا کی، اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا۔

یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط واقع ہوا تھا، غلے اور خرداک کی شدید قلت پیدا ہو گئی، حضرت شیخ جنگلوں اور ویرانوں کا رخ  
کرتے تاکہ درختوں یا سہزی کے پتوں سے صوبک کا علاج کیا جاسکے، جہاں جاتے درویشوں کا جوم دیکھ کر واپس آ جاتے، ایسے ہی  
عالم میں ایک دفعہ پھر اگر سواقہ الریحانیین کی مسجد میں تشریف لائے، فاقے کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے

۱۔ عبداللہ شحرانی، امام :

الطبقات الکبریٰ (مصحفی ابالی، مصر ۱۹۵۲ء) ج ۱ ص ۱۲۹

۲۔ محمد بن یحییٰ تازنی، علامہ :

قلائد الجواهر (مصر) ص ۱۰

دکھائی دینے لگی۔ اسے سنیں ایک شخص عجیب مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا، اس نے قسم دے کر آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ عبدالقادر جیلانی ہیں تو وہ پریشان ہو گیا، پوچھنے پر بتایا کہ آپ کی والدہ نے آٹھ دینار آپ کے لیے دیے تھے، تلاش بسیار کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تین دن سے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے لیکن اب میں آپ کا مہمان ہوں، حضرت نے اسے تسلی دی، بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت کر دیا۔

## کمال استقامت

حضرت شیخ ضیاء الدین ابونصر موسیٰ اپنے والد گرامی حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ دورانِ سیاحت ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں پانی ناپید تھا کئی دن پانی پئے بغیر گزر گئے، پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بادل نمودار ہوا، بارش ہوئی اور اس کے چند قطرے سے سکون ملا، اس کے بعد ایک نورِ ظاہر ہوا جس نے تمام افق کا احاطہ کر لیا اور عجیب صورت نمودار ہوئی، اس نے کہا:

اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسروں کے لیے حرام کی ہیں، جو چاہو لے لو اور جو چاہو کرو۔

میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم، ملعون! دور ہو، یہ تو کہہ رہا ہے، اچانک روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ اس نے کہا: اے عبدالقادر! تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب سے نجات پائی ہے، ورنہ میں اس حربے سے ستر اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں، جنہیں دوبارہ اپنے مقام پہ کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے

## خرقہ طریقت :

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال (بعد اوسے باہر) ایک برج میں مقیم رہا، میرے طویل قیام کے باعث اس کا نام برج عجیب پڑ گیا، ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے، چالیس دن اسی طرح گزر گئے، اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا، بھوک کی شدت کے سبب بول محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان بچل جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں

تلاذ الجواہر (مصر) ص ۱۰

۱۔ عمر بن یحییٰ تافزی، علامہ

۲۔ اخبار الانبیاء، فارسی (مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر) ص ۲

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

تورڈول گا، میرے پیٹ سے الجوج الجوج (ہائے جھوک) کی آوازیں آرہی تھیں، اتفاقاً حضرت شیخ ابوسعید مخزومی وہاں سے گزر رہے تھے وہ تشریف لائے اور فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامات ہیں تاہم روح اپنے مولائی یاد میں پرسکون ہے۔

وہ تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ میرے پاس باب ازج میں آجاؤ، میں نے طے کیا کہ نہیں جاؤں گا اتنے میں حضرت ابوالعباس خضر تشریف لائے اور مجھے جانے کا مشورہ دیا۔ میں شیخ ابوسعید مخزومی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا پھر مجھے خرقة عطا فرمایا۔

## سراپائے اقدس :

علامہ شطنونی نے بحوث الاسرار میں امام علامہ موفق الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا حلیہ مبارکہ بیان کیا ہے۔ ۱۶ جمادی الآخرہ بروز دوشنبہ ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۴ء کو سید محمد جہان قادری برکاتی کی فرمائش پر امام احمد رضا بریلوی نے ایک نشست میں اس کا اردو نظم میں ترجمہ کیا، ذیل میں وہ ترجمہ پیش کیا جاتا ہے :

## سراپائے تورانی شاہ جیلانی محبوب ربانی

۱۳۲۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وعلى حبيبہ الكريم والہ الصلاة والتسليم

حرم حق لغت نبی توصیف غوث بعد ازاں حسن طالب تعریف غوث

غوث اعظم کے فدائی کان لا ذکرِ شہ ہے نذرِ شہ کو جان لا

علیہ اقدس کہ عین نور ہے بہتہ الاسرار میں مذکور ہے

ترجمہ ترتیب وار اس کا لکھوں گوہرِ منشور کو لڑیوں میں لوں

وہ مبارک نثر ہو نثرہ نثار ! یہ ثریا نظم ہو شعری شعار

کان شیعنا شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبدالقادر الجیلانی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نحیف البدن

وہ اکسرا جسم نازک خوش نما وہ نحافت میں نزاکت کی ادا  
جس پہ واریں خسل میں اپنی پھین یاسیں نسریں، سمن، گل نستر

ربیع القامہ عریض الصدر

قد میاں سرو باغ مُصطفیٰ سینہ چوڑا صحن باغ اصفیا  
کیوں نہ ہو سینہ کشادہ دلکش حاشیہ ہے شرح صدر شاہ کا

عَرِیضُ الدَّحِیَّةِ طَوِيلُهَا

ہے عریض ان کی محاسن اور طویل بی جزیل ان کے محاسن اور طویل  
عرض و طول ریش وافر باوقار طول عرض سائلان کے ذمہ دار

أَسْمَرُ اللَّوْنِ

أَسْمَرُ اللَّوْنِ ان کی رنگت گندمی غوبی حُسن و ملاحت سے بھری  
گندمی رنگت سہانی دل کشا وہ سنہرا پھول باغ نور کا

مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ

ابو سے پیوستہ کی دل کش بہار سو ہلال عید ہوں جس پر مشار  
دو زوں ماہ عید کی کیجا ہے دید لو مبارک قاف و ریو عید عید  
شاد شاہاں جان و دل قرباں کرو جان کہنہ سے کے جان تازہ لو  
شام تک عید مہ نہ ہے تمام یہ مہ جاوید ہے عید دوام

أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ

أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ ہے وصف میں یعنی آنکھیں ہیں بڑی اور سرمگیں  
کیا بڑائی ان بڑی آنکھوں کی ہو جو عیاں دیکھیں رسول اللہ کو  
کیا بڑی اللہ اکبر آنکھ ہے دید اکبر سے مکبت آنکھ ہے  
وہ خدا میں بندہ پرور آنکھ واہ مصطفیٰ میں فیض گستر آنکھ واہ  
قدرتی بے سرمہ آنکھیں سرمگیں باغ مازع البصر سے خوش چیں

ذَا صَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ

جھوڑی الصوت خوش اندازہ ہے وہ بلند آواز بلند آوازہ ہے

وَسَمِّتْ بِهِيَ وَفَتَدْرِ عَلَيَّ وَعِلْمِ وَفِي  
ہے عجب روشن روشِ تربیع علم والا کامل و پاک و وسیع  
رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ

بعدِ جداس جو دپر صبح و شام سو درویں سو تجتِ ماسلام  
اس سراپا نور پر بعدِ رسول سر سے پاتک ہو درودوں کا نزول  
بے عدوبے انتہا بے حد مدام تا ابد ہر آن ہر لحظہ دوام  
دُعَاء

یا الہی اس سرِ ایا کے لیے فت درو یوں پر تری رحمت رہے  
تیری رافتِ حفظِ ہر آفت سے ہو ان سے جو کچھ کام ہو رافت سے ہو  
زندگی بھر ناز و نعمت میں پیسے بعدِ مردنِ نفلِ عزت میں چلیں  
جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے یہ پکارے جائیں ان کے نام سے  
ان کی دعوت میں ہوشِ مال ان کا نام یَوْمَ تَذْعُو كُلُّ نَافِثٍ بِالْاِمَامِ  
یہ رضا اور اس کے اجاب اقربا سب انہیں میں پائیں رضوان و رضا  
ان میں ہوں ان میں رہیں ان میں رہیں ان میں اٹھیں عیشِ خلدان میں کریں  
جیتے جی بندہ غلام شاہ ہو بعدِ مردن ان کی خاک راہ ہو  
وہ محرکِ نظم کے محمود جاں سید والا حسبِ صالح جواں  
وہ بھی ہوں مسودِ تنِ محمود جاں میں بھی ہوں مسودِ تنِ مسودِ جاں

يَا اِلٰهَ الْحَقِّ اِحْبُ قَوْلِيْ اِحْبُ  
اِسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَسْتَجِبْ لَہ

## آغازِ رشد و ہدایت

حضرت شیخ نے بغداد میں شریعت و طریقت کے علوم و معارف حاصل کر لیے تو مخلوقِ خدا کو فیضِ یاب کرنے کا وقت  
آگیا، ماہِ شوال ۵۲۱ھ / ۱۱۲۷ء کو محلہ حلبہ برانیہ میں آپ نے وعظ کا آغاز فرمایا۔

۱۔ محبوب علی قادری، مولانا :

صافِ بخشش (ناجہ شیم پریس، ناٹھ) ص ۴۲-۸۱

۲۔ علی بن یوسف شطرنفی، علامہ :

بہار الاسرار ص ۹۰

## مدرسہ قادریہ :

بغداد کے محلہ باب الازج میں حضرت شیخ ابوسعید مخزومی کا ایک مدرسہ تھا جو انہوں نے حضرت شیخ کے سپرد کر دیا جہاں آپ نے تدریس، افتاء، وعظ اور علمی اجتہاد اور علمی جہاد کا کام شروع کیا، بہت جلد آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچ گیا اور تشنگانِ علوم شریعت و طریقت پر وادہ دار آپ کے گرد جمع ہوتے لگے، اس کے ساتھ ہی مدرسہ کی توسیع کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ اہل ثروت و عقیدت مندوں نے مالی اور درویشوں نے جسمانی خدمات پیش کر دیں ۱۳۲۸ھ/۱۱۳۲ء میں یہ مدرسہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور حضرت شیخ کی نسبت سے قادریہ مشہور ہوا۔

## تبلیغ، تدریس اور افتاء کا عرصہ :

آپ نے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ ۱۲۷۱ھ/۱۱۲۷ء سے شروع کیا اور تدریس کا آغاز ۱۲۸۸ھ/۱۱۳۴ء سے شروع کر کے ظاہری حیات کے آخر (۱۳۶۱ھ/۱۱۶۶ء) تک جاری رکھا، اس طرح آپ نے چالیس سال تبلیغ اور تینتیس سال تدریس و افتاء کے فرائض انجام دیے۔

## افتاء :

حضرت شیخ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے، علماء عراق آپ کے فتاویٰ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، انہیں اس بات پر حیرت و تعجب ہوتا کہ آپ قلم برداشتہ جواب تحریر فرماتے ہیں اور بالکل صحیح جواب دیتے ہیں۔

آپ کے پاس ایسے ایسے استفتاء آتے جن کے جواب سے دیگر علماء عاجز آ جاتے۔ آپ فوراً ان کا جواب عنایت فرما دیتے، بلا دُجُم سے ایک سوال پیش ہوا جس کا جواب عراقی عرب اور عراقی عجم کے علماء نہ دے سکے، سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے تین طلاق کا قول کیا ہے اگر وہ ایسی عبادت نہ کرے جس میں وہ منقرض ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس وقت شریک نہ ہو، وہ کونسی عبادت کرے؟ حضرت شیخ نے اسی وقت جواب تحریر فرمایا کہ وہ مکہ معظمہ جائے، اس کے لیے مطاف خالی کرادیا جائے اور وہ تنہا سات چکر طواف کرے، اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ

۱۔ علامہ محمد بن کثیر تافہنی علامہ ۲۔ قلمند الجواہر ص ۵

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق : زیۃ الاسرار ص ۳۹

شریک نہ ہوگا، سوال کرنے والا اسی دن مکہ معظمہ روانہ ہو گیا، ایک رات بھی بغداد میں نہ رہا ۱۷

## تدریس :

حضرت شیخ قدس سرہ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا تو علماء، علماء اور فقہاء کا جم غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا، دور دراز سے لشکران علم حاضر ہوتے اور آپ کے چشمہ صافی سے سیراب ہوتے، آپ چوں کہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلبہ کو کسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت نہ رہتی۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں تفسیر، علوم حدیث، فقہ، اختلاف مذاہب، اصول اور نحو کا درس دیتے، ظہر کے بعد قرآن پاک تجوید و قرأت (قرأت مختلفہ) کے ساتھ پڑھاتے ۱۸

حضرت شیخ قدس سرہ کا انداز متین انفرادی حیثیت کا حامل تھا، کسی شخص کو فلسفہ یا علم کلام میں مصروف دیکھتے تو اس کا نسخ کمال لطافت کے ساتھ قرآن و حدیث اور معرفت الہیہ کی طرف پھیر دیتے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو علم کلام کے ساتھ گہرا شغف تھا، جوانی کے عالم میں ہی اس علم کی متعدد کتابیں یاد کر چکے تھے، ایک دفعہ اپنے علم مقرر کے ہمراہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے چچا نے عرض کیا جناب: میرا یہ بھتیجا علم کلام کا دلدادہ ہے کئی دفعہ اسے منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا، شیخ سہروردی کا بیان ہے کہ حضرت نے مجھے فرمایا: تم نے اس علم کی کوئی کتاب یاد کی ہے، میں نے چند کتابوں کے نام عرض کیے،

فمریئہ المبارکۃ علی صدری فواللہ ما نزعہا وانا احفظ  
من تلک الکتب لفظۃ واحدة والنسانی اللہ مسائلہا واقتر اللہ  
فی صدری العلم اللدنی فی الوقت العاجل وقمت من بین یدیہ  
وانا انطق بالحکمۃ ۱۹

آپ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا، بخدا! ہاتھ پھیرتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مسائل بھلا دیے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطا فرما دیا۔ وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے نکات

۱۷ علامہ الجواہر ص ۹-۳۸

۱۸ محمد بن کئی تاذنی، علامہ

زبدۃ الاسرار ص ۲۰

۱۹ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۲۰ علامہ الجواہر ص ۳۰-۲۹

۲۱ محمد بن کئی تاذنی، علامہ

جاری ہو گئے۔

اسی طرح شیخ منظر منصور بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں فلسفے اور روحانیات کی ایک کتاب ساتھ یہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے کچھ پوچھے بغیر فرمایا: یہ کتاب بُرا سا تھی ہے جاؤ اور جا کر دھو ڈالو، پھر مجھے پس و پیش میں دیکھ کر فرمایا: یہ کتاب مجھے دو، کھول کر دیکھی تو وہ سادہ کاغذوں پر مثل تھی، اس میں ایک حرف بھی لکھا ہوا نہ تھا، آپ نے کچھ صفحات اسٹے اور یہ کہتے ہوئے واپس دے دی کہ یہ فضائل قرآن پر ابن عربی کی کتاب ہے، جب میں اٹھ کر واپس آیا تو میرے حافظے کے اوراق بالکل سادہ تھے، فلسفہ کا نام و نشان نہ تھا۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات، ابر باران کی طرح برستے ہیں اور چشمِ زدن میں جل کر جاتے ہیں ابو محمد خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور سوچا کہ تا تھا ایک دن بارگاہِ غوثیت میں حاضر ہوا تو میری جانب خطا کرتے ہوئے فرمایا: ہمارے پاس رہو ہم تمہیں سیبویہ بنا دیں گے، چنانچہ میں حاضر ہو گیا، میرے پاس نحو کے قواعد و احکام اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ کا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا جو اس سے پہلے نہ تو مجھے معلوم تھا اور نہ ہی کسی سے سنا تھا اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں، میں نے وہ کچھ حاصل کیا جو پوری زندگی میں حاصل نہ کر سکا تھا۔

تقدیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کُنزِ ذہن اور غنی قسم کے طالب علم کس قدر سوانحِ روح ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے لوگوں کو کمالِ استقامت سے برداشت فرماتے تھے آپنی نامی ایک عجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا۔ حالت یہ کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا، ابنِ اسماعیل نے ایک دن یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا کہ تعجب ہے آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں، فرمایا: میری مشقت کا عرصہ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ ایک ہفتے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا۔

### تلامذہ اور خلفاء :

حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ کے دریائے علم و معرفت سے ان گنت لوگ سیراب ہوئے، تکمیلِ علوم کرنے اور فرقہ پینے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی ہوگی۔ ذیل میں چند نامور علماء و مشائخ کے اسماء درج کیے جاتے ہیں جو چشمہِ غوثیہ سے شاد کام ہوئے۔

ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی، نزیل مصر، شیخ ابو مدین، قاضی ابو یعلیٰ محمد بن القرار، (مصنف الاحکام السلطانیۃ)  
ابو محمد حسن الفارسی، ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن خشاب نحوی، ابو العزیز عبد المیث بن زہر، حافظ العراق، ابو عمرو عثمان بن  
اسمعیل بن ابراہیم سعدی، اپنے دور کے شافعی کلمات تھے، ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم معروف بہ ابن الکنزانی، ابو محمد  
اسلم بن عبد اللہ، ابو اسود احمد بن ابی بکر الحریمی العطار، ابو عبد اللہ محمد بن ابی المعالی قائد الاوادی الشیبہ، قاضی القضاۃ  
ابو القاسم عبد الملک بن عیسیٰ المارونی، ابو بکر عبد اللہ بن نصر تیمی، مفتی العراق، ابو عبد اللہ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی،  
امیر المومنین فی الحدیث، امام موفقی الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، مقدسی (صاحب المغنی)، ابو الحسن علی بن ابراہیم  
البیہقی، ابو القاسم عمر بن مسعود، معروف بہ زہار، ابو عبد اللہ محمد بطاحی نزیل بعلبک، ابو البقاء عبد اللہ بن حسین العکبری،  
البصری (شاح مصنف)، ابو محمد عبد العزیز بن دلف، بغدادی، انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا، ابو طالب عبد اللطیف  
الحمرانی المعروف بہ ابن السقطی، سید ناغوث اعظم سے سماع کرنے والوں میں سے آخری محدث ہیں۔ وغیرہم رضی اللہ  
تعالیٰ عنہم

وعظ وارشاد :

سیدنا غوث اعظم، ہفتے میں تین دن خطاب فرماتے، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس کے بعد حضرت خطاب فرماتے، سید مسعود ہاشمی تلاوت کرتے کبھی دوسرے دو حضرات تلاوت کرتے جو دونوں بھائی تھے تلاوت سادہ انداز میں سخن کے بغیر ہوتی تھے۔

حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابتداءً مجھ پر وعظ و نصیحت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا، میری مجلس میں دو یا تین آدمی سننے والے ہوتے، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا پھر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھا کہ جگہ تنگ ہو گئی، پھر عید گاہ میں خطاب شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہوئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا اور ایک ایک مجلس میں ستر ہزار کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ چار سو افراد، قلم و دوات لے کر آپ کے ملفوظات جمع کیا کرتے تھے۔

جب آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم میں گفتگو فرماتے اور ہیبت اتنی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چلا جاتا

قلائد الجواهر ص ۱۸

بیمه - الاسرار ص ۱۳ - ۱۰۶

اخبار الاخير، فارسی ص ۱۲

۱۵ علی بن یوسف شطرنوفی ، علامہ :

۱۰ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ :

۳۳ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق :

پھر اچانک فرماتے: قال ختم ہوا اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ سنتے ہی سامعین کی حالت میں عظیم انقلاب رونما ہوتا، کوئی آہ و بکا میں مصروف نہ ہوتا، کوئی صرخہ بسل کی طرح نہ پڑ رہا ہوتا، کبھی پروردگار کی کیفیت طاری ہوتی اور کوئی کپڑے بھاڑ کر جنگل کی راہ لیتا، کچھ ایسے بھی ہوتے جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ طائر روح نفس منصری سے ہی پرواز کر جاتا، غرض یہ کہ حاضرین اور سامعین میں سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر پانچ ہزار سے زیادہ یہود و نصاریٰ تائب ہو کر مشرف باسلام ہوئے رہنروں اور فتنہ و فجور میں مبتلا افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔  
آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مشرف باسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم پیشہ اور بدعتیہ لوگ تائب ہوتے۔

حضرت شیخ عموامری میں خطاب فرماتے لیکن بعض اوقات فارسی میں خطاب فرماتے اسی لیے آپ کو ذواللسانین واللسانین اور امام الفریقین کہتے ہیں۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ دور و نزدیک کے لوگ یکساں طور پر آپ کی آواز سنتے تھے۔

## بارگاہ نبوت کے فیوض :

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جہاں دیگر ارباب علم و فضل سے فیض یاب ہوئی وہاں انہیں براہ راست بارگاہ رسالت سے بھی سیراب اور سرشار کیا گیا۔ ایک دن دورانِ وعظ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا: بیٹے! تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا: میں مجبی ہوں، بغداد کے فصحاء کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ ہنسنے لگے مجھے سات مرتبہ لعابِ دہن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور وعظِ حسنہ سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اتنے میں نماز ظہر پڑھی اور بیٹھ گیا، لوگوں کا ایک جھوم جمع ہے مجھ پر کبھی طاری ہو گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ تشریف فرما ہیں انہوں نے چھ مرتبہ لعابِ دہن عطا فرمایا، عرض کیا سات کی تعداد پوری کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر۔

۱۲ اخبار الاخبار، فارسی ص ۱۲

۱۹ قلم الامام جبرائیل

ص ۱۸

۲۰ اخبار الاخبار فارسی ص ۲۰

۵۸ ذبذۃ الاسرار ص ۵۸

ص ۵۶

۱۱ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۱۲ محمد بن یحییٰ تاذفی، علامہ

۱۳ ایضاً

۱۴ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۱۵ ایضاً

۱۶ ایضاً

ایک مجلس میں حضرت شیخ علی بن الہیسی کو اونگھا اگئی، حضرت شیخ نے سلسلہ کلام منقطع کر دیا اور ان کے پاس جا کر باادب کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حضرت شیخ نے فرمایا اسی لیے تو میں باادب کھڑا ہوں، شیخ علی بن الہیسی نے فرمایا: میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا حضرت شیخ نے بیداری میں دیکھ لیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں شیخ سے وابستہ رہوں۔

حضرت شیخ نے ایک دفعہ فرمایا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ہوتا ہے اور میں اپنے جد امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں، آپ نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہیں قدم رکھا سوائے مقام نبوت کے نہ نبی کے قدموں پر ہے جس نبوت کہ ختم اس راہ میں حائل ہے یا غوث الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث۔

## تبحر علمی :

فیضانِ نبوت و ولایت کی موسلا دھار بارش نے سیدنا غوثِ اعظم کو علم و فضل کا بحیرے کراں بنا دیا تھا، آپ کے ارشادات کو سن کر بڑے بڑے اصحاب کمال، اپنے عجز اور کم مانگی کے اعتراف پر مجبور ہو جاتے، عاقل ابوالعباس احمد بن احمد بندہ بھی کہتے ہیں کہ میں اور شیخ جمال الدین ابن جوزی حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں حاضر ہوئے قاری نے ایک آیت تلاوت کی، شیخ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی پھر دوسری تفسیر پھر تیسری۔ میں ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو اس تفسیر کا علم ہے وہ اثبات میں جواب دیتے، یہاں تک کہ حضرت شیخ نے گیارہ تفسیریں بیان کیں۔ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میرے علم میں ہے۔ جب سلسلہ اس سے آگے بڑھا تو انہوں نے کہا یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے چالیس تفسیریں بیان فرمائیں اور ہر ایک کا قائل بھی بیان فرماتے گئے، ابن جوزی، شیخ کی وسعتِ علمی پر انگشت بندناں تھے، اتنے میں حضرت شیخ نے فرمایا:

اب ہم قال کی بجائے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

سامعین کی کیفیتِ اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، خود ابن جوزی کا یہ حال تھا کہ فرطِ اضطراب میں اپنا گریبان چاک کر دیا۔

### علامہ ابن جوزی :

ابن جوزی (متوفی ۵۹۷ھ / ۱۲۰۱ء) اپنے دور کے نامور مصنف اور نقادِ حدیث تھے، انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے معلومات کی مخالفت اور وہم کی بنا پر موضوع قرار دے دیا، علامہ ابن حجر عسقلانی نے متعدد مقامات میں ان پر بحث کی ہے اور کہا کہ احادیث کے موضوع قرار دینے میں ان پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے سنت کے خلاف مرجعِ برعات پر سخت تنقید کی، اور اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ صوفیائے کرام سے غلبہ حال میں سرزد ہونے والے اقوال و افعال پر بھی شدید طعن کیا اور جنون و جہالت کا نتیجہ قرار دیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :

درحقیقت یہ بھی تلبیسِ ابلیس ہے جو اس راستے سے ان پر حملہ آور ہوئی ہے۔

ابن جوزی نے جہاں اپنی کتابوں میں بغداد اور دیگر مقامات کے ادیب اور کرام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوثِ اعظم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بقول حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت شیخ پرانکار کیا اور اسی سبب سے پانچ سال جیل میں رہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے مکہ معظمہ میں ایک رسالہ دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض مشائخ اور علماء ابن جوزی کو حضرت شیخ عبد القادر کی خدمت میں لے گئے اور معافی کی درخواست کی، شیخ نے انہیں معاف فرمادیا، شیخ محقق فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ اپنے شیخ سیدی عبد الوہاب سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا :

ابن جوزی بڑے عالم اور محدث تھے، الحمد للہ کہ اس ورطہ سے نجات پا گئے۔

پھر فرمایا :

اے فلاں ! شیخ عبد القادر عظیم الشان بزرگ ہیں اور ان کا انکار زہرِ قاتل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

تلاذ الجواب ص ۳۸

۱۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ :

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق :

۳۔ ایضاً

ص ۲۳

## يَرْحَمُكَ اللهُ :

ابراہیم الداری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن جامع مسجد جاتے تو لوگ انزل میں ٹھہ جاتے تاکہ ان کے ویسے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کی دعا کریں۔ ایک دن جمعہ کے روز آپ کو چھینک آئی تو مسجد میں حاضرین نے کہا

یرحمک اللہ ویرحمک اللہ

اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی بدولت رحمت نازل فرمائے

لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سن کر مقصورہ مسجد (ایک کمرہ) میں موجود خلیفہ مستنجد باللہ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں جب بتایا گیا کہ شیخ کو چھینک آئی ہے اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں تو خلیفہ خوف زدہ ہو گیا کہ جب شیخ کی چھینک کا یہ حال ہے تو ہم کس شمار و قطار میں ہیں۔

## قول و فعل کی ہم آہنگی :

ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو ورنہ سامعین پر کماحقہ اثر نہ ہوگا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں خطاب فرما رہے تھے، فقرار اور فقہار کی ایک جماعت حاضر تھی، استنہ میں چھت سے ایک بڑا سانپ آپ کی گود میں آکر گرگا، حاضرین خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا اور گردن کے گرد لپٹ گیا، آپ نے نہ تو سلسلہ کلام قطع کیا اور نہ ہی پہلو بدلا، پھر وہ الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا اور کچھ بات کی اور چلا گیا۔ حاضرین نے عرض کیا یہ کیا ماجرا تھا، حضرت شیخ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کو اس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ہمت قدم نہ رہا، میں نے کہا کہ میں قضا و قدر کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا اور تو ایک معمولی کپڑا ہے جسے قضا و قدر حرکت دیکون میں لاتی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے قول و فعل میں تضاد پایا جائے۔

## جدالت علم :

تبلیغ و ہدایت کے لیے علم دین کا حامل ہونا نہایت ضروری ہے جو خود علم نہیں رکھتا اسے حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کو تبلیغ کرتا پھرے، حضرت شیخ نے جب تک علمی کمال حاصل نہ کر لیا میدان تبلیغ میں قدم نہ رکھا۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک سونہایت ذکی فقہار امتحان لینے کے لیے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، ہر ایک نے متعدد سوالات تیار کیے ہوئے تھے، جب تمام حضرات مجلس میں بیٹھ گئے تو حضرت شیخ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، ان کے سینے سے نور کا ایک شعلہ برآمد ہوا اور تمام علماء کے سینوں پر سے گزر گیا، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب مٹ گیا، اب ان کے غم و اضطراب کا عالم دیدنی تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کسی نے عمامہ اتار پھینکا اور کسی نے گریبان چاک کر دیا۔ حضرت شیخ کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ان کے ایک ایک سوال کا جواب عنایت فرمایا، چنانچہ سب نے بالاتفاق آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے

## مقصد کی لگن :

دین متین کی تبلیغ ہر صاحب علم کا فریضہ ہے۔ آج کل فتنہ و فساد کی کثرت کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقررین نے اس شعبے کو ذریعہ معاش بنالیا ہے اور معمولی سے عذر کو بنیاد بنا کر وعدہ کے باوجود مجلسوں میں نہیں پہنچتے، بہندنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولاد امجاد میں سے کسی کی وفات کی اطلاع ملتی تو مجلس اور خطاب کو جاری رکھتے اور جب خانہ حاضر ہوتا تو کرسی سے اتر کر نماز جنازہ ادا فرماتے تھے

حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے:

میرے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ یہ میت ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی میں اسے اپنے دل سے مکال دیتا تھا تھے

الطبقات الکبریٰ (مصطفیٰ البابی مصر) ج ۱ ص ۱۲۸

زبدۃ الاسرار ص ۵۵

الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۲۹

۱۔ لے عبد الوہاب شعرانی، امام

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۳۔ عبد الوہاب شعرانی، امام

## حضرت شیخ کا زمانہ :

جب آپ بعد از نشریت لائے تو اس وقت ابو العباس مستظہر بامر اللہ (م ۵۱۲ھ) کا عہد تھا، اس کے بعد مسٹر شد، راشد، المقصی لامر اللہ اور المستنجد باللہ کیے بعد دیگرے تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ اس دور میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی کشمکش اپنے عروج پر تھی، حصول اقتدار کے لیے بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا، گریباؤں خدا اور خوف آخرت کی جگہ اقتدار اور دنیا کی محنت نے لے لی تھی۔ اسی لیے حضرت شیخ کے خطبات میں اخلاص، لہیت اور خشیت الہیہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔

## فتنوں کا استیصال :

حضرت شیخ کے دور میں امت مسلمہ متعدد فتنوں کی زد میں تھی، آپ نے بیک وقت ان سب کا مقابلہ کیا اور کشتی کثرت کو بروقت سہارا دیا۔ ارباب اقتدار کی رسہ کشی، علمدار سورا اور ابن الوقت صرفیاء کی تبلیغ دین سے بے رغبتی دنیا اور جاہ و زر کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضمحلال کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوئے ان کا اجمالی طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہ حضرت شیخ نے ان کا کیا علاج تجویز کیا ؟

۱۔ ارباب اقتدار کے یاہمی مناقشات اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی ہوس، حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں اخلاص، لہیت اور خشیت الہیہ پر زور دیا، دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضائے الہی کے طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔

۲۔ اسلامی خلافت کے رُوبہ زوال ہونے اور مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب میمانیت نئے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر علمی، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھی اس لیے حضرت شیخ نے توحید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زیادہ زور دیا اور قوم مسلم کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف صحیح معنوں میں مسلمان بننے کو قرار دیا۔

۳۔ پانچویں اور چھٹی صدی میں اُنوی اور عباسی خلفاء کے ابتدائی سلسلے نے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا بڑے بڑے فضلاء اس کام کے لیے مختص کیے اور یہ باور کر لیا گیا کہ یہ علم و دانش کی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان فلسفی انکار و نظریات کے زیر اثر، عنیت محضہ سے متاثر ہونے لگے

یعنی وحی و نبوت کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر عقل آوارہ کی راہنمائی کو کافی سمجھنے لگے اور جو باتیں از قبیل معجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آئیں ان کی بے دھڑک تاویلیں کرنے لگے، حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو معتزلہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے سے منع کیا، اس سے پہلے شیخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ انہیں فلسفہ کی عقلی کتاب دھو ڈالنے اور فضائل قرآن کی کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔

۴۔ اس دور میں شیعی تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ان کے غلط رجحانات روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے بالآخر اس غلو نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا، حضرت شیخ نے صرف صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا، اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا بلکہ ان کے ارشادات کو بہ طور سند و استناد پیش کیا۔

۵۔ فق و فوج کی کثرت کا علاج، تقویٰ و پرہیزگاری، تزکیہ نفس اور خدا و رسول کی اطاعت کی تعلیم سے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ کے خطبات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس دور کے فتنوں کے امتیصال کے لیے ہوتے تھے اور اس مقصد میں کامیابی کا یہ عالم تھا کہ ہر مجلس میں غیر مسلم مشرف بالاسلام ہوتے، ہند مذہب راہ راست پر آتے اور فاق و فجار تائب ہو کر تقویٰ و طہارت کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔

## انداز بیان :

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں دین کے اسرار و رموز کو بیان فرما دیتے تھے، آپ کا خطاب نہ تو طویل ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا الجھاؤ پایا جاتا، آپ کے ہاں فلسفیانہ موٹنگانی نہیں بلکہ قرآن پاک کا جھیمانہ انداز پایا جاتا ہے، ایک ہی مجلس میں مختصر جملوں میں متعدد موضوعات پر اظہار خیال فرماتے، آپ کا ایک ایک جملہ سامعین کے دل و دماغ میں از جاتا۔ دین متین کی تعلیمات کو پرکشش انداز میں بیان فرماتے، بعض اوقات پر جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہو جاتے جن سے ہر بڑا چھوٹا متاثر ہوتا، موقع و محل کے مطابق قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ کو بیان کرتے بعض اوقات صحابہ کرام اور اولیاء عظام کے ارشادات بھی زیب سخن بنتے، اسی طرح کبھی کبھی مقصد کو ذہن نشین کرنے کیلئے تمثیلات بھی بیان فرما دیتے۔

## عکسِ خطابت

ذیل میں آپ کے ارشادات اور خطبات کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے اپنے دور کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا، آپ کے ارشادات کی افادیت آج بھی بدستور باقی ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم دل و جان سے متوجہ ہو کر ان کا مطالعہ کریں۔

### فریادِ اسلام :

اے قوم! اسلام رو رہا ہے، ان فاسقوں، فاجروں، مبتدعین، گمراہوں، جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعویداروں سے سر پر ہاتھ رکھ کر پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے اور جو تمہارے ساتھ تھے، امر و نہی کے ساتھ حکم چلاتے تھے، کھاتے پیتے تھے اب حالت یہ ہے کہ گویا کبھی موجود ہی نہ تھے،

تو کتنا سنگ دل ہے، کتنا پورے خلوص کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس کی کھیتی اور چوپایوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پہرہ دیتا ہے اور مالک کو دیکھ کر دُم ہلاتا ہے، حالانکہ وہ اسے رات کے وقت چند لقمے کھلا دیتا ہے یا کوئی اور معمولی چیز کھلا دیتا ہے اور تو سر پیٹ بھر کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے پھر بھی اس کا شکریہ بجا نہیں لاتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور اس کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا اے

### دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت :

دینِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیواریں گر رہی ہیں، بنیاد بکھر رہی ہے، اے زمین کے باسیو! آؤ جو منہمک ہو چکا ہے اسے مضبوط کریں اور جو گر چکا اسے بجال کریں اے

## اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ :

اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ جیسے اولیاء کرام تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری ہو جائیں جیسے ان کے لیے تھیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی معیت میں صبر کرو، اس کے افعال پر راضی رہو خواہ وہ تم سے متعلق ہوں یا دوسروں سے، اولیاء کرام دنیا میں رہ کر اس سے بے نیاز رہے، اپنا حصہ اس سے تقویٰ و ورع کے ہاتھ سے لیا، پھر آخرت کو طلب کیا، اس کے لیے اعمالِ صالحہ کیے، اپنے نفسوں کی مخالفت اور اپنے رب کی اطاعت کی، پہلے اپنے آپ کو پھر دوسروں کو نصیحت کی۔

## اسی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو :

افسوس! تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے، اگر تو فی الواقع اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی، صاحبِ یقین مومن، اپنے نفس، شیطان اور اس کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ شیطان کا شناسا ہی نہیں ہے اس کی اطاعت کیوں کرے گا، وہ دنیا کی پروا نہیں کرتا اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا، وہ تو اسے ذلیل کرتا ہے اور آخرت کا طلب گار ہے، اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اسے بھی ترک کر دیتا ہے اور اپنے مولیٰ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے، اس نے اپنے رب کا فرمان سن رکھا ہے۔

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ انہیں یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے اور ہر باطل سے اعراض کرتے ہوئے مخلوق کو شریک بنانا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان، وہی تمام اشیاء کا خالق ہے، تمام چیزیں اسی کے دستِ قدرت میں ہیں، اس کے غیر سے طلب کرنے والے! تو بے عقل ہے، کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۖ  
ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔

## ذاتی طور پر مالک نفع و ضرر :

جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے کس نے طعام دیا، تجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، تجھے مخلوق، درہم و دینار، بیع و شرار اور بادشاہ وقت پر بھروسہ ہے، تو جس پر اعتماد کرتا ہے وہ تیرا خدا ہے، تو جس سے ڈرتا ہے، جس سے امید لگاتا ہے وہ تیرا خدا ہے، جسے تو نفع اور نقصان دینے والا جانتا ہے اور تیرا عقیدہ یہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پر نفع اور نقصان جاری کیا ہے وہ تیرا خدا ہے، عنقریب تجھے اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔

اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ مخلوقات میں سے کوئی نفع اور نقصان دیتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پر جاری کیا ہے تو یہ اعتقاد نہ تو شرک ہے اور نہ ہی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔

## تقدیر :

اے موحّدو! اے مشرکو! مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں داغ و خد کوئی چیز نہیں ہے، بادشاہ، غلام، سلطان، غنی اور فقیر سب تقدیر الہی کے قیدی ہیں، ان سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے ان میں رد و بدل فرماتا ہے۔

## صفات الہیہ :

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پسندیدہ صفات کے ساتھ موصوف کیا ہے تم ان کی تاویل کرتے ہو اور اس کے فرمان کی مخالفت کرتے ہو، تمہارے پاس وہ وسعت کہاں، جو صحابہ اور تابعین کے پاس تھی، ہمارا رب عز و جل عرش پر ہے جیسے خود اس نے فرمایا بغیر کسی تشبیہ کے اور اسے معطل یا جسم مانے بغیر۔ اس میں مسلک اہل سنت کی تائید اور معتزلہ کا رد ہے کہ وہ تاویلات سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں،

## اسم اعظم :

علامہ سید احمد طحاوی فرماتے ہیں :

قال القطب عبد القادر الجيلاني الاسم الاعظم هو الله لكن  
شرط ان تقول الله وليس في قلبك سواه له  
قطب عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ”اللہ“ ہے بشرطیکہ اللہ کتنے وقت تمہارے  
دل میں اس کے سوا دوسرا کوئی نہ ہو۔

## مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں محرابِ راحت ہوئیں اور دل پاک بیدار ہوتا، آپ جس طرح آگے دیکھتے  
تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے، شہنشاہ کی بیداری اس کے حال کے مطابق ہے، کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم کی بیداری کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کی خصوصیات میں شریک ہو سکتا ہے، ہاں آپ کی  
امت کے ابدال اولیاء آپ کے بچے ہوئے کھانے اور پانی کو تناول کرتے ہیں، انہیں آپ کے مقامات کے  
دریائوں میں سے ایک قطرہ اور آپ کی کرامات کے پہاڑوں سے ایک ذرہ دیا جاتا ہے کیوں کہ وہ آپ کے  
مقتدی ہیں، آپ کے دین پر عمل پیرا ہیں، آپ کے دین کی خدمت اور راہنمائی کرتے ہیں اور آپ کے دین  
و شریعت کے علم کی اشاعت کرتے ہیں ۱۔

کتاب و سنت کے پروں کے ساتھ بارگاہِ خداوندی کی طرف پرواز کر، دربارِ الہی میں اس حال میں حاضر  
ہو کہ تیرا تھکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، حضور کو اللہ تعالیٰ کا وزیر اور اپنا معلم بنا، مگر رسول اللہ  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں زیب و زینت دے کر بارگاہِ الہی میں پیش کریں گے، آپ روحوں میں حکم فرمائے  
مریدین کے مربی، مقامِ نبوت پر فائز ہونے والوں کے سردار، اولیاء کے امام اور ان کے درمیان احوال و  
مقامات تقسیم کرنے والے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کار تقسیم آپ کے سپرد کر دیا ہے (حدیث شریف میں ہے  
انہا انا قاسم و یعطی اللہ ۱۴ قادی) آپ کو سب کا امیر بنا دیا ہے، دستور ہے کہ جب بادشاہ کی طرف سے

۱۔ احمد الطحاوی، سید

حاشیہ مراقی الفلاح (مطبعة الزہراء، مصر) ص ۲

۲۔ امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں،

(حاشیہ بل بر سفر آئینہ)

رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

رب ہے عطیہ یہ ہیں دست اسم

شکر کو خلعتیں دی جاتی ہیں تو انہیں امیرِی تقسیم کرتا ہے ۱۔

## مقام انبیاء علیہم السلام :

انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنے نفوس، طبائع اور خواہشات کی مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ ریاضت و مجاہدہ کی کثرت کے سبب حقیقت کے لحاظ سے زمردِ ملائکہ میں داخل ہو گئے ۱۔

## طریقِ محبت :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

تم فرمادو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ راہِ محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی پیروی کرو ۱۔

## اتباعِ شریعت :

جو شخص آدابِ شریعت نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب کھائے گی ۱۔

وہ حقیقت بے دینی ہے جس کے لیے شریعت گواہی نہ دے ۱۔

## کتاب و سنت :

جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں تھامتا اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، مگر ابی اور

۱۔ عبد القادر جیلانی، غرثِ اعظم : الفتح الربانی ص ۱۳۳

ص ۶۹

ص ۱۳۳

ص ۹۱

ص ۹۰

۱۔ ایضاً :

۲۔ ایضاً :

۳۔ ایضاً :

۴۔ ایضاً :

ضلالت اس کا مقدر ہوگی، یہ دونوں بارگاہ الہی تک تیرے راہنما ہیں، قرآن پاک، تمہیں دربارِ خدا تک اور سنت، بارگاہِ مصطفیٰ تک پہنچائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے  
تم اپنی نسبت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صمیم کر لو، جو صمیم معنوں میں آپ کا پیروکار ہو  
اس کی نسبت صمیم ہے، اتباع کے بغیر تمہارا یہ کہہ دینا مفید نہیں کہ میں حضور کی امت میں سے ہوں، جب  
تم اقوال و افعال میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو آخرت میں آپ کی صحبت میں  
ہو گے۔

## اخلاص اور عمل :

اے شہر والو! تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے، اعمال کے بغیر اقوال کی کثرت ہے  
عمل کے بغیر قول فائدہ نہیں دیتا، وہ تیرے حق میں نہیں بلکہ تیرے مخالف دلیل ہے، وہ بے جان جسم ہے، وہ  
ایک ایسا بُت ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور نہ ہی اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، تمہارے اکثر  
اعمال بے روح لاشے ہیں، رُوح کیا ہے؟ اخلاص، توحید، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدمی۔

## وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو :

علم چمکا ہے اور عمل مغز، چمکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ مغز محفوظ رہے اور مغز کی حفاظت اس  
لیے کی جاتی ہے کہ اس سے تیل نکلا جائے، وہ چمکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو، اور وہ مغز بے کار ہے  
جس میں تیل نہ ہو، علم ضائع ہو چکا ہے کیوں کہ جب علم پر عمل نہ رہا تو علم بھی ضائع ہو گیا، عمل کے بغیر علم کا پڑنا  
اور پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ اے عالم! اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں  
کو علم سکھا۔

افتح الربانی ص ۹۱

اے عبد القادر جیلانی، غوثِ اعظم :

ص ۹۰

اے ایضاً :

ص ۷۰

اے ایضاً :

ص ۱۰۶

اے ایضاً :

## وہ عمل جس کے ساتھ علم نہ ہو :

مجھے تیری مسح یا دم، دینے اور نہ دینے کی فکر نہیں ہے، تیری خیر اور شر اور تیرے متوجہ ہونے یا نہ ہونے کو بھی میں خاطر میں نہیں لاتا، تو جاہل ہے اور جاہل کی پروا نہیں کی جاتی، اگر تجھے موقع ملے اور تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو تیری عبادت مردود ہوگی، کیوں کہ یہ عبادت، جہالت پر مبنی ہے اور جہالت تمام تر فساد کا باعث ہے۔

## پہلے فرائض پھر نوافل :

صاحب ایمان کو چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے جب ان سے فارغ ہو تو سنتیں ادا کرے پھر نوافل اور فضائل میں مشغول ہو، فرائض سے فارغ ہوئے بغیر سنتوں کا ادا کرنا بے وقوفی اور سرکشی ہے، فرائض کے ادا کرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہوا تو وہ مقبول نہ ہوں گے بلکہ وہ ذیل کیا جائے گا۔

## نماز اور دیگر اعمال :

اے لڑکے! تو دنیا میں بقا اور عیش کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور کو تبدیل کر دے تو نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ لینا کافی ہے، یہ تیرے لیے اسی وقت مفید ہوگا جب تو اس کے ساتھ کچھ اور امور (اعمال صالحہ) ملائے گا، ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے، جب تو گناہوں، لغزشوں میں مبتلا اور احکام الہیہ کی مخالفت کا ترکیب ہوگا ان پر اصرار کرے گا، نماز، روزہ، صدقہ اور افعال خیر ترک کرے گا تو یہ دو شہادتیں تجھے کیا فائدہ دیں گی؟ جب تو نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا تو یہ ایک دعویٰ ہے، تجھے کہا جائے گا اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ادا کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کرنا اس دعویٰ کی دلیل ہے، جب تو نے یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے، قول بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع سنت

کے مقبول نہیں لے  
حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے جب کہ حقیقی متکلمین کے نزدیک ایمان نام ہے ان امور کی  
تصدیق کا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے، البتہ احکام اسلام تب جاری ہوں گے جب زبان سے اقرار کرے گا  
اور ایمان کامل تب ہوگا جب اعمال صالحہ پائے جائیں گے۔

## زہد کیا ہے ؟

جو آخرت کا طلب گار ہو اسے دنیا سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہو اسے آخرت  
سے بھی بے نیاز ہو جانا چاہیے، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اپنے رب کریم کے لیے ترک کر دے  
جب تک اس کے دل میں دنیا کی خواہش اور لذت باقی رہے گی، اور جب تک وہ کھانے پینے کی اشیاء،  
باس، اہل و عیال، مکان، سواری اور اختیار و اقتدار سے راحت حاصل کرنا چاہے، یا فزون علیہ میں سے  
کسی فن مثلاً مسائل عبادات سے زیادہ فقہ، روایت حدیث، یا مختلف قرارات سے قرآن پاک کے  
پڑھنے، نحو، لغت یا فصاحت و بلاغت میں محو ہو، یا فقر کے زوال اور دولت مندی کے حصول یا مصیبت  
کے زائل ہونے اور عافیت کے مل جانے کے لیے کوشاں ہو، مختصر یہ کہ نقصان سے بچنے اور نفع کے  
حاصل کرنے کی فکر میں ہو وہ پورا زاہد نہیں ہے کیوں کہ ان امور میں سے ہر ایک میں نفس کی لذت، خواہش کی موافقت  
طبیعت کی راحت اور اس کی محبت مضمحل ہے اور اس سے اطمینان و سکون میسر ہوتا ہے، لہذا کوشش کی جائے  
کہ ان تمام امور کو دل سے نکال دیا جائے لے

## تصوّف :

اے رُکے ! اپنے دل کو رزقِ حلال کے ذریعے صاف کر تجھے معرفتِ الہیہ حاصل ہو جائے گی، تو اپنے حقے  
کو، اپنے لباس اور دل کو پاک صاف کر تجھے صفائی مل جائے گی، تصوف، صفا سے بنا ہے، اے اولی  
کا لباس پہننے والے ! تصوف میں سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے ملاکے ماسوا سے پاک کر لے  
اور یہ مقام رنگ برنگے کپڑے پہننے، چہروں کے زرد کر لینے اور کندھوں کے جھکالینے، اولیا کرکرام کے

واقعات زبان پر سجایئے اور تبیغ و تہلیل کے ساتھ انگلیوں کے متحرک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام، مولا تعالیٰ کو سچے دل سے طلب کرنے، دنیا سے بے نیاز ہو جانے، مخلوق کو دل سے نکال دینے اور اپنے مولا کے ماسوا سے الگ تھلگ ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے لہٰذا

## عظمت صحابہ :

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے تھے اس لیے تمام مال سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا، آپ کے وصف کے ساتھ موصوف اور فقر میں آپ کے شریک ہو گئے، یہاں تک کہ عبا (جُغہ) پہن لی اور آپ کے ساتھ ظاہر اور باطن، سر اور علاتہ موافقت اختیار کر لی ۛ

صحابہ کرام کے ورع و تقویٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :  
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ستر قسم کے مباح اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ کہیں گناہ میں واقع نہ ہو جائیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے دس حصوں میں سے نو حصوں کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائیں، انہوں نے اس احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا کہ حرام کا ارتکاب تو کہا اس کے قریب سے بھی گزر نہ ہو ۛ

## مقام ولایت :

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اولیاء کرام کے حق میں حسن ظن نہیں رکھتا، ان کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اختیار نہیں کرتا حالانکہ وہ رؤسا اور امرا ہیں، ان کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حل و عقد کا سلسلہ ان سے وابستہ کر دیا ہے، انہی کی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور زمین سبزہ آگاتی ہے۔ تمام مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں سے ہر ایک پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہے جسے آفات و بلیات کی آندھیاں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتیں۔ وہ اپنے نفوس یا دوسروں کے طالب ہو کر مقام توحید اور اپنے مولا کی رضا سے نہیں ہٹتے ۛ

الفتح الربانی، ص ۹۰

ۛ عبد القادر جیلانی، غرث العظم،

ص ۹۰

ۛ ایضاً :

ۛ ایضاً :

ۛ ایضاً :

فتوح الغیب (بر حاشیہ قلام) مقالہ ۳۵ ص ۹-۴۸

الفتح الربانی، مجلس ۱۲ ص ۵۱

## تکونین :

بندہ جب مقام توحید و اخلاص پر فائز ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اشیاء اس کے لیے پیدا کی جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکونین میں داخل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تکونین اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اب یہ تکونین (باذن اللہ) خود اس کے لیے ہوتی ہے، جو شخص جنت میں داخل ہو گا وہ جس کے لیے کے گا کُن (ہو جا) تو وہ ہو جائے گی لیکن عظمت شان آج کی تکونین میں نہ کہ کل کی تکونین میں ہے۔

## اولیاء کرام کی بے ادبی :

اے اللہ تعالیٰ اور اس کے خواص سے جاہل ! ان کی غیبت کا ذائقہ نہ چکھ کیوں کہ وہ نہ بر قاتل ہے، خبردار ! خبردار ! زینہار ! زینہار ! ان کی برائی کے درپے نہ ہو کیوں کہ ان کے بارے میں غیرت کی جاتی ہے۔

## جب کوئی مشکل پیش آجائے :

اگر تجھے کوئی مشکل درپیش ہو اور تو صالح اور منافق میں فرق نہ کر سکے تو رات کو اٹھ کر دو رکعت نماز ادا کر اور اس کے بعد یہ دعا مانگ :

اے اللہ ! اپنی مخلوق میں سے صالحین تک میری راہنمائی فرما، اس شخصیت کی طرف میری راہنمائی فرما جو مجھے تیری راہ دکھائے، تیرا طعام مجھے کھلائے، تیرا مشروب مجھے پلائے، تیرے قرب کے نور کا سرمہ میری آنکھوں میں لگائے اور تقلید کے طور پر نہیں بلکہ حکم کھلا جو کچھ دیکھے مجھے بتا دے۔

## تبلیغ دین کا معاوضہ :

میں تمام زندگی اولیاء کرام کے بارے میں جن جن رکن کھتا رہا ہوں اور ان کی خدمت کرتا رہا ہوں، اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، میں تم سے نصیحت اور خطاب کا معاوضہ نہیں چاہتا، میرے خطاب کا معاوضہ یہ ہے

الفتح الربانی مجلس ۶۲ ص ۲۳۹

۱۔ عبدالقادر جیلانی، غرث العظم :

مجلس ۲۴ ص ۸۵

۲۔ ایضاً :

مجلس ۲۶ ص ۹۳

۳۔ ایضاً :

کہ اس پر عمل کرو۔

میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، نہ توبہ کی تلوار سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی تیرے سونے کا طلب گار ہوں۔

### علماء اور اولیاء سے نفیض :

پہلے لوگ دین اور دلوں کے اقطار، اولیاء اور صالحین کی تلاش میں مشرق و مغرب کا چکر لگاتے تھے، جب انہیں ان میں سے کوئی مل جاتا تو اس سے اپنے دین کی دوا طلب کرتے تھے، اور آج تم فقہاء، علماء اور اولیاء سے نفیض رکھتے ہو جو ادب اور علم سکھاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ تم دوا حاصل نہیں کر پاتے۔

### علماء ربوع :

تم ان علماء کی صحبت اختیار نہ کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ان کی صحبت تمہارے لیے نحوست کا باعث ہوگی۔

تو احوال باطنہ کو نہیں پہچانتا تو ان میں کلام کیوں کرتا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تو اس کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ تو صرف اس مالدار کو پہچانتا ہے، اس بادشاہ کو پہچانتا ہے، تیرے لیے کوئی رسول و مرسل نہیں ہے تو دعوے اور پرہیز کے ساتھ جیس کھاتا، تو حرام طریقے سے کھاتا ہے۔ دین کے بدلے دنیا کا کھانا حرام ہے، تو منافق ہے و جہال ہے، میں منافقوں کی دوکانوں کا دشمن ہوں، ان کی عقلوں کو تباہ کرنے والا ہوں، میرے کمال اس منافق کا گھرتیاہ کر دیں گے اور اس کا ایمان سلب کر لیں گے جس کا وہ دعویدار ہے۔

ان لوگوں کی بات نہ سنو جو اپنے نفسوں کو خوش کرتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی نہیں سناتے، اگر نائیں بھی سہی تو ازراہ منافقت اور تکلف نائیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو ان سے اور ہر منافق سے پاک فرما دے یا انہیں توبہ کی توفیق دے اور اپنے دروازے کی جانب ہدایت

۱۔ عبد اللہ ربیع لانی، غوث اعظم :

افتح الربانی مجلس ۴۲ ص ۱۳۷

۲۔ ایضاً :

مجلس ۳۹ ص ۱۲۷

۳۔ ایضاً :

مجلس ۳۹ ص ۱۲۷

۴۔ ایضاً :

مجلس ۱۴ ص ۵۱

۵۔ ایضاً :

مجلس ۶۲ ص ۲۴۴

عطا فرمائے

مختصر یہ کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت و طریقت کی تعلیمات بے خوف و خطر بیان کیں اور بد مذہب اور فریبی کو راہ راست کی طرف بلایا، یقیناً وہ خوش بخت لوگ تھے جو حضرت کے ہاتھوں پر تائب ہوئے اور اپنی دنیا و آخرت کے سنوارنے کا انتظام کر گئے

محی الدین :

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ۵۱۱ھ میں جمعہ کے روز سیاحت سے برہنہ یا بغداد واپس آ رہا تھا، میرا گزر ایک مریض کے پاس سے ہوا جس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم کمزور تھا، اس نے مجھے کہا السلام علیک یا عبد القادر! میں نے اسے سلام کا جواب دیا، اس نے مجھے قریب بلا کر کہا کہ مجھے بٹھا دو، میں نے اسے بٹھایا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا جسم صحت مند ہو گیا، رنگ نکھر گیا اور حالت سدھر گئی، اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا میں دین ہوں، میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا تمہاری بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمادی ہے، اس سے رخصت ہو کر جامع مسجد پہنچا تو ایک شخص نے یا سیدی محی الدین کہتے ہوئے اپنے جوتے مجھے پیش کر دیے، پھر کیا تھا ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے اور یا محی الدین کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔

## اخلاق و عادات

خوف خدا :

ایمان، خوف ورجا کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے، اولیاء کرام پر اللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی معصیت کی طرف راغب نہیں ہوتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلب گار رہتے ہیں، حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ

میں دیکھا کہ کنسکریوں پر چہرہ رکھے ہوئے عرق کر رہے تھے :

اے مالک ! بخش دے اور اگر میں سچی سزا ہوں تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھاتا کنسکریوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ۔

علامہ اقبال نے یہ دعا کس خوب صورت انداز میں نظم کی ہے :

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر      روزِ مشرِ غدر ہائے من پذیر  
و رحام را بگیسری ناگزیر      از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں بگبیر

اَر بَابِ اَقْدَار سے استغفار :

اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں ان کا جھکا ہوا سر، سلاطین و ملوک کے سامنے خم نہ ہوا اور نہ ہی تخت و تاج کے ساتھ وابستگی ان کے لیے سرمایۂ افتخار رہی، سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت خضر کا بیان ہے کہ میں تیرے سال شیخ کی خدمت میں حاضر رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں یا بادشاہ کے دروازے پر گئے ہوں یا باطِ شاہی پر بیٹھے ہوں، ایک دفعہ کے علاوہ بادشاہ کا کھانا کبھی تناول نہ فرمایا، شاہانِ وقت اور امراء کے نرم اور گداز بستروں پر بیٹھے کو ایسی سزا قرار دیتے تھے جو انسان کو دنیا ہی میں دے دی گئی ہو۔ بادشاہ، وزیر اور دیگر ارکانِ سلطنت حاضر ہوتے تو آپ پہلے ہی اٹھ کر کھڑے تشریف لے جاتے۔ جب وہ لوگ آکر بیٹھ جاتے تو آپ تشریف لاتے، اس طریق کار کا مقصد یہ تھا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہ کرنا پڑے۔ ان سے گفتگو کے دوران آپ کالب دلچہ سخت ہوتا اور موثر انداز میں انہیں نصیحت فرماتے، وہ مجروحانکار کا پیکر بننے آپ کے سامنے حاضر رہتے ۔

ایک دفعہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ ابوالمظفر یوسف ملاقات کے لیے آیا، سلام کیا اور درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں اور ساتھ ہی دواہم و دنانیر کی دس تھیلیاں پیش کیں جنہیں دس خادم اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، خلیفہ کے اصرار پر دو تھیلیاں ہاتھوں میں لے کر دبائیں تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا، آپ نے فرمایا :

اے ابوالمظفر ! تمہیں اللہ تعالیٰ سے جیانیس آئی کہ لوگوں کا خون چوس کر لاتے ہو اور مجھے پیش کرتے ہو،

خلیفہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، حضرت شیخ نے فرمایا:

خدا کی قسم! اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے محل تک پہنچ جاتا۔

حضرت شیخ برسر منبر سلاطین اور خلفاء و امراء کو کار خیر کا حکم دیتے اور بُرے کاموں سے منع فرماتے، ظالموں کے والی بنانے پر بلا خوف و لرزہ لائم انکار فرماتے، جب خلیفہ وقت مفتی لامر اللہ نے ابوالوفار یحییٰ بن سعید المعروف بہ ابن مزاحم ظالم کو قاضی مقرر کیا، تو آپ نے برسر منبر خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟

خلیفہ کانپ گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور اسی وقت قاضی مذکور کو معزول کر دیا۔

خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس انداز میں،  
عبدالقادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے  
وہ تیرا مقتدا اور سمجھ پر حجت ہے۔

خلیفہ کو مکتوب گرامی ملا تو کھڑے ہو کر اسے بوسہ دیتا۔

## غریب نوازی:

اس عظمت و جلالت کے باوجود کوئی بچہ بھی درخواست کرتا تو حضرت شیخ اس کی بات توجہ سے سنتے، بڑے کی عزت کرتے، سلام کہنے میں ابتدا کرتے ضعیفوں اور فقیروں کی مجلس میں بیٹھتے، کبھی کسی معصیت کار اور مال دار کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔

جب کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو اسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے رکھ دو، خدا سے ہاتھ نہ لگاتے جب خادم آتا تو اسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے جو کچھ ہے لے جاؤ اور نانائی اور سبزی فروش کو دے دو، جب

تلاذ الجواہر ص ۳۰

۱۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ

۶ ص

۲۔ ایضاً:

زبدۃ الاسرار ص ۵۴

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق:

۹۰ ص

۴۔ ایضاً:

کبھی خلیفہ خلعت بطور ہدیہ بھجوانا تو فرماتے کہ ابو الفتح آئے والے کو دے آؤ، اس سے علماء و فقہار اور مہانوں کے لیے آنا فرض منگوا کر نئے تھے لے

حضرت شیخ عبدالرزاق قادری فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو اس کے بعد صرف ایک مرتبہ حج کیا، واپسی پر مقام حلقہ میں اترے تو فرمایا اس جگہ سب سے غریب گھرانہ تلاش کرو، دیر لانے میں ایک خیمہ ملا جس میں ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ان کی بچی رہائش پذیر تھی، حضرت شیخ نے ان کی اجازت سے اسی جگہ قیام فرمایا، حلقہ کے بزرگ اور رؤسا نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمائی، عقیدت مند جو حق و جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انواع و اقسام کے کھانے، جانور اور سونا چاندی کے نذرانے پیش کیے، حضرت شیخ نے سب کچھ اس بوڑھے کو عنایت فرما دیا اور خود صبح کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔

ایک پریشان حال فقیر نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں دریا پار کرنا چاہتا تھا لیکن میری ناداری کے سبب ملاح نے مجھے لے جانے سے انکار کر دیا، اتنے میں کسی عقیدت مند نے تیس دینار کی ایک تیلی لاکر پیش کی۔ حضرت شیخ نے اس فقیر کو دے دی اور فرمایا ملاح کو دے دو اور اس سے کہو کہ آئندہ کسی فقیر کو بائیس نہ کرے اور اپنی قمیص بھی اتار کر اسے دے دی جو بیس دینار میں فروخت ہو گئی تھی۔

## رزق حلال :

مزنیائے کرام باطن کی صفائی کے لیے صدق مقال اور رزق حلال کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت شیخ نے حلال و طیب گندم ایک کاشتکار کو دی ہوئی تھی جسے وہ ہر سال کاشت کرتا، آپ کے بعض معتقدین اسے پیستے اور اس میں سے ہر روز چار پانچ روٹیاں پکا کر شام کے وقت پیس کر دیتے۔ شیخ کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور باقی حاضرین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے تمام اعمال کی چھان بین کی مگر ان میں کھانا کھلانے سے افضل اور حسن اخلاق سے زیادہ شرافت والا کوئی عمل نہ پایا۔ یہ بھی فرماتے کہ میرے ہاتھ میں سوراخ ہے اگر ہزار دینار بھی میرے

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق،

زبدۃ الاسرار ص ۹۲

۲۔ ایضاً،

ص ۲۱-۹۱

۳۔ ایضاً،

ص ۹۳

۴۔ ایضاً،

ص ۹۳

پاس آجائیں تو وہ ایک رات بھی میرے پاس نہیں رہیں گے ۱

## معمولاتِ شب :

(محمد بن) ابو الفتح ہر وی کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی اس عمر میں آپ عشار کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرماتے، اگر کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت وضو کرتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے، عشار کی نماز پڑھ کر خلوت خانہ میں چلے جاتے، کسی دوسرے کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی اور فجر سے پہلے باہر تشریف نہ لائے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفہ وقت ملاقات کے لیے حاضر ہوا لیکن فجر سے پہلے ملاقات نہ کر سکا ۲

ان ہی کا بیان ہے کہ مجھے چند راتیں آپ کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا، رات کے کچھ ابتدائی حصہ میں نماز پڑھتے پھر ذکر کرتے یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا، پھر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا تہائی حصہ گزر جاتا، آپ کا سجدہ طویل ہوتا، پھر طلوع فجر کے قریب تک مراقبہ کرتے تھے ۳

## عفو اور درگزر :

حضرت شیخ حسن اخلاق میں اپنی مثال آپ تھے، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا یہی سمجھتا کہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ میری عزت افزائی کی جاتی ہے، آپ اپنے اجاب کی خطاؤں سے درگزر فرماتے اور جو شخص قسم کھا کر کچھ عرض کرتا اس کی بات تسلیم کر لیتے اور اپنے علم کا اظہار نہ فرماتے۔

ایک دن خادم سے بہت ہی قیمتی چینی آئینہ ٹوٹ گیا، اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا

از قضا آئینہ زینی شکست

آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے فرمایا :

غوب شد سب امان خود بینی شکست ۴

۱۔ محمد بن یحییٰ تادوی، علامہ :

قلائد الجواہر ص ۸

۲۔ ایضاً :

ص ۷۶

۳۔ علی بن یوسف الشافعی، امام :

بہجۃ الاسرار ص ۸۵

۴۔ محضیاء الشرفی، مولانا :

سیرت غوث الثقلین (قادی کی کتب خانہ، پاکٹ) ص ۱۲۰

## حدود الہیہ کا تحفظ :

حضرت شیخ کسی سائل کو محرم نہ فرماتے اگر باس زیب تن کیا ہو اکڑا ہی اتار کر کیوں نہ دینا پڑتا، اپنی ذات کے لیے کسی پر ناراض نہ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم فرمائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہ کرتے اس وقت آپ کا قہر و غضب اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے

## حفظ مراتب :

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی امتی خواہ وہ کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو مقام انبیاء کو نہیں پاسکتا، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک شخص زہد و طاعت اور کرامت و عبادت میں مشہور زمانہ تھے انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ :

میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس بن مثنیٰ سے آگے بڑھ گیا ہوں

یہ بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، آپ کا چہرہ اندر شدت غضب سے تھما اٹھا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تکیہ اٹھا کر اپنے سامنے سے مارا اور فرمایا : میں نے اس کے دل پر وار کیا ہے، حاضرین دوڑتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے تندرست اور توانا تھا۔

بعد میں انہیں خراب میں عمدہ حالت میں دیکھا گیا، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور حضرت شیخ عبدالقادر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی اور حضرت یونس علیہ السلام سے مجھے اس بات کی معافی و لواہی، شیخ کی برکت سے مجھے بڑی خیر ملی ہے

بزرگ ابن دین کا ادب و احترام و جہ سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ طالب علمی کے دور میں حضرت شیخ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مقام غوثیت پر فائز ہیں، راستے میں ایک ساتھی ابن السقائے کہا کہ میں ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، دوسرے ساتھی عبداللہ شامی نے کہا میں ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا، دیکھیے وہ کیا جواب

دیتے ہیں، حضرت شیخ نے فرمایا، خدا کی پناہ! میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو ان کی زیارت کی برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔

جب اس بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابن ہاشم کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے ابن ہاشم! تجھ پر افسوس، تو مجھ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے جس کا جواب مجھے معلوم نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آتش کفر کے شعلے تیرے بدن کو چاٹ رہے ہیں، پھر عبد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تو نے میری بے ادبی کی ہے، میں تمہیں کانوں تک دنیا میں دھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں۔

پھر حضرت شیخ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں اپنے پاس بٹھایا، عزت افزائی کی اور فرمایا، اے عبد القادر! تم نے ادب ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں برسرِ منبر کمرہ رہے ہو ”قدھی ہذہ علی رقبۃ کدولی اللہ“ اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے تمام اولیاء تمہارے احترام میں سرخجم ہیں۔

## زیارت مزارات :

حیات ظاہرہ کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی طرح بعض اوقات بزرگوں کے مزارات پر بھی حاضری دیتے، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت معروف کرخی، حضرت حماد ہاشمی اور دیگر بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہونے کا تذکرہ کتب میں ملتا ہے۔

نغمات الانس، فارسی (دستیم پریس، لاہور)، ص ۴-۳۵۳

علامہ ابن الجاہر ص ۷۷

ص ۳۹

زبدۃ الاسرار ص ۸۷

۱۔ عبد الرحمن جامی، مولانا،

۲۔ محمد بن یحییٰ تاذفی، علامہ،

۳۔ ایضاً،

۴۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق،

## کشف و کرامات

اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، معتزلہ عقل پرستی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کرامت کا انکار ہی کر بیٹھے، جب کہ دوسری طرف مائتہ الناس کرامتوں کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے کرامات کا تذکرہ ہی مقصد زندگی اور حاصل حیات سمجھ لیا، حالانکہ کرامت، اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو اپنے خاص بندوں کو اتباع شریعت، تزکیہ نفس، اخلاص، لئیت اور دینی خدمات کے صلے میں عطا فرماتا ہے، پھر اولیاء کرام کا مقصد بھی ان کرامات کا حاصل کرنا نہیں ہوتا وہ تو اپنے عقائد، اعمال، اخلاق اور احوال، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبات کے سانچے میں ڈھالنے کو حاصل زندگی قرار دیتے ہیں۔

شیخ بقا ابن بطوطہ فرماتے ہیں:

شیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ قول و فعل کا اتحاد نفس اور قلب کی یکسانیت، اخلاص و تسلیم کا باہمی ربط استوار کرنا، ہر تصور، ہر لحظہ، ہر سانس اور تمام داروات و احوال میں کتب و سنت کو حاکم بنانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تعلق ہے۔

لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتا ہو اور ابن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو اس کا ہر قدم رضائے الہی کے لیے اٹھے اور ہر عمل میزان شریعت پر جائز اور مستحسن قرار پائے یہی معراج انسانیت ہے اور یہی بزرگان دین کی محبت و عقیدت کا صحیح طریقہ ہے۔

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، عظمت اور دینی خدمات کا ایک جہان معترف ہے آپ کی کرامات کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو متشددین میں شمار ہوتے ہیں۔

ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامات کی کثرت پر مومنین کا اتفاق ہے، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تو اتر کر پہنچ گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی میجائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک مایہ ناز تھا جس نے دلوں کے

قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔

شیخ الحرمیہ امام عبداللہ شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کے مناقب اور فضائل جلیلہ گنتی سے باہر ہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

یہ کلام بلاشبہ حق ہے کیوں کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، ابتدا ہی سے خوارق آپ سے ظاہر ہوتے رہے، آپ نے نوے سال کی عمر شریفیت پائی اور اس عرصہ میں آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا،

شیخ ابرہیم احمد بن ابی بکر حری اور شیخ ابرہہ عثمان صریغی فرماتے ہیں:

آپ کی کرامات موتیوں کی رٹبوں کی طرح تھیں کہ ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوتی، اگر کوئی حاضر ہونے والا ہر روز متعدد کرامات شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا۔

اندازہ کیجیے نوے سال کی عمر میں آپ سے کتنی کرامات صادر ہوئی ہوں گی، یہ تو خوارق کا تذکرہ ہے، آپ کے علمی، عملی فضائل، اور ابتداء و انتہاء کے افعال، اخلاق اور احوال الگ ہیں، لہذا شک و شبہ کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی کرامات اور فضائل کا اندازہ تو کیا جاسکتا ہے یقینی طور پر ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

## رفعت مقام :

یہ واقعہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر دال ہے کہ آپ نے پچاس سے زائد اکابر مشائخ عراق کی موجودگی میں کسٹی خطابت پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا:

قَدْ مَنَىٰ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيٍّ اَللّٰهُ  
میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے

یہ فرمان سنتے ہی تمام ادویہ کرام نے اپنی گردنیں جھکا دیں،

دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تین سو تیرہ اجلہ اولیاء نے اپنی اپنی جگہ اپنے سر جھکا دیے جن میں سے حرمین شریفین میں ستو

۱۔ لہ ابراہیم علی ندوی

تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۲۵۸

ذیۃ الاسرار ص ۳-۲

بجۃ الاسرار ص ۸

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۳۔ علی بن یوسف شافعی، امام

عراق میں سائرہ، عجم میں چالیس، شام میں تیس، مصر میں بیس، مغرب میں تیس، مشرق میں تیس، بحر میں گیارہ، سدر یا حرج میں سات، وادی سراندیپ میں سات، کوہ قاف میں ستائیس اور سمندری جزیروں میں چوبیس حضرات تھے حضرت شیخ عدی بن مسافر سے اس قول کا مطلب پوچھا گیا کہ ہر زمانے میں فرد ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں، لیکن شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ بات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا؟ فرمایا: ہاں، اسی لیے تو تمام اولیاء کرام نے اپنے سرخم کر دیے تھے۔

گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے  
کشف ساقی کہاں؟ یہ تو قدم تھا تیرا

علامہ تاذنی فرماتے ہیں کہ بقول بعض حضرات قدم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے، قدم کا استعمال مجازی طور پر طریقہ کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ میرا طریقہ قرب اور کشادگی کے اعتبار سے حالت انتہا میں اعلیٰ ترین طریقہ ہے؛

سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر فاضل مولانا فقیر اللہ علوی شکار پوری نے اپنے ایک مکتوب میں اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک صرف اس زمانہ کے اولیاء کی گردن پر ہے یا تمام اولیاء کی گردن پر، پھر طویل گفتگو کے بعد فرماتے ہیں:

گزشتہ تفصیل سے تم نے جان لیا ہو گا کہ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کا مقام تمام اولیاء سے بلند ہے اور یہ حقیقت اولیاء عظام کے کشف صحیح سے ثابت ہے، ارباب کشف کی عدالت اور مختلف مقامات سے تعلق رکھنے کے علاوہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو تسلیم نہیں کرتی، اس حقیقت کا انکار محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، حضرت شیخ کی بارگاہ میں بے ادبی سے خدا کی پناہ ملے پھر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت شیخ قدس سرہ کا ارشاد قدمی ہذا الم ان لوگوں کو شامل ہے جن کی رسائی بارگاہ

زبدۃ الاسرار ص ۱۲

قلائد الجواہر ص ۲۲

صدائق بخشش (مع ادبی جائزہ) ص ۲۳۹

قلائد الجواہر ص ۲۳

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق،

۲۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ،

۳۔ احمد رضا بریلوی، ام،

۴۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ،

حق تعالیٰ میں قرب ولایت کے راستے سے ہو، صحابہ کرام کی بارگاہ الہی تک رسائی قرب نبوت کی راہ سے ہوئی ہے لہذا یہ ارشاد شامل نہیں ہے ۱۰

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بارے میں متقدمین اور متأخرین اولیاء کرام کے ارشادات دیکھنا ہوں تو بیخبر الاسرار، امام شافعی، علامہ الجواہر، علامہ تاذنی اور زبدۃ الاسرار، محدث دہلوی کا مطالعہ کیا جائے۔

## چند دیگر کرامات :

معروف کتابوں میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کرامات کا تذکرہ ہے ان کے احاطہ کے لیے طویل دفتر درکار ہے۔ ذیل میں چند کرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئی کہ آپ مرغ مناول فرما رہے ہیں اور میرا بیٹا جو کھائی کھا رہا ہے، آپ نے اپنا دست اقدس مرغی کی ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا :

اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا جس کی شان بوسیدہ ہڈیوں کو حیات نو عطا فرماتا ہے مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور شور مچانے لگی۔ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے تو جو چاہے کھائے (ابھی یہ دور اس کے مجاہدہ و ریاضت کا ہے)

۲۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں ایسی طغیانی آئی کہ بعد اود کے غرق ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور دریا کے کنارے جا کر ایک جگہ گاڑ دی اور فرمایا یہاں تک، اسی وقت پانی کم ہو گیا ۱۱

۳۔ معاف کی ایک جماعت بڑے بڑے سر بند دولو کرے لائی، اور کہا ہمیں بتائیے ان میں کیا ہے؟ حضرت شیخ

مکتوبات شاہ فقیر اللہ علی دیشم پریس، لاہور، مکتوب ۱۹ ص ۲۱۰

ہجو ۶۵ ص

قلائد الجواہر ص ۳۷

نفحات الانس (دیشم پریس، لاہور) ص ۳۶۱

فتاویٰ حدیثیہ (مصطفیٰ البانی، مصر) ص ۱۷۴

زبدۃ الاسرار ص ۸-۷۷

قلائد الجواہر ص ۲۶

۱۔ فقیر اللہ علی شکار پوری، علامہ

۱۱۔ علی بن یسعت شافعی، امام

ب۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ

ج۔ عبدالرحمن جاسمی، مولانا

د۔ احمد بن جبر الکی البستی، علامہ

ح۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۱۲۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ

کرسی سے نیچے اترے اور فرمایا اس میں ایک اپاہج بچہ ہے پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کو اس کے کھونٹے کا حکم دیا، جو بچہ برآمد ہوا اسے حکم دیا کہ کھڑا ہو جاوہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا، دوسرے ٹوکرے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تندہ دست بچہ ہے، اس میں سے بچہ نکلنے پر بھاگنے لگا تو اسے فرمایا بیٹھ جا، وہ وہیں بیٹھ گیا اور چلنے کے قابل نہ رہا، اسی وقت پوری جماعت رخصت ہو گئی۔

ابوالحسن المعروف ابن سطنطہ بغدادی کہتے ہیں میں حضرت شیخ کے پاس پڑھا کرتا تھا اور رات کا اکثر حصہ اس خیال سے بیدار رہتا کہ شاید میرے متعلق کوئی خدمت ہو۔ ماہ صفر ۵۵۳ھ کی ایک رات حضرت شیخ گھر سے باہر تشریف لائے، میں بھی پیچھے چلے چلا دیا، آپ بغداد سے باہر تشریف لائے کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم کسی نامعلوم شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ ایک مسافرخانہ میں تشریف لے گئے جہاں چھ افراد موجود تھے۔ انہوں نے سلام عرض کیا ایک طرف سے کچھ دیر رونے کی آواز آتی رہی پھر بند ہو گئی، ایک شخص کسی کو اٹھائے ہوئے باہر چلا گیا، اور ایک دوسرا شخص ننگے سر حاضر ہوا جس کی مونچھوں کے بال بڑھے ہوئے تھے، آپ نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، مونچھوں کے بال درست ہو گئے، ٹوپی پر نائی اور اس کا نام محمد رکھا، اور دوسرے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ میت کا بدل ہے۔

والہی بھی اسی طرح ہوئی، دوسرے دن میں نے جنس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا کہ وہ کونسی جگہ تھی؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ فرمایا کہ وہ شہر تہامند تھا، وہ چھ افراد ابدال اور بنجار تھے، رونے والا ان کا ساتھی تھا، میں اس کی وفات پر وہاں پہنچا تھا، میت کو اٹھا کر لے جانے والے ابوالعباس خضر علیہ السلام تھے وہ اسے کنفن دفن کے لیے لے گئے تھے، اور جسے میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا عیسائی تھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے وفات پانے والے کا قائم مقام بنا دیا جائے۔

## \* کلمات تحسین اور خراج عقیدت :

حضرت شیخ ابوسعید قیلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعباس خضر علیہ السلام کو کثرت سے سرکار بغداد کی مجلس میں دیکھا اس باسے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا،

من اراد الفلاح فعليه بملازمة هذا المجلس

جو شخص کامرانی چاہتا ہے اس مجلس کو لازم پکڑ لے لے  
 سیدنا غوث اعظم جوانی کے ایام میں حضرت تاج العارفین ابوالوفاء کی زیارت کے لیے جاتے تو آپ خود بھی کھڑے  
 ہو جاتے اور حاضرین کو بھی فرماتے اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک دن فرمایا:  
 اے عبدالقادر! جب تمہارا وقت آئے تو ان سفید بالوں کو یاد رکھنا اور واڑھی کی طرف  
 اشارہ کیا،  
 اے عبدالقادر! ہر مرغ آواز نکالے گا اور چپ ہو جائے گا اور تمہارا مرغ روز قیامت تک  
 نواسخ رہے گا۔

جب کئی دفعہ ایسا ہوا تو ان کے اصحاب نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا:  
 جب اس جوان کا وقت آئے گا تو خاص و عام اس کے محتاج ہوں گے، گویا میں انہیں بربر مجلس  
 یہ قول حق کہتے ہوئے سُن رہا ہوں۔

قدیمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ  
 اور اولیاء ان کے آگے گزریں جھکا دیں گے، تم میں سے جو شخص اس وقت کو پائے تو وہ ان  
 کی خدمت کو لازم پکڑ لے لے  
 شیخ شہاب الدین عمر سروردی فرماتے ہیں،

شیخ عبدالقادر، طریق معرفت کے سلطان اور باتین حق منصرف فی الوجود تھے، اللہ تعالیٰ نے  
 انہیں تصرف اور پیغم کرامات میں وسیع دست قدرت عطا فرمایا تھا۔  
 حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دہلوی قدس سرہ لطائف الغرائب میں اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں  
 خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ اس وقت مجاہد تھے اور خراسان کے ایک پہاڑ پر مصروف مجاہدہ  
 جب انہوں نے حضرت غوث کا یہ فرمان سنا تو فوراً تمیل کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا  
 اور فرمایا: بَلِّ عَلٰی دَاسِحٰی بَلْکُم مِّرے سر پر، حضرت غوث نے اس وقت اپنی مجلس میں  
 اولیاء کے جم غفیر کے سامنے فرمایا: غیاث الدین سجوی کے بیٹے نے فوراً سر جھکا دیا

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر دیا، اور اپنے حسن ادب اور تواضع کے سبب ممالک ہند کا والی بنے گا، چنانچہ اسی طرح ہوا جس طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ۱۔

ۛ حضرت خواجہ بہار الحق والدین، شاہ نقشبند قدس سرہ سے حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کے ارشاد قدسی ہذا کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ آپ کے زمانہ مبارک کے ساتھ خاص ہے یا تمام زمانوں کو شامل ہے؟ انہوں نے فرمایا:

آپ کی زبان مبارک سے تخصیص معلوم نہیں ہوتی ۱۔  
حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کو اسم ذات کا نقش، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ سے حاصل ہوا، حضرت شاہ نقشبند نے حضرت سید امیر کھال سے اسم ذات کا سبق حاصل کیا، کوشش یہ کی کہ اسم ذات دل میں نقش ہو جائے، مگر قن و اضطراب اور انقباض کا سامنا کرنا پڑا، آبادی کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا، ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا: بارگاہ غوثیت میں التجا کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق التجا کی تو خواب میں حضرت غوث الثقلین کی زیارت ہوئی، انہوں نے اسم ذات کی تلقین کی اور دایں ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا، حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں:

میں نے اسی وقت اسم ذات کا نقش اپنے ظاہر و باطن میں اس حد تک دیکھا کہ جس چیز پر نظر ڈالتا وہی نقش دکھائی دیتا اور میری بصارت و بصیرت میں وہی نقش رچ بس گیا۔ میں نے خواب اور اس کی بنائی کو دیکھا تو مجھے اس کے نقش و نگار میں بھی اسم ذات دکھائی دیا۔  
اسی لیے آپ کی شہرت نقشبند کے لقب سے ہو گئی ۱۔

ۛ مودع اسلام حافظ ذہبی فرماتے ہیں،  
شیخ عبدالقادر بن ابوالصلح عبداللہ بن جلی دوست ابو محمد جلی، زاہد، شیخ العصر، مقتدائے عارفین، صاحب مقامات و کرامات، خباہ کے مدرس، محی الدین، وعظ اور لوگوں کے خیالات پر گفتگو کرنے کی سبقت آپ پر ختم ہو گئی۔ . . . . شیخ موفی (ابن قدامہ) کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مدرسین ایک میدانہ نو دن شہر سے، پھر آپ کا وصال ہو گیا، اور ہم نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، ان

کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کی کرامات کا تذکرہ نہیں سنا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ دین کی بنا پر ان سے زیادہ کسی کی تعظیم کی جاتی ہو۔  
 ✽ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں

جب نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی تو یہ منصب ان کے سپرد ہو گیا، بارہ اماموں اور حضرت شیخ کے درمیان اس مرکز پر کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، اس راہ میں انقطاب و تنجید کو جو فیوض و برکات پہنچتے ہیں وہ آپ ہی کے واسطے سے معلوم ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ مرکز ان کے علاوہ کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوا، اسی لیے آپ نے فرمایا ہے:

أَفَلَيْتَ شَمْسُومُ الْأَقَالِدِينَ وَشَمْسُونا  
 أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ

مقدمین کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلندیوں کے افق پر  
 درخشاں رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔

سورج سے مراد، فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور غروب ہونے سے مراد اس فیضان کا منقطع ہو جانا ہے۔

جو معاملہ مقدمین سے متعلق تھا حضرت شیخ کے تشریف لانے پر ان سے متعلق ہو گیا، اور آپ رشد و ہدایت کے طے کا واسطہ بن گئے، جیسے کہ آپ سے پہلے مقدمین تھے، نیز جب تک فیض کا واسطہ ہونا برقرار ہے اس وقت تک آپ کا وسیلہ ضروری ہے۔  
 پھر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

مجدد الف ثانی اس مقام میں حضرت شیخ کا قائم مقام ہے اور حضرت شیخ کا نائب ہونے کے اعتبار سے یہ معاملہ اس سے متعلق ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ چاند کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہے۔  
 ✽ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

اولیائے امت اور اصحاب طرق میں سے، راہ جذب کی تکمیل کے بعد جو اس نسبت (اویسیہ)

العربی خبر من غیر (کریت) ۱۰ ج ۱۰۶-۱۰۵

مکتوبات (مکتبۃ الرشید، ترکی) دفتر دوم ص ۵۸۵

دفتر دوم ص ۵۸۵

لے ذہبی، حافظ، مددخ اسلام،

لے احمد رضا، شیخ مجدد الف ثانی:

لے ایضاً،

کی اصل کی طرف مضبوط اور مستحکم ترین طریقہ پر مائل ہوئے ہیں اور اس جگہ پوری طرح ثابت قدم ہوئے ہیں  
حضرت شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح نصرت  
کرتے ہیں۔  
دوسری جگہ فرماتے ہیں :

حضرت غوث الاعظم کی اصل نسبت، نسبت اولیہ یہ ہے جو نسبت یکنہ کی برکات کے ساتھ محمولہ  
مطلب یہ ہے کہ یہ شخص عالم بالا کے نفوس فلیکھ اور ادراج کا ملین کی محبت کے ضمن میں اس نقطے کی مراد اور  
مغرب بن جاتا ہے جو شخص اکبر میں ذات الہیہ کے مقابل ہے، اس محبت کی راہ سے اس پتہ کیلیات الہیہ  
میں سے ایک تسبیح وارد ہوتی ہے جو تخلیق، تدبیر اور قرب کے درمیان جامع ہے اور بے انتہا انس اور  
برکت حاصل ہوتی ہے، اس صورت میں اس کمال کا ارادہ اور اس کی طرف توجہ کی گئی ہو یا نہ، گویا یہ ایک  
ایسا امر ہے جو اس کے ارادہ کے بغیر ظاہر ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت غوث اعظم فخر اور بڑائی کے  
کلمات سے گویا ہوئے ہیں اور ان سے تغیر عالم ظاہر ہوئی ہے۔  
ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :

اشغال طریقت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک صحبت متصلہ کے حاصل کرنے میں طریقہ نقشبندیہ  
میری سند میں قوی ترین ہے اور نسبت باطن میں میری اقتدار طریقہ جیلانیہ (قادریہ) سے ہے کیوں کہ طریقہ  
نقشبندیہ میں اصل اللہ تعالیٰ کے تصور کی حفاظت ہے، ہر انسان کی عقل میں اس ذات اقدس کی طرف  
اشارہ واقع ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صورت اجمالیہ ذہنیہ ہے، یہ حضرات اس کو واسطہ بناتے ہیں  
تاکہ اس پر مداومت کریں اور جس وقت چاہیں اس سے حقیقتہ الحقائق کی طرف منتقل ہوں  
طریقہ جیلانیہ (قادریہ) میں اصل، روح اور میر کی تہذیب ہے، جب یہ مہذب ہو جائیں تو جس  
وقت ان کو استعمال کریں تعالیٰ اعظم کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔

شاہ اسماعیل دہلوی، اپنے پیر پید احمد بریلوی کے لیے نسبت قادریہ اور نقشبندیہ کے حصول کا پس منظر بیان کرتے ہوئے  
لکھتے ہیں :

۱۔ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ :

ہمعات (اکادمیہ الشاہ ولی اللہ دہلوی) حیدرآباد (ص ۶۱)

ص ۸۳-۸۴

۲۔ ایضاً :

کلمات طبابت فارسی (مجتبائی، دہلی) ص ۱۶۰

۳۔ ایضاً :

جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند کی رو میں ان کی طرف متوجہ ہوئیں، اور ایک ماہ تک ان میں اختلاف رہا، ہر ایک امام کا اتنا ضابطہ تھا کہ سید صاحب کو مکمل طور پر اپنی طرف کھینچ لیں، پھر دونوں حضرات نے ایک پرتنگ سید صاحب کے نفس نفیس پر قوی اور زور آور توجہ دی یہاں تک کہ اس ایک پھر میں دونوں نسبتیں حاصل ہو گئیں (مختصاً)

قطع نظر اس سے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے، اس عبارت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث الثقلین دانساؤ اور جنوں کے فریاد رس، اور وصال سے کئی صدیاں بعد زور آور توجہ دینا اور نسبت قادریہ کا فیضان فرمانا تسلیم کیا گیا ہے۔

✽ حضرت شاہ فقیر اللہ نقشبندی فرماتے ہیں:

گزشتہ تفصیل سے ہمیں طریقہ عالیہ قادریہ کی دوسرے تمام طرق پر اور اس سلسلے کے متبعین کی باقی تمام سلاسل کے متبعین پر فضیلت معلوم ہو گئی، کیوں کہ تابع کی فضیلت تبعوع کی فضیلت کے سبب ہے..... اس جگہ سے ظاہر ہو گیا کہ طریقہ عالیہ قادریہ کے مرید کو مرشد قادری کے ہوتے ہوئے دوسرے سلاسل سے استفادہ نہ کرنا چاہیے کیوں کہ دوسرے سلاسل کے بزرگ، حضرت غوث الثقلین کے توسط سے استفادہ کرتے ہیں اور ازل و آخر میں آپ ہی کے واسطے سے کشادہ کار پاتے ہیں اگرچہ اقطاب وقت اور نجار زمانہ ہی کیوں نہ ہوں، لہذا دیگر سلاسل والے اگر سلسلہ عالیہ متادیر سے استفادہ کریں تو ان کے حق میں زیادہ فیض کا سبب ہو گا۔

✽ امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں:

سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے  
افقِ نذر پر ہے مہر ہمیشہ تیرا  
مُرغ سب بولتے ہیں بول کر چپ رہتے ہیں  
ہاں اکیلے ایک فاسخ رہے گا تیرا  
کس گستاخ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز؟  
کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا؟

۱۔ محمد امین دہلوی، ۵۵۵ (تاریخ و حقائق)، صراطِ مستقیم فارسی (مکتبہ سلفیہ، لاہور) ص ۱۶۶

مکتوبات، مکتوب ۴۹ ص ۲۱۱

مزدب چشت و سجاد عراق و احب میر  
کون سے کشت پہ برسا نہیں جلال تیرا  
تاجِ منورِ عرقِ کس کے قدم کو کیسے  
سُرجے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا

## تصانیف مبارکہ :

محرب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی گراں قدر تصانیف عالیہ کے اسماء کتب تذکرہ میں درج ذیل ہیں  
کیے گئے ہیں، کئی تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی۔

۱۔ الفتح الربانی والفیض الرحانی : جو اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

۲۔ الغنیۃ لطالبی طریق الحق (غنیۃ الطالبین)

۳۔ سر الاسرار ومنظر الانوار فی مایحتاج الیہ الابرار

۴۔ جلال القاطر فی الباطن والظاہر

۵۔ آداب السکر والوصول الی منازل الملوک

۶۔ فوج الغیب

۷۔ تحفۃ المتقین وسبیل العارفين

۸۔ حزب الجار والانتہار

۹۔ الرسالة الغریبہ

۱۰۔ الفیوضات الربانیۃ فی الاوراد القادرۃ

۱۱۔ الکبریٰ فی الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۲۔ مراتب الوجود

۱۳۔ معراج لطیف المعانی

۱۴۔ براہیت الحکم

صائن بخشش (مع ادبی جائزہ) ص ۹-۲۳۸

معجم الزلفین (مکتبۃ المشی، بیروت) ص ۵۵-۳۰۴

ہدیۃ العارفين (مکتبۃ المشی، بغداد) ص ۱۵-۵۹۶

مکتب میں نے معجم المطبوعات میں ایک اور تصنیف بنائے الخیرات کا ذکر کیا ہے جس میں درود پاک کے مختلف صیغے اور کلمات جمع کر دیے گئے ہیں غالباً یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر الکبریٰ التاخر کے نام سے اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ الفتح الربانی، سیدنا غوث اعظم کے باسٹھ مواظظ اور طوفانات کا مجموعہ ہے جن میں سے اکثر مختصر اور بعض طویل ہیں اس کتاب کے اسلوب کا تذکرہ اور اس کے اقتباسات گزشتہ صفحات میں پیش کیے جا چکے ہیں۔

یہ بابرکت کتاب ۱۲۸۱ھ اور ۱۳۰۲ء میں قاہرہ میں طبع ہوئی۔ اس وقت دارالمعرفۃ، بیروت کا مطبوعہ ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء عربی نسخہ پیش نظر ہے۔ اسی کے اقتباسات کا اردو ترجمہ گزشتہ صفحات میں دیا گیا ہے، اس کے متعدد اردو تراجم چھپ چکے ہیں، فرید بک شال، لاہور کے منتظین کی خوش سنجی ہے کہ وہ عربی متن مع اردو ترجمہ ہدیہ قارئین کر رہے ہیں یہ ترجمہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم مولانا محمد ابراہیم قادری بدایونی نے کیا تھا، مترجم کا تذکرہ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

فتوح الغیب، سیدنا غوث اعظم قدس سرہ کے اٹھتر مقالات پر مشتمل ہے، استساہبول میں ۱۲۸۱ھ میں طبع ہوئی، تلمیذ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں اس کا ترجمہ اور شرح کی جو مطبع منشی نوکٹور، لکھنؤ سے ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱ء میں طبع ہوئی، اردو میں متعدد تراجم چھپ چکے ہیں، سید محمد فاروق القادری کا ترجمہ مکتبہ المعارف، لاہور نے اور اجاڑید محمود کا ترجمہ حامد اینڈ کمپنی، لاہور نے شائع کیا۔

فتوح الغیب اگر روشن نہ فرمائے

فتوحات و فصوص آفل ہے یا غوث ۵۷

غنیۃ الطالبین، اس کتاب کا مشہور نام یہی ہے جب کہ خطبہ میں اس کا نام الغنیۃ لطالبی طریق الحق لکھا گیا ہے، ابتداً کتاب میں ارکان اسلام اور ان سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، کتاب الالب میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے شرعی آداب کا بیان ہے، باب معرفۃ الصانع میں ایمان کی حقیقت اور گمراہ فرقوں کا تذکرہ ہے، باب الاتعاظ میں بمواظظ القرآن میں نفس، روح اور قلب کی تشریح ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی تلقین کے بعد سال کے مہینوں اور دنوں میں کی جانے والی عبادات اور تقریبات کے لیے ہدایات درج کی گئی ہیں۔

۱۷ عبدالحی کوکب، قاضی علامہ :

اردو دائرۃ المعارف (دانش گاہ پنجاب) ج ۱۲ ص ۹۳۲

۱۸ ایضاً :

ص ۹۳۲

۱۹ ایضاً :

ص ۹۳۳

۲۰ احمد رضا بریلوی، امام :

ہدائق بخشش (مع ادبی جائزہ) ص ۲۳۹

آخری فصلوں میں مریدین اور مشائخ کے آداب طریقت بتائے ہیں۔ ان ہی فصلوں میں صحبت، فقر، مجاہدہ، توکل، شکر، صبر، رضا اور صدق کے مباشرت بھی ملتے ہیں۔ اس کتاب میں شریعت و طریقت کا نیچور پیش کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایمان کے استحکام اور عمل کے اجبار کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

یہ کتاب دو جلدوں میں بولاقی میں ۱۲۸۸ھ اور ۱۳۲۲ھ میں چھپی، مکہ مکرمہ سے ۱۳۱۲ھ میں ایک ایڈیشن شائع ہوا دہلی سے ۱۳۰۰ھ میں یہ کتاب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے بین السطور فارسی ترجمہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ لیب کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی، اردو میں اس کے متعدد تراجم چھپ چکے ہیں، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی سے جناب شمس ریلوی کا ترجمہ چھپ کر بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔

غنیۃ الطالبین، حضرت غوث اعظم کی تصنیف ہے یا نہیں، اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر علامہ محمد بن یحییٰ تافزی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں :

وقد صنف کتاب الغنیۃ

علامہ تافزی فرماتے ہیں :

وله کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق و کتاب فتوح الغیب

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں :

حضرت غوث اعظم قدس سرہ در کتاب غنیۃ الطالبین وضع تعین کردہ اندازہ اسی طرح کمالہ اور اسمعیل ہاشم بقدادی نے بھی تسلیم کیا ہے۔

لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کسی حد تک انکار کرتے ہیں، غنیۃ الطالبین کے فارسی ترجمہ کی ابتداء میں فرماتے ہیں :

۱۔ عبدالباقی کوکب قاضی، مولانا علامہ :

اردو دائرۃ معارف اسلامیہ (پنجاب یونیورسٹی) ج ۱۲ ص ۹۳۱

۲۔ ابن کثیر، حافظ :

الہدایہ والنہایہ (مکتبۃ المعارف، بیروت) ج ۱۲ ص ۲۵۲

۳۔ محمد بن یحییٰ تافزی، علامہ :

قلائد الجواہر ص ۷

۴۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ :

معارج (جدید آباد، سندھ) ص ۲۳

۵۔ عمر رضا کمالہ :

معجم المؤلفین ج ۵ ص ۳۰۷

۶۔ اسمعیل ہاشم بقدادی :

مدیرۃ المعارفین ج ۱ ص ۵۹۶

اس کتاب کی نسبت آنجناب کی طرف اگرچہ مشہور ہے لیکن یہ ہرگز ثابت نہیں ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اس میں کچھ کلمات آنجناب کے ہوں میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ ۱۷

جب کہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب غنیۃ الطالبین میں اس حدیث کا واقع ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کیوں کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے اور اس میں موضوع حدیثیں بکثرت

وارد ہیں ۱۸

حضرت ملا علی قاری کے اتاذ علامہ ابن حجر مکی، اللہ تعالیٰ کی جہت اور حمیت سے تنزیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

امام العارفین، قطب الاسلام والمسلمین، اتاذ عبدالقادر جیلانی کی تصنیف غنیۃ میں جو کچھ مذکور ہے وہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے کیوں کہ یہ بات کسی نے بطور سازش کتاب میں شامل کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے انتقام لے گا، ورنہ حضرت شیخ اس سے بری ہیں یہ بے بنیاد مسئلہ ان کی طرف کس طرح منسوب کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ کتاب وسنت اور فقہ شافعیہ اور خابلیہ میں کامل دسترس رکھتے تھے، اس کے علاوہ اللہ نے انہیں ظاہری اور باطنی معارف و خوارق سے نوازا تھا اور ان کے احوال و آثار کے ساتھ منقول ہیں ۱۹

باب معرفۃ الصانع میں مروجہ کے بارہ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے حنفیہ کو بھی ان کا ایک گروہ شمار کیا ہے اور غنیۃ کا تعارف ان الفاظ میں کر دیا گیا ہے۔

حنفیہ وہ ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے بعض اصحاب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان امور کی معرفت اور اقرار کا جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ (ترجمہ عربی عبارت)

اس پر فاضل یا کوٹلی نے حاشیہ پر ایک نوٹ لکھا ہے:

حنفیہ کا مروجہ کے فرقوں میں ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ ان کے نزدیک ایمان، معرفت اور اقرار کا نام ہے۔ اخاف کے مذہب کے خلاف ہے جو ان کی کتابوں میں ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اہل بدعت نے اخاف کی دشمنی میں

حاشیہ نبراس (شاہ عبدالحمید دہلوی ایڈیٹ، بندیال) ص ۴۷۵

۱۷ محمد بن خرداد مغانی:

نبراس ص ۴۷۵

۱۸ عبدالعزیز پرہاروی، علامہ:

فتاویٰ حیدریہ (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۱۷۴

۱۹ احمد بن حجر مکی، علامہ:

یہ عبارت حضرت شیخ قدس سرف کے کلام میں داخل کر دی ہوئے

## قصیدہ غوثیہ :

حضرت محبوب بھائی قدس سرہ بعض اوقات شعر و سخن کے ذریعے بھی اظہار خیال فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں قصیدہ غوثیہ کو بہ حد شہرت حاصل ہوئی، مشائخ کرام اسے بطور ورد پڑھتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ قصیدہ ہجرت الاسرار مطبوعہ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲ء مطبع مصطفیٰ البانی الحلبی، مصر کے حاشیہ ص ۲-۲۳۰ پر چھپا ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس کے فائدہ و برکات کا ذکر کیا گیا ہے، نیز یہ کہ عوام اسے قصیدہ غوثیہ کے نام سے اور خواص قصیدہ غمریہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

درج ذیل فائدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

- ۱۔ یہ قصیدہ حضرت شیخ نے حالت جذبہ اور استغراق میں لکھا ہے جو شخص ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مخلوق کے نزدیک محبوب ہوگا۔
  - ۲۔ جو اسے اپنا ورد بنالے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا جو پڑھے سنی یاد رہے گا۔
  - ۳۔ جو شخص اسے پڑھے اگر چہ عربی نہ ہو، عربی سمجھنے کی یاقت میں اضافہ ہو۔
  - ۴۔ جو شخص کسی حاجت کے لیے چالیس دن پڑھے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے چالیس دن سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔
  - ۵۔ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے پاس رکھے اور ہر دن تین بار پڑھے یا دوسرے سے سنے اور ہر جمعہ حین عقیدت کے ساتھ اس کی زیارت کرے ان شاء اللہ تعالیٰ غراب میں حضرت طرث الثقلین کی زیارت اور ہنگامی سے مشرف ہو اور اصرار و ملوک کے سامنے محترم ہو۔
  - ۶۔ جس نیت سے پڑھے وہ مراد حاصل ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اعتقاد و صمیم ہو اور پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا ثواب بارگاہ غوثیت میں پیش کرے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تین بار یہ درود پاک پیش کرے :
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ مَعْنٍ  
الْجُودُ وَالْكَرَمُ مَنبَعُ الْحِلْمِ وَالْكَرَمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

بعض لوگ اس قصیدہ مبارکہ کی نسبت سیدنا غوث اعظم کی طرف کرتے ہیں مثال دکھائی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں:

سرکار عالم مدارقادریت ..... کی طرف قصیدہ مبارکہ لامیرہ امیریہ غوثیہ کی نسبت بیشک استغاضہ و شہرت رکھتی ہے، مدت سے مشائخ اس کا وظیفہ کرتے اور اجازتیں دیتے اور ہزاروں خاص و عام اسی نسبت جلیلہ سے اس کا نام لیتے ہیں۔

مولانا محمد فاضل کلا نوری رحمۃ اللہ علیہ معاصر سید علامہ سیدی احمد حموی صاحب غزلیہ العیون والبصائر شرح الاشباہ والنظائر نے اس کی شرح سنی ہے روز خمر پہ لکھی اور اس میں ہر لفظ و معنی سے اس قصیدہ کے کلام پاک حضور فرزند صاحب رولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلیلہ وبارک وسلم ہونے کی شہادت دی،

سیدی (شاہ) ابوالمعالی محمد سلمی قدس سرہ جنہیں شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے آخر رسالہ صلوٰۃ الاسرار میں علمائے سلسلہ طیبہ علیہ عالیہ قادریہ سے شمار کیا، اپنی کتب مستطاب تحفہ قادریہ میں فرماتے ہیں:

باب یازدہم آنچه از احوال خود فرمودہ اند، نقل است از شیخ شہاب الدین سروددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہامی فرمود در مدرسہ خود ہولی بر قدم نبی است و من بر قدم جد خود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و برداشت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدمے مگر آنکہ نہ آدم قدم خود بر آں موضع، مگر در اقلام نبوت کر راہ نیست در آں غیر نبی را، در اشعار شریف خود نیز این مضمون لطیف را بیان فرمودہ اند۔

وَكُلُّ وِلِيِّيْ لَدِي تَدَمُّ قَاِئِفٌ

عَلٰی قَدَمِ النَّبِيِّ يَدْرُ الْكَمَالِ (اتہا)

اسی طرح کتب مشائخ میں بہت جگہ اس کا نشان ملے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں اس لیے یہ سیدنا غوث اعظم کا نہیں ہو سکتا ذیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے ممکن ہے کسی کے لیے وجہ تسکین بن جائے، فرماتے ہیں:

حضرت غوث الاعظم کی اصل نسبت، نسبت اولیہ ہے جو نسبت یکنہ کی برکات کے ساتھ

مخلوط ہے، مطلب یہ کہ شیخ، ذات الیہ کے مقابل شخص اکبر میں پائے جانے والے نقطہ کا  
نفوس فلیک، ملا اعلیٰ اور ارواح کاملین کی محبت کے ضمن میں محبوب اور مراد بن جانا ہے، اور اس  
محبت کی راہ سے تجلیات الیہ میں سے ایک تجلی اس پر وارد ہوتی ہے جو تخلیق، ابداع،  
تدبیر اور تدبیر کی جامع ہے، اور بے انتہا انس اور برکت ظاہر ہوتی ہے، خواہ اس کمال کا  
ارادہ اور اس کی طرف توجہ کی گئی ہو یا نہ، گویا یہ منظم سلسلہ اس کے ارادہ کے بغیر ظاہر ہوتا ہے  
اسی لیے حضرت غوث اعظم نے فخر اور بڑائی کے کلمات فرمائے ہیں ۱۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سیدی زروق رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :  
قصیدہ جیلانیہ (غوثیہ) کی طرز پر ان کا ایک قصیدہ ہے ۲۔

حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے الجواہر المصنیۃ فی شرح القصیدۃ الغوثیہ کے مقدمہ میں قصیدہ غوثیہ  
کی اٹھارہ شرح اور تراجم کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پانچ شروع کے شارحین کے نام معلوم نہیں باقی حضرات  
کے اسامیہ ہیں :

۱۔ علامہ شیخ فضل اللہ روز بہان مصنف سلک الملوک (م ۹۲۷ھ) شارح

۲۔ فاضل اجل مولانا مولوی محمد فاضل کلانوری (سال تصنیف ۱۱۰۸ھ)

۳۔ حافظ رانجھا بر خوردار مترجم پنجابی

۴۔ حضرت ابو الفرج فاضل الدین بٹالوی، شارح

۵۔ فخر المحدثین سید شاہ محمد غوث قادری (م ۱۱۵۲ھ)

۶۔ محمد بن طاہر محمد شیرازی، شارح (وفات ۱۲۹۹ھ)

۷۔ مولانا غلام رسول، ساکن ٹانڈا ضلع ہوشیار پور، شارح

۸۔ امام احمد رضا بریلوی مترجم و شارح، فارسی نظم

۹۔ سید ظہیر الدین عرف سید احمد نمبر۱ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، ان کے اہتمام سے قصیدہ غوثیہ مترجم

۱۰۔ اردو، قصیدہ بردہ کے ساتھ طبع ہوا،

۱۱۔ مولانا خواجہ احمد حسین خاں امر دہلوی شارح (م ۱۳۶۱ھ) خلیفہ امام احمد رضا بریلوی

۱۲۔ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ

۱۳۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ

۱۱۔ مولانا محمد اعظم قادری نوشاہی، میر و وال مطلع شیخ پورہ، شارح

۱۲۔ مولانا محمد نظام الدین ملانی، شارح

۱۳۔ حاجی شمس الدین شایق ایزدی، معرفت شمس المند صوفی معنوی لاہوری (۱۹۳۶ء) لے

اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا عبدالمالک کھوڑوی نے الجواہر المفیہ فی شرح القصیدۃ الغوثیہ لکھی جس پر حکیم اہل سنت محمد موسیٰ امیر تسری کا گراں قدر مقدمہ ہے۔ اسی طرح مولانا علامہ وکیل احمد سکندر پوری نے اردو میں شرح لکھی۔ حال ہی میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے دو طالب علموں قاری محمد یسین اور حافظ امتیاز الحسن قادری نے قصیدہ غوثیہ، منظوم پنجابی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے مترجم کا نام معلوم نہ ہو سکا۔

بعض لوگ اس قصیدہ کو سیدنا غوث اعظم کا تیغہ فکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں مولانا عبدالمالک کھوڑوی نے اس پہلو پر تفصیلی گفتگو کی ہے وہ فرماتے ہیں،

کسی امر کے ثابت کرنے کے لیے منجملہ دلائل کے ایک دلیل تو اتر کی ہے، قصیدہ غوثیہ علی التواتر حضرت شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز سے منسوب ہے، نام مالک میں مسلمانان عقیدت مندا اس کا وظیفہ کرتے ہیں اور میں نے عربوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ حلقہ متلقین میں اس کے درد سے محفوظ ہوتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس قصیدہ شریفہ کے یمن سے صلہ اور زہاد مستقیض ہوتے رہے ہیں پس اس تو اتر کی موجودگی میں اس سے انکار ہرایت کا انکار ہے۔

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَعْيَانِ شَيْءٌ  
إِذَا اُحْتَاجَ النَّهَارُ الْحَبْلَ

اگر دن کا اثبات بھی محتاج دلیل ہو تو پھر حقائق میں سے کوئی حقیقت بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ نیز جزئیات اس کے وظیفہ سے عقیدت کی نشان و مخلصان کے دل پر ظاہر ہوتی ہیں وہ یقینی نشانات اس امر کی ہیں کہ یہ قصیدہ بلا شک و شبہ حضرت قدس اللہ سرہ کے افادات سے ہے، شک کے رفع کرنے کے لیے اس کا ورد کرنا چاہیے اس کی تاثیر سے یقین حاصل ہوگا کہ یہ لاریت حضرت کا کلام ہے

مقدمہ الجواہر المفیہ (نوری بک ڈپو، لاہور) ص ۶-۳۰

الزمزمۃ القرطیہ ص ۳-۲

الجواہر المفیہ (نوری بک ڈپو، لاہور) ص ۳-۶۲

۱۔ محمد موسیٰ امیر تسری، حکیم :

۲۔ احمد رضا بریلوی، ام :

۳۔ محمد عبدالمالک کھوڑوی، علامہ :

منکرین اس موقع پر چند شبہات پیش کرتے ہیں۔

۱۔ اس قصیدہ میں انہماک فخر کیا گیا ہے

مولانا علامہ عبدالملک کھڑوی فرماتے ہیں:

یہ سوال عدم تدبر کی وجہ سے ہے اَلْاَعْمَالُ بِالْاَعْيَانِ اگر انہماک واقعہ بارادہ شکر نعمت

ہے تو اتباع آیۃ کریمہ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّ نِعْمَتَكُمْ اور نیز ادلیار اللہ بعض مطالب کا

اس لیے انہماک کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں، انہماک معجزات و کمالات کی یہی غرض ہوتی ہے

حضرت کا اپنے مدارج کو ظاہر کرنا اس غرض سے ہے کہ لوگ مطلع ہوں اور ان کے علوم سے

فائدہ اٹھائیں۔

۲۔ بعض ایسے امور اپنی طرف منسوب کیے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ علامہ کھڑوی لکھتے ہیں:

یہ سوال کچھ حقیقت نہیں رکھتا، ان تمام امور کے بعد حضرت نے بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰی تَعَالٰی کی

قید لگائی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے اذن سے ہوتا ہے، پس خوارق کی نسبت خدا کی طرف سے

نہ حضرت کی طرف سے۔

۳۔ صرف و نحو اور عروض کے اعتبار سے اس قصیدہ پر اعتراضات ہیں۔ علامہ کھڑوی فرماتے ہیں:

اعتراضات عروض و صرف و نحو جس قدر ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ہم نے ہر ایک

کا جواب اپنے اپنے محل پر فصیحانہ عرب کے کلام سے دیا ہے، دراصل یہ اعتراض

وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دائرہ وسعت علم تنگ ہے اور کلام عرب پر پورا پورا

مجوز نہیں رکھتے۔

۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۹ء میں حضرت مولانا شاہ محمد ابراہیم قادری حیدر آبادی نے امام احمد رضا بریلوی کو ایک عربیہ

ارسال کیا کہ مولانا علامہ وکیل احمد سکندر پوری قصیدہ غوثیہ کی شرح لکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس کی عربیت پر معترض

ہیں ان کا رد کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نے اس کے جواب میں ایک

رسالہ تحریر فرمادیا:

الجواب المفسر ص ۶۵

۱۔ محمد عبدالملک کھڑوی علامہ:

ص ۶۵

۲۔ ایضاً:

ص ۶۳

۳۔ ایضاً:

الزَّمَنَةُ الْقُمْرِيَّةُ فِي الدَّيْتِ عَنِ الْخَمِيرَةِ

قصیدہ خمریہ (غوثیہ) کے دفاع میں قسمری کا ترانہ

اس رسالہ مبارکہ میں انہوں نے دس نکات تحریر فرمائے کہ اکابر علماء کرام سے بعض اوقات لفظی تسامحات صادر ہو جاتے ہیں جو ان کی عظمت شان کے خلاف نہیں ہوتے، آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ سب اس تقسیم پر مبنی ہے کہ قصیدہ ہمد کہ میں قوانین عربیہ سے مخالفتیں واقع ہیں۔

مگر ابھی تو ہمیں حضرت معترض کی مزاج پرسی کرنی ہے، ذرا مہربانی فرما کر اپنے اعتراضات تفصیلی سے اطلاع دیں اور اس وقت جواب تفصیلی کے مرتبے میں ہم پر ہمارے آقا کا فیضان دیکھیں — ہاں ہاں اصلانہ مشربائیں، جہاں تک اعتراض خاطر میں آئیں سب ایک ایک کر کے بیان فرمائیں کچھ اٹھا رکھنے کی تحکیم ہرگز نہ اٹھائیں گے

کچھ لگ سکتے ہیں کہ یہ حالت سکر کا کلام ہے، ان پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

رب عز وجل نے حضور (غوث اعظم) کو شیطانیات سکر سے محفوظ رکھا اور حضور کے اقوال و افعال و احوال سب کو ایسے وقت و اقتضائے سنت کا مرتبہ بخشا، نہیں کہتے جب تک کھلوانے نہ جائیں اور نہیں کرتے جب تک اذن نہ پائیں گے

سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں

خضر کے ہوش سے پرچے کوئی رتبہ تیرا

## اولادِ امجاد

حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انعامات کی طرح کثرتِ اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے تائیس لڑکے اور بائیس لڑکیاں تھیں۔ امام سہروردی فرماتے ہیں کہ بعض صالحین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا، تو

الزمرۃ القریہ (حزب الاخاف، لاہور) ص ۳۱

۱۔ احمد رضا بریلوی، ام :

ص ۱۵

۲۔ ایضاً :

مدائق بخشش (مع ادبی جائزہ) ص ۲۳۹

۳۔ ایضاً :

آپ نے فرمایا میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرمایا کہ میں ایک مدت تک نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وقت کے مقرر ہونے کے خوف سے جرات نہیں کرتا تھا، میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آگیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیویاں عطا کیں جنہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے مجھ پر خرچ کیا۔

حضرت شیخ کے تمام صاحبزادے علم و عمل، تقویٰ و معرفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ چند صاحبزادوں کا ذکر بطور تبرک کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ کی اولاد اور ان کی تفصیل قلائد الجواہر میں ملاحظہ کی جائے۔

**شیخ عبد الوہاب:**

ولادت: ۵۲۲ھ/۱۱۲۸ع — وصال ۵۹۳ھ/۱۱۹۷ع

والد ماجد دیگر علماء سے علم حاصل کیا اور ۵۴۳ھ/۱۱۴۹ع میں والد گرامی کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے  
**شیخ عیسیٰ:**

سن ولادت معلوم نہ ہو سکا۔ وفات ۵۷۳ھ/۱۱۷۸ع

والد ماجد اور ابراہیم بن ضراب سے استفادہ کیا، پہلے بغداد میں اور والد گرامی کے وصال کے بعد مصر میں درس حدیث، وعظ اور افتاء کے فرائض انجام دیے، ان کے مواعظ کو قبولیت عامہ حاصل تھی، علم تصوف میں جواہر الاسرار و لطائف الانوار وغیرہ کتب کے مصنف تھے۔

**شیخ ابوبکر عبد العزیز:**

ولادت ۵۳۲ھ/۱۱۳۸ع — وفات ۶۰۲ھ/۱۲۰۵ع

والد ماجد کے ملاوہ ابن منصور عبد الرحمن سے علم حاصل کیا، درس حدیث اور وعظ کے ذریعے دین میں کی خدمت کی متعدد حضرات آپ سے پڑھ کر فارغ ہوئے۔ خوب صورت اور متواضع تھے۔ ۵۸۰ھ/۱۱۸۵ع میں عسقلان کی جنگ میں شرکت کے بعد جبال چلے گئے اور وہیں وصال ہوا۔

**شیخ عبد الجبار:**

۵۷۵ھ/۱۱۸۰ع میں جوانی کے عالم میں وصال ہوا

والد ماجد، ابوسعود اور قزاز وغیرہم سے استفادہ کیا، طریق صوفیہ پر گامزن تھے، اہل دل کی ہمنشینی میں رہتے آپ کا خط بہت عمدہ تھا۔

## شیخ عبد الرزاق :

ولادت : ۵۲۸ھ / ۱۱۳۲ع — وصال ۹۰۳ھ / ۱۲۰۷ع

والد مکرم اور ابراہیم ابنی خرمادغیر ہمارے علم حاصل کیا، مدرس، محدث، مناظر، مفتی اور خلیفہ تھے، علماء کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے استفادہ کیا۔

## شیخ محمد :

وصال ۹۰۰ھ / ۱۲۰۲ع اپنے دور کے محدث تھے، مقبرہ علیہ میں مزار بنایا گیا۔

ان کے علاوہ شیخ عبد اللہ ولادت ۵۰۸ھ / ۱۱۱۲ع وصال ۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ع، حضرت شیخ یحییٰ ولادت

۵۵۰ / ۱۱۵۵ع وصال ۹۰۰ھ / ۱۲۰۲ع، حضرت غوث اعظم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، اور شیخ موسیٰ

ولادت ۵۳۹ھ / ۱۱۴۲ع وصال ۶۱۸ھ / ۱۲۲۱ع بھی اپنے دور کے اجلہ علماء، محدثین اور رہبرانِ طریقت میں سے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

## وصال

چالیس سال تک شریعت و طریقت کے دریاؤں سے غرق خدا کرلیض یاب فرماتے، دین متین اور ملک اہل سنت کا علم لہرانے کے بعد آخر وہ ساعت آہنچی کہ زمانے کا غوث اعظم، قطب الاقطاب، فرد الافراد، الباز الاشہب، حسب وعدہ النبی موت کے دروازے سے ہوتا ہوا محبوب حقیقی جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ علامہ تاذنی نے تاریخ وصال کے بارے میں دو روایتیں بیان کی ہیں۔

لیلة السبت ثامن شهر ربيع الاخر سنة احدى وستين

خمسائة

۸ ربيع الآخر، ہفتہ کی شب ۵۶۱ھ / ۱۱۶۶ع کو وصال ہوا

دوسری روایت بقول ابن نجار اور محمد زہبی یہ ہے :

لیلة صبيحتها السبت عاشر ربيع الاخر سنة احدى وستين

وخمسائة

تقلاً ما جواہر ص ۲۲-۲۳

۱۔ محمد بن یحییٰ تاذنی، علامہ

۱۳۳۵ھ

۲۔ ایضاً :

ہفتہ کی شب دس ربیع الآخر ۵۶۱ھ / ۱۱۶۶ء

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہجرت الاسرا سے تاریخ وصال کی تاریخ ۹ ربیع الآخر نقل کی ہے اور فرمایا اس روایت کے اعتبار سے عرس کی تاریخ ۹ ربیع الآخر ہوگی، ہمارے شیخ عبدالوہاب قادری متقی اسی تاریخ کو عرس کیا کرتے تھے، مزید فرماتے ہیں:

ہمارے علاقہ (ہندوستان) میں گیارہ تاریخ کو عرس قادری منایا جاتا ہے، یہی ہمارے شاخ ہند کے نزدیک معروف ہے جو سیدنا غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح ہمارے شیخ سید موسیٰ حسنی، جیلانی نے اوراد قادریہ سے نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے راتوں رات حضرت کی تجویز تکفین کا اہتمام کیا گیا، آپ کے فرزند ارجمند حضرت شیخ عبدالوہاب نے حضرت کی اولاد، خلفاء اور تلامذہ کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھائی اور مدرسہ قادریہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنائی گئی، جو مخلق اس قدر زیادہ تھا کہ مدرسہ کا دروازہ بند کرنا پڑا، صبح جب دروازہ کھولا گیا تو عقیدت مند جو ق درجوق حاضر ہونے لگے اور آج تک آپ کا مزار پر انوار مرجع خلافت ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے دم قدم سے بغداد مقدس کو چار چاند لگ گئے تو کچھبالغہ نہ ہوگا۔

نائب رحمت خلیفہ کردگار شہر بغداد است ازو سے نو بہار

من غریبم از بیاباں آمدہ بر امید لطف سلطان آمدہ

مرآۃ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہے:

گیارہ تاریخ کو بادشاہ اور اکابرین شہر حضرت غوث اعظم کے مزار پر جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قصائد مدحیہ اور وہ کلام مغرب تک مزامیر کے بغیر پڑھتے ہیں جو حضرت غوث نے غلبہ حالات میں فرمایا ہے اور شوق انگیز ہے، مغرب کے بعد صاحب سجادہ دریا میں اور مریدین ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں صاحب حلقہ کھڑے ہو کر ذکر جہر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، یا کچھ مناقب پڑھ جاتے ہیں، پھر جو طعام یا شیرینی بطور نیاز حاضر ہو وہ تقسیم کی جاتی ہے اور لوگ نماز عشاء پڑھ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔

ما ثبت من السنة (ادارہ تعلیمہ رضویہ، لاہور) ص ۲۲۲

قلائد الجواہر ص ۱۳۴

ملفوظات فارسی (مطبع مجتبیٰ، میرٹھ) ص ۶۲

۱۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق

۲۔ محمد بن یحییٰ تاذفی، علامہ

۳۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ

گیا رہیں شریف ایصالِ ثواب کا نام ہے اور ایصالِ ثواب کے جائز اور مستحسن ہونے میں اہل سنت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، رہا تاریخ کا تعین تو وہ تعین شرعی نہیں ہے کہ اس سے آگے پیچھے جائز نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کسی بھی تاریخ کو ایصالِ ثواب کا اہتمام کریں اسے گیا رہیں شریف ہی کہتے ہیں، یہ تعین عرفی ہے تاکہ احباب کو جمع ہونے میں سہولت رہے۔

## صلوۃ غوثیہ

محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی اور مترجیح اولیاء ہیں، ان کے وسیلے سے دُعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔  
سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں :

من استغاث بی فی کربة کشف عنه ومن نادانی باسعی فی شدة فرجت عنه ومن توسل بی الی اللہ عزوجل فی حلجة قضیت له ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعة بعد الفاتحة سورة الاخلاص احدى عشرة مرة ثم یصلی علی رسول اللہ بعد السلام ویسلم علیہ ویذکر فی ثم یخطو الی جهة العراق احدى عشرة خطوة ویذکر اسمی ویذکر حاجتہ فانها تقضی باذن اللہ لہ جو شخص کسی تکلیف میں میرے وسیلے سے امداد کی درخواست کرے اس کی وہ تکلیف دور کی جائے گی اور جو کسی مصیبت میں میرا نام لپکارے وہ مصیبت دور کر دی جائے گی اور جو کسی حاجت میں میرا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی اور جو شخص دو رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر عراق کی جانب گیا رہ قدم چلے، میرا نام لے اور اپنی حاجت بیان کرے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔

اس کے بعد یہ شعر پڑھے :

اَيُّدِكُنِي ضَيِّقُ وَاَنْتَ ذَخِيْرَتِي      وَاطْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَاَنْتَ نَصِيْرِي  
وَعَارُ عَلَيَّ حَامِي الْحَيِّ وَمَوْجِدِي      اِذَا ضَلَّ فِي الْبَيْدَا عَقْلُ بَعِيْرِي  
کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جب کہ آپ میرا ذخیرہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ پر ظلم کیا جائے گا جب کہ آپ میرے  
مددگار ہیں۔

حضرت غوث پاک کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعث عار ہے۔

غور کیا جائے تو صلوة غوثیہ میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ کر میرے دیسے سے بارگاہ الہی میں دُعا مانگو، انہوں نے دعا مانگی تو ان کی بینائی بحال ہو گئی، حضرت عثمان بن حنیف کے فرمانے پر ایک صاحب نے دو رکعتی میں یہی عمل کیا تو ان کا مقصد پورا ہو گیا وہی طریقہ اس جگہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر حضور ﷺ سے توسل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجت برآتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ صلوة غوثیہ کا طریقہ خود سیدنا غوث اعظم نے بیان فرمایا ہے جسے علامہ علی بن یوسف الحنفی الشافعی پیر علامہ محمد بن یحییٰ الذہبی (م ۵۹۲۳) پیر حضرت ملا علی قاری اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور نے شرک کی تعلیم دی ہے تو اس کی مرضی لیکن جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسے جھوٹ قرار دینا بھی محض سینہ زبوی ہے۔

امام احمد رضا بریلوی، حضرت علامہ شطنونی کے بارے میں فرماتے ہیں،

یہ امام ابو الحسن نور الدین علی مصنف بحقہ الاسرار شریف اعظم علماء وائمہ قرآت واکابر اولیاء و سادات طریقت سے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں، امام اہل حضرت ابوصالح نصر قدس سرہ سے فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر تاج الدین عبدالمذاق نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد حضور پرورد سید السادات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

۱۔ محمد بن یحییٰ تافہ فی الجلی، علامہ ۱

۱۰ علی بن سلطان محمد قاری، علامہ،

عبد الحق المحدث العلوم، شیخ محقق،

قلائد الجواهر (مصطفیٰ البابی الحلی، مصر) ص ۳۶

لذتہ خاطر الغاتر، اردو ترجمہ (سنی دارالاشاعت، فیصل آباد) ص ۹،

لہذا الاسرار (مطبع بکسلنگ کینی، بمبئی) ص ۱۰۱

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں یہ کتاب بہجۃ الاسرار کتاب عظیم و شریف و مشہور ہے اور اس کے مصنف علمائے قرارت سے عالم معرفت و مشہور اور ان کے احوال شریفہ کتابوں میں مذکور و مسطور امام شمس الدین ذہبی کہ علم حدیث و اسرار الرجال میں جن کی جلالت شان عالم آشکار اس جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب طبقات المقرین میں ان کے مدائح لکھے۔ امام محدث محمد بن محمد بن محمد بن جوری مصنف حسن حصین اس جناب کے سلسلہ تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مستطاب بہجۃ الاسرار شریف اپنے شیخ سے پڑھی اور اس کی سند و اجازت حاصل کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کہتے ہیں:

ہكذا نقل الشنطوفی و وثقه المحدثون  
اسی طرح شطنوفی نے نقل کیا ہے اور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔

## لمحکمہ مکرمہ

محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی حیات و تعلیمات کا مختصر تذکرہ گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے، آپ کی جلیل القدر اسلامی خدمات کی بنا پر بجا طور پر آپ کو غوثِ اعظم کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں عامۃ المسلمین آپ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور بلاشبہ آپ کی شخصیت، دلوں کی دنیا کی حیات و ادراک میں اسلام کو رونق نازہ دینے کے سبب اس عقیدت کے لائق ہے۔

آپ کی حیات مبارکہ پر ایک اجمالی نظر ڈالیے، عالم شیرخواری میں رمضان شریف میں آپ دودھ نہیں پیتے، ڈاکٹروں کے سامنے سچ بول کر اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں، فرائض شریعت کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ جو فرض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل مقبول نہیں ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اہم ترین فرائض ایمان سے ہے، سیدنا غوثِ اعظم فرماتے ہیں کہ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشبند قدم پر چلا جائے اور فرائض و واجبات کے علاوہ سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے یعنی محبت صرف زبانی جمع خرچ اور لہجے لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت، اسوۂ رسول کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے، اسی طرح پیرانِ پیر محمدی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی محبت اور نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہوں۔

حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں کسی کی محبت یا دشمنی ہو تو اس کے اعمال کو دیکھ، اگر کتاب و سنت کے مخالف ہوں تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت میں بشارت ہے اور اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کے موافق ہیں اور تو اس سے بغض رکھتا ہے تو تجھے جان لینا چاہیے کہ تو اپنی نفسانی خواہش کے تحت اسے دشمن جانتا ہے اور تو ظالم ہے، خدا اور رسول کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس شخص اور دیگر اولیائے محبوبین کی محبت عطا فرمائے، اسی طرح اس شخص کے اعمال کتاب و سنت پر پیش کر جس سے تو محبت رکھتا ہے اگر موافق ہیں تو بہتر ورنہ اس کی محبت کو ترک کر دے۔

غرض میں کہ سیدنا غوث اعظم نے محبت و عداوت کا کیا معیار بیان فرمایا ہے جس شخص کے اعمال کتاب و سنت کے موافق ہوں وہ لائق محبت و تعظیم ہے ورنہ قابل نفرت، اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، واجبات و سنن ادا نہیں کرتے تو کیا ہم محبت کے لائق ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہم سے نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں گے اور نہ ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوں گے۔

حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں:

تَعَصَى الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّه  
هَذَا الْعَمْرُؤُ فِي الْإِنْعَالِ بَدِيعُ  
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ  
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ ۝

۴۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتا ہے اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے۔

۵۔ سبحا ایہ کردار بہت ہی عجیب ہے

۶۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کا حکم ماننا

۷۔ محب تو اپنے محبوب کا فرماں بردار ہوتا ہے

کچھ تراجم کے بارے میں

الفتح الربانی کے متعدد تراجم چھپ چکے ہیں، پیش نظر ترجمہ فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی

قدس سرہ کا ہے، ذیل میں ان کا مختصر تذکرہ ہدیہ ناظرین ہے

مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی، بدایوں (انڈیا) میں پیدا ہوئے، سال ولادت معلوم نہ ہو سکا۔ مدرسہ العلوم، بدایوں میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا محب احمد قادری بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ سے درس نظامی کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۴ء میں آپ کے والد ماجد کے رفیق درس مولانا سید عبدالصمد پھچوندوی نے اپنے فرزند مولانا سید مصباح الحسن کی تعلیم کے لیے پھچوند، ضلع اٹواہ بلاکر اپنی خانقاہ میں مدرس رکھا، ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء میں مجبئی گئے اور مسجد کھڑک محلہ قصاباں کے امام اور مفتی مقرر ہوئے ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء تک وہیں تھے جب فتح الربانی کا ترجمہ چھپا۔ بعد ازاں ۵۵ سالہ محلو ۱۳۳۶ء میں نواب غلام محمد حافظی، رئیس دادول، علی گڑھ کے مدرسہ دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں صدر مدرس رہے پھر شدید علالت کے سبب واپس بدایوں آ گئے اور طویل عرصہ مدرسہ العلوم میں درس رہے۔

طویل علالت کے بعد اسی سال کی عمر میں ۵ ربیع الاول ۱۳۴۷ھ/۱۹۵۶ء بروز جمعرات داخل بحق ہوئے، درگاہ قادری کے قبرستان میں آپ کا مزار بنا۔

حضرت تاج الفحول مولانا شاہ عبد القادر بدایونی قدس سرہ کے مرید اور حضرت شاہ طبع الرسول مولانا محمد عبدالمقتر بدایونی اور حضرت سید مرتضیٰ حموی رحمہما اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے۔

مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری کی تصانیف میں سے صرف فتح الربانی کے ترجمہ کا پتہ چلتا ہے، ٹائٹل پر اصل کتاب کا نام ملفوظ کبیر اور ترجمہ کا نام سیمف و سنگیر لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ماہ شوال ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں چار حصوں میں چھپا۔ کچھ حصوں کا ترجمہ بین السطور اور بعض حصوں کا ترجمہ ایک کالم میں تھا۔ دوسرے کالم میں عربی متن تھا۔

اب بحمدہ تعالیٰ چوں سال کے بعد فرید بک سٹال، لاہور نے نئی کتابت اور پوری آب و تاب کے ساتھ شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اردو ترجمہ کے قدیم رسم الخط کی اصلاح بھی کر دی گئی ہے اور ابتدا میں تقدیم کا اضافہ بھی کیا گیا ہے یہ نسخہ پروفیسر محمد ایوب قادری کراچی کے توسط سے دستیاب ہوا، قادری صاحب ۲۳ نومبر ۱۹۸۳ء کو ایک ایکٹڈنٹ میں جال کٹی ہو گئے تھے۔

بارگاہ الہامی میں دعا ہے کہ اس مبارک کتاب اور اس کے ترجمہ سے عامۃ المسلمین کو نفع عطا فرمائے اور انحطاط پذیر قوم کو دوبارہ شاہراہ ترقی پر گامزن فرمائے۔ آمین بحمدہ سید الانبیاء والمرسلین!

وَمَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ  
وَأَلِيهِ وَأَصْحَابِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ  
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ



محمد عبد الحکیم شرف قادری

جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ، لاہور

پاکستان

۱۴ شعبان ۱۴۰۵ھ

۷ مئی ۱۹۸۵ء



بہتر نام کے بارے میں

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### نسب نامہ سردار اولیاء اللہ عزوجل

شیخ ابو محمد زندہ کرنے والے مذہب و شریعت اور  
طریقت و حقیقت اور دین کا جن کا نام سید عبدالقادر  
ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ہم سے ان کو راضی کرے  
اور ہم کو ان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ صاحبزادے ابو  
صالح موسیٰ جنگی دوست کے، وہ صاحبزادے عبداللہ جلی کے  
وہ صاحبزادے یحییٰ زاہد کے، وہ صاحبزادے محمد کے،  
وہ صاحبزادے داؤد کے، وہ صاحبزادے موسیٰ ثانی کے، وہ  
صاحبزادے عبداللہ ثانی کے، وہ صاحبزادے موسیٰ جون کے  
وہ صاحبزادے عبداللہ محض کے، وہ صاحبزادے حسن ثانی کے  
وہ صاحبزادے امام حسن کے، وہ صاحبزادے حضرت علی ابن  
ابی طالب کے کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہم۔

### نسب سید اولیاء اللہ عزوجل

الشَّيْخُ اَبِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ الْمُحِی الْمَلَّةِ وَ الشَّرِیْعَةِ  
وَ الطَّرِیْقَةِ وَ الْحَقِیْقَةِ وَ الدِّیْنِ السَّیِّدِ  
عَبْدُ الْقَادِرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اَرْضَا لَعَنَّا  
وَ لَا حَرَمْنَا مِنْ اَبْرَكَاتِهِ بَنِ اَبِی صَالِحٍ مُّوسَى  
بَحْنِیْ دَوَسْتِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَلِیْلِیِّ بَنِ یَحْیٰی  
الرَّاهِدِیِّ بَنِ مُحَمَّدِیِّ دَاوُدِیِّ مُوسَى  
الشَّارِیِّ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّارِیِّ بَنِ مُوسَى  
الْجَوْنِیِّ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَحْضِیِّ بَنِ الْحَسَنِ  
السُّنْتِیِّ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِیِّ ابْنِ اَبِی  
طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَ رَضِیَ اللّٰهُ  
عَنْهُمْ۔

۱۔ آپ کی ولادت شریف آخر شعبان ۷۸۷ھ میں واقع ہوئی جو لفظ عاشق سے ہویدا ہے۔ کیا نوے برس کی عمر شریف ہوئی جو  
لفظ کمال سے ظاہر ہے۔ ماہ ربیع الثانی شریف ۷۸۷ھ میں وفات پائی۔ مادہ تاریخ وصال مشوق الہی ہے۔

(مترجم قادری غفرلہ)

۲۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ہے اور آپ کا سلسلہ حسی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ثانیہ بنت عبداللہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہما کے  
ذریعہ سے حسینی ہے پس آپ نبا و حبا حسنی و حسینی ہیں فاطمہ دختر ابو عبداللہ موسیٰ ابن ابو جمال ابن سید محمد ابن سید ابو محمد ابن سید  
طاہر ابن سید ابو عطار ابن سید عبداللہ ابن سید ابوالکمال ابن سید علی ابن ابو علاؤ الدین ابن سید محمد ابن سید علی ابن امام جعفر صادق ابن امام  
محمد باقر ابن امام علی زین العابدین ابن امام حسین ابن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم (مترجم قادری غفرلہ)

## المَجْلِسُ الْأَوَّلُ

### پہلی مجلس

حضور غوثِ اعظم شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر  
رضی اللہ عنہ وارضاه عنا ولا حرمنا من برکاتہ نے بوقت  
صبح اتوار کے دن تیسری شوال ۵۴۵ھ ہجری کو  
خاندانہ شریفیت میں ارشاد فرمایا :

قَالَ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ  
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
وَارْضَاهُ عَنَّا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ أَمْوَاجِهِ بَكْرَةً  
يَوْمَ الْأَحَدِ بِالرِّبَاطِ ثَلَاثَ شَوَّالٍ سَنَةِ  
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ

اعتراض کرنا بندہ کا حق تعالیٰ پر جو عزت و جلال والا ہے امور تقدیریہ  
کے نازل ہونے کے وقت (خواہ وہ امر خیر ہو یا شر) دین و توحید،  
خدا کا ایک جاننا، توکل و بصیرت و اخلاص، یقین و روح کی موت  
بندہ مومن چون و چرا دیوں اور کس واسطے نہیں جانتا بلکہ وہ صرف ہاں  
کتا ہے اور تسلیم جھکا دیتا ہے نفسِ کلیتہً مخالفت کرنے والا  
جھگڑا رہے پس جو شخص نفس کی اصلاح چاہے پس وہ نفس سے جہاد  
کرے یہاں تک کہ نفس کی بُرائی دور ہو جائے۔ نفسِ کلیتہً شر ہی شر  
ہے۔ پس جب وہ شقت میں ڈالا جائیگا اس کی مخالفت کی جائیگی  
اطمینان والا ہو جائیگا اور کلیتہً خیر ہی خیر والا ہو کر تمام عبادتوں کے  
کرنے اور تمام گناہوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کر نیوالا ہو جائیگا  
پس ایسے وقت نفس سے کہا جاتا ہے ایتنا اے اطمینان والے  
نفس اپنے پروردگار حق تعالیٰ کی طرف رجوع کر الایۃ اور نفس کا توکل (بھروسہ)  
صحیح ہو جاتا ہے اور اس سے شک و شبہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ  
کسی طرح غلو قات سے ضرر کے ساتھ یا بحالتِ ضرر و مصیبت لگاؤ  
(تعلق نہیں رکھتا) سب مشابہت اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام  
سے پس برحق وہ اپنے نفس سے نکل گئے تھے اور روحانزدیک  
مولیٰ تعالیٰ کے باقی تھے اور آپ کا قلب منور سکون والا تھا آپ کے  
پاس وقت امتحان و بلا قسم قسم کے مخلوقات آئے اور سب نے

الْأَعْتَرَضَ عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ نَزُولِ  
الْأَقْدَارِ مَوْتِ الدِّينِ مَوْتِ التَّوْحِيدِ مَوْتِ  
التَّوَكُّلِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالرُّوحِ  
الْمُؤْمِنِ لَا يَعْرِفُ لِمَا وَكَيْتَ بَلْ يَقُولُ بَلَى  
النَّفْسُ كُلُّهَا مُخَالَفَةٌ مُنْكَرَةٌ فَكَمَنْ  
أَرَادَ صَلَاحَهَا فَلْيُجَاهِدْهَا حَتَّى يَزُولَ  
شَرُّهَا كُلُّهَا شَرٌّ فِي شَرٍّ فَإِذَا جُوهِدَتْ  
وَأُطَاعَتْ صَارَتْ كُلُّهَا خَيْرًا فِي خَيْرٍ  
تَصِيرُ مَوَافِقَةً فِي جَمِيعِ الطَّاعَاتِ وَ  
فِي تَرْكِ جَمِيعِ الْمَعَاصِي فَحِينَئِذٍ يُقَالُ  
لَهَا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ ارْجِعِي  
إِلَى رَبِّكِ بِصِرْتِكِ لَهَا تَرَكَّ كُلُّهَا وَيَزُولُ  
عَنْهَا شَكُّهَا وَلَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِمَّنْ  
الْمَخْلُوقَاتِ بِصِرْتِ تَشَبُّهًا مِنْ آيَةِ جِبْرِائِيلَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ خَرَجَ عَنْ نَفْسِهِ  
وَبَقِيَ رُوحًا عِنْدَ الْمَوْلَى وَقَلْبُهُ سَاكِنٌ  
وَجَاءَهُ أَنْوَاعُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَ  
عَرَضُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهِ فِي مُعَاوَنَتِهِ

وَهُوَ يَقُولُ لَا أُرِيدُ مَعُونَتَكُمْ وَعَلَيْهِ  
يَعَالِي يُعِينُنِي عَنْ سُؤَالِي لَمَّا صَحَّ تَسْلِيمُهُ  
وَتَوَكَّلَهُ قِيلَ لِلَّهِ أَمْرٌ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا  
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَعُونَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لِلصَّابِرِ مَعْنَىٰ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ حِسَابٍ  
وَيُعِينُهُ فِي الْآخِرَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ  
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ  
اللَّهِ شَيْءٌ يُعِينُهُ مَا يَتَحَمَّلُ الْمُتَحَمِّلُونَ  
مِنْ أَجَلِهِ تَعَالَىٰ أَصْبِرُوا مَعَهُ سَاعَةً  
وَقَدْ رَأَيْتُمْ لُطْفَهُ وَالْعَامَّةُ سِينِينَ  
الشُّجَاعَةُ صَبْرُ سَاعَةٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ ۚ بِالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ أَصْبِرُوا  
مَعَهُ وَانْتَبِهُوا لَهُ وَلَا تَفْعَلُوا عَنَّهُ  
لَا يَكُونُ إِنْتَبَاهُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ  
فَاتَّه لَا يَنْفَعُكُمْ إِلَّا نِتَابُهُ فِي  
ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْتَبِهُوا لَهُ قَبْلَ  
الْقَائِمِ إِنْتَبِهُوا قَبْلَ أَنْ تَنْتَبِهُوا بِلَا  
أَمْرِكُمْ فَتَنْدَمُوا وَقَتًا لَا يَنْفَعُكُمْ  
الْتِمَامُ وَاصْبِرُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهَا إِذَا  
صَلَحَتْ صَلَحَ لَكُمْ سَائِرُ أَحْوَالِكُمْ  
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي ابْنِ آدَمَ مُصْغَةً إِذَا صَلَحَتْ  
صَلَحَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ  
فَسَدَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ أَلَا وَهِيَ

آپ کی مدد کے لیے اپنے نفوس کو آپ پریش کیا آپ تو کلاً برضا  
الہی ہی فرماتے ہیں میں تم سے مدد لینا نہیں چاہتا میری حالت کا  
علم میرے مالک کو تم سے مجھے سوال و استمداد سے بے پروا کر  
رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا توکل و تسلیم برضا الہی درست  
ہوا۔ نار غم و دسہ جس میں آپ کو ڈال گیا تھا کہہ دیا گیا یا نار کوئی  
الایۃ اللہ تعالیٰ کی مدد مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں  
بغیر حساب ہے اس کا شمار نہیں اور اللہ تعالیٰ صابروں کو آخرت میں  
بے تعدد اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الایۃ جزا بنیت  
کو پورے کیے جائیں گے۔ صابر اپنے اجر کو یعنی اتنا ثواب پائیں گے جب کا کوئی  
حساب نہیں الایۃ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز نہیں ہے سب اسکے پیش نظر ہے جو کچھ اس کے واسطے  
برداشت کرنا پڑے برداشت کرتے ہیں وہ سب کو جاتا ہے تم اس کے ساتھ  
نزول مصیبت پر ایک ساعت صبر کر دینا تحقیق تم نے اس کے  
لطف و کرم کو برسوں دیکھا ہے۔ بہادری حقیقت یہی صبر ایک سانس  
کا ہے بیشک اللہ تعالیٰ مدد اور فتح کے ساتھ صابر لوگوں کا ساتھی  
ہے تم اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس کے واسطے خبردار و ہوشیار  
ہو جاؤ اور اس سے غفلت نہ کرو۔ تمہاری بیداری و ہوشیاری موت  
کے بعد نہ ہو کیونکہ اس وقت کی بیداری بے فائدہ ہوگی بقیہ نہ دیگی  
تم اس سے مٹنے سے پہلے اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اس سے  
پہلے کہ تم مجبوراً بلا اپنے ارادہ و قصد کے بیدار کیے جاؤ بیدار ہو جاؤ  
پس تمہارا ایسے وقت نام و نشان ہونا نفع نہ دے گا۔ سوچاؤ اپنے  
دلوں و قلوب کی درستگی کرو یہ تحقیق جب تمہارے قلب درست  
ہو جائیں گے۔ تمہاری تمام حالتیں درست ہو جائیں گی اور اسی واسطے  
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا  
ہے۔ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام بدن صالح  
و درست ہو جاتا ہے اور جب وہ غراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے

الْقَلْبُ صَلَاحُ الْقَلْبِ بِالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّلِ  
عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّوَحُّدِ بِمَا  
الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ وَفَسَادُهَا  
بِعَدَمِ ذَلِكَ الْقَلْبُ طَائِرٌ فِي قَفْصِ  
الْبَيْتَةِ كَمَا تَرَاهُ فِي حَقِيقَةِ كَمَالِ  
فِي خِزَانَةٍ فَإِلَّا عَتَبَا فِي الظَّلَامِ  
لَا بِالْقَفْصِ بِالذُّرَّةِ لَا بِالْحَقِيقَةِ بِاللَّامِ  
لَا بِالْخِزَانَةِ.

اللَّهُمَّ اشْغُلْ جَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ  
وَنُوسَ قُلُوبَنَا بِمَعْرِفَتِكَ وَاشْغُلْنَا  
طُولَ حَيَاتِنَا فِي لَيْلِنَا وَنَهَارِنَا بِمَرَاتِبِكَ  
وَالْحَقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ  
وَأَسْرَدْنَا كَمَا سَرَدْتَهُمْ وَكُنْ لَنَا  
كَمَا كُنْتَ لَهُمْ - آمِينَ -

يَا قَوْمُ كُونُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا  
كَانَ الصَّالِحُونَ لَهُ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ  
كَمَا كَانَ لَهُمْ إِنْ أَسْرَدْتُمْ أَنْ يَكُونَ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ فَاشْتَغِلُوا بِطَاعَتِهِ  
وَالصَّبْرِ مَعَهُ وَالرِّضَا بِأَفْعَالِهِ فِيكُمْ  
وَفِي غَيْرِكُمْ الْقَوْمُ زَهْدًا فِي الدُّنْيَا وَ  
أَخْذًا أَقْسَامَهُمْ مِنْهَا بِبِدَى التَّقْوَى  
وَالْوَرَعِ تَمَّ طَلَبُوا الْآخِرَةَ وَعَمِلُوا أَعْمَالَهَا  
عَصَوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَطَاعُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ  
فَعَطَّوْا أَنْفُسَهُمْ ثُمَّ وَعَطَّوْا أَنْفُسَ غَيْرِهِمْ  
يَا غُلَامِ عِظْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَعِظَ

تمام بدن خراب و فاسد ہو جاتا ہے خبردار ہو جاؤ وہ مضاعف گوشت دل  
ہے قلب کی درستگی و ناساتگی اللہ عزوجل پر تقویٰ (پرہیز گاری خوف)  
اور توکل اور اقرار و صداقت اور اخلاص فی العمل کے ساتھ ہے (ہر  
عمل خدا کے واسطے ہی ہو رہا ہے دور) اور اس کی خرابی ان امور کے  
نہ ہونے سے ہے قلب بدن کے پیچھے میں ایک پرندہ ہے جیسے  
موتی ڈبے میں جیسے مال خزانہ میں پس اعتبار ساتھ پرندہ کے ہے  
نہ پیچھے کے ساتھ موتی کے ہے نہ ڈبے کے ساتھ مال کے ہے نہ  
خزانے کے

اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعضاء کو اپنی طاعت و عبادت میں  
مشغول کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے ساتھ منور کر دے  
اور ہمیں زندگی بھر بات و دل اپنے مراقبہ میں مشغول اور کھڑا ہوا رکھو  
ان نیک بندوں کے ساتھ ہم کو ملانا جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم کو  
دلیا ہی رزق و حصہ دے جیسا ان کو دیا اور ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ہو  
جیسا کہ تو ان کا ہو گیا تھا۔ آمین

اے میری جماعت! اے اللہ عزوجل کے لیے ویسے ہی بن جاؤ  
جیسے صالح بندہ خدا کے تھے تاکہ خدا بھی تمہارے لیے ویسا ہی ہو جائے  
جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ عزوجل تمہارا  
ہو جائے پس تم اس کی طاعت میں مشغول رہو اور اس کی بلا پر صابر و متواضع  
اپنے اور اپنے غیر کے تمام فعلوں میں راضی و رضا والی رہو جماعت! والوں و اولاد  
تھے دنیا میں بے رغبتی کی اور اپنے حصے دنیا سے تقویٰ اور ورع پر تیار  
کے ہاتھوں سے لیے پھر آخرت کو طلب کیا اور اس کے عمل کیے  
اپنے نفسوں کی نافرمانی کی اور اپنے رب عزوجل کی طاعت کی اولاد  
انہوں نے اپنے نفسوں کو نصیحت کی پھر غیروں کے نفسوں کو نصیحت  
فرمائی۔

اے غلام! عاجز و ناتوان پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر پھر غیر کے

نَفْسٌ غَيْرَكَ عَلَيْكَ بِخَوَاصِّهِمْ فَفَسِكَ  
 لَا تَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِكَ وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَكَ  
 بَقِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى إِصْلَاحِهَا - وَبِحَاكَ أَنْتَ  
 تَعْرِفُ كَيْفَ تَخْلُصُ غَيْرَكَ أَنْتَ أَعْمَى  
 كَيْفَ تَقُودُ غَيْرَكَ إِنَّمَا يَقُودُ النَّاسُ الْبَصِيرُ  
 إِنَّمَا يُخْلَصُ هُمْ مِنَ الْبَحْرِ السَّابِغِ الْمَحْمُودِ  
 إِنَّمَا يُودُّ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَرَفَهُ  
 أَمَّا مَنْ جَهِلَهُ كَيْفَ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ  
 لَكَ حَتَّى تَعْرِفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتُحِبَّهُ وَ  
 تَعْمَلَ لَهُ لَا لَغَيْرِهِ وَتَخَافَ مِنْهُ لَا مِنْ  
 غَيْرِهِ هَذَا بِالْقَلْبِ يَكُونُ لَا يَلْقَاقُ  
 اللِّسَانَ هَذَا فِي الْخَلْقِ لَا فِي الْجَلْوَةِ إِذَا  
 كَانَ التَّوْحِيدُ بَابَ الدَّارِ وَالشِّرْكَ دَاخِلَ  
 الدَّارِ فَهُوَ التَّفَاقُّ بِعَيْنِهِ وَبِحَاكَ أَنْتَ  
 لِسَانُكَ يَتَقَرَّبُ وَقَلْبُكَ يَفْجُرُ لِسَانُكَ يَشْكُرُ  
 وَقَلْبُكَ يَعْتَرِضُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ  
 خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ  
 وَبِحَاكَ تَدَارَعِي أَنْتَ عَبْدٌ عَلَى  
 الْحَقِيقَةِ وَتُطِيعُ عِدُوًّا لَوْ أَنَّكَ عَبْدٌ  
 عَلَى الْحَقِيقَةِ لَعَادَيْتَ فِيهِ وَوَلَيْتَ وَ  
 الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لَا يُطِيعُ نَفْسَهُ وَشَيْطَانَهُ  
 وَهُوَ لَا لَا يَعْرِفُ الشَّيْطَانَ حَتَّى يُطِيعَهُ  
 لَا يُبَالِي بِالْأَلْبَابِ حَتَّى يَدُلَّ لَهَا بَلْ  
 يُهْلِكُنَهَا وَيَطْلُبُ الْآخِرَى فَيَا ذَا  
 حَصَلَتْ لَهَا تَرْكُهَا وَاتَّصَلَ

نفس کو نصیحت کر اپنے نفس کو خصوصیت کے ساتھ لازم پکڑ اس کی اصلاح  
 کر تو غیر کی طرف متوجہ نہ ہو جب تک کہ تیرے پر اس کوئی ایسی شے  
 باقی ہو جس کی اصلاح کی تجھے خود حاجت ہو۔ تجھ پر افسوس کہ تو خود اپنا  
 ہے دوسرے کی کیا راہنمائی کرے گا اس کا کیا قائد بنے گا۔ مینا ہی دیو  
 کا قائد رہنا نہیں سکتا ہے ان کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو اچھا  
 تیرے والا ہو۔ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف وہی لوٹا سکتا ہے  
 جو خود اللہ کو پہچانتا ہو لیکن جو کہ خود اللہ سے جاہل ہو وہ غیر کو اس کی جانب  
 کیسے راہنمائی کر سکتا ہے تیرے لیے کلام و وعظ جائز نہیں جب تک  
 تو خدا کو نہ پہچانے اور اس کو دوست رکھے اور تیرا سر عمل اسی کے لیے  
 ہو نہ غیر خدا کے لیے اور تو اس سے ڈرے نہ اس کے غیر سے کلام و  
 وعظ قلب سے ہوتا ہے نہ سخت آواز نہ تیزی زبان سے یہ غلط تہنائی  
 میں ہوتا ہے کہ جلوت میں ظاہری طور سے جب کہ توحید گھر کے دروازہ  
 پر ہو اور شرک گھر کے اندر پس میرا سر نفاق ہی ہے۔ افسوس  
 تیرے اوپر کہ تیری زبان اظہار تقویٰ کرتی ہے اور تیرا دل فسق و فجور کرتا  
 ہے (یعنی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے) تیری زبان شکر کرتی ہے۔ اور تیرا  
 دل اعتراض کرتا ہے اے بیٹے آدم (علیہ السلام) کے میری نعمت بھلائی میری  
 طرف اُترنے والی ہے اور تیری برائی میری طرف چڑھنے والی۔

تیرے اوپر افسوس کہ تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے  
 اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر تو حقیقتاً اس کا بندہ ہوتا تو  
 تیری دشمنی اور دوستی اسی کے لیے ہوتی راس کا دشمن ٹوٹتا ہوتا دوست  
 دوست حقیقی ایمان دار اپنے نفس اور اپنے شیطان اور اپنی خواہشات  
 نفسانیہ کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا پہچانتا ہی نہیں اس کی پیروی  
 کرے وہ دنیا کی پڑا ہی نہیں کرتا جو اس کے سامنے بھکے ذلیل ہو  
 بلکہ وہ تو دنیا کو ذلیل و خفیہ سمجھتا ہے اور آخرت کو طلب کرتا ہے پس  
 جب آخرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور

اپنے مولا عزوجل سے متصل ہو جاتا ہے اس مومن کی عبادت تمام اوقات میں خدا ہی کے لیے خالص ہو جاتی ہے یا نہ سنا قول اللہ عزوجل کا واما امر الایۃ اور ہم دیکھ دیے گئے وہ مگر تاکہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص دینی عبادت کی محبت ہو کہ مخلص فی الدین بن کر تو شرک کو چھوڑ دے اور حق تعالیٰ عزوجل کو ایک جان رکھے یہی اصل توحید ہے وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ وید قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ اسے غیر خدا سے چیزوں کے طلب کرنے والے تو عاقل نہیں ہے آیا کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ عزوجل کے خزانوں میں نہیں ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا وان من شیء الا یتوکل علیہ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے نزدیک اُس کے خزانے میں۔

اے غلام اے صاحبزادے میرے تقدیر کے پرناہ کے نیچے صبر کا تحکم لگا کر موافقت کا ہار ڈال کر پناہ مانگتا ہوا کشادگی و راحت کے انتظار میں ہو جا۔ پس جب تیری یہ حالت ہو جائے گی مالک تقدیر تیرے اوپر اپنے فضل و احسان سے ایسی بارش برائے گا جس کی طلب آرزو کو بھی تو اچھے طور سے نہیں جانتا جو طلب کرے۔

اے جماعت! اللہ تعالیٰ کی موافقت کر و راضی برضار ہو، اور (بید) عبد القادر کے کلام کو قبول کرو جو کہ تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہے میری تقدیر کے ساتھ موافقت ہی محمد کو قادر مطلق کی طرف آگے بڑھا رہی ہے۔

اے اہل جماعت! آؤ بڑھو ہم سب اللہ عزوجل اور اس کی تقدیر فعل کی طرف جھکیں اور اپنے ظاہری و باطنی سرور کو اس کی طرف جھکا دیں، تقدیر کی موافقت کریں اور اس کی ہر کالی میں چلیں کیوں کہ وہ بادشاہ کی طرف سے قاصد ہے۔ پس تقدیر کی عزت و بزرگی اس کے بھیجنے والے کی طرف ہے پس جب ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے وہ ہم کو اپنے ساتھ قادر مطلق تک لے جائیگی، اس جگہ اللہ ہی کی حقیقی ولایت

بِمَوْلَاهُ عَزَّوَجَلَّ تَخْلَصُ عِبَادَتُهُ لَمْ فِي جَمِيعِ اَوَقَاتِهِ اَسْمِعْ قَوْلَنَا عَزَّوَجَلَّ وَمَا اَمْرًا اَلَا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّ دَعَاكَ الشِّرْكَ بِالْحَقِّ وَوَحْدَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ هُوَ خَالِقُ الْاَشْيَاءِ جَمِيعًا وَبَيِّدُهُ الْاَشْيَاءَ جَمِيعًا يَا طَالِبَ الْاَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِهِ مَا اَنْتَ عَاقِلٌ هَلْ شَيْءٌ لَيْسَ هُوَ فِي خَزَائِنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ۔

يَا غُلَامُ لَمْ تَحْتَ مِيزَابِ الْقَدَرِ مُتَوَسِّدًا بِالصَّبْرِ مُتَقَلِّدًا بِالْمَوَافَقَةِ عَارِضًا بِالنَّظَرِ الْفَرَجِ فَاِذَا كُنْتَ هَكَذَا صَبَّ عَلَيْكَ الْقَدَرُ مِنْ فَضْلِهِ وَفِيهِ مَا لَا تُحْسِنُ تَطْلُبُهُ وَتَسْتَاكُ۔

يَا قَوْمُ وَاِنْفِقُوا الْقَدْرَ وَاَقْبَلُوا مِنْ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمُجْتَهِدِ فِي مَوَافَقَةِ الْقَدْرِ مَوَافَقَتِي الْقَدْرَ يَقْدِرُ مَعِيَ اِلَى الْقَادِرِ۔

يَا قَوْمُ تَعَالَوْا نَدْلُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَنَقْدِرْهُ وَنَفْعِلْهُ وَنَطْطِئُ رُءُوسَ ظُلُمَانِهِ وَنَبْوَاطِنُنَا نَوَافِقُ الْقَدْرِ وَنَمْشِي فِي رِكَابِهِ لَا تَهْ رَسُولُ الْمَدِينِ فَكْرَامَتُهُ لَا جَلَّ مُرْسِلُهُ فَاِذَا فَعَلْنَا ذَٰلِكَ مَعَهُ حَمَلْنَا فِي مُصْحَبَتِهِ اِلَى الْقَادِرِ فَهَنَّا لَكَ

سلفت ہے۔ اب تیرے لیے دریا کے علم الہی سے میرا بہنا  
اور اس کے شر ان فضل سے کھانا اور اس کی محبت سے انس حاصل کرنا  
اور اس کی رحمت میں چھپ جانا خوشگوار و مبارک ہو گا یہ مرتبہ تمام  
مکملوں اور قبیلوں جماعت کے لاکھوں افراد سے کسی کسی کو ہی نصیب  
ہوتا ہے۔

اے غلام تو اپنے اوپر تقویٰ و شرم کی پیروی نفس و خواہشات  
و شیطان اور برے ہمنشینوں کی دشمنی لازم پکڑ مسلمان ہمیشہ نفس کے  
بہا میں رہتا ہے اور اپنا سر خود سے نہیں کھولتا (ہمیشہ تیار رہتا ہے)  
نہ اپنی تلوار میں رکھتا ہے نہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ نیکی کرتا ہے  
اپنی زین کی لکڑی پر رہتا ہے۔ اس قوم کا سونا غلبہ حال ہے ان کا طعام  
فاقہ ہے ان کا کلام ضرورہ ہے ان کا طریقہ گونگان ہے۔ ان کو تقدیر  
ربی اور فعل الہی ہی گویا کرتا ہے اور وہ دنیا میں ان کی گویائی کو ویسی ہی  
سرکرت دیتا ہے جیسے اعضا کو کل قیامت کے دن گویائی دے گا۔ ان کو  
وہی اللہ عز و جل جو ہر بولنے والے کو گویائی دیتا ہے جیسے وہ پتھروں وغیرہ  
جمادات کو گویا کر دیتا ہے ان کو بھی طاقت گویائی بخشتا ہے گویائی  
کے اسباب مہیا کر دیتا ہے پس یہ بولنے لگتے ہیں جب ان سے  
کوئی کام لینا چاہتا ہے پس اللہ تعالیٰ ان کو اس کے واسطے تیار کر  
دیتا ہے۔ ارادہ الہی ہوا کہ مخلوق کو خوشخبری و خوف و تہدید کے اوپر  
حجت قائم کرنے کے لیے تبلیغ ہو پس نبی اور رسولوں کو (علیم السلام)  
کو گویائی دے دی انہوں نے تبلیغ فرمائی جب ان کو وفات دی ان  
کا نیا بہرہ عمار عالمین کو قائم مقام کیا پس ان کو ایسی گویائی دی جس سے  
مخلوق کی اصلاح ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم انبیاء  
کے وارث ہیں علیم السلام۔

اے اہل جماعت تم اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر کرو اور نعمتوں  
کو اسی کا علیہ سمجھو پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ تمہارے

الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ يَهْنَأُ لَكَ الشَّرُّ  
مِنْ أَبْعَدِ عَلَيْهِ وَ الْاَكْلُ مِنْ سَمَاطِ فَضْلِهِ  
وَالْاَسْتِيْنَامُ بِالنَّسَبِ وَ التَّعَمُّدُ بِرَحْمَتِهِ  
هَذَا الْاِحَادِ اَفْرَادٌ مِنْ كُلِّ الْفَنِ الْفَنِ وَاحِدٍ  
مَنْ جَمِيعِ الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ۔

يَا عَلَامُ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى عَلَيْكَ  
يُحَدِّدُ الشَّرْعَ وَالْمَخَاصِصَ لِلنَّفْسِ  
وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَ الْقُرْآنِ السَّوِّءِ  
الْمُؤْمِنُ لَا يَزَالُ فِي جِهَادِهَا وَلَا يَتَكَشَّفُ  
رَأْسُهُ عَنِ الْخُودِ لَا يَتَغَمَّدُ سَيْفُهُ  
لَا يَتَعَرَّى ظَهْرُ فَرْسِهِ عَلَى قَرْبُوسِ سَرَجِهِ  
يَنَامُ نَوْمَ الْقَوْمِ غَلْبَةً أَكْلَهُمْ قَاتَهُ كَلَامُهُمْ  
ضَرَوْرَةً الدُّخْسِ دَابُّهُمْ وَإِنَّمَا قَدَّرُ  
رَبِّيهِمْ يُنْطِقُهُمْ فَعَلُ اللَّهِ يُنْطِقُهُمْ وَيُخْرِجُ  
مَنْطِقَهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُنْطِقُ الْجَوَارِحُ  
غَدَا يَوْمَ الْيَتِمَةِ يُنْطِقُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ الَّذِي يُنْطِقُ كُلَّ نَاطِقٍ يُنْطِقُهُمْ كَمَا  
يُنْطِقُ الْجَمَادُ يَهَيِّجُ لَهُمْ أَسْبَابَ الْنُطْقِ فَيُنْطِقُونَ  
إِذَا ارَادَ الْأَمْرَ فَيَتَأَمَّرُ لَهُ إِرَادَانِ يُبَلِّغُ الْخَلْقَ  
النَّدَارَةَ وَالْبَشَارَةَ لِإِتْرَاكِابِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَانْطَقَ  
الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا قَبِضَهُمُ إِلَيْهِ أَقَامَ الْعُلَمَاءُ  
الْعَمَّالَ بَعْلِهِمْ فَانْطَقَهُمْ بِمَا يُصْلِحُ الْخَلْقَ نَبَايَةً  
عَنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ  
يَا قَوْمُ أَشْكُرُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  
نِعْمِهِ وَانْظُرُوا مَا مِنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَهَابَكُمْ

پاس نعمت ہے پس وہ اللہ ہی کی طرف سے الایۃ لے خدا کی نعمتوں میں تصرف کرنے والو تم سے ان کا شکر کہاں ہے۔ لے خدا کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے خیال کرنے والو کبھی تم اس کو غیر خدا کی طرف سے خیال کرتے ہو اور کبھی تم ان کو قلیل سمجھ کر ان چیزوں کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے پاس موجود نہیں ہیں اور کبھی تم اس کی نعمتوں سے اس کے گناہوں پر مدد دیتے ہو۔ (تعبیر غور کرو)

اے غلام! تو اپنی غفلت میں ایسے تقوٰے پر ہیز گاری کا محتاج ہے کہ وہ تجھ کو گناہوں اور لغزشوں سے نکلے اور ایسے مراقبہ کا ضرورت مند کہ وہ تجھ کو خدا کی شفقت و توجہ کو جو تیری طرف سے یاد دلائے تو محتاج و مضطر ہے اس بات کا کہ وہ تیری غفلت میں تیرا ساتھی ہو۔ پھر تو مقابلہ نفس و خواہشات نفسانیہ و شیطانیہ کی طرف محتاج ہے کہ تو انکو زیر کرے بڑے آدمیوں کی خرابی و ہلاکت ساتھ لغزشوں کے ہے اور زہادوں کی خرابی و خواہشات کیساتھ ٹھہرنے میں ہے اور بدل کی ہلاکت و خرابی غلو توں میں ساتھ غلو و غفلت سے ہے اور خرابی صدیقین کی ادھر ادھر گاہ کرنے میں ہے۔ اسی غفلتی انکام تو اپنے قلوب کی مخالفت سے جو وہ بادشاہ کے دروازے پر نہ لائیں وہ قلوب کی معرفت حق پر پہنچنے کے لیے جسکے میں کھڑے ہونے والے میں وہ ہمیشہ قلوب کو دعوت دیتے رہتے ہیں پکارتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں۔ اے قلوب! اے قلوب! اے آدمیو! اے جنوں! اے بادشاہ کے ارادہ کرنے والو حقیقی بادشاہ مالک کے دروازہ کی طرف آؤ تم اس کی طرف اپنے قلوب کے قدموں اور تقویٰ و توحید و معرفت کے قدموں سے بڑھو اور اپنے اعلیٰ پرہیز گاری اور دنیا و آخرت میں زہادوں سے ترک ماسوی اللہ کے قدموں سے ڈرو یہ ان جماعتوں کا مشغلہ ہے ان کی ہمتیں خلق کی اصلاح ہے ان کی ہمتیں آسمان و زمین کو عرش عظیم سے لے کر زیر زمین تک کو شامل ہیں۔

اے غلام! تو اپنے نفس و خواہشات سے علیحدہ ہو جا

مَنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ أَيْنَ الشُّكْرُ مِنْكُمْ  
يَا مُتَكَبِّرِينَ فِي نِعْمِهِ يَأْمَنُ يَرَى نِعْمَتَيْنِ  
غَيْرِهِ تَأْسَرُ تَوَدُّ نِعْمَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَتَأْسَرُ  
تَسْتَقِلُّونَهَا وَتَسْتَظِرُّونَ إِلَى مَا لَيْسَ  
عِنْدَكُمْ وَتَأْسَرُ تَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَى  
مَعَاصِيهِ -

يَا غُلَامُ خُتَابُ فِي خَلْقِكَ إِلَى وَسْرِعِ  
يُخْرِجُكَ عَنِ الْمَعَاصِي وَالزَّلَاتِ وَمُرَاقِبَةٍ  
تَذَكُّرُكَ نَظَرَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ أَنْتَ خُتَابُ  
مُضْطَرٌ إِلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعَكَ فِي خَلْقِكَ  
ثُمَّ تَخْتَابُ إِلَى مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ  
خَرَابُ مُعْظِمِ النَّاسِ مَعَ الزَّلَاتِ وَخَرَابُ  
الزُّهَادِ مَعَ الشَّهَوَاتِ وَخَرَابُ الْأَبْدَالِ مَعَ الْفُكْرِ  
وَالْخَوَاطِرِ فِي الْخَلْقِ وَخَرَابُ الصِّدِّيقِينَ  
اللَّحْظَاتِ شَغْلُهُمْ حِفْظُ قُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ بِنِيَامٍ عَلَى  
بَابِ الْمَلِكِ هُمْ قِيَامٌ فِي مَقَامِ الدَّعْوَةِ يَدْعُونَ  
الْخَلْقَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَزَالُونَ  
يَدْعُونَ الْقُلُوبَ يَقُولُونَ يَا أَيَّتُهَا الْقُلُوبُ يَا أَيَّتُهَا  
الْأَرْوَاحُ يَا أُنْسُ وَيَا كَرْنُ يَا مَرْبِي الْمَلِكِ هَلْبُ  
إِلَى بَابِ الْمَلِكِ اسْعَوْا إِلَيْهِ بِأَقْدَامِ قُلُوبِكُمْ بِأَقْدَامِ  
تَقْوَاكُمْ وَتَوْحِيدَكُمْ وَمَعْرِفَتَكُمْ وَوَسْرِعَكُمْ  
السَّامِعِي وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِيمَا سِوَى  
الْمَوْلَى هَذَا شَغْلُ الْقَوْمِ هُمْ رِصَالُ الْخَلْقِ  
هَمُّهُمْ تَعْمُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثَّرَى  
يَا غُلَامُ دَع عَنْكَ النَّفْسَ وَالْهَوَى

كُنْ اَرَمًا تَحْتَ اَقْدَامِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ  
 مُرَابِّا كَيْنَ اَيْدِيهِمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُجُ  
 الْحَقُّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَةَ مِنَ  
 الْحَيِّ اَخْرَجَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ  
 اَبْوَيْهِ الْمَوْتَى بِالْكَفْرِ. الْمَوْتُ حَيٌّ وَ  
 الْكَافِرُ مَيِّتٌ الْمَوْجِدُ حَيٌّ وَالْمُشْرِكُ  
 مَيِّتٌ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ  
 كَلَامِهِ اَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ خَلْقِي اِبْلِيْسُ  
 يَعْنِي عَصَانِي فَمَاتَ بِالْمَعْصِيَةِ هَذَا  
 اٰخِرُ الزَّمَنِ قَدْ ظَهَرَ سُوقُ التَّفَارِقِ سُوقُ  
 الْكَذِبِ لَا تَقْعُدُوْا مَعَ الْمُنَافِقِيْنَ الْكَافِرِيْنَ الدَّجَالِيْنَ  
 وَيَحْكُ نَفْسُكَ مُنَافِقَةً، كَاذِبَةً  
 كَاذِبَةً فَاجِرَةً مُّشْرِكَةً كَيْفَ تَقْعُدُ مَعَهَا  
 خَالِفَهَا وَلَا تَوَافِقَهَا قِتْدَهَا وَلَا تُطْلِقَهَا  
 اُسْجُهَا وَاجْرِ عَلَيْهَا حَقَّهَا الَّذِي لَا بُدَّ  
 لَهَا مِنْهُ. اِقْعُمَا بِالْمَجَاهِدَاتِ وَامَّا  
 الْهَوَى فَاْمْكَبْهُ وَلَا تُخْلِهِ بِرَبِّكَ وَالطَّبْعُ  
 فَلَا تَصْحَبْهُ فَإِنَّهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ لَا عَقْلَ لَهُ  
 كَيْفَ تَتَعَلَّمُ مِنْ طِفْلِ صَغِيرٍ وَتَقْبَلُ  
 مِنْهُ وَالشَّيْطَانُ فَهُوَ عَدُوٌّكَ وَعَدُوُّ  
 رَبِّكَ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ تَسْكُنُ  
 اِلَيْهِ وَتَقْبَلُ مِنْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  
 دَمٌ وَ عَدَاوَةٌ قَدِيْمَةٌ. لَا تَأْمَنْ  
 مِنْهُ. فَإِنَّهُ قَاتِلُ رَبِّكَ وَ اُمَمُكَ  
 فَاِذَا تَمَكَّنَ مِنْكَ قَتَلَكَ كَمَا قَتَلَهُمَا

اور قوم والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی وزیر  
 سامنے خاک بن جا (اسی میں کمال ہے) حتی تعالیٰ  
 مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس نے ابراہیم  
 علیہ السلام کو ایسے ماں باپ پیدا فرمایا جو بہ سبب کفر کے مردہ تھے  
 مومن زندہ ہے اور کافر مردہ، وصلا نیت کا اقرار کرنے والا زندہ  
 ہے اور شرک کرنے والا مردہ، اسی معنی کو اللہ عزوجل نے اپنے  
 بعض کلام میں فرمایا میری مخلوقات سے پہلا مرنے والا ابلیس لعین  
 ہے یعنی اس نے میری نافرمانی کی پس برہم مصیبت مردہ ہو گیا مر گیا۔  
 (یعنی گناہ کرنا ہی موت ہے) یہ آخری زمانہ ہے۔ نفاق اور جھوٹ  
 کا بازار گرم ہو گیا ہے تم منافقوں جھوٹوں دجالوں کے ساتھ  
 نہ بیٹھو۔

تجھ پر افسوس ہے تیرا نفس منافق، جھوٹا، کفر کرنے والا،  
 فاسق، شرک کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بیٹھتا ہے،  
 تو اس کی مخالفت کر اور اس کی موافقت نہ کر، اس کو پایہ زنجیر  
 کر دے، آزاد نہ چھوڑ، نفس کو قید کر دے اور اس پر اس کا  
 ضروری حق جاری کر، نفس کا مجاہدوں کے ساتھ قلع قمع کر دے  
 خواہشات نفس پر تو سوار رہ ان کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کہ وہ  
 تجھ پر سوار ہو جائیں اور تو طبیعت کا ساتھ نہ دے نہ تحقیق طبیعت  
 چھوٹا سا بچہ ہے جس کو عقل نہیں تو چھوٹے بچے سے کیسے علم  
 سیکھ سکتا ہے اور اس کے قول کو کیسے قبول کر سکتا ہے، شیطان  
 تیرا اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ  
 کیسے سکونت کرتا ہے اور اس کے کلام کو تو کیسے قبول کرتا ہے  
 حالانکہ اس کے اور تیرے درمیان میں خون ہو چکا ہے اور قدیم  
 دشمنی ہے اس کی طرف امن نہ لے تحقیق وہ تیرے ماں باپ کا  
 قاتل ہے پس جب تجھ پر قابو پالے گا تجھے بھی قتل کرے والدین

قتل کر دے گا۔ تو تقویٰ کو اپنا ہتھیار بنا اور توحید الہی اور مراقبہ  
خلوت گزنی کر اور سچائی اور اللہ عزوجل سے مدد چاہنے کو اپنا شکر  
بنا۔ پس یہ ہتھیار اور شکر ایسے ہیں جو شیطان کو شکست دے  
دیں گے اور اس کی عمارت کو ڈھا دیں گے اور اس کے لشکر  
کو توڑ دیں گے کیوں کہ یہ شیطان کو ہزیمت و شکست دیں گے  
حالانکہ حق تیرے ساتھ ہے۔

اے غلام دنیا و آخرت کو ملا کر تو ان دونوں کو ایک بچہ کر  
دے اور تو دنیا و آخرت سے خالی ہو کر اپنے مولیٰ عزوجل کے  
ساتھ تنہائی اختیار کر اور خلوت گزریں بن اللہ کی طرف بغیر اس کے  
کہ تو اس کے ماسوا سے علیحدہ ہو جائے تو جہنم ہو خالق سے بے  
پردہ ہو کر مخلوق میں گرفتار نہ ہو جان سب سبوں سے قطع تعلقی  
کرے اور ان سب ارباب کو چھوڑ دے پس جب تو اس پر قدرت  
پائے پس دنیا کو اپنے نفس کے لیے اور آخرت کے لیے اپنے  
قلب کو اور مولیٰ تعالیٰ کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر لے۔  
اے غلام تو نفس اور خواہشات نفسانیہ اور دنیا و آخرت  
کا ساتھی مت بن اور سوار حق عزوجل کے کسی کی پیروی و متابعت  
نہ کر حالانکہ تو نے ایسا خزانہ پایا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا جب تو  
ایسا کرے گا تو تیرے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے ایسی ہبات  
آئے گی جس کے بعد مگر ہی نہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور  
گناہوں سے علیحدہ ہو کر اپنے مولیٰ عزوجل کی طرف دوڑ جا جب  
تو توبہ کرے تو اپنے ظاہر و باطن دونوں سے توبہ کر تو تیرے  
قلب کے لباس کا پلٹ دینا ہے تو اپنے قلب کی چادر کو  
پلٹ دے اور گناہوں کے لباس کو خالص توبہ سے اور  
اللہ عزوجل سے شہر مار حقیقتاً آمار دے نہ مجازاً امض زبانی توبہ نہ  
ہو توبہ انصوح ہو حقیقی توبہ قلب عملوں سے ہے جو بعد

اجْعَلِ التَّقْوَى سَلَاحَكَ وَالتَّوْحِيدَ لِلَّهِ  
وَالْمَرَاقِبَةَ لَهُ وَالْوَرَعَ فِي الْخُلُوعَاتِ  
وَالصِّدْقَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ عَزَّو  
جَلَّ جُنْدَكَ فَهَذَا السَّلَاحُ وَهَذَا  
الْجُنْدُ هُمُ الَّذِينَ يَهْزِمُونَ وَيُهْذِمُونَ  
وَيَكْسِرُونَ جَيْشَهُ كَيْفَ لَا يَهْزِمُونَ وَالْحَقُّ نَعَاكَ  
يَا غُلَامُ اقْرَأْ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَاجْعَلْهُمَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَالْفَرْدُ  
بِمَوْلَاكَ عَزَّوَجَلَّ عُرْيَانًا مِنْ حَيْثُ  
قَلْبِكَ بِلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةٍ لَا تَقْبِلُ  
عَلَيْكَ إِلَّا مُجَرَّدًا مِمَّا سِوَاكَ لَا  
تَتَّقِئِدًا بِالْخَلْقِ عَنِ الْخَلْقِ اقْطَعْ هَذِهِ  
الْأَرْبَابَ فَإِذَا تَمَكَّنْتَ فَاجْعَلِ الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ  
وَالْآخِرَةَ لِقَلْبِكَ وَالْمَوْلَى لِسِرِّكَ -  
يَا غُلَامُ لَا تَكُنْ مَعَ التَّفَنُّسِ وَلَا  
مَعَ الْهَوَى وَلَا مَعَ الدُّنْيَا وَلَا مَعَ  
الْآخِرَةِ وَلَا تُتَابِعْ سِوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
وَقَدْ وَقَعْتَ بِالْكَفْرِ الَّذِي لَا يَفْنَى أَبَدًا  
فَحَيْثُ نَزِدْتَ تَجِئُكَ الْهَدَايَةُ مَعَ الْحَقِّ  
عَزَّوَجَلَّ الَّذِي لَا ضَلَالَ بَعْدَهَا ثَبَّ عَنْ  
ذُنُوبِكَ وَهَرُولٍ عَنْهَا إِلَى مَوْلَاكَ عَزَّو  
جَلَّ إِذَا ثَبَّتَ فَلْيَتَّبِ ظَهْرَكَ وَبَاطِنَكَ  
التَّوْبَةُ قَلْبٌ يُبَايِعُ قَلْبَ رِذَاءٍ وَأَخْلَعُ ثِيَابَ  
الْمَعَاصِي بِالتَّوْبَةِ الْخَالِصَةِ وَالْحَيَاءِ هُوَ اللَّهُ  
عَزَّوَجَلَّ حَقِيقَةٌ لَا يَجَازُ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ

پاک کر لینے اعضاء ظاہری کے ساتھ اعمال شرع کے ہو۔  
 قالب (یعنی بدن) کے لیے بھی ایک عمل ہے اور قلب کے لیے  
 بھی عمل۔ قلب جب سبوں کے میدان سے اور مخلوق کے ساتھ  
 تعلقات سے نکل جاتا ہے تو توکل اور معرفت کے دریا میں  
 سوار ہوتا ہے اور علم الہی کے دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے اور  
 سبب کو چھوڑ دیتا ہے اور سبب یعنی اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا  
 ہے۔ جب ایسا شخص اس دریا کے وسط میں پہنچ جاتا ہے  
 پس اس وقت کہنے لگتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے  
 وہی میری ہدایت رہنمائی کرے گا پس ایک کنارہ سے دوسرے  
 کنارہ کی طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہدایت  
 پاتا ہے۔ پس جب وہ اپنے رب کا جتنا بھی ذکر کرتا ہے  
 یہاں تک کہ صراطِ مستقیم پر جا کر ٹھہر جاتا ہے اس کا راستہ  
 روشن ہوتا جاتا ہے اور اس راہ کی غرابی گرد و غبار دور ہوتی  
 چلی جاتی ہے، راستہ صاف کھل جاتا ہے۔ طالب الہی کا  
 قلب تمام مسافروں منزلوں کو قطع کرتا ہے اور کل ماسوی اللہ  
 کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پس جب کبھی اس کو بعض راہ میں  
 ہلاکت کا خوف ہونے لگتا ہے وہیں اس کا ایمان ظاہر ہو کر  
 اس طالب حق کو بہادر بنا دیتا ہے پس وحشت و خوف کی  
 آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے بدلہ میں انس کی روشنی اور  
 قرب الہی کی مسرت حاصل ہوتی ہے

اے غلام جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو پس اس بیماری  
 کا صبر کرے ہاتھوں سے استقبال کر اور جب تک موتی تعالیٰ  
 کی طرف اس کی دوا آئے ٹھہر رہ۔ پس جب دوا آجائے تو  
 اس دوا کا شکر کے ہاتھوں سے استقبال کر کہ مصیبت  
 پر صبر و محنت پر شکر کا حکم ہے۔ پس جب تو اس حالت پر پہنچ

الْقُلُوبِ بَعْدَ طَهَارَةِ الْجَوَارِحِ بِأَعْمَالِ  
 الشَّرْعِ الْقُلُوبُ لَهُ عَمَلٌ وَالْقَلْبُ لَهُ  
 عَمَلٌ الْقَلْبُ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَيَا فِي  
 الْأَسْبَابِ وَالتَّعَلُّقِ بِالْخَلَائِقِ سَرَكَبَ  
 بَحْرَ التَّوَكُّلِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ عَزَّو  
 جَلَّ وَالْعِلْمِ بِهِ وَتَرَكَ السَّبَبَ وَ  
 طَلَبَ الْمُسَيِّبَ فَإِذَا تَوَسَّطَ فِي هَذَا  
 الْبَحْرِ فَهَذَا لَكَ يَقُولُ الَّذِي خَلَقَنِي  
 فَهُوَ يَهْدِيَنِي فَيَهْدِيَنِي مِنْ سَاحِلٍ إِلَى  
 سَاحِلٍ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ حَتَّى يَقِفَ  
 عَلَى الْجَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ فَكُلَّمَا ذَكَرَ  
 رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَبَحَّلَتْ جَادَتُهُ أَوْ  
 انْكَشَفَتْ الدَّاعِلُ عَنْهَا قَلْبُ الطَّالِبِ  
 لِلْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ يَقْطَعُ الْمَسَافَاتِ  
 وَيَخْلُقُ الْكُلَّ وَرَأَى كَذَا إِذَا اخَافَ  
 فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ مِنَ الْهَلَاكِ بَرَزَ  
 إِيْمَانُهُ فَشَجَعَهُ فَتَخَدُّ بِبِرَّانِ  
 الْوَحْشَةِ وَالْخَوْفِ وَيَأْتِي بِدَلْهَا  
 نَوْرُ الْأُنْسِ وَالْفَرَحُ بِالْقَلْبِ -

يَا غُلَامَ إِذَا جَاءَكَ الدَّاءُ  
 فَاسْتَقْبِلْهُ بِبَيِّدِ الصَّبْرِ وَاسْكُنْ  
 حَتَّى يَجِيئَكَ الدَّوَاءُ فَإِذَا جَاءَ  
 الدَّوَاءُ فَاسْتَقْبِلْهُ بِبَيِّدِ الشُّكْرِ  
 فَإِذَا كُنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ

جائے گا تجھے فوری عیش حاصل ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ کا خوف  
سمجھانوں کے دلوں کو پاش پاش کر ڈالتا ہے اور ان  
کے چہروں کو زرد کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو ٹنگیں بنا دیتا  
ہے پس جب وہ اس مقام پر قرار پکڑتے ہیں یہ امور ان کے  
دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ عزوجل ان کے قلوب پر اپنے  
رحمت و لطف کے دریا سے پانی برساتا ہے اور ان کیلئے  
آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے پس وہ اپنے امن و امان کی  
جگہ دیکھ لیتے ہیں جب وہ طالب حتی سکون پکڑتے ہیں اور  
مطمئن ہو جاتے ہیں اور قنوطی راحت لے لیتے ہیں تو رب تعالیٰ  
ان کے واسطے جلال کا دروازہ کھولتا ہے پس یہ حال ان طالبوں  
کے قلوب کو پاش پاش اور ان کے باطن کو ٹکڑے ٹکڑے کر  
دیتا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ ان کے خوف و دہشت  
کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر جب ان کی یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے  
تب ان کے لیے جمال کا دروازہ کھولتا ہے پس وہ وہاں سکون  
پکڑتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور  
ان کے لیے ایسے طبقہ درجات ظاہر ہو جاتے ہیں جس میں وہ  
قرار پکڑتے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہیں۔

اے غلام تیرا ارادہ قصہ محض کھانا پینا لباس پہننا نکاح کرنا  
شادی کرنا اور شہزادہ بن کرنا ہی نہ ہو کہ یہ کل نفس و طبیعت کے مقاصد  
ہیں۔ پس کہاں ہیں مقاصد قلب و باطن جو کہ حق عزوجل کی سچی  
طلب ہے تیرے مقاصد نے تجھے کس قدر ٹنگیں بنا رکھا ہے۔  
تیرا مقصد تو صرف رب عزوجل اور وہ چیز جو اس کے پاس  
ہے ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے بدل ہے اور وہ آخرت  
ہے خلق کے لیے عوض و بدل ہے اور وہ خالق عزوجل ہے  
جب تو اہل غلبت والی (دنیا) کی چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ

كُنْتَ فِي الْعَيْشِ الْعَاجِلِ الْخَوْفُ مِنَ  
النَّارِ يَقْطَعُ أَكْبَادَ الْمُؤْمِنِينَ وَ  
يَصْفَرُّ وُجُوهُهُمْ وَيَحْزَنُ قُلُوبُهُمْ  
فَإِذَا تَمَكَّنَ هَذَا مِنْهُمْ صَبَّ اللَّهُ  
عَزَّوَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاءَ رَحْمَتِهِ  
وَلَطْفِهِمُ وَقَتَحَ لَهَا بَابَ الْآخِرَةِ  
فَيَرُونَ مَا مِنْهَا فَإِذَا سَكَنُوا  
وَاطْمَأَنَّنُوا وَامْتَأَحُوا قَلِيلًا فَتَحَ  
لَهُمْ بَابَ الْجَلَالِ فَقَطَّعَ قُلُوبَهُمْ  
وَأَسَارَهُمْ وَكَثَّرَ خَوْفَهُمْ أَشَدَّ  
مِنَ الْأَوَّلِ فَإِذَا تَمَّ لَهُمْ فَتَحَ لَهُمُ  
بَابَ الْجَمَالِ فَسَكَنُوا وَاطْمَأَنَّنُوا  
وَتَنَبَّهُوا وَتَبَيَّنُوا تَبَوُّؤُا  
دَرَجَاتٍ هِيَ طَبَقَاتُ شَيْءٍ بَعْدَ  
شَيْءٍ -

يَا غُلَامَ لَا يَكُونُ هَتَكَ مَا تَأْكُلُ  
وَمَا تَشْرَبُ وَمَا تَلْبَسُ وَمَا تَنْكِحُ  
وَمَا تَسْكُنُ وَمَا تَجْمَعُ كُلُّ هَذَا هُمُ النَّفْسِ  
وَالطَّبْعِ فَإِنَّ هُمُ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ وَهُوَ طَلِبُ  
الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ هَتَكَ مَا أَهْتَكَ فَلَئِنْ  
هَتَكَ رَبَّكَ عَزَّوَجَلَّ وَمَا عِنْدَهُ الدُّنْيَا لَهَا  
بَدَلٌ وَهُوَ الْآخِرَةُ وَالْخَلْقُ لَهُمْ بَدَلٌ وَهُوَ  
الْخَلْقُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّمَا تَرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذَا

دے گا تو اس کا عوض و بدل اس سے بہتر و عمدہ آخرت میں پائے گا۔  
 توبہ مان اندازہ کر کہ تیری عمر میں سے یہی آج کا دن صرف باقی ہے۔  
 تو آخرت کیلئے مستعد ہو جا ملک الموت کے آنے کیلئے نشانہ بن جا  
 دنیا قوم کے لیے سرخوش دیگ ہے (ذرا سی دیر میں ختم ہوئیوالی)  
 اور آخرت ان کا آبادی کا گھر پس جب غیرت الہی آتی ہے۔ وہ  
 غیرت الہی ان لوگوں اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور  
 تکوین آخرت کے قائم مقام کر دی جاتی ہے۔ پس اس مقام پر  
 پہنچ کر یہ طالبان حق نہ دنیا کے حاجت مند رہتے ہیں نہ آخرت کے  
 اسے کذاب طالب دنیا تو حالت نعمت میں اللہ عزوجل کو دوست  
 سمجھتا ہے اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے پس جب اس کی طرف سے  
 بلا آتی ہے تو تو ایسا بھاگتا ہے گویا اللہ عزوجل تیرا محبوب ہی تھا۔  
 بندگی و بندہ ہونے کا اظہار امتحان ہی کے وقت ہوتا ہے۔ جب  
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آئیں اور تو ان پر ثابت قدم ہے پس تو بندہ  
 اور خدا کا دوست رہے اور اگر اس وقت تو بدل جائے تیرا محبوب  
 ظاہر ہو جائیگا اور سہلا دعویٰ چلا جائیگا اور ٹوٹ جائیگا۔ ایک شخص

الْعَاجِلِ أَخَذَتْ عَوَظَهُ وَخَيْرَ مَمْنَهُ فِي  
 الْآجِلِ قَدِيرٌ أَنْ قَدْ يَقِي مِنْ عُمْرِكَ هَذَا  
 الْيَوْمَ فَحَسْبُ تَهَيُّاً لِلْآخِرَةِ تَهَذُّفٌ بِمُحِ  
 مَلِكِ الْمَوْتِ. الدُّنْيَا طَبَاخَةٌ لِلْقَوْمِ وَ  
 الْآخِرَةُ مَعْمَرَةٌ لَهُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الْغَيْرَةُ  
 مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَ  
 بَيْنَهَا وَيُقَامُ التَّكْوِينُ مَقَامَ الْآخِرَةِ  
 فَلَا يَحْتَاجُونَ لَا إِلَى الدُّنْيَا وَلَا إِلَى  
 الْآخِرَةِ يَا كَذَّابُ أَنْتَ تُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ فِي حَالَةِ النِّعْمَةِ فَإِذَا جَاءَ  
 الْبَلَاءُ هَرَبْتَ كَانَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ مَحْبُوبَكَ إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعَبْدُ عِنْدَ  
 الْاِخْتِيَارِ إِذَا جَاءَتِ الْبَلَايَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَأَنْتَ ثَابِتٌ فَأَنْتَ تُحِبُّ كَمَا نَ تَغَيَّرَتْ  
 بَانَ الْكَذِبُ وَانْتَقَضَ الْأَوَّلُ وَذَهَبَ جَاءَ

اے غیرت الہی اپنے سچے طالب کو آخرت کا طالب بنا کر نہیں چھوڑتی اس سے جدا ہو کر مقام تکوین میں پہنچا دیتی ہے جیسا کہ  
 حدیث قدسیٰ اذا تقرب الی عبدی بالنوافل (الحديث) سے ظاہر و باہر ہے اس مرتبہ پر پہنچ کر خدائی جلوے اس پر  
 ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کس فی کون کا مرتبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے جو چاہتے ہیں اس کا طور ہوتا ہے یہی مرتبہ مرتبہ مقام تکوین ہے۔  
 وہ فنا سے گزر کر مقام بقا میں پہنچ جاتا ہے اور اہل کاسر قول و عمل دوسرا جامہ پہن لیتا ہے۔  
 گفتہ مر او گفتمہ اللہ بود گھرچہ از حلقوم عبداً اللہ بود  
 اولیاء را بہت قدرت انزالہ تیر بہتہ بازی آروز راہ  
 اسی وجہ سے ان سے طلب و استغانت نادر و استغاثہ ان کی طلب خداوند جل مجدہ ہی سے طلب و استغاثہ خدا ہی کے حکم کے تحت  
 ہوتی ہے وہ باذن اللہ قادر و مختار ہو جاتے ہیں۔ رسل و انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء و اصفیاء فَاغْتَبِرُوا يَا اُولِي الْأَلْبَابِ  
 (قادر یا اولی غفرلہ)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ  
 یہ تحقیق میں آپ کو دوست رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا فقر و محتاجی  
 کے لیے مستعد ہو جا اور فقر کی چادر اوڑھ لے۔ دوسرا اور شخص حاضر  
 خدمت ہوا پس عرض کیا تحقیق میں اللہ عزوجل کو محبوب رکھتا ہوں  
 ارشاد نبوی ہوا تو بلار و مصیبت کے لیے چادر بنائے۔ اللہ تعالیٰ  
 اور اس کے رسول پاک کی محبت دونوں فقر و بلا کے ساتھ ملی ہوئی  
 ہیں اور اسی واسطے بعض بزرگان دین نے فرمایا دعویٰ محبت کے ساتھ  
 بلا مسلط کر دی گئی ہے تاکہ اگر تجھ میں کیس یہ بات موجود نہ ہو تو تو  
 دعویٰ محبت نہ کرنے لگے ورنہ ہر ایک محبت الہی کا دعویٰ کرنے  
 لگتا پس محبت کی بنیاد بلا و فقر پر ثابت قدمی قرار دے دی  
 گئی۔ (اللہ ہمارے ذوق بالکمال)

اے رب ہمارے ہیں دنیا و آخرت میں نکوئی و بھلائی  
 عطا فرما اور دوزخ کے عذاب ہم سب کو بچا۔ آمین

## دوسری مجلس

حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ہ سوال ۵۴۵  
 کو مدرسہ قادریہ بغداد معلیٰ میں ارشاد فرمایا :  
 اے بندہ خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری ناتجربہ کاری غفلت و  
 بھولاپن تجھ کو خدا سے دور کر رہی ہے اور تجھ کو اس نے اللہ سے  
 غائب کر رکھا ہے تو اپنی ناتجربہ کاری و غفلت سے قبل اس کے کہ  
 تجھے پٹیا جائے اور تو ذلیل کیا جائے اور تیرے اوپر بلاؤں کے  
 اثر ہے اور بچھو مسلط کیے جائیں رجوع کرے تو نے ابھی تیرا اہل  
 نہیں چکھا ہے اس وجہ سے تو دھوکہ میں پڑ رہا ہے تو دنیا کی معیشت  
 کی جن تمام چیزوں میں گھرا ہوا ہے ان پر غور نہ ہو وہ سب مغرب  
 نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ستمیٰ اذا فرحوا الایۃ

رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقَالَ اسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ  
 جَلْبَابًا وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ عَزَّو  
 جَلَّ فَقَالَ اتَّخِذْ لِلْبَلَاءِ جَلْبَابًا فَحَبَّبَهُ اللَّهُ  
 عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَهُ مَقْرُونَتَانِ بِالْفَقْرِ وَالْبَلَاءِ  
 وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الصَّادِكِينَ وَكُلُّ الْبَلَاءِ  
 بِالنُّوْكَاءِ كَيْ لَا تَدْرِي لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَا إِلَيْكَ وَلَا  
 كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَدْرِي حُبَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  
 فَجَعَلَ الثَّبَاتُ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْفَقْرِ بَيِّنَةً  
 هَذِهِ الْمَحَبَّةُ۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

## المجلس الثاني

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَدْرَسَةِ خَامِسَ  
 سُؤَالٍ سَنَةِ تَخْنِيسَ وَارْبَعِينَ وَخَنَسَ وَائِيَّةَ  
 غَزَتِكَ يَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَنْجِيكَ وَ  
 غَيْبَتِكَ عَنْهُ اُجِيعَ عَنْ غَزَتِكَ قَبْلَ أَنْ  
 تُضْرَبَ وَتُهَانَ وَتُسَلَّطَ عَلَيْكَ حَيَاتُ  
 الْبَلَاءِ وَعَقَابُهَا مَا ذُقْتَ طَعْمَ  
 الْبَلَاءِ فَلَا جَرَمَ تَغْتَرُّكَ تَفْرَحُ  
 بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ فِيهِ فَهُوَ شَيْءٌ ذَائِلٌ  
 عَنْ قَرِيبٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى  
 إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ

بَعَثَهُ ثُمَّ يَظْفَرُ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
بِالصَّبْرِ وَلِهَذَا أَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ  
الصَّابِرِ الْفَقْرَ وَالصَّبْرَ لَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا  
فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَالْمُحِبِّونَ يُبْتَلَوْنَ  
فِي صَبْرِهِمْ وَيُكْفَمُونَ بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ  
مَعَ بَلَاءِ لَهُمْ وَيَصْبِرُونَ عَلَى مَا يَجْعَلُهُ  
عَلَيْهِمْ مَنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ  
لَا الصَّبْرُ لَمَا رَأَيْتُمُونِي بَيْنَكُمْ قَدْ  
جُعِلْتُ شَبَاكًا تُصَادُونِي لَطِيفُ مَنْ  
لَيْلٍ إِلَى لَيْلٍ يَفْتَحُ عَنْ عَيْنِي وَ  
يُخَلِّي عَنْ رَجُلِي بِالنَّهَارِ مُغْمِضُ  
الْعَيْنَيْنِ وَرَجُلِي مُشْدُودَةً فِي  
الشَّبَكَةِ فَعَلْ ذَلِكَ لِمَصْلَحَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ لَوْ لَا مُوَافَقَةُ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ ذَا الْعَاقِلِ يَفْعَلُ فِي هَذِهِ  
الْبَلَدَةِ وَيُعَاشِرُ أَهْلَهَا قَدْ عَمِرَ فِيهَا  
الرِّيَاءُ وَالنِّفَاقُ وَكَثُرَتِ الشُّبُهَةُ  
وَالْحَرَامُ قَدْ كَثُرَ كُفْرُ نِعَمِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى الْفَسْقِ وَ  
الْفُجُورِ قَدْ كَثُرَ الْفَاجِرُ فِي بَيْتِهِ الْمُتَّقِي فِي  
دُكَّانِهِ وَالزُّنْدِيقُ فِي سُرَادَابِهِ الصَّابِقُ  
عَلَى كُرْسِيِّهِ لَوْ لَا الْحِكْمُ لَتَكَلَّمْتُ بِمَا  
فِي بُيُوتِكُمْ وَلَكِنْ لِي أَسَاسٌ يَحْتَاجُ  
إِلَى بِنَاءٍ لِي أَطْفَالُ يَحْتَاجُونَ إِلَى  
تَرْبِيَةٍ لَوْ كَشَفْتُ بَعْضَ مَا عِنْدِي

یہاں تک کہ جب وہ لوگ (پہلے قوم والے) الٰہی عطیہ نعمتوں پر تیار  
لگے۔ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ کے پاس ہجرت ہے اس پر  
فتحندی صبر کرنے سے دیجاتی ہے اسی واسطے رب تعالیٰ نے  
تائید کے ساتھ صبر کا حکم صادر فرمایا۔ فقر و صبر دونوں کسی غیر میں ہوا  
مسلمان کے جمع نہیں ہو سکتے اور محبوبانِ خدا کی بلا سے آزمائش کیجی  
ہے پس وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور باوجود بلاؤں اور آزمائش کے  
ان کو نیک کاموں کے کرنے کا اہم کیا جاتا ہے اور وہ ان جدید  
بلا و مصیبتوں پر جو ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہیں صبر کرتے  
رہتے ہیں۔ اگر صبر نہ ہوتا تو ہم ہرگز مجھ کو اپنے درمیان میں نہ دیکھتے  
میں ایک جال بنا دیا گیا ہوں جس کے ذریعہ سے پرندوں کا کار کیا  
جاتا ہے۔ راستے انتہا رات تک میری آنکھ کھول دی جاتی ہے  
اور میرے پاؤں سے بندش علیحدہ کر دی جاتی ہے (وقت خلوت)  
دن میں آنکھ بند کرنے والا ہوں اور میرا پاؤں جال میں بندھا ہوا  
ہوتا ہے۔ (تمہارے ساتھ مشغول رہتا ہوں) یہ سب تمہاری مصیبت  
کیلیے کیا گیا ہے اور تم نہیں پہچانتے ہو۔ اگر توفیق الٰہی رہنا نہ  
ہوتی تو کوئی عقلمند ایسے شہر میں بیٹھا اور اس شہر کے رہنے والوں  
کے ساتھ زندگی بسر کرتا جس میں مکاری و نفاق و ظلم عام ہو اور شہر  
حرام کی کثرت ہو اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری بڑھ جائے اور ان سے  
فحش و فجور نافذ ہوں پر مدد ملی جائے آہ اور ایسے لوگ زیادہ ہو  
جائیں جو اپنے گھر میں فاسق و فاجر ہوں اور دکان میں آکر پرہیزگار  
بننے والے اپنے تہ خانہ میں زندگی ہوں کرسی پر چلوہ نما ہو کہ  
صدیق بنیں اگر حکمتیں نہ ہوتیں تو میں جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر  
ہوتا ہے بیان کر دیتا اور لیکن میرے لیے بنیادیں ہیں جو تعمیر  
کی حاجت مند ہیں اور میرے بچے ہیں جو تربیت کی طرف محتاج  
ہیں (یعنی تم سب) اگر میں وہ بعض امور کھول دوں جو مجھے معلوم

ہیں تو یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا سبب ہو جائیگا  
میں بحالت موجودہ تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم  
السلام کی قوت کا محتاج ہوں اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے  
زمانہ تک جو اگلے لوگ گزر چکے ان کے ممبر کا محتاج ہوں۔ قوت  
ربانی کا محتاج ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے لطف و مدد و توفیق و رضا  
کا طلب کار ہوں اے اللہ! قبول کر لے۔

اے غلام تو دنیا میں باقی رہنے اور اس میں نفع حاصل کرنے  
کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے پس تو ان کاموں کو جو خدا نے تعالیٰ کو  
نا پسند ہیں اور تو ان میں مبتلا ہے بدل ڈال۔ اطاعت الہی  
میں تیرا محض کمر پٹھ لینے پر قناعت کرنا جس پر تو قانع ہے،  
تجھے نفع نہ دے گا تا وقتیکہ اس کی طرف تو دوسری چیزوں کو نہ  
ملائے گا۔ ایمان تو دل و عمل دونوں کا نام ہے جب تو محنت  
کرتا ہے گا لغزشوں اور خدا کے تعالیٰ کی مخالفت میں مبتلا رہیگا  
اور ان سب امور پر اصرار کرے گا، گناہ کیے جائے گا اور  
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و صدقہ اور افعال خیر چھوڑ دے گا تو تیرا  
یہ دعویٰ ایمان نہ قبول کیا جائے گا نہ وہ تجھے نفع دے گا۔ محض  
کلمہ شہادت بغیر عمل تجھے کیا نفع دے گا جب تو نے لا الہ الا  
اللہ کہا پس بیشک تو مدعی بن گیا۔ تجھ سے کہا جائیگا اے مدعی آیا  
تیسرے پاس دعویٰ کے ثبوت کے گواہ ہیں کون گواہ ہیں؟ اس  
دعویٰ کے گواہ خدا کے حکموں کا بجالانا اور ممنوعات و منہیات سے  
باز رہنا اور آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے سر جھکانا ہیں۔  
یہی اس دعویٰ کے گواہ ہیں پس۔ اور ان عملوں کے قبول ہونے  
کے لیے اخلاص الہی کی شرط ہے کہ بغیر اخلاص کوئی عمل درجہ

كَانَ ذَلِكَ سَبَبُ الْفِرَاقِ بَيْنَكُمْ  
اَحْتَاَجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي اَنَا فِيهَا إِلَى  
قُوَّةِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اَحْتَاَجُ عَلَى  
صَبْرٍ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى  
زَمَانِي اَحْتَاَجُ إِلَى قُوَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ اَللّٰهُمَّ  
لُطْفًا وَعَيْنًا وَمَوَافَقَةً وَرِضًا اٰمِيْنَ -

يَا غُلَامُ مَا خَلَقْتُ لِبَقَاءٍ فِي الدُّنْيَا  
وَالسَّمْتِ فِيهَا فَعَيِّرْ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ مَكَارِهِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَنَعْتَ مِنْ طَاعَةِ  
الْحَقِّ بِقَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  
هَذَا لَا يَنْفَعُكَ حَتَّى تُضَيِّفَ إِلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ  
إِلَّا يَمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ وَلَا  
يَنْفَعُكَ إِذَا آتَيْتَ بِالْمَعْرَصِ وَالزَّلَّاتِ  
وَحَالَفَ الْخُنَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْرَرْتَ عَلَى  
ذَلِكَ وَتَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَ  
الْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ وَأَفْعَالَ الْخَيْرِ فَأَيُّ شَيْءٍ  
يَنْفَعُكَ الشَّهَادَاتَانِ إِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
فَقَدْ أَدْعَيْتَ يُقَالُ أَيُّهَا الْقَائِلُ أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ  
مَا الْبَيِّنَةُ أَمْ تَتَّكِلُ الْأَمْرُ وَإِلَّا نَهَاهَا عَنْ  
النَّهْيِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْآفَاتِ وَالْتِسْلِيمُ  
إِلَى الْقَدْرِ هَذَا هُوَ بَيِّنَةٌ هَذِهِ الدَّعْوَى  
وَلَا إِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ مَا  
تُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِإِلَاحْلَاصٍ لِلْحَقِّ عَزَّ وَ

اے سوا خدا تعالیٰ معبود برحق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ۱۲ سوا خدا تعالیٰ معبود برحق کوئی نہیں ۱۱

قبولیت نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی عمل کو بغیر اخلاص اور سچے گواہوں کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ کسی قدر مال سے فقیروں کے ساتھ مہربانی کرتے رہو جبکہ تم تھوڑے بہت مال کے دینے پر قدرت رکھو تو سائل کو محروم نہ پھیرو۔ خدائے تعالیٰ عطا کو محبوب رکھتا ہے اس میں تم اس کی موافقت کرو اور اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں کیسے اس کا اہل بنادیا اور تم کو عطا مال پر قدرت دے دی۔

تجھ پر انوس جب کہ سائل اللہ عزوجل کا ہدیہ ہے اور تو مال دے دینے پر بھی قادر ہے پس تو اس ہدیہ کو کیسے اس کے ہدیہ سمجھنے والے کی طرف واپس کرتا ہے۔ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے وعظمنتا ہے اور رونا ہے اور جب تیرے پاس فقیر آتا ہے تو تیرا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ تیرا سنا اور رونا خالص اللہ عزوجل کے لیے نہیں میرے پاس بٹھ کر تیرا وعظمننا اولاً ساتھ باطن کے ہو پھر ساتھ قلب کے پھر ساتھ اعضا ظاہری کے کہ وہ بھلائی نیکی میں مشغول رہیں تو جب میرے پاس آئے تو ایسی حالت میں آکر تو اپنے علم اپنے عمل اپنی زبان اور نسب و حسب سے قطع نظر کیے ہوئے اور اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو بھلائے ہوئے ہو دسپا بندہ ہونے کے لیے اسی کی ضرورت ہے میرے سامنے ماسوائے اللہ سے برہنہ ہو کر کھڑا ہوا کہ تاکہ اللہ عزوجل اس کو اپنے قرب و فضل و احسان سے غفلت عطا فرماوے جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا کرے گا تو تو مثل پرندہ کے ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھونسلہ سے صبح کو بھوکا نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ قلب کی نورانیت حق تعالیٰ کے نور سے ہے اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

جَلَّ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلاَ عَمَلٍ وَ عَمَلًا بِلاَ اخْلَاصٍ وَ اخْلَاصًا بِلاَ بَيِّنَةٍ وَ اسْوَأُ الْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْوَالِكُمْ لَا تَرُدُّوْا سَائِلًا وَ اَنْتُمْ تَقْدِرُوْنَ اَنْ تُعْطُوْهُ شَيْئًا قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا وَ اَفْقُوا الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ فِي حَبِّهِ لِلْعَطَاءِ وَ اشْكُرُوْهُ كَيْفَ اَهْلَكْتُمْ وَ اَقْدَرَكُمُ عَلَى الْعَطَاءِ ۔

وَيَحْكُ إِذَا كَانَ السَّائِلُ هَدِيَّةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اَنْتَ قَادِرٌ عَلَى عَطَايْهِ كَيْفَ تَرُدُّ الْهَدِيَّةَ عَلَى مُهْدِيْهَا عِنْدِي تَسْتَمِعُ وَ تَبْكِي وَ اِذَا جَاءَكَ الْفَقِيْرُ يَشْفُوْا قَلْبَكَ فَذَلَّ عَلَى اَنْ سَمَاعَكَ وَ بُكَائِكَ مَا كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ السَّمَاعُ عِنْدِي اَوْ لَا يَلْتَمِمْ بِالْقَلْبِ ثُمَّ بِالْجَوَارِحِ فِي الْخَيْرِ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَادُخُلٍ وَ قَدْ عَزَلْتَ عِلْمَكَ وَ عَمَلَكَ وَ لِسَانَكَ وَ نَسَبَكَ وَ حَسَبَكَ مَعَ نَسِيَانِ مَالِكَ وَ اَهْلِكَ قَفْ بَيْنَ يَدَيَّ غُرْيَانَ الْقَلْبِ عَمَّا سَوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَكْسُوْهُ بِفَرْيَبِهِ وَ فَضْلِهِ وَ مِنْهُمْ اِذَا فَعَلْتَ هَذَا عِنْدَ دُخُولِكَ عَلَى صِرَتٍ كَالطَّائِرِ يَغْدُوْا وَ يَخْمَصُّا وَ يَرُوْهُمْ بِطَانًا نُوْرُ الْقَلْبِ مِنْ نُّوْرِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَ لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ - أَيُّهَا الْفَاسِقُ اِتَّقِ الْمُؤْمِنَ

وَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ مُكَلِّفٌ بِجَاسَةِ  
مَعَاصِيكَ فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ مَا أَنْتَ فِيهِ يَرَى شَرَّكَكَ وَ  
إِنْفَاقَكَ يَرَى غِلَّتَكَ مَخِيبَةً تَحْتَ  
ثِيَابِكَ يَرَى فَضَائِحَكَ وَ هَتَائِجَكَ  
مَنْ لَا يَرَى مُفْلِحًا لَا يَفْلَحُ أَنْتَ  
هَوًى وَ مُخَالَطَتُكَ لَا هِلَ الْهُوسِ  
سَأَلَ سَائِلٌ هَذَا الْعَمَى إِلَى مَتَى  
فَقَالَ إِلَى أَنْ تَقَعَ بِالطَّبِيبِ وَ تَتَوَسَّدَ  
بِعَتَبَتِهِ وَ تَحْسِنَ ظَنِّكَ فِيهِ وَ تُزِيلَ  
مِنْ قَلْبِكَ التُّهْمَةَ لَهُ وَ تَأْخُذَ  
أَوْكَادَكَ وَ تَقْعُدَ عَلَى بَابِهِ وَ تَصْبِرَ  
عَلَى مَرَامَةِ دَوَائِهِ فَحِينَئِذٍ  
يَزُولُ الْعَمَى مِنْ عَيْنِكَ ذَلَّ إِلَهُ  
عَزَّ وَجَلَّ وَ أُنْزِلَ حَوَائِجَكَ بِهِ وَ  
لَا تَعُدَّ لِنَفْسِكَ عَمَلًا أَلْقَهُ عَلَى  
قَدَمِ الْأَفْلَاسِ أَعْلَقَ أَبْوَابَ الْخُلُقِ  
وَ افْتَحَ الْبَابَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ وَ  
اعْتَرَفَ بِذُنُوبِكَ وَ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ  
مِنْ تَقْصِيرِكَ وَ يَكْفُرُ أَنْ لَا ضَارَّ  
وَلَا نَافِعَ وَلَا مُعْطَى وَلَا مَانِعَ  
إِلَّا هُوَ فَحِينَئِذٍ يَزُولُ عَمَى عَيْنِي  
قَلْبِكَ وَ تَحْرُكُ الْبَصَرُ وَ الْبَصِيرَةُ

سچے مومن کی دانائی اور شناخت سے دُروہ تو اللہ عزوجل  
کے نور سے دیکھتا ہے اے فاسق تو سچے ایماندار سے دُرا در  
اس کے پاس ایسی حالت میں نہ جا کہ تو اپنی گناہوں کی نجاست میں  
لتھرا ہوا ہو کیوں کہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے تیری اسی حالت کو جس  
میں تو مبتلا ہے دیکھتا ہے اور مومن تیرے شرک اور لُفّاق کو دیکھتا  
ہے وہ تیری اندر فی الحال کو جو تیرے کپڑوں کے نیچے پوشیدہ ہے  
دیکھتا ہے وہ تیری رسوائیوں و برائیوں کو دیکھتا ہے (جیسے اس سے  
شرم چاہیے) جو شخص اہل فلاح و بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا فلاح نہیں  
پاتا تو سراپا ہوس بنا ہوا ہے اور تیرا میل جول اہل ہوس ہی کے  
کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک پس جواب پایا کہ اس  
وقت تک کہ تو کسی طبیب کے پاس جائے اور تو اس کے آئینہ تہنیکہ لگا کر  
بیٹھ جائے اور تیرا ظن اس کے بارے میں اچھا ہو اور تو اپنے دل سے  
اس کی تہمت دور کر دے اور اپنی اولاد کو لیکر تو اس کے دروازہ پر  
بیٹھ جائے اور اس کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرے پس جب تیرا لریگا  
تیری دونوں آنکھوں سے اندھا پن جاتا رہیگا تو اللہ عزوجل کے  
سامنے ذیل ہو جائیگا کہ اس کے روبرو جھکا دے اور اپنی حاجتوں  
کو اسی پر پیش کر اور کسی عمل کو اپنے نفس کیلئے شمار نہ کر اس سے قدم  
افلاس پر جا کر ملاقات کر اپنے اوپر خلق کے دوا زوں کو بند کر لے  
اور اپنے خدا کے درمیان میں دروازہ کھول لے اور اپنے گناہوں کا  
اقرار کر اور اس کی طاعت میں اپنی قعود داری کا اندر پیش کر اور اس  
بات کا یقین کر لے کہ خدا کے سوا کوئی ضرر پہنچانے والا قادر دینے  
والا عطا فرمانے والا منع کرنے والا نہیں پس اس وقت تیرے قلب کی  
آنکھوں کا اندھا پن جاتا ہے گا اور تیری بصر و بصیرت حرکت  
کرنے لگے گی۔

لے بصر روشنی چشم بصیرت روشنی و بینائی قلب ۱۲

اے غلام! نشان فقر موٹے کپڑوں کے پہنے اور بڑے کھانا کھانے میں نہیں ہے۔ نشان فقر تو زہد قلب میں ہے۔ اولاً سچا عاشق صوف (یعنی جامہ تصوف) اپنے باطن کو پہناتا ہے پھر وہ اس کے ظاہر کی طرف بڑھتا ہے۔ اولاً وہ اپنے باطن کو صوف پہناتا ہے پھر قلب کو پھر اپنے نفس کو پھر اپنے ظاہری اعضاء کو۔ پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی طرف رافت و رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے اور اس مرد خدا صیبت زدہ پر بڑا تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے غم کے کپڑے اتار لیتے ہیں اور جامہ فخرت پہنا دیتے ہیں تکلیف و غم نعمت بدل جاتا ہے اور بغض و غم فرحت اور خوف اس سے اور دوری قربت اور فقر و محتاجی امیری سے۔

اے غلام! اپنے رزق و حصول کو زہد کے ہاتھوں سے کھا نہ کر رغبت کے ہاتھ سے جو شخص کہ کھائے اور روئے وہ اس شخص کی مانند نہیں ہوتا جو کہ کھائے اور ہنسے۔ تو اپنے مقسوم رزق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کو مشغول رکھ کر کھا تو اس حالت میں بہ تحقیق رزق کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ تیرا طبیب کے ہاتھ سے اس چیز کو کھانا جس کی اصل تجھے معلوم نہیں تیرے تنہا کھانے سے بہتر ہے اے سامعین تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے۔ تمہارے درمیان میں سے امانت چلی گئی آپس کی شفقت و مہربانی بالکل نابود ہو گئی۔ تمہارے نزدیک احکام شرعیہ امانت میں تم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور تم ان سب میں خیانت کرنے لگے۔

تجھ پر افسوس ہے اگر تو نے اس امانت کو لازم نہ پکڑا، (احکام شرعیہ بجا نہ لایا) ورنہ عنقریب تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور تیرے دونوں ہاتھ و دونوں پاؤں ٹل ہو جائیں گے اور حق عزوجل تجھے اپنی رحمت مہربانی کا دروازہ بند کرے گا اور اپنی مخلوق کے قلوب میں تیری طرف سے

يَا غُلَامُ لَيْسَ الشَّانُ فِي خَشَوْتِكَ  
تِيَابِكَ وَمَا كَوَّلَكَ الشَّانُ فِي زُهْدِ قَلْبِكَ اَوَّلُ  
مَا يُبَيِّسُ الصَّادِقُ فِي لُبِّهِ الصَّوْفُ عَلَيَّا طِبْنِي  
ثُمَّ يَتَعَدَّى اِلَى ظَاهِرِهِ يُلْبِسُ الصَّوْفَ سَرَّةً  
ثُمَّ قَلْبَهُ ثُمَّ نَفْسَهُ ثُمَّ جَوَارِحَهُ حَتَّى اِذَا صَارَ كَلَّةً  
مُسْتَحْسِنًا جَاءَتْ يَدُ الرَّافِقِ وَالرَّحْمَةِ وَ  
الْيَسْتِ عَبْرَتٌ عَبِيدٍ تَغْيِرُ عَلَى هَذَا الْمَصَابِ  
يُخْلَعُ عَنْهُ ثِيَابُ السَّوَادِ وَيُنْقَلَةُ اِلَى ثِيَابِ  
الْفَرَحِ تَبْدَلُ النِّقْمَةُ اِلَى النِّعْمَةِ وَالْبُغْضَةُ  
اِلَى الْفَرَحَةِ وَالْخَوْفُ اِلَى الْاَمْنِ وَالْبُعْدُ اِلَى  
الْقُرْبِ وَالْفَقْرُ اِلَى الْغِنَا۔

يَا غُلَامُ تَنَاوَلِ الْاَقْسَامَ بِبِيَدِ الزُّهْدِ  
لَا يَبِيدُ الرَّغْبَةُ لَيْسَ مَنْ يَأْكُلُ وَيَبْكِي كَمَنْ  
يَأْكُلُ وَيَضْحَكُ كُلُّ الْاَقْسَامِ وَقَلْبِكَ مَعَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّكَ تَسْلِمُ مِنْ شَرِّهَا اِذَا  
أَكَلْتَ مِنْ يَدِ الطَّيِّبِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَنْ  
تَأْكُلَ وَحْدَكَ مَا لَا تَعْلَمُ أَصْلَهُ مَا أَتَى  
قُلُوبَكُمْ أَلَا مَا نَهَى قَدْ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِكُمْ  
الرَّحْمَةُ قَدْ ذَهَبَتْ فِيمَا بَيْنَكُمْ أَحْكَامُ  
الشَّرْعِ أَمَانَتُكُمْ عِنْدَكُمْ وَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا  
وَحَنَنْتُمْ فِيهَا۔

وَيَحْكُ إِنْ لَمْ تَلْزِمِ الْأَمَانَةَ وَالْأَمَانَةَ  
عَنْ قَرِيبٍ يُنْزَلُ الْمَاءُ إِلَى عَيْنَيْكَ وَالشَّلُّ فِي  
يَدَيْكَ وَرَجْلَيْكَ وَيُعْلِقُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
بَابَ رَحْمَتِهِ عَنْكَ وَيُلْقِي فِي قُلُوبِ خَلْقِهِ

الْقِسَاوَةَ عَلَيْكَ وَيَمْنَعُهُمْ عَنْ عَطَاكَ إِحْفَظُوا  
رُءُوسَكُمْ مَعَ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ أَحْذَرُوا هَمَّهُ  
فَإِنْ أَخَذَهُ أَلَيْمٌ شَرِيدٌ يَأْخُذُكُمْ مِنْ قَامِكُمْ  
مَنْ عَافَيْتَكُمْ مَنْ أَشْرَكُمْ مَنْ بَطَرَكُمْ خَافُوا  
مِنْهُ فَهُوَ إِلَهُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِحْفَظُوا  
نِعْمَتَهُ بِالشُّكْرِ قَابِلُوا أَمْرَهُ وَنَهَيْهِ بِالتَّعَمُّقِ  
وَالطَّاعَةِ قَابِلُوا الْعُسْرَةَ بِالصَّبْرِ وَ  
الْيُسْرَةَ بِالشُّكْرِ هَكَذَا كَانَ مَنْ تَقَدَّمَكُمْ  
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ  
يَشْكُرُونَ عَلَى النِّعَمِ وَيَصْبِرُونَ عَلَى  
الرِّقَمِ قَوْمُوا مِنْ مَوَائِدِ مَعَاصِيهِ  
وَكُلُوا مِنْ مَوَائِدِ طَاعَتِهِ أَلْزَمُوا طَاعَتَهُ  
وَإِحْفَظُوا أَحْذَرُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْيُسْرُ  
فَا شْكُرُوا وَإِذَا جَاءَكُمْ الْعُسْرُ فَتَوَبُّوا مِنْ  
ذُنُوبِكُمْ وَنَاقِشُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ عَزَّو  
جَلَّ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ أَذْكُرُوا الْمَوْتَ  
وَمَا وَرَاءَهُ وَأَذْكُرُوا الرَّبَّ عَزَّوَجَلَّ وَحِسَابَهُ  
وَنَظَرَ آتِهِ إِلَيْكُمْ مِمَّا تَنْتَبِهُونَ إِلَى مَتَى هَذَا  
النُّومُ مَتَى هَذَا الْجَهْلُ وَالتَّرَدُّدُ فِي الْبَاطِلِ  
وَالْقِيَامُ مَعَ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالْعَادَةِ  
لَمْ تَكُنْ تَتَذَبُّوا بِعِبَادَةِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَ  
مَتَابَعَةِ شَرِّعِهِ أَلْعِبَادَةُ تَرَكُوا الْعَادَةَ لَمْ  
لَمْ تَذَبُّوا بِأَدَبِ الْفُرْقَانِ وَكَلَامِ التَّوْبَةِ -

يَا عَلَامَ لَا تَخْلُطِ النَّاسَ مَعَ الْعُلَى مَعَ  
الْجَهْلِ مَعَ الْغَفْلَةِ وَالنُّومِ خَالِطُهُمْ بِالْبَصِيرَةِ

منحی ڈال دے گا اور تجھ پر ان کی طرف سے احسان ہوتے اس سے  
ان کو روک دے گا اپنے سر میں کی اپنے رب عزوجل کیساتھ غفلت  
کرو اسی سے ڈرتے رہو پس تحقیق اس کی پکڑ سخت، دردناک کیفیت  
ہے وہ تم کو تمہاری جائے امن سے تمہاری عافیت تمہاری شادمانی  
حرص نافرمان سے پکڑ لے گا اس سے ڈرو پس وہی ہے آمان اور  
زمینوں کا معبود پس اس کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ حفاظت کرو۔  
اس کا امر و نہی کا سمع (سننے) اور اطاعت سے مقابلہ کرو اور اس کی  
منحی کا صبر سے اور آسانی کا شکر سے مقابلہ کرو وہ لوگ کہ جو تم سے  
پہلے انبیاء و مرسلین اور صلحاء و عابدین گزر گئے ان کا یہی طریقہ  
رہا۔ وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے تم گناہوں کے  
دستر خوانوں سے کھڑے ہو جاؤ اور لطافت بندگی الہی کے دسترخوان  
سے کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طاعتوں کو لازم پکڑو اور حدود الہی کی  
حفاظت کرو جب خدا کی طرف سے نرمی و آسانی آئے پس ان کا شکر  
کرو اور جب تگدستی آئے پس تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور  
اپنے نفوس سے جھگڑا کرو۔ اللہ عزوجل بہ تحقیق بندوں پر ظلم کرنے  
والا نہیں ہے۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو اور  
رب عزوجل اور اس کے حساب و مہربانیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں  
یاد کیا کرو کیا تم نہ جاگو گے کہ یہ نیند ہے گی۔ یہ جہالت  
اور باطل میں آمد و رفت اور نفس و خواہشات کے ساتھ قیام اور  
عادت کی پیروی کب تک ہے گی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور  
شریعت کی متابعت سے ادب آموز کیوں نہیں ہوتے عادت  
کا چھوڑ دینا عبادت ہے۔ احکام قرآن و حدیث سے درس  
لے کر اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے، ادب سیکھو۔

اے غلام ترا آدمیوں سے میل جول اندھا پن جہالت  
خراب و غفلت کے ساتھ نہ کر بلکہ ان سے تیرا میل جول بصیرت و

علم و بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے پس جب تو ان سے اچھا ہو  
تائش کوئی کام دیکھ تو بھی ان کا ساتھ دے اور جب تو ان سے کوئی  
بڑا فعل قابلِ نفی و خلافِ شرع دیکھ تو تو اس سے بچ اور ان  
کو اس سے روک دے تم حق سبحانہ تعالیٰ سے غفلت کلیہ میں ہو۔  
اپنے اوپر اس کے واسطے بیداری ہر شیاری لازم پکڑو تم التزام  
کے ساتھ مسجدوں کی حاضری اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے  
درود خوانی کو لازم پکڑو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
ارشاد فرمایا ہے اگر آسمان سے آگ اترے تو سوائے اہلِ مسجد  
اس سے کوئی نجات نہ پائے جب تم اونے نماز میں سستی کرنے  
لگو گے تو تمہاری نمازیں حق عزوجل سے منقطع ہو جائیں گی اور اسی  
واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا زیادہ نزدیک  
بندہ کی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ سجدہ گزاری  
میں ہوتا ہے۔

تجھ پر افسوس تو کیوں تاویل کرتا ہے اور رخصت کا پہلو ڈھونڈتا  
ہے تاویل کرنے والا دھوکہ باز ہے کاش کہ جب ہم محض عزیمت  
ہی پر عمل کرتے اور ہم اجماع امت سے متعلق ہوتے اور اپنے عملوں  
میں اخلاص کرتے اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے نجات  
پالیتے (تو بھی خیریت تھی) پس کیا حالت ہوگی جب کہ ہم تاویل کریں  
گے اور رخصت کا پہلو ڈھونڈیں گے عزیمت اور اہل عزیمت چلے  
گئے یہ زمانہ تو رخصتوں کا ہی رہ گیا ہے نہ عزیمتوں کا یہ زمانہ مکاری

وَالْعِلْمَ وَالْيَقَظَةَ فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ مَا  
تَحَدُّكَ فَاتَّبِعْهُ وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ مَا  
يَسُوءُكَ فَاجْتَنِبْهُ وَرُدَّهُمْ عَنْهُ أَنْتُمْ  
فِي غَفْلَةٍ كَلْبِيَّةٍ عَنِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمُ  
بِالْيَقَظَةِ لَهُ عَلَيْكُمْ يَلْزُومُ الْمَسَاجِدُ  
وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ  
مَا نَجَا مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ إِذَا  
تَوَاسْتُمْ فِي الصَّلَاةِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكُمْ  
بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  
أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ  
سَاجِدًا۔

وَبِحَاكٍ لِمَ تَتَأَوَّلُ وَتَتَرَخَّصُ الْمَتَّوِّلُ  
غَادِرٌ لَيْتَنَا إِذَا مَرَكْنَا الْعَزِيمَةَ وَ  
تَعَلَّقْنَا بِالْأَجْمَاعِ وَ أَخْلَصْنَا فِي أَعْمَالِنَا  
تَخَلَّصْنَا مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَكَيْفَ  
إِذَا تَأَوَّلْنَا وَتَرَخَّصْنَا الْعَزِيمَةُ ذَهَبَتْ  
وَذَهَبَ أَهْلُهَا۔ هَذَا زَمَانُ الرِّخْصِ  
لَا زَمَانُ الْعَزَائِمِ۔ هَذَا زَمَانُ الرِّبَا

۱۔ شرعی احکام دو قسم پر منقسم ہیں ایک رخصت ایک عزیمت۔ رخصت میں آسانی و نرمی کا پہلو ہے اور عزیمت میں سختی و مشقت کا لحاظ مثلاً  
رمضان المبارک میں ہر بالغ عاقل پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن مرضی اور مسافر کو نہ رکھنے کی اجازت ہے یہ بعد کو قضا کر لیں۔ ان کو نہ رکھنا بشرط استطاعت  
رخصت ہے اور یہ دونوں اگر رکھیں تو عزیمت پر عمل ہوں گے اور زیادہ ثواب پائیں گے نتیجہ پڑھنا تمام نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا عزیمت ہے نتیجہ کی نماز  
نہ پڑھنا اور نفل کا بھی نہ پڑھنا رخصت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جتنی نیت پر تکلیف عبادت میں زیادہ برداشت کی جائیگی اتنا زیادہ اجر کا (باقی حاشیہ بر صفحہ ۹۶)

وَالْتِفَاقٍ وَآخِذِ الْأُمُورِ بِغَيْرِ حَقِّ قَدْرٍ  
كَثْرَ مَنْ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَحُجُّ وَيُزَكِّي وَ  
يَقْعُدُ أَعْمَالُ الْخَيْرِ لِلْخَلْقِ لَا لِلْخَالِقِ  
فَقَدْ صَارَ مُعْظَمُ هَذَا الْعَالَمِ خَلْقًا فِي  
الْخَالِقِ بِإِخْلَاقِ كُلِّكُمْ مَوْتِي الْقُلُوبِ  
أَحْيَاءُ النُّفُوسِ وَالْأَهْوِيَّةِ طَالِبُونَ  
الدُّنْيَا حَيَاتُ الْقُلُوبِ بِالْخُرُوجِ مِنَ  
الْخَلْقِ وَالْقِيَامِ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ  
حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا إِعْتِبَارَ  
بِهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ حَيَاةُ الْقَلْبِ  
بِمُتَشَالِ أَمْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِنْتِهَاءِ  
عَنْ تَلَهِّيهِ وَالصَّبْرَ مَعَهُ عَلَى بَلَايَا وَ  
أَفْضِيَّتِهِ وَأَقْدَامِهِ -

يَا غُلَامُ سَلِّمْ إِلَيْهِ فِي مَقْدُورِهِ  
ثُمَّ تَمَّ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرُ  
يَحْتَاجُ إِلَى آسَاسٍ ثُمَّ بِنَاءٌ وَدَوَامٍ  
عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ أَوْقَاتٍ فِي لَيْلِكَ وَ  
نَهَارِكَ -

وَيَحْكُ تَفَكَّرْ فِي أَمْرِكَ التَّفَكُّرُ  
مِنْ أَمْرِ الْقَلْبِ فَإِذَا سَأَيْتَ لَكَ حَسَنَةً  
فَاشْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى وَإِذَا سَأَيْتَ لَكَ  
سَيِّئَةً فَتُبَّ مِنْهَا بِهَذَا التَّفَكُّرِ  
يَحْيِي دِينَكَ وَيَمُوتُ شَيْطَانُكَ

دکھائے اور لفاق اور بلا کسی حق کے دوسروں کے مال لے لینے  
کا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں جو خلق کے لیے نماز پڑھتے  
روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے اور تمام کار خیر کرتے ہیں، مگر  
خالق کے واسطے (ہر کام دکھائے کا کر رہے ہیں) اس زمانے کے  
لوگوں کا بڑا کام خلق کی طرف متوجہ ہونا بغیر خالق کے رہ گیا ہے۔  
خلق کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تم سب کے قلب مُردہ ہیں نفس  
اور خواہشات نفسانیہ زندہ، تم سب طالب دنیا ہو، حقیقتاً زندہ  
دلی مخلوق سے جدا ہو جانا اور حق عزوجل کے ساتھ قائم ہونا ٹھنڈا  
ہے کیوں کہ اس مقام پر صورت ظاہری کا اعتبار نہیں ہے۔  
حقیقت کا اعتبار ہے (جس کے تم تلمذ ہو) اللہ تعالیٰ کے  
حکم کی بجا آوری اس کے منہیات سے باز رہنے اور اس کی  
بلاؤں پر صبر کرنے تقنا و قد کے سامنے سر جھکا دینے میں قلب  
کی زندگی ہے۔

اے غلام! اولاً تو اپنے آپ کو امر و تقدیر میں خدا کی  
طرف حوالہ کر دے پھر تو اس کے ساتھ قیام کر۔ ہر امر اولاً بنیاد کا  
محتاج ہے بعدہ عمارت کا اور رات دن ہر وقت اس پر ہمیشگی  
کرنے کا ہمیشگی ضروری ہے (عمل نیک و عبادت علی الدوام ہونا  
چاہیے نہ کبھی کبھی)۔

تجھ پر افسوس ہے۔ تو اپنے ہر معاملہ میں غور و فکر کیا کر جو  
کہ ایک قلبی امر ہے پس جب تو اس میں اپنے لیے بہتری دیکھے  
تو تو اس پر شکر گزار ہو کہ شکر نعمت اللہ کے لیے ضروری ہے۔  
اور جب اس میں تجھے اپنے لیے بُرائی معلوم ہو تو اس سے توبہ  
کر لے۔ اس غور و فکر سے تیرا دین زندہ ہو جائیگا اور تیرا شیطان ماریٹا

اور اسی واسطے فرمایا گیا ہے ایک ساعت کا تفکر ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔

اے اُمّت محمدی علیہ السلام تم اللہ عزوجل کا شکر کرو۔ اس نے تمہارے ایسے عمل پر جو بہ نسبت اہم ماضیہ کے قلیل ہے فناعت فرمائی ہے۔ دنیا میں تم پچھلے ہو بعد کے آنے والے ہو اور تم قیامت کے دن پہلے ہو دخولِ جنت و رحمت الہی میں تم میں سے جو صحیح و تندرست ہے پس اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں۔ تم امیر و سرور ہو اور دوسری امتیں تمہاری رعیت جب تک تو خلق ان چیزوں میں جو ان کے قبضہ و تصرف میں ہیں جھگڑتا رہے گا اور ان کو اپنے ریا و نفاق سے کھینچتا رہے گا تندرستی حاصل نہ ہوگی۔ جب تک تو دنیا میں رغبت کرنے والا رہے گا تجھے صحت و تندرستی نہ ملے گی۔ جب تک تو اپنے قلب سے غیر پر بھروسہ کر نہ والا رہے گا۔ خدا پر بھروسہ نہ کرے گا تو صحیح و تندرست نہ بنے گا۔ اے اللہ تو ہم کو اپنی معیت کی صحت و تندرستی عطا فرما اور ہم کو دنیا و آخرت کی ٹھیکیاں دے اور ہم کو خدا پر ہنم سے بچا۔ آمین۔

### تیسری مجلس

وَلِهَذَا قِيلَ تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَشْكُرُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ قَدْ قَنَعَ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى عَمَلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْكُمْ أَنْتُمْ الْآخِرُونَ وَأَنْتُمْ الْآوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَبِيحًا فَلَا صَبِيحَ مِثْلَهُ أَنْتُمْ الْأَمْوَاءُ وَغَيْرُكُمْ مِنَ الْأَمَمِ الرَّعِيَّةُ مَا دُمْتَ مُنَازِعًا لِلْخَلْقِ فِيهَا فِي أَيْدِيهِمْ مُسْتَجْلِبًا لَهُ بِرِيَاءٍ لَكَ وَنِفَاقَكَ لَا صَحَّةَ لَكَ مَا دُمْتَ رَاغِبًا فِي الدُّنْيَا فَلَا صَحَّةَ لَكَ مَا دُمْتَ وَارِثًا بِقَبْلِكَ مَعَ سِوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فَلَا صَحَّةَ لَكَ۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الصَّحَّةَ مَعَكَ وَاتِّبَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

### المجلس الثالث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً بِاللَّهِ سِتْرُ الْعُثُورَةِ تَأْتِي شَرَّ السَّنَةِ تَحْمِيصُ قُلُوبِ الْعَالَمِينَ فِي عَشْرِ مِائَةٍ۔

أَيُّهَا الْفَقِيرُ لَا تَتَمَنَّ الْغَنَى فَلَعَلَّهُ سَبَبُ هَلَكَكَ وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَرِيضُ لَا تَتَمَنَّ الْعَافِيَةَ فَلَعَلَّهَا سَبَبُ هَلَكَكَ كُنْ عَاقِلًا إِحْفَظْ ثَمْرَكَ يَحْمَدُ أَمْرَكَ إِنْ نَعَزَ

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن بوقت صبح ۸ شوال المکرم ۵۴۵ھ ہجری کو مدرسہ شریعی میں ارشاد فرمایا:

اے فقیر تو غنا (امیری) کی آرزو مت کر ہو سکتا ہے کہ وہ غنا تیری ہلاکت کا سبب ہو اور اے بیمار تو عافیت و صحت کی آرزو نہ کر ہو سکتا ہے کہ وہ صحت تیری ہلاکت کا سبب ہو عاقل بن اپنے ثمر (نتیجہ) کی حفاظت کر انجامِ محمود ہوگا جو امرِ مقدور تیرے

ساتھ ہے اسی قدر پر کفایت کرے اور اس پر زیادتی نہ طلب کرے۔  
راضی برضارہ ہر وہ چیز جو تیرے سوال پر حق تعالیٰ کی طرف سے ملے گی  
ضرور رکھ رہا اور ناپسندیدہ ہوگی تحقیق میں نے اس کو آزمایا ہے  
مگر جب بندہ کو اس کے قلب کی جانب سے سوال کا حکم کیا جاوے اور  
اس پر سوال ہو تو اس میں برکت دی جائے گی اور اس سے خرابیاں  
دور کر دی جائیں گی تیرا اکثر سوال غفور و عافیت دائمی صحت مسلمانی  
دائیں کا ہوا اور فقط اسی پر تیرا اکتفا و قناعت ہو اللہ عز و جل پر کسی  
خاص چیز کو پسند کر اور اس پر جبر کر ایسا کرنا تجھے ہلاک کر دے گا  
تو خدا نے تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر اپنی جوانی و قوت و مال کی وجہ سے  
جبر گردن کشی نہ کرے تحقیق وہ تجھ پر حملہ کرے گا اور اپنی پکڑ سے پکڑ  
لے گا۔ اس کی پکڑ سخت مصیبت میں ڈالنے والی ہے۔

تجھ پر انہوں نے تیری زبان مسلم ہے اور لیکن تیرا قلب مسلم نہیں  
تیرا قول مسلمان ہے فعل مسلمان نہیں۔ تو مجلسوں میں انہوں میں مسلمان  
ہے غلو میں مسلمان نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ تحقیق جب تیرا نماز پڑھے  
گا اور روزہ رکھے گا اور تمام افعال خیر کرے گا اور یہ تیرے  
اعمال خدا کے لیے نہ ہوں گے۔ پس تو منافق ہے اللہ عز و جل  
کی رحمت سے دور ہونے والا۔ ابھی تو اپنے تمام افعال اقبال  
اور خراب و ناکارہ مقاصد سے توبہ کرنے۔

مردان خدا کے عملوں میں رنگ برنگ کا اتفاق نہیں ہوتا  
وہ اعلیٰ مرتبوں پر پہنچنے والے یقین کرنے والے خدا کو ایک طاعت  
والے اخلاص والے، اللہ تعالیٰ کی بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرنے  
والے اس کی نعمتوں اور کرامتوں پر شک نہ کریں۔ وہ اولاً اللہ  
تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے ہیں پھر اپنے قلوب سے  
پھر ساتھ باطن کے۔ جب ان کو مخلوق کی طرف سے بلائیں اور  
تکلیفیں آتی ہیں تو وہ ان کے روبرو اس پر تسلیم کرتے اور مکررات

بِهَذَا الْقَدْرِ الَّذِي مَعَكَ وَلَا تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَيْهِ  
كَلَّمَا يُعْطِيكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِسُؤَالِكَ فَيَكُونُ  
كَدَاوِلٍ وَبَعْضُهُ قَدْ جَرَّبْتُ هَذَا أَلَا أَنْ يُؤَمَّرَ  
الْعَبْدُ مِنْ حَيْثُ قَلْبُهُ بِالسُّؤَالِ فَإِذَا أُمِرَ بِالسُّؤَالِ  
بُورِكَ لَهُ كَيْفَمَا سَأَلَ وَأُزِيلَتْ أَلَا كَدَاوِلُ عَنْهُ وَلِيَكُنْ  
أَكْثَرُ سُؤَالِكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتِ الدَّائِمَةَ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنْ نَعَمْ هَذَا اخْتِصَابٌ لَا  
تَتَخَيَّرُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْتَزُّ فَإِنَّهُ يَقْصِمُكَ  
وَلَا تَجْتَزُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى خَلْقِهِ بِشَأْنِكَ  
وَقُوَّتِكَ وَمَالِكَ فَإِنَّهُ يَبْطِشُ بِكَ وَ  
يَأْخُذُكَ مِنْ أَخْذِهِ فَإِنْ أَخَذَكَ الْيَوْمَ شَدِيدٌ  
وَيَحْكُ لِسَانُكَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا قَلْبُكَ  
فَلَا قَوْلُكَ مُسْلِمٌ أَمَّا فِعْلُكَ فَلَا أَنْتَ فِي حِلِّ تِلْكَ  
مُسْلِمٌ أَمَّا فِي خَلْقِكَ فَلَا أَمَّا تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا  
صَلَّيْتَ وَصُمْتَ وَفَعَلْتَ جَمِيعَ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَلَمْ  
تُرِدْ بِهَذَا الْأَعْمَالِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْتَ  
مُنَافِقٌ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَبِ الْأَنْ إِلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِكَ وَأَقْوَالِكَ وَمَقَاصِدِكَ الدُّنْيَا  
الْقَوْمُ لَيْسَ فِي أَعْمَالِهِمْ نِفَاقٌ مُلْكُونَ  
هُمْ الْفَائِزُونَ هُمْ الْمُوقِفُونَ الْمَوْجِدُونَ  
الْمُخْلِصُونَ الصَّابِرُونَ عَلَى بَلَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَإِفَاتِهِ الشَّاكِرُونَ عَلَى نِعَمَائِهِ وَكَرَامَاتِهِ  
يَذْكُرُونَهُ بِالسَّنَةِ هُمْ ثَمَرُ بَقْلِهِمْ شَمٌّ  
يَأْسَأِرُهُمْ إِذَا جَاءَ ثَلَمُهُمُ الْبَلَايَا  
أَلَا ذَايَا مِنَ الْخَلْقِ تَبَسَّمُوا فِي وُجُوهِهِمْ

مَلُوكِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ مَعَزُؤُ لَوْثَ  
جَمِيعُ مَنْ فِي الْأَرْضِ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ  
عَجَزِي مَرَضِي فَقَرَأَ الْجَنَّةُ بِالْإِضَافَةِ  
إِلَيْهِمْ كَأَنَّهَا خَرَابٌ - النَّاسُ بِالْإِضَافَةِ  
إِلَيْهِمْ مَخْمُودَةٌ لَا أَرْضَ وَلَا سَمَاءَ  
وَلَا سَاكِنٌ فِيهَا يَتَّحِدُ جِهَاتُهُمْ فَتَصِيرُ  
جِهَةً وَاحِدَةً كَالْوُكُلِ مَعَ الدُّنْيَا وَاهْلِيهَا  
ثُمَّ صَارُوا مَعَ الْأُخْرَى وَاهْلِيهَا ثُمَّ صَارُوا  
مَعَ رَبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِتَحَقُّوَابِهِ  
وَبِالْمُحِيطِينَ لَهُ سَارُوا مَعًا يَقُولُ بِهِمْ  
حَتَّى وَصَلُوا إِلَيْهِ وَحَصَلُوا الرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ  
إِفْتَحُوا الْبَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ بِذِكْرِهِمْ  
مَا زَالُوا يَذْكُرُونَهُ حَتَّى حَطَّ الذِّكْرُ عَنْهُمْ  
أَوْ زَالَ هُمْ فَقَدْ هُمْ مَعَ غَيْرِهِمْ وَجُودُهُمْ  
بِهِ سَمِعُوا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ  
وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ فَلَا تَمُوتُوا  
الذِّكْرُ لَهُ طَمَعًا فِي ذِكْرِهِ لَهُمْ سَمِعُوا  
قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ مَا تَكَلَّمَ  
بِهَا أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي فَهَجَرُوا  
مَجَالِسَ الْخَلْقِ وَقَنَعُوا بِالذِّكْرِ حَتَّى تَحْصَلَ  
لَهُمُ الْمَجَالِسَةُ لَهُ -

يَا قَوْمِ لَا تَتَّبِعُوا سَوَاءَ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ  
الْعِلْمُ لَا يَنْفَعُكُمْ بِأَعْمَلٍ تَخْتَلِجُونَ أَنْ

رہتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے بادشاہ معزول ہیں۔ تمام زمین  
میں بسنے والے ان کے نزدیک مرنے والے و عاجز محتاج ہیں ان کے  
اعتبار سے جنت گویا دیرانہ ہے اور دوزخ باعتبار ان کے گویا  
بکھی ہوئی ہے۔ ان کی نظر میں نہ زمین ہے نہ آسمان نہ ان کی نظر  
کے رہنے والے ان کی جہتیں متحد ہو کر ایک جہت بن گئی ہیں۔  
اولاً دنیا و اہل دنیا کے ساتھ تھے پھر آخرت و اہل آخرت کی  
طرف رجوع ہوئے پھر رب دنیا و آخرت کے ساتھ رجوع  
ہو کر اس سے اور اس کے محبوبوں سے مل گئے۔ دلوں سے  
خدا کے ساتھ سیر کرتے رہے یہاں تک کہ واصل بنی ہو گئے  
اور رفیق کو قبل راستہ چلنے کے حاصل کر لیا۔ اے سامعین تم  
اپنے اور خدا کے درمیان میں ان کے ذکر سے دروازہ کھول  
لو۔ مردان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ  
ذکر الہی ان سے ان کے بوجھوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان کا غیر اللہ  
سے مفقود رہنا اللہ کے ساتھ موجود ہونا ہے۔ انہوں نے ارشاد  
الہی سنا فاذکر فی الآتیم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور  
تم میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو پس انہوں نے اس طمع سے کہ خدا  
ان کا ذکر کرے خدا کے ذکر کو لازم پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے  
احادیث قدسیہ میں اللہ عزوجل کا قول سنا انا جلیس الخ میں  
ان کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کریں پس اس خیال سے کہ ان کو خدا  
کے ساتھ ہم نشینی کا شرف مل جائے انہوں نے مخلوق کی محبتوں کو  
چھوڑ دیا اور ذکر الہی پر قانع ہو گئے۔

اے قوم تم ہوسناک نہ بنو۔ تم بالہوس ہو یہ علم بغیر عمل کے  
تمہیں نفع نہ دے گا۔ تم اس بات کے حاجت مند ہو کہ اس سیاہی پر جو

اے حدیث قدسی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اور وہ ملائکہ آیات قرآن مجید کے ہو۔ قادری غفرلہ

سیدی پر ہے یعنی احکام الہی پر عمل کرتے رہو۔ ان پر تمہارا عمل برابر روزانہ و سالانہ رہے تاکہ اس کا پھل تمہارے ہاتھوں میں آئے نتیجہ ملے

اے غلام! تیرا علم تجھ کو ندادیتا ہے پکارتا ہے کہ اگر تو نے میرے موافق عمل نہ کیا تو میں تیرے اوپر رحمت ہوں اور اگر عمل کیا تو تیرے واسطے تجھ پر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ تحقیق علم عمل کو پکارتا ہے پس اگر عالم نے اس کو قبول کیا عامل بنا تو بہتر ورنہ علم چلا جاتا ہے اس کی برکت چلی جاتی ہے، اور اس کی رحمت باقی رہتی ہے۔ مولیٰ تعالیٰ سے علم کا تیسریے شفاعت کرنا چلا جاتا ہے اور تیری حاجتوں میں علم کا تم سے کام دینا منقطع ہو جاتا ہے اس کا مغر چلا جاتا ہے اور چھلکا باقی رہ جاتا ہے اس لیے کہ مغر علم عمل ہے تیری پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر اس کے کہ تو حضور کے تمام اقوال پر عمل کرے صحیح نہ ہوگی جب تو حضور کے تمام حکموں پر عمل کرے گا تو تیرا قلب باطن تیرا استقبال کرے گا اور علم ان دونوں کو ان کے رب کے پاس داخل کر دے گا تیرا علم تجھ کو پکارتا ہے اور لیکن تو اس کو نہیں سنتا اس لیے کہ تیرے قلب ہی نہیں ہے اے سامع تو علم کی آواز کو قلب و باطن کے کان سے سن اور اس کے قول کو قبول کر، تو اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے عمل والا علم تجھ کو اس عالم سے نزدیک کر دے گا جو علم کا اتارنے والا ہے جب تو اس حکم پر جو علم اقل ہے عمل کرے گا تو

تَعْمَلُوا هَذَا السَّوَادَ عَلَى الْبَيَاضِ وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْمَلُونَ بِهِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَسَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ حَتَّى تَقَعُ بِأَيْدِيكُمْ ثَمَرَةٌ يَا غُلَامَ عَلِمْتُ يَنَادِيكَ أَنَا حُجَّةٌ عَلَيْكَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْ بِي وَحُجَّةٌ لَكَ إِنْ عَمِلْتَ بِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَهْتَفُ الْعُلَمَاءُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا أَمَرَ تَحَلُّ تَرْجِعُ بِرُكَّتِهِ وَتَبْنِي حُجَّتَهُ تَرْجِعُ شَفَاعَتُهُ لَكَ مِنْ مَوْلَاكَ وَبِنَقْطَةِ دُخُولِهِ عَلَيْكَ فِي حَوَائِجِكَ أَمَرَ تَحَلُّ لُبُّهُ وَبَقِيَ قُشُورًا فَإِنَّ لُبَّ الْعُلَمَاءِ الْعَمَلُ لَا يَصْنَعُهُ مُتَابِعُكَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَعْمَلَ بِمَا قَالَ إِذَا عَمِلْتَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ اسْتَقْبَلَ قَلْبُكَ وَسِرُّكَ وَأَدْخَلَهَا عَلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ عِلْمُكَ يَنَادِيكَ وَلِكِنَّكَ لَا تَسْمَعُ لِأَنَّكَ لَا تَقَلْبُ لَكَ اسْمَعُ يَا ذِينَ قَلْبِكَ وَبِئْسَ مَا أَقْبَلَ قَوْلُهُ فَإِنَّكَ تَنْتَفِعُ بِهِ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ يُقَرِّبُكَ إِلَى الْعَالَمِ الْمُنْزَلِ لِلْعِلْمِ إِذَا عَمِلْتَ بِهَذَا الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ الْأَوَّلُ نُبَعَتْ عَلَيْكَ عَيْنُ الْعِلْمِ الثَّانِي يَصِيرُ عِنْدَكَ

اے تیرے واسطے رحمت یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نافع ہو اور تیرے اوپر رحمت یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نقصان پہنچائے۔ زبان عرب میں (علی) ضرر پر دلالت کرتا ہے (لام) نفع پر۔ قادری مغر

تیسرا اور دوسرا علم کا پتھر اُبلنے لگے گا اور تیسرا پاس دوپٹے والے ہو جائیں گے تیسرا قلب حکم و علم ظاہر و باطن سے پُر ہو جائے گا۔ اس وقت تیسرا اور پاس کی زکوٰۃ ادا کرنا قاف ہوگی کہ تو اپنے بھائیوں اور مریدوں کی اس کے ساتھ غمخواری کرے۔ علم کی زکوٰۃ علم کا پھیلانا اور مخلوق الہی کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔

اے غلام! جس نے صبر کیا اس نے قدرت پالی صاحب قدر و قادر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنْدَا يُوْفِي الْاٰيَةَ صَابِرٌ بے شمار اجر پائیں گے۔ تو اپنے کسبے کھا، دین فروشی کر کے نہ کھا کسب کر اور کھا اور اس سے دوسروں کی غمخواری کر مسلمانوں کی کمائی صدیقیوں کے مطابق ہیں۔ ان کے پیشوں محنت مزدوری کی غرض صرف خدمت فقر و مساکین ہوتی ہے وہ خلق کو راحت پہنچانے کے متمنی رہتے ہیں اور اس سے حق عز و جل کی رضا مندی اور محبت طلب کرتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنا ہے۔ آدمی اللہ عز و جل کی نیال ہیں اور محبوب تر آدمیوں کا طرف اللہ کی وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اولیا را اللہ بقابلہ خلق کے گونگے، ہرے اندھے ہیں۔ جب ان کے قلوب حق عز و جل سے نزدیک ہو جاتے ہیں وہ غیر خدا کا کلام نہیں سنتے نہ غیر کو دیکھتے ہیں، ان کو قرب الہی سے شدت کا رونا آتا ہے اور ان کو مصیبت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور محبت الہی ان کے محبوب کے پاس ان کو مقید کر دیتی ہے۔ پس وہ مقام جلال و جمال

عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ يَحْشَىٰ قَلْبَكَ الْحَكْمُ  
وَالْعِلْمُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ حَيْثُ يَنْتَجِبُ  
عَلَيْكَ زَكَاةُ ذَلِكَ تَوَاسَىٰ بَيْنَ الْاِخْوَانِ  
وَالْمُرِيدِينَ زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ  
وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ اِلَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ۔

يَا غُلَامُ مَنْ صَبَرَ قَدَرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
اِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ كُلُّ يَكْسِبِكَ وَلَا تَأْكُلُ  
بِيَدِيكَ اِكْتَسَبَ وَكُلُّ وَارِسٍ مِنْهُ  
غَيْرَكَ اَكْسَابُ الْمُؤْمِنِينَ اَطْبَقُ  
الصِّدْقَيْنِ لَا حَظَّ لِحِرِّهِمْ بِالْاِضَافَةِ  
اِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ يَتَمَتُّونَ  
اِيْضًا اِلَى الرَّاحَةِ اِلَى الْخَلْقِ يَطْلُبُونَ  
بِذَلِكَ رِضَا الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَتَحَبُّتُهُ  
لَهُمْ سَمِعُوا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ النَّاسُ عِيَالُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحَبُّ  
النَّاسِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِمْ اَوْلِيَاُ  
اللَّهُ بِالْاِضَافَةِ اِلَى الْخَلْقِ صَمْعُكُمْ عَمِي اِذَا  
قَرِبَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ لَا يَسْمَعُونَ  
مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَبْصُرُونَ يَلْتَمِعُهُمُ الْقُرْبُ وَيَغْشَاهُمُ  
الْهَيْبَةُ وَيَقْبِدُهُمُ الْمَحَبَّةُ عِنْدَ تَحَبُّوهُمْ فَهُمْ بَيْنَ

اے عیال زن اولاد کو بھی کہتے ہیں نیز اُن کو جن کی نگہداشت ذمہ میں واجب اور نفقہ لازم ہو۔ یہاں یہی آخر معنی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام

خلق کا مفضل ہے ۱۰ قادری غفرلہ

کے درمیان رہتے ہیں۔ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے۔ ان کے لیے اگلا ہی رُخ ہے بغیر پیچھے کے۔ ان کی آدمی بہن فرشتے اور تمام مخلوقات خدمت کرتے ہیں ان کے حکم و علم خادم بن جاتے ہیں۔ فضل الہی ان کو غذا دیتا ہے اور انس ان کو سیراب کرتا ہے۔ وہ فضل الہی کے طعام سے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے شراب انس سے سیراب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کلام الہی کا سننا ایسا شغل ہے کہ وہ دوسری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ پس مردان خدا ایک جنگل و میدان میں ہیں اور دوسری مخلوق دوسرے میدان میں۔ مردانِ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مخلوق الہی کو خدائی احکام بتانے مہیات سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کا کام ہے۔ حقیقہً سرکار رسالت کے ہی وارث ہیں۔ ان کا کام مخلوق کو خالق کے دروازہ کی طرف لوٹانا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں پر قائم کر دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو ان کے مقاموں پر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر صاحبِ فضل کو اس کا حصہ فضل دیتے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور ان پر اپنے نفوس و طبائع کے لیے قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی محبت ان کا بغض دشمنی صرف اللہ عزوجل کے ہی لیے ہوتی ہے۔ یہ سزا پامو عشق الہی رہتے ہیں کسی غیر کا ان میں حصہ نہیں جس کو یہ تمام غریباں ملیں اس کو کامل صحت حاصل ہوئی نیز نجات و کامیابی اور تمامی انس و جن فرشتے زمین آسمان اُس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور مطیع ہو جاتے ہیں۔

اے منافق اے خلق و اباب کے سچاری حق عزوجل کے بھول جانے والے باوجود ان حالات کے جن میں تو مبتلا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مراتب اولیا تیرے

الْجَلَالُ وَالْجَبَالُ لَا يَمِيلُونَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا لَهُمْ أَمَّا مُرَبِّلَا وَرَأَى يَخْدُهُمُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَنْوَاعُ الْمَخْلُوقَاتِ يَخْدُهُمُ الْحُكْمُ وَالْعِلْمُ يُغْذِيهِمُ الْفَضْلُ وَيُرْوِيهِمُ الْإِنْسُ مِنْ طَعَامٍ فَضْلِهِ يَا كُلُّونَ وَمِنْ شَرَابٍ أَنَسِهِ يَشْرَبُونَ عِنْدَهُمْ شُغْلٌ مِنْ سَمَاعِ كَلَامِ الْحَقِّ فَهُمْ فِي وَادٍ وَالْخَلْقُ فِي دَادٍ يَأْمُرُونَ الْخَلْقَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَنْهَوْنَ عَنْ نَهْيِهِ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ الْوَارِثَاتُ عَلَى الْحَقِيقَةِ شُغْلُهُمْ رَدُّ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ يَرْكَبُونَ حُجَّتَهُ عَلَيْهِمُ يُوقِعُونَ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاقِعِهَا يُعْطُونَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ لَا يَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ وَلَا يَسْتَوْفُونَ لِنَفْسِهِمْ وَطَبَاعِهِمْ يُجِبُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَبْغُضُونَ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كُلُّهُمْ لَهُ لَا غَيْرَ فِيهِمْ نَصِيبٌ مَنْ تَمَرَّ لَهُ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الصَّحَّةُ وَحَصَلَتْ لَهُ النَّجَاةُ وَالْفَلَاحُ وَيُحِبُّهُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔

يَا مُنَافِقُ يَا عَابِدَ الْخَلْقِ وَالْأَسْبَابِ نَاسِيًا لِلْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ تُرِيدُ أَنْ يَقَعَ بِيَدِكَ هَذَا مَعَ مَا أَنْتَ فِيهِ لَا كَرَامَةَ

قبضہ میں آجائیں۔ دربار الہی میں تیری کوئی عزت و کرامت نہیں  
اولاً اسلام لا پھر علم پڑھ پھر عمل کر پھر توبہ اخلاص کے ساتھ کورنہ  
تجھے ہدایت نہ ملے گی۔

تیکر اوپر افسوس ہیکر اور تیکر درمیان میں کوئی  
علاوت نہیں ہے۔ البتہ میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور کوئی  
فرگذاشت دین الہی کے معاملہ میں تجھ سے نہیں کرتا۔ میں نے  
مشائخ کرام کی سخت کلامی اور مسافرت و فقر کی سختی میں تربیت  
پائی ہے۔ جب میں تجھ سے کچھ کلام کروں تو تو اس کو اس حالت  
میں سن اور قبول کر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کہ  
اس نے اس کلام کے ساتھ مجھے گویا کیا ہے جب تو تیکر  
پاس آئے تو اپنے نفس و خواہشات پر ہنہ ہو کر آ۔ اگر تجھے  
بصیرت ہوتی تو تو مجھے بھی ان چیزوں سے برہنہ دیکھتا لیکن  
تیری خراب سمجھ کی آفت ہے۔ اے میکرمید صحبت اور  
مجھ سے نفع لینے کے خواہشمند میری ایسی حالت ہے کہ نہ  
جس میں خلق ہے نہ دنیا اور نہ آخرت پس جو شخص میکرمید  
پر توبہ کرے اور میکرمید ساتھ ہے اور میکرمید ساتھ حسن ظن  
رکھے اور جو کچھ میں کہوں اس پر عمل کرے وہ بھی ان شرا اللہ  
ایسا ہی ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ جل مجدہ انبیاء کرام علیہم السلام  
کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرماتا ہے اور اولیاء اللہ کی۔

(رحمۃ اللہ علیہم) تربیت اپنی حدیث سے جو کہ اللہ امام قلبی ہے  
بحقیق اولیاء اللہ انبیاء کرام کے وحی اور خلیفہ اور غلام ہیں۔  
اللہ عز وجل کلام کرنے والا ہے کلام اس کی صفت ہے۔  
موسیٰ علیہ السلام سے خود خالق و علام الغیوب نے ہی کلام کیا۔ نہ  
مخلوق نے اور بلا واسطہ خالق تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسا کلام  
کیا جس کو وہ سمجھ گئے اور وہ کلام ان کی عقل تک پہنچ گیا اور

لَكَ وَلَا عِزَّازَةً أَسْلَمْتُ ثُمَّ تَبْتُ ثُمَّ تَعَلَّمْتُ  
ثُمَّ تَعَمَلْتُ وَأَخْلَصْتُ وَإِلَّا فَلَا تَهْدِي۔

وَيُحَكِّمُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ عِدَاوَةً  
غَيْرَ آتِيٍّ أَقُولُ الْحَقُّ وَلَا أَحَابِيكَ فِي  
دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَرَبَّيْتُ عَلَى خُشُونَةٍ  
كَلَامِ الْمَشَارِئِمْ وَخُشُونَةِ الْعُرَبِ وَالْفَقْرِ  
إِذَا ظَهَرَ مِثِّي إِلَيْكَ كَلَامٌ فَخُذْهُ مِنْ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْطَقَنِي بِهِ إِذَا  
دَخَلْتَ عَلَيْهِ فَادْخُلْ عُرِيًّا نَاعِنُ نَفْسِكَ  
وَهُوَ أَلَوْ كَانَ لَكَ بَصِيرَةٌ لَرَأَيْتَنِي  
أَيْضًا عُرِيًّا نَا وَلَكِنْ أَفْتَهُ فَهَبَكَ السَّقِيمُ  
يَا مُرِيدُ صُحْبَتِي وَالْإِنْتِفَاعِ عُرِيٍّ حَالَتِي  
لَيْسَ فِيهَا خَلْقٌ وَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةٌ فَمَنْ  
يَتُوبُ عَلَى يَدَيَّ وَيُصْحِبُنِي وَيُحْسِنُ  
ظَنَّهُ رَفِيٌّ وَيَعْمَلُ بِمَا أَقُولُ هَكَذَا  
يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَنْبِيَاءُ  
يُرَبِّيهِمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِكَلَامِهِمْ وَ  
الْأَوْلِيَاءُ يُرَبِّيهِمْ بِحَدِيثِهِ الْحَدِيثُ  
هُوَ الْأَلْعَامُ لِقُلُوبِهِمْ لَا تَهْمُ أَوْصِيَاءُ  
الْأَنْبِيَاءُ وَخُلَفَاءُ هُمْ وَغُلَمَانُهُمْ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُتَكَلِّمٌ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ  
السَّلَامُ هُوَ كَلَّمَهُ لَا مَخْلُوقٌ كَلَّمَهُ  
الْخَلْقُ كَلَّمَهُ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ كَلَّمَهُ  
بِكَلَامٍ فَهَمَّ وَبَلَغَ إِلَى عَقْلِهِ

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد علی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا یہ قرآن مجید ہمارے تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی مضبوط سی ہے جس کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے لا کر اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا جیسا کہ اس نے فرمادیا اور خبر دے دی جس کا انکار جائز نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو کل کو ہدایت دے اور کل پر توبہ ڈال دے اور کل پر رحمت فرما۔

امیر المؤمنین معتمد باللہ سے حکایت کی گئی ہے کہ اس نے وقت موت کہا تھا اتم بعد میں اللہ کی طرف اس فعل سے جو میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کیا ہے باوجود اس کے کہ میں خود اس کا بانی نہ تھا میرے سوا دوسرے لوگ اس کا سبب بنے تھے البتہ توبہ کرتا ہوں۔ اے مسکین ایسے امر میں کہ تجھے مفید نہ ہو کلام نہ کر گنت گر چھوڑ دے اور مذہبی امور میں تعصب کو چھوڑ دے اور ایسی چیز میں مشغول ہو جو تجھے دنیا و آخرت میں نفع ہو عنقریب تو اپنی حالت و نتیجہ کو دیکھے گا اور میرے کلام کو یاد کرے گا قریب تر معرکہ میں نیزہ بازی کے وقت ایسی حالت میں کہ تیرے سر پر خود نہ ہو گا۔ معلوم ہو گا کہ کتنے زخم کاری اس پر کس وجہ سے پڑے ہوں گے۔ تو اپنے قلب کو دنیا کے مقاصد و غموں سے خالی کر لے بتحقیق تو ان کی وجہ سے عنقریب

بلا واسطہ و کلمہ نبینا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ هذا القرآن جبل اللہ الثنین هو بینکم و بین ربکم عز وجل انزلہ علی جبریل علیہ السلام من السماء من عند اللہ عز وجل انزلہ الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال و یحییٰ اخیبرا یحیو زلا نکار ذلک و یجودہ اللہ اهدا کل و تبجی حکم عن امیر المؤمنین المعتمد باللہ رحمۃ اللہ علیہ انا قال وقت حضور وفاته واللہ انا تائب الی اللہ عز وجل متا فعلت فی حق احمد بن حنبل مع کونی ما تقلدت من امرہ شیئا و غیرہ کان المتقلد لذلک یا مسکین دہ الکلام فیما لا ینفعک اترك التعصب فی المذهب و اشتغل بشئ ینفعک فی الدنیا و الاخرۃ ستتری عن قریب خبرک و تذکر کلا فی سوف ترى عند الطعان و لیس علی رأسک خودۃ ایش یتقر علیہ الجراحات افرغ قلبک من هموم الدنیا فانتک ما خود و منها عن قریب لا تطلب

۱۔ معتمد اصل واقعہ یہ ہے کہ معتمد باللہ کے زمانہ میں اس کے دربار میں چند معتزلہ نے دخل پایا تھا۔ انہوں نے یہ خراب عقیدہ پھیلا کر قرآن مخلوق و حادث ہے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے دلائل شرعیہ سے ان سے اختلاف کیا معتمد پر معتزلہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا جس وجہ سے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے دے سے لگا کر عقیدہ کر دیا لیکن آپ نے سختی گوی نہ چھوڑی اور آخر تک یہی فرماتے رہے کہ قرآن مجید کلام الہی غیر مخلوق ہے۔ ۲۔ یعنی اگر کوئی امر خلاف حق ہو اور تجھے معتزلہ ذرائع سے اس کا باطل ہونا معلوم ہو جائے تو وہ قابل ترک ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مذہب کو مضبوطی کے ساتھ لازم نہ پکڑے۔ دین میں شدید بنے جیسا کہ بعض نادان کہہ اٹھتے

طَبِيبَةُ الْعَيْشِ فِيهَا فَمَا يَقَعُ بِيَدِكَ قَالَ لَيْسَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْشُ عَيْشُ الْآخِرَةِ  
قَصْرُ أَمَلِكَ وَقَدْ جَاءَكَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا  
لَا أَنَّ الزُّهْدَ كُلَّهُ قَصْرُ الْأَمَلِ أَهْجَرُ  
أَقْرَانَ السُّوءِ وَاقْطَعِ الْمَوَدَّةَ بَيْنَكَ وَ  
بَيْنَهُمْ وَاصِلَهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الصَّالِحِينَ  
أَهْجَرُ الْقَرِيبِ مِنْكَ إِذَا كَانَ مِنْ أَقْرَانِ  
السُّوءِ وَاصِلِ الْبَعِيدِ مِنْكَ إِذَا كَانَ  
مِنْ أَقْرَانِ الْخَيْرِ كُلُّ مَنْ وَادَدْتَهُ صَارَ  
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ فَإِنْظِرْ لِمَنْ تَوَادَدُ  
وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ مَا الْقَرَابَةُ قَالَ الْمَوَدَّةُ  
دَعُ عَنْكَ طَلَبَ مَا قُسِمَ وَمَا لَمْ يُقَسَّمْ  
فَإِنَّ طَلَبَكَ لِمَا قَدْ قُسِمَ تَعَبٌ وَ  
طَلَبُكَ لِمَا لَمْ يُقَسَّمْ مَقْتٌ وَحَذَرٌ  
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ جُسِمَتْ عُقُوبَاتُ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ لِعَبْدِهِ طَلَبُ مَا لَمْ يُقَسَّمْ  
لَهُ -

ماخذ ہونے والا ہے دیا دنیا سے کوچ کرنے والا ہے دنیا  
میں اچھا عیش و آرام طلب نہ کر وہ تیسرا ہاتھ نہ لگے گا نبی صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیش پس آخرت کا عیش ہے۔ اپنی  
امید آرزو کو کوتاہ کر کہ تجھے دنیا میں زہد مل جائے بہ تحقیق سارا  
زہد یہی امید کا کوتاہ کر دینا ہے۔ برے ہمنشینوں کو چھوڑ دے  
تیسرا اور ان کے درمیان میں جو دوستی ہے اس سے قطع  
تعلق کرے اور اپنے اور صالحین کے درمیان دوستی جوڑ لے  
جو تیسرا قربت دار برے ہمنشینوں سے ہو اس کو چھوڑ دے اور  
جو دور والا اچھے ہم نشینوں سے ہو اس کے ساتھ دوستی  
جوڑ جس سے تو دوستی کرے گا اس کے اور تیسرا درمیان  
میں قربت ہو جائے گی۔ جس سے تو دوستی کرے اس کو  
اولاً آزما لے۔ بعض لوگوں سے سوال کیا گیا قربت کیا چیز ہے  
جواب ملا باہمی دوستی۔ مقسوم (جو قسمت میں لکھا ہوا ہے) اور  
غیر مقسوم کی طلب چھوڑ دے۔ تیسرا مقسوم کو طلب کرنا بیکار و  
مشقت میں پڑنا ہے وہ تو لمبے ہی کا اور تیسرا غیر مقسوم کو طلب  
کرنا عذاب جانفہ اور رسوائی ہے اور اسی معنی کو حضور نبی  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ کے واسطے ایسی چیز  
کا طلب کرنا جو اس کے لیے قسمت میں نہیں لکھی گئی من جملہ  
عقوبات الہی کے ہے۔

اے غلام اللہ تعالیٰ کے مصنوعات اس کے وجود پر دلیل  
پکڑ۔ اس کی صنعت و کاریگری میں تفکر کر بیشک تو اس کے صانع  
سنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا یقیناً و اے مسلمان عالم  
بائے ظاہر اپنی آنکھ ہوتی ہیں اور دوباطنی آنکھیں پس وہ  
اپنی ظاہری آنکھوں سے زمین والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور  
باطنی آنکھوں سے آسمان والی مخلوق کو دیکھتا ہے پھر اس کے

يَا غُلَامُ اسْتَدِلْ بِصُنْعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
عَلَيْهِ تَفَكَّرْ فِي الصَّنْعَةِ وَقَدْ وَصَلَتْ إِلَى  
الصَّنَائِعِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَقِّنِ الْعَارِفِ لَهُ عَيْنَانِ  
ظَاهِرَتَانِ وَعَيْنَتَانِ بَاطِنَتَانِ فَيَرَى بِالْعَيْنَيْنِ  
الظَّاهِرَتَيْنِ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ وَ  
يَرَى بِالْعَيْنَيْنِ الْبَاطِنَيْنِ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

قلب پر دھکے کھاتا ہے پس وہ اللہ عزوجل کو بات شبیہ و بلا کیفیت کے دیکھتا ہے اور وہ مقرب الہی اور محبوب خدا ہو جاتا ہے اور محبوب کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی جب یہ اپنے نفس طبیعت خواہشات و شیاطین و خلق سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پھینک دیتا ہے اور اس کے نزدیک پتھر مٹی یکساں ہو جاتے ہیں تو اس کے قلب سے حجاب دور کر دئے جاتے ہیں تو مقلند بن جا جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کر اور سمجھ۔ تحقیق میں نے کلام پایا ہے۔ میں اس کے مغزو باطن کے ساتھ کلام کرتا ہوں اور اس کے حقیقی معنی ظاہر کر دیتا ہوں۔

اے غلام خالق کی شکایت خلق کی طرف نہ رہے جبکہ جو گمہ شکوہ ہو اسی کی طرف نہ جا وہی قدرت والا ہی اس کے غیر کو قدرت نہیں مصیبتوں اور بیماریوں اور صدمہ کا مٹنی رکھنا منجملہ نیکوئیوں کے خزانہ کے ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے صدمہ دے اور اس بات کی کوشش کر کہ اس کو تیرا پایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ دنیا کے سندر سے بچ اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے۔ کوئی کوئی ہے جو اس سے نجات پاتا ہے۔ وہ بہت گمراہ ہے وہ ہر ایک کو ڈبو دیتا ہے۔ البتہ اللہ عزوجل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نجات دے دیتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کو قیامت کے دن دوزخ سے نجات دے گا۔ بہ تحقیق دوزخ پر ہر ایک کو عبور کرنا ہے (پل صراط اس پر قائم ہے) اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا دوزخ سے نجات دے دے گا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے وان منکم الیہ تم من سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر نہ آئے خدا کا حتمی وعدہ پورا کیا گیا ہے۔

فِي السَّمَوَاتِ ثُمَّ يَرْفَعُ الْحُجُبَ عَنْ قَلْبِهِ  
فَيَرَاهُ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَكْيِيفٍ فَيَصِيرُ  
مُقَرَّبًا مَحْبُوبًا وَالْمَحْبُوبُ لَا يَكْتُمُ عَنْهُ  
شَيْءٌ إِنَّمَا يَرْفَعُ الْحُجُبَ عَنْ قَلْبِهِ إِذَا  
تَعَرَّى عَنِ الْخَلْقِ وَعَنِ النَّفْسِ وَالطَّبْعِ وَ  
الْهَوَى وَالشَّيَاطِينِ وَالْقَى مَفَاتِيحَ كُنُوزِ  
الْأَرْضِ مِنْ يَدِهِ وَاسْتَوَى عِنْدَهُ الْحَجَرُ  
وَالْمَدْرُكُنْ عَاقِلًا تَدَبَّرَ مَا أَقُولُ وَتَتَفَهَّمُ  
فَإِنِّي بَدَلْتُ الْكَلَامَ أَتَكَلَّمُ بِجَوْهَرِهِ بِلَا طَبْعٍ  
لَيْسَ جُزْءًا بِمَا بَيْنَهُ -

يَا غُلَامَ لَا تَشْكُ مِنَ الْخَالِقِ إِلَى  
الْخَلْقِ بَلْ أَشْكُ إِلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ  
أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا مِنْ كُنُوزِ الْبَرِّ كُتْمَانُ  
الْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالصَّدَقَةِ تَصَدَّقْ  
بِمِثْلِكَ وَاجْتَهِدْ أَنْ لَا تَعْلَمَ شَيْئًا لَكَ  
إِحْدًا مِنْ بَحْرِ الدُّنْيَا فَقَدْ غَرِقَ فِيهَا  
خَلْقٌ كَثِيرٌ مَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا أَحَادُ  
الْخَلْقِ هُوَ بَحْرٌ عَمِيقٌ يُغْرِقُ الْكُلَّ  
غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْجِي مِنْهُ مَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا يُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْكُلَّ  
يَعْبُرُونَ عَلَيْهَا وَيُنْجِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ  
مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا  
مَقْضِيًّا - يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ كُونِي

بَرْدًا وَسَلَامًا حَتَّىٰ يَجُوزَ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ  
 رِبِّي الْمَخْلُصُونَ لِي الْأَرَاغِبُونَ فِي الزَّاهِدُونَ  
 فِي غَيْرِي يَقُولُ لَهَا ذَاكَ كَمَا قَالَ لِنَارٍ  
 تَنُورُ وَالَّذِي أَوْقَدَ بِهَا حَتَّىٰ يَحْرَقَ فِيهَا  
 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ يَا بَحْرَ الدُّنْيَا أَمَا نَا لَا تُغَرِّقُ هَذَا  
 الْعَبْدَ الْمُرَادَ الْمَحْبُوبَ فَيَنْحَوِّمُونَهُ وَ  
 يَصِيدُ عَلَى الْيَبْسِ كَمَا نَجَّى مُوسَى عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ وَقَوْمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَحْرِ يُؤْتِي  
 فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ  
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ الْخَيْرُ كُلُّهُ بَيِّدٌ ۝ وَ  
 الْعَطَاءُ وَالْمَنْعُ بَيِّدٌ ۝ وَالْغِنَى وَالْفَقْرُ  
 بَيِّدٌ ۝ وَالْعِزُّ وَالذُّلُّ بَيِّدٌ ۝ مَا لِأَحَدٍ  
 مَعَهُ شَيْءٌ فَالْعَاقِلُ مَنْ يَلْزِمُ بَابَهُ  
 وَيُعْرِضُ عَنْ بَابٍ غَيْرِهِ ۝ يَا مُدَبِّرُ  
 أَمَّا لَكَ تَرْضَى الْخَلْقَ وَتَسْخِطُ الْخَالِقَ  
 تُخْرِبُ اخْرَجْتَ بَعْثًا مَرَّةً دُنْيَاكَ  
 عَنْ قَرِيبٍ أَنْتَ مَا خُوذُ يَا خُذُكَ  
 الَّذِي أَخَذَهُ أَلَيْمٌ شَدِيدُهُ أَخَذَهُ  
 أَلْوَانٌ كَثِيرَةٌ يَا خُذُكَ بِالْعِزِّ عَنْ  
 وَلَا يَتَكَ يَا خُذُكَ بِالْمَرَضِ وَالذُّلِّ  
 وَالْفَقْرِ يَا خُذُكَ بِتَسْلِيطِ الشَّدَائِدِ  
 وَالْغُمُومِ وَالْهُمُومِ يَا خُذُكَ  
 بِتَسْلِيطِ أَلْسِنَةِ الْخَلْقِ وَآيِدِيهِمْ  
 عَلَيْكَ كُلِّ مَخْلُوقَاتِهِ يُسَلِّطُهَا عَلَيْكَ

دوزخ سے فرمان الہی ہوگا تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے گا  
 تجھ پر سے میرے ایماندار بندے جو میرے لیے اخلاص کرنے  
 والے میری طرف رغبت کرنے والے اور میرے غیر سے  
 نفرت کرنے والے ہیں با امن گزر جائیں یہ ارشاد الہی دوزخ  
 سے ویسا ہی ہوگا جیسے کہ نار نمود سے جو ابراہیم علیہ السلام  
 کے جلا دینے کے واسطے روشن کی گئی تھی ارشاد ہوا تھا یا  
 نار کو بی بردا و سلاما علی ابراہیم جب دنیا کے  
 سمندر سے کسی کو نجات دینا مقصود ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے  
 اے سمندر میرے اس محبوب مقصود بندے کو اماں دے غرق نہ  
 کرنا پس یہ محبوب بندہ اس سے نجات پالیتا ہے اور خشکی پر سیر  
 کرتا ہے جیسے کہ دریائے نیل سے نجات دی تھی رب تعالیٰ  
 اپنے فضل سے جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو  
 چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے کل بھلائیاں اور عطائیں  
 دینا منع کرنا، امیر بنانا، فقیر کر دینا اسی کے ہاتھ ہے عزت  
 و ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ میں کسی غیر  
 کے قبضہ میں کچھ نہیں پس عقلمند وہی ہے جو اس کے دروازہ  
 کو لازم پکڑے اور غیر کے دروازہ سے منہ پھیرے۔ اے  
 بد بخت میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو خلق کو راضی کرتا ہے اور خالق  
 کو ناراض تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنے آخرت کو برباد ویران  
 کر رہا ہے تو عنقریب پکڑا جائے گا۔ تجھ کو وہی پکڑے گا جس  
 کی پکڑ سخت دردناک ہے جس کی پکڑ رنگ برنگ مختلف طریقوں  
 کی ہے۔ وہ کبھی تجھے تیری حکومت سے موقوف کر کے پکڑے  
 گا۔ کبھی بیماری اور ذلت و محتاجی سے۔ کبھی تیرے اوپر سختیوں  
 اور غموں کو مسلط کر کے، کبھی مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے  
 اوپر مسلط کر کے۔ وہ اپنی کل مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط کر دینگا۔

اے غافل ہوشیار ہو جا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے  
اور اپنے ساتھ بیداری عطا فرما۔ آمین

اے غلام! تو دنیا حاصل کرنے میں مثل رات کے لکڑیاں  
جمع کرنے والے کے نہ ہو جا کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اندھیرے  
میں اس کا ہاتھ کہاں جا پڑے گا اس کے ہاتھ میں کیا آجائیگا  
میں تو تجھے تیسے کاروبار میں مثل رات کے لکڑیاں جمع کرنے  
والے کے ہی دیکھ رہا ہوں جو ایسی اندھیرن میں لکڑیاں  
جمع کر رہا ہے کہ نہ جس میں چاند ہے اور نہ اس کے ساتھ چمک  
وروشنی ہے اور وہ ایسے ن میں سے لکڑیاں جمع کر رہا  
ہے جس میں گھنے ہوئے جھاڑ اور ہلاک کرنے والے موی جانور  
ہیں۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شے اسے ہلاک کر دے  
تو دن میں لکڑیاں جمع کرنے والا بن (یعنی غفلت چھوڑ کر ہوشیار  
سے کام کر) پس تحقیق آفتاب کی روشنی تجھے ضرور رساں  
چیزوں کے حملہ سے روک لے گی۔ تو اپنے تصرفات کا ڈبا  
میں توحید و شرع اور تقویٰ پر ہمیز گاری کے آفتاب کے ساتھ  
رہ۔ یہ تحقیق یہ آفتاب تجھ کو خواہشات نفسانیہ اور نفس و شیطان  
شرک کے جال و پھنڈے سے روک دے گا اور جو تیری چال  
و سیر میں غفلت ہے اس سے تجھے منع کرے گا۔

تجھ پر انوس! جلدی نہ کر جو کام میں غفلت کرتا ہے  
خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جو تاخیر سے  
سمجھ کر کام کرتا ہے صائب ہوتا ہے یا قریب بصواب جلد  
بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تاخیر و ابہتگی رحمان کی  
جانب سے۔ اکثر جو چیز کہ تجھے غفلت جلد بازی پر برا لگتی ہے  
کر دیتی ہے۔ دنیا کے جمع کرنے کی حرص ہے تو قناعت  
کر بہ تحقیق قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اس چیز

تَبَّهٖ يٰۤاَنَا كُمْ اَللّٰهُمَّ يَقْظٰنَا بِكَ وَلَكَ  
اٰمِيْنَ۔

يٰۤاَغْلَامُ لَا تَكُنْ فِىۡ اَخْذِكَ لِلْ دُنْيَا  
كَحَاطِبِ اللَّيْلِ لَا يَدْرِىۡ مَا يَقَعُ بِمِيَدِهِ  
اِنِّىۡ اَرَاكَ فِىۡ تَصَرُّفَاتِكَ كَحَاطِبِ لَيْلَةٍ فِىۡ  
لَيْلَةٍ ظُلُمًا لَا قَرَرَ فِيْهَا وَلَا ضَوْءَ مَعَهُ  
هُوَ فِىۡ دَخْلِهِ كَثِيْرَةُ الدَّغْلِ وَالْحَشَرَاتِ  
الْقَاتِلَةِ فَيُوشِكُ اَنْ يَّقْتُلَهُ شَيْءٌ مِّنْهَا  
عَلَيْكَ بِالْاِحْتِطَابِ نَهَارًا وَّ اَيَّامًا ضَوْءُ  
الشَّمْسِ يَمْنَعُكَ اَنْ تَاْخُذَ مَا يَصُرُّكَ  
كُنْ فِىۡ تَصَرُّفَاتِكَ مَعَ شَمْسِ التَّوْحِيْدِ  
وَالشَّرْعِ وَالتَّقْوٰى فَاِنَّ هٰذِهِ الشَّمْسُ  
تَمْنَعُكَ عَنِ الْوُقُوْعِ فِىۡ شُبْكَةِ الْهَوٰى  
وَالنَّفْسِ وَ الشَّيْطٰنِ وَ الشَّرِكِ بِالْحَقِّ  
تَمْنَعُكَ عَنِ الْعُجْلَةِ فِىۡ سَيْرِكَ۔

وَيَحٰكَ لَا تَعْجَلْ وَاَنْ مِّنْ اَسْتَعْجَلَ  
اَخْطَا وَاَوْكَادَ وَّمَنْ تَاَثَّرَ اَصَابَ وَاَوْكَادَ  
اَمِّى قَارِبَ اَنْ يُصِيْبَ الْعُجْلَةَ مِنَ الشَّيْطٰنِ  
وَالْتَوَدُّهُ مِنَ الرَّحْمٰنِ اَكْثَرُ مَا يَحْدُثُكَ  
عَلَى الْعُجْلَةِ الْحَرَصُ عَلَى جَمْعِ الدُّنْيَا  
اِقْنَعْ فَاِنَّ الْقَنَاعَةَ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ كَيْفَ  
تَطْلُبُ مَا لَا يُقْسَمُ لَكَ وَلَا يَقَعُ

کو جو تیرے لیے مقوم نہیں اور کبھی تیرے قبضہ میں نہ آئے گی کیوں طلب کرتا ہے جو چیز تیرے لیے کار آمد ہے اور ضروری اس پر راضی ہو جا اور قناعت کر لے اور اس کے ماسوائے بے رغبتی کر۔ اسی امر کو لازم پکڑنا کہ تو عارف باشد ہو جائے۔ اس حالت میں تو ہر چیز سے بے پروا ہو جائے گا تیرا قلب اسرار معرفت سمجھنے لگے گا اور تیرا سر باطن صاف ہو جائے گا اور تیرا رب تعالیٰ تجھے تعلیم دے گا پس دنیا تیری سر کی آنکھوں میں اور آخرت تیرے قلب کی آنکھوں میں اور ماسوائے اللہ تیری سر کی آنکھوں میں ذیل معلوم ہوں گے تیرے نزدیک سوا رب تعالیٰ کے اشیاء سے کوئی شے بڑی عظمت والی نہ رہے گی۔ اور تو اس حالت میں تمام مخلوق کے نزدیک معظم و محترم کر دیا جائے گا۔

اے غلام! اگر تیرا ارادہ و مقصود یہ ہے کہ تیرے رب و ربو کوئی دروازہ بند نہ ہے پس تو تقویٰ اختیار کر بہ تحقیق تقویٰ ہر دروازہ کی کنجی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے وہی یتق الم اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا دروازہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ سے اپنے نفس اپنے اہل اپنے مال اپنے اہل زمانہ کے بارے میں معارضہ جھگڑا نہ کر۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خدا کو تغیر و تبدل کا حکم دیتا ہے۔ کیا تو اس سے بڑا حاکم اور زیادہ علم والا اور زیادہ رحمت والا ہے تو اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں وہ تیرا اور تمام خلق کا تدبیر کرنے والا ہے اگر تو دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ کی مصاحبت چاہتا ہے تو اپنے اوپر سکوت و گونگے پن کو لازم پکڑ چپ ہو جا۔ اولیاء اللہ

بِيَدِكَ قُطِّ اِقْنَعُ بِمَا يُعْنِيهِ لَكَ وَ اَرْضُ بِهِ وَ اَرْهَدْ فِي عَيْرِهِ الْزَمِ حَتَّى تَصِيرَ عَارِفًا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجِيئِذْ تَصِيرُ غَنِيًّا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَفَقَّهُ قَلْبُكَ وَ يَصْفُو سِرُّكَ وَ يَعْلَمُكَ رَبُّكَ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَهْوُونَ الدُّنْيَا فِي عَيْنِي رَأْسُكَ وَ الْآخِرَةُ فِي عَيْنِي قَلْبُكَ وَ مَا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عَيْنِي سِرُّكَ لَا يَتَعَاظَمُ عِنْدَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْاَشْيَاءِ سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَجِيئِذْ تُعَظَّمُ عِنْدَ كُلِّ الْخَلْقِ -

يَا غُلَامُ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَ يَدَيْكَ بَابٌ مُّغْلَقٌ فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ مُفْتَاخُ كُلِّ بَابٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا تَعَارِضُ الْحَقُّ عَزَّ وَ جَلَّ فِي نَفْسِكَ وَ لَا فِي أَهْلِكَ وَ لَا فِي مَالِكَ وَ أَهْلِ زَمَانِكَ مَا تَسْتَحْيِي تَأْمُرُهُ بِغَيْرِ وَ يَبْدُلُ أَنْتَ أَحْكَمُ مِنْهُ وَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ أَرْحَمُ مِنْهُ - أَنْتَ وَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِبَادُكَ هُوَ مَدَبُكَ وَ مَدَبُكَ هُمْ اِنْ اَرَدْتَ صُحْبَتِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْكَ بِالسُّكُوتِ وَ الْخُرْسِ أَوْ لِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مُنَادٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُخْرِكُونَ حَرْكَةً  
وَلَا يَخْطُونَ خُطْوَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَرِيحٍ مِنْهُ  
لِقُلُوبِهِمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ  
وَلَا يَلْبَسُونَ وَلَا يَنْصَحُونَ وَلَا يَتَصَرَّفُونَ  
فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ صَرِيحٍ لِقُلُوبِهِمْ  
هُمُ قِيَامٌ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ قِيَامٌ  
مَعَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَلَا قَرَارَ  
لَهُمْ إِلَّا مَعَ رَأْيِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى  
يَلْقَوْهُ بِقُلُوبِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَبِأَجْسَادِهِمْ  
فِي الْآخِرَةِ -

اس کے روبرو ادب کرنے والے ہیں۔ وہ اس کے سامنے  
کسی قسم کی حرکت نہیں کرتے اور نہ ایک قدم اٹھاتے ہیں۔  
جب تک ان کے قلوب کو خدا کی طرف سے صریح اجازت نہ ملے  
نہ وہ مباح چیزوں میں سے کوئی چیز کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں  
نہ نکاح کرتے ہیں۔ نہ تمام سببوں میں سے کسی سبب میں تصرف  
کرتے ہیں جب تک کہ ان کے قلوب کو خدا کی طرف سے  
صریح اجازت نہیں ملتی ان کا قیام حق عزوجل کے ساتھ رہتا  
ہے جو کہ قلوب اور آنکھوں کا لوٹ پوٹ کرنے والا ہے ان  
کو بغیر اپنے رب عزوجل کے قرار ہی نہیں۔ دنیا میں وہ خدا  
سے ملاقات اپنے قلوب سے کرتے ہیں اور آخرت میں اس  
اپنے جسموں کے ساتھ ملیں گے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَائَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
لَذِّ ذُنَا بِالْقُرْبِ مِنْكَ وَالرَّوْيَةِ لَكَ أَجْعَلْنَا  
مِمَّنْ يَرْضَى بِكَ عَمَّا سِوَاكَ وَاتِّبَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ -

### چوتھی مجلس

اتوار کے دن صبح کے وقت ۱۰ سوال  
۱۲۵ھ ہجری کو خانقاہ شریف میں  
ارشاد فرمایا :

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ  
نے ارشاد فرمایا جس کسی کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا  
جائے پس وہ اس کو بسا غنیمت سمجھے۔ بہ تحقیق وہ نہیں جانتا  
کہ وہ دروازہ اس سے کب بند کرایا جائے گا۔

### المجلس الرابع

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَكْرَةُ يَوْمَ الْاَحَدِ  
بِالرَّبَاطِ عَاشِرَةِ شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثَمَاسٍ  
بِوَارَبَعَيْنِ وَخَمِيسٍ مِائَتَةٍ ،  
عَنِ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ  
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ -

اے اہل جماعت! جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہو  
اس کو غنیمت سمجھو۔ وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا جب تک تم  
قدرت رکھو اس میں نیک کاموں کو غنیمت جانو (غنیمت کرو)  
توہ کے دروازہ کو غنیمت جانو اور جب تک وہ تمہارے لیے  
کھلا ہوا ہے اس میں گھس جاؤ نیک صالح بھائیوں کے  
اجتماع کے دروازے کو غنیمت سمجھو وہ تمہارے لیے کھلا  
ہوا ہے۔

اے جماعت والو! جو عمارت تم نے توڑ ڈالی ہے اس  
کو بنا لو۔ جو چیز تم نے ناپاک کر لی تھی اس کو دھو ڈالو جس کو تم  
نے فاسد کر دیا ہے اس کی اصلاح کرو جس کو تم نے گمراہ کر لیا  
ہے اسے صاف کر لو۔ پھر وہ چیزیں جو تم نے دوسرے  
سے لے لی ہیں ان کو واپس کر دو۔ پھر تم اپنے مولا عزوجل  
کی طرف اپنی گریز و نافرمانی سے رجوع کر لو۔

اے غلام یہاں سوا خلق و خالق کے کوئی اور نہیں ہے۔  
پس اگر تو خالق کے ساتھ ہو گیا پس تو اس کا بندہ ہے اور اگر  
تو مخلوق کا ساتھی ہوا پس تو ان کا بندہ ہے۔ تیرا کلام جب  
تک کہ تو اپنے قلب کے اعتبار سے میدانوں اور جنگوں کو قطع  
کرے اور بحیثیت باطن ہر شے سے جدا ہو جائے معتبر و  
قابل قبول نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کا طالب اس کا  
ساتھی ہے اور ہر ایک شے سے جدا۔ اس نے یقین کر لیا  
ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز اس کے اور حق تعالیٰ کے  
درمیان میں ایک حجاب و پردہ ہے وہ جس کسی چیز کیساتھ  
بھی ٹھہر جائے گا وہ اس کے لیے خدا سے باعث حجاب  
ہوگی۔

اے غلام! کابل نہ بن۔ کابل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے

يَا قَوْمِ اِنْتَعِزُوا وَ اِغْتَنِمُوا بَابَ الْحَيَاتِ  
مَا دَامَ مَفْتُوحًا عَنْ قَرِيبٍ يُغْلَقُ عَنْكُمْ  
اِغْتَنِمُوا اَفْعَالَ الْخَيْرِ مَا دُمْتُمْ قَادِرِينَ  
عَلَيْهَا اِغْتَنِمُوا بَابَ التَّوْبَةِ وَ ادْخُلُوا  
فِيهِ مَا دَامَ مَفْتُوحًا لَكُمْ اِغْتَنِمُوا بَابَ  
مُزَاحِمَةِ اِخْوَانِكُمُ الصَّالِحِينَ فَهُوَ  
مَفْتُوحٌ لَكُمْ

يَا قَوْمِ اِبْنُوا مَا نَقَضْتُمْ اَغْسِلُوا  
مَا نَجَسْتُمْ اَصْلِحُوا مَا اَفْسَدْتُمْ صَفِّوْا  
مَا كَدَرْتُمْ صَفِّوْا مَا كَدَرْتُمْ ثُمَّ رُدُّوْا  
مَا قَدْ اَخَذْتُمْ ثُمَّ ارْجِعُوْا اِلَى مَوْلَاكُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اَبَاقِكُمْ وَ هَرَبِكُمْ۔

يَا غُلَامُ مَا هُنَا اِلَّا الْخَالِقُ عَزَّ وَ  
جَلَّ اَوِ الْخَلْقُ فَاِنْ كُنْتَ مَعَ الْخَالِقِ فَانْتَ  
عَبْدُهُ وَاِنْ كُنْتَ مَعَ الْخَلْقِ فَانْتَ عَبْدُهُمْ  
لَا كَلَامَ لَكَ حَتَّى تَقْطَعَ الْفِيَا فِي  
الْفَقَارِ مِنْ حَيْثُ قَلْبِكَ وَ تَفَارِقَ  
الْكُلَّ مِنْ حَيْثُ سِرِّكَ اَمَا تَعْلَمُ اَنَّ  
طَالِبَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْحَقِّ  
مُفَارِقُ الْكُلِّ قَدْ تَبَيَّنَ اَنَّ كُلَّ  
شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَ  
بَيْنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اَيِّ شَيْءٍ وَقَفَ  
اِنْ حُجِبَ بِهِ۔

يَا غُلَامُ لَا تَكْسَلْ فَاِنَّ الْكَسْلَانَ يَكُونُ اَبَدًا

مَحْرُومًا وَالتَّدَامَةُ فِي رِبْقِهِ جُودًا عَمَّا لَكَ  
وَقَدْ جَادَ الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكَ بِالدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَجَمِيُّ رَحِمَهُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا جَيِّدِينَ  
كَانَ يُرِيدُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا حَيًّا ذَا فَلَ  
يُطَاوَعُ عَدُوًّا لِسَانُهُ مَنْ ذَا قٍ فَقَدْ عَرَفْنَا  
حُسْنَ الْعَشْرَةِ مَعَ الْمَوَافَقَةِ لَهُمْ مَعَ  
حُدُودِ الشَّرْعِ وَرِضَا حَسَنٍ مُبَارَكٌ وَ  
أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ خَرَقٍ حَدِّقْ حُدُودَهُ  
وَعَدَمِ رِضَا فَلَ وَلَا كَرَامَةٍ لَهُمْ لِقَبُولِ  
الطَّاعَاتِ وَمَرَدِّهَا عَلَامَاتٌ عِنْدَ أَهْلِ  
الْقَبَاءِ وَالْأَجْتِبَاءِ -

يَا غُلَامُ انْصِبْ شَبْكَةَ الدُّعَاءِ وَانْجِعْ  
إِلَى الرِّضَا لَا تَدْعُوا بِلِسَانِكَ وَقَلْبُكَ  
مُعْتَرِضٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَتَذَكَّرُ لَا لِسَانَ مَا  
فَعَلَ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ فَالْتَدَامَةُ  
هُنَا لَا تَنْفَعُ وَالذِّكْرُ ثُمَّ لَا يَنْفَعُ الشَّانُ فِي  
تَذَكُّرِ الْيَوْمِ قَبْلَ الْمَوْتِ ذِكْرُ الْحَرِثِ وَ  
الْبَذْرِ وَقْتَ حَصَادِ النَّاسِ لَا يَنْفَعُ عَنِ  
النَّجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الدُّنْيَا  
مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ فَمَنْ زَرَعَ خَيْرًا حَصَدَ غَبَطَةً  
وَمَنْ زَرَعَ شَرًّا حَصَدَ نَدَامَةً إِذَا جَاءَكَ

اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا  
بنا۔ حق عزوجل نے تیرے لیے اور دنیا و آخرت میں سخاوت اچھائی  
کی ہے۔ ابو محمد عجمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کرتے تھے اللہم اجعلنا  
جیدین۔ اے اللہ ہمیں اچھا کھرا کر دے (اللہم اجعلنا  
جیاداً کہنے کا ارادہ فرماتے تھے) کہ یہ لفظ صحیح تھا اول غلط  
لیکن ان کی زبان ان کی موافقت نہ کرتی تھی۔ خوف دامن گیر تھا  
جس نے لذت پائی پس تحقیق اس نے معرفت الہی حاصل کر لی  
خلق کے ساتھ میل جول اور ان کی موافقت جب حد و شرعی  
اور رضا الہی کے ساتھ ہو مبارک و اچھی ہے اور لیکن جب یہ  
میل حد و شرعی میں سے کسی حد کو توڑ کر اور بغیر رضا الہی کے  
ہو پس ان میں بھلائی اور بزرگی نہیں۔ عبادتوں کے مقبول و  
نامقبول ہونے کی اولیاء اللہ کے نزدیک علامتیں ہیں۔

اے غلام! تو دُعا کا جال بچھا دے (دُعا کر) اور مرضی الہی  
کی طرف رجوع کر۔ ایسی حالت میں زبانی دُعا سے کیا نتیجہ جب  
قلب معترض ہو زبان و قلب دونوں کو متوجہ کر کے دُعا مانگ  
قیامت کے دن جو بھلائی بُرائی دنیا میں کی ہے۔ انسان یاد  
کرے گا وہاں ثمر مندی اور یاد کچھ نفع نہ دے گی۔ شان تو آج  
ہی کے یاد کرنے میں ہے قبل موت کے کھیت کاٹتے  
وقت کھیتی اور بیج کا یاد کرنا سود مند نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں  
اچھا کھیت ہوئے گا بھلائی کرے گا۔ وہ قابلِ رشک ہوگا  
اور جو بُرائی کرے گا وہاں ندامت اٹھائے گا۔ وقت موت

اے کیوں کرتیر کام تو مانگنا ہے وینا نہ دینا ان کا اختیار دُعا سے غافل نہ ہو۔

حافظہ و طیفہ تو دُعا کر دن است و بس۔

در بند خونِ مباحش کہ نشنید یا شنید۔ قادری عفریہ

اگر تو بیدار ہوا تو کیا فائدہ۔ اس وقت کی بیداری تجھ کو فائدہ نہ دے گی۔

اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے سے غافلوں اور جاہلوں کی نیند سے ہوشیار و بیدار کر دے۔ آمین  
اے غلام! بروں کے ساتھ تیری صحبت تجھے اچھوٹ بدگمانی میں ڈال دے گی تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں قول و فعل کے سایہ میں چل تو تو نجات پائے گا۔

اے جماعت والو! اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم و حیا کرو جو حیا کا حق ہے تم غفلت نہ کرو تمہارا زمانہ ضائع ہو رہا ہے تم ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں مشغول ہو جسے کھانا سکوکے اور ایسی چیزوں کی آرزو کر رہے ہو جسے پانہ سکوکے اور ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جس میں رہ نہ سکوکے۔ یہ سب چیزیں تمہیں مقام رب عزوجل میں قیام کرنے سے روکتی ہیں۔ اللہ عزوجل کے ذکر نے عارفوں کے قلوب میں دُقیقے ڈال دیے ہیں ان کا احاطہ کیسے ہوئے ہیں اور ان کا یہ ذکر کل کے ذکر کو بھلا رہا ہے پس جب یہ امور کامل ہو جائیں تو جنت ہی جائے قرار ہے جو کہ موعود ہے اور نقد جنت دنیا میں احکام تقدیری پر راضی رہنا اور قلب کی اللہ عزوجل سے نزدیکی اور اس سے مناجات اور حائل پردوں کا درمیان سے اٹھا دینا ہے پس ایسے قلب والے کو اپنی تمام حالتوں میں بغیر بیان کیفیت اور بغیر تشبیہ خلوت میں معیت الہی حاصل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

الْمَوْتُ اَنْتَبَهْتَ وَقَتًا لَا يَنْفَعُكَ  
اَلَا نَتَبَاكَ۔

اَللّٰهُمَّ نَبِّهْنَا مِنْ نَوْمِ الْغَافِلِيْنَ عَنْكَ  
الْجَاهِلِيْنَ بِكَ۔ اَمِيْنُ  
يَا غَلَامُ صُحْبَتُكَ لِلْاَشْرَارِ تُوقِعُكَ  
فِيْ سُوْعِ الظَّنِّ بِالْاَخْبَارِ اَمْشِ تَحْتَ ظِلِّ  
كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّ  
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَفْلَحْتَ۔

يَا قَوْمِ اسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَقَّ  
الْحَيَاةِ لَا تَغْفُلُوا زَمَانَكُمْ يَضِيْعُ قَدْ اسْتَقْلَمَ  
بِجَمْعِ مَا لَا تَاْكُلُوْنَ وَتَاْمَلُوْنَ مَا لَا تَدْرِكُوْنَ  
وَتَبْنُوْنَ مَا لَا تَسْكُنُوْنَ كُلُّ هَذَا يَجْجِبُكُمْ  
عَنْ مَّقَامِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ تَخَيَّمْ ذَكَرُ  
اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ قُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ وَيُحِيْطُ  
بَهَا وَيُنْسِيْهَا ذَكَرُ كُلِّ مَذْكُوْرٍ فَاِذَا تَقَرَّرَ  
هَذَا فَالْجَنَّةُ هِيَ الْمَاوِي الْجَنَّةُ الْمَوْعُوْدَةُ  
الْمَنْقُوْدَةُ فِي الدُّنْيَا هِيَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ  
وَقُرْبُ الْقَلْبِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَبْلَانَةُ  
لَهُ وَرَفْعُ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ  
فَيَصِيْرُ صَاحِبَ هَذَا الْقَلْبِ فِيْ خُلُوْقِهِ مَعَ  
الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهِ  
مِنْ غَيْرِ تَكْرِيْفٍ وَلَا تَشْبِيْهِ لَيْسَ  
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

۱۔ جنت دو قسم کی ہے ایک موعودہ دوسری منقودہ جس کا بیان فرمایا ۱۲ قادری

وَالْمُؤَوَّدَةُ هِيَ الَّتِي وَعَدَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ وَلَا شَيْءٍ الْخَيْرُ كُلُّهُ عِنْدَ اللَّهِ وَالشَّرُّ عِنْدَ غَيْرِهِ الْخَيْرُ فِي الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالشَّرُّ فِي الْإِدْبَارِ عَنْهُ كُلُّ عَمَلٍ مُرِيدٌ عَلَيْهِ يَوْضًا فَهُوَ لَكَ عَمَلٌ تُرِيدُهُ إِلَهُ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ لَكَ إِذَا عَمِلْتَ وَطَلَبْتَ الْعَوْضَ كَانَ جَزَاءُكَ بِمَخْلُوقٍ وَإِذَا عَمِلْتَ لَوْجِهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَانَ جَزَاءُكَ قُرْبَكَ مِنْهُ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ لَا تَطْلُبُ الْعَوْضَ عَلَى أَعْمَالِكَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْشَ الدُّنْيَا وَآيَشَ الْآخِرَةِ وَآيَشَ مَا سَوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ أَطْلُبِ الْمُنْعَمَ لَا تَطْلُبِ النِّعْمَةَ أَطْلُبِ الْجَسَرَ قَبْلَ الدَّارِ هُوَ الْكَائِنُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكَ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْآفَاتِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إِذَا تَمَّتْ لَكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخُصَالُ جَاءَكَ الْمَلِكُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ يَصْحُ زُهْدُكَ وَبِالصَّبْرِ تَطْفُرُ بِمَا تُرِيدُ مِنْ رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ وَبِالتَّوَكُّلِ يَخْرُجُ الْأَشْيَاءُ مِنْ قَلْبِكَ وَتَتَعَلَّقُ بِرَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ وَتَتَنَحَّى عَنْكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا سَوَى الْمَوْلَى بِأَيِّكَ الرَّاحَةُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَالْكَلَايَةُ وَالْحَاجَةُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ يَحْفَظُكَ مَوْلَاكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ هَمَلِكَ

اور جنت موعودہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے اور بغیر کسی شک و حجاب کے دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے اور کل بھلائیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور بُرائی غیر اللہ کی طرف سے۔ بھلائی و خوبی اللہ کی طرف سے توجہ ہونے میں ہے اور بُرائی اس سے روگردانی میں۔ ہر عمل جس پر توبہ کا خواہشمند ہو وہ تیسرے لیے ہیں اور ہر عمل جس سے تیرا مقصود ذات الہی ہو وہ اللہ کے لیے۔ جب تو عمل کر کے اس کا بدلہ مانگے گا تو تیرا بدلہ ایسی چیز ہوگی جو کہ مخلوق ہے اور جب تو عمل خالصاً لوجہ اللہ کرے گا تو تیرا بدلہ قرب الہی و دیدار الہی ہوگا۔ اپنے اعمال کا بدلہ مت مانگ۔ فی الجملہ یہ مقابلہ مولیٰ تعالیٰ کے دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ کیا چیز ہے سب ہیچ ہے کچھ بھی نہیں تو منعم کو طلب کر۔ نعمت کی خواہش نہ کر۔ گھر سے پہلے پڑوسی کی جستجو کر۔ بعدہ جستجو کرنا بے فائدہ ہے اللہ تو ہر شے سے پہلے موجود اور ہر شے کا وجود میں لانے والا اور ہر شے سے بعد موجود رہنے والا ہے۔ تو موت کی یاد اور آنفول پر صبر کو لازم پکڑ اور تمام حالتوں پر اللہ عزوجل پر بھروسہ رکھ۔ جب تجھے یہ تینوں خصلتیں کامل طور سے حاصل ہو جائیں گی تو تجھے سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ موت کی یاد سے تیرا زہد درست ہو جائے گا اور صبر کرنے سے جن چیزوں کی تو رب تعالیٰ سے خواہش کرتا ہے ان سب پر تو فتح مند ہو جائے گا اور توکل سے تمام چیزیں تیرے قلب سے نکل جائیں گی اور تیرا تعلق رب عزوجل سے ہو جائیگا، اور تجھ سے دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ سب دور ہو جائینگے۔ ہر طرف تجھے راحت آئے گی اور ہر جانب سے تیری حفاظت و حمایت ہوگی۔ تیرا مولیٰ تعالیٰ چھ جہتوں سے تیری

الْمَسِيَّتِ لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ عَلَيْكَ سَبِيلٌ  
تَسُدُّ عَنْكَ الْجَهَانَ وَتَعْلُقُ عَنْكَ الْأَبْوَابُ  
تَصِيرُ مِنْ جُمْلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي حَقِّهِمْ إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  
سُلْطَانٌ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى  
الْمُؤَحِّدِينَ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ  
الْخَلْقُ فِي أَعْمَالِهِمُ التُّطُقُ فِي الْتَهَايَةِ يَكُونُ  
لَا فِي الْبَدَايَةِ الْبَدَايَةِ كُلُّهَا خَرَسٌ وَ  
الْتَهَايَةِ كُلُّهَا تُطُقُ الْمُخْلِصُ مُلْكُهُ فِي  
قَلْبِهِ سُلْطَانُهُ فِي سِرِّهِ لَا أَعْتَبَارًا لظَاهِرِ  
التَّادِرِ مِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُلْكِ  
الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كُنْ أَبَدًا مُنْقِفًا بِحَالِكَ  
لَا تَرَأِ كَذَلِكَ حَتَّى تَكْمُلَ وَيَصِلَ  
قَلْبُكَ إِلَى سَرِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا اكْمَلْتَ  
وَبَلَغْتَ لَا تَبَالِي حِينَئِذٍ لَا تَبَالِي وَقَدْ  
تَحَقَّقْتَ حَالِكَ وَأَقَمْتَ فِي مَقَامِكَ  
وَأَحَدَقَ بِكَ خُرَاسُكَ وَصَارَ الْخَلْقُ  
عِنْدَكَ كَالسَّوَارِي وَالْأَشْجَارِ وَ  
اسْتَوَى عِنْدَكَ حَمْدُهُمْ وَذَمُّهُمْ وَ  
إِقْبَالُهُمْ وَإِدْبَارُهُمْ تَصِيرُ بَيْنَهُمْ وَنَاقِضُهُمْ  
تَتَصَرَّفُ فِيهِمْ بِإِذْنِ خَالِقِهِمْ  
يُعْطِيكَ الْحِلَّ وَالتَّرْبُطَ وَيَرُدُّ التَّوْقِعَ  
إِلَى يَدِ قَلْبِكَ وَالْعَلَامَةَ إِلَى يَدِ  
سِرِّكَ حَتَّى لَا كَلَامَ يَصِغَهُ هَذَا  
وَالَا فَكُنْ عَاقِلًا لَا تَتَهَوَّسَ أَنْتَ

حفاظت فرمائے گا۔ خلق میں سے کسی کو تیرے گرد و راستہ نہ رہیگا  
کہ تجھ پر کوئی غالب اس کے تمام بہات تجھ سے روک دی جائیں  
گی اور تمام دروازہ تیری جانب بند کیے جائیں گے تو مجھ  
ان لوگوں کے ہو جائے گا جس کی نسبت ارشاد باری ہے ۔  
ان عبادی الذین لے شیطان میسر بندوں پر تجھے حکومت و  
غلبہ نہیں شیطان لعین کی موحہ و مخلص بندوں پر جن کے عمل خدا  
ہی کے لیے ہوتے ہیں حکومت کیونکر ہو سکتی ہے۔ زبان تو  
انتہا میں کھلا کرتی ہے نہ کہ ابتداء کلام میں ابتدا تو کیونکر نکلیں  
ہے اور انتہا از سر تا پا گویائی مخلص کی بادشاہت دل میں بھوت  
وغلبہ باطن میں ہوتا ہے ظاہر کا اعتبار نہیں ان میں وہ شاذ و  
نادر ہوتا ہے جو کہ جامع ہو درمیان ملک ظاہر و باطن کے تو  
ہمیشہ اپنے حال کو چھپاتا رہے اور ہمیشہ ایسا رہے یہاں تک کہ  
تو کامل ہو جائے اور تیرا قلب واصل الی اللہ ہو جائے پس  
جب تو اس درجہ کمال پر پہنچ جائے گا تو اس وقت کسی کی پرواہ  
نہ کرے گا اور جب تو نے اپنے حال کو درست کر لیا اور تو نے  
اپنے مقام پر قیام کر لیا اور تیرے نگہبانوں نے تیرا احاطہ کر لیا  
اور تمام مخلوق تیری نگاہوں میں مثل ستونوں اور درختوں کے  
ہو گئی اور مخلوق کی تعریف اور بُرائی کرنا تیرے نزدیک برابر  
ٹھہرا اور ان کی توجہ و گردانی یکساں ہوئی پھر تجھے پرواہ ہی  
کیوں ہونے لگی۔ ایسی حالت میں تو مخلوق کا بگاڑنے بنانے  
والا ہو جائے گا جس طور سے چاہے گا تو اپنے خالق کی اجازت  
سے ان میں تصرف کرنے لگے گا۔ خدائے تعالیٰ تجھے حل و عقد  
کا منصب عطا فرمائے گا اور حکومت تیرے قلب کے ہاتھ میں  
اور شناخت تیرے باطن کے ہاتھ میں آجائے گی جب تک  
ایسی درست حالت نہ ہو گئی کہ نہ در نہ عقل والا بن ہونے کی

تہ کر تو ناپینا ہے اپنے لیے کوشش تلاش کر تو جاہل ہے،  
 اپنے لیے معلم ڈھونڈ جب کوئی ایسا قابل تجھے مل جائے  
 پس تو اس کا دامن پکڑ لے اور اس کے قول و رائے کو قبول  
 کر اور اس سے سیدھا راستہ پوچھ جب تو اس کی رہنمائی  
 سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے پس وہاں جا کر بیٹھ جاتا کہ تو  
 اسے بخوبی پہچان لے۔ پس اس وقت میں سہرگم کردہ راہ تیری  
 طرف رجوع کر لے گا اور تو فقرا و مساکین کا خوان بن جائیگا  
 جو آئے وہ روحانی غذا کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار کی حقاقت  
 کرنا اور مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنا محمد جوادؑ  
 کے ہے۔ تو حق عزوجل کی تلاش اور ماسوی اللہ کو چھوڑ کر محض  
 خدا کی رضامندی کی تلاش سے کیوں جدا ہو رہا ہے۔ کیا  
 تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا منکم من یرید الدنیا فہم فیہ  
 بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت کے متلاشی  
 ہیں اور دوسری جگہ پر فرمایا وہ اس کی ذات کریمہ کی خواہش کرتے  
 اگر تیرا نصیب اچھا ہوتا تو تیرے پاس غیرت الہی کا ہاتھ آتا جو  
 تجھ کو ہر ایک ماسوی اللہ کے ہاتھ سے چھڑا لیتا اور تجھ کو پکڑ  
 کر قرب حق عزوجل کے دروازہ تک لے جاتا پس اس جگہ اللہ  
 ہی کی ولایت ہے جو حق ہے۔ اب بھی کوشش کر جب  
 تجھے یہ مال مل جائے گا دنیا و آخرت دونوں بغیر ضرر و فتنہ  
 کے تیرے خادم بن جائیں گے۔ ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں گے  
 تو اللہ عزوجل کا دروازہ کھٹ کھٹا اور اسی پر ثبات قدم رہ  
 پس جب تو وہیں ٹھہرے گا تجھے سب خطرات ظاہر ہو جائیں  
 گے تو نفس و غواہشات اور قلب و شیطان اور فرشتہ اور حاکم  
 کے خطرات کو پہچاننے لگے گا اس وقت تجھے کہا جائے گا  
 یہ خطرات حق ہیں اور یہ باطل پس تو ہر ایک کو اس کی علامت

أَعْمَى أَطْلُبُ مَنْ يَقْوَدُكَ أَنْتَ جَاهِلٌ أَطْلُبُ  
 مَنْ يُعَلِّمُكَ فَإِذَا وَقَعْتَ بِهِ فَتَمَسَّكَ  
 بِهِ وَأَقْبَلَ قَوْلَهُ وَرَأَيْتَ اسْتَدَلَ بِهِ عَلَى  
 الْعِبَادَةِ فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْهَا فَاقْعُدْ هُنَاكَ  
 حَتَّى تَحْقُقَ مَعْرِفَتَكَ لَهَا فَحِينَئِذٍ يَأْتِي  
 إِلَيْكَ كُلُّ ضَالٍّ وَتَصِيرُ طَبَقًا لِلْفُقَرَاءِ وَ  
 الْمَسَاكِينِ مِنْ جُمْلَةِ الْفُتُوَّةِ حِفْظُ سِرِّ  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّخَلُّقُ مَعَ النَّاسِ بِخُلُقٍ  
 حَسَنٍ إِنَّ أَنْتَ مِنْ طَلَبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَالرِّضَاءِ بِهِ بِمَا سِوَاهُ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ  
 مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ  
 يُرِيدُونَ وَجْهًا إِنْ سَعِدَا بَخْتُكَ  
 جَاءَتْكَ يَدُ الْغَيْرَةِ أَخْلَصَتْكَ مِنْ يَدِ  
 كُلِّ مَنْ سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَآخَذَتْ  
 إِلَى بَابِ قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذَا لَكَ  
 الْوَلَايَةُ إِلَهُ الْحَقِّ إِذَا تَمَّ لَكَ هَذَا  
 جَاءَتْ إِلَيْكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَادِمَتَيْنِ  
 مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ أَطْرُقَ بَابَ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّبَتْ عَلَى بَابِهِ فَإِنَّكَ  
 إِذَا تَبَتَّ هُنَاكَ بَانَ لَكَ الْخَوَاطِرُ  
 فَتَعْرِفُ خَوَاطِرَ النَّفْسِ وَخَوَاطِرَ الْهَوَىٰ وَ  
 خَوَاطِرَ الْقَلْبِ وَخَوَاطِرَ الْبَدَنِ وَخَوَاطِرَ  
 الْمَلِكِ وَخَوَاطِرَ الْمَلِكِ يُقَالُ لَكَ هَذَا خَوَاطِرُ  
 حَقٍّ وَهَذَا خَوَاطِرُ بَاطِلٍ فَتَعْلَمُ كُلَّ وَاحِدٍ

سے دریافت کر لے گا جب تو اس مقام تک پہنچ جائیگا تو تجھے حق عزوجل کی طرف سے خاطر آئے گی جو تجھے موب بنائے گی اور خبردار کر دے گی اور یہی تجھے کھڑا کرے گی اور بھٹلائے گی اور حرکت دے گی اور سکون بخشے گی نگوئی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔

بَعْلَامَةٍ تَعْرِفُهَا إِذَا وَصَلْتَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ أَتَاكَ خَاطِرٌ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَدِّبُكَ بِهِ وَيُنَبِّئُكَ وَيُقِيمُكَ وَيُقَوِّدُكَ وَيُحَرِّكُكَ وَيُسْكِنُكَ وَيَأْمُرُكَ وَيَنْهَاكَ

يَا قَوْمُ لَا تَطْلُبُوا الزِّيَادَةَ وَلَا التُّقْصَانَ وَلَا التَّقَدُّمَ وَلَا التَّأَخُّرَ فَإِنَّ الْقَدَرَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى حَدِّهِ وَمَا مِنْكُمْ رَاةٌ مَنْ لَهُ كِتَابٌ وَتَارِيخٌ يَخْصُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَ رَبُّكَ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجَلِ جَفَّتِ الْقَلَمُ بِهَا هُوَ كَاتِبٌ قَدْ فَرَعَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَضَاءَهُ سَابِقٌ وَلَكِنْ جَاءَ الْحُكْمُ وَسُتِرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْإِلْزَامُ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَمِ عَلَى الْحُكْمِ بِمَا سَبَقَ بَلْ يَقُولُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

يَا قَوْمُ اعْمَلُوا بِهَذَا الظَّاهِرِ بِهَذَا السَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ حَتَّى يَحْمِلَكُمْ الْعَمَلُ بِكَارِطِنِ هَذَا الْأَمْرِ إِذَا عَمِلْتَ بِهَذَا الظَّاهِرِ آذَانَ إِلَى فَهْمِ الْبَاطِنِ أَقُولُ مَا يَفْهَمُ سِرَّكَ ثُمَّ يُبَيِّنُ عَلَى قَلْبِكَ وَيُبَيِّنُ قَلْبَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَنَفْسُكَ عَلَى لِسَانِكَ وَيُبَيِّنُ لِسَانَكَ عَلَى الْحَقِّ يَتَعَدَّى ذَالِكَ إِلَيْهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ

اے جماعت! الو! تم زیادتی اور کمی اور تقدم و تاخر کو طلب نہ کرو کیوں کہ تقدیر علیحدہ علیحدہ تم میں سے ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہی ہونے والا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کتاب و تاریخ مخصوص نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تیرا رب مخلوق اور اس کے خلق اور رزق اور اجل سے فارغ ہو چکا۔ قلم تمام ہونے والی چیزوں کو لکھ کر خشک ہو چکا۔ یہ تحقیق اللہ ہر شے سے فارغ ہو گیا اس کی قضا سابق ہے لیکن حکم آیا اور اس پر امر و نہی و الزام کا پردہ ڈالا گیا۔ پس کسی کو یہ حلال نہیں کہ وہ قضا و قدر کے حکم پر حجت لائے جو ہونا تھا ہو چکا بلکہ یوں کہ لایزال الایۃ اللہ سے کسی فعل کا سوال نہ کیا جائے گا اور بندوں سے سوال کیا جائے گا۔

اے جماعت! الو! تم اس ظاہر پر عمل کرو جو سپیدی پر سیاہی ہے یعنی لکھے ہوئے پر تاکہ تمہارا یہ عمل تم کو اس امر کے باطن کی طرف براہِ راست کرے جب تو اس ظاہر پر عمل کرے گا تو یہ تیرا عمل باطن کے سمجھنے پر قہر پہنچا دے گا تو باطن کو سمجھنے لگے گا اول سمجھنے والی چیز تیرا سر ہے پھر اس سے تیرے قلب پر اظہار ہوتا ہے۔ بعدہ قلب سے تیرے نفس پر اور نفس سے تیری زبان پر اور زبان سے مخلوق پر یہ امر مخلوق کی طرف ان واسطوں سے

يَا طُوبَى لَكَ اِنْ وَاَفَقْتَ الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ  
اَحْبَبْتَهُ -

ان کی مصلحتوں اور سبوی کے واسطے متعدی ہوتا رہتا ہے بہت ہے  
مبارک ہو تجھے اگر تو حق عزوجل کی موافقت کر کے اس کو اپنا محبوب  
سمجھنے لگے۔

وَيُحِبُّكَ قَدْ اَدْعَيْتَ حُبَّكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ  
اَمَّا عَلِمْتَ اَنْ مِنْ شَرِّ اَلْطَّغْيَانِ مَوَافَقَتُهُ  
فِيكَ وَفِي غَيْرِكَ وَمِنْ شَرِّهَا اَنْ لَا  
تَسْكُنَ اِلَى غَيْرِهِ وَاَنْ تَسْتَأْنِسَ بِهَا وَلَا  
تَسْتَوْحِشَ مَعَهُ اِذَا سَكَنَ حُبُّ اللّٰهِ عَزَّ  
وَجَلَّ قَلْبَ عَبْدٍ اَنْسَ بِهَا وَاَبْغَضَ كُلَّ مَا  
يُشْغِلُهُ عَنْهُ تَبُّ مِنْ دَعْوَاكَ الْكَافِرَةِ  
هَذَا شَيْءٌ لَا يَجِيءُ بِالْخَلْقِ وَالتَّمَدُّنِ  
وَالْكَذِبِ وَالتَّفَرُّقِ وَالتَّصَنُّعِ تَبُّ وَ  
اَثْبَتَ عَلَى تَوْبَتِكَ فَلَيْسَ الشَّكُّ فِي  
تَوْبَتِكَ الشَّكُّ فِي تَوْبَتِكَ عَلَيْهَا لَيْسَ  
الشَّكُّ فِي غَرَسِكَ الشَّكُّ فِي تَوْبَتِهِ وَ  
تَغْصِينِهِ وَثَمَرَتِهِ -

تجھ پر افسوس! کہ تو تو خدا کی محبت کا دعوہ یار بن گیا آیا  
تجھے اس کی خبر نہیں کہ محبت کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اپنے اور  
غیر کے معاملات میں خدا کی موافقت کرنا (۲) ماسوی اللہ کی طرف  
سکون نہ کرنا (۳) اور اللہ ہی سے انس پکڑنا اور اس کے ساتھ  
رہنے سے وحشت نہ پکڑنا۔ جب اللہ کی محبت کسی بندہ کے  
دل میں قرار پکڑتی ہے وہ بندہ اسی کے ساتھ انس پکڑ لیتا ہے  
اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھتا ہے جو اس کو خدا کے انس سے روکے  
تو اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کرے۔ محبت الہی خلوت  
نشینی اور آرزو اور جھوٹ اور لفاق اور بناوٹ سے حاصل  
نہیں ہوتی ہے۔ اس سے تائب ہو اور پھر توبہ پر قائم رہ مفسد  
توبہ کوئی شاندار چیز نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں شان ہے  
تیسرے درخت بودینے میں کوئی شان نہیں شان تو اس کے  
جسنے اور شاخوں کے پھوٹنے اور پھل لانے میں ہے۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق عزوجل کی  
موافقت خوف اور نقصان فقیہی اور امیری سخی اور نرمی بیماری  
اور عافیت، خیر و شر، ملنے نہ ملنے سب میں لازم پکڑو میرے  
خیال میں تمہارے لیے سوائے تسلیم اور راضی برضا اللہ ہی رہنے  
کے کوئی دوا نہیں جب خدا تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی حکم جاری  
کرے اس سے وحشت نہ کرو اور اس میں جھگڑا نہ نکالو۔  
اور اس کا گلہ اس کے غیر سے نہ کرو۔ تمہارا غیر سے خدا کا  
شکوکہ تمہاری مصیبت و بلا کو اور بڑھائے گا بلکہ سکوت و  
سکون اور گنہامی اختیار کرو۔ اس کے رد و ثابت قدم رہو

وَقَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَاَرْضَاهُ عَنَّا  
الْزُمُوا مَوَافَقَةَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فِي الْبَاسَاءِ وَ  
الضَّرَائِعِ وَالْفَقْرِ وَالْغَنَى وَالشَّدَائِدِ وَالرَّخَاءِ  
فِي السُّقْمِ وَالْعَافِيَةِ فِي الْبَخِيرِ وَالشَّرِّ وَالْعَطَاءِ  
وَالْمَنْعِ مَا اَرَادَ لَكُمْ دَوَاءً اِلَّا التَّسْلِيمَ اِلَى  
الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ اِذَا قَضَا عَلَيْكُمْ شَيْءٌ لَا تَسْتَحْشُوا  
مِنْهُ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ وَلَا  
تَشْكُوا مِنْهُ اِلَى غَيْرِهِ فَانْ ذَاكَ مِمَّا يَزِيدُكُمْ  
بَلَاءً بَلْ سَكُوتًا وَسُكُونًا وَطَمَاحًا اَلَيْسَتْ يَدَيَّ

اور وہ جو کچھ تمہارے ساتھ اور تمہارے معاملات میں کرے  
اس کو خوشی دیکھے جاؤ اس کی تبدل و تغیر پر خوش رہو جب  
تمہارا خدا کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا یقیناً وہ تمہاری خوش  
کوائس سے اور تمہارے غم کو خوشی سے بدل ڈالے گا۔  
اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی حضوری میں اپنے ساتھ رکھ  
اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما۔

## پانچویں مجلس

۱۲ شوال ۱۲۵۵ھ ہجری المقدس کو منگل کے  
دن شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد  
فرمایا :

اے غلام! اللہ تعالیٰ کی بندگی کہاں ہے تو حقیقی بندگی  
اور سچی غلامی حاصل کر اور اپنے تمام کاموں میں کفایت اختیار  
کر خدا ہی کو کافی سمجھ۔ تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام  
ہے اسی کی طرف واپس ہو اور اسی کی طرف سر جھکا کر  
پست ہو جا اس کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ اور اس کے  
منع کیے ہوئے کام سے باز رہنے کے ساتھ اور اس کے  
مقدرات پر صبر و موافقت کے ساتھ تواضع کر جب یہ کام  
تجھے مل جائے گا تب تیری بندگی و غلامی تیرے آقا کے لیے  
پوری ہو جائے گی اور اس کی طرف تجھے کفایت نصیب ہوگی۔  
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایس اللہ الایۃ کیا اللہ اپنے بند  
کے لیے کفایت کرے یا نہیں جب اللہ تعالیٰ کیلئے تیری غلامی  
درست ہو جائیگی وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنی محبت تیرے  
قلب میں مضبوط کر دیگا اور اس کے سبب بغیر مشقت و بغیر ستم کے  
تجھے اپنا مونس بنا لے گا اور تجھے اس کے غیر کی محبت اچھی معلوم نہ ہوگی

وَأَنْظُرُوا مَاذَا يَعْمَلُ فِيكُمْ وَيُكْمِلُ تَفَرُّحُوا  
عَلَى تَغْيِيرِهِ وَتَبْدِيلِهِ إِذَا كُنْتُمْ مَعَهُ  
هَكَذَا لَا جَرَمَ يُغَيِّرُ الْوَحْشَةَ بِالْأَنْسِ بِهِ  
وَالْتَّوَجُّدَ بِالْفَرَحَةِ بِهِ -  
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي جَنَّاتِكَ وَمَعَكَ وَاتِّفَانِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

## الْمَجْلِسُ الْخَامِسُ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ التَّلَاءِ  
عَشِيَّةَ يَوْمِ الدَّرَسَةِ ثَانِي عَشَرَ شَوَّالِ  
سَنَةِ ثَمَسٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَمَسِيَّةً  
يَا عُلَامِ أَيْنَ عُبُودِيَةُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
هَاتِ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَةِ وَخُذِ الْكِفَايَةَ  
فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ أَنْتَ عَبْدُ ابْنِ مَنْ مَوْلَاكَ  
ارْجِعْ إِلَيْهِ وَذَلَّ لَهُ وَتَوَاضَعْ بِأَمْرِهِ بِالْإِثْمَالِ  
وَلَنْهَيْهِ بِالْإِنْتِعَاءِ وَلِقَضَائِهِ بِالصَّبْرِ وَالْمُؤَانَقَةِ  
إِذَا ثَقُلَتْ هَذَا أَتَمَّتْ عُبُودِيَتُكَ  
لِسَيِّدِكَ وَجَاءَتْكَ مِنْهُ الْكِفَايَةُ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ  
عَبْدَكَ إِذَا صَحَّتْ عُبُودِيَتُكَ لِمَا  
أَحْبَبَكَ وَقَوَّى حُبَّكَ فِي قَلْبِكَ وَالنَّسَاقَ  
بِهِ قُرْبَكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَ  
لَا طَلَبٍ وَلَا تَطْيِيبُ لَكَ صُحْبَةً  
غَيْرَهُ فَتَكُونُ رَاضِيًا عَنْهُ فِي  
جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَلَوْ صَبَّقَ عَلَيْكَ

پس تو خدا سے تمام حالتوں میں راضی ہو جائیگا۔ پس اگر وہ تجھ پر باوجود  
فراخی زمین کے زمین کو تنگ کر دے اور باوجود گنجائش و وسعت کے  
تیرے گرد و روزہ بند کر دے تو تو اس پر غصہ نہ کر اور اس کے بغیر  
کے قریب نہ جا اور اس کے بغیر کاکھانا نہ کھا اس وقت تو میری علیہ  
السلام سے مل جائیگا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے حق میں فرمایا ہے  
ان پر پہلے ہی سے دودھ پلانٹیاں الی حرام کر دی تھیں۔ ہمارا رب عز و  
جل ہر شے کا جاننے والا، ہر شے میں گواہ ہے، ہر شے پر حاضر  
ہے، ہر شے کے ساتھ اور ہر شے کے قریب ہے، تمہارے  
واسطے اس سے غائب ہونا نہیں۔ تم اس سے غائب نہیں ہو سکتے  
معرفت کے بعد انکار کا کیا کام۔

تجربہ پر افسوس کہ تو خدا کو پہچانتا ہے اور اس سے رجوع کرتا اور انکار کرتا ہے اس سے رجوع نہ کر پس تحقیق تو کل مصلحتیوں سے محروم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ صبر کر اور اس صبر نہ کر۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ جس نے صبر کیا قدرت والا ہو گیا اور یہ کیسا کام ہے۔ یہ کیسی عجلت ہے سوچ غور کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

یہ ایمان والے امنوا صبر کرو ایمان والو صبر کرو اور صبر  
دلاؤ اور دشمن کے گھات پر متحیر نہ رہو اور ان شر سے ڈرو تاکہ تم فلاح  
پاؤ۔ اور صبر کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیتیں  
ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صبر میں کیا کیا خوبیاں اور  
نعمتیں اور اچھا بدلہ اور عطائیں اور دین و دنیا کی راحت ہے  
صبر کو لازم پکڑو۔ تم نے اس کی خوبیاں دنیا و دین کی معلوم کر  
لی ہیں۔ تم زیارت قبور اور صلحہ کی طرقت آمد و رفت اور نیک  
کام کرنے کو لازم پکڑو۔ یقیناً تمہارا کام درست و راست  
ہو جائے گا تم اس جماعت سے تہہ ہو کہ جب ان کو نصیحت

الْأَنفُسَ بِرُوحِنَا وَصَدَدَ عَلَيْهِمُ الْآبَابَ  
يَسْأَلُهَا لِمَ تَسْخَطُ عَلَيْهِ وَلِمَ تُقْرَبُ  
بَابَ غَيْرِهِ وَلِمَ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِ  
تَلْتَحِقُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدَّثَ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهَا وَحَرَمْنَا  
عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ نَبْنَا عَزَّ وَ  
جَلَّ عَالِمُ الْبُكِيِّ شَيْءٌ شَاهِدٌ فِي كُلِّ  
شَيْءٍ حَاضِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبٌ  
مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيبٌ لَا  
غَيْبَةَ لَكُمْ عَنْهُ مَا أَمُرُ إِلَّا نَكْرًا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ  
وَيُحَاكُّ تَعْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
تَرْجِعُ تُنْكِرُ لَا تَرْجِعُ عَنْهُ فَإِلَّا تَحْرُمُ  
الْخَيْرَ كُلَّهُ رَاضٍ مَعَهُ وَلَا تَصِيرُ عَنْهُ  
أَمَّا عَلِمْتُ أَنْ مَنْ صَبَرَ قَدَرًا وَ آيَشَ  
هَذَا الْفِعْلُ آيَشَ هَذِهِ الْعُجْلَةُ قَالَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا  
وَصَابِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
وَفِي الصَّيْرِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ تَذَكُّرٌ  
عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّعِيمِ وَحُسْنِ  
الْجَزَاءِ وَالْعَطَاءِ وَالرَّاحَةِ فِي الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ عَلَيْكُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ  
عَاجِلًا وَآجِلًا عَلَيْكُمْ بِيَاقُوتِ الْقُبُورِ وَالْقَصْدِ  
إِلَى الصَّالِحِينَ وَفِعْلِ الْخَيْرِ وَقَدْ اسْتَقَامَ  
أَمْرُكُمْ لَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أُعْظُوا

کی جائے نصیحت قبول نہ کرے اور جب سُنے اس پر عمل نہ کرے۔  
 تمہارے دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے۔  
 اول یہ کہ تم علم پر جسے سیکھا ہے عمل نہیں کرتے۔  
 دوسری یہ کہ جس کا علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو  
 تیسرے یہ کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو اسے حاصل نہیں  
 کرتے۔ پس جاہل کے جاہل ہوتے ہو۔

چوتھے یہ کہ تم دوسروں کو تعلیم سے روکتے ہو۔  
 اے اہل جماعت! تم جب مجالس ذکر میں آتے ہو تو  
 تمہاری حاضری صرف سیر و تفریح کے لیے ہوتی ہے نہ علاج  
 کی غرض سے اور تم داعظ کے پند و نصائح سے اعراض کرتے  
 ہو اور اس کی خطا و لغزشوں پر نگاہ رکھتے ہو اور استہزاء کرتے  
 ہو اور ہنستے کھیلتے ہو۔ تم اللہ عزوجل کے ساتھ اپنے سُر  
 سے قمار بازی کرنے والے ہو۔ سچے طور سے سر کو حرکت نہیں  
 دیتے تم اس سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مشابہت  
 نہ کرو اور جو کچھ سنو اس سے نفع لو نصیحت حاصل کرو۔

اے غلام! تو عادت کے ساتھ مقید ہو گیا ہے تو تو  
 روزی طلب کرنے اور سب کے ساتھ ٹھہر جانے اور سب پیدا  
 کرنے والے کے بھول جانے اور اس پر ترک توکل کے ساتھ  
 مقید ہو گیا ہے تو از سر نو عمل کرو اور اس میں اخلاص کو لازم  
 پکڑو ارشاد الہی ہے وما خلقت الجن والانس الا ماعباد  
 پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے  
 ان کو ہوسناکی اور کھیل کود کھانے پینے سونے، نکاح  
 کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اے غافل! اپنی غفلتوں سے جو  
 کہ تیرا قلب خدا کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اور اس کی  
 محبت تیری طرف بہت قدم بڑھاتی ہے وہ اپنے محبوبوں

لَمْ يَتَّعِظُوا وَإِذَا سَمِعُوا لَمْ يَعْمَلُوا إِذْ هَابُ  
 دِينَكُمْ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ -  
 الْأَوَّلُ أَنَّكُمْ لَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْلَمُونَ  
 الثَّانِي أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ  
 الثَّالِثُ أَنَّكُمْ لَا تَتَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
 فَتَبْقُونَ جَاهِلًا -

الزَّائِعُ أَنَّكُمْ تَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنْ  
 تَعْلِيمٍ مَا لَا تَعْلَمُونَ - يَا قَوْمِ أَنْتُمْ إِذَا  
 حَضَرْتُمْ مَجَالِسَ الدِّينِ كَرْتُمْ تَحْضُرَ دَهْأٍ لِلْفَرَحَةِ  
 لَا لِلْمَدَاوَةِ وَتَعْرِضُونَ عَنْ وَعِظِ الْمَوَاعِظِ  
 وَتَحْفَظُونَ عَلَيْهِ الْخَطَاةَ وَالزَّلَلَ وَ  
 تَسْتَهْزِئُونَ وَتَضْحَكُونَ وَتَلْعَبُونَ أَنْتُمْ  
 مُخَاطَبُونَ بِرُءُوسِكُمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 تُوبُوا مِنْ هَذَا لَا تَتَشَبَّهُوا بِأَعْدَاءِ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَانْتَفِعُوا بِمَا تَسْتَمِعُونَ -

يَا غُلَامُ قَدْ تَقَيَّدْتَ بِالْعَادَةِ قَدْ  
 تَقَيَّدْتَ بِطَلَبِ الْأَسْهَامِ وَالْوُقُوفِ مَعَ  
 السَّبَبِ وَنِسْيَانِ الْمُسْتِيبِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ  
 عَلَيْكَ بِاسْتِيفَانِ الْعَمَلِ وَالْإِخْلَاصِ  
 فِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ  
 وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا خَلَقْتُهُمْ  
 لِلْفُوسِ مَا خَلَقْتُهُمْ لِلْعِبِ مَا خَلَقْتُهُمْ لِلْأَكْلِ  
 وَالشَّرْبِ وَالتَّوْمِ وَالنِّكَاحِ تَدَبَّهُوا يَا  
 غُفْلٌ مِنْ غَفْلَاتِكُمْ يَخْطُوا قَلْبَكَ إِلَيْهِ  
 خَطْوَةً وَيَخْطُوا حُبَّهُ إِلَيْكَ خَطْوَاتٍ هُوَ

إِلَىٰ لِقَاءِ الْمُحِبِّينَ أَشَقُّ مِنْهُمْ يَرْتَدُّ  
 مَنْ يَشَاءُ بغير حساب ۚ إِذَا أَرَادَ عَبْدٌ  
 أَلَا مَرَهِيًا كَلِمَةً هَذَا شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى  
 لَا بِالصُّوَرِ إِذَا تَمَرَّعَ عَبْدٌ مَا ذُكِرَتْ صَحَّ  
 زُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا سَوَى  
 الْمَوْلَى تُحِبُّهُ الصَّحَّةُ يُحِبُّهُ الْقُرْبُ  
 يُحِبُّهُ الْمَلِكُ وَالسُّلْطَنَةُ وَالْإِمَارَةُ  
 تُحِبُّهُ تَصْيِيرُ ذُرِّيَّتِهِ جَبَلًا قَطْرَتُهُ بَحْرًا  
 تَوَكُّبُهُ قَمَرًا وَقَمَرُهُ شَمْسًا قَلِيلُهُ  
 كَثِيرًا مَحْوُهُ وَجُودًا فَنَاءٌ لِقَاءُ تَحْوِكُهُ  
 ثَبَاتًا تَعْلُوا شَجَرَتَهُ وَتَشْمَخُ إِلَى  
 الْعَرْشِ وَأَصْلُهُا إِلَى الثَّرَى أَوْ تَطْلُ  
 أَغْصَانُهَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ مَا هَذِهِ  
 الْأَغْصَانُ الْحُكْمُ وَالْعِلْمُ تَصْيِيرُ الدُّنْيَا  
 عِنْدَكَ كَحَلْقِ الْخَاتَمِ لَا دُنْيَا تَمْلِكُهُ  
 وَلَا أُخْرَى تَقِيدُهُ لَا يَمْلِكُهُ مَلِكٌ  
 وَلَا مَمْلُوكٌ لَا يَعْجِبُهُ حَاجِبٌ لَا  
 يَأْخُذُكَ أَخْذٌ لَا يَكْدِرُكَ كِدَرٌ فَإِذَا تَرَهَّدَا  
 صَلَحَ الْعَبْدُ لِلْعُوقُوفِ مَعَ الْخَلْقِ وَالْأَخْذِ  
 بِأَيْدِيهِمْ وَتَخْلِيهِمْ مِنْ بَحْرِ الدُّنْيَا فَإِنْ  
 أَرَادَ الْحَقُّ بِالْعَبْدِ خَيْرًا جَعَلَهُ دَرَلِيكُهُمْ وَ  
 طَيِّبَهُمْ وَمُؤَدِّبَهُمْ وَمُدَارِيَهُمْ  
 وَتَرْجَمَانَهُمْ وَسَايَحَهُمْ وَشَحَنَتَهُمْ  
 وَسَرَاجَهُمْ وَشَمْسَهُمْ فَإِنْ أَرَادَ  
 مِنْهُ ذَلِكَ كَانَ وَالْأَحَبُّ عِنْدَكَ

کی ملاقات کا بہ نسبت ان کے زیادہ مشتاق ہے جس کو  
 چاہتا ہے بیشمار رزق دیتا ہے جب بندہ کسی امر کا ارادہ  
 کرتا ہے وہ اس کو اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ یہ ایسی  
 شے ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے نہ ظاہر سے۔  
 جب بندہ میں یہ باتیں پوری آجاتی ہیں تو اس کا زہد دنیا و  
 آخرت اور ماسوی اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ اس  
 کو صحت قرب بادشاہ سلطنت امارت سب دوست رکھنے  
 لگتے ہیں اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے اس کا قطرہ دریا اس کا  
 تارا چاند اور اس کا چاند سورج اس کی غٹھڑی چیز بہت اس کا  
 عدم۔ وجود اس کی فنا بقا ہو جاتی ہے اور اس کی حرکت ثبات  
 و سکون ہو جاتی ہے اس کی درخت بلند ہوتا ہے اور عرش  
 تک اونچا ہو جاتا ہے اور جڑ زمین تک اور اس کی شاخیں  
 دنیا و آخرت پر سایہ ڈالتی ہیں۔ یہ شاخیں ٹہنیاں کیا ہیں حکم و  
 علم۔ اس کے نزدیک دنیا مثل انگوٹھی کے حلقے کے ہو جاتی  
 ہے۔ نہ دنیا اس کو اپنا ملوک بنا سکتی ہے اور نہ آخرت  
 اس کو مقید کر سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اور کوئی غلام اس کا ملک  
 نہیں مہزنا نہ کوئی دربان اس کو روک سکتا ہے۔ نہ کوئی پکڑنے  
 والا اس کو پکڑ سکتا ہے نہ کوئی کدورت اس کو کد کر سکتی ہے۔  
 پس جب یہ مرتبہ کامل ہو جاتا ہے تو یہ بندہ مخلوق کے ساتھ  
 ٹھہرنے اور ان کا ہاتھ پکڑنے (بیعت لینے) اور ان کو بحر دنیا  
 سے چھڑانے کے قابل و صالح بن جاتا ہے پس اگر حق تعالیٰ  
 بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندہ کو مخلوق کا امیر  
 اور طبیب اور نوؤب اور تہذیب مکھانے والا اور ترجمان  
 اور تیرانے والا اور نگہبان اور ان کا ممتاب و آفتاب بنا  
 دیتا ہے۔ اگر خدا کا ایسا ارادہ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے

غَيْبَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَحَادًا فَرَادٍ مِنْ هَذَا الْجَنَسِ  
يُرَدُّهُمْ إِلَى الْخَلْقِ مَعَ الْحَفِظِ الْكَلْبِيِّ وَ  
السَّلَامَةِ الْكَلْبِيَّةِ يُوقِفُهُمْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ  
وَهَذَا يَتَوَهَّمُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا يُبْتَلَى  
فِي الْآخِرَةِ وَالزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
يُبْتَلَى بِرَبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَدْ غَفَلْتُمْ  
كَانَكُمْ لَا تَمُوتُونَ وَكَانَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
لَا تُحْشَرُونَ وَبَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عِزُّوَجَلَّ  
لَا تُحَاسِبُونَ وَعَلَى الصَّاطِ لَا تَجُوزُونَ  
هَذِهِ صِفَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الْإِسْلَامَ  
وَالْإِيمَانَ هَذَا الْفُرْآنُ وَالْعِلْمُ حُجَّةٌ  
عَلَيْكُمْ إِذَا لَمْ تَعْمَلُوا بِهِمَا إِذَا حَضَرْتُمْ  
عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ تَقْبَلُوا مَا تَقُولُونَ لَكُمْ  
كَانَ حُضُورُكُمْ عِنْدَهُمْ حُجَّةً عَلَيْكُمْ يَكُونُ  
عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ ذَالِكُ كَمَا لَوْ لَقِيتُمْ الرَّسُولَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَقْبَلُوا مِنْهُ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَعْرِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ الْخَوْفُ  
مِنْ جَلَالِ اللَّهِ عِزُّوَجَلَّ وَعَظَمَتِهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ  
وَعَدْلِهِ يَذْهَبُ مِنْكُمْ مَلُوكُ الدُّنْيَا وَ  
يَبْقَى مُلْكُهُ يَرْجِعُ الْكُلُّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَيُظْهِرُ مِنْكُمْ الْقَوْمَ يَظْهَرُ عَنْهُمْ وَغَنَاهُمْ  
وَأَكْرَامُ الْحَقِّ عِزُّوَجَلَّ لَهُمْ هُمُ الْيَوْمَ  
شَحْنُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَأَوْدَادُ الْأَمْصَافِ

ورنہ اس بندہ کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اس کو اپنے غیر سے  
غائب کر دیتا ہے۔ اس جنس کے افراد (یعنی مزان خدا سے)  
کوئی کوئی ہی ایسا ہوتا ہے جس کو مولیٰ تعالیٰ حفاظت و سلامت  
کلی کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اس کو خلق کی  
مصیبتوں اور ہدایت کے لیے توفیق دیتا ہے (ورنہ اکثر تو  
مخفی و مستور ہی رہتے ہیں) دنیا کا زاہد آخرت سے آزمایا جاتا ہے  
اور دنیا و آخرت کا زاہد دنیا و آخرت کے رکبے ساتھ آزمایا جاتا  
ہے اور تم تو ایسے غافل ہو گئے ہو گویا مر گئے ہی نہیں اور گویا  
تم قیامت کے دن اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے اور نہ حق عز و  
جل کے روبرو حساب لیے جاؤ گے اور نہ پل صراط پر ہو کر تم  
گزر گئے تمہاری کیفیتیں ہیں اور پھر تم اسلام و ایمان کا دعویٰ  
کرتے ہو (ہوشیار ہو جاؤ) یہ قرآن و علم جب تم ان دونوں  
پر عمل نہ کرو گے تم پر حجت نہیں گے جب تم علماء کے پاس حاضر  
ہو گے اور ان کے قولوں کو قبول نہ کرو گے تو ان کے پاس کی  
تمہاری یہ حاضری تم پر حجت نہیں گی اور تمہارے اوپر اس کا  
گناہ دیا ہی گا۔ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
سے ملتے اور ان کے ارشادات کو قبول نہ کرتے۔ قیامت  
کے دن ہر ایک کو جلال و عظمت الہی اور اس کی بڑائی اور انصاف  
کا خوف و ہرشت عام طور سے دامگیر ہوگی۔ دنیا کے بادشاہوں  
کا ملک جاتا رہے گا اور اسی کا ملک باقی رہے گا۔ قیامت کے  
دن کل کے کل اسی کی طرف رجوع کریں گے اور مزان خدا کی  
بادشاہت عزت و امارت اور خدا کا ان پر اکرام اور انعام ظاہر  
ہوگا وہ تو آج بھی بندوں اور شہروں کے کوتوال و محافظین اور زمین و آفاق

لے اولیا راشد کی بہت قسمیں ہیں غوث، قطب، افراد، ابدال۔ اقوام بھی ان میں کی ایک قسم ہے۔ تقادری غفرلہ

زمین کا قیام انہیں کی وجہ سے ہے اور یہی حقیقت خلق کے  
امیر اور سرور اور اللہ عزوجل کے ان میں سے نائب و خلیفہ  
ہیں نہ کہ باعتبار صوت ظاہر کے آج حقیقت و معنی ایسے ہیں  
کل ظاہر ظہور ایسے ہوں گے (پردہ اٹھ جائیگا) کافروں سے  
مقابلہ کرنے والوں کی بہادری ان سے جا ٹھرنے اور ثابت  
قدم رہنے میں ہے اور صالحین کی بہادری اپنے نفوس اور  
خواہشات اور طبیعتوں اور شیطانوں اور بُرے ہم نشینوں سے  
مقابلہ میں ہے جو کہ انسانوں کے شیطان ہیں اور خاص مزان  
خدا کی بہادری فی الجملہ دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ سے بے شک  
کرنے میں ہے۔

اے غلام! اس سے پہلے کہ مجبوراً تجھے جاگنا پڑے گا  
جاگ جا، ہوشیار بن، دیندار بن جا اور دینداروں سے میل جول  
کر بہ تحقیق آدمی حقیقت دیندار ہی ہیں۔ آدمیوں میں سب سے  
بڑا عقلمند وہ ہے جو اللہ عزوجل کی اطاعت کرے اور سب سے  
بڑا جاہل وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
و سلم کا ارشاد ہے۔ دیندار عورت کو ہی اختیار کرتے ہیں ہاتھ گرد  
آلودہ ہو جائیں تربت یعنی افتقرت ہے یعنی محتاج ہوا اور  
اترب یعنی استغنی یعنی تو نگر ہو گیا۔ جب تو دینداروں سے میل  
جول کرے گا اور ان سے دوستی پیدا کرنے کا تو تیجے  
دونوں ہاتھ اور تیرا قلب مستغنی ہو جائے گا تو نفاق سے  
اور اہل نفاق سے بیا کار سے دور بھاگ منافق، بیا کار  
کا کوئی عمل معتبر نہیں تیرا بھی وہی عمل قبول ہو گا جس میں تو

قَوَامُ الْاَبْرَارِ يَهُمُّهُمْ اَمْرَاءُ الْخَلْقِ وَ  
رُءُوسَا وَهُمْ نَوَابُ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فِيهِمْ  
مَنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مَنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ  
الْيَوْمَ مَعْنَى وَ عَدَا صُوْرَةً شَجَاعَةً  
السُّخْرَا صَمِيْنُ الْكُفَّارِ فِي لِقَائِهِمْ وَ الثُّبُوْتِ  
مَعَهُمْ وَ شَجَاعَةً الصَّالِحِيْنَ فِي لِقَاءِ نَفُوْسِهِمْ  
وَ الْاَهْوِيَّةِ وَ الطَّبَاعِ وَ الشَّيْكَاطِيْنَ وَ اقْرَانِ  
السُّوْرِ الَّذِيْنَ هُمْ شَيْكَاطِيْنُ الْاِنْسِ وَ  
شَجَاعَةً الْخَوَاصِ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَ  
الْاٰخِرَةِ وَ مَا سَوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فِي الْجُمْلَةِ  
يَا غُلَامُ تَنْبَهْ قَبْلَ اَنْ تَنْبَهَ بِلَا اَمْرِكَ  
تَدْبِيْنٌ وَ خَالِطُ اَهْلِ الدِّيْنِ فَاِنَّهُمْ هُمُ  
النَّاسُ اَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ اطَاعَ اللّٰهَ عَزَّ  
وَجَلَّ وَ اَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ عَصَاكَ قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ  
عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ تَرَبَّتْ  
بِعَمَلٍ اِفْتَقَرْتَ وَ اَتَرَبْتَ اِذَا اسْتَغْنَى  
اِذَا خَالَطْتَ اَهْلَ الدِّيْنِ وَ اَحْبَبْتَهُمْ  
اِسْتَعْنَتْ يَدَاكَ وَ قَلْبُكَ اِنْ هَرَبَ  
مِنَ النِّفَاقِ وَ اَهْلِهِ - اَلْمُنَافِقُ  
الْمُرِيْتُ لَا عَمَلَ لَهٗ مَا يُقْبَلُ  
مِنْكَ اِلَّا مَا اَمَدَتْ يَدَا وَ جَعَلَهُ

۱۔ یعنی عورت اگر کرے تو دیندار کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ من و جمال اور صلب نسب پر نہ جائیں گا راغب ہو ایسے ہی ہر کام  
میں پکے سے دیندار کو ڈھونڈنا اور اختیار کرنا۔ قادری مغفلاً

ذات الہی کا قصد کرے گا تجھ سے کسی عمل کی صورت قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس کے معنی و حقیقت قبول کیے جائیں گے جب تو اپنے عمل میں نفس اور خواہشات اور اپنے شیطان و دنیا کی مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو قبول کر لے گا جس میں تو ذات الہی کا ارادہ کرے گا نہ توجہ الی المخلوق۔

تجھ پر انہوں نے کہ تو خلق کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کا امیدوار ہے کہ حق عزوجل اس کو قبول فرمائے۔ یہ تیری ہوس ہے تو فخر و غرور اور اپنے سے فرحت و سرور کو چھوڑ دے خوشی کم کر اور غم کو بڑھا بہ تحقیق تو تو غم کدہ اور قید خانہ میں قید ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈال آپ اہم التفکر رہتے مسرت کم فرماتے غمگین زیادہ رہتے بجز تبسم کے بہت کم ہنستے اور تبسم بھی صرف دوسروں کے دل خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کے قلب مطہر میں غم و اشغال بھرے رہتے تھے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ دنیا کا انفعال جس پر آپ مامور تھے نہ ہوتا تو آپ اپنے حجرہ سے بھی باہر تشریف نہ لاتے اور نہ کسی کے ساتھ بیٹھتے۔

اے غلام جب تیری خلوت اللہ عزوجل کے ساتھ درست ہو جائیگی تو تیرا سر مدہوش ہو جائیگا اور قلب صاف ہو گا تیری نظر سراپا عبرت ہو جائے گی اور قلب از سر تا پا فکر اور تیری لوح اور معنی حق عزوجل کی طرف واصل ہو جائیں گی۔ فکر دنیا پر نہ اور عقوبت ہے اور فکر آخرت علم و زندگی قلب کی کسی بندہ کو تفکر عطا نہیں فرمایا جاتا مگر اسی کے ساتھ اس کو دنیا و آخرت کی حالتوں کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔

مَا تُقْبَلُ مِنْكَ صُورَةٌ عَمَلِكَ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْكَ مَعْنَاكَ إِذَا خَالَفْتَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ وَشَيْطَانَكَ وَدُنْيَاكَ فِي عَمَلِكَ قَبْلَهُ وَمِنْكَ أَعْمَلُ وَأَخْلَصُ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَمَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ مَا يُقْبَلُ إِلَّا مَا أَرَدْتَ بِهِ وَجْهًا لَا وَجْهَ الْخَلْقِ وَيُحَاكَ تَعْمَلُ لِلْخَلْقِ وَتُرِيدُ أَنْ يُقْبَلَكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا هَوَسٌ مِنْكَ دَعَاكَ الْأَشْرَ وَالْبَطَرُ وَالْفَرَحُ قَلِيلٌ فَرَحُكَ وَكَثْرُ حُزْنِكَ فَإِنَّكَ فِي دَائِرِ الْحُزْنِ فِي دَائِرِ السَّيْنِ كَانَ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ التَّفَكُّرِ قَلِيلَ الْفَرَحِ كَثِيرَ الْحُزَنِ قَلِيلَ الضَّحِكِ إِلَّا تَبَسُّمًا تَطْيِيبًا لِقَلْبٍ غَيْرِهِ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُزَانٌ وَاشْغَالٌ لَوْلَا الصَّحَابَةُ وَأُمُورُ الدُّنْيَا كَمَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَلَا يَقْعُدُ مَعَ أَحَدٍ -

يَا غُلَامُ إِذَا اصْطَحَتْ خَلَوَتُكَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَهْشٌ سَرٌّ وَصَفَا قَلْبُكَ بَصِيرَةٌ نَظَرٌ عِبْرًا وَقَلْبُكَ فِكْرًا وَمُؤْحَلٌّ وَمَعْنَاكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاصِلًا التَّفَكُّرُ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ وَحِجَابٌ وَالتَّفَكُّرُ فِي الْآخِرَةِ عِلْمٌ وَالْحَيَاتُ لِلْقَلْبِ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ التَّفَكُّرَ إِلَّا أُعْطِيَ الْعِلْمَ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا وَ

وَيُحَكِّ تَضَيِّعَ قَلْبِكَ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ  
فَرَّغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَقْسَامِكَ مِنْهَا وَ  
قَدْ قَدَّرَ لَهَا أَوْقَاتَهَا مَعْرُوفَةً عِنْدَكَ كُلَّ  
يَوْمٍ يَتَجَدَّدُ لَكَ بِرِزْقٍ جَدِيدٍ طَلَبَتْهَا  
أَمْ لَمْ تَطْلُبْهُ حِرْصُكَ يَفْضَحُكَ عِنْدَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِنْدَ الْخَلْقِ بِنُقْصَانِ  
الْإِيمَانِ تَطْلُبُ الرِّزْقَ وَبِزِيَادَتِهِ تَقْعُدُ  
عَنِ الطَّلِبِ وَبِكَمَالِهِ وَتَمَامِهَا تَنَامُ  
عَنْهُ -

يَا غُلَامُ لَا تَخْلُطِ الْبَعْدَ بِالْهَزْلِ  
فَإِنَّكَ مَا تَمَكَّنَ قَلْبُكَ مَعَ الْخَلْقِ كَيْفَ  
يَجْتَمِعُ مَعَ الْخَالِقِ وَأَنْتَ مُشْرِكَ ۱  
بِالسَّبَبِ كَيْفَ تَكُونُ مَعَ الْمُسَبَّبِ  
كَيْفَ يَجْتَمِعُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ مَا تَعْقِلُ  
وَمَا لَا تَعْقِلُ مَا عِنْدَكَ الْخَلْقُ وَمَا  
عِنْدَ الْخَالِقِ مَا أَجْهَلَ مَنْ نَسِيَ الْمُسَبَّبَ  
وَأَشْتَغَلَ بِالسَّبَبِ وَقَفَّ مَعَ الثَّانِي وَ  
تَرَكَ الْأَوَّلَ نَسِيَ الْبَاقِيَ وَفَرَحَ  
بِالْفَاقِي

يَا غُلَامُ تَصَحَّبُ الْجُهَالَ فَيَتَعَدَّى  
إِلَيْكَ مِنْ جَهْلِهِمْ صُجْبَةٌ الْأَحْمَقِ  
صُجْبَةٌ عَيْنِ أَصْحَابِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ  
الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ بِعِلْمِهِمْ مَا أَحْسَنَ

تجھ پرا فوس کہ تو اپنے قلب کو دنیا میں ضائع کر رہا ہے  
حالال کرتیرا میں حقیقی دنیا میں جو کچھ بھی تیرا مقصود ہے، تجھے  
ملنے والا ہے اس سے فارغ ہو چکا ہے اور اس کا ایک  
اندازہ کر دیا ہے اس کے وقت اس کو معلوم ہیں۔ تجھے ہرگز  
تیرا نیاز رقی پہنچتا ہے خواہ اسے طلب کرے یا نہ طلب کرے  
تیری حرص تجھے اللہ عزوجل اور مخلوق کے نزدیک رسوا کر رہی ہے  
ایمان کی کمی کی وجہ سے تو رزق کی طلب کرتا ہے اور ایمان  
کی زیادتی سے تو طلب سے مستغنی ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور ایمان  
کے کمال و تمام ہو جانے سے تو طلب سے سو جاتا ہے۔

اے غلام تجھ کو ہزل کے ساتھ نہ ملا۔ بہ تحقیق جب تک  
تیرا قلب خلق کے ساتھ متعلق ہے گا وہ خالق کے ساتھ  
کیسے جمع ہے گا۔ تو سبب کو شریک خدا سمجھتے ہوئے  
سبب پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ ظاہر  
و باطن اور عقلی بات اور غیر معقول بات اور وہ جو مخلوق کے  
پاس ہے اور وہ جو خالق کے پاس ہے، دونوں کیسے جمع  
ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص کتاباً جاہل ہے جو سبب پیدا کرنے  
والے کو بھول گیا ہے اور سبب کے ساتھ مشغول ہے سبب  
کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اور سبب کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی  
کو بھولا ہوا ہے اور فانی کے ساتھ خوش ہے۔

اے غلام تو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے پس ان  
کی جہالت تیری طرف بھی بڑھتی ہے۔ احق کی صحبت نقصان  
صحبت ہے تو ایسے ایمانداروں کی صحبت اختیار کر جو  
یقین کرنے والے عالم باعمل ہیں۔ ایمانداروں کا حال ان

أَحْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِمْ  
مَا أَقْوَاهُمْ عَلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ وَقَهَّرَهُمْ  
لِنُفُوسِهِمْ وَأَهْوَيْتَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ  
فِي وَجْهِهِمْ وَحُزْنِهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ هَذَا مِنْ  
قُوَّتِهِ قَدَرًا عَلَى أَنْ يُطَهِّرَ الْبَشَرَ فِي  
وُجُوهِهِ الْخَلْقِ وَيَكْتُمَ الْحُزْنَ فِيمَا بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَمًّا دَاسَهُ  
كَثِيرُ التَّفَكُّرِ كَثِيرُ الْبُكَاءِ قَلِيلُ الضَّحِكِ  
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا رَاحَةَ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ غَيْرِ لِقَاءِ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ حُزْنَهُ  
بِبَشِيرَةٍ ظَاهِرَةٍ تَتَحَرَّكُ فِي الْكَسْبِ وَ  
بِاطْنُهُ سَاكِنٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَاهِرُهُ  
لِغِيَالِهِ وَبِاطْنُهُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَفْشِي  
سِرًّا إِلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ وَجَارِيَتِهِ  
وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يَسْمَعُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَلَّمَ اسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِكُمْ بِالْكَفَمَانِ  
لَا يَزَالُ يَكْتُمُ وَمَا عِنْدَكَ قَنَاتٌ  
جَاءَتْهُ غَلْبَةٌ أَوْ تَمَّتْ مِنْ لِسَانِهِ  
كَلِمَةٌ فَيَتَدَارَكُ الْآمَرُ وَيُغَيِّرُ  
الْعِبَارَةَ وَ يَسْتُرُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ

تمام تصرفات میں کس قدر بھلا ہوتا ہے وہ اپنے مجاہدات  
ریاضات اور اپنے نفس پر اور خواہشات پر غالب ہونے  
میں کس قدر قوی و مضبوط ہوتے ہیں اور اسی واسطے نبی صلی  
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی مسرت اس کے پھرے  
میں ہوتی ہے اور اس کا غم اس کے قلب میں یہ اپنی قوت  
کے سبب اس بات پر قادر ہیں کہ وہ مخلوق کے زبرد خوشی  
ظاہر کریں اور غم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں مخفی رکھیں  
ایسے مومن کا غم دائمی ہوتا ہے اور فکر بہت اس کا رونمایا  
ہوتا ہے اور مہنسا کم اور اسی واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کو بغیر اپنے رب عز و  
جل کی ملاقات کے راحت نہیں ایمان دار اپنے غم کو اپنی  
خندہ پیشانی اپنی خوشی سے چھپائے رہتا ہے اس کا ظاہر  
کسب محنت مزدوری میں متحرک رہتا ہے اور باطن اس کا  
رب تعالیٰ کی طرف سکون پذیر رہتا ہے ظاہر اس کا واسطے  
اہل و عیال کے ہے اور باطن اس کا واسطے رب تعالیٰ کے  
وہ اپنے بھید کو اپنے اہل، اولاد، پڑوسی اور نوٹھی اور  
مخلوق میں سے کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے وہ ارشاد حضور نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتا ہے کہ تم اپنے تمام امور میں چھپا  
کے ساتھ دلیا کرو۔ اپنے امور کو خلق سے چھپاتے رہو  
ولی اللہ ہمیشہ اپنی ضرورت کو چھپاتا رہتا ہے پس اگر اس پر  
غلبہ طاری ہوتا ہے یا اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہو  
پس وہ فوراً اس کا تدارک کر لیتا ہے اور عبارت کو بدل  
دیتا ہے اور جس چیز کا اس سے اظہار ہو جاتا ہے اس کو

يَعْتَذِرُ مِمَّا بَدَأَ مِنْهُ -

يَا غُلَامُ اجْعَلْنِي مِرَاتَكَ اجْعَلْنِي  
مِرَاةَ قَلْبِكَ وَسِرِّكَ مِرَاةَ أَعْمَالِكَ  
أَدْنُ مِنِّي فَإِنَّكَ تَرَى فِي نَفْسِكَ مَا لَا  
تَرَاهُ مَعَ الْبُعْدِ عَنِّي إِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ  
فِي دِينِكَ فَعَلَيْكَ بِي فَإِنِّي لَا أُحَاطِيكَ  
فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدِي وَقَاحَةٌ  
فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ  
رَبَّيْتُ بِيَدِ خَشْنَةٍ غَيْرِ مُحْصَلَةٍ غَيْرِ  
مُنَافِقَةٍ دَعَا دُنْيَاكَ وَأَدْنُ مِنِّي فَإِنِّي  
وَأَقِفْ عَلَى بَابِ الْآخِرَةِ وَفَتْ عِنْدِي وَ  
اسْمَعْ قَوْلِي وَاعْمَلْ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ  
عَنْ قَرِيبٍ الذَّائِرَةُ عَلَى الْخَوْفِ مِنَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْخَشْيَةِ لَهُ إِذَا  
لَمْ يَكُنْ لَكَ خَوْفٌ مِّنْهُ فَلَا أَمْنَ لَكَ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْخَشْيَةُ مِنَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ وَ  
لِذَا لَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَخْشَى  
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ مَا يَخْشَى  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْعُلَمَاءُ الْعَمَالُ  
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ  
لَا يَطْلُبُونَ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ جَزَاءً  
عَلَى أَعْمَالِهِمْ بَلْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ  
قُرْبَهُ يُرِيدُونَ صُجْبَتَهُ وَالْخَلَاصَ  
مِنْ الْبُعْدِ وَحِجَابِهِ يُرِيدُونَ

چھپاتا ہے اور اس اظہار کی معذرت کرتا ہے۔

اے غلام! تو مجھے اپنا آئینہ بنا لے اپنے قلب کا  
آئینہ بنا لے اور اپنے سر اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا لے تو  
مجھ سے قریب ہو جا۔ پس تحقیق تو اپنے نفس میں میرے  
قرب کی وجہ سے وہ کیفیت دیکھنے لگے گا جو مجھ سے دوری  
میں نہیں۔ اگر تجھے کوئی حاجت دینی ہو پس تو مجھے لازم پکڑ  
لے میں دین الہی میں کسی امر کی تجھ سے فرو گذاشت نہ کروں گا  
میں دینی امر میں ہر نہ تنویر ہوں اس میں میرے پاس بے ثری  
ہے۔ میں نے دین میں ایسے سخت ہاتھوں سے پرورش  
پائی ہے جو نفع حاصل کرنے والے اور منافق نہ تھے تو  
اپنی دنیا چھوڑ اور مجھ سے قریب ہو جا۔ تحقیق میں آخر کے  
دروازہ پر مقیم ہوں تو بھی اگر میرے پاس ٹھہر جا اور میرا  
قول سن اور جلد مرنے سے پہلے اس پر عمل کر۔ اللہ عزوجل  
سے خوف و خشیت کے دائرہ میں رہ کہ اسی پر راحت  
و امن کا دار و مدار ہے جب تجھے اللہ تعالیٰ سے خوف  
نہ ہو گا دنیا و آخرت میں امن بھی نہ ہو گی۔ اللہ عزوجل سے  
خشیت باوجود اس کے سامنے موجود نہ ہونے کے اس  
کا جاننا ہے یا وہی بعینہ علم ہے اور اسی واسطے اللہ عزوجل  
جل نے فرمایا انما یخشى الله الذین یریکر بندوں میں  
سے مجھ سے عالم بندہ ہی ڈرتے ہیں۔ نہیں ڈرتے اللہ سے  
مگر وہی عالم جو علم پر عمل کرنے والے ہیں جو جانتے سیکھتے  
ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ عزوجل سے اپنے اعمال  
پر بدلہ نہیں چاہتے بلکہ عمل سے مقصود صرف ذات الہی  
اور اس کا قرب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت اور  
اس کی دوری و حجاب سے نجات چاہتے ہیں۔ یہی قصد

أَنْ لَا يَغْلِقَ بَابَ فِي وَجْهِهِمْ دُنْيَا وَ  
 آخِرَةً لَا يَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي  
 الْآخِرَةِ وَلَا فِي مَا سِوَاهُ الدُّنْيَا لِقَوْمٍ  
 وَالْآخِرَةِ لِقَوْمٍ وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْمٍ  
 وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤَقِّنُونَ الْعَارِفُونَ  
 الْمُجِبُونَ لَهُ الْمُتَّقُونَ الْخَاشِعُونَ لِمَا  
 الْمَحْزُونُونَ الْمُنْكَسِرُونَ لِأَجَلِهِ قَتُومٌ  
 يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْغَيْبِ وَهُوَ  
 غَائِبٌ عَنْ عِيُونِ ظَوَاهِرِهِمْ وَهُوَ حَاضِرٌ  
 نَصَبَ عِيُونِ قُلُوبِهِمْ كَيْفَ لَا يَخْفُونَهُ  
 وَهُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ يُغَيِّرُ وَيَبْدِلُ  
 وَيَنْصُرُ هَذَا وَيَخْذُلُ هَذَا يُحْيِي  
 هَذَا وَيُمِيتُ هَذَا يَقْبَلُ هَذَا وَيَرُدُّ  
 هَذَا يَقْرِبُ هَذَا وَيُبْعِدُ هَذَا لَا  
 يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ -

کرتے رہتے ہیں کہ ان پر دنیا و آخرت میں رحمت الہی کا دروازہ  
 بند نہ کیا جائے وہ دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ کی طرف  
 قطعاً رغبت نہیں کرتے۔ دنیا ایک قوم کے لیے ہے اور  
 آخرت ایک قوم کے لیے اور حق عزوجل ایک قوم کے  
 لیے۔ وہ ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے، معرفت  
 والے، خدا کو دوست رکھنے والے، اس سے ڈرنے والے  
 اس کے لیے عاجزی کرنے والے، غمزدہ ٹکستہ دل لوگ  
 ہیں۔ یہ قوم بغیر دیکھے اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ  
 ان کی ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور ان کے دل  
 کی آنکھوں کے روبرو موجود۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے  
 نہ ڈریں خدا تو ہر دن نئی شان میں ہے۔ تغیر و تبدل کرتا رہتا  
 ہے۔ کسی کی مدد فرماتا ہے، کسی کو ذلیل و محروم کسی کو زندہ  
 کرتا ہے اور کسی کو مارتا ہے کسی کو مقبول بناتا ہے اور  
 کسی کو مردود کسی کو قریب کرتا ہے اور کسی کو اپنے سے  
 دور وہ جو کچھ کرے اس پر پوچھ کچھ نہیں اور لوگ اعمال و  
 افعال سے سوال کیے جائیں گے۔

اے اللہ اپنے سے ہمیں قرب نصیب کر اور دور  
 نہ رکھ اور ہم کو دنیا و آخرت میں خوبیاں عطا کر اور دوزخ  
 کے عذاب سے بچا۔ آمین

### چھٹی مجلس

۱۵ ارشوال ۱۴۲۵ھ ہجری کو صبح کے وقت

مدرسہ قادریہ میں حضرت سر غوث الاعظم

نے ارشاد فرمایا:

اولیاء اللہ کے قلوب صاف پاک ہوتے ہیں۔

### الْمَجْلِسُ السَّادِسُ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بِكُرَّةٍ بِالدَّرَسَةِ مُنْتَصِفٍ

سُئِلَ سِتَّةَ سَمَيَاتٍ قَارِعِينَ وَخَمْسَةَ

قُلُوبِ الْقَوْمِ قُلُوبُ صَافِيَةٍ

طَائِفَةٌ نَاسِيَةٌ لِلْخَلْقِ ذَاكِرَةٌ لِلَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ نَاسِيَةٌ لِلدُّنْيَا ذَاكِرَةٌ لِلْآخِرَةِ  
نَاسِيَةٌ لِّمَا عِنْدَكُمْ ذَاكِرَةٌ لِّمَا عِنْدَهُ  
أَنْتُمْ مَحْجُوبُونَ عَنْهُمْ وَعَنْ جَمِيعِ  
مَا هُمْ فِيهِ مَشْغُولُونَ يَدُنِيَا كُمْ عَنْ  
أُخْرَاكُمْ تَارِكُونَ لِلْحَيَاءِ مِنْ رَبِّكُمْ عَزَّ  
وَجَلَّ مُتَوَاقِحُونَ عَلَيْهِ أَقْبَلَ نَصَحَ أَخِيكَ  
الْمُؤْمِنِ وَلَا تَخَالِفُوا فَإِنَّهُ يَرَى لَكَ مَا  
لَا تَرَى أَنْتَ لِنَفْسِكَ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرَآةُ  
الْمُؤْمِنِ - الْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ فِي نَصَحِهِ  
لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يُبَيِّنُ لَهُ أَشْيَاءَ تَخْفَى  
عَلَيْهِ يُفَرِّقُ لَهُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَ  
السَّيِّئَاتِ يَعْرِفُهُ مَا لَمْ وَ مَا عَلَيْهِ  
سُبْحَانَ مَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِي نَصَحَ الْخَلْقِ  
وَجَعَلَ أَكْبَرَ هَتَمِي إِلَيَّ نَاصِحٌ وَلَا  
أُرِيدُ عَلَى ذَالِكَ جَزَاءً أُجْرَتِي قَدْ  
حَصَلَتْ لِي عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَا  
أَنَا طَالِبٌ دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ مَا  
أَهْبِكُ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ وَلَا  
مَا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْبُدُ  
إِلَّا الْخَالِقَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الْقَدِيمَ  
فَرَحُّيْ بِفَلَاحِكُمْ وَ غَرَّتِي بِهَلَاكِكُمْ  
إِذَا سَأَيْتُ وَجْهَ مُرِيدٍ صَادِقٍ قَدْ  
أَفْلَحَ عَلَى يَدَيَّ شَيْعَتُ وَأُرْتَوَيْتُ

خلق کے بھول جانے والے اللہ عزوجل کے یاد کرنے والے  
دنیا کے بھلا دینے والے آخرت کے یاد کرنے والے  
تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو بھولنے والے خدا کے  
پاس جو ہے اس کو یاد کرنے والے رہتے ہیں۔ تم ان سے  
اور ان کی تمام ان خوبیوں سے محروم ہو جو ان میں ہیں اور  
تم دنیا میں آخرت کو چھوڑے ہوئے مشغول ہو۔ رب تعالیٰ  
سے تم کو جیانی نہیں تم جیاء کے چھوڑنے والے ہو تم تو اس کے  
روبرو بے شرمی کرنے والے ہو۔ اے عزیز اپنے مسلمان  
بھائی کی نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر۔ بہ تحقیق وہ  
تیرے ایسے عیوب و حالات دیکھتا ہے جس کی تجھے خود  
خبر نہیں اور اسی واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے  
ارشاد فرمایا مسلمان ایماندار مسلمان کا آئینہ ہے مسلمان اپنے  
مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی و نصیحت میں سچا اس پر ان  
باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو اس پر مخفی ہوتی ہیں اور اس کی  
خوبیوں اور برائیوں کو جدا جدا کر دیتا ہے اور اس کو اس کی  
نفع رساں و نقصان دہ چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ پاک ہے  
وہ خدا جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی  
ہے اور اس کو میرا بڑا مقصد بنا دیا ہے۔ بہ تحقیق میں نامح  
ہوں اور اس پر بدلہ نہیں چاہتا میری اجرت اللہ عزوجل  
کے نزدیک موجود ہے مل چکی ہے۔ دنیا و آخرت کا طالب  
نہیں ہوں میں دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ کی بندگی و عبادت  
نہیں کرتا ہوں میں تو سوا اللہ تعالیٰ کے جو کہ خالق بیکتا و یگانہ  
قدیم ہے کسی کی عبادت نہیں کرتا تمہاری بہبودی میں میری  
مرست ہے اور تمہاری ہلاکت میں میرا غم جب میں اپنے اے  
مرید صادق کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ جس نے میرے ہاتھ پر

وَأَكْتَسَيْتُ وَفَرَحْتُ وَإِلَّا أَقُولُ  
كَيْفَ خَرَجَ مِثْلُهُ مِنْ تَحْتِ  
يَدَيَّ -

يَا غُلَامُ مُرَادِي أَنْتَ لَا أَنَا إِنْ أَنْتَ  
تَتَغَيَّرْتَ لَا أَنَا أَنَا عَدَلْتُ وَإِنَّمَا أَنْتَ  
وَدَدْتُ نَحْنُ لِأَجْلِكَ تَعَلَّقَ بِي حَتَّى تَعْبُرَ  
بِالْعَجَلَةِ -

يَا قَوْمُ دَعُوا التَّكْبُرَ عَلَى اللَّهِ عَزَّو  
جَلَّ وَ عَلَى خَلْقِهِ اِعْرِضُوا قَدْ رَكُمُ وَتَوَاضَعُوا  
فِي نَفُوسِكُمْ أَوْ لَكُمْ نُطْفَةٌ قَدِ رَأَى مِنْ  
مَاءٍ مَهِينٍ وَ اِخْرُكُمُ جِيفَةً مُلْقَاةً  
لَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَقُودُهُ الطَّمَعُ وَيَصِيدُهُ  
الْعَوَى وَيَحِيلُهُمُ الْعَوَى إِلَى أَبْوَابِ  
السَّلَاطِينِ فَيَطْلُبُ مِنْهُمْ مَا لَمْ يُقَسِّمْ  
لَهُمْ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ مَا قَدْ قُسِمَ لَهُمْ  
بِالذُّلِّ وَالْمَعَانِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى قَالَ أَشَدُّ عُقُوبَاتِ  
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِعَبْدِهِ طَلِبُهُ مَا لَمْ  
يُقَسِّمْ لَهُ -

وَيَحَاكَ يَا جَاهِلًا بِالْقُدْرِ وَ  
الْمَقْدِيرِ لَهُ أَنْ تَطُنَّ أَنْ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا  
يَقْدُرُونَ أَنْ يُعْطَوْكَ مَا لَمْ يُقَسِّمْ

فلاح پانی تو اگھانا دسیراب ہو جاتا ہوں اور لباس پہن لیتا ہوں  
اور خوش ہو جاتا ہوں ورنہ کہتا ہوں کہ اس جیسا میرے ہاتھ کے  
نیچے سے کیسے نکل گیا۔

اے غلام! میری مراد تو ہے نہ کہ خود میں اگر تجھ میں تغیر  
پیدا ہوا تو تو بھی متغیر ہو گا نہ میں میں تو عبور کر چکا ہوں تو نے  
مجھے اپنی وجہ سے ہی دوست بنایا ہے پس تو میرے ساتھ  
علاقہ پیدا کر تا کہ جلد تو بھی عبور کر سکے۔

اے لوگو! اللہ عزوجل اور اس کی مخلوق پر تکبر و غرور کو  
چھوڑ دو۔ اپنے مرتبہ کو پہچانو اور اپنے نفوس میں تواضع پیدا  
کر دو تمہاری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے گھٹنوں نے پانی سے  
بنایا گیا اور تمہاری انتہا ایک مردار شے پھینک دی گئی ہے۔  
تم اس جماعت سے نہ ہو جن کو لالچ کھینچتا ہے اور خواہش  
ان کا شکار کرتی ہے اور ان کو بادشاہوں کے دروازوں کی  
طرف لے جانے پر برا بیگنہ کرتی ہے۔ پس یہ وہاں جا کر  
غیر مقسوم یا اپنے مقسوم حصہ کو ذلت و خواری کے ساتھ بادشاہوں  
سے طلب کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی  
ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سخت تر عذابوں  
میں سے اس کے بندے کا ایسی چیز کا طلب کرنا ہے جو  
اس کے واسطے مقسوم نہیں کی گئی۔

اے تقدیر اور کاتب تقدیر سے ناواقف تجھ پر انوس  
ہے کیا تو گمان رکھتا ہے کہ اہل دنیا تجھے اس چیز کے  
دینے پر جو تیری تقدیر میں نہیں قدرت رکھتے ہیں (دہر گز

اے آپ کا یہ ارشاد ویسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دیکھتا ہوں کہ  
احوال امت بہتر ہے خوش ہوتا ہوں ورنہ غم لاحق ہے۔ فاقم۔ قادری عفرلہ

لَكَ وَلَئِنْ هَذِهِ دَسُوسَةُ الشَّيْطَانِ  
الَّذِي قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِكَ وَرَأْسِكَ  
لَسْتَ عَبْدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا أَنْتَ  
عَبْدُ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ وَشَيْطَانِكَ  
وَطَبْعِكَ وَدِرْهِمِكَ وَدِينَارِكَ أَجْهَدُ  
أَنْ تَرَى مُفْلِحًا حَتَّى تُفْلِحَ بِطَرِيقَةٍ عَنْ  
بَعْضِهِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ  
لَمْ يَرِ الْمُفْلِحَ لَا يُفْلِحْ أَنْتَ تَرَى  
الْمُفْلِحَ وَلَكِنْ تَرَاهُ بِعَيْنِي رَأْسَكَ  
لَا بِعَيْنِي قَلْبَكَ وَسِرَّكَ وَإِيَّاكَ  
إِيَّانَ لَيْسَ لَكَ فَلَا جَرَمَ لَا تَكُونُ  
لَكَ بَصِيرَةٌ تَبْصُرُ بِهَا خَيْرَكَ قَالَ اللَّهُ  
تَعَالَى فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى  
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَالطَّامِعُ  
فِي أَخْذِ الدُّنْيَا مِنْ أَيْدِي الْخَلْقِ  
يَبِيعُ الدِّينَ بِالْثَيْنِ مَا يَبْقَى بِمَا يَفْنَى  
فَلَا جَرَمَ لَا يَقْعُ بَيِّدُهُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا  
مَا دُمَّتْهُ نَاقِصٌ إِلَّا يَكُنْ قَدْ وَنَكَ وَ  
إِصْلَاحَ مَعِيشَتِكَ حَتَّى لَا تَحْتَاجَ  
إِلَى النَّاسِ فَتَبَدَّلُ دِينَكَ لَهُمْ وَ  
تَأْكُلَ أَمْوَالَهُمْ بِهِ فَإِذَا قَرَى إِيَّاكَ لَكَ وَ  
كُنْ قَدْ وَنَكَ وَالتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَالْخُرُوجَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَقَطْعَ  
الْأَرْبَابِ وَالْمَسَافِرَ عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ  
بِقَلْبِكَ تَخْرُجُ بِقَلْبِكَ عَنْ بَلَدِكَ وَاهْلِكَ

نہیں، اور لیکن یہ شیطان کا دوسرے ہے جو تیرے قلب اور  
دماغ میں جگہ پکڑ گیا ہے تو اللہ عزوجل کا بندہ نہیں ہے پس  
اپنے نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان اور اپنی طبیعت  
اور درہم و دینار کا بندہ ہے۔ اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی فلاحیت  
والے کو پالے جس کی پیروی سے تجھے فلاح مل جائے یعنی  
مشرک کا مل تلاش کر، بعض اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت  
ہے کہ جس نے فلاحیت والے کو نہ دیکھا اسے فلاح نہ  
ملے گی تو تو فلاحیت والے کو دیکھتا بھی ہے تو سر والی آنکھوں  
سے نہ اپنے قلب و سر اور ایمان کی آنکھوں سے تیرے  
پاس تو ایمان ہی نہیں کہ جو بصیرت قلبی حاصل کرے اپنی بھلائی کو  
دیکھ سکے اسی وجہ سے بھلائی سے محروم ہے (ارشاد الہی ہے  
فَانْهَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ الْإِيَّاهُ أَنْ تَكُنْ مِنْهُمْ نَبِيًّا  
اور لیکن وہ قلب جو سینوں کے اندر ہیں نابینا ہو جاتے ہیں۔  
حصول دنیا کا مخلوق کے ہاتھوں سے لاپچی دین کو ایک انجیر  
کے بدلے میں فروخت کرتا ہے باقی کو فانی کے بدلے  
بیچتا ہے اس لیے اس کے ہاتھوں میں نہ یہ پڑتا ہے نہ  
وہ خمر الدنیا والاخرہ کا مصداق بن جاتا ہے جب تک تو  
ناقص الایمان ہے پس اپنے اوپر اصلاح نفس و معاش لازماً  
کر لے تاکہ تو آدمیوں کی طرف حاجت مند نہ ہو پس کہیں اپنے  
دین کو ان کے مال کھا کر باقی کو فانی سے نہ بدلے نہ زائل  
بعد حب تیرا ایمان مضبوط و کامل ہو جائے اس وقت تو  
اللہ عزوجل پر توکل اور سببوں سے علیحدگی اور ارباب طریقت  
سے قطع تعلق کو لازم پکڑ اور دل کے ساتھ تمام چیزوں سے  
مسافرت اختیار کر۔ دل کی موافقت کے ساتھ اپنے شر  
اور اہل و عیال اور اپنی دکان اور اپنی معرفت والوں سے

نکل جا، باہر آجا اور اپنے مقبوضات کو اپنے اہل و عیال اور بھائی اور معصوم دوستوں کے سپرد کر دے پس گویا ایسا ہو جاسیے کہ ملک الموت نے تیری روح لے لی اور موت کے اچکنے والے نے تجھے اچک لیا تو لقمہ موت ہو گیا۔ گویا زمین نے شقی ہو کر تجھے نکل لیا۔ گویا قدرت اور احکام قضا و قدر نے تجھے پکڑ لیا اور تجھے علم و معرفت کے دریا میں ڈبو دیا جو اس مقام پر پہنچا اس کو سبب ضرر نہیں پہنچا سکتے کیوں کہ وہ ظاہری ہوتے ہیں نہ کہ باطنی۔ سبب دوسروں کے لیے ہوتے ہیں نہ اس کے واسطے۔

اے قوم والو! اگر تم پورے طور سے قلب کے ساتھ ان تمام امور مذکورہ پر قدرت نہیں رکھتے کہ سبب کو اور اس کے تعلق کو چھوڑو تم سے یہ پوری طور سے نہ ہو سکے تو بعض وجہ سے ہی سہی۔ جب تم کل پر قدرت نہیں رکھتے تو بعض سے کیا کم ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس قدر بھی طاقت رکھو دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ

اے غلام! اگر تجھے دنیا کے غموں سے فارغ و خالی ہونے کی قدرت ہے تو اسے گر گزردہ دل سے حق عزوجل کی طرف دوڑھا اور اس کے دامن رحمت سے لپٹ جا یہاں تک کہ تیسرے دل سے دنیا کا غم نکل جائے وہ ہر شے پر قادر اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے اس کے قبضہ میں ہے تو اس کے دروازے کو کھٹکے اور یہ سوال کر کہ وہ تیسرے دل کو اپنے غیر سے فارغ کر دے اور اس کو ایمان اور معرفت الہی اور علم سے بھر دے اور اپنی مخلوق سے تجھے مستثنیٰ کر دے اور تجھ کو یقین عطا فرما دے اور وہ تیسرے

وَدُكَاثِكَ وَمَعَارِفِكَ وَتَسْلِمَ مَا فِي يَدِكَ إِلَى أَهْلِكَ وَرِخْوَانِكَ وَأَقْرَانِكَ فَتَصِيرُ كَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ أَخَذَ رُوحَكَ كَأَنَّ خَطَاةَ الْمَوْتِ اخْتَطَفَكَ كَأَنَّ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ وَبَلَغَتْكَ كَأَنَّ أَمْوَاجَ الْقَدَرِ وَالْقُدْرَةِ وَالسَّائِقَةِ أَخَذَتْكَ فِي بَحْرِ الْعِلْمِ عَزَمَتْكَ مَنْ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ لَا تُصْرَهُ الْأَسْبَابُ لِأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى ظَاهِرٍ لَا عَلَى بَاطِنٍ تَكُونُ الْأَسْبَابُ لِغَيْرِهِ لَا لَكَ -

يَا قَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى مَا ذُكِرَتْ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَسْبَابِ وَالتَّعَلُّقِ بِهَا مِنْ حَيْثُ قُلُوبُكُمْ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَيَكُونُ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ إِذَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى الْكُلِّ لَا أَقَلَّ مِنَ الْبَعْضِ كَانَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ -

يَا غُلَامُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَتَفَرَّغَ مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا فَاتَّعَلَّ وَلَا فَهَرُولُ بِقَلْبِكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَلَّقْ بِذِيْلِ رَحْمَتِهِ حَتَّى تَخْرُجَ هُمُ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ يَبْدِئُ كُلَّ شَيْءٍ بِالزُّمَرِ بَابًا وَسَلَهُ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَكَ عَنْ غَيْرِهِ وَيَمْلِكَهُ بِالْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ لَكَ وَالْعِلْمُ بِهِ وَالْوَحْيُ بِهِ عَنْ خَلْفِهِ سَلَهُ أَنْ يُعْطِيكَ الْيَقِينَ وَيُؤَيِّسَ

قلب کو اپنے ساتھ لے آئے اپنے غیر سے غیر بانوں کو روکے  
اور وہ سب کے تمام اعضا کو اپنی اطاعت میں مشغول کر دے  
تو ہر چیز کو اسی سے طلب کرتا ہے جیسی مخلوق کی طرف  
نہ جھک بلکہ تیرا جھکنا محض اللہ کی طرف ہو بغیر سے دوری رہے  
اور تیرا جو معاملہ بھی ہو وہ خدا کے ساتھ اور اسی کے واسطے  
ہو۔

اے غلام: ربانی جمع خرچ بغیر عمل قلب کے تجھے خدا کی  
طرف ایک قدم بھی نہ لے جائے گا۔ سیرِ قلوب کی سیر ہے  
قرب الی قلب ربانی ہی ہے اور عمل حقیقی معنی کا عمل ہے  
جس میں حدود و شرعیہ کی حفاظت ہو اور اشد عزوجل اور اس کے  
بندوں کے لیے تواضع انکسار ہو جس نے اپنے نفس کو وزن  
دار سمجھا اس کے واسطے کچھ وزن و قدر نہیں جس نے اپنے  
عملوں کو خلق کے لیے غماہ کیا اس کا عمل کچھ بھی نہیں۔ عمل  
خلوتوں میں ہونے ہیں جلوتوں میں ان کا اظہار نہیں ہوتا ہے  
سوا ان فرائض کے کہ جن کا اظہار شرعاً ضروری ہے تو اولاً  
بنیاد کے مضبوط کر کے میں جب قصبہ واری و کوتاہی کر چکا تو  
تیرا اس عمارت کو جو ایسی بنیاد پر بنے گی مضبوط کرنا کیا فائدہ  
بخشتے گا۔ تو عمارت کے نقصان و خرابی کے دور کرنے پر  
اسی وقت قدرت رکھ سکے گا جب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی  
اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے پس جس کو توحید و  
اخلاص نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں تو اولاً توحید و اخلاص کے  
ساتھ اپنے عملوں کی بنیاد مضبوط کر اس وقت عملوں کی عمارت  
اشد عزوجل کی قوت و طاقت کی مدد سے بنانے ساتھ اپنی  
طاقت و قوت کے کہ یہ تو غیر معتبر ہے۔ توحید کا ہاتھ ہی  
عمارت بنا سکتا ہے نہ شرک و نفاق کا ہاتھ۔ موحدی الیسا

قَلْبَكَ بِهِ وَيَسْتَعِزُّ جَوَارِحَكَ  
بِطَاعَتِهَا أَطْلُبُ الْكُلَّ مِنْهُ لَا مِنْ  
غَيْرِهِ لَا تَذِلُّ لِمَخْلُوقٍ مِثْلَكَ بَلْ  
يَكُونُ ذَلِكَ لَكَ لَا لِغَيْرِهِ وَمَعَا مَلَّتْكَ  
مَعَهُ وَلَمْ لَا لِغَيْرِهِ -

يَا غَلَامُ فَقَدْ لَلِّسَانُ بِلَا عَمَلٍ الْقَلْبُ  
لَا يُخْطِيبُكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ خَطْوَةً  
السَّيْرِ سَيْرُ الْقُلُوبِ الْقُرْبُ قُرْبُ الْأَسْرَارِ  
الْعَمَلُ عَمَلُ الْمَعَانِي مَعَ حِفْظِ حُدُودِ  
الشَّرْعِ بِالْجَوَارِحِ وَالْتِمَاضِ بِإِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلِإِعَادِهِ مَنْ جَعَلَ لِنَفْسِهِ وَزَنًا فَلَا وَزْنَ  
لَهُ مَنْ أَظْهَرَ أَعْمَالَهُ لِلْمَخْلُوقِ فَلَا عَمَلًا  
لَهُ الْأَعْمَالُ تَكُونُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ لَا تَظْهَرُ  
فِي الْمَجْلُوباتِ سِوَى الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا يَدَّ  
مَنْ أَظْهَرَ مَا قَدْ سَبَقَ تَفْرِيطُكَ فِي  
أَحْكَامِكَ لِلْأَسَاسِ مَا يَنْفَعُكَ أَحْكَامُكَ  
لِلْبِنَاءِ الَّذِي فَوْقَهُ إِذَا تَغَيَّرَ الْبِنَاءُ وَ  
الْأَسَاسُ فَحُكْمُ قَدَرْتِ أَنْ تَجْبُرَ أَسَاسُ  
الْأَعْمَالِ التَّوْحِيدُ وَالْإِخْلَاصُ فَمَنْ لَا  
تَوْحِيدَ لَهُ وَلَا إِخْلَاصَ لَهُ لَا عَمَلَ لَهُ  
أَحْكَمُ أَسَاسٍ أَعْمَالُكَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ  
ثُمَّ ابْنِ الْأَعْمَالَ بِحَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُوَّتِهِ  
لَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَدُ التَّوْحِيدِ هِيَ الْبَالِيَةُ  
لَا يَدُ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ الْمَوْحَدُ هُوَ

ہوتا ہے جس کے علم کا چاند بلند ہو نہ کہ منافق۔ اے اللہ ہمارے  
اور نفاق کے درمیان تمام حالتوں میں دوری کر دے اور نفاق  
سے بچا اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکوئی عطا کر اور ہم کو توفیق  
کے عذاب سے بچانا۔ آمین

## ساتویں مجلس

۱۔ ارشوال المکرم ۱۴۵۷ھ ہجری کو اتوار کے دن  
خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا :  
اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ  
کی آل پر اور ہم کو توفیق صبر دے اور ثابت قدم رکھو اور اپنی  
عطائیں ہمارے لیے زیادہ کر اور اس پر ہم کو توفیق شکر  
عطا فرما۔ آخر دعا تک زان بعد فرمایا،

اے قوم! تم صبر کرو دنیا سترپا آفتوں اور مصیبتوں کا مجسمہ  
ہے اور اس کے سوا دنیا سے کچھ شاد و نادر ہی ہے۔ دنیا  
کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے پہلو میں مصیبت و غم نہ ہو۔  
اس کی کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ رنج نہ ہو۔ اس کی  
کوئی فراخی ایسی نہیں جس کے ساتھ تنگی نہ ہو۔ دنیا کو پیچھے رکھو  
کر شرع کے ہاتھوں دنیا سے اپنے حصہ تقدیری لیتے رہو  
پس تحقیق دنیا سے حصہ حاصل کرنے کا یہی علاج ہے۔

اے غلام! جب تو مرید ہو اس وقت اپنا مقسوم شرع  
کے ہاتھ سے لے اور جب تو مخصوص دوست بن جائے تو  
امر کے ہاتھ سے لے اور جب تو فانی فی اللہ واصل و مقرب  
در بار ہو جائے تو اللہ عزوجل کے فعل کے ہاتھ سے لے  
تیری طرف امر و حکم بھیجا جائے گا اور حکم امور شریعہ کا تجھے  
حکم دے گا اور منیات سے روکے گا اور فعل تیرے اندر

الَّذِي يَرْتَفِعُ قَمَرٌ عَلَيْهِ أَمَّا الْمَنَافِقُ  
فَلَا اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ التَّفَاقُ فِي  
جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي  
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

## المجلس السابع

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْاَحَدِ فِي الرِّبَاطِ  
سَلَامٌ عَشْرَ شَوَالٍ سَنَةِ ثَمَانٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
وَافْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَ  
كَثِّرْ عَطَاكَ لَنَا وَارْزُقْنَا الشُّكْرَ عَلَيْهِ  
إِلَى اخِرِ الدَّعَاءِ ثُمَّ قَالَ،

يَا قَوْمُ اصْبِرُوا فَإِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا أَفَاتٌ  
وَمَصَائِبُ وَالتَّادِرُ مِنْهَا غَيْرُ ذَآلِكَ مَا  
مِنْ تَعْمَةٍ إِلَّا وَفِي جَنِبِهَا رِقْمَةٌ مَتَامُنٍ  
فَرَحَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا تَرْحَةٌ مَا مِنْ سَعَةٍ إِلَّا  
وَمَعَهَا ضَيْقٌ اَعْطُوا الدُّنْيَا جُنُوبَكُمْ  
وَتَنَاوَلُوا قَسَامَ مَكْرٍ بِيَدِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ هُوَ  
الدَّوَاءُ فِي تَنَاوُلِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الدُّنْيَا۔

يَا غُلَامُ خُذِ الْقَسَامَ بِيَدِ الشَّرْعِ إِذَا  
كُنْتَ مُرِيدًا وَبِيَدِ الْأَمْرِ إِذَا كُنْتَ  
خَاصًّا صَدِيقًا وَبِيَدِ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ إِذَا كُنْتَ فَرَانِيًا وَاصِلًا مُقَرَّبًا  
يَسَائِلُ إِلَيْكَ الْأَمْرُ وَالْأَمْرِيَا مُرَكَّ  
وَيُنْهَاكَ وَالْفِعْلُ يَتَحَرَّكُ فِينَا

حرکت کرے گا۔ مخلوق تین قسم کی ہے۔ عامی، خاص، خاص الخاص۔  
 عامی وہ مسلمان ہے جو پرہیزگار ہو، شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیکر  
 اس پر عامل ہے، اسی کو لازم پکڑے اور اس سے جدا نہ ہو  
 اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ما اتکم الرسول اللہ پر عامل ہے  
 اور جو کچھ تم کو رسول دین بتائیں پس اس کو لو، قبول کرو اور جس چیز  
 سے منع کر دیں پس اس سے باز رہو پس جب یہ اس کے حق  
 میں تمام ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ظاہر و باطناً عمل کرنے لگتا  
 ہے تو اس کا قلب ایسا منور ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ہر شے  
 کو دیکھنے لگتا ہے۔ پس جب وہ کوئی شے شریعت کے ہاتھ  
 سے لیتا ہے تو اپنے قلب سے فتویٰ چاہتا ہے اور الہام  
 الہی طلب کرتا ہے اس واسطے کہ الہام الہی ہر شے میں عام  
 ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا فالہمہا الی پس اللہ نے نفس کو  
 کر دیا اس کا فحور تقویٰ الغرض وہ قلب سے فتویٰ لیتا ہے  
 اور حق عزوجل کے الہام کا منتظر رہتا ہے اور اس کی علامت  
 یہ ہے کہ وہ ظاہر امر کو لیتا اعتبار کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ  
 جو کچھ اس معیشت تیار کرنے والی دکان میں ہے دینے والا  
 بے رہا ہے۔ سب اس کی ملکیت اور اس کے قبضے کا بھجنا  
 ہے زال بعد وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے نور قلبی سے فتویٰ  
 چاہتا ہے اور اس معاملے میں حکم قلب کا منتظر رہتا ہے۔  
 اور اس معاملے میں حکم کا منتظر رہتا ہے اور اس مرتبہ کا حصول جب  
 ہوتا ہے جب کہ وہ عمل بالشرع سے فارغ ہونے اور اس کی  
 قوت ایمانی اور قوت توحید قوی ہو جائے اور اس کا قلب دنیا  
 اور مخلوق سے علیحدہ ہو جائے ان کے جنگوں اور دیاروں کو عبور  
 کرے پس اس حصول کے بعد اس کی جمع نور ہوتی ہے، نور  
 ایمان اور نور قرب عزوجل کی طرف سے آتا ہے اور نور عمل اور نور بصیر

الخلق ثلاثہ۔ اَصْرِبَ عَامِيٍّ وَخَاصٍّ وَ  
 خَاصُّ الْخَاصِّ فَالْعَامِيُّ هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُتَّقِي  
 يَأْخُذُ الشَّرْعَ بِيَدِهِ يَلْتَزِمُ الشَّرِيعَةَ  
 وَلَا يَنْفَارُ قُلُوبًا يَعْمَلُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  
 وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَإِذَا تَمَّ هَذَا  
 فِي حَقِّهِ وَعَمِلَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا صَارَ  
 قَلْبُهُ مُنَوَّرًا أَبْصَرُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا  
 مِنْ يَدِ الشَّرْعِ اسْتَفْتَى قَلْبَهُ وَطَلَبَ  
 إِلَهُامَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ لِأَنَّ إِلَهُامَهُ  
 عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  
 فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا خِيسْتَفْتَى  
 قَلْبَهُ وَبَيَّنَّتْ لَهُ إِلَهُامُ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
 وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ ظَاهِرَ الْأَمْرِ وَ  
 هُوَ أَنَّ مَا فِي دُكَّانِ هَذَا الْمُتَعَيِّشِ  
 مُلْكًا لَهُ وَيَبِيدُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَيَسْتَفْتِي  
 نَوْرَ قَلْبِهِ وَيَنْظُرُ مَا عِنْدَ كَرَفِ  
 ذَلِكَ وَهَذَا بَعْدَ فِرَاقِهِ مِنَ  
 الْعَمَلِ بِالشَّرْعِ عِنْدَ قُوَّةِ إِيْمَانِهِ  
 وَتَوْحِيدِهِ بَعْدَ خُرُوجِ قَلْبِهِ مِنَ  
 الدُّنْيَا وَالْخَلْقِ وَقَطْعِ قِيَافِهِمَا  
 وَغُبُورِ بَحْرِيهِمَا حِينَئِذٍ  
 يَأْتِيهِ الصُّبْحُ يَأْتِيهِ نَوْرُ الْإِيمَانِ  
 نَوْرُ الْقُرْبِ مِنَ تَرَبُّهِ عَزَّوَجَلَّ  
 نَوْرُ الْعَمَلِ نَوْرُ الْبَصِيرِ نَوْرُ

التَّوَدَّةَ وَالطَّمَإِنَّةَ كُلِّ هَذِهِ الثَّمَرَةُ  
بَعْدَ آدَاءِ حُقُوقِ الشَّرْعِ وَبَرَكَهٖ مُتَابَعَتُهُ  
وَأَمَّا الْإِبْدَالُ وَهِيَ خَوَاصُّ الْخَوَاصِّ فَيَسْتَفْتُونَ  
الشَّرْعَ ثُمَّ يَنْظُرُونَ أَمَرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَفِعْلَهُ وَتَحْرِيفُكَهٗ وَالْهَامَةُ فَمَا وَدَّاعٌ  
لَهُوَلَاءِ الثَّلَاثَةِ هَلَاكٌ فِي هَلَاكٍ  
سُقْمٌ فِي سُقْمٍ حَرَامٌ فِي حَرَامٍ صَدَاعٌ  
فِي رَأْسِ الدِّينِ وَدُبَيْلَةٌ فِي قَلْبِهِ سِلْ  
فِي جَسَدِهِ -

يَا قَوْمُ يَكُونُ تُصَارِيفُهُ فَيْكُمْ  
لَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ هَلْ تَشُبُّتُونَ أَوْ  
تَنْهَضُمُونَ هَلْ تَصَدِّقُونَ أَوْ تُكَذِّبُونَ  
مَنْ لَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ لَا يُوَافِقُ وَلَا  
يُؤَقِّقُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْأَقْضِيَةِ لَا  
يَرْضَى عَنْهُ مَنْ لَمْ يُعْطَ لَا يُعْطَى مَنْ  
لَمْ يَرْضَ لَا يُرْكَبُ -

يَا جَاهِلُ تُرِيدُ تَغْيِيرَ وَتَبْدِيلِ مَا  
تُرِيدُ أَنْتَ إِلَهٌ ثَانٍ تُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  
جَلَّ يُوَافِقُكَ هَذَا بِالْعَكْسِ الْعَكْسِ  
تُصِيبُ لَوْ لَا الْأَقْدَارُ لَمَّا عُرِفَتْ  
الدَّعَاوَى الْكَاذِبَةُ عِنْدَ التَّجَارِبِ  
يَتَّبَعِينَ الْجَوَاهِرَ أَنْ يَكْرَ عَلَى نَفْسِكَ

اور نورِ اطمینان و آہستگی اس کو مل جاتا ہے تمام امور حقوق شرع  
کے ادا کرنے اور اس کی پیروی کی برکت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور  
یہ امور بغیر اسے حقوق شرعی اور پیروی شرع حاصل نہیں ہوتے  
اور لیکن ابدال جو کہ خواص انخاص میں، اولاً وہ شرع سے فوٹے  
لیتے ہیں۔ پھر امر الہی اور اس کے فعل اور تحریک اور الہام  
کے منتظر رہتے ہیں۔ پس ان تینوں درجوں کے سوا تو ہلاکت  
در ہلاکت، بیماری در بیماری، حرام در حرام اور دین کے سر کا  
درد، دین کے قلب کا پھوڑا، زخم اور دین کے جسم کی  
سل ہے۔

اے قوم! اللہ تعالیٰ کے تصرفات تم میں اس لیے ہوتے  
ہیں کہ وہ ظاہر اتمائے اعمال کو دیکھے کہ آیا تم ثابت قدم  
رہتے ہو یا بجا گتے ہو۔ آیا امور تقدیری کی تصدیق کرتے ہو  
یا ان کو جھٹلاتے ہو۔ جو شخص تقدیر کے ساتھ موافقت نہیں  
کرتا وہ موافقت نہیں کیا جاتا، نہ توفیق دیا جاتا ہے۔ خواہ حکام تھنا  
و قدر سے راضی نہیں ہوتا اس سے رضامندی نہیں کی جاتی۔  
جو دوسروں کو نہیں دیتا وہ عطا نہیں کیا جاتا، جو ملاقات نہیں کرتا  
سوار نہیں کیا جاتا۔

اے جاہل! تو امور تقدیر میں تغیر و تبدل چاہتا ہے تیرا  
کیا ارادہ ہے؟ کیا تو دوسرا معبود ہے؟ تو چاہتا ہے کہ اللہ  
عز و جل تیری موافقت کرے۔ یہ امر تو بالعکس ہے تو اس کا  
برعکس کر، راہ صواب پائے گا۔ اگر مقدرات و ضدائی اندازہ  
نہ ہوتے تو جھوٹے دعوے نہ پہچانے جاتے جو ہر تجربہ کے  
وقت ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کا اس طرح انکار کر جیسا

۱۷ یعنی راضی برضار، ہر امر میں خدا کے ساتھ موافقت کرنے کہ تو اس کو اپنا سوا فاع بنا چاہے کہ یہ فریغ ہے ۱۷

اِنْكَارَهَا عَلَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ اِذَا كُنْتَ  
مُنْكَرًا عَلَى نَفْسِكَ قَدَرْتَ عَلَى الْاِنْكَارِ  
عَلَى غَيْرِكَ عَلَى قَدْرِ قُوَّةِ اِيْمَانِكَ  
تُزِيلُ الْمُنْكَرَاتِ وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهِ  
تَقْعُدُ فِي بَيْتِكَ وَتَتَخَارَسُ عَنْ اِزَالَتِهِ  
اَقْدَامُ الْاِيْمَانِ هِيَ الَّتِي تَثْبُتُ عِنْدَ  
لِقَاءِ شَيْطَانِ الْاَنْسِ وَالْجِنِّ هِيَ الَّتِي  
تَثْبُتُ عِنْدَ نَزْوِلِ الْبَلَايَا وَالْاَفَاتِ  
اَقْدَامُ اِيْمَانِكَ لَا ثَبَاتَ لَهَا فَلَا تَدَّعِي  
اَلْاِيْمَانَ اَبْغَضُ اَبْغَضِ الْكُلِّ وَاَحَبُّ  
خَالِقِ الْكُلِّ فَاِنْ شَاءَ هُوَ اَنْ يُحِبَّ  
اِلَيْكَ شَيْئًا مِمَّا اَبْغَضْتَ كُنْتَ مَحْفُوظًا  
فِيهِ لَا تَهْ هُوَ كَانَ الْمَحِبِّ لَا اَنْتَ وَ  
لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ الْطَيِّبِ  
وَالنِّسَاءِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي  
الصَّلَاةِ حُبِّ اِلَيْهِ بَعْدَ الْبُغْضِ وَالْاَتْرَافِ  
وَالْاَعْرَاضِ فَرَّغْ اَنْتَ قَلْبَكَ  
مِمَّا سِوَاهُ حَتَّى يُحِبَّ هُوَ اِلَيْكَ مَا  
يَشَاءُ مِنْ ذَالِكَ -

کہ وہ حق عزوجل کا انکار کرتا ہے۔ جب تو اپنے نفس پر منکر ہو جاویگا  
تو دوسرے کے انکار پر بھی قدرت پالے گا۔ اپنی قوتِ ایمانہ  
کے اندازہ کے مطابق تو خرابیوں کا ازالہ کر سکتا ہے اور اس کے  
ضعف کے اندازہ کے مطابق گھریں بیٹھے گا تو بزدل ہو جاویگا  
اور اس کے دور کرنے سے عاجز اور گونگا ہو جائے گا۔ ایمان کے  
قدم ہی ایسے ہیں جو انس و جن کے شیطانوں کے مقابلہ کے وقت  
ثابت و برقرار رہتے ہیں۔ وہی ایسے ہیں جو مصیبتوں اور بلاؤں  
کے نازل ہونے کے وقت سنبھلے رہتے ہیں۔ تیرے ایمان  
کے قدموں کو جب ثبات و قرار نہ ہو تو ایمان کا دعویٰ ہی نہ کر۔  
اگر دعویٰ ہے تو ہر ایک کا دشمن بن اور کل کے خالق سے دوستی  
کر۔ پس اگر اس کی مشیت و مرضی ہوگی کہ تو مبغوض چیزوں میں  
سے کسی کو دوست رکھے تو تو اس میں محفوظ رہے گا اس واسطے  
کہ اس کی محبت ڈالنے والا وہ ہو گا نہ کہ تو۔ اور اسی واسطے  
حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا ہے تمہاری دنیا میں  
سے تین چیزیں ایسی ہیں جو میری محبوب بنادی گئی ہیں خوشبو، عورتیں  
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں رکھی گئی ہے۔ یہ چیزیں حضور  
کی محبوب اس کے بعد کی گئیں کہ آپ ان کو مبغوض سمجھتے تھے  
آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان سے زہد و اعراض فرماتے  
تھے۔ تو اپنے دل کو ماسوی اللہ سے فارغ کر لے تاکہ وہ ان میں  
سے جس کی بھی چاہے تیرے دل میں محبت ڈال دے۔

## آٹھویں مجلس

## المجلس الثامن

منگل کے دن شام کے وقت ۱۹ اشوال ۱۲۵۵ھ کو  
مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثِ عَشِينَ بِالدَّسْتِ تَاسِعِ  
عَشْرِ شَوَّالِ سَنَةِ ثَمَانِينَ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ :

الْمَا فِي ثَوْبِهِ تَطْيِيفٌ وَقَلْبُهُ نَجَسٌ  
 يَزْهَدُ فِي الْمَبَاهِلِ وَيَكْسِلُ عَنِ الْكَتَابِ  
 وَيَا كُلُّ يَدِينِهِ لَا يَتَوَرَّعُ جُمْلَةً يَأْكُلُ  
 الْحَرَامَ الصَّرِيحَ يَخْفَى أَمْرُهُ عَلَى الْعَوَامِ  
 وَلَا يَخْفَى عَلَى الْخَوَاصِّ كُلُّ زُهْدِهِ وَطَاعَتِهِ  
 عَلَى ظَاهِرِهِ ظَاهِرُهُ عَامِرٌ وَبَاطِنُهُ خَرَابٌ  
 وَيَبْلُغُ طَاعَتُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْقَلْبِ  
 لَا بِالْقَلَابِ كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ  
 يَتَعَلَّقُ بِالْقُلُوبِ وَالْأَسْرَارِ وَالْمَعَانِي تَعَزَّ  
 وَمَا أَنْتَ فِيهِ حَتَّى أَخَذَ لَكَ مِنَ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ كَسْوَةً لَا تَبْلَى قَطُّ أَخْلَعُ أَنْتَ  
 حَتَّى يَكْسُوكَ هُوَ أَخْلَعُ ثِيَابَ تَوَانِيكَ  
 فِي حَقِّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْلَعُ ثِيَابَ  
 وَقُوقِكَ مَعَ الْخَلْقِ وَشَرَّكَكَ بِهِمْ  
 أَخْلَعُ ثِيَابَكَ الشَّهَوَاتِ وَالرَّغُونَاتِ  
 وَالْعُجْبِ وَالنِّفَاقِ وَحَيْكَ لِلتَّبَسُّوْلِ  
 عِنْدَ الْخَلْقِ وَإِقْبَالِهِمْ عَلَيْكَ وَ  
 عَطَائِهِمْ لَكَ أَخْلَعُ ثِيَابَ الدُّنْيَا  
 وَالْبُخْسِ ثِيَابَ الْآخِرَةِ أَخْلَعُ مِنْ حَوْلِكَ  
 وَقُوتَكَ وَوُجُودَكَ وَاسْتَطْرَحَ بَيْنَ  
 يَدَيْ الْخَلْقِ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا حَوْلٍ وَ  
 لَا قُوَّةَ وَلَا وَقُوفٍ مَعَ سَبَبٍ وَشَرٍّ  
 بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا  
 رَأَيْنَا الطَّافَةَ حَوْلَكَ يَا تَيْبُكَ رَحْمَتُهُ  
 تَجْمَعُكَ وَيَنْسِتُهُ وَمِنْهُ نَكْسُوكَ

دیا کار کے کپڑے پاک ستھرے اور دل نجس ہوتا ہے۔  
 وہ مباح چیزوں میں رغبت کرتا ہے اور کمانے میں کوہلی کرتا ہے  
 اور دین کے بدلے میں کھانا کھاتا ہے، پرہیزگاری ذرا بھی نہیں کرتا  
 کھلا ہوا حرام کھاتا ہے اور اس کا معاملہ عام لوگوں پر مخفی رہتا ہے  
 اور خواص بندگان الہی پر مخفی نہیں رہتا۔ کل زہد و طاعت اس کی ظاہر  
 داری کی ہے اس کا ظاہر آباد ہے۔ اور باطن ویران۔  
 تجھ پر انسوس، اللہ تعالیٰ کی طاعت قلب سے ہوتی ہے  
 نہ ساتھ قالب کے۔ یہ کل چیزیں ایک ایسا امر ہیں جن کا علاتہ  
 قلب و اسرار اور معانی کے ساتھ ہے نہ ظاہر سے۔ جس حالت  
 ظاہر میں تو مبتلا ہے اس سے رہنے ہو جانا کہ میں حق عزوجل سے  
 تجھے ایسا لباس لے کر دوں جو کبھی پُرانا ہی نہ ہو، تو کپڑے اتار  
 دے تاکہ وہ خود تجھ کو خلعت خاص پہنا دے تو اپنے وہ کپڑے  
 جن سے حقوق الہی میں سستی ہوتی ہے اتار ڈال۔ تو اپنے وہ  
 کپڑے جن سے تو مخلوق خدا کے ساتھ ملتا ہے اور خلق سے تیرے  
 شرک کا سبب بنتے ہیں اتار پھینک۔ خواہشات نفسانیہ  
 اور عورت اور فخر اور نفاق کا جامہ اور مخلوق میں اپنی مقبولیت  
 اور ان کی توجہ اور عطا کا۔ جن کپڑوں کا استعمال کر کے تو غراہشمند  
 ہوتا ہے سب اتار دے۔ دنیا کے کپڑے اتار اور آخرت  
 کا لباس پہن۔ اپنی طاقت اور قوت اور وجود سے علیحدہ  
 ہو جا اور بغیر اس کے کہ تو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ  
 کرے اور سبب کا متلاشی ہو اور مخلوقات میں سے کسی کو شریک  
 بنائے، آفت شرک سر لے، اللہ عزوجل کے سامنے آپڑ  
 جب تو ایسا کرے گا ہم اس کے الطاف تیرے ارد گرد  
 دیکھنے لگیں گے۔ رحمت الہی تیرے پاس آ جائے گی، اور  
 تجھے اطمینان بخشے گی اور اس کے نعمت و احسان تجھے

لباس پہنائیں گے اور تجھے اپنی طرف ملائیں گے تو خدا کی طرف بھاگ آ۔ اپنے آپ اور غیروں سے علیحدہ ہو کر خدا کی طرف آجا۔ غیر اللہ سے انقطاع مکی کر کے خدا کی طرف اس سب جدائی و تفرقہ کر کے خدا کی طرف چل پڑ تاکہ وہ تجھے مطمئن کر دے اور حقیقت پر پہنچائے اور تیرے ظاہر و باطن کو قوت بخش دے۔ پھر اگر تیرے اور تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تیرے اور تمام بوجھ پڑ جائیں تو بھی تجھے نقصان نہ پہنچے گا بلکہ حفاظت الہی تیرے شامل حال ہے گی جس نے خلق کو توحید کے ہاتھ سے اور دنیا کو زہد کے ہاتھ سے اور ماسوی اللہ کو بے رغبتی کے ہاتھ سے فنا کر دیا پس اس نے پوری فلاح و نعمتی حاصل کر لی اور دنیا و آخرت کی جدائی سے حصہ دے دیا گیا قبل اس کے کہ تم مردو اپنے نفوس اور خواہشات اور شیطانوں کے مار ڈالنے کو لازم پکڑے عام موت سے پہلے تم خاص موت کو لازم پکڑو وہ ماسوی اللہ سے جدائی ہے۔

اے قوم! میری نصیحت قبول کرو، میں اللہ عزوجل کی طرف سے دعوت دینے والا ہوں۔ تم کو اس کے دروازہ اور طاعت کی طرف بلاتا ہوں نہ اپنے نفس کی طرف۔ منافق تو خلق کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلانے والا ہے۔ وہ تو نفسانی حصول کا اور خلق میں مقبولیت کا اور دنیا کا طلب کرنے والا ہے۔

اے جاہل! تو ایسے کام سننے سے چھڑتا ہے اور اپنے نفس و خواہشات کو لے کر تنہا اپنے خلوت خانہ میں بیٹھتا ہے تو اولاً نصیحت مشائخ کرام اور نفس و طبیعت کے قتل کرنے کا حاجت مند اور ماسوی اللہ سے قطع تعلق کا محتاج ہے۔ اولاً مشائخ کی چوکھٹ اور دروازہ کو لازم پکڑ اور اس کے بعد ان کے

وَتَضُكُ إِلَيْهَا أَهْرَبُ إِلَيْهِ انْقَطَعَ إِلَيْهِ عُرْيَانًا بِلَا أَنْتَ وَلَا غَيْرَكَ سِرَّ إِلَيْهِ مُنْقَطِعًا مُنْفَصِلًا عَنْ غَيْرِهِ سِرَّ إِلَيْهِ مُتَفَرِّقًا مُفَارِقًا حَتَّى يَجْمَعَكَ وَيُوصِلَكَ وَيَقْوَى ظَاهِرَكَ وَبَاطِنَكَ حَتَّى لَوْ أَغْلَقَ الْأَبْوَابَ عَلَيْكَ وَحَمَلَكَ بِجَمِيعِ الْأَثْقَالِ لَا يُضْرِكَ ذَلِكَ بَلْ يَحْفَظُكَ فِيهِ مَنْ أَفْنَى الْخُلُقِ يَبِيدُ تَوْحِيدَهُ وَأَفْنَى الدُّنْيَا يَبِيدُ زُهْدَهُ وَأَفْنَى مَا سَوَى رِبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَبِيدُ الرِّغْبَةَ عَنْهُ فَتَدَا سَتَكُمُ الصَّلَاحَ وَالزَّجَاحَ وَحُطِّي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَيْكُمْ بِأَمَاتَةِ نَفْسِكُمْ وَأَهْوِيَّتِكُمْ وَشَيْءٍ طَيِّبِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا عَلَيْكُمْ بِالْمَوْتِ الْخَاصِّ قَبْلَ مَوْتِ الْعَامِّ۔

يَا قَوْمُ اجْبِرْنِي فَإِنِّي دَاعِيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى بَابِهِ وَطَاعَتِهِ لَا أَدْعُوكُمْ إِلَى نَفْسِي الْمَنَافِقِ لَيْسَ بِدَاعِ الْخُلُقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ دَاعٍ إِلَى نَفْسِهِ هُوَ طَالِبُ الْحُظُوظِ وَالْقُبُولِ طَالِبُ الدُّنْيَا۔

يَا جَاهِلُ تَتْرُكُ سَمَاعَ هَذَا الْكَلَامِ وَتَقْعُدُ فِي صَوْمِعَتِكَ وَحَدَّكَ مَعَ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ تَحْتَاجُ أَوْلَا لِي صُحْبَةِ الشُّيُوخِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَالتَّطَبُّعِ وَمَا سَوَى الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ تَلْزَمُ بَابَ دُورِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ

تَفَرَّدَ عَنْهُمْ وَتَقَعْدُ فِي صَوْمَعَتِكَ وَحَدَّكَ  
مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَمَّ هَذَا لَكَ  
صِرَتٌ دَوَاءٌ لِلْخَلْقِ مَهْدِيًّا بِإِذْنِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ أَنْتَ لِسَانٌ وَرِجٌّ وَقَلْبٌ فَاجِرٌ  
لِسَانَكَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَلْبُكَ يَعْزُضُ  
عَلَيْهِ ظَاهِرُكَ مُسْلِمٌ وَبَاطِنُكَ كَافِرٌ ظَاهِرُكَ  
مُؤَحَّدٌ وَبَاطِنُكَ مُشْرِكٌ زَهْدُكَ عَلَى ظَاهِرِكَ  
دِينُكَ عَلَى ظَاهِرِكَ وَبَاطِنُكَ خَرَابٌ كَبِيضٌ  
عَلَى بَيْتِ الْخَلَائِفِ وَقُنْ عَلَى مَزْبَلَةٍ إِذَا كُنْتَ  
هَكَذَا تَخَيَّمَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَلْبِكَ وَ  
يَجْعَلُهُ مَسْكَنًا لَهُ، الْمُؤْمِنُ يُبْتَدِئُ  
بِعِمَارَةِ بَاطِنِهِ ثُمَّ بِعِمَارَةِ ظَاهِرِهِ  
كَالَّذِي يَعْمَلُ دَارًا يُنْفِقُ عَلَى الدَّخِيلِ  
مِنْهَا مَبَالِغَ مِنَ الْمَالِ وَبَابُهَا خَرَابٌ فَإِذَا  
كَمَلَ عِمَارَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَعْمَلُ بَابُهَا هَكَذَا  
الْبَدَايَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرِضَاهُ ثُمَّ الْتِفَاتٌ  
إِلَى الْخَلْقِ بِإِذْنِهِ الْبَدَايَةُ بِتَحْصِيلِ الْآخِرَةِ  
ثُمَّ يَتَنَاوَلُ الْأَقْسَامَ مِنَ الدُّنْيَا -

فیض صحبت میں رہ کر ان سے علیحدہ ہو جانا اور خلوت کدو میں تنہا حق  
عزوجل کی معیت میں بیٹھ جانا پس جب یہ مرتبہ تجھے پورے طور پر  
حاصل ہو جائے گا اس وقت تو خدا کے حکم سے خلق کی دوا اور ان کا  
ہادی و مہدی بن جائے گا۔ تیری زبان پر سبز گار بننے والی ہے اور  
قلب فاسق و فاجر۔ تیری زبان حمد الہی کرتی ہے اور تیرا قلب  
اس پر معترض ہے۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے اور باطن کافر، تیرا ظاہر  
مقدس ہے اور تیرا باطن مشرک، تیرا زہد اور تیری دینداری سب  
ظاہری ہے اور تیرا باطن غراب و دیران جیسے بیت الخمار پر  
قلعی اور سپیدی اور کڑا گھر پرتل۔ جب تو اس حالت پر ہے  
تو تیرے قلب پر شیطان نے خیمہ لگا لیا ہے اور اس کو اپنا  
مسکن بنا لیا ہے۔ ایمان والا تو اپنے باطن کو آباد کرتا ہے پھر  
ظاہر کی آبادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے مثل گھر تیار کرنے والے کے  
کہ وہ اولاً اندرونی عمارت میں زرخیز شرف کو تیار ہے اور اس کا  
دروازہ ہنوز خراب رہتا ہے۔ پھر جب گھر کی اندرونی عمارت  
تکمیل کو پہنچ جاتی ہے اس وقت دروازہ بناتا ہے۔ اسی طرح  
ساک کے لیے ابتداء اللہ عزوجل اور اس کی رضا مندی سے  
ہونی چاہیے پھر مخلوق کی طرف توجہ خدا کے حکم سے ابتداء ساتھ  
تحصیل آخرت کے ہونا چاہیے پھر ساتھ حاصل کرنے دنیا کے  
حقول کے جوکہ مقسوم ہیں۔

## نویں مجلس

## الْبَجْلِسُ التَّاسِعُ

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَاغَةُ الْجَمْعَةِ بِالْمَدَّةِ سِتَّةَ ثَلَاثِينَ  
عَشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةِ خَمْسٍ قَاضِيَةٍ عَيْنِي خَمْسِيًّا نَبِيًّا  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

صبح کے وقت جمعہ کے دن ۲۲ شوال المکرم  
۵۲۵ھ کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا:  
حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے

ارشاد فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دیتا اپنے محبوب کو لیکن کبھی اس کی آزمائش کسی چیز کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ایمان والے کو یہ امر متحقق ہوتا ہے کہ یہ آزمائش الہی ضرور کسی مصلحت پر مبنی ہے جو اس آزمائش کے بعد دنیا و آخرت میں ہوگی۔ پس وہ بلا پر راضی اور صبر کرنے والا رہتا ہے اپنے رب پر کسی طرح کی تہمت دھرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا پروردگار اس بلا کی وجہ سے اس کو دوسرے امور سے روک لیتا ہے۔

اے دنیا میں مشغول رہنے والو! تم ان مقامات میں چرمیگوئیاں چھوڑ دو، کلام نہ کرو، تم تو محض اپنی زبانوں سے کلام کرتے ہو نہ دلی سے۔ تم اللہ عز و جل کے اور اس کے کلام سے اور اس کے پیروں کے اور ان کے پیروں سے جو کہ ان کے سچے جانشین اور وصی ہیں روگردانی کرنے والے ہو۔ تم تو تقدیر و قدرت میں جھگڑا کر مٹیرا لے ہو۔ تم نے تو خلق کی عطا پر اللہ عز و جل کی عطا سے اور اس کے احسانات سے انکار کیا ہے۔ تمہارا کلام اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک جب تک کہ تم توبہ اخلاص کیساتھ نہ کرو اور اس پر ثابت نہ ہو اور ہر نفع و نقصان میں اور عزت و ذلت، امیری و فقری، عافیت و مرض اور پستیدہ اور مکروہ چیزوں میں جو موافق تقدیر الہی ہوتی ہیں موافقت نہ کرو گے مغرب و مسموع نہ ہوگا۔

اے قوم! تم خدا کی تابعداری کرو تا کہ تمہاری تابعداری کی جائے، خدمت گزاری کرو، قضا و قدر کے پیرو ہو اور اس کے خادم بن جاؤ تا کہ وہ تمہارے پیرو اور خادم بن جائیں۔ تم ان کے سامنے جھک جاؤ تا کہ وہ تمہارے سامنے جھکیں۔ کیا تم نے نہیں سنا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے تم ہو گے ویسا تمہارا حاکم مقرر کیا جائے گا۔ تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں۔ حق عز و جل بندوں کے

قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ حَبِيبَهُ وَلَكِنْ قَدْ يَبْتَلِيهِ بِشَيْءٍ الْمُؤْمِنُ تَثَبَّتْ عِنْدَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَبْتَلِيهِ بِشَيْءٍ إِلَّا لِمَصْلَاحَةٍ تَغْقُبُ ذَاكَ أَمَّا دُنْيَا أَوْ آخِرَةُ فَلَهُوَ رَاضٍ بِالْبَلَاءِ وَصَابِرٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَمَلِّهِمْ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ اشْغَلَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْبَلَاءِ -

يَا مَشْغُولِينَ بِالْدُنْيَا دَعُوا عَنْكُمْ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ فَإِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهَا بِالنِّسْيَةِ لَا بِقُلُوبِكُمْ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ كَلَامِهِ وَعَنْ أَنْبِيَائِهِ وَاتِّبَاعِهِمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ الَّذِينَ هُمْ خُلَفَاءُ هُمْ وَأَوْصِيَاءُ هُمْ أَنْتُمْ مَنَازِعُونَ الْقَدْرَ وَالْقُدْرَةَ قَدْ قَنَعْتُمْ بِعَطَاءِ الْخَلْقِ عَنْ عَطَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ لَا كَلَامَ لَكُمْ دَقِّمُوا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِنْدَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ حَتَّى تَتَوَكَّبُوا وَتُخْلِصُوا فِي التَّوْبَةِ وَتَثَبَّتُوا عَلَيْهَا وَتَوَافَقُوا التَّدْرُ وَالْقَضَاءَ فِيمَا لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ فِيمَا يُعْزُ وَيُذِلُّ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ فِي الْعَافِيَةِ وَالْمَرَضِ فِيمَا تُحِبُّونَ وَفِيمَا تَكْرَهُونَ -

يَا قَوْمَ تَابِعُوا حَتَّى تَتَابِعُوا اخْدُمُوا تَابِعُوا الْأَقْضِيَّةَ وَالْأَقْدَارَ وَاخْدُمُوا حَتَّى يَبَايَعُوكُمْ وَيَخْدُمُوكُمْ ذَلُّ لَهَا حَتَّى يَذِلَّ لَكُمْ أَمَّا سَمِعْتُمْ كَمَا تَدِينُ تَدَانِ كَمَا تَكُونُوا يُؤَلَّى عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَمَّا لَكُمْ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِظَلَامٍ

واسطے ظلم کرنے والا نہیں۔ تھوڑے عمل پر وہ بہت بدلہ دیتا ہے وہ صحیح کا فاسد اور سچے کا جھوٹا نام تجویز نہیں کرتا۔

اے غلام! جب تو خدمت کرے گا محذوم بنایا جائیگا۔ جب تو تقدیر کے ساتھ موافقت کرے گا تو فقی خیر دے دیا جائے گا۔ حق عزوجل کی خدمت گزاری کر اور دنیا کے اسے بادشاہوں کی خدمت میں مشغول ہو کر جو تجھے نقصان و نفع نہیں پہنچا سکتے خدا کی طرف سے لا پرواہی مت کر یہ تجھے کیا دیں گے جو چیز تیرے لیے مقسوم نہیں کیا وہ تجھے دے سکتے ہیں اور کیا تیرے لیے ایسی چیز مقسوم کر دینے پر ان کو قدرت ہے جو حق عزوجل نے تیرے لیے مقرر و مقدر نہیں فرمائی ان کے نزدیک کوئی چیز نئی نہیں ہے جو بھی تیرا مقسوم ہے وہی دے سکتے ہیں۔ اگر تو یہ کہے کہ ان کی عطا مستقلاً جدید انہیں کی طرف سے ہے تو تو کافر بن جائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی دینے والا منع کرنے والا نقصان و نفع پہنچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے مقدم ہے اور نہ مؤخر بعد میں باقی رہنے والا اللہ ہی اللہ ہے۔ پس اگر تو یہ کہے کہ میرے اسے جانتا ہوں تو میں تجھ سے کہوں گا کہ تو اس کو کیونکر جانتا ہے اگر تو اس کو جانتا پھر غیر خدا کو اس پر کیسے مقدم رکھتا۔

تجھ پر افسوس! تو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض اور مولیٰ تعالیٰ کی طاعت کو نفس اور خواہش اور شیطان اور خلق کی طاعت کے عوض اور تقویٰ کو شکوہ و گلہ کے عوض جو غیر خدا سے کہتا ہے کیسے فاسد کر رہا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل پر بہیز گاؤں کا محافظ و مددگار ہے اور ان کی طرف سے مدافعت فرمانے والا اور ان کا تعلیم دینے والا اور ان کو اپنی معرفت کا کھانے والا اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے اور ان کو تکلیف دہ چیزوں

لِّلْعَبِيدِۦۭ بِجَازِیَ عَلَی الْقَلِیْلِ بِالْكَثِیْرِ الصَّحِیْحُ لَا یُسَیِّئُہٗ فَاِسِدًا اَوَ الصَّادِقُ لَا یُسَیِّئُہٗ كَاذِبًا یَا غُلَامَ اِذَا خِدْمَتِ خُدْمَتِ اِذَا وَاَقْفَتِ وُقِفَتْ اِخْدَمِ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَشْتَوِلْ عَنْہٗ بِخُدْمَہٗ هُوَ لَا اِیَّ السَّلَاطِیْنَ الَّذِیْنَ لَا یَضُرُّوْنَ وَلَا یَنْفَعُوْنَ اِیْشَ یُعْطُوْنَكَ یُعْطُوْنَكَ مَا لَمْ یُسَمِّ لَكَ وَیَنْدِرُوْنَ یُقْسِمُوْنَ لَكَ شَیْئًا لَمْ یُقْسِمْہٗ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا شَیْءَ مُسْتَأْنَفٌ مِنْ عِنْدِہُمْ اِنْ قُلْتَ اَنْ عَطَاءُہُمْ مُسْتَأْنَفٌ مِنْ عِنْدِہُمْ كَفَرْتَ اَمَّا تَعْلَمُ اَنَّهُ لَا مَعْطٰی وَلَا مَانِعَ وَلَا ضَارَّ وَلَا نَافِعَ وَلَا مُتَقَدِّمَ وَلَا مُؤَخَّرَ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ قُلْتَ اِنْ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ قُلْتُ لَكَ کَیْفَ تَعْلَمُ هٰذَا وَتُقَدِّمُ غَیْرَہٗ عَلَیْہِ۔

وَيَحَاكَ كَيْفَ تُفْسِدُ اخْرَجَكَ بِدُنْيَاكَ كَيْفَ تُفْسِدُ طَاعَةَ مَوْلَاكَ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَةِ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ وَشَيْطَانِكَ وَالْخَلْقِ كَيْفَ تُفْسِدُ تَقْوَاكَ بِشُكُوَاكَ اِلَى غَيْرِہٖ اَمَّا تَعْلَمُ اَنْ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَافِظٌ لِلْمُتَّقِیْنَ وَنَاصِرٌ لِّہُمْ وَرَازِقٌ لِّہُمْ وَمَعْلَمٌ لِّہُمْ وَمُعِزٌّ لِّہُمْ نَفْسَہٗ وَاِخْذٌ بِاَیْدِہُمْ وَبِجَبْہِہُمْ

الْمَكَارِهِ وَنَاطِرًا إِلَى قُلُوبِهِمْ وَرَأَى قُلُوبَهُمْ  
مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُونَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَجِبْ مِنِّي  
كَمَا تَسْتَجِيبُ مِنْ جَارِكَ الصَّالِحِ قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْلَقَ  
الْعَبْدُ أَبْوَابَهُ وَأَرْخَى اسْتِنَارَهُ وَاخْتَفَى  
مِنَ الْخَلْقِ وَخَلَا بِمَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ  
جَعَلْتَنِي آمُونَ النَّاطِرِينَ إِلَيْكَ -

✽ ✽ ✽

## دسویں مجلس

## الْمَجْلِسُ الْعَاشِرُ

اتوار کے دن صبح کے وقت ۲۴ شوال المکرم  
۱۴۵۵ھ کو ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تحقیق آپ  
نے فرمایا کہ میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں  
متقی عبادت الہی میں تکلف نہیں کرتا کیوں کہ عبادت توان کی  
طبیعت ہو جاتی ہے۔ متقی اللہ کی عبادت بغیر تکلف کے  
ظاہر و باطن دونوں سے کرتا ہے لیکن منافق پس وہ توہمات  
میں تکلف ہی کرتا ہے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ عزوجل کی عبادت  
میں وہ عبادت کو ظاہر میں بہ تکلف ادا کرتا ہے اور باطن میں  
اس کو چھوڑتا ہے وہ متقیوں کے مقام میں داخل ہونے کی قدرت  
ہی نہیں رکھتے۔ ہر جگہ کے لیے ایک خاص گفتگو ہے اور  
ہر عمل کے لیے مخصوص مرد۔ لڑائی کے قابل وہی آدمی ہیں جو

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُكْرَةُ الْأَحَدِ رَابِعَ  
عَشْرِينَ مِنْ شَوَّالِ الْمَكْرَمِ سَنَةِ ثَمَسٍ وَابْعَيْنِ وَفَسِيحَاتِهِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ أَنَا وَالْأَقْيَاسُ مِنْ أُمَرَاءِ مَنْ  
التَّكَلُّفُ الْمُتَّقَى لَا يَتَكَلَّفُ فِي عِبَادَةِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَارَتْ طَبْعَهُ فَهُوَ يَعْبُدُ  
اللَّهُ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ مِنْهُ  
وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَهُوَ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ  
يَتَكَلَّفُ وَلَا سَيِّمًا فِي عِبَادَةِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ يَتَكَلَّفُهَا ظَاهِرًا وَيُتْرِكُهَا بَاطِنًا  
لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَدَّخِلَ الْمُتَّقِينَ لِكُلِّ  
مَكَانٍ مَقَالٍ وَلِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٍ لِلْخَيْرِ رِجَالٍ

خُلِّتَ لَهَا۔

اس کیلئے پیدا کیے گئے۔

يَا مَنَافِقُونَ تَوْبُوا مِنْ نَفَاكِكُمْ وَارْجِعُوا  
مِنْ أَبَا فِكْمَ كَيْفَ تَتَرَكُونَ الشَّيْطَانَ يَصْهَكُ  
عَلَيْكُمْ وَيَشْتَنِي بِكُمْ إِنْ صَلَّيْتُمْ وَصُمِمْتُمْ  
فَعَلِمْتُمْ ذَلِكَ لِلْخَلْقِ لَا لِلْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ  
وَهَكَذَا إِنْ تَصَدَّقْتُمْ وَرَكِبْتُمْ وَجَحْتُمْ  
أَنْتُمْ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ عَنْ قَرِيبٍ تَصِلُونَ  
نَارًا حَامِيَةً إِنْ لَمْ تَدَارِكُوا وَتَتَوْبُوا  
وَتَعْدُرُوا عَلَيْكُمْ بِالْإِتْبَاعِ مِنْ غَيْرِ  
إِتِّدَاعٍ عَلَيْكُمْ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ  
أَمْشُوا فِي الْعِبَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَا تَشْبِيهِ  
وَلَا تَقْطِيعٍ بَلْ إِتِّبَاعِ السُّنَنِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ  
تَكْلُفٍ وَلَا تَطْبِيعٍ وَلَا تَشَدُّدٍ وَلَا  
تَشَدُّقٍ وَلَا تَمَعُّقٍ تَسْعَكُمْ مَا وَسِعَ  
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔

اے جماعت منافقین اپنے نفاق سے توبہ کرو اور اپنے  
بھاگنے سے باز آؤ۔ شیطان کو اپنے اوپر ہنسنے نزدیک  
ہونے کے لیے کیوں چھوڑتے ہو۔ اگر تم ایسی ہی نماز پڑھو گے  
اور روزہ رکھو گے تو یہ سب خلق کے لیے ہو گا نہ کہ حق عزوجل  
کے واسطے اور ایسے ہی اگر صدقہ دو گے

اور زکوٰۃ دو گے اور حج کرو گے سب بیکار ہو گا تم کام کرنے  
والے اور شقت میں پڑنے والے ہو۔ عنقریب تم سخت گرم  
وتیز آگ میں جلو گے اگر تم نے اس کا تدارک نہ کیا اور توبہ و  
معذرت نہ کی۔ تم بغیر بدعت کے اتباع شرع کو لازم پکڑو،  
(بدعت سیدہ سے بچو) سلف صالح کے طریقوں کو اختیار کرو  
تم سیدے راستے صراط مستقیم پر جلو جس میں نہ تشبیہ ہے  
اور نہ تقطیل بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں  
(سننوں) کا اتباع ہے۔ بلا تکلف و بلا بناوٹ کے اور بلا  
تشدد اور بلا دیریدہ و مہنی اور بغیر غرور و فکر کے اس سے تمہیں  
وہ وسعت مل جائے گی جو تم سے پہلوں کو تھی۔

تجھ پر انفسوس تو قرآن حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل  
نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حفظ کرتا ہے  
اور ان پر عمل نہیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے تو دوسرے آدمیوں کو  
حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا اور دوسروں کو روکتا  
ہے اور خود اس کام سے باز نہیں رہتا۔ اللہ عزوجل کا ارشاد  
ہے کہ مفسدات الیہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے کہ وہ

وَيَحْكُ تَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْمَلُ  
بِهِ تَحْفَظُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْمَلُ بِهَا فَاجِي  
شَيْءٍ بِفَعْلٍ ذَلِكَ تَأْمُرُ النَّاسَ وَأَنْتَ  
لَا تَعْمَلُ وَتَنْهَاهُمْ وَأَنْتَ لَا تَتَّبِعِي قَالَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

۱۔ تشبیہ: خدا کو کسی مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا۔ تقطیل: خدا کو معاذ اللہ بیکار و بیکام ٹھہرانا۔ اہل اسلام میں دو گراہ فرقے ہیں ایک مشبہ اور دوسرا  
معطلہ جو اس کے قائل ہیں۔ معاذ اللہ ۱۲۔ قادری عفری

مَا لَا تَعْلَمُونَ لِمَ تَقُولُونَ وَتُخَالِفُونَ  
مَا تَسْتَحْيُونَ لِمَ تَدْعُونَ الْإِيمَانَ وَلَا  
تُؤْمِنُونَ الْإِيمَانَ هُوَ الْمُقَامُ لِلْأَقَاتِ  
هُوَ الصَّابِرُ تَحْتَ ثَقْلِهَا هُوَ الْمُصَارِعُ  
هُوَ الْمُقَاتِلُ الْإِيمَانُ هُوَ الْمُتَكَرِّمُ بِمَا  
عِنْدَهُ مِنَ الدُّنْيَا الْإِيمَانُ يَتَكَرَّمُ  
لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْهَوَى يُتَكَرَّمُ  
لِوَجْهِ الشَّيْطَانِ وَلَا غَرَضَ النَّفْسِ مِنْ  
فَاتِهِ بَابُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ قَعَدَ عَلَى  
بَابِ الْخَلْقِ مَنْ ضَيَّعَ طَرِيقَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَضَلَّ عَنْهَا قَعَدَ عَلَى طَرِيقِ  
الْخَلْقِ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَغْلَقَ  
أَبْوَابَ الْخَلْقِ فِي وَجْهِهِ وَقَطَعَ عَطَمَهُ  
عَنْهُ حَتَّى يَزِدَّهُ بِذَلِكَ إِلَيْهِ يُقِيمُهُ  
عَنِ الْغُدْرِ إِلَى الشَّطْرِ يُقِيمُهُ عَنْ لَأَشَى  
إِلَى شَيْءٍ -

وَيَحْكُ تَفَرُّجٌ بِقُعُودِكَ عِنْدَ الْغُدْرِ  
فِي الشَّتَاءِ عَنْقَرِيْبٌ يَجِيئُ الصَّيْفُ وَ  
يَنْشِفُ الْمَاءَ الَّذِي عِنْدَكَ فَتَمُوتُ  
مَكَانَكَ الَّذِي عِنْدَ الشَّطْرِ فَاثَةُ فِي الصَّيْفِ  
لَا يَنْقَطِعُ مَسَاءَةٌ وَفِي الشَّتَاءِ يَزِيدُ وَيُكَثِّرُ  
مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَكُنْ غَنِيًّا عَزِيزًا أَمِيرًا  
مُؤَمَّرًا دَلِيلًا مَنْ اسْتَغْنَى بِمَا لِلَّهِ  
أَحْتَاجَ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُذَا  
شَيْءٌ لَا يَجِيئُ بِالْشَّحْلِ وَ

باتیں کہو جو کہرتے نہیں ہو کیوں کہتے ہو اور مخالفت کرتے  
ہو شرتا تے نہیں۔ کیوں ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان نہیں  
لا تے۔ ایمان تو آنفلوں کا مقابلہ کرنے والا اور ان کے بوجھوں  
کے نیچے صابر ہے۔ ایمان ہی مقابل کو زیر کرنے والا اور قتل  
کرنے والا ہے۔ ایمان ہی تو مومن کے نزدیک تمام دنیاوی  
چیزوں سے محکم ہے۔ ایمان کی کرامت و عظمت اللہ عز و  
جل کے واسطے کی جاتی ہے اور نفس دہوا کی کرامت و تعظیم  
شیطان اور اغراض نفسانیہ کے لیے۔ جو خدا کا دروازہ چھوڑ  
دیتا ہے وہ مخلوق کے دروازہ پر بیٹھتا ہے جو اللہ کے راستہ  
کو ضائع کر دیتا ہے اور اس سے بہک جاتا ہے مخلوق کے  
راستہ پر بیٹھ جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا  
ہے اس پر خلق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور ان کے  
عطیات کو ان سے قطع کر دیتا ہے تاکہ اس کو اس طریقہ سے  
اپنی طرف پھیرے اور اس کو حوضوں سے ہٹا کر کنال سے  
کھڑا کرے اس کو لاشے محض سے نکال کر شے کی طرف  
کھڑا کرے۔

تجھ پر افسوس! کہ تو موسم سرما میں اپنے حوضوں پر بیٹھنے  
پر خوش ہوتا ہے غمگین موسم گرما آ رہا ہے جو پانی تیرے  
پاس ہے اس کو وہ چھین لے گا، وہ خشک ہو جائے گا اور  
تو مر جائے گا۔ تو دنیا کے گناہ سے کو اپنی جگہ مقرر کر جس کا  
پانی گرمیوں میں منقطع نہیں ہوتا ہے اور جائے میں بکثرت  
بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رہ، غنی، عزیز و امیر و حاکم  
و سرور ابن جائے گا جو خدا کے تعین کی وجہ سے ماسوی اللہ  
سے مستغنی ہو جاتا ہے، ہر شے اس کی محتاج بن جاتی ہے  
اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ زینت و آراستگی و آرزو سے

وَالْتَمَنِي وَلَكِنْ شَيْءٌ وَقَرَفِي الصُّدُورُ  
وَصَدَقَهُ الْعَمَلُ -

يَا غُلَامَ لِيَكُنِ الْخَرَسُ دَابُّكَ وَالْخُمُولُ  
لِيَأْسَكَ وَالْمَرْبَةُ مِنَ الْخَلْقِ كُلِّ مَقْصُودٍ  
وَلَنْ قَدَرْتَ أَنْ تَنْتَبَ فِي الْأَرْضِ سِرًّا تُخْفِي  
فِيهِ فَاغْلُظْ يَكُونُ هَذَا دَابُّكَ إِلَى أَنْ  
يَتَرَارَعَ إِيْمَانُكَ وَيَقْتَوِي قَدَمُ إِيْتَانِكَ  
وَيَتَرَيَّشُ جَنَاحُ صِدْقِكَ وَتَنْفَتَحَ عَيْنَا  
قَلْبِكَ فَتَرْفَحُ أَرْضَ بَيْتِكَ وَتَطِيرُ  
إِلَى جَوْعِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَطُوفُ الشَّرْقَ  
وَالْغَرْبَ وَالْبَرَمِينَهِ وَالْبَحْرَ وَالسَّهْلَ  
وَالْجَبَلَ تَطُوفُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ  
وَأَنْتَ مَعَ الدَّرْبِيلِ الْخَفِيِّ الرَّفِيقِ حَمِيدٍ  
أَطْلُقُ لِسَانَكَ فِي الْكَلَامِ وَاخْلَعْ لِبَاسَ  
الْخُمُولِ وَاتْرِكِ الْهَرْبَ مِنَ الْخَلْقِ وَ  
أَخْرِجْ مِنْ سَرِيكِ إِلَيْهِمْ فَإِنَّكَ دَوَّاءُ لَهُمْ  
غَيْرُ مُسْتَنْصَرٍ فِي نَفْسِكَ لَا تَبَالُ بِقَلْبَتِهِمْ  
وَكَثَرَتِهِمْ وَإِقْبَالَ لَهُمْ وَإِدْبَارِهِمْ  
وَحَمْدِهِمْ وَذَمِّهِمْ لَا تَبَالُ آيَتُ  
سَقَطَتْ لِقَطَّتْ وَأَنْتَ مَعَ رَبِّكَ  
عَزَّ وَجَلَّ -

يَا قَوْمِ اعْرِفُوا هَذَا الْخَلْقَ وَتَادَّبُوا  
بَيْنَ يَدَيْهِ مَا دَامَتْ قُلُوبُكُمْ بَعِيدَةً  
عَنْهُ فَإِنَّكُمْ تُسَيِّئُونَ الْأَدَبَ عَلَيْهِ فَإِذَا قُرِئَتْ

حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسی شے سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں  
کے اندر جگہ پکڑے ہوئے ہے اور عمل اس کی تصدیق  
کرتا ہے -

اے غلام! چاہیے کہ گونگاپن تیری عادت ہو اور گنہی  
تیرا لباس ہو اور مخلوق سے بھاگنا تیرا مقصود ہے - اور اگر تو  
اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کر اس  
میں چھپ جائے پس کر گزیر یہ طریقہ تیرا اس وقت تک رہے  
کہ تیرا ایمان بڑھ جائے اور تیرے ایمان کا قدم مضبوط ہو جائے  
اور تیری سچائی کے بازوؤں پر پر نکل آئیں اور تیرے قلب کی  
دروں آنکھیں کھل جائیں - اس حالت پر پہنچ کر تو اپنے گھر کی  
زمین سے بلند ہو جائے گا اور علم الہی کے میدان میں اُڑنے  
لگے گا - خشک وتر، مشرق و مغرب، نرم زمین اور پہاڑ، اور  
آسمان و زمین کا طواف کرے گا اور تیرے ساتھ راہبر امان  
دینے والا اس سفر و محضر کا رفیق ہو گا - پس اس حالت میں تو  
اپنی زبان کو گفت گو میں گویا کر دینا اور گنہی کا لباس اتار دینا  
اور مخلوق کی طرف سے بھاگنے کو چھوڑ دینا اور اپنی سرنگ  
خلوت خانہ سے نکل کر ان کی طرف آجانا پس بہ تحقیق تو ان  
کی دوا ہے اور اپنے نفس کے لیے کسی سے طالب مدد  
نہیں تو ان کی کمی اور زیادتی اور توجہ و بے توجہی اور ان کی  
تعریف و بُرائی کی پرواہ نہ کر تو کسی قسم کی پرواہ نہ کر جہاں بھی  
گھرے گا اٹھایا جائے گا اور تو اپنے رب عز و جل کے  
ساتھ ہو گا -

اے قوم! اس خالق کو پہچاننا اور اس کے سامنے  
ادب سے رہو جب تک تمہارے دل اس سے دور  
ہیں تم بے ادب بنے رہو گے - پس جب تمہارے قلوب

حَسَنَ أَدْبُهَا هَذِيكَ الْغُلْمَانِ عَلَى أَلْبَابٍ  
 قَبْلَ رُكُوبِ الْمَلِكِ فَإِذَا رَكِبَ جَاءَ خَرَسُهُمْ  
 وَحَسَنَ أَدْبُهُمْ لَا تَلَهُمْ قَرِيبُونَ مِنْهُ كَلَّ  
 مِنْهُمْ يَهْرُبُ إِلَى زَاوِيَةٍ إِلَّا قَبَالَ عَلَى  
 الْخَلْقِ هُوَ عَيْنُ الْإِدْبَارِ عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 لَا فَلَاحَ لَكَ حَتَّى تَخْلَعَ الْأَرْبَابَ وَتَقْطَعَ  
 الْأَسْبَابَ وَتَتَرَكَ رُؤْيَا الْخَلْقِ فِي النَّجْعِ  
 وَالضَّرِائِ أَنْتُمْ أَصْحَاءُ مَرْضَى أَخْيِيَاءِ  
 فَقَرَاءَ أَحْيَاءُ مَوْتَى مَوْجُودُونَ مَعْدُومُونَ  
 إِلَى مَتَى هَذَا الْبَاقِي مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَالْأَعْرَاضُ عَنْهُ إِلَى مَتَى عِمَارَةُ الدُّنْيَا  
 وَتَحْرِيبُ الْآخِرَةِ إِنَّمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِنْكُمْ قَلْبٌ وَوَاحِدٌ فَكَيْفَ يُحِبُّ بِهِ  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ  
 الْخَلْقُ وَالْخَالِقُ كَيْفَ يَحْصُلُ هَذَا فِي  
 حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قَلْبٍ وَوَاحِدٍ هَذَا كَيْدُ  
 وَالتَّيْسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 الْكَذِبُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ كُلُّ إِنْسَاءٍ  
 يَنْضَحُ بِمَا فِيهِ أَعْمَالُكَ دَلِيلُ  
 عَلَى اعْتِقَادِهِ ظَاهِرُكَ دَلِيلُ عَلَى بَاطِنِكَ  
 وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمُ الظَّاهِرُ عَنْهُ الْبَاطِنُ  
 بَاطِنُكَ ظَاهِرُهُ عِنْدَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 عِنْدَ خَوَاصِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا وَقَعَ  
 بِيَدِكَ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتَأْدَبُ بَيْنَ  
 يَدَيْهِ وَتُبُّ مِنْ ذُنُوبِكَ قَبْلَ

اس سے نزدیک ہو جائیں گے قلب اچھا ادب کرنے لگیں گے  
 غلاموں کی دروازہ پر پیسودہ کد اس بادشاہ کے سوار ہونے سے  
 پہلے تک رہتی ہے پس جب بادشاہ سوار ہو جاتا ہے تو غلاموں  
 کو گونگانا آجاتا ہے اور بادب ہو جاتے ہیں کیوں کہ وہ بادشاہ  
 سے نزدیک ہونے والے ہیں ان میں سے ہر ایک ایک گوشے  
 کی طرف بھاگنے لگتا ہے خلق کی طرف تو جہ بھی بعینہ حق عزوجل  
 سے اعراض ہے تجھے فلاح و نجات جب تک حاصل نہیں  
 ہو سکتی کہ جب تک تو دوستوں سے علیحدہ ہو اور اسباب سے  
 قطع تعلق نہ کرے اور نفع و نقصان میں مخلوق کی طرف تو جہ کو نہ  
 چھوڑے تم بظاہر تندرست ہو لیکن باطن میں بیمار تم بظاہر  
 غنی ہو حقیقتہً فقیر، بظاہر زندہ ہو حقیقتہً مرنے والے، بظاہر موجود ہو  
 حقیقتہً معدوم یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنا، اس سے روگردانی کرنا  
 کب تک رہے گی دنیا کی تعمیر و آبادی آخرت کی بربادی و  
 خرابی کب تک کرو گے۔ تم میں سے ہر ایک کے ایک ہی قلب  
 تو ہے پس اس سے دنیا و آخرت دونوں کی کیسے محبت کرو گے  
 اس میں خلق و خالق دونوں کیسے سمائیں گے یہ بات ایک حالت  
 میں ایک قلب میں کیونکر حاصل ہو سکتی ہے یہ دعویٰ جھوٹا ہے  
 اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا ایمان  
 سے دوری رکھنے والا ہے۔ ہر ہر برکت سے وہی پکنتا ہے  
 جو اس میں موجود ہو تیرے عمل تیرے اعتقاد پر دلیل ہیں تیرا  
 ظاہر تیرے باطن پر دلیل ہے اور اسی واسطے بعض اہل اللہ  
 نے فرمایا کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے تیرا باطن اللہ عزوجل اور  
 اس کے خاص بندوں کے نزدیک ظاہر ہے۔ ان خاص بندگان  
 خدا سے اگر کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو اس کے روپر و اب  
 کے ساتھ رہے اور توبہ کرے اور اس کی ملاقات سے پہلے اپنے

اپنے گناہوں سے توبہ کر، اس کے روبرو ذلیل ہو کر رہ اور اس کے لیے تواضع کر۔ جب تواضعین کے لیے تواضع کرے گا پس تو نے اللہ عزوجل کی تواضع کر لی۔ تواضع اختیار کر تجھ میں جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عزوجل اس کو بلند کر دیتا ہے جو تجھ سے بڑا ہو اس کے روبرو نہایت ادب سے پیش آ کر تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے برکت تھا ہے بڑوں کے ساتھ ہے۔ پھر جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ نے شرح حدیث میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں محض عمر کی بڑائی مراد نہیں لی بلکہ کبر سنی کے ساتھ اور اس میں بجا آدمی احکام الہی اور منہیات میں امور منہیہ سے باز رہنا، اور کتاب و سنت کا لازم پکڑنا جو تقویٰ کے ساتھ ہوا ان کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ حقیقتہً فرمانبردار ہی بڑا ہے ورنہ کتنے باعتبار عمر کے بڑے ہیں جن کی تعظیم اور ان پر سلام کرنا بھی جائز نہیں اور ان کے دیکھنے میں برکت بھی نہیں۔ اکابر وہ ہیں جو مفتی، صالح، پرہیزگار، علم پر عمل کرنے والے، عمل میں اخلاص کرنے والے ہیں۔ اکابر وہی ہیں جن کے قلوب صاف اور ماسوی اللہ سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اکابر وہی اہل قلوب ہیں جو عارف باللہ ہیں اور خدا کے لیے عمل کرنے والے اور اس سے قریب۔ قلوب کا علم جب بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے مولانا عزوجل سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ دل میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے محب ہے اور ہر قلب جس میں آخرت کی محبت ہے پس وہ اللہ کے قرب سے محب ہے جس قدر تجھے دنیا میں رغبت ہوگی اسی قدر آخرت میں تیری رغبت کم ہو جائے گی اور جس قدر تیری رغبت آخرت میں ہوگی اسی اندازہ سے تیری محبت حق عزوجل کے ساتھ کم ہو جائیگی

لِقَائِهِ تَصَاغَرُ عِنْدَهُ وَتَوَاضَعُ لَهُ إِذَا تَوَاضَعْتَ لِلصَّالِحِينَ فَتَدْتَ تَوَاضَعْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوَاضَعُ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْسَنَ الْأَدَبِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِرُّ كَمَا مَعَ أَكْبَارِكُمْ قَالَ مَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرَ السَّيِّئِ فَحَسَبُ بَلْ حَتَّى تَصَافَ إِلَى كِبَرِ السَّيِّئِ التَّقْوَى فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَالْإِنْتِهَاءِ عَنِ النَّهْيِ وَمَلَانِمَةُ الْكِتَابِ وَالسُّكَّةِ وَالْأَفْكَارِ مِنْ شَيْخٍ لَا يَجُوزُ إِحْتِرَامُهُ وَلَا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَكَيْسَ فِي رُؤْيَا بَرُّكَ الْأَكْبَارِ الْمُتَّقُونَ الصَّالِحُونَ الْمُتَوَسِّعُونَ الْعَامِلُونَ بِالْعِلْمِ الْمُخْلِصُونَ فِي الْعَمَلِ الْأَكْبَارِ الْقُلُوبُ الصَّافِيَةُ الْمُعْرِضَةُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَكْبَارِ الْقُلُوبُ الْعَارِفَةُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَكْبَارِ الْعَامِلَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْهُ كُلَّمَا كَبُرَ عِلْمُ الْقُلُوبِ قَرُبَتْ مِنْ مَوْلَاهَا عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ حُبُّ الدُّنْيَا فَهُوَ عَنِ اللَّهِ مَحْجُوبٌ وَكُلُّ قَلْبٍ فِيهِ حُبُّ الْآخِرَةِ فَهُوَ عَنِ قُرْبِ اللَّهِ مَحْجُوبٌ يَتَدَرَّ رَغْبَتُكَ فِي الدُّنْيَا تَنْقُصُ رَغْبَتُكَ فِي الْآخِرَةِ يَتَدَرَّ رَغْبَتُكَ فِي الْآخِرَةِ تَنْقُصُ مَحَبَّتُكَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ

تم اپنی حیثیت و مراتب کو پہچانو اور اپنے نفسوں کو ایسی منزل پر نہ چھوڑو جس میں اللہ عز و جل نے ان کو جگہ نہ دی ہے اور اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا جس نے اپنا مرتبہ نہ پہچانا اس کو تقدیر الہی اس کے مرتبہ کی پہچان کرا دے گی تو ایسی جگہ میں نہ بیٹھیں جہاں سے اٹھا دیا جائے۔ جب تو کسی گھر میں داخل ہو تو ایسی جگہ پر نہ بیٹھ جہاں تجھ کو مالک مکان نے نہ بیٹھایا ہو۔ کیوں کہ تو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور تجھ سے اجازت بھی نہ لی جائے گی۔ اور اگر تو منع کرے گا تو ذلت کے ساتھ کھڑا کر کے تجھے نکال دیا جائے گا۔

اے غلام! تو نے عمر کو علم کے کھنڈے، اس کے یاد کرنے میں بغیر اس پر عمل کرنے کے ضائع کر دیا، یہ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء رحمہم اللہ سے فرمایا کہ تم مخلوق کے نگہبان تھے پس تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور بادشاہوں اور امیروں سے فرمائے گا تم میرے خزانے کے خزانچی تھے آیا تم نے فقیروں کو ان کے حقوق پہنچا دیے اور کیا تم نے یتیموں کی پرورش کی اور خزانوں سے وہ میرا حق جو تم پر میں نے فرض کر دیا تھا تم نے نکالا؟

اے قوم! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو قبول کرو اور ان کے قول کو مانو۔ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں وہ پاک ذات ہے جس نے مجھے مخلوق کے اندازہ کرنے، ان کے رنج کھینچنے پر قدرت دے دی ہے جب میں اڑنے کا قصد کرتا ہوں، تقدیر کی قینچی آکر میرے بازو کو تڑپتی ہے اور اڑنے سے روک دیتی ہے لیکن میں اطمینان سے رہتا ہوں کیوں کہ بادشاہی برج میں مقیم ہوں۔

اعْرِفُوا اَقْدَارَكُمْ وَلَا تَتْرَكُوا اَنْفُسَكُمْ مَزْنِلًا لَمْ يَنْزِلْنَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ عَرَفَتْهُ الْاَقْدَارُ قَدْرَهُ لَا تَقْعُدُ فِيْ مَوْضِعٍ تُنَامُ مِنْهُ اِذَا دَخَلْتَ دَارًا فَلَا تَقْعُدْ مَوْضِعًا لَمْ يُقْعُدْكَ فِيْهِ صَاحِبُ دَارِهِ فَاِنَّكَ تُنَامُ مِنْهُ يَلَا اَمْرَكَ وَاِنْ اُمْتَنَعْتَ اُقِمْتَ وَ اُهْنِتَ وَ اُخْرِجْتَ۔

يَا غُلَامُ قَدْ صَيَّعْتَ الْعُمْرَ فِيْ كِتَابَةِ الْعِلْمِ وَ حَقَّطَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ اَيْشَرٍ يَنْفَعُكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْاَنْبِيَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ اَنْتُمْ كُنْتُمْ رِعَاةَ الْخَلْقِ فَمَا صَنَعْتُمْ فِيْ رِعَايَاكُمْ وَ يَقُولُ لِلْمُلُوكِ وَ الْاَغْنِيَاءِ اَنْتُمْ كُنْتُمْ خَزَايَا كُنْتُمْ فِيْ هَذَا وَ اَصَلْتُمْ الْفُقَرَاءَ وَ رَبَّيْتُمْ الْاَيَّامَ وَ اَخْرَجْتُمْ مِنْهَا حَقِّي الَّذِي كَتَبْتُهُ عَلَيْكُمْ۔

يَا قَوْمُ اتَّعَظُوا بِمَا عَظِيَ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَقْبِلُوا قَوْلَهُ مَا اَقْسَمُ قُلُوبَكُمْ سُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَنِيْ عَلَى مَقَاسَةِ الْخَلْقِ كُلِّمَا رُمْتُ الطَّيْرَانِ حَبَاءً مَقْصُصُ الْقَدْرِ قَصَّ جَنَاحِيْ غَيْرَ اَنْيَ اَسْأَلُ كَيْفَ اَنَا بِمَقِيلِيْ فِيْ بُرْجِ الْمَلِكِ۔

وَيَلِكُ يَا مُنَافِقُ تَتَمَتَّعُ خُرُوجِي مِنْ  
هَذِهِ الْبَلَدَةِ لَوْ تَحَرَّكَتُ تَبَدَّلَ الْأَمْرُ  
وَأَنْفَصَلَتِ الْأَعْضَاءُ وَتَغَيَّرَ الْحَدِيثُ  
وَلَكِنْ أَخَافُ مِنْ عِقُوبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا جَلَّ الْعُجْلَةُ مَا أَنَا مُشِيرٌ بَلْ عَلَى  
مُتَاقِفٍ مِنَ الْقَدْرِ فَإِنَّا مُوَافِقٌ لَهُ مُسْلِمٌ  
إِلَيْهِ اللَّهُمَّ سَلَامًا وَتَسْلِيمًا -

وَيُحَاكَ تَسْتَلْزِمُنِي وَأَنَا وَقِفْ  
عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ادْعُوا الْخَلْقَ  
إِلَيْهِ سَوْفَ تَرَى جَوَابَكَ إِنِّي الْوَاقِقُ  
ذِرَاعًا وَرَأَى تَحْتَ الْأَفَاقِ سَوْفَ تَرَوْنَ -

يَا مُنَافِقِينَ عَذَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
عِقَابُهُ دُنْيَا وَآخِرَةُ الزَّمَانِ جَلِي سَوْفَ  
تَرَوْنَ مَا يَكُونُ مِنْهُ أَنَا فِي يَدِ ثَقَلِيْبِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ تَارَةً يُصَيِّرُنِي جَبَلًا تَارَةً يُصَيِّرُنِي  
ذَرَّةً وَتَارَةً يُصَيِّرُنِي بَحْرًا وَتَارَةً يُصَيِّرُنِي  
قَطْرَةً وَتَارَةً يُصَيِّرُنِي شَمْسًا وَتَارَةً  
يُصَيِّرُنِي لَمْعَةً وَبَرْقَةً يَتَلَبَّبُنِي كَمَا يُقَلِّبُ  
الْكَوْكَبَ وَالنَّهَارَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ بَلْ  
كُلَّ لَحْظَةٍ الْيَوْمَ لَكُمْ وَاللَّحْظَةُ لِغَيْرِكُمْ -

يَا غُلَامُ إِنْ أَرَدْتَ سَعَةَ الصَّدَقِ وَطَيِّبَةَ  
الْعَيْشِ فَلَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الْخَلْقُ وَلَا  
تَكَلِّفْ إِلَى حَدِيثِهِمْ أَمَا تَعْلَمُ أَتَمُّ  
مَا يَرْضَوْنَ عَنْ خَالَتِهِمْ فَيَكْفُ يَرْضَوْنَ  
عَنْكَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَبْصُرُونَ

اے منافق! تجھ پر افسوس ہے کہ تو میرے اس شر سے  
نکل جانے کی آرزو کرتا ہے، اگر میں حرکت کروں تو امر بدل جائے  
اور اعضا جدا ہو جائیں اور بات بدل جائے تمام نصیحتات پیدا ہو  
جائیں لیکن میں محبت سے اللہ عزوجل کے عذاب آنے سے  
ڈرتا ہوں میں خود سے تیار نہیں ہوں بلکہ میرے اوپر تقدیر کا پہنچنا  
ہے وہ ضرور سنچیرے گے پس میں تقدیر کے موافق کرنے والا  
ہوں۔ اے اللہ سلامتی اور توفیق عطا فرما۔

تجھ پر افسوس! تو میرے ساتھ استغناء کرتا ہے حالانکہ میں  
حق عزوجل کے دروازہ پر کھڑا ہوا مخلوق کو اس کی طرف بلاتا ہوں  
ہوں عنقریب تو اپنا جواب ملاحظہ کر لے گا۔ تحقیق میں اوپر  
کی طرف ایک ہاتھ ہوں اور نیچے ہزاروں ہاتھ۔

اے منافق! تم اللہ عزوجل کے عذاب اور اس کے  
دنیا و آخرت کے عقاب کو عنقریب دیکھو گے زمانہ حائل ہے  
جو کچھ اس سے پیدا ہونے والا ہے تم عنقریب دیکھ لو گے  
میں تو تصرفات الہی کے قبضہ میں ہوں کبھی وہ مجھے پہاڑ بنا دیتا  
ہے اور کبھی وہ مجھے ذرہ بنا دیتا ہے اور کبھی دریا کرتا ہے،  
اور کبھی وہ مجھے قطرہ بنا دیتا ہے اور کبھی آفتاب اور کبھی چمک  
اور روشنی۔ وہ مجھے ویسا ہی پٹا دیتا رہتا ہے۔ جیسے رات  
اور دن کو اس کی شان ہر دن بلکہ ہر لمحہ جدا جدا ہے، سارا  
دن تمہارے لیے ہے اور ایک لمحہ میں تمہارے بغیر کے لیے۔

اے غلام! اگر تو وسعت سینہ کی اور خوش عیشی چاہتا ہے  
پس تو نہ خلق کا قول سن اور نہ ان کی بات کی طرف توجہ کر۔  
کیا تو یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے خالق سے تو راضی ہی نہیں ہوتے  
پس وہ تجھ سے کیوں راضی ہوں گے آیا تو یہ نہیں پہچانتا کہ تحقیق  
بہت ان میں سے نہ عقل رکھتے ہیں نہ بصارت اور نہ ایمان

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بَوْنٌ وَلَا يُصَدِّقُونَ  
 رَاتِبِ الْقَوْمِ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ غَيْرَ الْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَلَا يَسْمَعُونَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَصْهَرُونَ  
 غَيْرِهِ أَصْبِرْ عَلَى آذِيَةِ الْخَلْقِ طَلَبًا لِلرِّضَا  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَصْبِرْ عَلَى مَا يَبْتَلِيكَ  
 بِهِ بِأَنْوَاعِ الْبَلَايَا هَذَا دَابُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 مَعَ عِبَادِهِ الْمُصْطَفِينَ الْمُسَجِّتِينَ يَنْتَظِعُهُمْ  
 عَنِ الْكُلِّ وَيَبْتَلِيهِمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَايَا  
 وَالْأَفَاتِ وَالْحَزَنِ يُضَيِّقُ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةَ وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَى الثَّرَى يُفْنِي  
 بِذَلِكَ وَجُودَهُمْ حَتَّى إِذَا فَنِيَ وَجُودُهُمْ  
 أَوْجَدَهُمْ لَهُ لَا لغيرِهِ أَفْقَامَهُمْ مَعَهُ  
 لَا مَعَ غَيْرِهِ يَنْشَعُهُمْ خَلْقًا آخَرَ كَمَا  
 قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أُنْشِأَنَاهُ خَلْقًا آخَرَ  
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ الْخَلْقُ  
 الْأَوَّلُ مُشْتَرِكٌ وَهَذَا الْخَلْقُ مُفْرَدٌ  
 يُفْرَدُهُ عَنْ إِخْوَانِهِ وَأَبْنَاءِ جَنَّتِهِ  
 مِنْ بَنِي آدَمَ يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ الْأَوَّلُ وَيُبدِّلُهُ  
 يُصَيِّرُهُ عَلَيْهِ سَافِلُهُ يُصَيِّرُهُ رَبَّانِيًّا  
 رُوحَانِيًّا يُضَيِّقُ قَلْبُهُ عَنْ رُؤْيَا الْخَلْقِ  
 وَيَنْسُدُّ بَابَ سِرِّهِ عَنِ الْخَلْقِ تَصَوُّرُهُ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ  
 وَالْخَلْقِ وَالْأَكْوَانِ شَيْئًا وَاحِدًا ثُمَّ يَسْكُرُ ذَلِكَ  
 الشَّيْءُ إِلَى يَدِ سِرِّهِ فَيَبْتَلِيهِ وَلَا يَتَبَيَّنُ  
 فِيهِ يُظْهِرُ فِيهِ التَّدْرَةَ كَمَا ظَهَرَ

لا تے میں بلکہ خدا کی تکذیب کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے  
 تو ان قوم والوں کا پیروں جو غیر خدا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور نہ وہ  
 اس کے غیر کے قول کو سنتے ہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور کو  
 دیکھتے ہیں تو مخلوق کی ایذا پر حق کی خوشنودی کے لیے صبر اختیار  
 کر خدا تجھ کو جس کسی بلا میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کیے جا۔ اللہ  
 عزوجل کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے کہ ان کو  
 ہر ایک سے الگ کر دیتا ہے اور طرح طرح کی بلاؤں اور آفتوں  
 اور مشقتوں سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیا و آخرت اور عرش  
 کے نیچے سے زمین تک ہر چیز کو ان پر تنگ کر دیتا ہے جس  
 کی وجہ سے ان کا وجود فنا کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کا  
 وجود فنا ہو جاتا ہے تو ان کو از سر نو اپنے لیے وجود عطا فرماتا  
 ہے نہ اپنے ماسوی کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ ہی و تہم  
 رکھتا ہے اور ان کو دوسری زندگی بخشتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا  
 ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ الْآيَةَ پھر ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا پس اللہ  
 سب خالقوں سے بہتر و برکت والا ہے۔ پہلی پیدائش مشترک  
 ہے اور یہ دوسری پیدائش تنہائی والی جس کی وجہ سے اس کو اللہ  
 اس کے بھائیوں اور تمام سمجھوں سے علیحدہ کر دیتا ہے اس  
 کے اول معنی میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتا ہے اس کے عالی  
 بالا حصہ کو سائل بنا دیتا ہے وہ محض ربانی و روحانی بن جاتا ہے  
 اس کا قلب غیر کے دیکھنے سے تنگی کرتا ہے اور اس کے بھید کا  
 دروازہ مخلوق سے بند ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت اور جنت و  
 دوزخ اور تمام مخلوق اور خلق اور کل کائنات اس کو ایک ہی  
 معلوم ہوتی ہے پھر یہ شے اس کے سر کے قبضہ میں ہے دی جاتی  
 ہے پس وہ اس کو ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا اس  
 میں رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے جیسا کہ اس نے

فِي عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبْحَانَ مَنْ يُظَاهِرُ  
 قُدْرَتَهُ فِيمَا يُرِيدُ عَلَى يَدٍ مَنْ يُرِيدُ بَلَعَتْ  
 عَصَا مُوسَى أَحْمًا لَا كَثِيرَةً مِنَ الْحَبَالِ وَغَيْرَهَا  
 مِنَ الْأَشْيَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بَطْنُهَا أَمَّا الْحَقُّ  
 عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ قُدْرَتُهُ لَا  
 حِكْمَتُهُ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ السَّحَرَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ  
 كَانَ حِكْمَةً وَهُدًى سَهْلَةً وَمَا ظَهَرَ فِي عَصَا  
 مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قُدْرَتُهُ مِنَ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ خَرَقَ عَادَةً وَمُعْجَزَةً وَلِطَبَّا  
 قَالَ أَمِيرُ السَّحَرَةِ لِرَؤُوسِهِمْ أَصْحَابِهِ أَنْظَرُوا  
 إِلَى مُوسَى فِي أَمْرٍ حَالَةٍ هُوَ فَتَالَ لَهُ قَدْ  
 تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَالْعَصَا تَعْمَلُ عَمَلَهَا فَقَالَ هَذَا  
 مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مِنْ فِعْلِهِ فَإِنَّ  
 السَّاحِرَ لَا يَخَافُ مِنْ سِحْرِهِ وَالضَّالِّغَ لَا  
 يَخَافُ مِنْ صُنْعِهِ ثُمَّ أَمَّنَ بِهِ وَتَبِعَهُ  
 أَصْحَابُهُ

يَا غُلَامُ مَتَى تَقُومُ مِنَ الْحِكْمَةِ إِلَى  
 الدُّرَةِ مَتَى يُؤْصِلُكَ عَمَلُكَ بِالْحِكْمَةِ إِلَى  
 قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَتَى يُؤْصِلُكَ إِخْلَاصُكَ  
 فِي أَعْمَالِكَ إِلَى بَابِ قُدْرَتِكَ مِنْ رَتِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
 مَتَى تَرِيكَ شَمْسَ الْعُرْفَةِ وَجُوهَ فَتُورِ  
 الْعَوَامِ وَالْخَوَاصِّ لَا تَهْرُبُ مِنَ الْحَقِّ لِأَجْلِ  
 بَلَاءِهِ إِنَّمَا يَنْتَلِيكَ لِيَعْلَمَ هَلْ تَرْجِعُ إِلَى  
 السَّبَبِ وَتَنْزِلُ بِأَبَةِ أَمْرٍ لَا هَلْ  
 تَرْجِعُ إِلَى الظَّاهِرِ أَوْ إِلَى الْبَاطِنِ إِلَى مَا

موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اظہار قدرت فرمایا تھا۔ پاک ہے  
 وہ ذات جو اپنی قدرت کا اظہار جس چیز میں جس کسی کے ہاتھ پر  
 چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ عصا نے موسیٰ نے جادو گروں کی  
 رسیوں وغیرہ کے ڈھیر کے ڈھیر کو نگل لیا اور اس کے پیٹ میں  
 تغیر بھی نہ آیا۔ اللہ عزوجل نے ارادہ فرمایا کہ قوم فرعون کو بتا دے  
 کہ اس میں سب قدرت ہے نہ کہ حکمت۔ اس دن جو کچھ جادو گروں  
 نے کیا تھا کہ ان کی رسیاں اڑھٹے معلوم ہوتے تھے، وہ حکمت  
 و فن ہند سے تھا اور جس امر کا اظہار عصا نے موسیٰ نے کیا وہ حق  
 عزوجل کی قدرت کا ملہ اور بر بنائے خرق عادت و معجزہ تھا  
 اور اسی واسطے جادو گروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں میں سے  
 ایک شخص سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب دیکھ وہ کس حال میں  
 ہیں اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا ہے  
 اور عصا نے موسیٰ اپنا کام کر رہا ہے سردار نے جواب دیا۔  
 کیونکہ ساحر اپنے کام سے اور کارگیر اپنے کام سے ڈرا نہیں  
 کرتا ہے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر وہ سردار اور اس کے سب  
 مصاحب اس کی اتباع میں ایمان لے آئے۔

اے غلام تو حکمت سے قدرت کی طرف کب متوجہ ہو گا،  
 کب تیرا حکمت والا عمل تجھ کو اللہ عزوجل کی قدرت تک پہنچا دے گا  
 کب تیرے اعمال کا اخلاص تجھ کو قرب الہی کے دروازہ تک  
 پہنچائے گا، معرفت کا آفتاب کب تجھ کو عام و خاص لوگوں کے  
 قلوب کے چہروں کو دکھائے گا۔ ہر شیا پر ہوجا۔ بلائی و بچے  
 تو حق عزوجل کی طرف سے محنت بجاگ تحقیق وہ اس سے تیری آتش  
 کرتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ آیا تو سبب کی طرف رجوع کرتا  
 ہے اور اس کے دروازہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں، آیا تو ظاہر  
 کی طرف رجوع کرتا ہے یا باطن کی طرف، آیا اس کی طرف

يُدْرِكُ أَوَّلِي مَا لَا يَدْرِكُ إِلَى مَا يَرَى أَوَّلِي مَا لَا يَرَى -

جاتا ہے جس کا ادراک ہو سکتا ہے یا اس کی طرف جس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس طرف جاتا ہے جو نظر آتی ہے یا اس طرف جو نظر نہیں آتی؛

اے اللہ! تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔

اے اللہ! ہم کو اپنی نزدیکی بغیر آزمائش عطا فرما۔

اے اللہ! اپنا قرب و لطف عطا فرما۔

اے اللہ! ایسا قرب ملے جس میں دوری نہ ہو۔

ہم میں تجھ سے دوری کی طاقت نہیں اور نہ بلا کے بڑاشت کرنے کی ہم کو آفتوں کی آگ سے علیحدہ کر کے اپنی نزدیکی عطا کر دے اور اگر آفتوں کی آگ ہمارے لیے ضروری بنے پس میں اس آگ میں مثل سمنل جانور کے بنا دینا جو کہ اس میں اندھے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے اور آگ اس کو نہ ضرر پہنچاتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ ہمارے اوپر اس آگ کو مثل آگ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی کر دینا۔ ہمارے ارد گرد سبزہ آگ دینا جیسا کہ تو نے ان کے ارد گرد جما دیا تھا اور ہمیں تمام چیزوں سے دیا ہی مستغنی کر دے جیسا کہ خلیل کو کیا تھا اور تو ہمارا مونس و تولی و بیا ہی بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا اور تو ویسے ہی ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر سے پہلے رفیق کو اول گھر سے پہلے پڑوسی کو اور وحشت سے پہلے مونس کو اور مرض سے پہلے پرہیز کو اور بلا سے پہلے صبر کو اور قضا سے پہلے رضا الہی کو حاصل کر لیا تھا۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے علم سیکھو اور ان کے اقوال اور افعال میں ان کی پیروی کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلا کے دریا میں مہربانی کی اور بلا کے دریا میں ان کو تیرنے کا حکم دیا اور خود ان کی مدد فرمائی، ان کو دشمن پر حملہ کا حکم دیا اور خود ان کے گھوڑے کے

اللَّهُمَّ لَا تَبْتَلْنَا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْقُرْبَ مِنْكَ بِلَا بَلَاءٍ

اللَّهُمَّ قُرْبًا وَ لُطْفًا

اللَّهُمَّ قُرْبًا بِلَا بُعْدٍ

لَا طَاقَةَ لَنَا عَلَى الْبُعْدِ مِنْكَ وَلَا عَلَى

مُقَاسَاةِ الْبَلَاءِ فَأَرْزُقْنَا الْقُرْبَ مِنْكَ مَعَ

عَدَمِ تَارِ الْأَفَاتِ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ

تَارِ الْأَفَاتِ فَاجْعَلْنَا فِيهَا كَالسَّمْنَلِ الَّذِي

يَبِئِضُ وَيَنْتَرِحُ فِي النَّارِ وَهُوَ لَا تَنْصُرُهُ وَلَا

تُحْرِقُهُ اجْعَلْهَا عَلَيْنَا كَذَاكِرِ إِبْرَاهِيمَ

خَلِيلِكَ أَنْبَتْ حَوْلَيْنَا عَشْبًا كَمَا

أَنْبَتَ حَوْلَيْهِ وَأَعْلِنَا عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ

كَمَا أَغْنَيْتَهُ وَالْإِنْسَانَ وَتَوَلَّيْنَا كَمَا تَوَلَّيْتَهُ

وَأَحْفَظْنَا كَمَا أَحْفَظْتَهُ. آمِينَ

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَمَلُ

الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَالْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ وَالْكَلْبِ

قَبْلَ الْوَحْشَةِ وَالْجَمِيَّةِ قَبْلَ الْمَرْحُومِ وَالصَّبْرِ

قَبْلَ الْبَيْتِ وَالرِّضَا قَبْلَ الْقَنَاءِ تَعَلَّمُوا

مِنْ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اقْتَدُوا

بِهِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَطَفَ

بِهِ فِي بَحْرِ بَلَاءِهِ وَكَلَّفَهُ السَّيَّاحَةَ فِي بَحْرِ الْبَلَاءِ

وَأَيَّدَ لَمْعًا كَلَّفَهُ الْحَمْلَ عَلَى الْعُدُوِّ وَهُوَ مَعْرَأْسٌ

سر کے قریب رہا اور ان کو بلند جگہ پر چڑھنے کا حکم دیا اور یہ بتا دیا کہ ان کی پیٹھ پر تھا ان کو خلق کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرچ اپنے پاس سے دیا عنایت باطنی و لطف خفی اسی کا نام ہے اے غلام! اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فعل کے آنے کے وقت خاموشی اختیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مہربانیاں تجھ کو نظر آئیں گی تو نے جاہلیوں و عجم کے غلام کا قصہ نہیں سنا کہ کیسا گونگا اور بیوقوف اور بھولا اور چپ چاپ بنا رہا تھا کہ جاہلیوں کے تمام علم سیکھ لیا۔ تیرے قلب کی طرف تیر بہت جھک بک کرنے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے اور اس پر اعتراض کرنے سے محنت الٹی نہیں آئے گی۔

اے اللہ تو ہم کو موافقت اور ترک منازعت عطا فرما اور دنیا و آخرت میں نیکیاں دے اور عذاب و دوزخ سے بچا : آمین

## گیارھویں مجلس

جمعہ کے دن صبح کو مدرسہ مدت دیدیں  
۲۹ سوال ۵۵ھ کو ارشاد فرمایا :

اے قوم! اللہ تعالیٰ کو سچاؤ اور اس سے جاہل نہ رہو اور اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کے ساتھ موافقت کرو اور اس کے مخالفت نہ بنو اور اس کی نقض و حکم پر راضی نہ ہو اور اس سے جھگڑا نہ کرو حتیٰ عز و جل کو اس کی صنعت و کارگیری سے پہچانو، وہ پیدا کرنے والا اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، وہی قائم و ازل سے اور دائم ابدی ہے جو چاہے وہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کرے اس سے سوال نہ ہوگا

الْفَرَسُ كَفَّعَهُ الصَّعُودُ إِلَى مَوْضِعٍ عَالٍ وَ يَكْدُهُ رَفِيَّ ظَهْرِهِ كَفَّعَهُ دَعْوَةُ الْخَلْقِ إِلَى طَعَامِهِ وَ النَّفَقَةُ مِنْ عِنْدِهِ هَذَا هُوَ اللَّطْفُ الْبَاطِنُ الْخَفِيُّ -

يَا غُلَامُ كُنْ مَعَ اللَّهِ صَامِتًا عَنِ مَا يَجِيءُ قَدَرًا وَ فَعَلِهِ حَتَّى تَرَى مِنْهُ الطَّافَا كَثِيرَةً أَمَّا سَمِعْتَ بِغُلَامٍ جَابِلِيٍّ يُوسُ الْحَكِيمُ كَيْفَ تَخَارَسَ وَ تَبَالَهَ وَ تَسَاكَتَ حَتَّى حَفِظَ كُلَّ عِلْمٍ عِنْدَكَ حِكْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَجِيءُ إِلَى قَبْلِكَ مِنْ كَثَرَةِ هَذَا يَأْتِيكَ وَ مَنَانُ عَيْنِكَ لَهُ وَ اعْتَزَّاضُكَ عَلَيْهِ -

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا أَلْمَوَافَقَةَ وَ تَرْكَ الْمُنَادَرَةِ وَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَرْنًا عَذَابِ النَّارِ ۝

## الْمَجْلِسُ الْحَادِي عَشَرَ

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَكْرَةً بِالْمَدْرَسَةِ تَاسِعَ عَشْرِينَ سَوَالَ سَنَةِ خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ خَمْسٍ مِائَةٍ يَأْقُومُ اعْرِضُوا اللَّهَ وَ لَا تَجْهَلُوهُ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ لَا تَعْصُوهُ وَ أَقْبِئُوهُ وَ لَا تُخَالِفُوهُ وَ أَرْضَوْا بِقَضَائِهِ وَ لَا تَتَادَعُوهُ وَ اعْرِضُوا الْحَقَّ عَزَّ وَ جَلَّ بِصُنْعِهِ هُوَ الْخَالِقُ الرَّائِقُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ هُوَ الْغَرَامِيُّ الْأَرْدِيُّ الدَّائِمُ الْأَبَدِيُّ الْقَتَالُ لِمَا يُرِيدُ كَمَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وَهُدًى يَسِيرُونَ هُوَ الْمُعْتَمِدُ هُوَ الْمَقْفِرُ هُوَ  
 النَّافِعُ النَّصَافُ الْمُحْيِي الْمَيِّتُ هُوَ الْمَعَادُ الْبَاقِي الْمَخْفُوتُ  
 الْمَرْجُوتُ خَافُوهُ وَلَا تَخَافُوا غَيْرَهُ وَارْجُوهُ  
 وَلَا تَرْجُوا غَيْرَهُ دُومُوا مَعَهُ قَدْ سَاءَ بِهِ  
 حِكْمَتُهُ إِلَى أَنْ تَغْلِبَ الْقُدْرَةُ الْحِكْمَةَ  
 تَأَذَّبُوا مَعَ الشَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ  
 مَا يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ تَكُونُوا مَحْضُوطِينَ  
 مِنْ خَرَقِ حُدُودِ الشَّرْعِ الَّذِي أُتِنِيَ إِلَيْهِ  
 مَعْنَى لَا صُورَةَ لَا يَصِلُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ  
 إِلَّا أَحَادُ الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَحَاجْهُ خَارِجَةً  
 عَنْ دَائِرَةِ الشَّرْعِ مَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ  
 إِلَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِ فَامَّا يَمْجُرِدُ الصِّفَةِ  
 فَلَا تَعْرِفُهُ كُونُوا فِي جَمِيعِ أُمُورِكُمْ بَيْنَ يَدَيِ  
 الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَدِّدِينَ  
 الْأَوْسَاطِ تَجِبَتْ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَاتِّبَاعُهُ  
 إِلَى أَنْ يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْبَلَاءِ وَنَحْيٍ نَذِيرٍ  
 اسْتَغْطِمُوا الرَّسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْخُلُوا عَلَيْهِ إِسْمًا سُبْحَى  
 الْأَبَدَالُ أَبَدًا إِلَّا لَا تَهْمُ لَا يُرِيدُونَ مَعَ  
 إِمَارَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَارَةً وَلَا  
 يَخْتَارُونَ مَعَ رَاخَتِيَا رَاخَتِيَا  
 يَحْكُمُونَ الْحُكْمَ الظَّاهِرَ وَيَعْمَلُونَ  
 الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةَ ثُمَّ يَنْفَرُ دُونَ الْغَلَبِ  
 أَعْمَالٍ تَخْصُمُهُمْ كُلَّمَا تَرَفَّتْ دَرَجَاتُهُمْ  
 وَمَنَارِلُهُمْ يُزِيدُونَ أَمْرًا وَنَهْيًا إِلَى

اور مخلوق سوال کیے جائیں گے، وہی امیر بنائے والا، وہی فقیر  
 بنائے والا، وہی نفع بخشنے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی  
 زندہ کرنے والا وہی موت دینے والا، وہی سزا دینے والا، امیدوار  
 بنانے والا ہے، اسی سے ڈرو، اس کے غیر سے نہ ڈرو،  
 اسی سے امیدوار بنو، اس کے غیر سے امیداری نہ کرو، اس کی  
 حکمت و قدرت کے ساتھ گھومتے رہو یہاں تک کہ قدرت  
 حکمت پر غالب آجائے، جو کچھ سیاہی پر سپیدی پھیری ہے  
 اس سے ادب سیکھتے رہو (قرآن مجید پر عمل رہو) یہاں تک  
 کہ وہ آنے والی چیز جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہوگی  
 آجائے۔ ایسی حالت میں تم حدود و شرع کے خلاف سے جس  
 کی طرف معنی اشارہ کیا گیا محفوظ رہو گے۔ اس نظام کی طرف صالحین  
 میں سے کوئی کوئی ہی پہنچتا ہے نہ کہ ہر ایک۔ ہمیں کسی ایسی  
 چیز کی حاجت نہیں جو کہ دائرہ شرع سے خارج ہو۔ اس امر کو  
 وہی جانتا ہے جو اس میں داخل ہوا ورنہ محض حال بیان کرنے  
 سے اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ تم اپنے معاملات میں رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کمر بستہ رہو اور آپ کے  
 حکم و ممانعت اور اتباع کے ماتحت رہو یہاں تک کہ تم کو باذن  
 اپنی طرف دعوت دے۔ پس اس وقت تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی عظمت کو اجازت لو۔ اور اس کے پاس داخل ہو جاؤ۔ ابدال  
 کا نام ابدال اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ارادہ  
 کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں کرتے، اور اللہ عز و جل کے اختیار کے ساتھ اپنے کسی  
 اختیار کو کلام میں نہیں لاتے حکم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور اعمال ظاہرہ پر  
 عمل کرتے ہیں۔ پھر تنہائی میں ایسے عمل کی طرف متوجہ ہو جاتے  
 ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ جب ان کے منازل و  
 درجات ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ امر و نہی کا ارادہ کرتے ہیں یہاں



کہتے ہو نہیں جو اللہ عزوجل کا رد کرے اور قرآن کو مخلوق بتائے  
وہ کافر ہوا اور اللہ سے بیزاریہ قرآن یہی جو تلاوت کیا جاتا ہے  
پڑھا جاتا ہے یہ جو سنا جاتا ہے یہ جو دیکھا جاتا ہے یہی جو صحیفوں  
میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ امام شافعی اور امام  
احمد رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے قلم مخلوق ہے اور جو اس سے  
لکھا گیا وہ غیر مخلوق اور قلب مخلوق ہے اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے  
وہ غیر مخلوق (یعنی کلام الہی)

اے قوم! نصیحت پکڑو قرآن سے ساتھ عمل کے، نہ مجادلہ  
کے ساتھ اس میں۔ اعتقاد چند کلمہ میں اور عمل بکثرت۔ تم قرآن مجید  
پر ایمان لاؤ اور اس کی قلوب سے تصدیق کرو اور اپنے اعضا  
سے عمل کرو۔ اور ایسی چیز میں مشغول ہو جو تمہیں نفع دے، ناقص  
یعنی عقول کی طرف توجہ نہ کرو۔

اے قوم! منقول عقل سے نسخ نہیں کیا جاسکتا اور نص  
قیاس سے ذائل نہیں کی جاسکتی۔ گواہ چھوڑ دے اور مجرد دعویٰ  
سے کام لے ایسا نہ کہ لوگوں کے مال بغیر گواہوں کے محض دعویٰ  
سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
ہے اگر آدمی محض دعویٰ سے کچھ حاصل کر لیا کرتے تو بالآخر ایک  
قوم دوسری قوم پر غلبہ اور اپنے مالوں کا دعویٰ کرتی لیکن مدعی پر  
گواہ لازم ہیں اور انکار کرنے والے قسم عالم زبان اور جاہل  
قلب نفع نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سب زیادہ خوف اپنی امت پر  
جس کو ان کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اس منافق سے ہے  
جس کی زبان عالم ہو۔

اے جاہل اے حاضرین و غائبین! اے جماعت علماء!  
تم اللہ عزوجل سے حیا کرو اور اپنے قبروں سے اس کی طرف

تَنۢتَوُونَ اَنْتَرَا مَنْ رَدَّ عَلٰی اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلَ  
النَّارَ اَنْ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَرِي  
مِنۡهُ سَدَّ اللّٰهُ اَنْ دَا  
هَذَا السِّرُّ هَذَا الْمَنْظُورُ هَذَا الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ  
كَلَامُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْاِمَامُ أَحْمَدُ  
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَوِيَانِ الْقَلَمَ مَخْلُوقٌ وَالْمَكْتُوبُ بِهِ غَيْرُ  
مَخْلُوقٍ وَالْقَلْبَ مَخْلُوقٌ وَالْمَحْضُوظُ فِيهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.  
يَا قَوْمُ انصَحُوا الشَّرَّانِ بِالْعَمَلِ بِالْاَلْبَابِ  
فِيهِ الْاِعْتِدَاتُ ذِكَاةُ تَيْمِيۡرَةٍ وَالْاَحْمَالُ ذَيْبَرَةٌ عَلَيْهِمْ  
بِالْاِيْمَانِ بِهِ صَدَقُوا بِقَوْلِكُمْ وَاَعْمَلُوا بِجَوَارِحِكُمْ  
اَسْتَعْلُوا بِمَا يَنْفَعُكُمْ لَا تَسْتَفْتُوا اِلَّا عَقُولَ  
نَاقِصَةٍ ذَنْبِيَّةٍ -

يَا قَوْمُ الْمَنْقُولُ لَا يُنْسَخُ بِالْعَمَلِ  
وَالنَّشْ لَا يُزَالُ بِالْقِيَاسِ لَا تَرُكُ الْبَيِّنَاتِ  
وَتَقِفْ مَعَ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى اَمْوَالُ النَّاسِ لَا  
تُؤْخَذُ بِالدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَخَذَ النَّاسُ  
بِذَعَادِ سِيَرِهِمْ لَا دَعَى قَوْمٌ دِمَا عَقْدِهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ  
لِكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ  
اَنكَرَ لَا يَتَقَعُ لِسَانُ عَلَيْهِمْ وَقَلْبُ جَاهِلٍ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ  
اَخَوْفُ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِي مِنْ هَذَا فِرَقٍ  
عَلَيْهِمُ النَّاسُ يَا عَدَمَاءُ -

يَا جَاهِلُ يَا حَاضِرُونَ وَيَا غَائِبُونَ  
يُحْيِيَنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَانظُرُوا بِقُلُوبِكُمْ

نظر کرو اس کے لیے پست ہو جاؤ اپنے نفسوں کو صابر بناؤ اس کی تقدیر کے گرزوں کے ماتحت ان کو لے آؤ اور اپنے نفسوں پر ان کا شکر بمقابلہ نعمت لازم کرو۔ اس کی اطاعت میں روشنی کو اندھیرے سے ملا دو شب و روز مشغول بطاعت رہو جب تم سے یہ امر متحقق ہو جائے گا تو اللہ عزوجل کی کرامت و عزت و جنت و دنیا و آخرت میں تمہارے پاس آجائے گی۔

اے غلام! اس بات کی کوشش کرو کہ دنیا میں کوئی شے ایسی باقی نہ ہو جو تجھے محبوب ہو، سب کی محبت چھوڑ دے جب تیرے حق میں یہ معاملہ کامل ہو جائے گا تو تو ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر بھولے گا تو یاد دلادیا جائے گا اور اگر تو غافل ہو گا مبادا کر دیا جائے گا۔ نظر حرمت تجھے غیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہ چھوڑے گی۔ الغرض جس نے یہ ذائقہ چکھا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس جنس کے افراد خلق سے بعض ہی بعض ہوتے ہیں جو مخلوق کی طرف سکون کو قبول نہیں کرتے۔

اے منافقو! آفتیں اور بلائیں تمہارے قلوب کے سروں پر موجود ہیں اہل اللہ جب کبھی اپنے قلوب کی آنکھوں سے غیر حق بل و علا کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو اپنی سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سکون اور اپنے کو اس کے روبرو ڈال دینے اور مخلوق کی طرف سے اندھا ہو جانے اور اللہ پر اعتراض کرنے سے اپنی زبانوں کو کاٹ ڈالنے میں پاتے ہیں۔ دن رات ہستہ برس ان پر غلبہ کرتے ہیں اور وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں، وہ حق عزوجل کی معیت سے متغیر نہیں ہوتے وہ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عاقل ہیں۔ اگر تم ان کو دیکھ پاؤ تو تم ان کو دیوانہ بناؤ اور اگر وہ تم کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے، کافر ہیں

إِلَيْهِ ذُلُّوْا لَهُ صَبِّرُوا أَنْفُسَكُمْ تَحْتَ مَطَارِقِ قَدَرٍ وَأَلْزَمُوْهَا بِاللَّشْكِرِ عَلَى نَعِيمِهِ وَاصِلُوا الصَّيَاغَ بِالظَّلَامِ فِي طَاعَتِهِ فَإِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْكُمْ جَاءَتْكُمْ كَرَامَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعِزُّهُ وَجَلَّتْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

يَا غُلَامُ اجْتَرِدْ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا تُحِبُّهُ إِذَا سَمَّ هَذَا فِي حَقِّكَ لَا تُتْرَكْ مَعَ نَفْسِكَ لِحَظَةٍ إِنْ تَسَبَّحْتَ ذِكْرَتِ وَإِنْ عَقَلْتَ أَوْ قَطَّعْتَ لَا يَدْعُكَ تَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ ذَاقَ هَذَا فَقَدْ عَرَفَهُ هَذَا الْجَنَسُ أَحَادُ أَفْرَادٍ مِنَ الْخَلْقِ لَا يَقْبَلُونَ السَّكُونُ إِلَى الْخَلْقِ۔

يَا مَنْافِقُونَ الْآفَاتُ وَالْبَلَاءُ عَلَى رُؤُسِ قُلُوبِكُمُ الْقَوْمُ كُلُّ مَا نَظَرُوا بِأَعْيُنٍ قَلْبُوهُمْ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ اتَّقِفُوا سَلَامَتَهُمْ فِي السَّكُونِ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِطْرَاجَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالشَّعَامَى عَنْ خَلْقِهِ وَقَطِّعْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ الْإِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ فَتَغْلِبِ الْآيَاتُ وَاللَّيَالِي وَاللَّهْمُ وَالسَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَغَيَّرُونَ نَمَّ الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ هُمْ أَفْعَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَوْ رَأَيْتَهُمْ لَقَلَّمْتُ بِحَادِثِينَ وَلَوْ رَأَوْكُمْ لَقَالُوا مَا مِنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الدِّينِ

ان کے دل نلگیں اور خدا کے سامنے شکستہ ہیں وہ ہمیشہ خوف زدہ اور ترسناک رہتے ہیں جب ان کے قلوب پر جمال و عظمت الہی کے پرفے کھل جاتے ہیں تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے ان کے قلب پھٹ جانے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے جوڑ جدا ہونے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب ان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اپنی رحمت و جمال اور مہربانی اور امید کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے جس سے ان کی حالت میں سکون آ جاتا ہے میں تو سوائے طالبِ آخرت اور طالبِ حق عزوجل کی دوسرے کی طرف نظر ڈالنا ہی پسند نہیں کرتا۔ مجھے طالبِ دنیا و خلق طلبِ گار نفس و ہوا کا کیا کرنا سوا اس کے کہ میں اس کے علاج کو دوست رکھوں کیوں کہ وہ مریض ہے بیماروں پر طبیب ہی صبر کر سکتا ہے۔

مجھ پر انوس! کہ تو اپنا معاملہ ان سے چھپاتا ہے اور وہ ان سے چھپ نہیں سکتا۔ تو مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ تو طالبِ آخرت ہے حالانکہ تو طالبِ دنیا ہے یہ ہوس جو کہ تیرے قلب میں ہے تیری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ تیرا راز ظاہر ہے جو دنیا تیرے ہاتھ میں ہے کھوٹا ہے اس میں ایک دانگ سونا ہے اور باقی چاندی۔ کھوٹا دینار میرے سامنے پیش نہ کریں نے ایسے بہت دیکھے ہیں یہ مجھے حوالہ کراد مجھے اجازت دے کہ میں اس کو گچھا دوں اور اس میں قبتا سونا ہے اس کو نکال لوں اور باقی کو پھینک دوں۔ بخور ہی چیز جو کہ عمدہ ہو بہت سی خراب چیز سے بہتر ہے تو مجھے اپنے دینار پر اختیار دے میں سکھ بنانے والا ہوں میرے پاس اس کا آلہ ہے۔ بیا و نفاق سے توبہ کراد اپنے نفس پر اس اقرار کرنے سے شرم نہ کریں اکثر اخلاص والوں سے (پہلے) ابتداء منافی تھے اور اسی واسطے بعض صوفیاء درجۃ

قُلُوبُهُمْ حَزِينَةٌ مُّذْ كَسِرَتْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَزَالُونَ خَائِبِينَ وَجِلْدِينَ كُلَّمَا كَشَفَ قِنَاعَ جَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لِقُلُوبِهِمْ إِزْدَادَ خَوْفِهِمْ نَكَادُ قُلُوبُهُمْ تَتَفَتَّحُ وَارْتَصَالُهُمْ تَتَفَضَّلُ فَإِذَا أَرَادَى مِنْهُمْ ذَلِكَ فَتَحَ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ وَجَمَالَهِ وَلَطْفِهِ وَالرَّجَاءُ لَهُمْ فَيَسْكُنُ مَا بِهِمْ مَا أَحْبَبَ أَنْظَرُ إِلَّا لِيَطْلُبَ إِلَى الْآخِرَةِ وَطَالِبُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَمَّا طَالِبُ الدُّنْيَا وَالْخَلْقِ وَالنَّفْسِ وَالرَّهْوِ أَيْشَ أَعْمَلُ بِهِ غَيْرَ آتَى أَحَبُّ مَدَاوِنَهُ رِائِقَهُ مَرِيضٌ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا الطَّيِّبُ

وَلِحَاكُ تَخْفَى أَمْرَكَ عَلَى وَهُوَ لَا يَخْفَى تَظْهَرُ إِنَّكَ طَالِبُ الْآخِرَةِ وَأَنْتَ طَالِبُ الدُّنْيَا هَذَا الْهُوسُ الَّذِي فِي قَلْبِكَ مَكْتُوبٌ عَلَى حَبِيبِكَ سِرُّكَ فِي عِلَاقَتِكَ الدُّنْيَا الَّذِي فِي يَدِكَ بَهْرَجَ فِيهِ دَانِقُ ذَهَبٍ وَالْبَاقِي فَضْهٌ لَا تَبْهَرُجُ عَلَى فَنَائِقِ رَأَيْتُ كَثِيرًا مَثَلَهُ سَلِمَهُ إِلَى مَكِّيٍّ مِنْهُ حَتَّى اسْبَكَهُ وَأُخْلِصَ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ وَارْحَى بِالْبَاقِي جَدِيدًا قَلِيلٌ خَيْرٌ مِنْ رَدِيٍّ كَثِيرٌ مَكِّيٍّ مِنْ دِينَارِكَ فَكَانَ خَيْرَ رَابٍ وَعَنْدِي إِلَهُ ذَلِكَ تَبُّ مِنَ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَكَأَنَّ تَسْجِيَّ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ وَالْقَالِبِ مِنَ الدُّخُولِ بَيْنَ كَانُوا أَمْرًا فَيَقْبَنُ وَلِهَذَا أَقَالَ بَعْضُهُمْ

اللہ علیہ نے فرمایا ہے اخلاص کو ریاکاری پہچانتا ہے، یہ امر نادر سے نادر ہے کہ اول امر سے آخر تک کوئی مخلص ہو رہے ابتداء میں جھوٹ بولتے ہیں اور مٹی سے اور بنجاستوں سے کھیلتے ہیں۔ اور اپنی جانوں کو ہلاکت کی جگہوں پر ڈالتے ہیں اور اپنے والدین کی چوری کرتے ہیں اور چل خریال کرتے ہیں اور جب ان میں عقل آنے لگتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ابتدائی امور چھوڑ جاتے ہیں۔

مال باب، استادوں سے ادب سیکھتے اور ان کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ - جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ ادب سیکھتا ہے اور اپنی پہلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اللہ عزوجل نے دوار اور بیماری دونوں پیدا کر دی ہیں۔ گناہ بیماری ہیں اور طاعت دوا، ظلم بیماری ہے اور انصاف دوا، خطاب بیماری اور صواب و بہتری دوا۔ اللہ عزوجل کی مخالفت بیماری ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا دوا۔ یہ دوا پورا اثر تب ہی کرے گی، جب تو مخلوق سے قبل بالکل جدا ہو جائے گا اور تو اپنے قلب کو اپنے پروردگار عزوجل سے ملا لے گا اور اللہ کی طرف اس کو اونچا کرے گا، تیری روح آسمان میں رہے گی اور تیرا گھر زمین میں ہو گا۔ مطابق علم تو اپنے قلب سے حق عزوجل کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور تو حکم کی بجا آوری میں خلق کا شریک رہے گا ان کی مخالفت عمل کی کسی خصلت میں نہ کرے گا تاکہ عمل اور مخلوق کی تجھ پر کوئی حجت نہ ہو۔ اپنے باطن سے حق عزوجل کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور ظاہر میں خلق کے ساتھ رہے گا تو اپنے نفس کے لیے اٹھا ہوا حملہ کرنے والا سامر نہ چھوڑے اگر تو اس پر ہرگز ہو گیا ہے، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا، اگر تو نے اسے بچھاؤ

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يَعْرِفُ إِلَّا خَلَصَ إِلَّا  
الْمُرَائِي النَّادِي مَنْ كُلِّ نَادٍ مِّنْ يُخْلِصُ  
مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ إِلَى آخِرِهِ الصَّبِيَّانِ فِي أَوَّلِ  
أَمْرِهِمْ يَكْنُبُونَ وَيَلْعَبُونَ بِالْثَرَابِ وَالْبُحْبُكَةِ  
وَيُوقِعُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي الْمَهَالِكِ وَيَسْرِقُونَ  
مِنْ آبَائِهِمْ وَأَهْلَائِهِمْ وَيَمْنُشُونَ بِالْزَيْمَةِ  
وَكُلُّهُمَا رَبُّ الْعَقْلِ فِيهِمْ تَرَكُوا أَنْفُسًا فَتَنًا  
يَنَادُونَ بِالْأَبَاءِ وَالْأَهْلَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ مَنْ  
يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا إِنَّا كَذَبُ وَيُتْرَكُ مَا كَانَ عَلَيْهِ  
وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ شَرًّا لَّا يَفْعَلُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ  
فَبِعَذَابِكَ دُنْيَا وَآخِرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ  
الدَّاعِيَ وَالْمَدْعُوعَ وَالْمُعَاضِي دَاعًى وَالطَّاعَةَ دَاعًى  
وَالظُّلْمَ دَاعًى وَالْعَدْلَ دَاعًى وَالْخَطَاةَ دَاعًى وَالصَّوَابَ دَاعًى  
وَمُخَالَفَتُهُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ دَاعًى وَالشُّوبَةَ  
مِنْ سُكْرِ الذَّنُوبِ دَاعًى إِنَّمَا يَتَقَرَّلُكَ  
الدَّاعِيَ إِذَا فَارَقْتَ الْخَلْقَ بِقَلْبِكَ وَ  
أَوْصَلْتَهُ بِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَفَعَّلْتَ إِلَيْهِ  
بِصَبْرٍ فِي السَّمَاءِ وَمَوْحِكَ وَبَيْتِكَ فِي  
الْأَرْضِ تَنْفِرُ دُفْقُوكَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
بِمَا يَعْلَمُ وَتُشَارِكُ الْخَلْقَ فِي الْعَمَلِ بِالْحُكْمِ  
لَا تُشَارِكُهُمْ فِي خِصْلَةٍ مِنْهُ حَتَّى لَا يَكُونَ  
لَهُ وَلَهُمْ عَلَيْكَ حُجَّةٌ تَنْفِرُ دُفْعًا مَعَ رَبِّكَ عَزَّ  
وَجَلَّ بِبَاطِنِكَ وَتَكُونُ مَعَ الْخَلْقِ  
بِظَاهِرِكَ لَا تُخَلِّ لِنَفْسِكَ رَأْسًا مَّشَالًا  
إِنْ رَكِبَتْهَا وَإِلَّا رَكِبَتْكَ وَإِنْ صَرَعَتْهَا

وَالْأَصْرَعْتَكَ إِنَّ تَطْعَمَكَ فِيمَا تُرِيدُ مِنْ  
طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَعَاظِمُ بِالْإِسْطِطَاعِ  
وَالْعَطَشُ وَالذَّلَالُ وَالْعُرَى وَالْخَوَافُ فِي مَوْضِعٍ  
لَا أَيْدِيسُ فِيهِ مِنَ الْخَلْقِ لَا تُنْجِي هَذِهِ الشَّيَاطِ  
عَنْهَا حَتَّى تَطْبِئَتْ وَتُطِئَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي  
كُلِّ حَالٍ فَإِذَا أَظْمَأْتِ لَا تَخْلِ الْمَعَاظِمَ  
بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَسْتَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَأَوْفَقَهَا  
حَتَّى لَا تَزَالَ مُتَكَبِّرَةً إِنَّهَا تَسْتَعِينُ عَلَى هَذَا  
جَمِيعَةٍ بِطَلَبِ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُوَافَقَتِهِ  
وَتَرْكِ مَعَاصِيهِ وَأَنْ تَكُونَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا  
وَاحِدًا أَنْتَ مُوَافِقٌ بِلَا مُخَالَفَةٍ طَاعَةً بِلَا  
مَعْصِيَةٍ شُكْرًا بِلَا كُفْرٍ ذِكْرًا بِلَا نِسْيَانٍ  
خَيْرًا بِلَا شَرٍّ لَا فَلاحَ لِقَلْبِكَ وَفِيهِ أَحَدٌ  
غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ سَجَدَتْ لَهُ أَلْفَ عَامٍ  
عَلَى الْجَمْعِ وَأَنْتَ مُقْبِلٌ بِقَلْبِكَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا  
نَفَعَكَ ذَلِكَ لَا عَاقِبَةَ لَهُ وَهُوَ يُحِبُّ غَيْرَ  
مَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُسْعِدُ بِجُودِهِ حَتَّى  
تُعْدِمَ الْكُلَّ أَتَيْشَ يَنْفَعَكَ أَظْهَرَ الزُّهْدِ  
فِي الْأَشْيَاءِ مَعَ إِقْبَالِكَ عَلَيْهَا بِقَلْبِكَ  
أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ مَا فِي  
صُدُورِ الْعَالَمِينَ مَا كَسْتَحْيِي تَقُولُ  
يَلْسَانُكَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَفِي قَلْبِكَ  
غَيْرُهُ.

يَا غُلَامُ لَا تَتَذَرِ جِلْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ فَإِنَّ  
بَطْشَةَ شَيْدٍ لَا تَغْتَرِبُ وَلَا يَهْوُ لِأَعْلَمَاءِ الْجَهْلِ بِاللَّهِ

بہتر ورنہ وہ تجھے پچھاڑ دے گا۔ اگر تیرا نفس اس چیز میں جس کا طاعت  
الہی ہے تو غرا ہشتند ہے طمع ہو جائے بہتر اور نہ اس کو بھول  
پایس اور ذلت اور برہنگی کے کوڑے سے اور ایسی جگہ کی  
تہنائی سے جس میں مخلوق میں سے کوئی بھی انیس نہ ہو سزا دے اور  
جب تک تو مطمئن نہ ہو جائے اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت  
نہ کرنے لگے اس وقت تک توبہ کوڑا اس سے مت اٹھا پس جب  
تیرا نفس مطمئن ہو جائے تو تو اپنے اور اس کے درمیان میں غائب  
کو نہ چھوڑے۔ اس سے کہہ کیا تو نے ایسا کیا تھا تو اس کو موافق  
بنائے تاکہ وہ ہمیشہ شکستہ ہی رہے۔ ان سب امور پر تجھے مدد  
جب ہی مل سکتی ہے جب تو مراد الہی کا طالب ہو اور اس کی مراد  
کرے اور گناہوں سے بچے تیرا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے موافق  
ہی موافق ہو جائے نہ کہ مخالفت طاعت ہی طاعت ہو نہ معصیت  
شکر ہی شکر ہو نہ ناشکری ذکر ہی ذکر ہو نہ نسیان تیری خبر ہو نہ نثر  
تیرے قلب کو جب تک فلاح نہیں مل سکتی ہے جب تک  
اس میں غیر اللہ کا دخل ہے۔ اگر تو ہزار برس بھی لا لگا کر سجدہ کرے  
اور تو غیر کی طرف متوجہ رہے تو تیرا یہ سجدہ ہرگز تجھے نفع نہ دیگا۔  
اس کے واسطے کچھ نتیجہ تیرے ہو گا جب تک وہ ماسوی اللہ کو دوست  
بنائے رہے گا تو خدا کی دوستی میں جب تک کہ کل مخلوق کو معدوم  
نہ کر دے سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرا اشیاء میں اظہار نہد  
ان پر قلب کی توجہ کے ساتھ تجھے کون سا فائدہ دے سکتا ہے  
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل ان چیزوں کو جانتا ہے جو تمام عالم  
کے سینوں کے اندر ہیں حالانکہ تیرے قلب میں غیر خدا کا  
دخل ہے۔

اے غلام تو اللہ کے حکم سے دھوکہ میں نہ جا اس کی پکڑ بہت  
سخت ہے تو اس پر اور ان علماء پر جو کہ اللہ عزوجل سے جاہل ہیں

عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ لَا لَكُمْ هُمْ عَمَّا  
 بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جُهَاًلٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 يَا مَرْوُونَ النَّاسِ يَا مَرْوُونَ لَا يَمْتَنُونَ وَيَمْتَنُونَ  
 عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْتَهُونَ عَنْهُ يَدْعُونَ إِلَى  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهُ يُبَارِكُونَ  
 بِمَعَاصِيهِهِ وَرَأَى إِلَهُهُمُ عِنْدِي مُؤَخَّرَةً  
 مَكْتُوبَةً مُعَدَّةً وَدَةً اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَى  
 وَعَلَيْهِمْ وَهَبْنَا كُنْتَ لِي نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَمِينُ إِلَّا إِلَهُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 اللَّهُمَّ لَا تَسْلُطْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ أَفْعَمْ  
 بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَادْخُلْنَا كُلَّنَا فِي رَحْمَتِكَ  
 آمِينَ۔

غور نہ کر ان کا کل علم ان پر وبال ہے نہ کہ نفع رساں وہ صرف حکم خدا  
 کے عالم ہیں اور اللہ عزوجل سے جاہل مطلق وہ آدمیوں کو حکم دیتے  
 ہیں اور خود سبجا نہیں لاتے اور لوگوں کو ایک کام سے منع کرتے  
 ہیں اور خود اس سے باز نہیں رہتے لوگوں کو اللہ عزوجل کی طاعت  
 بلاتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں اپنے گناہوں اور  
 لغزشوں سے خدا سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے نام میرے  
 پاس تاجریخ وار لکھے ہوئے شمار کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ!  
 تو مجھ پر اور ان پر توبہ ڈال دے۔ اور ہم سب کو بھرت اپنے  
 نبی محمد علیہ السلام وآلہ وسلم اور بھرت ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام بخشتے  
 اے اللہ! ہمارے بعض کو بعض پر مسلط کر اور ہمارے  
 بعض کو بعض سے نفع دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل  
 کر لے۔ آمین!

## بارہویں مجلس

اتوار کے دن صبح کے وقت خانقاہ شریف  
 میں ۲۰ ذی قعدہ ۱۴۵۵ھ کو ارشاد فرمایا :  
 اے غلام! حق عزوجل کے لیے نہ تیری ارادت صبح اور نہ  
 تو اس کام پر کیوں کہ جو شخص اللہ کی ارادت کا دعویٰ کرے اور  
 اس کے غیر کو طلب کرتا ہو اس کا دعویٰ باطل ہے مخلوق میں دنیا  
 کے مریدوں کی کثرت ہے اور آخرت کے مریدوں کی قلت  
 اور اللہ کے مرید سچی ارادت والے ہر قلیل سے تلیل ترین ہیں۔  
 وہ شاذ و نادر ہونے میں افراد ہیں اکاؤ کا

## المجلس الثاني عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْاَحَدِ بَكْرَةً بِالزَّيْطِ ثَانِي  
 ذِي الْقَعْدَةِ سِدْرَةِ خَبِيرٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِينَ وَارْبَعِينَ  
 يَا غُلَامُ مَا سَأَلْتُكَ اِذَا دُنْتُكَ لِلْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ لَا اَنْتَ مُرِيدٌ لَكَ لَآنَ كُلِّ مَنْ يَدْعِي اِسْمَ اَدَاةِ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ اَوْ يَطْلُبُ غَيْرَهُ فَتَدَابُلُ دَعْوَاهُ  
 مُرِيدٌ اِلَّا الدِّنْيَا فِيهِمْ كَثْرَةٌ وَمُرِيدٌ اِلَّا الْآخِرَةُ  
 فِيهِمْ قَلَّةٌ مُرِيدٌ اِلَّا السَّرَقِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّادِقُونَ  
 فِي اِسْمِ اَدَاتِهِ اَقْتُلْ هَؤُلَاءِ قَلِيلٌ هُمُ  
 فِي الثَّقَلَةِ وَالْعَدَمِ كَالْبِكْرِ نَبِيَّتِ الْاَكْثَرِ  
 هُمُ اَحَادٌ اَوْ رَادٍ فِي الشَّدُوْذِ وَ

ہی ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کوئی ہی پایا جاتا ہے وہ کنبہ قبیلہ سے علیحدہ ہونے والے ہیں وہ زمین میں معدن اور بادشاہ ہیں اور وہ اہل شہر کے کوڑاں ہیں ان کی برکت سے خلق کی بلاحق ہوتی ہے مخلوق پر انہیں کی برکتوں سے بارش ہوتی ہے، آسمان میں برساتا ہے زمین سبزہ زار رہتی ہے۔ وہ اپنی ابتدائی حالت میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ایک ویرانہ سے دوسرے ویرانہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشور ہو جاتے ہیں۔ پہچان لیے جاتے ہیں تو وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو پیٹھ پیچھے پھینک آتے ہیں اور وہ دنیا کی کنجیاں اہل دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ارد گرد قلعہ بنا دیے جاتے ہیں اور خدائی لشکر ان سے بات چیت کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کی تہمتا حفاظت ہوتی ہے سب کا اعزاز و اکرام و نگہداشت کی جاتی ہے اور یہ خلق پر حاکم بنا دیے جاتے ہیں یہ کل امور عوام کی عقلوں سے دہا ہیں۔ پس اس وقت ان کی توجہ خلق پر فرض ہو جاتی ہے یہ ان کے لیے مثل طیسوں کے ہو جاتے ہیں اور بقیہ خلق بیمار۔

تجھ پر انوس: تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس جماعت سے ہوں بتا تجھ میں ان کی کیا علامت ہے۔ تجھ میں اللہ عزوجل کے قرب و لطف کی کیا علامت ہے، تو اللہ کے نزدیک کس درجہ اور کس مقام میں ہے، تیرا نام کیا ہے اور ملکوت الہی میں تیرا لقب کیا ہے، ہر رات تیرا دروازہ کس حالت پر بند کیا جاتا ہے تیرا کھانا اور پینا مباح ہے یا حلال مطلق تیری خواب گاہ دنیا ہے یا آخرت یا قریب الہی تو کہاں رات گزارتا ہے۔

الْعُدُورَ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ هُمْ نَزَاعُ الْعَشَائِرِ هُمْ مَعَادِنُ فِي الْأَرْضِ مُلُوكٌ فِيهَا هُمْ شَحْنُ الْبِلَادِ وَالْعَبَادِ بِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَاءُ عَنِ الْخَلْقِ وَبِهِمْ يُمَطَّرُونَ وَبِهِمْ كُمُطَّرُ السَّمَاءِ وَبِهِمْ تَنْبُتُ الْأَرْضُ فِي بَدَايَةِ أَمْرِ هِجْ يُنْزَرُونَ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مِنْ خَرَابٍ إِلَى خَرَابٍ كُلَّمَا عَرَفُوا فِي مَوْضِعٍ تَحَوَّلُوا مِنْهُ يَرْمُونَ الْكُلَّ وَتَمَازَ طُهُورِهِمْ وَيُسْتَمُونُ مَعَاتِيحَ الدُّنْيَا إِلَى أَهْلِهَا لَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ تُبْنَى الْقِلَاعُ حَوَالِيَهُمْ وَتُجْرَى الْأَنْهَارُ إِلَى قُلُوبِهِمْ وَيُحَاطَبُهُمْ جُنُودٌ مِنْ قِبَلِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ مُنْهَمُ يُنْهَرُ دُالِيَهُ بِالْجَرِاسَةِ لِيُكْرَمُونَ وَيُحْفَظُونَ وَيَكُونُوا عَلَى الْخَلْقِ كُلِّ هَذَا مِنْ دَرَاءٍ عَقُولِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ اقْبَالُهُمْ عَلَى الْخَلْقِ فَرِيضَةً يَصِيرُونَ كَالْطِبَّاءِ وَبَقِيَّةُ الْخَلْقِ مَرْضَى.

وَيَحْكُ تَدْعِي أَنَّكَ مِنْهُمْ مَا عَلِمْتَهُمْ عِنْدَكَ مَا عَلِمْتَهُ قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلُطْفِهِ فِي آيٍ مَنَزَلَةٍ أَنْتَ عِنْدَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي آيٍ مَقَامٍ مَا اسْمُكَ وَمَا لَقَبُكَ فِي الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى عَلَى بَيْلِقُ بَابُكَ كُلَّ لَيْلَةٍ طَعَامُكَ وَشَرَابُكَ مُبَاحٌ أَوْ حَلَالٌ مُطْلَقٌ نَضَاجِعُ الدُّنْيَا أَوِ الْآخِرَةِ أَوْ قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ

مَنْ أَيْسَرَكَ فِي الْوَحْدَةِ مَنْ جَلَّيْسُكَ رَفِي  
 الْخَلْوَةِ يَا كَذَّابُ أَيْسَرَكَ فِي الْوَحْدَةِ نَفْسُكَ  
 وَشَيْطَانُكَ وَهُوَ الْكَذَّابُ وَالتَّعَدُّكَ فِي دُنْيَاكَ  
 وَفِي الْجَلْوَةِ شَيْطَانُكَ وَالنَّاسُ الَّذِينَ هُمْ  
 أَقْرَانُ الشُّرُوعِ وَأَصْحَابُ الْفَيْلِ وَالْقَالِ  
 هَذَا الشَّيْءُ لَا يَجِيءُ بِالْهَذْيَانِ وَمُجَرَّدِ  
 الدَّعْوَى كَلَامُكَ فِي هَذَا هَوَسٌ لَا يَنْفَعُكَ  
 عَلَيْكَ بِاللَّسْكَوْنِ وَالنَّخْمُولِ بَيْنَ يَدَيِ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْكُ إِسَاءَةِ الْكَذِبِ إِنْ  
 كَانَ وَلَا بَدْءَ مِنَ الْكَلَامِ فِي هَذَا فَيَرْكُونُ  
 كَلَامُكَ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ بِهِ وَ  
 التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ أَهْلِهِ لَا إِنَّكَ تَدَّعِيهِ بِظَاهِرِكَ  
 مَعَ خَلْقٍ قَلْبِكَ مِنْهُ كُلُّ ظَاهِرٍ لَا يُؤَافِقُهُ  
 الْبَاطِنُ هُوَ هَذَا يَأْنِ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَامَ مَنْ صَدَّ يَأْكُلُ  
 لِحُومِ النَّاسِ وَقَدْ بَيَّنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 كَيْسَ الصِّيَامِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَافِ الْمُفْطَرَاتِ  
 وَتَحَسُّبُ كُلِّ حَتَّى يُصَنَّفَ رَأْيُهُ تَرْكُ الْأَنَامِ  
 أَحَدُهُمَا مِنَ الْغَيْبَةِ وَآخَرُهُمَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ  
 كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ مَا يَقْوَمُهَا مَنْ أَفْلَحَ  
 قَطُّ وَمَنْ عَرَفَ بِهَا قَلَّتْ حُرْمَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ  
 وَآخَرُهُمَا مِنَ الظُّطَرِّ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَزْدَرُ الْمَعْصِيَةَ  
 فِي قُلُوبِهِمْ وَخَافَتُهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَاحِدُهُمَا مِنَ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ فَإِنَّهَا  
 تَرْكُ الدِّيَارِ بِلَا قَمَرٍ كَذَّابُكَ بَرَكَةُ الْأَمْوَالِ وَالْأَدْيَانِ

وحدت میں تیرا ایس اور خلوت میں تیرا جلیس کون ہے اسے  
 کذاب وحدت میں تیرا ایس تیرا نفس اور شیطان اور براہِ نفسانی اور  
 تفکر دنیا ہے اور خلوت میں شیاطین اس جو کہ بدکار و درست ہیں  
 اور یہ وہ کہ اس والے تیرے ایس ہیں۔ یہ مرتبہ ولایت ہدیان  
 اور محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتا ہے اس میں تیری بات  
 چیت تو محض ہوس ہے جس کا کوئی نفع نہیں تو اپنے اوپر  
 سکون اور اللہ عزوجل کے روبرو گناہی اور بے ادبی سے احتراز  
 لازم پکڑ اور اگر اس بارے میں تجھے گفت گوروری ہے، تو  
 تیرا کلام اس میں بطریق برکت حاصل کرنے اور اس کے اہل کے  
 ذکر سے برکت لینے کے ساتھ ہو کیوں کہ تیرا قلب تو معرفت  
 سے خالی ہے۔ تو تو محض ظاہر سے دعویٰ کرتا ہے۔ ہر ظاہر  
 جس کی باطن موافقت نہ کرے وہ تو سراسر ہدیان و کبواس ہے  
 کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا جو دیول  
 کی رونے میں غیبت کرتا ہے وہ روزے دار نہیں ہوتا تحقیق  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ فقط کھانا پینا اور  
 مفطرات کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ  
 گناہوں کے چھوڑ دینے کا بھی اضافہ کیا جائے تو روزہ ہے۔  
 غیبت کرنے سے بچو تحقیق غیبت نکوئیوں کو ویسے ہی کھا  
 لیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ صاحبِ فلاح غیبت کا کبھی فائدہ  
 نہیں بنتا۔ اور جو غیبت کرنے میں مشغور ہو جاتا ہے اس کی  
 لوگوں میں عزت کم ہو جاتی ہے اور شہوت کے ساتھ نظر بازی  
 سے بچو کیوں کہ وہ تمہارے قلوب میں معصیت کا بیج بو دیتی ہے  
 اور اس کا انجام دنیا و آخرت میں بہت بُرا ہے اور تم جھوٹی  
 قسم کھانے سے بچو کیوں کہ جھوٹی قسم آباد شہروں کو پھیل میدان  
 بنا کر چھوڑتی ہے الودین کی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے

وَيُحَلِّكُ تَفْعُلُ مَا لَكَ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ  
وَتُخْسِرُ دِينَكَ لَوْ كَانَ لَكَ عَقْلٌ لَعَلِمْتَ أَنَّ  
هَذِهِ هِيَ الْخَسَارَةُ بِعَيْنِهَا تَقُولُ وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَا فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ مِثْلُ هَذَا الْمَتَاعِ وَلَا عِنْدَ  
أَحَدٍ مِثْلُهُ وَاللَّهُ رَأَى أَنَّهُ يَسْتَوِي كَذَا وَكَذَا وَرَأَى  
عَلَيْكَ بِكَذَا وَكَذَا وَأَنْتَ كَاذِبٌ فِي كُلِّ مَا قُلْتَهُ  
شَهِدْ بِالْزُورِ وَتَحْلِفُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
أَنَّكَ صَادِقٌ عَنْ قَرِيبٍ يَجْعَلُكَ الْعَلَى وَالزَّمَنُ  
تَأْذِيْبُ أَرْحَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ مَنْ لَمْ يَتَأَذَّبْ بِآدَابِ الشَّرْعِ أَذَبَتْهُ  
النَّارُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ مَنْ فِيهِ  
هَذِهِ الْخُمْسُ خَصَالٌ أَوْ بَعْضُهَا يُحْكَمُ  
بِطُلَانِ صَوْمِهِ وَصَوْمِهِ فَقَالَ صَوْمُهُ وَ  
وَصَوْمُهُ لَا يَبْطُلُ وَلَا يَكُنْ هَذَا جَاءَ  
عَلَى سَبِيلِ التَّوَعُّظِ وَالتَّحْذِيرِ وَ  
التَّخْوِيفِ.

يَا غُلَامُ لَعَلَّ عَدَايَاتِي وَأَنْتَ مَفْقُودٌ  
مَنْ ظَهَرَ الْأَمْرُ مِنْ مَوْجُودٍ فِي الْقَبْرِ أَوَّلَ هَذَا  
يَكُونُ فِي سَاعَةِ أُخْرَى آتِيَتْ هَذِهِ الْعَفْلَةُ مَا  
أَفْسَى قُلُوبُكُمْ صُحُورُ أَنْتُمْ أَقُولُ لَكُمْ وَعَيْرِي  
يَقُولُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ الْقُرْآنُ  
يُنَالِي عَلَيْكُمْ وَأَحْبَابُ الرَّسُولِ وَسَيَرُ الْأَوَّلِينَ  
تُقَرَّأُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَتَغَيَّرُونَ وَلَا تَحْشُرُونَ  
وَلَا تَتَغَيَّرُ أَحْمَالُكُمْ كُلُّ مَنْ يَحْضُرُ بِمَقْعَةٍ فِيهِمَا  
وَعُظٌّ لَمْ يَتَّعِظْ فَهُوَ فِي خَيْرِ الْمَتَاعِ

تجھ پر افسوس کہ تو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر راج دیتا  
ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اگر تجھے عقل ہوتی  
تو البتہ جان لیتا کہ اصل نقصان یہی ہے تو کہتا ہے کہ  
خدا کی قسم ایسا مال تو اس شہر میں نہیں ہے اور نہ کسی اور کے  
پاس موجود ہے قسم خدا کی یہ اتنی اتنی قیمت کا ہے اور مجھے  
استغنی میں پڑا ہے حالانکہ اس میں سے تو ہر بات میں جھوٹ  
بولنے والا ہے پھر تو اس پر جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اللہ عزوجل  
کا نام لے کر حلف کرتا ہے کہ تو اس میں سچ بولنے والا ہے۔  
عنقریب وہ وقت آتا ہے کہ تو اندھا اور پا پا بج ہو جائے گا۔  
اللہ تم پر رحم فرمائے حق تعالیٰ کے حضور میں باادب رہو جس کسی نے  
آداب شرع سے ادب نہ سیکھا اس کو قیامت کے دن دوزخ  
کی آگ ادب سکھائے گی۔ کسی نے اس بیان کو سن کر اپنے  
دریافت کیا جس میں یہ پانچوں خصلتیں یا ان میں سے بعض ہوں تو  
کیا اس کے روزہ اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دیا جائے گا  
آپ نے جواب دیا روزہ اور وضو تو باطل نہ ہوگا لیکن یہ حکم بطریق  
نقصیت اور ڈرانے اور خوف دلانے کے ہے۔

اے غلام! شاید کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح  
زمین سے مفقود ہوا اور قبر میں موجود۔ یا شاید یہ دوسری ساعت ہی  
میں ہو جائے کل کا بھی کیا بھروسہ۔ یہ غفلت کیسی اور کیوں ہے؟  
تمہارے قلب کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ تم پتھر ہو تم کون ہو۔  
میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں اور دوسرے بھی لیکن تم ایک ہی حالت  
پر قائم ہو۔ تم پر قرآن اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور تم کو ان کی تیرپا  
سنائی جاتی ہیں افسوس تم میں تغیر پیدا نہیں ہوتا نہ تم بدلتے ہو اور  
نہ تم ڈرتے ہو اور نہ تمہارے عمل بدلتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کہ مجلس وعظ  
میں حاضر ہوا اور پھر نصیحت قبول نہ کرے پس وہ ہے توحامی جگہ میں

لیکن وہ خود بہت بُرا ہے۔

اے غلام! ہیرا اولیاء اللہ کو ذیل سمجھنا اس وجہ سے ہے کہ تجھے معرفت الہی کم ہے اس وجہ سے تو ان کامر بہنیں سمجھتا تو کہتا ہے کہ یہ رواداری کرتے ہیں ہمارے ساتھ معاشرت کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیرا الیا گنا اس وجہ سے ہے کہ تو اپنے نفس سے خود ہی جاہل ہے۔ جب تجھے خود اپنے نفس کی پہچان کم ہے تو آدمیوں کے مرتبہ جاننے میں بھی تیری کمی ہے تو غافل ہے تجھ کو جس قدر دنیا اور اس کے انجام کی معرفت کم ہوگی اسی قدر تو امرِ آخرت سے جاہل ہے گا اور تجھ کو جس قدر آخرت کی معرفت کم ہوگی اسی قدر تو حق عزوجل سے جاہل ہے گا اے دنیا میں مشغول ہونے والے عنقریب نقصان اور ندامتیں قیامت کے دن جو کہ نقصان کا دن اور رسوائی اور ندامتوں اور خسارہ کا دن ہے ظاہر ہوں گی تو اپنے نفس کا قیامت کے دن سے پہلے معاہدہ کرے۔ اللہ عزوجل کے علم سے اور اس کے کرم سے جو تجھ پر ہے دھوکہ نہ کھا تو گناہوں اور لغزشوں اور مظالم کی وجہ سے بہت بُری حالت پر قائم ہے گناہ کے فاصد میں جیسے کہ بخار موت کا قاصد تو موت آنے سے پہلے توبہ کرے قبل اس کے کہ ملک الموت روح نکالنے کو آئیں توبہ کر۔

اے جوانو! تم توبہ کرو کیا تم حق عزوجل کو نہیں دیکھتے کہ وہ بلا سے تمہاری آزمائش کرتا ہے تاکہ تم توبہ کرو مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی اور اس کے گناہوں پر اصرار کر رہے ہو۔ اس زمانے میں سوائے اٹاؤ کا مخصوص آدمیوں کے جس کی بھی آزمائش بلا سے ہو رہی ہے اس کے لیے آزمائش عذاب ہے نہ کہ نعمت گناہوں کی منزل ہے نہ درجوں اور کرامتوں کی زیادتی۔ اولیاء اللہ کی آزمائش اسی لیے ہے

وَهُوَ شَرُّ الْأَمَلِ

يَا غُلَامُ اسْمُهُ هَآئِكَ يَا وَلِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ مِنْ قَلَّةٍ مَعْرِفَتِكَ يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقُولُ  
هَؤُلَاءِ تَتَمَسَّحُونَ بِمَدِّ لَا يَتَعَيَّشُونَ مَعَنَا لِمَ لَا  
يَقْعُدُونَ مَعَنَا تَقُولُ هَٰذَا لِيَجْهَلَكَ بِنَفْسِكَ  
لَمَّا قَلَّتْ مَعْرِفَتُكَ بِنَفْسِكَ قَلَّتْ مَعْرِفَتُكَ  
يَا قَدَّرَ الْتَّاسِ عَلَى قَدَرٍ قَلَّةٍ مَعْرِفَتِكَ بِاللُّدُنْيَا  
وَعَاقِبَتِهَا تَجْهَلُ أَمْرَ الْآخِرَةِ وَعَلَى قَدَرٍ قَلَّةٍ  
مَعْرِفَتِكَ بِالْآخِرَةِ تَجْهَلُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
يَا مُشْتَغِلًا بِاللُّدُنْيَا عَنْ قَرِيبِ الْخُسْرَانِ وَ  
النَّدَامَاتِ عِنْدَكَ ظَاهِرَةٌ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ تَظْهَرُ نَدَامَاتُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
يَوْمَ التَّعَابِينِ يَوْمَ النَّصِيحَةِ يَوْمَ النَّدَامَاتِ  
وَالْخُسْرَانِ حَاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ مَرَجْعٍ  
الْآخِرَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِحَنِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ وَ  
كَرَمِهِ عَلَيْكَ أَنْتَ قَائِمٌ عَلَى أَسْوَأِ الْأَحْوَالِ  
مِنَ الْمَعَاصِي وَالزَّلَّاتِ وَطَلِيمِ النَّاسِ الْمَعَاصِي  
يُرِيدُ الْكُفْرَ كَمَا أَنَّ الْحَبِيْبَ يُرِيدُ الْمَوْتَ عَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ  
قَبْلَ الْمَوْتِ قَبْلَ يَحْيَى الْمَلِكِ الْمَوْكِلِ بِأَخْوَالِهِ وَأَحِبِّ  
يَا شَبَابُ تَوْبُوا أَمَا تَرَوْنَ الْحَقَّ عَزَّ  
وَجَلَّ يَبْتَلِيكُمْ بِالْبَلَاءِ حَتَّى تَتَوْبُوا وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْقِلُونَ وَتَضُرُّونَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَبْتَلِي أَحَدٌ  
فِي هَٰذَا الزَّمَانِ إِلَّا أَحَادُ أَفْرَادٍ وَلَكِنَّهُ  
نِعْمَةٌ لَا نِعْمَةً عَقُوبَةٌ لِلذَّنُوبِ لَا زِيَادَةٌ  
فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَرَامَاتِ الْقَوْمُ يُمْتَلُونَ

تاکہ رب تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجے بلند ہوں وہ ان کے ساتھ صبر کرتے ہیں کیوں کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات کو ہی چاہتے ہیں جب ان کی یہ آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو ان کی حکومت کامل ہو جاتی ہے اور اگر آزمائش ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ ابھی ہلاکت میں ہیں۔

اے اللہ! ہم ہلاکت نہیں چاہتے تیری نزدیکی اور تیری توجہ دنیا و آخرت میں قلب سے اور آخرت میں ظاہری اعمال سے چاہتے ہیں۔

اے قوم! اللہ عزوجل کی رحمت اور اس کی کائنات سے نائید نہ ہو کیوں کہ کائنات قریب ہے۔ نائید مست ہو صالح تو اللہ ہی ہے تو کیا جان سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بعد اور کوئی صورت پیدا کرے۔ بلا سے مت بھاگ مگر کہ بلا صبر کے ساتھ ہر بہرہ کی بنیاد ہے اور جڑ۔ نبوت و رسالت ولایت و معرفت الہی اور محبت کی جڑ بلا ہی ہے جب تو بلا پر صبر نہ کرے گا نیری جڑ اور بنیاد ہی نہ ہوگی عمارت کے لیے بغیر بنیاد بنا رہا نہیں ہوتی کیا تو نے کوئی گھرا یا دیکھا ہے جو کوڑا گھر ٹیلہ پر قائم ہو اس کی بنیاد نہ ہو تو بلا اور آفتوں سے اس لیے بھاگتا ہے کہ تجھے ولایت و معرفت اور قرب الہی کی حاجت نہیں ہے صبر کر اور عمل کو تازہ کرتا رہنا تاکہ تواسپتے قلب اور سر اور روح سے قرب الہی کے دروازہ تک پہنچنے لگے۔ عالم اور ولی اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں جو کہ رہنا اور پیغام کے پہنچانے والے ہیں اور اولیاء اللہ ان کے آگے آگے منادی کر رہے ہیں مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ وہ اس کے غیر سے توقع و امیداری کرتا ہے اس کے قلب و سر میں قوت عطا کر دی گئی ہے مومنین صادقین کے قلب اللہ کے ساتھ کیسے قوی نہ ہوں وہ تو

لَتَرْفَعَنَّ دَرَجَاتَهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ هُمُ الصَّابِرُونَ مَعَ رَبِّكَ لَا يَسْتَرْحِبُونَ وَجْهَهُ إِذَا تَخَرَّكَهُمْ هَذَا فَقَدْ تَمَّ لَهُمُ الْمُلْكُ وَإِذَا لَمْ يَتَمَّ لَهُمْ هَذَا اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ فِي هَلَكٍ۔

اللَّهُمَّ لَا هَلَكَ لَكَ نَسَاكَ الْقُرْبُ مِنْكَ وَالنَّظَرُ إِلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا يَقُولُونَ وَفِي الْآخِرَةِ بِأَعْيُنِنَا۔

يَا قَوْمُ لَا تَبْأَسُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَجِهِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ لَا تَبْأَسُ فَإِنَّ الصَّالِحِينَ اللَّهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لَا تَهْرَبُ مِنَ الْبَلَاءِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ مَعَ الصَّابِرِ أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ أَسَاسُ الشُّبُورَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْإِلَاحَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ الْبَلَاءُ فَإِذَا أَوَّ تَصَبَّرَ عَلَى الْبَلَاءِ فَلَا أَسَاسَ لَكَ لَا بَقَاءَ لِبَنَاءِ الْأَرْبَابِ إِنْ أَرَأَيْتَ بَيْتًا ثَابِتًا عَلَى مَرْبِكِ رَبُّكَ إِنْ كُنَّا تَقَرُّ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْأَفْكَاتِ لِكُؤْذِكَ لِحَاجَةٍ لَكَ فِي الْإِلَاحَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْبِرُوا عَمَلٌ حَتَّى تَسْرِي بِقَلْبِكَ وَبِرَبِّكَ وَمَوْجِكَ إِلَى بَابِ الْقُرْبِ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ الْعُلَمَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْأَبْدَالُ وَدَارُ الْإِنْبِيَاءِ الْإِنْبِيَاءُ السَّمَاوِيَّةُ وَهُوَ لَا الْمُنَادُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَخَافُ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَرْجُو غَيْرَهُ قَدْ أُعْطِيَ الْفَوْزَ فِي قَلْبِهِ وَبِسِرِّهِ كَيْفَ لَا تَكُونُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ قَرِيَّةً

يَا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَدْ اُسْرِيَ بِهَا الْيَهُدُ لَا تَزَالُ  
عِنْدَكَ الْقُلُوبُ عِنْدَكَ وَالْقَالِبُ فِي الْاَرْضِ  
قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَرَأَيْتُمْ عِنْدَنَا لَيْسَ الْمُصْطَفَيْنِ  
الْاَخْيَارُ هُ يُصْطَفَوْنَ عَلَى اَهْلَائِهِمْ وَ اَهْلُ  
رِمَابِهِمْ تَتَمَيَّزُ مَعَانِيهِمْ وَ تَتَنَوَّرُ مَبَانِيهِمْ  
وَلِهَذَا اخَارُوا الْخَلْقَ وَرَهَدُوا فِي الْمُلُوفَاتِ  
سَادُوا اِلَى قُدَامِهِمْ وَ كَبَتَ الْعُشْبُ وَ سَا اَتَهُمُ  
مَا بَقِيَ لَهُمْ رُجُوعًا اسْتَأْنَسُوا بِالْوَحْدَةِ اخْتَارُوا  
الْخَرَابَ وَ سَوَّاحِلَ الْبَحَارِ وَ الْبَرَارِىَ وَ  
الْبُقَاعَ لَا الْعُمَرَانِ يَأْكُلُونَ مِنْ بُقُولِ الصَّحَادَى  
وَ كَثَرُيُونَ مِنْ غُدْرَانِهَا يَصِيرُونَ كَالْوَحْشِ  
هَذَا لِكَ يَقْرَبُ قُلُوبَهُمْ وَ يُؤْنِسُهُمْ وَ تَوَقَّفَ  
مَبَانِيهِمْ مَعَ مَبَانِي الْمُرْسَلِينَ وَ  
الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ تَوَقَّفَ مَعَانِيهِمْ  
مَعَ لَا يَزَالُونَ وَ قُوتًا فِي الْخُرُوجِ  
لِيَلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ خُلُوعًا وَ سَرَاةً  
الْمُشْتَرِقِينَ وَ طَيْبَةً الْمُسْتَأْنِسِينَ يَا لِلّٰهِ  
عَزَّوَجَلَّ

يَا غَلَامُ لَا بُدَّ مِنَ الْحَلَاةِ مِنَ الْبَرَارَةِ  
وَالصَّلَاحِ مِنَ الْفَسَادِ وَالصَّفَاءِ مِنَ الْكُدْرِ حَيَانَ  
اَدَدَتِ الصَّفَاءُ الْكُلِّيَّ فَفَارَقَ بِقَدِّكَ الْخَلْقَ وَ  
وَاصِلُهُ بِالْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فَارِقَ الدُّنْيَا وَ دَعَا  
اَهْلَكَ وَ سَلَّمَ هُمْ اِلَى رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ وَ اَخْرَجَ  
قَلْبَكَ عُرْيًا نَاعِنَ الْكُلِّ وَ اقْرَبَ مِنْ بَابِ  
الْاَخِرَةِ ثُمَّ ادْخَلَهَا فَإِنَّ لَمَّا جَدَّ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ

اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے ہوئے ہیں وہ اسی کے پاس ہمیشہ رہتے  
ہیں صرف ان کا قالب بدن زمین میں ہے۔ اللہ عزوجل نے  
ارشاد فرمایا و انھم عندنا الایہ وہ ہمارے نزدیک البتہ  
برگزیدہ اور بہتر لوگوں میں سے ہیں وہ اپنے اہل اور اہل زمانہ سے  
برگزیدہ و منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے معنی متمیز اور الفاظ روشن  
ہوتے ہیں اور یہ اسی واسطے خلق سے جدا رہتے ہیں اور عزوجل  
چیزوں سے بے رغبتی کرتے ہیں یہ آگے قدم رکھتے ہیں اور  
سبزہ ان کے پیچھے سے آگے ان کے لیے لڑنے اور لڑنے  
ہونے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، تنہائی سے انس کرتے ہیں  
اور یہ دیرانے اور دریا کے کناروں اور جنگوں اور چٹیل میدان کو  
آبادی پر ترجیح دے کر اختیار کرتے ہیں۔ جنگ کی سبزیاں کھاتے  
ہیں اور ان کے حوضوں سے پانی پیتے ہیں یہ مثل و شیریں کے  
ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو قرب عنایت  
فرماتا ہے اور وہ ان کو اپنا منوس بنا لیتا ہے ان کے جسم ظاہری  
رسول اور صدیق و شہد کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں اور ان کا  
تعلق باطنی خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رات دن خدمت  
خداوندی میں خلوت میں ٹھہرتے ہیں۔ مشتاقوں کا آرام اور ان کے  
انس داری کی غوشی اللہ عزوجل کی معیت میں ہی ہے۔

اے غلام! شیرینی کے لیے کڑواہٹ، صلاح کے لیے  
فساد اور صفائی کے لیے میلان ضروری ہے۔ اگر تو پوری صفائی  
کا خواہشمند ہے تو قبل مخلوق سے علیحدہ ہو جا اور قلب کو  
حق عزوجل کے ساتھ ملا دے دنیا سے جدا ہو اور اپنے اہل کو  
چھوڑ اور ان کو اپنے رب عزوجل کو سونپ دے اپنے قلب  
کو ہر ایک سے برہنہ کجا ہو جا اور آخرت کے دروازے  
سے قریب ہو پھر اس کے اندر چلا جا پس اگر تو وہاں رب عزوجل

فِيهَا فَاخْرَجَ مِنْهَا هَارِبًا طَالِبًا لِلْعَرْبِ مِنْهُ  
 اِذَا وَجَدَتْ لَهَا وَجَدَتْ كُلَّ الصَّنَاءِ عِنْدَ  
 مَا يَفْعَلُ الْمُحِبُّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِهِ  
 الْجَنَّةُ دَارُ طَالِبِي الرِّاحَاتِ دَارُ التَّجَارِ  
 بَاعُوا الدُّنْيَا بِهَا وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنفُسُ وَتَكْتُرُ  
 الْاَعْيُنُ مَا ذُكِرَ الْقَلْبُ مَا ذُكِرَ السِّرُّ  
 مَا ذُكِرَ الْمَعْنَى الْجَنَّةُ لِلصُّوَامِ  
 التَّارِكِينَ الرَّاٰهِدِينَ فِي الشَّهَوَاتِ وَالذَّلَالَاتِ  
 بَاعُوا طَعَامًا بِطَعَامٍ بُسْتَانًا بِبُسْتَانٍ  
 دَارًا بِدَارٍ اُرِيدَ مِنْكُمْ اَعْمَالًا بِاَعْمَالٍ  
 كَلَامُ الْعَارِفِ الْعَامِلِ لِيُوجِبَ اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ سَنَدَانِ يَدَقُّ عَلَيْهِ وَهُوَ  
 يَنْطِقُ اَرْضُ نَيْسَبِي عَلَيْهِ وَيَتَبَرَّ وَيَبْدَلُ وَهُوَ اَخْرَسُ  
 الْقَوْمُ كَمَا يُبْصِرُونَ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَسْمَعُونَ  
 مِنْ غَيْرِهِ لَهُمْ جَنَانٌ يَلَا لِسَانَ هُمْ  
 فَاتُونَ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ لَا يَزَالُونَ  
 كَذَلِكَ وَاِذَا شَاءَ اللَّهُ اَنْشَرَهُمْ  
 جَعَلَ الْجَنَانَ لِسَانًا كَاللِّسَانِ مَجْبُورُونَ  
 يَأْخُذُهُمُ الْمَلِكُ الْبَيْهَ بِبِدَارٍ اَفْتِيَهُ  
 وَرَحْمَتِهِ يَصُورُهُمْ لَهُ وَيُنْشِرُهُمْ  
 لَهُ لَا يَغِيْرُهُ يَصْنَعُهُمْ لِنَفْسِهِ  
 كَمَا صَنَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 حَيْثُ قَالَ لَهُ وَاصْطَنَعْتُكَ  
 لِنَفْسِي هَذَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

کو نہ پائے تو آخرت سے قرب کو طلب کرتا ہوا بھاگ کر باہر  
 نکل آجیب تو خدا پالے گا تو اس کے نزدیک پوری صفائے  
 حاصل کر لے گا۔ خدا کے دوستدار کو غیر خدا سے کچھ سرکار ہی  
 نہیں ہوتا وہ غیر کو لے کر کیا کئے۔ جنت راحت طلبوں اور تاجرین  
 کا گھر ہے جنہوں نے دنیا کو جنت کے عوض فروخت کر دیا ہے  
 اور اسی واسطے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے اور جنت میں نفسوں کی  
 خواہشات سب موجود ہیں نیز آنکھوں کی لذتیں یہاں قلب و سر  
 اور معنی کا ذکر نہیں۔ جنت روزہ داروں کے لیے ہے  
 جو کہ شوائب دنیا کو چھوڑنے والے اور اخروی لذتوں کے خواہشمند  
 ہیں جنہوں نے کھانے کو عوض کھانے کے، باغ کو بدلہ باغ کے  
 گھر کو عوض گھر کے بیچ دیا ہے۔ میں تم سے اعمال کا طالب ہوں  
 نہ کہ گفت گو کا۔ وہ عارف جو کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عمل کرنے  
 والا ہے اس کی طرح ہے جس پر ہر وقت چوٹ دی جاتی ہے  
 لوہا گرم کر کے کوٹا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا وہ مارت تو زمین  
 کی مانند ہے جس پر آمد و رفت کی جاتی ہے اور تیر و تبدل کیا جاتا  
 ہے تمام تصرفات ہوتے ہیں اور وہ خاموش رہتی ہے۔ اہل اللہ  
 نہ اللہ کے سوا کسی کو دیکھیں اور نہ غیر اللہ کی بات سنیں۔ وہ بے زبان  
 دل کے ہیں وہ اپنی ذات اور انبیاء سے فانی ہیں اور ہمیشہ ایسے  
 ہی رہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو ظاہر کرنا پھیلا  
 دیتا ہے ان کے قلب کو زبان بنا دیتا ہے گویا وہ مخبر ہیں۔  
 ان کو بادشاہ اپنی طرف یدِ رافت و رحمت سے کھینچ لیتا ہے  
 اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی لیے بناتا اور پیدا کرتا ہے نہ کہ غیر کے  
 لیے وہ ان کو اپنے لیے دیا ہی مخصوص بنا لیتا ہے جیسا کہ اس  
 نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا اور ان کے غی میں فرما دیا اور اے موسیٰ!  
 میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے بنایا ہے اللہ کی مثل کوئی شے

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ جَعَلَ رَاحَةً يَلَا تَعَبٍ  
النَّسَاءُ يَلَا وَحْشَةً يَنْعَمُ يَلَا نَشَمَةً فَزَحَّهٖ يَلَا  
بُغْضَةً حَلَاوَةً يَلَا مَرَامَةً مُلْكًا يَلَا هُلْكَ  
هَذَاكَ الْوِلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقُّ مَنْ وَصَلَ إِلَى هَذِهِ  
الْحَالَةِ تَفَجَّهَتْ لَهُ الرَّاحَةُ وَالْعَامَّةُ مَا  
أَنْتَ عَلَيْهِ لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي الدُّنْيَا لَا تَهْجَا  
دَارَ الْكُذِبِ وَدَارَ الْأَفْوَاجِ لَا يَدُلُّكَ مِنَ الْخُرُوجِ  
مِنْهَا فَاعْيَلْ بِأَخْرَاجِهَا مِنْ قَلْبِكَ وَمِنْ  
يَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَاثْرُكْهَا فِي يَدِكَ وَ  
أَخْرِجْهَا مِنْ قَلْبِكَ فَإِذَا قَوَّيْتَ فَاخْرُجْهَا  
مِنْ يَدِكَ وَاعْطِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّائِلِينَ عِيَالِ  
الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَمَعَ ذَلِكَ مَالِكَ مِنْهَا لَا يَفُوتُكَ  
لَا يَدُّكَ مِنْ آثَانِهِ سَوَاءٌ كُنْتَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا زَاهِدًا أَوْ  
رَاغِبًا الدَّائِرَةُ عَلَى صِفَةِ قَلْبِكَ وَسِرِّكَ وَصِفَاتِهَا  
إِنَّمَا يَصِفُونَ بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْإِخْلَاصِ  
فِي الْعَمَلِ وَالصِّدْقِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ -  
يَا غُلَامُ! أَمَّا سَمِعْتَ تَفَقَّهُ ثُمَّ اعْتَزَلْ  
تَفَقَّهُ بِالْفَقْهِ الظَّاهِرِ ثُمَّ اعْتَزَلْ إِلَى الْفَقْهِ  
الْبَاطِنِ أَعْمَلْ بِهَذِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَكَ  
الْعَمَلُ إِلَى عِلْمِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلْ هَذَا الْعَمَلُ  
الظَّاهِرُ ضِيَاءُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنُ ضِيَاءُ  
الْبَاطِنِ هُوَ ضِيَاءُ بَيْنِكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ  
كُلَّمَا عَمِلْتَ بِعَمَلِكَ قَرَّبَتْ طَرِيقَكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
وَالسَّعْيُ الْبَابُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَأَرْفَعُ مَصْرَاعَ الْبَابِ الَّذِي يَخْصُصُكَ  
رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس نے راحت بلا تعب  
و مشقت اس بلا وحشت نعمت بلا عذاب فرحت بلا بغض حلاوت  
بغیر کڑواہن ملک بلا ہلاکت بنا دیا ہے۔ ولایت حق اللہ عزوجل  
کے لیے ہی ہے جو اس حالت پر پہنچ گیا اس نے جلد راحت  
لی آرام پا لیا اور لیکن اس حالت میں جس پر کہ توبہ سے دنیا میں راحت  
نہیں پاسکتا کیوں کہ دنیا جھوٹ اور آفتوں کا گھر ہے تیرے  
لیے اس سے ممکن ہی ضرور ہے تو اس کو اپنے قلب اور ہاتھ  
بلبل کر دینے کو لازم پکڑ۔ پس اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو دنیا کو اپنے  
ہاتھ میں چھوڑ دے اور اس کو اپنے قلب سے نکال دے پھر  
جب توفیق پالے پس دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ دے عیمدہ ہو جا  
اور فقرار و سائین کو جو حق عزوجل کی عیال ہیں دے دے بایں ہمہ  
اس سے جو تیرا حصہ ہے وہ فرت نہ ہوگا اس کا آنا ضروری ہے  
برابر ہے کہ تو غنی ہو یا فقیر زائد ہو یا راجع۔ معرفت الہی کا دار و در  
قلب و باطن کی صحت اور ان دونوں کی صفائی پر ہے اور ان کی صفائی  
علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے اور طلب  
حق میں سچائی پیدا کرنے میں ہے۔

اے غلام! کیا تو نے نہیں سنا کہ فقہ حاصل کر پھر گوشہ نشین  
بن اول فقہ ظاہری حاصل کر پھر فقہ باطن کی طرف متوجہ ہو اول اس  
فقہ ظاہر کے ساتھ عمل کر یہاں تک کہ یہ تجھ کو علم باطن کی طرف سے  
جس سے تو واقف نہیں ہے پہنچائے یہ ظاہری علم ظاہر کی روشنی  
ہے اور باطنی علم روشنی ہے باطن کی اور تیرے اور تیرے بیخ و بول کے  
درمیان ایک توبہ ہے تو اس دروائے سے جو تیرے اور تیرے رب تعالیٰ  
کے درمیان ہے وسیع کر اور اس دروائے کے بازو بلند کر  
جو تجھے مخصوص بنا دے۔

اے رب ہمارے! ہم کو دنیا و آخرت کی محکمیاں دے

اور عذابِ دوزخ سے بچا۔ آمین !

وَفَتْنَاعَذَابِ النَّارِ

## تیرھویں مجلس

## المجلس الثالث عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثِ شَاءَ  
عَشِيَّةً بِأَلَمٍ مَرَّسَةٍ رَابِعَةٍ ذِي الْقَعْدَةِ فِي  
سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ  
يَا غُلَامُ قَدْ مَ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا فَإِنَّكَ  
تَرَبُّحُهَا جَمِيعًا وَإِذَا فُتِنْتَ الدُّنْيَا عَلَى  
الْآخِرَةِ خَسِرْتَهُمَا جَمِيعًا عِقَابٌ لَكَ  
كَيْفَ اسْتَعْلَتَ بِهَا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ إِذَا لَمْ  
تَسْتَعِزَّ بِالدُّنْيَا أَمَّا كَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
بِالْمَعُونَةِ عَلَيْهِمَا وَرَمَزَ قَلْبَكَ التَّوَقُّفَ وَقَتَ  
الْأَخْذِ مِنْهَا وَإِذَا أَخَذْتَ مِنْهَا شَيْئًا وَضَعْتَ  
فِيهِ الْبُرْكَهَ الْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ لِدُنْيَاهِ وَآخِرَتِهِ  
يَعْمَلُ لِدُنْيَاهِ لَبَقْتَهُ بِقَدْرٍ مَا يُحْتَاجُ  
إِلَيْهِ يَقْنَعُهُ مِنْهَا كَرَادِ الرَّائِبِ لَا يَحْصُلُ  
مِنْهَا الْكَثِيرُ الْجَاهِلُ كُلُّ هَيْبَةٍ الدُّنْيَا وَالْعَارِفُ  
كُلُّ هَيْبَةٍ الْآخِرَةِ ثُمَّ الْمَوْلَى إِذَا حَصَلَ بَيْنَ  
يَدَايِكَ دَعِيفٌ مِنَ الدُّنْيَا وَتَامَ عَشْرُكَ  
نَفْسُكَ وَطَلَبْتَ الشَّهَوَاتِ فَانْظُرْ حَيْثُ عَمِلَ  
إِلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى كُسِيرَةِ قَائِلِهِ لَا فَلاحَ  
لَكَ حَتَّى تُبْغِضَ نَفْسُكَ وَتُعَادِيَ يَمَانِ  
جَانِبَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الصِّدِّيقُونَ يَعْرِفُونَ  
بَعْضَهُمْ بَعْضًا يَشْتَرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

منگل کے دن ۴ ذی قعدۃ الحرام ۱۰۷۵ھ  
کو مدرسہ قادریہ میں شام کے وقت ارشاد  
فرمایا :

اے غلام ! تو آخرت کو دنیا پر مقدم کر بہ تحقیق تو دونوں  
میں نفع پائے گا لیکن جب تو دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا  
تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا تیرے لیے عذاب ہوگا  
جس کا تجھ کو حکم نہیں دیا گیا اس میں تو کیوں مشغول ہوا جب  
تو دنیا میں مشغول نہ ہوگا تو خدا اس پر تیری مدد کرے گا اور اس  
کے حاصل کرنے کے وقت تجھ کو خبر داریں گے گا اور جب  
تو اس سے کوئی چیز لے گا اس میں برکت رکھ دی جائے گی  
مومن دنیا و آخرت دونوں کے لیے عمل کرتا ہے دنیا کے  
لیے اس کا عمل صرف بمقدار حاجت ہوتا ہے دنیا سے اس  
کو سوار کے توشہ کے مقدار قناعت کرتی ہے وہ دنیا سے  
زیادہ حاصل نہیں کرتا ہے جاہل کا مقصود کلی دنیا ہوتی ہے  
اور عارف کا مقصود کلی آخرت پھر مولیٰ تعالیٰ جب تیرے رب و  
دنیا سے ایک روٹی آجائے اور تیرا نفس تجھ سے جھکے اگر  
اور خواہشوں کی طلب کرے پس اس وقت تو اس کی طرف دیکھ  
جو کہ روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی قاصر نہیں ہے  
یقیناً جب تک کہ تو اپنے نفس سے دشمنی اور خدا کے مقابلہ  
میں اس سے عداوت نہ رکھے گا تیرے لیے فلاح نہ ہوگی  
صدیقین آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ان میں سے

رَاحَةَ الْقَبُولِ وَالصَّدَقِ مِنَ الْآخِرِ يَأْمُرُكُمْ  
عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ عَنِ الصِّدْقِ يَقِينٍ مَنْ  
يَعْبَادُهُ مُقْبِلًا عَلَى الْخَلْقِ مُشِيرًا كَأَمْرِهِمْ إِلَى  
مَتَى أَقْبَلَ لَكَ عَلَيْهِمْ أَيْشٌ يَنْفَعُونَكَ  
لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَلَا  
عَطَاءٌ وَلَا مَنَعٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  
سَائِرِ الْجَمَادِ احْتِ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى الضَّرَرِ  
وَالنَّفْعِ الْمَلِكُ وَاحِدٌ الصَّنَاءُ وَاحِدٌ  
التَّاجِعُ وَاحِدٌ الْمُحَرِّكُ وَاحِدٌ وَالْمُسْكِنُ  
وَاحِدٌ الْمُسَلِّطُ وَاحِدٌ الْمُسَجِّرُ وَاحِدٌ  
الْمُعْطِي وَالْمَانِعُ وَاحِدٌ الْخَالِقُ وَ  
الْمَارِقُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْقَدِيمُ  
الْأَزَلِيُّ الْآبِدِيُّ هُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ  
آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَعْنِيَاءِكُمْ هُوَ  
خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ  
وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ هُوَ السَّامِعُ عَلَيْكُمْ  
يَا خَلْقَ اللَّهِ مَا تَعْرِفُونَ خَالِقُكُمْ حَقٌّ مَعْرِفَتُهُ  
إِنْ كَانَ لِي فِي الْقِيَامَةِ شَيْءٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ لَأَحْمِلَنَّ أَثْقَالَكُمْ مِنْ أَوْ لَكُمْ إِلَى الْحَرَمِ  
يَا مُقَرَّبِي أَفْرَأُ عَلَى وَحْدِي مِنْ دُونِ أَهْلِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ مَنْ يَعْمَلْ يَعْملُ بِهِ  
صَاحِبِيْنَهُ وَيَبْنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَابًا يَدْخُلُ  
قَلْبُهُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَالِمُ مُشْتَعِلٌ  
بِالْقَالِ وَالْقَيْلِ وَجَمِيعِ الْمَالِ عَنِ الْعَمَلِ بِعَمَلِكَ

ہر ایک دوسرے سے قبولیت و سچائی کی خوشبو سونگتا ہے  
اے اللہ عز و جل اور اس کے صدیقین و نیک بندوں سے  
منہ موڑنے والے خلق کی طرف متوجہ ہونے والے، خدا کا شریک  
بنانے والے تیری توجہ ان کی طرف کب تک ہے گی اور وہ  
تجھے کیا نفع پہنچا سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں نقصان و نفع عطا  
و منع کچھ بھی نہیں ہے۔ نفع و نقصان کے متعلق ان میں اور عبادات  
میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بادشاہ ایک ہی ہے نفع نقصان پہنچا  
والا ایک ہی ہے۔ حرکت و سکون دینے والا ایک ہی ہے  
مسلط بنانے والا اور مسخر بنانے والا ایک ہی ہے۔ دینے  
والا اور منع کرنے والا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے  
والا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ عز و جل ہے وہی قدیم ازلی  
وابدی ہے وہی قبل خلق اور قبل تمہارے مال و باپ، اور  
دولت مندوں کے موجود تھا اور ہے وہی آسمان و زمین اور  
تمام ان چیزوں کا جو اس میں ہیں اور ان کے درمیان میں ہیں  
پیدا کرنے والا ہے اس کی مانند کوئی شے نہیں اور وہی شے  
والا دیکھنے والا ہے۔ تم پر اے مخلوق الہی سخت افسوس  
ہے کہ تم اپنے خالق کو جیسا کہ پہچانا چاہیے نہیں پہچانتے  
اگر قیامت میں اللہ کی طرف سے مجھے کچھ اختیار ملا تو البتہ  
تمہارے بوجھ اول سے لے کر آخر تک اٹھا لوں گا۔ اے  
قرآن پڑھنے والے آسمان و زمین والوں کو چھوڑ کر تمہارے  
روبرو قرآن پڑھ۔ میں اسے خوب سمجھتا ہوں جو کوئی علم شریعت  
پر عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک  
دروازہ کھل جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کا قلب بارگاہ  
الہی میں داخل ہو جاتا ہے اے عالم تو تو قیل و قال اور مال کے  
جمع کرنے میں مشغول ہے تو اپنے علم پر عمل سے غافل ہے۔



هَوَ الْاَنْ لَا تَكُلْ اِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدَلَيْنِ وَهُمَا  
الْكِتَابُ وَالشُّنَّةُ ثُمَّ اطْلُبْ شَاهِدَيْنِ  
اٰخَرَيْنِ وَهُمَا قَبْلُكَ وَفَعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  
اِذَا اَذِنَ الْكِتَابُ وَالشُّنَّةُ وَقَبْلُكَ الْمَرْطُورُ  
الرَّابِعَ وَهُوَ فَعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَا تَكُنْ  
كَحَاطِبِ الْبَيْلِ يَحْطُبُ وَلَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِيَدِهِ  
يَكُونُ الْخَالِقُ اَوْ الْخَلْقُ هَذَا شَيْءٌ كَرِيحِي بِالْخَلْقِ  
وَالْتَمَتِي وَالتَّكَلُّفِ وَالتَّصْنَعِ وَلَكِنْ هُوَ شَيْءٌ وَقَرَّ  
فِي الصُّدُورِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ اَيَّ عَمَلِ الْعَمَلِ  
الَّذِي اُمِرَ بِدِينِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى.

يَا غُلَامُ الْعَافِيَةُ فِي تَرْكِ طَلَبِ الْعَافِيَةِ  
وَالْعَافِيَةُ فِي تَرْكِ طَلَبِ الْغِي وَالذَّوْءِ فِي تَرْكِ  
طَلَبِ الذَّوْءِ كُلِّ الذَّوْءِ فِي التَّسْلِيمِ إِلَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَقَطْعِ الْأَسْبَابِ وَخَلْعِ الْأَكْرَبَابِ  
مَنْ حَيْثُ قَبْلُكَ الذَّوْءُ فِي تَوْحِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  
بِالْقَلْبِ لَا بِاللِّسَانِ وَحَسْبُ التَّوْحِيدِ وَالزُّهْدِ  
لَا يَكُونُ نَأْنٍ عَلَى الْجَسَدِ وَاللِّسَانِ التَّوْحِيدُ فِي  
الْقَلْبِ وَالزُّهْدُ فِي الْقَلْبِ وَالتَّقْوَى فِي الْقَلْبِ  
وَالْمَعْرِفَةُ فِي الْقَلْبِ وَالْعِلْمُ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي الْقَلْبِ وَمَحَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقَلْبِ وَ  
الْقُرْبُ مِنْهُ فِي الْقَلْبِ عَاقِلًا لَا تَهْوَسُ وَلَا  
تَتَصَنَّمُ وَلَا تَتَكَلَّفُ وَأَنْتَ فِي هَوَسٍ وَ  
تَصَنُّعٍ وَتَكَلُّفٍ وَكَيْدٍ وَرِيَاءٍ وَفِتَاقٍ  
كُلُّ هَذِهِ اسْتِجْلَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ أَمَا تَعْلَمُ  
أَنْتَ كُلَّمَا خَطَوْتَ بِقَدَمِكَ خُطْوَةً إِلَى الْخَلْقِ بَعْدَ الْحَقِّ

خواہش سے نہ کھا بغیر گواہی دو عادل گواہوں کے کہ وہ دونوں کتاب  
و سنت میں نہ کھا بعدہ دو دوسرے گواہ جو تیرا قلب اور فعل الہی  
ہے طلب کر۔ جب کتاب و سنت اور تیرا قلب اجازت نہ  
دیں اس وقت چوتھی چیز کا انتظار کر کہ وہ اللہ عزوجل کا فعل ہے۔  
رات کے وقت لکڑی جمع کرنے والے کی مانند بن کہ وہ لکڑیاں  
جمع کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے خالق  
یا مخلوق۔ یہ ایسی چیز ہے جو گوشہ نشینی اور آرزو اور تکلف و بناوٹ  
سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سینوں کے  
اندر قرار پکڑتی ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کوئی ناعمل وہ  
عمل جس سے ذات الہی کا ارادہ کیا گیا ہو نہ کہ غیر اللہ کا۔

اے غلام: عافیت و آرام عافیت کے طلب کرنے  
کے ترک میں ہے اور تو نگری طلب تو نگری کے ترک میں ہے  
اور دو طلب دوا کے ترک میں ہے۔ کامل دوا تو اپنے  
تمام معاملات کو عزوجل کی طرف حوالہ کر لینے اور سینوں سے  
قطع تعلق کر لینے اور بار و اجاب سے جدائی میں ہی ہے جو  
کہ قلب سے ہو۔ کامل دوا تو قلب سے اللہ عزوجل کو ایک جاننے  
میں ہی ہے نہ محض اقرار زبان سے۔ توحید و زہد دونوں ہم  
زبان پر نہیں ہوتے توحید بھی قلب میں ہوتی ہے اور زہد بھی قلب  
میں اور تقویٰ بھی قلب میں اور معرفت بھی قلب میں اور اللہ تعالیٰ  
کا علم بھی قلب میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی قلب میں اور قرب  
الہی بھی قلب میں تو عاقل بن اور ہوس نہ کر اور نہ تصنع و بناوٹ  
کر اور نہ تکلف کر تو تو ہوس و تصنع و تکلف اور جھوٹ  
اور مکاری و نفاق میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا مقصود کلی تو محض خلق  
کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جب تو اپنے  
قلب سے ایک قدم مخلوق کی طرف بڑھے گا اللہ عزوجل سے

تو دور ہو جائے گا تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں طالب حق ہوں  
 حالانکہ تو طلبِ گل اپنے بیسی مخلوق کا ہے تیرا قصہ ویسا ہی  
 ہے کہ ایک شخص نے کہا میرا مکہ معظمہ جانے کا قصد ہے اور  
 خراسان کی طرف متوجہ ہو کر چلا۔ پس مکہ سے دور ہو گیا تیرا دعویٰ  
 تو یہ ہے کہ تیرا قلب مخلوق سے علیحدہ ہے حالانکہ تو انہیں سے  
 دُور رہا ہے اور انہیں سے امیداری کرتا ہے تیرا ظاہر زہد ہے  
 اور تیرا باطن رغبت الی الخلق تیرا ظاہر حق عزوجل ہے اور تیرا  
 باطن خلق ہی خلق یہ ایسا امر ہے جو کہ زبان کی تیزی و گستاخ  
 سے حاصل نہیں ہر تباہی ایسی حالت ہے کہ جس میں نہ خلق ہے اور  
 نہ دنیا اور نہ آخرت اور نہ ماسوی اللہ عزوجل غلامہ کلام یہ ہے  
 کہ اللہ واحد و یکتا ہے جسے قبول کرتا مگر واحد کو ایسا واحد ہے  
 جو شریک کو قبول نہیں کرتا۔ وہی تیرے ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے  
 جو تجھ سے کہا جاتا ہے اس کو قبول کر خلق عاجز ہے وہ تجھے  
 نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ حق عزوجل ہی نفع و نقصان کو  
 ان کے ہاتھوں پر جاری کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کا فعل تجھ میں اور  
 ان میں تصرف کرتا ہے جو تیرے نفع و نقصان والی باتیں ہیں ان  
 پر علم الہی میں قلم جاری ہو چکا ہے جو لوگ کہ موجد و صلح ہیں وہ اللہ  
 کی باقی خلق پر رحمت ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دنیا سے  
 بحیثیت ظاہر و باطن ہر طرح الگ ہیں اور بعض وہ ہیں جو محض باطنی  
 حیثیت سے دنیا سے علیحدہ ہیں۔ اور ظاہر میں دولت مند دنیا دار  
 خالق عزوجل ان کے باطن پر ذرا سا بھی دنیا کا اثر نہیں دیکھتا،  
 ایسے ہی قلوب صاف و پاک ہیں جو اس پر قادر ہو جائے پس  
 تحقیق اس کو اللہ کی طرف سے بادشاہت عطا فرمادی گئی وہی  
 بہادر پہلوان ہے۔ بہادر وہی ہے جس نے اپنے قلب کو  
 ماسوی اللہ سے پاک بنایا اور اس کے دروازے پر توحید

عَزَّوَجَلَّ تَدْعِيْ اَنَّكَ طَالِبُ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
 وَاَنْتَ طَالِبُ الْخَلْقِ مِثْلُكَ مِثْلُ مَنْ قَالَ  
 اُرِيْدُ اَنْ اَمْضِيَ اِلَى مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلَى خُرَاسَانَ  
 فَبَعْدَ مِنْ مَكَّةَ تَدْعِيْ اَنْ قَلْبَكَ قَدْ خَرَجَ مِنَ  
 الْخَلْقِ وَاَنْتَ تَخَافُهُمْ وَتَرْجُوهُمْ ظَاهِرَكَ  
 الرَّهْدَاءُ بِاَصْنُكَ الْخَلْقُ هَذَا اَمْرٌ لَا يَجِيْءُ  
 بِفُلْقَةٍ اِلَّا سَانَ هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ فِيْهَا خَلْقٌ  
 وَلَا دُنْيَا وَلَا اٰخِرَةٌ وَلَا مَا سِوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ  
 فِي الْجُمْلَةِ هُوَ وَاحِدٌ وَلَا يَقْبَلُ اِلَّا وَاحِدًا  
 وَاحِدًا لَا يَقْبَلُ الشَّرِيْكَ فَاِنَّهُ يَدْبِرُ اَمْرَكَ  
 وَاَقْبَلُ مَا يَقَالُ لَكَ الْخَلْقُ عَجَزَةٌ لَا  
 يَصْنُرُوْنَكَ وَلَا يَنْقَعُوْنَكَ اِنَّمَا الْحَقُّ  
 عَزَّوَجَلَّ يَجْرِىْ ذٰلِكَ عَلَى اَيْدِيْهِمْ فَعَلَهُ  
 يَنْصَرِفُ فِيْكَ وَفِيْهِمْ جَدَى الْقَلَمِ فِيْ عِلْمِ  
 اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ  
 الْمُوْحِدُوْنَ الصَّالِحُوْنَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى  
 بَقِيَّةِ الْخَلْقِ مِنْهُمْ مَنْ يَّتَعَرَّى عَنِ  
 الدُّنْيَا مِنْ حَيْثُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَّتَعَرَّى عَنْهَا مِنْ حَيْثُ بَاطِنِهِ  
 فَحَسْبُ لَا يَرَى الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ عَلَى  
 بَوَاطِنِهِمْ مِنْهَا شَيْئًا تِلْكَ الْقُلُوْبُ  
 الصَّافِيَةُ مَنْ قَدَّرَ عَلَى هَذَا فَتَدْرُ  
 اُعْطِيَ الْمُلْكُ مِنَ الْخَلْقِ هُوَ الشُّجَاعُ  
 الْبَطْلُ الشُّجَاعُ مَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَمَا سِوَى  
 اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَوَقَفَ عَلَى بَابِهِ يَسِيْفُ

التَّوْحِيدَ وَصَهْ صَاهِمَةَ الشَّرْعِ لَا يُخَلِّى شَيْئًا  
 مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ يَدْخُلُ إِلَيْهِ يَجْمَعُ قَلْبُهُ مَقْلَبُ الْقُلُوبِ الشَّرْعُ  
 بِهِذِبُ الظَّاهِرِ وَالتَّوْحِيدُ الْمَعْرُوفَةُ يُهْدِي بَابَ الْبَاطِنِ وَالْعِلْمُ  
 بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَفِّقُ الْأَسْرَارَ عَلَى مَالِكِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ طَرِيقُ  
 يَا هَذَا ابْنِ قَالُوا وَقُلْنَا مَا يَحْيَىٰ شَيْءٌ  
 تَقُولُ هَذَا أَحْرَامٌ وَأَنْتَ مُرْتَكِبُهُ وَهَذَا  
 حَلَالٌ وَأَنْتَ لَا تَفْعَلُهُ وَلَا تَسْتَعْمِلُهُ  
 أَنْتَ هُوَسٌ فِي هُوَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَهُ قَالَ وَبِئْسَ لِلْجَاهِلِ  
 مَرَّةً وَلِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَبِئْسَ وَاحِدٌ  
 لِلْجَاهِلِ كَيْفَ لَمْ يُعَلِّمْ وَبِئْسَ وَاحِدٌ  
 لِلْجَاهِلِ كَيْفَ لَمْ يُعَلِّمْ وَبِئْسَ وَاحِدٌ  
 الْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَا تَهْتَدِي عَنْكُمْ وَمَا  
 عَمِلَ إِذْ تَفَعَّلَتْ عَنْهُ بَرَكَتُهُ الْعِلْمُ وَبَقِيَّتُ  
 عَلَيْهِ حُجَّتُهُ تَعَلَّمَ ثُمَّ أَعْمَلَ ثُمَّ انْفَرَدَ  
 فِي خَلْقِكَ عَنِ الْخَلْقِ وَاشْتَعَلَ بِمَحَبَّةِ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَذَاذَا صَاحِبُكَ الْإِنْفِرَادُ  
 وَالْمَحَبَّةُ قَرَّبَكَ إِلَيْهِ وَأَخَذَكَ مِنْهُ وَ  
 أَفْزَاكَ لَفِيهِ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ يُشِيرُكَ وَيُظْهِرُكَ  
 لِلْخَلْقِ وَيُرْزُكَ إِلَى اسْتِيفَاءِ الْأَقْسَامِ أَمَرَ  
 بِرَيْحٍ سَابِقَتِهِ وَعِصْمِهِ وَفِيكَ فَهَبَّتْ عَلَى جِبْطَانِ  
 خَلْقِكَ فَأَمَرَّتْ رِيحًا وَأَظْهَرَ أَمْرَكَ لِلْخَلْقِ  
 فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا بِهَ لَا يَبْلُغُ تَسْتَوِي فِي أَقْسَامِكَ  
 مَعَ عَدَامِ شُؤْمِ النَّفْسِ وَالطَّبْعِ وَالْهَوَىٰ يُرْزُكَ  
 إِلَى أَقْسَامِكَ لِئَلَّا يَبْطُلَ فَتَكُونُ عَلَيْهِ

اور شریعت کی تلوار ہے کہ کھڑا ہو گیا کسی کو مخلوقات میں سے  
 اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کے تمام  
 قلب میں مقرب القلوب ہی جلد فرماتے۔ شرع اس کے  
 ظاہر کو منہ بناتی ہے اور توحید و معرفت دونوں اس کے  
 باطن کو منہ بناتے ہیں اور حق عزوجل کا علم مالک ظاہر و  
 باطن پر اسرار ظاہر کر دیتا ہے۔ اے شخص اس قول میں کہ انہوں  
 نے یوں کہا اور ہم نے یہ کہا کوئی فائدہ نہیں۔ قال اقول چھوڑو  
 تو کہتا ہے کہ یہ فعل حرام ہے حلال کہ خود تو اس کا مرتکب ہے  
 تو کہتا ہے کہ یہ حلال ہے حالانکہ خود تو اس پر عامل نہیں اور  
 نہ اس کو کرتا ہے تو توازن تریا پا ہو کس ہی ہو کس ہے۔  
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جہل  
 کے لیے ایک تباہی یہی ہے کہ اس نے کیوں نہ سیکھا اور اس  
 عالم کے لیے سات تباہیاں ہیں کیوں کہ اس نے سیکھا اور عمل  
 نہ کیا اس عالم سے علم کی برکت اٹھ گئی اور اس پر حجت باقی رہی۔ اولاً  
 علم پڑھ پھر اس پر عمل کر خلق سے جدا کی اور محبت الہی میں مشغول  
 ہو جائیں جب تیری تمنائی و محبت درست ہو جائے گی اللہ تعالیٰ  
 تجھ کو اپنا مقرب بنالے گا اور تجھے اپنے سے نزدیک کر لے گا  
 اور اپنی ذات میں فنا کرے گا پھر اگر رب تعالیٰ تیری شہرت اور  
 تیرا خلق پر ظاہر کرنا اور تیرے اپنے مقسم کو حاصل کرنے کا ارادہ  
 فرمائے گا تو اپنے تقدیر سابق و علم کی ہوا کو حکم دے گا  
 وہ تیری خلوت کی دیواروں پر چلے گی اور ان کو ڈھائے گی اور تیرے  
 امر کو خلق کی طرف ظاہر فرمائے گا پس تو مخلوق میں اپنے ساتھ نہیں  
 بلکہ خدا کے ساتھ ہو گا اور تو اپنے مقسم کو بغیر شومی نفس اور بغیر  
 شومی طبیعت و ہوا کے حاصل کرے گا وہ تجھ کو تیرے مقسم  
 کی طرف اس لیے لٹاتا ہے تاکہ اس کا وہ قانون علم جو تیرے

متعلق سابق ہو چکا ہے باطل نہ ہو جائے تیرا اس مقصود کو حاصل کرنا  
حق عزوجل کی محبت میں ہوگا تیرا قلب اسی کے ساتھ ہوگا سنو  
پڑھو اور اس پڑھ کر دے اے حق عزوجل اور اولیاء اللہ سے  
جاہلو اور حق عزوجل اور اس کے اولیاء پر طعنہ کرنے والو  
حق عزوجل برحق ہے اور اے مخلوق تم باطل ہو حق قلب اسرار  
ومعانی میں ہے اور باطل نفس اور غرائض اور طبیعتیں اور عادتوں  
اور دنیا اور ماسوی اللہ ہے یہ قلب فلاح نہیں پاسکتا جب تک  
کہ وہ اللہ عزوجل کے قرب سے جو کہ قدیم ازلی، دائم وابدی  
ہے متصل نہ ہو۔ اے منافق تو مزاحمت نہ کر۔ پس کیا جو تیرے  
پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو تو روٹی اور سالن اور  
شیرینی اور کپڑوں اور گھوڑے کا بندہ ہے اور اپنے اقتدار کا  
سپا قلب خلق سے خالق کی طرف مسافرت کرتا ہے وہ بہت  
سی چیزیں راستہ میں دیکھتا ہے ان کو سلام کرتا ہوا گزر جاتا ہے  
علماء عاملین اپنے علم کے سبب اگلے عالموں کے نائب  
انبیائے کرام کے وارث ہیں اور بقیۃ السلف وہ ان کے  
پیشرو ہیں مخلوق کو شریعت کے شر میں عمل کرنے کا حکم دیتے  
ہیں اور اس کی ویرانی سے ان کو منع کرتے ہیں وہ اور انبیاء کرام  
علیم السلام قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں گے پس انبیاء  
کرام علیم السلام علماء کو ان کے رب سے پوری پوری ان کی مزدوری  
دلوایں گے حق تعالیٰ نے اس عالم کو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا،  
گدھے کے مثل فرمایا ہے ارشاد ہے کمثل الحمار  
الذیہ ان علماء کی مثال مثل ان گدھوں کے ہے جو اسفار کو  
لا دیتے ہیں۔ اسفار سے مراد کتب علم ہیں۔ علماء بے علم کو  
کتب علم سے سوائے مشقت و غم کے کیا حاصل ہوتا ہے  
ان کے ہاتھ کیا آتا ہے جس کو علم زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ

فَبِكَمْ كَسَبَتْ فِي الْأَفْسَامِ وَقَلْبِكَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ اسْمُ عَزَّوَجَلَّ اَيَا جُتْهَا لِرَبِّ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَ اُولِيَاءِهِ يَا طَاعِعِينَ فِي الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
جَلَّ ذِي اُولِيَاءِهِ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ  
وَالْبَاطِلُ اَنْتُمْ يَا خَلْقُ الْحَقُّ هُوَ فِي الْقُلُوبِ وَ  
الْاَسْرَارِ وَالْمَعَانِي وَالْبَاطِلُ فِي النَّفُوسِ وَ  
الْاَهْوِيَّةِ وَالطَّبَاعِ وَالْعَادَاتِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَمَا  
سِوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ هَذَا الْقَلْبُ لَا يَفْعَلُهُ  
حَتَّى يَتَّصِلَ بِقُرْبِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ الْقَدِيمِ  
الْاَدَلِيِّ الدَّائِمِ الْاَبَدِيِّ لَا تَزْأَحْمُ يَا مَنَافِقُ  
فَمَا عِنْدَكَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا اَنْتَ عَبْدٌ خُبْرَكَ  
وَ اَدَامَكَ وَ حَلَاوَتَكَ وَ تِيَابَكَ وَ فَرَسَكَ وَ  
سُلْطَانَكَ الْقَلْبُ الصَّادِقُ يُسَافِرُ عَنِ الْخَلْقِ  
اِلَى الْخَالِقِ يُرَى فِي الطَّرِيقِ الْاَنْبِيَاءُ يُسَلِّمُ  
عَلَيْهَا وَيَجُوزُ الْعُلَمَاءُ الْعُمَالُ بِعِلْمِهِمْ نَوَابِ  
سَلَفِهِمْ وَ رَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَ بَقِيَّةُ الْخَلَفِ هُمْ  
الْمَقْدَمُونَ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ يَا مُرَوِّعُهُم بِالْعَمَلِ فِي  
مَدِينَةِ الشَّرِّعَةِ وَيَهُوِّعُهُمْ عَنْ خَوَائِجِ مَعُونَةٍ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ وَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَسْتَوْفُونَ  
لَهُمُ الْاُجْرَةَ مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ وَقَدْ مَثَلَ اللَّهُ  
عَزَّوَجَلَّ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ بِالْحِمَارِ  
فَقَالَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا اَهُ الْاَسْفَارُ  
هِيَ كُتُبُ الْعِلْمِ هَلْ يَنْتَفِعُ الْحِمَارُ بِكُتُبِ  
الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُ بَيِّدَهُ مِنْهَا سِوَى التَّعَبِ وَ  
النَّصَبِ مَنْ اَرَادَ اَدْعِلْمَهُ يَنْبَغِي اَنْ

أَنْ يَزِيدَ إِذْ خَوْفًا مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَطَوَّاعِيَّتَهُ  
 لَهُ يَا مُدَّحِي الْعِلْمِ إِنَّ بَكَاءَكَ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ حَذْرَكَ وَخَوْفَكَ آيَاتُ  
 اعْتِرَافِكَ بِذُنُوبِكَ إِنَّ مَوَاصِلَتَكَ لِلصَّيِّئَاتِ  
 بِالظُّلَامِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ تَارِدِيَّتَكَ  
 لِنَفْسِكَ وَفُجَاءَتِكَ هَذَا فِي جَانِبِ الْحَقِّ وَ  
 عَدَاوَتِكَ فِيهِ أَنْتَ هَمَّتْكَ الْفَقِيصُ وَالْعَمَاءُ  
 وَالْأَكْلُ وَالنَّكَاحُ وَالزَّوَالُ وَالْكَارِئِينَ وَالْقُودُ  
 مَعَ الْخُلُقِ وَالْإِسْ بِهَمَّتْكَ عَنْ هَذِهِ  
 الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا فَإِنْ كَانَ لَكَ فِيهَا قِسْمٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ  
 فِي وَقْتِهِ وَقَلْبُكَ مُسْتَرْتَبٌ مِنْ نَعْبِ الْإِنْتِظَارِ  
 وَثِقَلِ الْحِرْصِ فَإِنَّ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَنَا  
 لَكَ وَهَذَا النَّعْبُ فِي شَيْءٍ مُنْزَوٍ وَمِنْهُ  
 يَا غُلَامُ خَلَقْتُكَ نَاسِدَةً مَا مَحَتَتْ  
 نَجِسَةً مَّا طَهَرْتُ أَيْشَ أَعْمَلُ بِكَ  
 قَلْبُكَ مَا مَحَتَتْ فِيهِ التَّوْحِيدُ وَ  
 الْإِخْلَاصُ يَا زَيْنًا مَا لَا يَنَامُ عَنْهُمْ  
 مُعْرِضِينَ لَا يُعْرِضُ عَنْهُمْ يَا نَاسِينَ  
 لَا يُنْسَوْنَ يَا تَارِكِينَ لَا يُتْرَكُونَ  
 يَا جَهْلًا لَا يَأْتِيهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَقَدَّمَ وَمَنْ تَأَخَّرَ  
 أَنْتُمْ كَخَشَبٍ مَمْدُودٍ نَجْرًا لَا يَحْصُلُ لَشَيْءٍ  
 رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ  
 فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ  
 النَّارِ

رب تعالیٰ سے خوف اور اس کی اطاعت زیادہ کرے اے  
 مدعی علم تیرا خوف الہی سے رونا کہاں ہے تیرا خوف و حذر کہاں ہے  
 تیرا گناہوں پر اقرار کرنا کہاں ہے تیرا اللہ کی اطاعت میں دن کو  
 رات سے ملا دینا کہاں ہے تو رات دن کب عبادت کرتا ہے  
 تیرا اپنے نفس کو ادب سکھانا اور حق تعالیٰ کے مقابلہ میں اس  
 سے بھاؤ کرنا اور اس سے عداوت رکھنا کہاں ہے تیری ہمت  
 تو تمیز اور عمامہ کھانا اور نکاح اور گھر اور دوکانیں اور مخلوق سے  
 جلسہ بازی اور ان سے اُٹھ کرنا ہے تو اپنی ہمت کو ان سب  
 چیزوں سے علیحدہ کرے۔ اگر ان میں تیرا تقدیری حصہ ہے  
 بیشک وہ اپنے وقت پر آجائے گا اور تیرا دل مشقت انتظار  
 اور حرص کی گرانی سے راحت میں ہوگا اور حق عزوجل کی ہمت  
 میں قائم۔ تجھ کو اس چیز میں مشقت اٹھانے سے کیا حاصل  
 جس سے فراغت ہو چکی ہے۔

اے غلام! تیری خلوت فاسد ہے صبح نہیں ہوئی نجس ہے  
 پاک نہیں ہوئی تیرے قلب نے جب کہ اس کا اخلاص توحید  
 ہی درست نہ ہوا تیرے ساتھ کیا کیا۔ اے ایسے سونے  
 والو جن سے غفلت نہ کی جائے گی۔ اے ایسے اعراض کرنے  
 والو جن سے کہ اعراض نہ کیا جائے گا۔ اے ایسے بھول جانے  
 والو جن بھلائے جاؤ گے۔ اے وہ چھوٹنے والو جن چھوٹے  
 جاؤ گے۔ اے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 اور انگوٹھوں سے جاہلو! تم تو مثل پرانی کٹی ہوئی لکڑی کے  
 ہو جو کچھ فائدہ نہ کرے سوچو اس بنصلو!

اے رب تو ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائیوں سے  
 اور دوزخ کے عذاب سے بچا !  
 آمین !

## الْمَجْلِسُ الرَّابِعُ عَشَرَ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَكْرَةً  
بِالْمَدْرَسَةِ سَابِعِ ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ ثَمَانِ  
وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ

يَا مَنَافِقُ طَهَّرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

مِنْكَ مَا يَكْفِيكَ نِفَاقُكَ حَتَّى تَغْتَابَ الْعُلَمَاءَ  
وَالْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ تَأْكُلُ لَحُومَهُمْ  
أَنْتَ وَإِخْوَانُكَ الْمَنَافِقُونَ مِثْلَكَ عَنْ قَرِيبٍ  
يَأْكُلُ الدِّيدَانُ أَلْسِنَتَكُمْ وَلَحُومَكُمْ وَتَقَطِّعُكُمْ  
وَتَبْرِقُكُمْ وَالْأَرْضُ تَصْطَلِكُمْ فَتَنْسَحِقُكُمْ وَ  
تَقْلَبُكُمْ لَا فَلَاحَ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَيَعْبَادِيهِ الصَّالِحِينَ وَيَتَوَاضَعُ  
لَهُمْ لِمَا لَا تَتَوَاضَعُ لَهُمْ وَهُمْ الرُّؤْسَاءُ وَالْأَهْوَاءُ  
مَنْ أَنْتَ بِإِلْضَافَةِ الْيَرَمِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَقَدْ سَلَّمَ الْحَلَّ وَالرُّبْطَ الْيَرَمِ بِهِمْ تَنْظُرُ السَّمَاءُ  
وَتُنْصِتُ الْأَرْضُ كُلُّ الْخَلْقِ رِعِيَّتِهِمْ كُلُّ  
وَاحِدٍ كَالْجَبَلِ لَا تُزْعِجُهُ وَلَا تُحَرِّكُهُ رِيَا حُ  
الْأَفَاتِ وَالْمَصَائِبِ لَا يَتَزَعَّجُونَ مِنْ  
أَمْكِنَةٍ تَوْحِيدِهِمْ وَرِضَاهُمْ عَنْ مَوْلَاهُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ طَالِبِينَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِغَيْرِهِمْ تَوَلَّوْا  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتَدُوا إِلَيْهِ وَ  
اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَ  
نَصَرُوا أَبْنَاءَ يَدَايِهِ أَيْشَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ لَوْ

## چودھویں مجلس

۱۲۵ھ ہجری المقدس کو جمعہ  
کے دن صبح کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد

فرمایا :

اے منافق ! اللہ تعالیٰ تجھے پاک کرے کیا تیرے لیے  
تیرا نفاق کافی نہیں کہ تو علماء و اولیاء اور صلحا کی غیبتیں کرتا ہے  
ان کے گوشت کھاتا ہے عنقریب تیری ادنیٰ ترے بھائی تجھ  
جیسے منافقوں کی زبانوں اور گوشت کو کھڑے کھالیں گے اور  
ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور زمین تم کو بھیج ڈالے گی اور پس  
ڈالے گی اور چور چور کر ڈالے گی جو لوگ اللہ عزوجل اور اس  
کے نیک بندوں کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھتے اور ان کے  
لیے متواضع نہیں ہوتے ان کے لیے فلاح و نجات نہیں رہے تو  
امیر دین میں پھر تو ان کے لیے متواضع کیوں نہیں ہوتا تو تو ان  
کے نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ حق عزوجل نے ان کو مل و عقد  
انتظام عالم سپرد کر دیا ہے انہیں کی برکت سے آسمان مینہ  
برساتا ہے اور زمین سبزہ لگاتی ہے تمام مخلوق ان کی رعیت  
ہے ان میں سے ہر ایک مثل پہاڑ کے ہے جس کو آفتوں اور  
مہیبتوں کی ہوائیں جنبش نہیں دے سکتی وہ مقام توحید اور  
رضائے الہی سے قطعاً جنبش نہیں کرتے ہیں راضی ہر ضابطے  
ہیں رضائے الہی کے اپنے اور دوسروں کے لیے طلب گار بنے  
ہوئے ہیں تم اللہ عزوجل کی طرہ تو بہ کرو اور معذرت کرو اور جو  
گناہ تمہارے اور اس کے درمیان میں ہیں ان کا اقرار کرو اور  
اس کے روبرو عاجزی کرو تمہارے آگے کیا ہے اگر تم اس کو

عَرَفْتُمْ لَكُمْ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ تَأَذُّبُوا  
بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ كَمَا كَانَ يَتَأَذَّبُ  
مَنْ سَبَقَكُمْ أَنْتُمْ مَخَاضِيئُ وَنِسَاءُ بِإِصْطِفَاءِ  
إِلَهِكُمْ شَجَاعَتُكُمْ عِنْدَ مَا نَأْمُرُكُمْ بِهِ نَفُوسُكُمْ  
وَأَهْوِيَّتُكُمْ وَطَبَاعُكُمْ الشَّجَاعَةُ فِي الدِّينِ  
تَكُونُ فِي فِضَاءِ حُقُوقِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ  
لَا تَسْتَهْزِئُوا بِكَلِمَاتِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ  
فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ وَكَلِمَاتُهُمْ شَرٌّ وَرَحَى  
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَكُمْ بَيِّنٌ مَوْجُودٌ  
يُصَوِّرُهُ حَتَّى تَتَّبِعُوهُ فَإِذَا اتَّبَعْتُمُ الْمُتَّبِعِينَ  
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَقِّقِينَ  
فِي اتِّبَاعِهِ فَكَانَتْ مَا قَدْ اتَّبَعْتُمُوهُ وَ  
إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَكَانَتْ مَا قَدْ رَأَيْتُمُوهُ  
إِصْحَابُوا الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ  
لَهُمْ بَرَكَهٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تَصْحَبُوا الْعُلَمَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ يَعْلَمُهُمْ فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ  
لَهُمْ شُرٌّ عَلَيْكُمْ إِذَا صَحِبْتُمْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ  
مِنْكَ فِي السِّنِّ وَلَا تَقْوَى لَهُ وَلَا عِلْمَ لَهُ  
كَانَتْ صُحْبَتُكَ لَهُ شُرٌّ مَا عَلَيْكَ أَعْمَلُ  
لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَعْمَلْ لِغَيْرِهِ أَنْ تَرْكُ  
لَهُ وَلَا تَتَّكِلْ لِغَيْرِهِ أَلْعَمَلُ لِغَيْرِهِ كُفْرٌ  
وَالْتَّكِلُ لِغَيْرِهِ رِيَاءٌ مَنْ لَا يَعْرِفُ هَذَا  
وَيَعْمَلُ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ فِي هَوَسٍ عَنْ  
قَرِيبٍ يَأْتِي الْمَوْتَ يَفْظُطُ هُوَ سَاءُ

پہچان لیتے تو موجودہ حالت پر نہ ہتے اور حالت پر ہوتے۔  
اللہ عزوجل کے روبرو وہی ادب کر دے اگلے لوگ ادب  
کیا کرتے تھے۔ تم بمقابلہ ان کے مختل (بیچرے) اور عورتیں  
ہو۔ تمہاری بہادری اس وقت ہے جب تم کو تمہارے نفس  
اور خواہشیں اور تمہاری طبیعتیں حکم دیں۔ دین کی بہادری اللہ عزوجل  
کے حقوق ادا کرنے میں ہے تم حکمران و علمائے کلام کی اہانت  
نہ کرو کیونکہ ان کا کلام دوا ہے اور ان کے کلمات وحی الہی کا  
نتیجہ و خلاصہ ہیں۔ تمہارے درمیان میں صورتہ کوئی نبی موجود نہیں ہے  
تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ پس جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے  
متبعین کی اتباع کرو گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں حقیقتاً  
ثابت قدم ہیں پس گویا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کر  
لی۔ اور جب تم نے ان کو دیکھ لیا تو گویا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
کو ہی دیکھ لیا۔ تم منتہی عالموں کی صحبت میں رہو کیونکہ اس میں تمہارا  
یہ برکت ہے اور جو عالم کہ علم پر عمل نہیں کرتے ان کی صحبت اختیار  
نہ کرو کیونکہ ان کی صحبت میں تمہارے لیے بدبختی ہے جب تو  
ایسے شخص کی صحبت میں رہے گا جو تجھ سے تقویٰ اور علم میں بڑا ہے تو  
ان کی مصاحبت تیرے لیے موجب برکت ہوگی اور جب تیرے لیے  
شخص کی صحبت میں رہے گا جو تجھ سے عمر میں تو بڑا ہے لیکن اس میں  
تقویٰ و علم نہیں ہے تو اس سے تیری مصاحبت تیرے لیے بدبختی  
کا سبب ہوگی تو جو کچھ عمل کرے اللہ عزوجل کے لیے کرے، نہ  
اس کے غیر کے لیے اور جو چھوڑے اسی کے لیے چھوڑے نہ کہ  
اس کے غیر کے لیے تیرا عمل غیر اللہ کے لیے کفر ہے اور تیرا  
غیر اللہ کے لیے چیز کا چھوڑنا یا کاری ہے جو اس کو نہ پہچانے اور  
غیر اللہ کے لیے عمل کرے پس وہ ہوس میں مبتلا ہے غمگین  
موت آئے گی اور تیری ہوس کو قطع کر دے گی۔

وَيَحِلَّ دَاوُدُ رَبَّكَ عَزَّوَجَلَّ وَ  
قَاتِلُهُ غَيْرُهُ مِنْ حَبِثُ قَلْبِكَ قَالَ الَّذِي صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ  
رَبِّكُمْ تَسْعُدُوا أَصْلُوهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ  
عَزَّوَجَلَّ يَحْفَظُ قُلُوبَ الصَّالِحِينَ

يَا غُلَامُ إِن وَجَدْتُ عِنْدَكَ تَقَرُّفَةً  
بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْفَقْرِ عِنْدَ اقْتِبَالِهِمْ عَلَيْكَ فَلَا  
فَلَاحَ لَكَ إِكْرَامُ الْفَقْرِ أَمْ الضُّبُرُ وَالْتِبَرُ لَكَ بِهِمْ  
وَيَلِفَاتِهِمْ وَالْجُلُوسُ مَعَهُمْ قَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَقْرُ أَمْ الضُّبُرُ جَلَسَاءُ الرَّحْمَنِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ جَلَسَاءُ الْيَوْمِ يَقُولُ بِهِمْ وَفَدَا بِأَجْسَادِهِمْ  
هُمُ الَّذِينَ زَهَدَتْ قُلُوبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَعْرَضَتْ  
عَنْ زِينَتِهَا وَاحْتَارُوا فَقَرَّهُمْ عَلَى غِنَاهُمْ وَ  
صَبَرُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا تَرَوْا هَذَا خَاطَبَهُمُ الرَّحْمَنُ  
وَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِمْ فَاتَّصَلُوا بِهَا فَكَلَّمَا  
حَصَلَتْ لَهُمْ مَا أَوْتَاهَا غَيْرُ مَا يَرِيهِمْ عَزَّوَجَلَّ  
فَاسْتَقَالُوا مِنْهَا وَذَارُوا ظُهُومَهُمْ قُلُوبُهُمْ إِلَيْهَا  
وَهَرَبُوا مِنْهَا حَيَاءً مِنَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ كَيْفَ  
وَقَفُّوا مَعَ غَيْرِهِ وَسَكَنُوا إِلَى الْمُحَدَّثِ وَ  
اسْتَأْنَسُوا بِهِ سَكَنُوا إِلَيْهَا الْأَعْمَالُ وَ  
الْحَسَنَاتُ وَجَدِيَّةٌ مَا عَمِلُوا مِنْ  
الطَّاعَاتِ شَمَّ طَارُوا إِلَيْهِ بِأَجْنَحَةِ صِدْقِهِمْ  
فِي طَلَبِ مَوْلَاهُمْ عَزَّوَجَلَّ تَرَكُوا عِنْدَهَا  
الْغَفَصَ خَرَجُوا مِنْ أَفْقَاصٍ وَجُودِهِمْ وَطَارُوا

تجربہ پر انوس! تو قلب کے ساتھ اپنے پورے دگر و گرد  
حل سے تعلق جوڑے اور غیر اللہ سے قطع کرے نبی صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تعلق تمہارے اور تمہارے رب کے  
درمیان ہے اسے جوڑو سعادت پاؤ گے اور اس علاقہ کو جو  
تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے ساتھ حفاظت قلوب  
صالحین کے اختیار کرو۔

اے غلام! اگر تو غنی اور فقیر کے آنے کے وقت اپنے  
میں کوئی جدائی پائے تو تیرے لیے فلاح نہیں دونوں سے  
برابری کے ساتھ مل کر اکرام فقر اور کامیابی سے برکت  
لینا اور ان کی ملاقات کو متبرک سمجھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صابر فقیر قیامت کے دن خدا کے  
ہمنشیں قبول سے ہیں اور گل اپنے اجسام سے اس کے تنہا  
ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب نے دنیا میں زہد کیا اور دنیا  
کی زینت سے روگردانی کی اور اپنے فقر کو امیری پر اختیار کیا، اور  
اس پر صابر ہوئے۔ پس جب ان کی یہ حالت کامل ہوگئی۔ آخرت  
نے ان کو پیغام دیا اور اپنا نفس ان پر پیش کیا اس وقت یہ آخرت  
سے جا ملے۔ بعد ازاں جب ان کو آخرت سے ملاقات ہوئی اور  
یہ معلوم کر لیا کہ وہ بھی غیر اللہ ہے پس اس سے واپسی کر لی۔  
اور اپنے قلب کی پیٹھ کو اس کی طرف پھرا دیا اور حق عزوجل سے  
حیا کر کے آخرت سے بھاگے۔ یہ غیر رب کے ساتھ کیسے ٹھہر  
سکتے اور حادث چیزوں کے ساتھ کیسے رہتے اور اس سے  
کیسے مانوس ہوتے۔ تمام اعمال اور حسنات اور تمام طاعتوں کو  
آخرت کے حوالے کر کے سچائی کے بازوؤں سے اپنے مولیٰ  
کی طلب میں پرواز کر آئے۔ آخرت کے پاس پنجرہ چھوڑ دیا اور  
یہ اپنے وجود کے پنجروں سے نکل کر اپنے پیدا کرنے والے کی

إِلَى مُوْجِدِهِمْ طَلِبُوا الرَّفِيقَ الْأَعْلَى طَلِبُوا الْأَوَّلَ  
وَالْآخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ صَادُوا إِلَى بُرْجِ قُرْبِهِ  
صَادُوا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهِمْ  
وَأَنَّهُمْ عِدْدٌ نَالِكِينَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ قُلُوبُهُمْ  
عِنْدَنَا هَيِّمَةٌ عِنْدَنَا وَمَعَانِيْرُهُمْ عِنْدَنَا الْبَابُ  
عِنْدَنَا دُنْيَا وَآخِرَةٌ إِذَا نَقَضْتَ هَذَا الْقَوْمَ لَا يَأْتِي  
عِنْدَهُمْ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٌ تَطْطَوِي السَّمُوتُ وَ  
الْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا يَا لِرِصَافَةِ رَأْيِ قُلُوبِهِمْ وَ  
أَسْرَارِهِمْ يُفْهِدُهُمْ عَنْ غَيْرِهِ وَيُوجِدُهُمْ بِهِ فَإِنْ  
كَانَ لَهُمْ أَقْسَامُ فِي الدُّنْيَا رَدُّهُ إِلَى الدِّمِيتِيَّةِ وَ  
وَبَشَوْرَتِهِمْ لِرِسْتِيْعَاءِ أَقْسَامِهِمْ كَيْلًا يَبْدِلُ الْعِلْمُ  
وَالشَّيْءُ وَالْفَضَاءُ فَيُحْسِنُونَ الْأَدَبَ مَعَ عِلْمِ  
اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَتَدْرِيهِ وَنَتْنَا وَلَوْ مَا يُعْطُونَ  
عَلَى قَدَامِ الزُّهْدِ وَالْتَرَكِ لَا يَنْفُسُ وَهَوًى وَلَا إِدَاةً  
وَالْحُكْمُ الظَّاهِرُ مَحْفُوظٌ عِنْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ  
لَا يَبْخُلُونَ عَلَى الْحَقِّ بِالدُّنْيَا وَلَوْ قَدَرُوا أَقْرَبَهُمْ  
كَلَامُهُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَبْقَى بَشْيٌ مِنْ  
الْمَخْلُوقَاتِ وَالْمُحْدَثَاتِ فِي قُلُوبِهِمْ وَزُنْ  
ذَرَّةٍ مَادُمَتْ مَعَ الدُّنْيَا فَلَا إِيْصَالَ لَكَ بِالْآخِرَةِ  
وَمَا دُمَتْ مَعَ الْآخِرَى فَلَا إِيْصَالَ لَكَ  
بِالْمَوْلَى كُنْ عَامِلًا لَا تَتَجَاهَلَ أَنْتَ مِمَّنْ  
أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْدٍ مِنْ جُمْلَةِ مُوَاصِلَةِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَوَاصَلَ الْفَقْرَاءَ بِبَشْيٍ مِنْ  
مَالِكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ مُعَامَلَةٌ مَعَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُوَ عَنِّي كَرِيْمٌ وَهَلْ

طرت پر واکر آئے اور رفیقِ اعلیٰ کے طلب کیا ہوئے۔ اول و آخر  
ظاہر و باطن کو طلب کیا اور اس کے قرب کے برج میں جگہ لی  
اور ان لوگوں سے ہو گئے جن کے پاس ہے میں اللہ عزوجل نے  
ارشاد فرمایا و انھم الایۃ اور بیشک وہ میرے نزدیک اچھے  
منتخب لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے قلوب اور ان کی ہمتیں اور ان  
کے اسرار اور ان کی عقلیں دنیا و آخرت میں ہمارے ہی پاس ہیں  
جب اہل اللہ کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے تو ان کے نزدیک نہ دنیا رہتی ہے  
ہے اور نہ آخرت۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان  
میں ہے ان کے قلوب و اسرار کی بہ نسبت پسٹ دیا جاتا ہے  
اللہ تعالیٰ ان کو غیر سے فنا کر کے اپنی ذات میں موجود کر لیتا ہے  
ان کو فنا سے بقا کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ پھر اگر ان کے لیے دنیا کی  
حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ لینے کے لیے خدا نے تعالیٰ ان کو اوت  
و بشریت کی جانب پھیر دیتا ہے تاکہ علم و سابقہ و قضاے الہی  
تبدل نہ ہو جائے اس وقت وہ علم و قضا و قدر الہی کے ساتھ  
اچھا ادب کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملتا ہے اس کو نہ ترک  
کے قدم پر چل کرے لیتے ہیں نہ ساتھ نفس و خواہش و ارادہ کے  
اور ظاہری حکم ان کے نزدیک تمام حالتوں میں محفوظ رہتا ہے  
وہ دنیا کے ساتھ مخلوق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو قدرت  
مل جائے تو وہ سب کو مقرب الہی بنا دیں۔ ان کے دلوں میں  
مخلوقات و حادثات چیزوں میں سے کسی چیز کی ذرہ برابر نہیں  
رہتی جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کے ساتھ اتصال  
نصیب نہ ہوگا تو عقلمند ہوشیار بن جاہل نہ بن لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ  
نے علم کی وجہ سے گمراہ بنا دیا۔ قدسے فقر کے ساتھ مال سے سلوک  
کرنا منجھ مواصلت الہی کے ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ صدقہ دینا،  
حق عزوجل کے ساتھ جو کہ غنی و کریم ہے معاملہ کرنا ہے، اور آیا

وہ جو غنی و کریم سے معاملہ کرے گا خدائے میں بہتے گا بہرگز نہیں تو اللہ عزوجل کے راستہ میں ایک ذرہ خرچ کر دے تبھی ایک پہاڑ عطا کر دے گا۔ تو اس کے راستہ میں ایک قطرہ دے وہ تبھی دریا بخش دے گا۔ وہ تبھی دنیا و آخرت میں عطا سے سرفراز کرے گا وہ تیرا بدلہ اور تیرا ثواب پورا کر دے گا۔

اے قوم! جب تم حق عزوجل سے معاملہ کرو گے تمہاری کھیتیاں بڑھیں گی اور تمہاری نہریں بہ نکلیں گی اور تمہارے درختوں میں پتے آئیں گے اور شاخیں نکلیں گی اور پھل نکلیں گے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور دین الہی کے مددگار بنو اور اس کے دشمنوں سے عداوت رکھو۔ صدیق جو کہ خدا کے ساتھ ملو کاری میں سچائی برتنا ہے اس کی صداقت، خلوت و جلوت اور خوشی اور مصیبت اور سختی اور نرمی میں ہمیشہ یاد رہا کرتی ہے۔ ہم اپنی حاجتوں کو حق عزوجل سے ہی طلب کیا کرو نہ کہ اس کی مخلوق سے اور اگر مخلوق سے طلب ضروری ہو تو تم حق عزوجل پر اپنے دلوں سے داخل ہو جاؤ۔ دل اسی کی طرف متوجہ کر دو۔ پس البتہ وہ تم کو بہتوں میں سے کسی خاص بہت سے طلب کرنے کا اہم کر دے گا۔ بعد اس طلب پر اگر تمہیں منع کر دیا جائے یا طلب پوری کر دی جائے تو وہ منجانب اللہ ہو گی نہ کہ مخلوق کی طرف سے اہل اللہ نے اپنی سوز کی فکر دلوں سے نکال ڈالی ہے یہ بات جان لی ہے کہ وہ اوقات معینہ میں مقدر ہے ضرور ملے گی اس کی طلب چھوڑ دی ہے اور اپنے مالک کے دروازہ پر وطن بنالیا ہے۔ اللہ عزوجل سے فضل اور اس کے علم اور اس کے قرب کی وجہ سے ہر شے سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ پس جب ان کو یہ ترہل گیا وہ مخلوقات کے قبلہ بن گئے اور مخلوق کے لیے ان کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کے واسطے خلیف بن گئے، اپنے قلوب کے ہاتھوں

يَعَامِلُ الْغَنَى الْكَرِيمَ مَنْ يَحْسَرُ تَنَفُّقُ  
يُوجِبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذِمَّةً يُعْطِيكَ جَبَلًا  
تَنْفُقُ قَطْرَةً يُعْطِيكَ بَحْرًا فِي الدُّنْيَا وَ  
فِي الْآخِرَةِ يُوفِيكَ أَجْرَكَ وَ  
ثَوَابَكَ

يَا قَوْمُ إِذَا عَامَلْتُمُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
يُزَكِّكُمْ مَزَارِعَكُمْ وَتَجْرِي أَنْهَارُكُمْ وَيُورِقُ  
وَيُغْصِنُ وَيُشْمِرُ أَشْجَارُكُمْ مُزَوَّابًا لِمَعْرُوفٍ  
وَالنَّهْوِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْصَرُّوا دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَعَادُوا فِيهِ الصِّدِّيقُ مَنْ يُصَادِقُهُ  
فِي الْخَيْرِ تَدْوِمُ صِدَاقَتُهُ فِي الْخُلُوعِ وَ  
الْجُلُوعِ فِي الشَّرَاءِ وَالصِّرَاءِ فِي الشَّدَاةِ  
وَالزَّخَاءِ أَطْلُبُوا حَوَائِجَكُمْ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ لَا مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ وَكَانَ  
بَدَا مِنْ الْخَلْقِ فَإِذَا خَلُّوا عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ يَقُولُوا بِكُمْ فَإِنَّهُ يُلْهِمُكُمْ الظَّلَبَ مِنْ  
بِحَمَّةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَإِنْ مُنِعْتُمْ أَوْ  
أَعْطِيْتُمْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لَا مِنْهُمْ الْقَوْمُ  
أَخْرَجُوا هَهُ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ عَلِمُوا  
أَنَّهُمْ مَقْدَرَةٌ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ فَتَزَكُّوا  
الظَّلَبَ لَهَا وَاسْتَوْطِنُوا عَلَى بَابِ مَلِكِهِمْ  
اسْتَغْنَوْا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَفَرَّ بِهِ وَعِلْمُهُ فَكَمَاتُهُ لَهُمْ  
هَذَا صَارُوا قِبْلَةَ الْخَلْقِ وَخُطَبَاءَ لَهُمْ  
فِي الدُّخُولِ عَلَى مَلِكِهِمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِأَيْدِي

سے ان کو پکڑ پکڑ کر خدا کی طرف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے قبولیت و رضائے الہی کے خدمت و دلوانے کی محنت برداشت کرتے ہیں بعض اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جن کی بندگی خدا کے لیے محقق ہو چکی ہے نہ خدا سے دنیا طلب کرتے ہیں اور نہ آخرت، بس اس سے اسی کو چاہتے ہیں نہ غیر کو۔

اے اللہ تمام خلق کو اپنے دروازہ کا راستہ دکھا دے ہمیشہ میرا ہی سوال ہے اور اختیار تجھے ہے۔ یہ دعا عام ہے جس پر مجھے ثواب دیا جائے گا اور اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے ساتھ جو جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب قلب کی حالت درست ہو جاتی ہے تو وہ خلق پر رحمت و شفقت سے بھر جاتا ہے۔

بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مگھنی کرنے والے بہت ہیں مگر گنہوں کے چھوڑنے والے صدیق ہی ہیں۔ صدیق کبار و صغائر سب کو چھوڑ دیتا ہے پھر اپنی پرہیز گاری کا ساتھ چھوڑ دینے شوات اور عام مباح چیزوں کے دقیق بنا لیتا ہے اور مطلق حلال کا متلاشی رہتا ہے۔ صدیق اپنے رات و دن کے بڑے حصے میں اپنے رب عز و جل کی عبادت میں رہتا ہے۔ خلق کے منافع سے ناواقف ہوتا ہے پس بالضرورت اس کے واسطے خرق عادت ہوتا ہے، اور جہاں سے شان و گمان نہیں ہوتا اس کو رزق پہنچتا ہے، وہ دیا جاتا ہے اور اس کو لینے کا حکم کیا جاتا ہے، اس کے لیے تمام چیزیں خالص و صاف ہو جاتی ہیں کیوں کہ وہ عرصہ تک محروم رکھا گیا ہے اور اس کی تمام حاجتیں اس کے سینے میں چور چور کر دی گئی ہیں اور وہ اپنی اغراض کی شکستگی اور اپنی تمام مالوں میں ناکامی پر صبر کرتا رہا ہے، دعا کرتا تھا، پس قبول نہیں کی جاتی

قُلُوبِهِمْ اِلَيْهِ يَكْدُونَ لَهُمْ مِنْهُ خَلَعَ الْقُبُولِ وَالرِّضَاعَتَهُمْ عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةً اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَ عِبَادُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ تَحَقَّقَتْ عِبُوْدِيَّةُ لَهُمْ لَهٗ لَا يَطْلُبُوْنَ مِنْهُ دُنْيَا وَلَا اٰخِرَةً وَاِنَّمَا يَطْلُبُوْنَ مِنْهُ هُوَ لَا غَيْرَ .

اللّٰهُمَّ اهْدِ جَمِيْعَ الْخَلْقِ اِلَىٰ بَابِكَ هَذَا اَبَدًا اَسْوَا لِيَّ وَالْاَمْرُ اِلَيْكَ هَذَا اَدْعُكَ عَامًّا اُنَا بَعْدَ عَلَيْهِ وَاَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْعَلُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ اِذَا صَمَّ الْقَلْبُ اِمْتَلَأَتْ رَحْمَةً وَ شَفَقَةً عَلَى الْخَلْقِ .

عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةً اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَ الْمُوْمِنُ مَنْ يَفْعَلُ الْخَيْرَ كَثِيْرًا وَلَا يَتْرُكُ الدُّنُوْبَ اِلَّا الصَّغِيْرَةَ يَتْرُكُ الْكَبِيْرَةَ وَالصَّغِيْرَةَ ثُمَّ يَتَّقُ وَرَعَهُ يَتْرُكُ الشَّهَوَاتِ ثُمَّ الْمُبَارِحَ الْمُسْتَرِكِ وَ يَغْلِبُ الْحَدَالَ الْمَطْلَقَ الصَّغِيْرَةَ لَا يَزَالُ فِي مَعْظَمِ زَمَانِهِ وَكَيْلِهِ فِي عِبَادَةٍ سَرِيَّةٍ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُقُ عَوَاكِدَ الْخَلْقِ فَلَا جَرَمَ تَخْرُقُ لَهُ الْعَادَةُ وَ يُزْنِقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يُعْطَى وَيَوْمَرُ بِالتَّنَاوُلِ تَخْلُصُ لَهُ الْاَشْيَاءُ وَتَصْفُوْا اِلَيْهِ طَالَمَا مُنِعَ وَكُسِرَتْ حَوَائِجُهُ فِي صَدْرِهِ وَ صَبَرَ عَلَى كُسْرِ اَعْرَاضِهِ وَرَدَّ فِي جَمِيْعِ اَحْوَالِهِ كَانَ يَدْعُوْا فَلَا يُسْتَجَابُ

تھی سوال کرتا تھا مگر منظور نہیں ہوتا تھا، گھر شکوہ کرتا تھا لیکن شکایت برہمتی جاتی تھی کٹاؤں طلب کرتا تھا لیکن اس کو نہ پاتا تھا سچا چاہتا تھا لیکن راستہ نہ پاتا تھا موصد و مخلص بن کر عمل کرتا تھا لیکن جس کے لیے عمل کرتا تھا اس کا قرب نظر نہ آتا گویا وہ نہ مومن ہے اور نہ موصد اور وہ باوجود ان کل امور اور بے توجہی کے ہمیشہ مدارات کرنے والا اور صابر بنا رہا کہ یہ تحقیق اس کا یہ صبر اس کے قلب کی دوا ہے اور اس کی صفائی باطن اور قرب الہی کے سبب، اور اس امتحان کے بعد اچھائی ضرور ملے گی، علاوہ انہیں یہ بھی سمجھتا رہا کہ یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون مومن ہے کون منافق اور کون موصد ہے اور کون مشرک اور کون مخلص ہے کون ریاکار اور کون بہادر ہے، کون بزدل اور کون ثابت ہے کون متحرک اور کون صابر ہے کون جزع فزع کرنے والا اور کون سا امر حق ہے اور کون باطل اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور کون محب ہے اور کون دشمن کون بتع ہے اور کون بتدع تاکہ ہر ایک کی جدا جدا تیز ہو جائے، اس نے بعض اہل اللہ کا قول سنا، دنیا میں مثل اس شخص کے رہ جیسے کوئی اپنے زخم کی دوا کرتا ہے اور دوا کے کڑواپن اور زوالِ بلا کی امید پر صابر ہو۔ ساری بلائیں اور بیماریاں بس یہ ہیں کہ تو مخلوق کو شریک خدا ٹھہرائے اور نفع و نقصان اور عطا و منع کے متعلق ان پر نگاہ ڈالے اور ساری دوا اور بلاؤں کا ازالہ اس میں ہے کہ مخلوق تیرے قلب سے نکل جائے، اور قضا و قدر کے نازل ہوتے وقت تو پٹنگی کے ساتھ جاپے مخلوق پر حکومت و رفعت کا طالب نہ بنے اور تیرا قلب حق تعالیٰ کے لیے خالص، تیرا باطن اس کے لیے صاف اور تیری ہمت اس کی جانب بلند ہوتی ہے۔ جب تیرے لیے یہ امر

لَهُ يَسْأَلُ فَلَا يُعْطَى سَوَالُهُ يَشْكُرُ فَيَزِدْ أَدْمَتَا شَكَا مِنْهُ يَطْلُبُ الْفَرَجَ فَلَا يَجِدُ لَا يَتَّقِي وَلَا يَرَى مَخْرَجًا يُوحِدُ وَلَا يُخْلِصُ فِي أَعْمَالِهِ فَلَا يَرَى قُرْبًا مِنَ الْعَامِلِ لَهُ كَاتِبَةٌ كَبِيرَةٌ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُوَحِّدٌ وَمَعَ هَذَا كَلِمَةٌ كَانَ مَدَارِيًا صَابِرًا عَلَى مُدَارَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلِمَ أَنَّ صَبْرَهُ دَوَاءٌ لِقَلْبِهِ وَ سَبَبٌ لِصَفَائِهِ وَ تَقَرُّبِهِ وَأَنَّ الْخَيْرَ يَأْتِيهِ بَعْدَ هَذَا الْإِخْتِيَارِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِخْتِيَارَ لِيَتَّبِعَنَّ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ وَالْمُوحِدُ مِنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُخْلِصُ مِنَ الْمُرَائِي وَالشَّجَاعُ مِنَ الْجَبَانَ وَ الثَّابِتُ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ وَ الصَّابِرُ مِنَ الْجَارِعِ وَ الْمُحَقِّقُ مِنَ الْمُبْطِلِ وَ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ وَ الْمُحِبُّ مِنَ الْمُبْغِضِ وَ الْمُتَّبِعُ مِنَ الْمُبْتَدِعِ سَمِعَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَنْ يَدَاوِي جُرْحَهُ وَيَصْبِرُ عَلَى مَرَامَةِ الدَّوَاءِ بَجَاءِ لَزْوَائِلِ الْبَلَاءِ كُلِّ الْبَلَاءِ وَالْأَمْرَاضِ فَيُرْكَبُ بِالْخَلْقِ وَرُؤْيَاهُمْ فِي الضَّرِّ وَ التَّغْفِيرِ وَ الْعَطَاءِ وَ الْمَنَعِ وَ كُلِّ الدَّوَاءِ وَ نَوَالِ الْبَلَاءِ فِي خُرُوجِ الْخَلْقِ مِنْ قَلْبِكَ وَ عَدَمِكَ عِنْدَ تَزْوِيلِ الْأَقْصِيَّةِ وَ الْأَقْدَارِ وَأَنَّ لَا تَطْلُبُ الرِّيَاسَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَ الْعُلُوَّ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ يَتَجَرَّدَ قَلْبُكَ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَ يَصْفَوْا سِرُّكَ لَهُ وَ تَعْلُوا هِمَّتُكَ إِلَيْهِ إِذَا تَحَقَّقَ

لَكَ هَذَا اِنْ تَغْفِرَ قَلْبَكَ وَتَزَالِ احْمَرُ صُفُوفَ  
التَّائِبِينَ وَالْمُؤْسَلِينَ وَاللَّهُ هَدَايَا وَالصَّالِحِينَ  
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَكُلَّمَا دَامَ لَكَ  
كَتَبَتْ وَعَظَّمَتْ وَرَفَعَتْ وَقَدِّمَتْ  
وَوَلَّيَتْ وَامْرَتْ تَرِدُ اِلَيْكَ مَا تَرِدُ  
تَوَلَّى مَا تُعْطَى مَا تُعْطَى الْمَحْرُومُ مَنْ  
حُرِمَ سَمَاعَ هَذَا الْكَلَامِ وَالْإِيَّانِ بِهِ  
وَالْإِحْتِرَامِ لَا هَيْلَ يَا مُشْغُولِينَ بِمَعَالِيهِمْ  
عَنِ الْمَعِيشَةِ عِنْدِي وَالْآسَافُ عِنْدِي  
وَمَتَاعُ الْآخِرَى عِنْدِي وَأَنَا مُتَادٍ  
تَامِرَةٌ وَبَسْمَلًا أُخْرَى وَمَالِكَ الْمَتَاعِ  
أُخْرَى أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ إِذَا  
حَصَلَ شَيْءٌ مِّنَ الْآخِرَةِ عِنْدِي لَا  
أَكُلُهُ وَحَدِي لَأَنَ الْكَرِيمَ لَا يَأْكُلُ  
وَحَدَهُ كُلُّ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى كَرَمِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَجِدَ عِنْدَكَ بِخُلَا  
كُلُّ مَن عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَانَ  
عِنْدَكَ مَا سِوَاكَ أَتَبَخَّلُ مِنَ النَّفْسِ  
وَنَفْسُ الْعَارِفِ مَيْتَةٌ بِإِلَافَةِ  
إِلَى نَفْسِ الْخَلْقِ هِيَ مُطْمَئِنَّةٌ سَاكِتَةٌ  
إِلَى وَعْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنَّكَ مَن  
وَعِيدَةٌ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَ الْقَوْمَ وَ  
اتِّبَاعِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَرِزْقًا عَدَا ابِ النَّارِ

مسئق ہو جائے گا تو تیرا قلب اونچا چڑھے گا اور نبیوں پر  
شہیدوں، نیکو کاروں اور مقرب فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو جائیگا  
اور جتنی بھی تجھ کو اس پر بقا حاصل ہوگی اسی قدر تو بڑھائے گا۔  
باعظمت بنایا جائے گا۔ صاحب رفعت ہوگا۔ اور آگے  
بڑھایا جائے گا اور حاکم بنا دیا جائے گا اور امیر قرار دے دیا  
جائے گا اس وقت تیری طرف آئے گی وہ چیز کہ آئے گی،  
پیٹھ پھیرے گی وہ چیز کہ پیٹھ پھیرے گی، دی جائے گی وہ چیز  
کہ دی جائے گی۔ وہ شخص محروم ہے جو اس کلام کے سننے اور  
اس پر ایمان لانے اور اس کے اہل کے احترام کرنے سے  
محروم رہا۔ اے مجھ کو چھوڑ کر اپنی معیشتوں میں مشغول ہونے  
والو! معاش میرے پاس ہے اور نفع میرے ہی پاس ہے،  
اور آخرت کی پونجی میرے ہی پاس ہے۔ میں کبھی آواز دینے  
والا ہوں اور کبھی رہنا اور دلال اور کبھی اسباب مال و متاع  
کا مالک، میں ہر ایک شے کو اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ مجھ کو جب  
کوئی شے آخرت کی مل جاتی ہے تو میں اس کو تنہا نہیں کھاتا  
اس واسطے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ تنہا خوری نہیں کیا کرتا جو شخص  
اللہ عزوجل کے کرم پر خبردار ہوتا ہے اس کے نزدیک نخل نہیں  
ہوتا جس نے اللہ عزوجل کو پہچان لیا ہے اس کے نزدیک کل  
ماسوی اللہ ذیل ہوتے ہیں۔ نخل تو نفس سے ہوتا ہے، اور  
عارف باللہ کا نفس بمقابلہ نفس خلق مردہ ہوتا ہے، اس کا  
نفس تو اطمینان والا اور اللہ عزوجل کی طرف ٹھہرنے والا اور وعید  
الہی سے خوف کرنے والا ہوتا ہے۔

اے اللہ! ہم کو وہی عطا فرما جو تو نے اہل اللہ کو عطا  
فرمایا اور دنیا و آخرت میں نگوئی دے اور دوزخ کے عذاب  
سے بچا۔ آمین !

## الْمَجْلِسُ الْخَامِسُ عَشَرَ

## پندرہویں مجلس

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْاِحْدِ بِالرِّبَاطِ تَاسِعَ  
ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ  
الْمُؤْمِنُ يَتَزَوَّدُ وَالْكَافِرُ يَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُ  
يَتَزَوَّدُ لِأَنَّهُ عَلَى طَرِيقٍ يَقْنَعُ بِالْيُسْرِ مِنْ  
مَالِهِ وَيَقْتَرِمُ الْكَثِيرَ إِلَى الْآخِرَةِ يَتْرُكُ  
لِنَفْسِهِ بِقَدَرٍ زَادَ التَّرَاكِبُ بِقَدَرٍ مَا يَحْبِلُهُ  
كُلُّ مَالِهِ فِي الْآخِرَةِ كُلُّ قَلْبٍ وَهْمَتِهِ  
هُنَاكَ هُوَ مُنْقَطِعٌ الْقَلْبُ هُنَاكَ مِنَ الدُّنْيَا  
يَبْعَثُ جَمِيعَ طَاعَاتِهِ إِلَى الْآخِرَةِ لَا إِلَى  
الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ طَيِّبٌ  
يُؤَثِّرُ بِهِ الْفُقَرَاءَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ يَطْعَمُ  
خَيْرًا مِنْهُ غَايَةُ هِمَّةِ الْمُؤْمِنِ الْعَارِفِ  
الْعَالِمِ بَابُ الْقُرْبِ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ  
يَصِلَ قَلْبُهُ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ  
الْقُرْبُ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ غَايَةُ خُطُواتِ  
الْقَلْبِ وَمُسَادَاةُ السَّبْرِ إِنِّي أَرَاكَ فِي قِيَامٍ  
وَقُعُودٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَسَهَرٍ وَنَعَبٍ  
وَقَلْبِكَ لَا يَعْزُجُ مِنْ مَكَانِهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ  
بَيْتٍ وَجُودِهِ وَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْ عَادَتِهِ  
أَصْدَقُ فِي طَلَبِ مَوْلَاكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ  
اعْنَاكَ صِدْقُكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّعَبِ  
أَنْقَرُ بَيْضَةً وَجُودُكَ يَنْقَارُ صِدْقُكَ

۹ ذی قعدۃ النجیب ۵۴۵ھ کو اتوار کے  
دن خالفتہ شریفیت میں ارشاد فرمایا:  
مومن صرف توشہ لیتا ہے، تھوٹے پر قناعت کرتا  
ہے اور کافر پورا فائدہ لیتا اور مزہ اٹاتا ہے، مومن مسافر جیسا  
زاور راہ لے لیتا ہے اپنے تھوٹے سے مال پر قناعت کرتا  
ہے اور بہت سے مال کو آخرت کی طرف اُگے بھیجتا رہتا ہے  
وہ اپنے نفس کے لیے بمقدار توشہ مسافر کے جس کو وہ اٹھا  
سکے رکھ لیتا ہے اس کا تمام مال آخرت میں ہے اس کا قلب  
اور ہمت تو اسی طرف ہے اس کا دل دنیا سے منقطع ہو کر  
اسی طرف متوجہ ہے وہ اپنی تمام طاعتوں کو آخرت ہی کی طرف  
بیجھ دیتا ہے نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف۔ اگر اس کے پاس  
عمدہ خوشگوار کھانا ہوتا ہے تو وہ فقرار پر اس کا اشارہ کر دیتا  
ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس سے  
بہتر کھانا کھلایا جائے گا۔ مومن عارف عالم کی ہمت کا منقہ،  
بس قرب باب الہی اور یہی ہوتا ہے کہ اس کا قلب قبل  
آخرت کے دنیا ہی میں واصل بحق ہو جائے اس کے قلب کے  
قدموں اور باطن کی سیر کی غایت محض قرب ہی قرب ہے  
میں تجھے قیام اور قعود اور رکوع و سجود اور سہو اور محنت و  
مشقت میں دیکھتا ہوں حالانکہ تیرے قلب کی یہ حالت ہے  
کہ نہ وہ اپنی جگہ سے عروج و ترقی کرتا ہے اور نہ وہ اپنے وجود  
کے گھر سے نکلتا ہے اور نہ وہ اپنی عادت سے باز آتا ہے  
تو طلب مولیٰ میں اس حیثیت سے سچائی دکھا کہ تیری سچائی

تجھ کو بہت سی مشقتوں سے بے پروا بنائے ہوئے ہوتے ہیں  
وجود کے اندے کو سچائی کی چونچ سے کھٹکے اور جن  
دیواروں سے تو خلق کو دیکھتا ہے اور جن سے تو ان کیساتھ  
مقیم ہے توحید و اخلاص کے کدال بھاؤڑوں سے ڈھاک  
تو اپنے اس طلب کے پیچھے کہ جس سے تو اشیاء کو طلب  
کرتا ہے اپنے ذہد کے ہاتھ سے توڑ ڈال اور اپنے قلب  
سے پروا نہ کر یہاں تک کہ تو قرب الہی کے دریا کے کنارے  
پر جا پڑے پس اس وقت تیرے پاس سابقہ تقدیر الہی کا طلاح  
عنایت الہی کی کشتی لے کر آئے اور تجھے سوار کر کے تیرے  
رب عزوجل کی طرف تجھے پہنچا دے۔

یہ دنیا دیا ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی اور اسی  
واسطے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: "اے میرے بیٹے!  
دنیا دیا ہے اور ایمان کشتی، اور طلاح طاعتیں اور کنارہ  
آخرت۔"

اے گناہوں پر مہٹ کرنے والو! عنقریب تمہارے  
پاس اندھاپن اور بہر اپن اور اپاہجی اور محتاجی اور مخلوق کے  
قبلوں کی سختی آنے والی ہے۔ تمہارے سارے مال نقصانوں  
اور تاوانوں اور چوریوں میں چلے جائیں گے تم عقلمند بنو اپنے  
رب عزوجل کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے مال کو شریک  
خدا نہ ٹھہراؤ اور اس پر بھروسہ نہ کرو اور نہ اس کے ہاتھ ٹھہرو  
مال کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اس کو اپنے گھروں اور  
جیبوں کے اندر اپنے غلاموں اور کیلوں کے پاس رکھ دو اور  
تم مرگے کا انتظار نہ کرو تم اپنی حرص کو کم اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ  
کر دو۔

ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہوں نے

وَأَفْضُ حَيْطَانَ رُؤْيَيْكَ لِلْخَلْقِ وَ  
التَّقْيِدِ بِهِمْ بِمَعَاوِلِ الْإِخْلَاصِ وَ  
تَوْحِيدِكَ الْكَسْرُ قَفْصَ طَلَبِكَ لِأَشْيَاءِ  
بَيِّنَاتٍ هَدَيْكَ فِيهَا وَطَرِيقُكَ حَتَّى  
تَقَعَ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ قَرْبِكَ مِنْ  
رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ يَا نَبِيَّكَ  
مَلَأَ السَّابِقَةَ وَمَعَهُ سَفِينَةُ  
الْعُنَايَةِ فَيَأْخُذُكَ وَيَعْبُرُكَ إِلَى  
رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ۔

هَذِهِ الدُّنْيَا بَحْرٌ وَإِيمَانُكَ سَفِينَتُهَا  
وَلِهَذَا قَالَ لِقُتْمَانَ الْحَكِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَا  
بُنَى الدُّنْيَا بَحْرٌ وَالْإِيمَانُ السَّفِينَةُ وَالْمَلَأَ  
الطَّاعَاتِ وَالسَّاحِلِ الْآخِرَةَ

يَا مُصْبِرِينَ عَلَى الْمَعَاصِي عَنْ قَرِيبٍ  
يَأْتِيَكُمُ الْعَنَى وَالصَّهْمُ وَالزَّمَنُ وَالْفَقْرُ  
وَقَسَاوَةُ قُلُوبِ الْخَلْقِ عَلَيْكُمْ تَذْهَبُ  
أَمْوَالُكُمْ بِالْخُسَارَاتِ وَالْمَصَادِرَاتِ وَ  
السَّرَقَاتِ كُونُوا عَقْلَاءَ تَوَلُّوا إِلَى رَبِّكُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ لَا تَشْرِكُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَتَتَكَلَّوْا عَلَيْهَا  
لَا تَقْفُوا مَعَهَا أَخْرِجُوهَا مِنْ قُلُوبِكُمْ وَاجْعَلُوهَا  
فِي بُيُوتِكُمْ وَجَبُوتِكُمْ وَمَعَ غُلَمَائِكُمْ وَ  
وَكَلَائِكُمْ وَارْتَقِبُوا الْمَوْتَ قَلِيلُوا أَحْرَصَكُمْ  
وَقَصِّرُوا أَمْوَالَكُمْ۔

عَنْ أَبِي يَزِيدٍ الْبُسْطَامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

الْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ لَا يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَدُنْيَا وَلَا  
آخِرَةً وَاتِّمَامُ طَلْبٍ مِنْ مَوْلَاكَ مَوْلَاكَ.

يَا غُلَامُ ارْجِعْ بِقُدْرَتِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ التَّائِبُ إِلَى اللَّهِ هُوَ الرَّاجِعُ إِلَيْهِ وَقَوْلُهُ  
عَزَّوَجَلَّ وَانْيَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ أَيْ ارْجِعُوا  
إِلَى رَبِّكُمْ يَعْنِي ارْجِعُوا سَلِّمُوا الْكُلَّ إِلَيْهِ  
سَلِّمُوا نَفْسَكُمْ إِلَيْهِ وَاطْرَحُوا بَيْنَ  
يَدَيْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ  
وَتَقْلِيدِيَّتِهِ وَاطْرَحُوا قُلُوبَكُمْ بَيْنَ  
يَدَيْهِ بَلَا السَّنَةِ بَلَا آيِدٍ بَلَا أَرْجُلٍ  
بَلَا أَعْيُنٍ بَلَا كَيْفٍ وَلَا لِحْ وَلَا مَنَاعَةٍ  
بَلَا مُحَالَفَةٍ بَلْ مُوَافَقَةٍ وَتَصْدِيقٍ  
فَقُولُوا صَدَقَ الْأَمْرُ صَدَقَ الْقَدَرُ  
صَدَقَتِ السَّابِقَةُ إِذَا كُنْتُمْ هَكَذَا لَا  
جَرَمَ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ مُيَبَّهَةً إِلَيْهِ  
مُشَاهِدَةً لَهُ لَا تَسْتَأْنِسُوا بِشَيْءٍ بَلْ  
تَسْتَوْحِشْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا تَحْتَ  
الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى تَهْرَبُ مِنْ جَمِيعِ الْخُلُوقَاتِ  
تَبْقَى مُنْخَلَعَةً مُنْقَطِعَةً مِنْ سَائِرِ الْخُلُقَاتِ  
لَا يُجْسِنُ الْأَدَبُ مَعَ الشُّيُورِ إِلَّا مَنْ قَدْ  
خَدَمَهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَى بَعْضِ أَحْوَالِهِمْ  
مَعَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْقَوْمُ قَدْ جَعَلُوا الْحَمْلَ  
وَالدَّمَ كَالصَّبِغِ وَالشَّمَاءَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
وَكُلَّاهُمْ يَرَوْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  
لَا يَشْعُرُ بِأَيِّ يَهْمَا إِلَّا اللَّهُ

فرمایا۔ مومن عارف باللہ اللہ عزوجل سے دنیا و آخرت، کسی کو بھی  
طلب نہیں کرتا، وہ تو اپنے مولیٰ سے مولیٰ ہی کو طلب کرتا ہے  
اے غلام تو اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  
کر، تائب (توبہ کرنے والا) وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع  
کرنے والا ہو۔ اللہ عزوجل کے ارشاد و انیبوا الی ربکم  
کے یہی معنی ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو یعنی تم رجوع  
کرو، تمام چیزوں کو اسی کی طرف سپرد کر دو اپنے نفس کو اس کی  
طرف سپرد کر دو اور ان کو اس کی قضا و قدر اور اس کے  
امر و نہی اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو اور اپنے  
قلوب کو خدا کے روبرو گونگا ٹولا، لنگڑا، اندھا بنا کر بغیر چون  
و چرا اور بغیر جھگڑے اور بلا مخالفت کے موافقت و تصدیق  
کے ساتھ ڈال دو اور کہو ام الملیٰ سچا ہے، تقدیر سچی ہے،  
سابقہ (یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اور پہلے کھاجا چکا) سچا ہے  
جب تم ایسے ہو جاؤ گے بلا شک تمہارے قلوب اللہ تعالیٰ  
کی طرف رجوع کرنے والے، اس کے دیکھنے والے ہو جائیں  
گے، کسی چیز سے مانوس نہ ہوں گے بلکہ ہر چیز سے جو  
عرش کے نیچے سے لے کر زمین کے نیچے تک ہے  
وحشت کریں گے اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہو کر اور تمام حادث  
نوپید چیزوں سے قطع تعلق کر کے خدا کی طرف بھاگیں گے  
مشائخ کرام کا حسن ادب وہی کر سکتا ہے جو ان کی خدمت  
میں رہا ہو اور ان کی بعض ان حالتوں پر جو خدا کے ساتھ ان کی  
تھیں خبر دار ہو گیا ہو، اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف اور بدگوئی  
کو مثل گرمی اور سردی اور رات و دن کی سمجھا ہے اور ان دونوں  
کو اللہ عزوجل کی ہی طرف سے جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ ان  
دونوں کے لانے پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی قدرت نہیں

رکھتا ہے پس جب ان کے نزدیک یہ امر متحقق ہوگی تو انہوں نے تعریف کرنے والوں کی بندگی کی اور نہ بدگوئی کرنے والوں سے لڑائی کی اور نہ یہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے، ان کے دلوں خلق کی عداوت و محبت نکل گئی نہ وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور نہ دشمنی بلکہ ہر ایک سے مہربانی سے پیش آتے ہیں بغیر سچائی کے تجھے علم کیا نفع فے گا۔ باوجود علم کے اللہ نے تجھے گمراہ کر دیا ہے تیرا علم سیکھنا اور نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا خلق کے لیے ہے تاکہ وہ تیری طرف قرار پکڑیں اور اپنے مال تیرے لیے خرچ کیا کریں اور وہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں تیری تعریف کیا کریں۔ اس امر کو تسلیم کر لے یہ ان سے تجھے حاصل بھی ہو جائے گا لیکن جب تجھے موت اور عذاب اور قبر کی تنگی اور ہشیت آجائیں گی تو تیرے اور ان کے درمیان میں پڑھ ڈال دیا جائے گا اور وہ تجھ سے کسی تکلیف کو دفع نہ کر سکیں اور جو کچھ تو نے ان کے مالوں میں سے حاصل کیا تھا اس کو تیرے سوا دوسرے لوگ کھائیں گے اور عذاب و حساب تجھ سے ہو گا۔ اے بد بخت اے محروم تو تو نو کام کرنے والوں، دنیا میں تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کل بروز قیامت دوزخ میں تکلیف اٹھانے والا ہو گا عبادت ایک صنعت ہے اور اس کے اہل اولیاء اور ابدال ہیں جو کہ غلص اور اللہ عزوجل کے مقرب ہیں قلب سے عالم باعمل زمین میں اللہ عزوجل کے خلیفہ اور اس کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے وارث ہیں نہ کہ تم۔ اے ہر دن کو اے زبان درازی سے اور باطن کی جہالت کے ساتھ ظاہر کی فقر میں مشغول رہنے والو! سوچو! علم پڑھو! عمل کرو۔

اے غلام! تو کچھ بھی نہیں تیرا کسی شے پر قیام نہیں تیرا تو اسلام بھی صحیح نہیں ہوا۔ اسلام جس پر کہ کلمہ شہادت کی بنیاد ہے

عَزَّوَجَلَّ فَلَمَّا تَحَقَّقَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَعْبُدُوا الْحَامِدِينَ وَلَمْ يُحَارِبُوا الذَّمِّينَ وَلَمْ يَشْتِغِلُوا بِرَبِّهِمْ خَرَجَ مِنْ قُلُوبِهِمْ حُبُّ الْخَلْقِ وَبُغْضُهُمْ لَا يُحِبُّونَ وَلَا يُبْغِضُونَ بَلْ يَرَحْمُونَ أَيْشَ يَنْفَعُكَ عِلْمُ بِلَا صِدْقٍ قَدْ أَصْلَكَ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ تَتَعَلَّمُ وَتُصَلِّيُ وَتَصُومُ لِلْخَلْقِ حَتَّى يَقُودُوا إِلَيْكَ وَيَبْذُلُوا لَكَ أَمْوَالَهُمْ وَيَمْدَحُوكَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ فَتَدْرَأُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَكَ هَذَا مِنْهُمْ فَإِذَا جَاءَكَ الْمَوْتُ وَالْعَذَابُ وَالصَّبِيحُ وَالْأَهْوَالُ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَلَا يُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئًا وَمَا حَصَلَتْكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِأَكْلِهِ غَيْرُكَ وَالْعُقُوبَةُ وَالْحِسَابُ عَلَيْكَ يَا مُدَبِّرُ يَا مَحْرُومُ أَنْتَ مِنَ الْعَامِلَةِ النَّاصِبَةِ فِي الدُّنْيَا نَاصِبَةً عَدَا فِي النَّاسِ الْعِبَادَةَ صَنَعَةً وَأَهْلَهَا الرِّدْيَاءُ وَالْأَبْدَالُ الدُّخْلُصُونَ الْمُتَهَرِّبُونَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ الْعُكْمَاءُ الْعُمَالُ يَا لِعِلْمِ ثَوَابِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَرُسُلِهِ وَارْشَاؤِ الرِّبَايَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ لَا أَنْتُمْ يَا مُهْرُسِينَ يَا مَشْغُولِينَ بِلِقَافَةِ اللِّسَانِ وَفَتْهِ الظَّاهِرِ مَعَ جَهْلِ الْبَاطِنِ -

يَا غَلَامُ مَا أَنْتَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا سَلَامٌ مَا صَحَّ لَكَ إِلَّا سَلَامٌ هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ

مَا تَكُنْ لَكَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَكْذِبُ  
فِي قَلْبِكَ جَمَاعَةً مِّنَ الْأَلِهَةِ خَوْفَكَ مِنْ  
سُلْطَانِكَ وَوَالِي مَحَلَّتِكَ إِلَهَةً اِعْتَمَدَكَ  
عَلَى كَسْبِكَ وَرَبِّحِكَ وَحَوْلِكَ وَخَوَاتِكَ  
وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ وَبَطْنِكَ إِلَهَةً رَّوَيْتَكَ  
لِلصَّبْرِ وَالتَّفَعُّعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ مِنَ الْخَلْقِ  
إِلَهَةً كَتَبْتَ مِنَ الْخَلْقِ مُتَكَلِّمُونَ عَلَى هَذِهِ  
الْأَشْيَاءِ يَقُولُ بِهِمْ وَيُظْهِرُهُمْ وَأَنَّهُمْ مُتَوَكِّلُونَ  
عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَادَةً يَا لَيْسَنَّهُمْ لَا  
يَقُولُ بِهِمْ فَإِذَا اخْرَجْتُمُوهُ فِي ذَلِكَ حَرَدُوا وَغَضَبُوا  
وَقَالُوا كَيْفَ يَقَالُ لَنَا هَٰكَذَا أَلَيْسَنَا  
مُسْلِمِينَ غَدَا تَبَيَّنَ الْقَضَاءُ وَكَظْهَرَ  
الْمُخْبَرَاتُ

وَبِحَاك تَوَيْدِي فِي قَوْلِكَ إِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
نَفَى كَلِمَةً وَإِلَّا اللَّهُ اثْبَاتٌ كَلِمَةً لَا يَغْيِرُهُ فَائِي وَقْتِ  
اعْتَمَدَ قَلْبِكَ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ  
كَذَبْتَ فِي إِنْبَاءِكَ وَصَارَ إِلَهًا الَّذِي اعْتَمَدْتَ  
عَلَيْهِ لَا إِعْتِبَارَ بِالظَّاهِرِ الْقَلْبُ هُوَ الْمُؤْمِنُ هُوَ الْمُوَحِّدُ  
هُوَ الْمُخْلِصُ هُوَ الْمُتَّقِي هُوَ الْوَكِيلُ هُوَ الرَّاهِدُ هُوَ الْمُؤْتَمِنُ  
هُوَ الْعَارِفُ هُوَ الْعَامِلُ هُوَ الْأَمِيرُ وَمَنْ سِوَا أَجْوَدَ  
وَأَبْنَاهُ إِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُلْ أَوْ لَا يَقُولُكَ  
لَقَدْ بَلَّسْنَا لَكَ وَاتَّكَلْنَا عَلَيْهِ وَاعْتَمَدْنَا عَلَيْهِ  
دُونَ غَيْرِهِ أَشْغَلُ ظَاهِرًا بِالْحُكْمِ  
وَبِطَانِكَ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَتُرِكَ الْخَيْرَ  
وَالشَّرَّ عَلَى ظَاهِرِكَ وَاشْتِغَلِ

وہ بھی توتیرے لیے تمام نہیں ہوا تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور  
جھوٹ بولتا ہے تیرے قلب میں تو معبودوں کی ایک جماعت  
ہے تیرا بادشاہ وقت اور والی محلہ سے ذرا تیرا معبود ہے  
تیرا اپنے کسب اور اپنے نفع اور اپنی طاقت و قوت اور اپنے  
کان اور آنکھ اور اپنی قوت پکڑ پر بھروسہ کرنا معبود ہے، تیرا  
ضرر و نفع عطا و منع کے واسطے مخلوق کی طرف تو جبر کرنا معبود  
ہے مخلوق میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں سے ان  
چیزوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ  
عز و جل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ان کا اللہ کو یاد کرنا محض زبانی  
عادت ہے قلب کے ساتھ نہیں ہے جب اس معاملہ میں  
ان کو جانچا جاتا ہے بھڑک جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور  
کہتے ہیں ہمیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کل  
تمام فضیلتیں کل جائیں گی اور پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے  
تجھ پر افسوس! تو اپنے قول کی تائید کر رہا ہے جب  
تو لا الہ کہتا ہے پس یہ نئی کلمی ہے (یعنی کوئی معبود ہی نہیں ہے)  
اور لا الہ اثبات کلمی ہے۔ خدا کے لیے نہ اس کے غیر کے  
لیے (یعنی خدا ہی معبود ہے نہ کوئی دوسرا) پس جس وقت تیرے  
قلب نے اللہ کے سوا کسی دوسرے پر اعتبار بھروسہ کیا، پس  
تو اپنے اثبات کلمی میں جھوٹا ہو گیا اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہ  
تیرا معبود بن گیا۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں۔ قلب وہی مومن ہے،  
وہی موحّد، وہی مخلص، وہی متقی وہی پرہیزگار وہی زاہد وہی  
موقن یقین رکھنے والا وہی عارف وہی عامل وہی امیر و بادشاہ  
ہے اور اس کے ماسوی تمام اعضا اس کا شکر و سپر وہیں  
جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہہ پھر اپنی  
زبان سے اور خدا ہی پر توکل و اعتماد کرنے بغیر اللہ پر۔ اپنے

بِأَظْنَانِكَ مَعَ خَالِقِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَنْ  
عَرَفَهُ ذَلَّ لَهُ وَكَلَّ لِسَانُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَتَوَاضَعَ لَهُ وَاعْبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَ  
تَضَاعَفَتْ هَمَّتُهُ وَعَبْدُهُ وَبُكَاءُهُ وَكَثُرَ  
خَوْفُهُ وَفَاجَلُهُ وَكَثُرَ حَيَاؤُهُ وَكَثُرَ  
نَدَامُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفَرُّطِهِ وَيَكْشُدُ  
حَدْرُهُ وَخَوْفُهُ مِنْ زَوَالِ مَا عِنْدَهُ مِنْ  
الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْبِ لِأَنَّ الْحَقَّ عَزَّ  
وَجَلَّ فَحَالَ لِمَا يُرِيدُهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ  
وَهُمْ يُسْأَلُونَ يَتَذَكَّرُ بَيْنَ نَظَرَيْنِ إِلَى  
مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفَرُّطِهِ وَوَقَاحَتِهِ وَ  
جَهَالَتِهِ وَتَجَرُّبِهِ فَيَذُوبُ مِنَ الْحَيَاءِ  
وَيَخَافُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ وَيَنْظُرُ إِلَى  
مُسْتَقْبَلِ الْحَالِ هَلْ يَقْبَلُ أَوْ يَرُدُّ هَلْ  
يُسَلِّبُ مَا أُعْطِيَ أَوْ يُخْلِي لَهُ عَلَى حَالِهِ  
هَلْ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي صُحْبَةِ  
الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْكَافِرِينَ وَلِهَذَا قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَا أَعْرِفُكُمْ بِاللهِ وَأَشْهَدُكُمْ  
لَهُ خَوْفًا مِنْ جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ

ظاہر کو حکم شرعی کے ساتھ اور اپنے باطن کو حق عزوجل کے ساتھ  
مشغول رکھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے اور اپنے باطن کو  
خیر و شر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کرے  
جس نے اسے پہچانا وہ اس کا مطیع ہوا اور اس کی زبان خدا تعالیٰ  
کے دربر و گوئی بن گئی اور وہ عارف خدا اور اس کے نیک بندوں  
کے سامنے متواضع ہو گیا اور اس کا غم و حزن اور رونا و چہرہ  
ہو گیا اور اس کا خوف و ترسناکی زیادہ ہو گئی اور حیا اس کی  
بڑھ گئی اور اگلے گناہوں اور قصور واری پر ندامت زیادہ ہو گئی  
اور جو کچھ معرفت و علم و قرب حق اس کو حاصل ہو چکا تھا اس کے  
زوال کا خوف و حذر زیادہ ہو گیا کیوں کہ حق عزوجل جو چاہتا ہے  
وہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کرے اس سے سوال نہیں اور وہ  
سوال کیے جائیں گے۔ عارف باللہ دو لگا ہوں کے درمیان  
میں متروک رہتا ہے وہ جب اپنی گزشتہ تفسیر اور بہالت و  
بے شرمی و جرات کی طرف دیکھتا ہے پس حیا سے بچھل جاتا ہے  
اور مؤاخذہ الہی سے خوف کرتا ہے اور آئندہ کی طرف دیکھتا  
ہے کہ آیا مقبول کیا جائے گا یا مردود اور آیا جو کچھ عطا فرمایا گیا  
ہے وہ چھین لیا جائے گا یا اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا۔  
قیامت کے دن مسلمانوں کی معیت میں رہے گا یا کافروں کے  
ساتھ میں اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے والا ہوں اور تم سب  
سے زیادہ اس سے ڈرنے والا۔ مجملہ عارفین کے

لے اسی وجہ سے بہت وہ لوگ جن کا زبانی ایمان خفا نافی قرار دیے گئے ہر کھڑے پڑھنے والا جس کا قلب اس پر شاہد نہ ہو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا  
محض دعوٰی زبانی بغیر گراہ و شہرت علی قابل قبول نہیں۔ لے بسا۔ ابلیس آدم رے ہست ۱۲ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح فرض ہے ہر کھڑے گوسلمان تہیں اسلام  
کے لیے صحت عقیدہ اقرار و تصدیق عمل اتباع اصول دینیہ کی ضرورت ہے یہی چیزیں فاروق اسلام و کفر ہیں۔ قادری غفرلہ۔

فِي السُّدُودِ وَذَوِ النُّدُورِ مَنْ يَأْتِيهِ الْآمَنْ يُتْلَى  
عَلَيْهِ مَا سَبَقَ لَهُ يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ وَمَا يَكُونُ  
مَصِيرُهُ إِلَيْهِ يَقْرَأُ سِرَّهُ مَالَهُ فِي اللُّجُجِ  
الْمَحْفُوظَةِ تَطْلُعُ الْقَدَبُ عَلَى ذَلِكَ وَ  
يَأْمُرُكَ بِكَتْمِهِ وَإِنْ لَا تَنْطَرِعَ النَّفْسُ عَلَى  
ذَلِكَ ابْتَدَأَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا سَلَامًا وَمِثْلُ  
الْأَمْرِ وَالْإِنِّي نَهَاءٌ عَنِ التَّهْمِي وَالصَّبْرُ عَلَى  
الْأَفَاتِ وَإِنْ تَهَاوَا فِي هَذَا فِيمَا سَوَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ تَسْتَوِيَ عِنْدَهُ الدَّهَبُ وَ  
الْتَرَابُ وَالْحَمْدُ وَالذَّمُّ وَالْعَطَاءُ  
وَالنِّمْنَعُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَالنِّعْمَةُ  
وَالنِّقْمَةُ وَالْغِنَى وَالْفَقْرُ وَوُجُودُ  
الْخَلْقِ وَعَدَمُهُمْ فَإِذَا سَمَّ هَذَا كَانَ  
تَهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُمَّ  
يَأْتِي التَّوْقِيعُ مِنْهُ بِالْأَمَارَةِ وَالْوَلَايَةِ  
عَلَى الْخَلْقِ كُلِّ مَنْ تَرَاكَ يَنْتَفِعُ بِهِ لِكَيْفِيَّةِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتُورَةِ الْمُتَلَبِّسِ بِهِ  
كَتَبْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

شافو ناو رہی وہ لوگ ہونے ہیں جن کو امن حاصل رہتا ہے۔  
اس کے لیے جو شے مقدر ہو چکی ہے اس پر پڑھ دی جاتی ہے  
بیان کر دی جاتی ہے، وہ اپنے انجام کار اور اپنے جائز و  
مکروب جان بیتا ہے جو کچھ اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوا  
ہے اس کا باطن اس کو پڑھ لیتا ہے بعد وہ اپنے قلب کو  
اس پر آگاہ کر دیتا ہے اور اس کے چھپانے کا اور اس امر کا  
کہ نفس کو خبر نہ ہو قلب کو حکم دیتا ہے۔ اس امر کی ابتداء مسلمان  
ہونا اور اوامر کا بجالانا اور منیات سے باز رہنا اور آفتوں پر  
صبر کرنا ہے اور اس کی انتہا ماسوی اللہ سے ہے رغبتی کرنا اور  
یہ ہے کہ اس کے نزدیک ہونا اور مٹی تعریف اور برائی دینا اور دنیا  
جنت اور دوزخ نعمت اور بلا امیری اور فقری خلق کا وجود و  
عدم سب برابر ہو جائیں۔ پھر جب یہ سب اس کے لیے تمام  
ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ عز و جل اس کا ہو جاتا ہے اس  
کو اللہ کی طرف سے خلق کی سرور اسی اور ولایت کا فرمان آجاتا  
ہے پھر جو شخص بھی اس کے سوا ہے وہ اس کی بوجہ ہیبت الہی  
اور اس نورانیت کے جو منجانب اللہ اس کو حاصل ہے خواہش  
کرتا ہے۔

اے رب ہمارے ہم کو دنیا و آخرت میں نیکویاں عطا  
فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔

## سولہویں مجلس

ار ذی قعدة النجیب ۵۴۵ھ ہجری المقدس  
کو منگل کے دن بوقت عشاء مدرسہ قادریہ  
میں ارشاد فرمایا:

## المجلس السادس عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عَشْرَةَ  
يَا لَمُدُّ رِسَةً حَادِي عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً  
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةً

بعد کچھ تقریر کے فرمایا کہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،  
دنیا کو ذلیل سمجھو، یقین خدا کی قسم دنیا بعد ذلیل ہونے کے ہی خوشگوار  
ہوتی ہے۔

اے غلام! تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھ کو اس کے نازل  
کرنے والے کے پاس لیا کر لے کر آکر دے گا اور تیرا حدیث سنت  
پر عمل کرنا تجھ کو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دوبرو لیا کر لے کر آکر دے گا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی  
ہمت و قلب سے ہمیشہ اہل اللہ کے قلوب کے ارد گرد  
سے نہیں ہٹتے ان کے قلوب کے وہی معطر و خوشبودار بنائے  
والے ہیں وہی ان کے باطن کے تصفیہ فرمانے والے اور وہی  
ان کو زینت دینے والے ہیں وہی ان کے لیے نزدیکی کا دروازہ  
کھولنے والے ہیں، وہی ان کا بناؤ سنگار کرنے والے ہیں  
وہی درمیان قلوب و سرار اور درمیان رب عز و جل کے سیر و قصد  
ہیں۔ جب تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ایک قدم بڑھے  
گاتیری فرحت بڑھ جائے گی جس کو یہ حالت عطا فرمائی جائے  
اس پر آپ کی شکر گزاری اور تابعداری کا بڑھانا لازم و ضروری  
ہے۔ بغیر اس کے غش ہونا ہوس ہی ہوس ہے، جاہل دنیا  
میں فرح خاک ہوتا ہے اور عالم دنیا میں تنگین رہتا ہے جاہل  
تقدیر سے مناظرہ اور جھگڑا کرتا ہے اور عالم اس کی موافقت  
کرتا ہے اور راضی رہتا ہے۔

اے مسکین! تقدیر سے مناظرہ و مخالفت نہ کرو ورنہ  
ہلاک ہو جائے گا۔ دار و مدار اس پر ہے کہ تو انعال الہی سے  
راضی رہے اور تو اپنے قلب سے مخلوق کو نکال ڈالے اور  
اس کے ساتھ خلق کے پروردگار سے مل جائے تو پتہ ہوگا

بَعْدَ كَلَامٍ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ  
اللَّهُ تَعَالَى أَهَيْئُوا الدُّنْيَا خَرَّتْهَا وَاللَّهُ لَا تَقْبِلُ  
إِلَّا بَعْدَ إِهَاتَرِكَا۔

يَا غُلَامُ اْعْمَلْ بِالْقُرْآنِ يُوقِفْكَ  
عَلَىٰ مُنْزِلِهِ وَالْعَمَلُ بِالشُّنَّةِ يُوقِفُكَ  
عَلَى الرَّسُولِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْرَحُ بِقَلْبِهِ وَ  
هَمَّتِهِ مِنْ حَوْلِ قُلُوبِ الْقَوْمِ هُوَ  
الْمُطِيبُ وَالْمُبْخِرُ لَهَا هُوَ الْمُصَفِّ  
لِاسْرَارِهِمْ وَالْمُزَيِّنُ لَهَا هُوَ الْمُسْتَفْتِ  
بَابِ الْقُرْبِ لَهَا هُوَ الْمَاشِطُ هُوَ  
السَّعِيدُ بَيْنَ قُلُوبٍ وَالْأَسْرَارِ وَ  
بَيْنَ سَرِّهَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ  
إِلَيْهِ خُطْوَةٌ إِذَا دَادَ فَرَحًا مَنِ  
تَرَفَّقَ هَذَا الْحَالُ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ  
أَنْ يَشْكُرَ وَتَزْدَادَ طَوَاعِيَّتُهُ  
أَمَّا الْفَرْحُ بِغَيْرِ هَذَا هَوَسٌ  
الْجَاهِلُ يَفْرَحُ فِي الدُّنْيَا وَ  
الْعَالِمُ يَغْتَمُ فِيهَا الْجَاهِلُ يَنْظُرُ  
الْقَدْرَ وَيَنْارِعُهُ وَالْعَالِمُ يُوَافِقُهُ  
وَيَرْضَى۔

يَا مُسْكِينُ لَا تَنْظُرِ الْقَدْرَ وَ  
تَشَارِقَهُ فَتَهْلِكَ الدَّائِرَةُ عَلَى أَنْ تَرْضَى  
بِأَفْعَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ تُخْرِجَ  
قَلْبَكَ مِنَ الْخَلْقِ وَتَلْقَى بِهِ رَبَّ

سے اپنے قلب اور باطن اور سر سے مل جائے گا جب کہ تو حق عزوجل اور اس کے رسولوں اور نیک بندوں کی ہمیشہ تابعداری کرتا رہے گا۔ اگر تو اس خدمت گزاری کو کر سکتا ہے تو کہ گزریہ تیرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے۔ اگر تو تمام دنیا کا مالک ہو جائے اور تیرا قلب ان جیسا ہو تو تو گویا ایک ورہ کا بھی مالک نہیں جس کا قلب اللہ عزوجل کے لیے صالح ہو گیا اور اس کے ساتھ دنیا و آخرت ہوئی تو وہ حق تعالیٰ کے حکم سے عوام و خواص میں حکومت کرتا ہے۔

تجربہ پرانوس: تو اپنی قدر کو پہچان تو اولیاء اللہ کے مقابلہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ تیرا مقصد وہ کلی تو کھانا پینا اور پہننا اور نکاح اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر حرص کرنا ہے۔ دنیا کے کاموں میں کار گزار۔ آخرت کے کاموں میں بطل ہے تو اپنے گوشت کو راستہ کر رہا ہے اور اس کو کیڑوں اور حشرات الارض کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا اللہ عزوجل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر صبح وشام آواز دیتا رہتا ہے کہ اے اولادِ آدم! تمہاری پیدائش موت کے لیے اور تعمیر ویرانی کے لیے اور تمہارا جمع کرنا و تفنیل کے لیے ہے۔ مسلمان کی اپنے تمام کاموں میں نیت صالح ہوتی ہے وہ دنیا میں کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے وہ دنیا میں آخرت کے لیے عمارت تیار کرتا ہے وہ مسجدیں اور پل اور مدرسہ اور مراہیں بناتا ہے اور مسلمانوں کے راستہ کو درست کرتا ہے اور اگر وہ اس کے سوا کچھ بناتا ہے تو بال بچوں اور بیوہ عورتوں اور محتاجوں اور ضروریات کے لیے اس کا یہ نفع بھی اس واسطے ہوتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کے لیے محل تیار ہوں نہ کہ واسطے اپنی طبیعت و

الْخَلْقِ تَلْقَاهُ بِقَلْبِكَ وَبِسِرِّكَ وَمَعْنَاكَ إِذَا دُمْتَ عَلَى مَتَابَعَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ إِنَّ قَدْرَتَ أَنْ تَخْدِمَ الصَّالِحِينَ فَا فَعَلْ فَإِنَّ خَيْرَ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَوْ مَلَكَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَقُلُوبِهِمْ لَكُنْتَ لَا تَلْبِثُكَ دَرَاهَةٌ كُلُّ مَنْ يَصْلَحْ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكُونُ مَعَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ يَحْكُمُ بَيْنَ الْعَوَامِّ وَالْخَوَاصِّ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

وَيَحْكُ اعْرِفْ قَدْرَكَ آتَيْشَ أَنْتَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِمْ أَنْتَ كُلُّ هَوَاكَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالدُّبُّ وَالنِّكَاحُ وَجَمْعُ الدُّنْيَا وَالْحِرْصُ عَلَيْهَا عَمَلٌ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا بَطَالٌ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ تَعْنِي لِحْمَكَ وَتَعْدِفُ بِلَدِّكَ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكَ يَتَأَدَّى كُلَّ يَوْمٍ عُدَّةً وَوَعَشِيَّةً يَا بَنِي آدَمَ لِدَاوَالْمَوْتِ وَأَبْنُوا لِلْخَرَابِ وَاجْتَمِعُوا لِلْإِعْدَاءِ الْمُؤْمِنُ لَهُ نَيْتُهُ صَالِحَةٌ فِي جَمِيعِ تَصَارُفِهِ لَا يَعْملُ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا يَبْنِي فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ وَالْمَنَاطِرَ وَالْمَدَارِسَ وَالزُّبُطَ وَيَهْدِي طُرُقَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ بَنَى غَيْرَ هَذَا فَلِلْعِيَالِ وَالْأَسْرَامِلِ وَالْفُقَرَاءِ وَمَا لَا بَدَمَ مِنْهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْنِيَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ بَدَلًا لَا يَبْنِي لِيَطْبَعَهُ وَهَوَاهُ وَنَفْسُهُ

إِذَا صَحَّ ابْنُ آدَمَ كَانَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ يَصِيرُ فَقْدَهُ بِاللَّهِ وَوُجُودَهُ  
 بِاللَّهِ يَلْتَحِقُ قَلْبُهُ بِالتَّيِّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ  
 يَقْبَلُ مَا جَاءَ بِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَرَأْيَانًا  
 وَرَأْيَانًا لَا جَرَمَ يَلْتَحِقُ بِهِمْ دُنْيَا وَآخِرَةً  
 الذَّاكِرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا أَحْيَى يَنْتَقِلُ  
 مِنْ حَيَاةٍ إِلَى حَيَاةٍ فَلَا مَوْتَ لَهُ سِوَى  
 لَحْظَةٍ إِذَا تَمَكَّنَ الذِّكْرُ فِي الْقَلْبِ  
 دَامَ ذِكْرُ الْعَبْدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ لَمْ  
 يَذْكُرْهُ بِلِسَانِهِ كُلَّمَا دَامَ الْعَبْدُ فِي  
 ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَامَتْ مُوَافَقَتُهُ  
 لَهُ وَرِصَانُهُ بِأَفْعَالِهِ إِنْ لَمْ تُوَافِقِ الْحَقَّ  
 عَزَّ وَجَلَّ فِي مِجْئِ الصَّيْفِ وَالْأَكْرَبَا  
 الصَّيْفِ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْهُ فِي مِجْئِ  
 الشِّتَاءِ وَالْأَبْرَدَا الشِّتَاءِ الْمُوَافَقَةُ  
 فِيهِمَا تَزِيلُ أَذِيَّتَهُمَا وَشِدَّةَ فِعْلِهِمَا  
 وَهَكَذَا الْمُوَافَقَةُ فِي الْبَلَايَا وَالْأَفَاتِ  
 تَزِيلُ الْكَرْبَ وَالصَّيْقَ وَالْحَرَجَ  
 وَالصَّحَرَ وَالْإِزْعَاجَ وَتُزِيلُ لَهَا مَا  
 أَعْجَبَ أُمُورَ الْقَوْمِ وَمَا أَحْسَنَ  
 أَحْوَالَهُمْ كُلَّ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ عِنْدَهُمْ طَيِّبٌ وَتَدَسَّقَاهُمْ  
 بَنَجَ مَعْرِفَتِهِ وَتَوَمَّهُمْ فِي حَجَرِ  
 لُطْفِهِ وَاسْتَمَّهُمْ بِأَنْسِهِ فَلَا جَرَمَ لَطِيبٌ  
 لَهُمُ الْمَقَامُ مَعَهُ وَالْغَيْبُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ

نفس کے جب ابن آدم درست ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تمام حالتوں  
 میں حق عزوجل کی سمیت میں رہتا ہے اس کا گم ہونا اور موجود  
 ہونا سب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا قلب ایثار و مرسلین  
 سے مل جاتا ہے وہ تمام ان باتوں کو جس کو انبیائے کرام و علیم  
 الصلوٰۃ والسلام نے کہا ہے ہیں قولاً اور عملاً اور ایتقاناً قبول کرتا  
 ہے اسی وجہ سے یہ دنیا و آخرت میں ان سے ملا ہوا رہتا ہے  
 اللہ کا یاد کرنے والا ہمیشہ زندہ ہے وہ ایک زندگی سے دوسری  
 زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے۔ سو ایک لمحہ کے اس کے لیے  
 موت نہیں۔ جب ذکر الہی قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ  
 اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والا رہتا ہے اگرچہ وہ زبان سے اس کا  
 ذکر نہ کرے جب بندہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو اس کی  
 موافقت اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے رضا مند رہنا ہر وقت  
 قائم رہتا ہے۔ اگر ہم گرمی کے آنے کے وقت حق عزوجل کی  
 موافقت نہ کریں تو گرمی ہم کو مصیبت میں ڈال دے اور اگر  
 ہم جاڑے کے آنے کے وقت اس کی موافقت نہ کریں تو  
 سردی ہم کو ٹھٹھڑا لے گی۔ ان دونوں میں موافقت کا اختیار  
 کرنا گرمی و جاڑے کی تکلیف اور ان کی سختی کو دور کر دیتا ہے  
 اسی طور سے نزول بلا و آفات کے وقت ان کی موافقت کرنا  
 اور ٹھنکی اور تکلیف و تنگ دلی اور اضطراب کو دور کر دیتی ہے۔  
 اولیاء اللہ کے معاملات کیسے عجیب اور ان کے حالات کیسے  
 اچھے بھلے ہیں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر آئے ان کے  
 نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شراب معرفت  
 پلا دی ہے اور ان کو اپنی مہربانی کی گودیوں میں لایا ہے اور اپنے  
 انس سے ان کو مانوس بنایا ہے اس لیے ضرور کہ ان کو خدا  
 کے نزدیک ٹھہرنا اور ماسوی اللہ سے غائب رہنا پسند ہے

لَا يَزَالُونَ مُوقِنِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ مَلَكْتَهُمُ  
الرَّهْبَةَ فَإِذَا أَشَاءَ أَكْثَرَهُمْ دَاغًا لَهُمْ  
وَأَحْيَاهُمْ وَكَتَبَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَصْحَابِ  
الْكِتَابِ فِي كَرِهِهِمُ الَّذِينَ قَالُوا فِي حَقِّهِمْ  
وَتَقَبَّلَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ هُمْ  
أَعْقَلُ النَّاسِ يُؤْمِنُونَ مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ  
الْمُغْفِرَ لَا وَاللَّجَّاءِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ هَذَا  
هَتَمُهُمْ

وَبِحَاثِكَ تَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَ  
تَرْجُو الْجَنَّةَ فَأَنْتَ طَامِعٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ  
الطَّمَعِ لَا تَقْتَرِ بِالْعَارِيَةِ وَتَنْظُرْ هَالِكًا عَنْ  
قَرِيبٍ تُؤْخَذُ مِنْكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ  
أَعَارَكَ الْحَيَاةَ حَتَّى تُطِيعَهُ فِيمَا حَبَسَتْهَا  
لَكَ وَعَدِمْتَ فِيهَا مَا أَرَدْتَ وَكَذَلِكَ  
الْعَافِيَةُ عَارِيَةٌ عِنْدَكَ وَكَذَلِكَ الْأَمْنُ  
وَالْجَاهُ وَجَمِيعُ مَا عِنْدَكَ مِنَ النِّعَمِ عَارِيَةٌ  
عِنْدَكَ لَا تُفْرِطْ فِي هَذِهِ الْعَوَارِجِ فَإِنَّكَ  
تُطَالِبُ بِهَا وَتُسَالُ عَنْهَا وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ  
مِنْهَا جَمِيعُ مَا عِنْدَكَ مِنَ النِّعَمِ مِنَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الطَّاعَةِ  
جَمِيعُ مَا تَرْغَبُونَ فِيهِ أَنْتُمْ  
عِنْدَ الْقَوْمِ شُغْلٌ وَشَاغِلٌ لَا  
يُرِيدُونَ غَيْرَ السَّلَامَةِ مَعَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ دُنْيَاً وَآخِرَةً  
عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ دَاغِي الْحَقِّ

وہ خدا کے حضور میں ہمیشہ مردہ بنے ہوئے ہیں ہیبت الہی ان کی  
مالک ہو چکی ہے۔ خدا جب چاہتا ہے ان کو اٹھا دیتا ہے اور  
کھڑا اور زندہ کر دیتا ہے اور ہوشیار بنا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ  
کی حضوری میں ایسے ہیں جیسے اصحاب کبیت رضی اللہ عنہم اپنی  
غار میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيْلَهُمُ الْجَنَّةُ  
ان کو دہننے بانیں کروٹیں دینے بہتے ہیں۔ وہی مخلوق میں سب سے  
زیادہ عقلمند ہیں تمام حالتوں میں پروردگار عالم سے منفرت نجات  
چاہتے بہتے ہیں۔ یہی ان کی ہیبت ہے۔

تجھ پر انوس: تو دروزخوں کے سے عمل کرتا ہے، اور  
جنوں کا امیدوار بنا ہوا ہے جو لالچ کی جگہ نہیں ہے اس کا تو لالچی  
ہے تو عاریت پر غور وہ کہ تو اس کو اپنا لگان کر رہا ہے وہ رعایت  
تجھ سے غفر میب لے لی جائے گی۔ حق عزوجل نے حیات  
زندگی تجھے اس لیے عاریت دی ہے تاکہ تو تجارت زبیت  
اس کی اطاعت کرے لیکن تو نے اس کو اپنا سمجھ لیا ہے اور اس  
میں جیسا چاہا تو عمل کرنے لگا جیسے کہ حیات عاریت ہے،  
اسی طور سے عافیت تیرے پاس عاریت ہے اور ایسی ہی  
امیری اور امن و جاہ اور جو کچھ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں  
سے ہے تو ان عاریت کی چیزوں میں حد سے تجاوز نہ کر لیتنا  
تجھ سے ان کا مطالبہ کیا جائے گا اور ہر نعمت کا جو تیرے پاس  
ہے اس کا تجھ سے سوال کیا جائے گا تمہارے پاس جو بقدر  
نعمتیں ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں تم ان سے خدا کی اطاعت  
پر مدد و تمام وہ چیزیں جن پر تیری نعمتیں ہیں اہل اللہ کے  
نزدیک ایسے مشغلہ ہیں جو خدا سے روکنے والے ہیں وہ دنیا  
و آخرت میں حق تعالیٰ کے ساتھ سلامتی کے سوا کسی چیز کا ارادہ  
نہیں کرتے۔ بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے خلق کے معاملہ

میں حق عزوجل کی موافقت کرو اور حق تعالیٰ کے معاملہ میں خلق کی موافقت نہ کرو جو ٹوٹا وہ ٹوٹ گیا اور جو جوڑا وہ جوڑ گیا اللہ کے نیک بندوں سے جو اس کے ہر کام میں موافقت کرنے والے ہیں حق تعالیٰ کی موافقت کرنا سیکھو۔

عَزَّوَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تَوَافِقِ الْخَلْقَ فِي الْحَقِّ انْكَسَرَ مَنْ انْكَسَرَ وَانْجَبَرَ مَنْ انْجَبَرَ وَتَعَلَّمُوا مَوَاقِفَةَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ الْمُوَافِقِينَ۔

## سترھویں مجلس

۱۴ ار ذی قعدة النجیب ۵۴۵ھ ہجری المقدس  
کو صبح کے وقت جمعہ کے دن مدرسہ  
قادریہ میں ارشاد فرمایا:

تو اپنے رزق کے غم و فکر میں مت رہ بہ تحقیق رزق کی طلب تیرے لیے تیرے رزق کے طلب کرنے سے زیادہ سخت ہے جب تجھے آج کا رزق مل جائے تو اُسے والی کل کے رزق کا غم و فکر چھوڑ دے جیسے کہ گزشتہ کل کو تو نے چھوڑ دیا ہے کل گزشتہ گزر چکی اور اُسے والی کل کا حال تجھے کیا معلوم آیا تیرے لیے آتی بھی ہے یا نہیں تو اپنے آج ہی کے دن میں مشغول رہ۔ اگر تجھے حق عزوجل کی معرفت حاصل ہوتی تو البتہ تو اس کے سبب سے طلب رزق سے غفلت کرتا اللہ تعالیٰ کی مہبت تجھ کو طلب رزق سے روک دیتی اس لیے کہ جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان گوئی ہو جاتی ہے خدا کی حضور ہی میں عارف باللہ ہمیشہ گونگا رہتا ہے۔ حق عزوجل ہی اس کو خلق کی مصلحتوں کی طرف لوٹا دیتا ہے پھر جب حق تعالیٰ اس کو خلق کی طرف لوٹا دیتا ہے تو اس کی زبان سے گونگانا اور دمانگی دور فرما دیتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرایا کرتے تھے ان کی زبان میں

## المجلس السابع عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَكْرَةً بِالدَّسَاسَةِ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ۔

لَا تَهْتَمَّ بِرِزْقِكَ فَإِنَّ طَلَبَكَ لَكَ انْتَدَمٍ مِنْ طَلَبِكَ لَهُ إِذَا حَصَلَ لَكَ رِزْقُ الْيَوْمِ فَدَعْ عَنْكَ الْإِهْتِمَامَ بِرِزْقِكَ عَلَى كَمَا تَرَكْتَ آمْسٍ مَضَى وَعَدُّ لَا تَدْرِي هَلْ يَصِلُ إِلَيْكَ أَمْ لَا اسْتَغْلُ بِيَوْمِكَ لَوْ عَرَفْتَ الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ لَا اسْتَغْلَتْ بِهِ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ كَأَنْتَ هَيِّبَتُهُ تَتَبَعَكَ عَنِ الطَّلَبِ مِنْهُ لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ لِسَانُهُ لَا يَذَالُ الْعَارِفُ أَخْرَسَ اللِّسَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى مَصَالِحِ الْخَلْقِ فَإِذَا سَرَدَكَ إِلَيْهِمْ سَرَفَتْ أَلْسِنُهُ عَنْ لِسَانِهِ وَالْعَجْمَةُ عَنْهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ يَرْعَى الْعَنَاقُ كَانَ فِي لِسَانِهِ

لَكِنَّهُ وَعُجِّلَهُ وَعُجِّلَهُ وَوَقَفَهُ فَلَمَّا  
 ارَادَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ أَلْهَمَهُ  
 حَتَّى قَالَ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا  
 قَوْلِي هُكَ كَانَتْ يَقُولُ لَمَّا كُنْتُ فِي السَّبْيَةِ  
 فِي رَحِي الْغَلَمِ لَمَّا احْتَبْتُمْ إِلَى هَذَا أَوَّلًا  
 فَمَا جَاءَ شُعْلِي مَعَ الْحَلِيِّ وَالْكَلَامُ لَهُمْ  
 فَأَعْبَى بِذِهَابِ الْكَلَالِ مِنْ لِّسَانِي فَرَفَعَهُ  
 الْعُقْدَةُ مِنْ لِّسَانِهِ فَكَانَ يَتَكَلَّمُ  
 بِتَسْعِينَ كَلِمَةً فَصَبِيحَةً مَعَهُ مَوْمَةً  
 يَقْدِرُ مَا يَتَكَلَّمُ غَيْرُهُ كَلِمَاتٍ  
 يَسِيرَةً فِي حَالٍ صَغِيرَةٍ دَامَ أَنْ يَتَكَلَّمَ  
 فِي غَيْرِ حِينِهِ بَيْنَ يَدَيِ خُرْعُونَ وَاسِيَّةٍ  
 فَلَقَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَمْرَةَ

يَا غُلَامَ ارَاكَ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ يَا اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ يَا وَدَّيَا  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَبْدَالِ الْإِنْبِيَاءِ وَخُلَفَائِهِ  
 فِي خُلُقِهِ أَنْتَ خَالٍ مِنْ مَعْنَى أَنْتَ قَفَضَ  
 بِأَطَائِدِ بَيْتٍ فَارَعَ خَرَابُ شَجَرَةٍ وَتَدَا  
 بِكَيْسَتْ وَتَنَاشَرَتْ وَفَهَا عِمَارَةٌ فَكَلَبَ  
 الْعَبْدُ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِ حَقِيقَتِي فِي حَقِيقَتِهِ  
 وَهِيَ الْإِسْلَامُ سَلَّمَ كُلَّكَ إِلَى الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ يُسَلِّمُ إِلَيْكَ نَفْسَكَ وَعَيْرَكَ  
 تَخْرُجُ بِقَلْبِكَ مِنْكَ وَمِنَ الْخَلْقِ تَقِفُ  
 بَيْنَ يَدَيْهِ عُرْيَانًا عَنْكَ وَعَنْهُمْ فَإِذَا شَاءَ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ الْبَسَكَ وَكَسَاكَ وَمَا ذَكَ إِلَى

کنت اور عجلت اور در ماندگی اور ٹھہراؤ تھا پس جب حق عز و  
 جل نے ان کو مخلوق کی طرف متوجہ فرمایا موسیٰ کو الہام فرمایا یہاں  
 تک کہ انہوں نے کہا الہی میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ  
 لوگ میری بات سنیں۔ گویا وہ یوں فرماتے تھے کہ جب تک میں  
 جنگل میں بکریاں چرانے میں تھا اس بات کا حاجت مند نہ ہوا  
 اب کہ مجھ کو مخلوق کے ساتھ مشغول رہنے اور گنت گو کا موقع  
 آیا پس تو میری زبان کی ٹانڈی دور فرمانے میں میری مدد کر اس  
 وقت موسیٰ کی زبان کی گرہ اٹھا دی گئی پس جتنی دیر میں اور آدمی  
 چند کلمے بول سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر میں نوے کلمہ فصیح  
 جو اچھی طرح سمجھ میں آئیں بولتے تھے جب آپ نے خورد  
 سالی میں فرعون و آسیہ کے رو برو نا وقت گفت گو کرنا چاہی  
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں چٹکاری کا لقمہ بنا دیا تاکہ  
 سکوت فرمائیں۔

اے غلام! میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو اللہ و رسول اور اولیاء  
 اللہ اور ابدال کی معرفت سے جو کہ انبیاء کے کرام کے جانشین ہیں  
 اور مخلوق میں ان کے خلیفہ ہیں، بہت کم واقف ہے تو معنی  
 سے خالی ہے۔ حقیقت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو بغیر پرند کا پیچ رہے  
 تو خالی و ویران مکان ہے تو ایسا درخت ہے جو خشک ہو گیا ہو  
 اور اس کے پتے گر گئے ہوں بندہ کے قلب کی آبادی اسلام  
 سے ہے پھر اس کی حقیقت کی تحقیق سے جو کہ اپنے آپ کو  
 خدا کے حوالہ کر دینا ہے تو کلیتہً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے  
 وہ تیرے نفس کو اور تیرے غیر کو تیرے حوالہ کر دے گا۔ تو دل کے  
 ساتھ اپنی ذات اور مخلوق سے نکل کر اس کی حضوری میں اپنے  
 آپ اور غیر سے برہنہ و جدا ہو کر کھڑا ہو جائے گا پھر جب حق  
 عز و جل چاہے گا تجھ کو باس پٹا دے گا اور تجھ کو خلق کی طرف

واپس بھیجے گا پس تو اپنی ذات میں اور دیگر مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے خدا کی رضا مندی کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے بعد اس کے انتظار میں ہر حکم کے انتظار میں ہر حکم میں موافقت کرنے والا بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہر شخص جو ماسوی اللہ سے مجروح ہو کر اپنے قلب باطن کے قدموں پر کھڑا ہو کر اس کی حضوری میں رہے گا پس وہ زبان حال سے ویسا ہی کہے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وعجلت الیک اللقے رب میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے اپنی دنیا و آخرت اور سب خلق کو چھوڑ دیا تمام اسباب کو اور ارباب کو چھوڑ دیا اور تیری طرف جلدی کر کے اس لیے آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور اس سے پہلے جو میں مخلوق کے ساتھ ٹھہرا ہا اس کو بخش دے۔

اے جاہل! تجھے ان باتوں سے کیا مطلب۔ تو تو اپنے نفس اور اپنی دنیا و غماہشات اور خلق کا بندہ ہے تو خلق کو شریک خدا بنانے والا بندہ ہے کیوں کہ نفع و نقصان میں تیری نظر تو ان کی طرف ہی جاتی ہے اور تو تو جنت کا بندہ ہے اس میں داخل ہونے کا امیدوار ہے تو دوزخ کا بندہ ہے اس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے۔ تم اس خدا سے جو کہ دلوں اور بینائیوں کا پلٹ دینے والا جو ہر شے کو کن کہہ کر پیدا کرنے والا ہے، کہاں بھاگے ہوئے ہو؟

اے غلام! تو اپنی طاعت کے سبب سے خدا سے روگردانی نہ کر اور اس پر نذر نہ کر۔ حق سچائے سے قبولیت طاعت کی دعا کہ اور اس امر سے کہ کہیں وہ تجھ کو معصیت کی طرف راجع نہ کر دے ورنہ۔ تجھے اس سے کون نذر کر رہا ہے کہ تیری طاعت سے کہہ دیا جائے معصیت بن جا اور تیری صفائی سے کہہ دیا جائے

الْخَلْقِ فَمَتَّئِلٌ أَمْرًا فَبَيْنَكَ وَبَيْنَنَا  
الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْسِلُ  
ثُمَّ تَقَعُ مِنْتَظِرًا إِلَيْنَا يَا مَرْيَمُ مُوَافِقًا  
يَكُلُّ مَا يَحْكُمُ عَلَيْكَ بِهِ كُلُّ مَنْ تَجَرَّدَ  
عَمَّا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَفَتْ بَيْنَ  
يَدَيْهِ عَلَى أَقْدَامِ قَلْبِهِ وَسِرِّهِ فَقَدْ قَالَ  
بِلِسَانِ الْحَالِ كَمَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ لِتَرْضَى عَزَلْتُ دُنْيَايَ  
وَآخِرَتِي وَجَمِيعَةَ الْخَلْقِ قَطَعْتُ الرُّسَبَابَ  
وَحَلَعْتُ الْأَرْبَابَ وَجِئْتُ إِلَيْكَ مُسْتَعِجِلًا  
لِتَرْضَى عَنِّي وَتَغْفِرَ لِي وَفَرِّ مَعَهُمْ مِّنْ  
قَبْلُ۔

يَا جَاهِلُ مَا لَكَ وَلِهَذَا أَنْتَ عَبْدُ  
الْخَلْقِ مُشْرِكٌ بِهِمْ لِأَنَّكَ تَرَاهُمْ  
فِي الصَّبْرِ وَالتَّفَعُّعِ وَأَنْتَ عَبْدُ الْجَنَّةِ  
تَرْجُوا دُخُولَهَا وَأَنْتَ عَبْدُ النَّارِ  
تَخَافُ مِنْ دُخُولِهَا آيِنَ أَنْتُمْ  
كُلُّكُمْ مِنْ مُّقَدِّبِ الْقُلُوبِ وَ  
الْأَبْصَارِ الْقَائِلُ لِلشَّيْءِ كُنْ  
فَيَكُونُ۔

يَا غَلَامُ لَا تَعْرِضْ بِطَاعَتِكَ وَتَعْجَبْ  
بِمَا إِسْأَلَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُبُولُهَا  
وَاحْذَرُ وَخَفْ أَنْ يَنْقُذَكَ إِلَى غَيْرِهَا  
أَيْشِ أَمْنِكَ أَنْ يُقَالَ بِطَاعَتِكَ  
كُونِي مَعْصِيَةً وَاصْفَاةً

كُنْ كَذَّابًا عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مَعَهُ  
 شَيْءٌ وَلَا تَخْتَرُ بَشِيئَةً لَّا يَأْمَنُ حَتَّى يَخْرُجَ  
 مِنَ الدُّنْيَا عَلَى سَلَامَةٍ دِينِهِ وَ  
 حِفْظِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -  
 يَا قَوْمُ عَلَيْكُمْ بِأَعْمَالِ الْفَلَوْبِ  
 وَإِخْلَاصِهَا وَإِلَّا خَلَّصَ لَهَا هُوَ الْقَطْعُ بَيْنًا  
 سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ هِيَ الْأَصْلُ مَا أَرَى أَكْثَرَكُمْ إِلَّا  
 كَذَّابِينَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ فِي الْخَلَوَاتِ  
 وَالْجَلَوَاتِ مَا لَكُمْ ثَبَاتٌ لَكُمْ أَقْوَالٌ بِلَا  
 أَفْعَالٍ وَأَفْعَالٌ بِلَا إِخْلَاصٍ وَلَا تَوْحِيدٍ  
 إِنْ نَحْنِيتُ الدِّهَانِ الَّذِي بِيَدَيَّ وَرَضِيكَ  
 أَيْشٍ يَنْفَعُكَ تَبَعِي أَنْ يَقْبَلَكَ وَيَرْضَاكَ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَرِيبٍ تَقْتَضِيهِ  
 قُرْأَتُكَ عِنْدَ السَّيِّئِ وَإِيقَادِ النَّارِ  
 يُقَالُ هَذِهِ بَيْضَاءُ هَذِهِ سَوْدَاءُ هَذِهِ شَبَّهُ  
 فَيَخْرُجُ الْكُلُّ مَذْبُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ  
 لِجَمِيعِ أَعْمَالِكَ الَّتِي نَافَقْتَ مِنْهَا هَكَذَا  
 كُلُّ عَمَلٍ بَغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاطِلٌ  
 أَعْمَلُوا وَاجْتَبُوا وَاصْحَبُوا وَاطْلُبُوا مَنْ  
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشَّيْخُ الْبَصِيرُ الْفَوَّ  
 ثُمَّ أَتَيْنَا أَنْفُسَنَا مَا لَا يَدِينُ بِهِ وَأَتَيْنَا لَهُ  
 مَا يَلِينُ بِهِ وَهُوَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَ لَهُ  
 رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَدْتُمْ هَذَا  
 زَالَ التَّشْبِيهُ وَالتَّعْطِيلُ مِنْ قُلُوبِكُمْ

کہ تو مکر رہو جا۔ عارف باللہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ٹھہرتا اور کسی شے  
 سے دھوکہ نہیں کھاتا اور جب تک کہ وہ دنیا سے دین کی سلامتی  
 اور حفاظت الہی کے ساتھ ان معاملات میں جو اس کے اور خدا  
 کے درمیان میں ہیں نکل نہیں جاتا امن میں نہیں رہتا ہے۔  
 اے قوم! تم قلب کے اعمال و اخلاص کو لازم پکڑو۔ اخلاص  
 ظاہری ماسوی اللہ سے قطع نفی کرنا ہے اور معرفت الہی اس کی جڑ  
 میں تم میں سے اکثر لوگوں کو اقوال و افعال، مخلوتوں جلوتوں میں جھوٹ  
 بولنے والا دیکھ رہا ہوں، تنہا سے لیے ثابت قدمی نہیں رہتا ہے  
 دعوے کے گواہ نہ رہا ہے اقوال بلا افعال ہیں اور افعال بلا اخلاص  
 و بلا توحید کے۔ اگر تو اس کسوٹی سے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے،  
 دوری کرے اور یہ تجھے پسند آجائے تو تیرے لیے کیا نفع و  
 - کاتجھ کو خدا کی مقبولیت اور خدا کی رضامندی کی خواہش بحالت  
 موجودہ بے سود ہے۔ غنقریب تیرے پترے چاندی کے لے  
 کر بچھلاتے وقت اور آگ دہکاتے وقت رسوا ظاہر ہو جائیگا  
 کہا جائے گا یہ سپید ہے، یہ سیاہ، یہ ملع و مخلوط کردہ ہے  
 قیامت کے دن ہر ایک پیٹھ پھرنے والا خراب حال میں نکلا  
 جائے گا۔ تیرے ان عملوں کے لیے جس میں تو نے نفاق بڑھا،  
 اسی طور سے کہا جائے گا۔ ایسا ہی ہر عمل جو غیر اللہ کے لیے ہو  
 باطل ہے۔ تم عمل کرو اور محبت و دوستی کے ساتھ کرو اور  
 مصاحبت کرو اور ایسی ذات کو جس کی مثل کوئی نہیں طلب کرو،  
 وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نفی کرو پھر اثبات کرو واللہ سے  
 ایسی چیز کی جو اس کے لائق نہیں نفی کرو اور اس چیز کا جو اس کے  
 لائق ہے اثبات کرو اور وہ وہی شے ہے جس کو خدا نے خود  
 اور اللہ کے رسول نے اللہ کے واسطے پسند کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم  
 جب تم ایسا کرو گے تمہارے دلوں سے تشبیہ و تعطیل جاتی رہیگی

إِصْحَبُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ وَالصَّالِحِينَ  
مِنْ عِبَادِهِ يَا لَاجِلَالِ وَالْإِعْظَامِ وَالْإِحْتِرَامِ  
إِنْ أَرَدْتُمْ الْفَلَاحَ فَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
عِنْدِي إِلَّا بِحُسْنِ الْأَدَبِ وَالْإِفْلَاحِ يَحْضُرُ  
مَا تَزَالُونَ فِي فُضُولٍ فَأَتَرَكُوا الْفُضُولَ  
هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي تَسْكُونُونَ عِنْدِي فِيهَا  
رُبَّمَا كَانَ فِي الْجَمْعِ مَنْ يَحْتَرِمُ وَيُحْسِنُ  
الْأَدَبَ مَعَهُ مِنْ قَوْمَاءٍ عَقُولُهُمْ وَأَفْهَامُهُمْ  
الطَّبَائِعُ يَعْرِفُ طَبِيعَتَهُ وَالْخُبَرَاءُ يَعْرِفُ  
خُبْرَهُ وَالصَّانِعُ يَعْرِفُ صَنَعَتَهُ وَصَاحِبُ  
الدَّعْوَةِ يَعْرِفُ الدَّعْوَةَ إِلَيْهَا الْحَاضِرِينَ  
فِيهَا دُنْيَاكُمْ قَدْ أَعْمَتَتْ قُلُوبَكُمْ وَمَا  
تُبْصِرُونَ بِهَا شَيْئًا أَحَدٌ رَوَّاهَا فَهِيَ  
تَمَكِّنُكُمْ مِنْ تَفْسِيرِهَا تَارَةً بَعْدَ أُخْرَى  
حَتَّى تُدَارِجَكُمْ وَفِي الْأَخِيرَةِ تَدْبِجُكُمْ  
تُسْقِيكُمْ مِنْ شَرَابِهَا وَبِنُحْرِهَا تَقْطَعُ  
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَتَسْمُلُ أَعْيُنَكُمْ فَإِذَا  
ذَهَبَ الْبَنْجُ وَجَاءَتِ الْإِفَاقَةُ سَأَلْتُمْ  
مَا صَنَعَتْ بِكُمْ هَذَا عَاقِبَةُ حُبِّ الدُّنْيَا وَالْعَدُوَّةِ  
وَالْوَغْصِ عَلَيْهَا وَعَلَى جَمْعِهَا هَذَا أَفْعَلُهَا أَحَدٌ وَافْعَلَهَا  
يَا غُلَامَ لَا فَلَاحَ لَكَ وَأَنْتَ تَحْتَرِمُهَا  
أَنْتَ يَا مُدَّعِي مَحَبَّةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا فَلَاحَ لَكَ وَلَا صِحَّةَ وَأَنْتَ  
تُحِبُّ الْآخِرَةَ أَوْ شَيْئًا مِمَّا سِوَاهَا فِي  
الْجُمْلَةِ الْعَارِفُ الْمُحِبُّ لَا يُحِبُّ

تم اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی اور اس کے نیک بندوں کی  
تفہیم و تکریم و احترام کے ساتھ صحبت اختیار کرو اگر تم فلاح و نجات  
چاہتے ہو تو تم میں سے کوئی میرے دربار میں بغیر حسن ادب کے  
نہ آئے ورنہ حاضری نہ ہو۔ تم ہمیشہ فضولیات میں رہتے ہو جس گھڑی  
میرے پاس آیا کرو اس وقت تم فضول امور کو چھوڑ دیا کرو۔ بسا  
اوقات مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قابل احترام ہوتے  
ہیں اور ان کا حسن ادب لازمی ہوتا ہے اور وہ تمہاری عقل و فہم  
سے پرے ہے باورچی اپنی لپکائی ہوئی چیز کو، نانہائی اپنی روٹی  
کو اور کارگر اپنی صنعت کو پہچانتا ہے اور دعوت دینے والا  
ان کو جن کو دعوت دی گئی ہو اور جو دعوت میں حاضر ہیں پہچانتا ہے  
تمہاری دنیا نے تمہارے قبول کو اندھا بنا دیا ہے پس تم کو اس  
بست کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تم دنیا سے پھر پس وہ تم کو اپنے  
نفس پر کیے بعد و گھرے قابو دیتی ہے اور اپنے میں داخل کر  
لیتی ہے اور آخرت میں تمہیں ذبح کر دے گی وہ تم کو اپنی شراب  
و بھنگ پلاتی ہے پھر تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دیتی ہے،  
اور تمہاری آنکھوں میں سلائی پھرتی ہے۔ پس جب اس بھنگ  
کا نشہ اترے گا اور افاقہ ہو گا اس وقت تمہیں معلوم ہو گا کہ  
دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ کیا یہ دنیا کی محبت اور اس کے  
پیچھے دوڑنے اور اس کے جمع کرنے پر محرم کا انجام ہے  
یہ اس کا فعل ہے لہذا ڈرو دنیا سے۔

اے غلام! تو جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اس میں تیرے  
لیے کچھ بھی فلاح نہیں۔ اے مدعی تیرا دعویٰ ہے تو اللہ کو دوست  
رکھنے والا ہے حالانکہ تو آخرت اور ماسوی اللہ سے دوستی  
رکھتا ہے اس میں تیرے لیے فلاح و صحت نہیں بخل صبر  
کلام یہ ہے کہ عارف باللہ خدا کا دوست رکھنے والا، نہ اُن کی

هَذِهِ وَلَا هَذِهِ وَلَا مَا سَوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَمَحُّبَةً لَهُ وَتَحَقُّقَ أَتَتْهُ أَقْسَامُهُ مِنَ الدُّنْيَا مَهْنَةً مُكَفَّاةً وَكَذَاكَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْآخِرَةِ فَجَمِيعُ مَا تَرَكَهُ وَمَا أَظْهَرَهُ يَدْرَأُ عِنْدَ بَابِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ قَدْ سَبَقَهُ إِلَى هُنَاكَ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ لَوَجْهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يُعْطَى أَوْلِيَاءَهُ أَقْسَامَهُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَهُمْ فِي مَعْزِلٍ عَنْهَا حُطُوطُ الْقَلْبِ بَاطِنَةٌ وَحُطُوطُ النَّفْسِ ظَاهِرَةٌ فَحُطُوطُ الْقَلْبِ لَا تَأْتِي إِلَّا بَعْدَ مَدِّمِ النَّفْسِ حُطُوطُهَا فَإِذَا امْتَنَعَتْ انْفَتَحَتْ أَبْوَابُ حُطُوطِ الْقَلْبِ حَتَّى إِذَا اسْتَعْفَى الْقَلْبُ بِحُطُوطِهِ مِنَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ جَاءَتْ الرَّحْمَةُ لِلنَّفْسِ يُقَالُ لِهَذَا الْعَبْدِ لَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ فَيَأْتِيَهَا حِينَئِذٍ حُطُوطُهَا فَتَنَاقُلُهَا وَهِيَ مُطْمَئِنَّةٌ دَعْمُ مُجَالَسَةِ مَنْ يُرْغِيكَ فِي الدُّنْيَا وَأَطْلُبْ مُجَالَسَةَ مَنْ يَزِيدُكَ فِيهَا الْجَنَسُ يَمِيلُ إِلَى الْجَنَسِ يَطُوفُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْمُحِبُّ عَلَى الْحَبِيبِ حَتَّى يَجِدَ مَحْبُوبَهُ عِنْدَ الدَّحْبُونِ لِلَّهِ يَتَحَابُّونَ فِيهِ فَلَا جَرَمَ يُحِبُّهُمْ وَيُؤَيِّدُهُمْ وَيَشُدُّ بَعْضُهُمْ يَبْعُضُ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى دَعْوَةِ الْخَلْقِ يَدْعُوَنَهُمْ

دوست رکھتا ہے نہ اس کو اور نہ ماسوی اللہ کو۔ جب اس کی یہ محبت کامل اور مستحق ہو جاتی ہے تب اس کو دنیا سے ایسے حصے ملتے ہیں جو غوث گوار کو کافی ہوتے ہیں اور جب وہ آخرت کی طرف پہنچے گا اسی طور سے تمام ان چیزوں کو جن کو پس پشت ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ کے دروازے کے روبرو ایسی حالت میں دیکھے گا کہ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں کیوں کہ اس نے ان کو اللہ عزوجل کے لیے ہی چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو وہ چیزیں جو ان کے مقصود کی ہیں ایسی حالت میں عطا فرماتا ہے وہ ان سے یکسو ہوتے ہیں۔ حُطُوطُ قَلْبِی بَاطِنِی ہیں اور حُطُوطُ نَفْسِ ظَاهِرِی پس حُطُوطُ قَلْبِی بغیر اس کے کہ نفس کو اس کے حُطُوط سے روکا جائے حاصل نہیں ہوتے۔ پھر جب نفس کو روک دیا جاتا ہے حُطُوطُ قَلْبِی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب قلب ان حُطُوط سے جو اللہ کی طرف سے ملے تھے بے پروائی برتا ہے نفس کے لیے رحمت الہی آتی ہے پس بندہ سے کہا جاتا ہے تو اپنے نفس کو قتل نہ کر۔ پس اس وقت نفس کو اس کے حصے حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کر ان کو لے لیتا ہے تو ان لوگوں سے میل جول چھوڑ دے جو تجھے دنیا کی رغبت دلائیں اور جو تجھے دنیا سے بے پروا بنائیں تو ان کی ہمیشہی تلاش کر۔ ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے ان میں سے بعض بعض پر چکر لگاتے ہیں محب مجاہد کے پاس ہی جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس اپنے محبوب کو پالیں۔ اللہ کے چاہنے والے اسی کی راہ میں دوستی رکھتے ہیں پس یقیناً خدائے تعالیٰ ان کو درست بنا لیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے اور بعض کو بعض کے ساتھ تقویت پہنچاتا ہے غلظت کو دھڑلہ الہی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان کو ایمان و

إِلَى الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ فِي  
الْعَمَلِ يَأْخُذُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيُوقِفُوهُمْ  
عَلَى ظَرْيِنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ خَدَمَ  
خُدَمَ وَمَنْ أَحْسَنَ يُحَسِّنُ إِلَيْهِ وَمَنْ  
يُعْطَى إِذَا عَمِلْتَ لِلتَّارِ كَأَنْتَ التَّارُ لَكَ  
غَدَا كَمَا تَدِينُ تَدَانُ كَمَا تَكُونُ يَكُونُ  
عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَمَلُكُمْ تَعْمَلُ عَمَلُ  
أَهْلِ التَّارِ وَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
الْجَنَّةَ كَيْفَ تَتَمَتَّى الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ  
عَمَلٍ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَرْبَابُ الْقُتُوبِ  
فِي الدُّنْيَا الدِّينِ عَمِلُوا يَفْلُتُوا بِهِمْ لَا  
يَجُورُ إِرَاحِهِمْ وَحَسَبُ الْعَمَلِ بِغَيْرِ  
مُؤَاطَاةِ الْقَلْبِ أَيْشَ يَعْمَلُ بِقَلْبِهِ وَ  
جَوَاحِرِهِ يَعْمَلُ بِقَلْبِهِ قَبْلَ جَوَاحِرِهِ  
الْمُؤْمِنُ حَيٌّ وَالْمُتَأَنِّفُ مَيِّتٌ وَالْمُؤْمِنُ  
يَعْمَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُتَأَنِّفُ يَعْمَلُ  
لِلدُّخَانِ يَطْلُبُ مِنْهُمْ الْمَدَاحَ وَ  
الْعَطَاءَ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ  
فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فِي خَلْقِهِ  
وَجَلْوِيَّتِهِ فِي الشَّرَاءِ وَالصِّرَافِ  
وَعَمَلُ الْمُتَأَنِّفِ فِي جَلْوِيَّتِهِ وَحَسَبُ  
عَمَلِهِ عِنْدَ الشَّرَاءِ فَإِذَا جَاءَتِ الصِّرَافُ لَا  
عَمَلُ لَهُ لَا صُحْبَةَ لَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا  
إِيمَانُ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ وَكُتِبَ لَهُ  
يَذْكُرُ الْحَشَرَ وَالنَّشْرَ وَالْحِسَابَ إِسْلَامُهُ لِيُسَلِّمَ

توحید کی طرف اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف دعوت  
دیتے ہیں۔ مخلوق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے راستہ پر ان کو لا کر کھڑا کر  
دیتے ہیں جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنا جس نے اسمان کیا،  
اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی جو عطیہ دے گا اس کو عطیہ دیا جائیگا  
جب تو دوزخ کے کام کرے گا کل نیز اٹھ کا نا دوزخ بن جائیگی  
تو میسا کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا جیسے تم ہو گے ویسے تم پر  
حاکم مقرر کیے جائیں گے تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں تو دوزخ  
والوں کے سے عمل کرتا ہے اور اللہ عزوجل سے جنتوں کی امید رکھتا  
کرتا ہے تو جنت کی تمنا بغیر جنت والوں کے عمل کے کیوں کر  
کرتا ہے۔ اصحاب جنت وہ ارباب قلوب ہیں جنہوں نے  
دنیا میں رہ کر اپنے قلوب سے عمل کیے تھے نہ کہ محض اپنے  
اعضائے ظاہری سے عمل بغیر موافقت قلب کے کیا چیز ہے  
کیا عمل کرتا ہے۔ ریاکار اعضائے ظاہری سے عمل کرتا ہے  
اور مخلص قلب و اعضائے ظاہری دونوں سے عمل کرتا ہے  
اس کا عمل اول قلب سے ہوتا ہے پھر دوسرے اعضا سے  
مومن زندہ ہے اور منافق مردہ۔ مومن اللہ عزوجل کے لیے  
عمل کرتا ہے اور منافق خلق کے لیے عمل کر کے اس پر خلق  
سے مدح و عطا کا طالب ہوتا ہے۔ مومن کا عمل ظاہر و باطن  
جلوت و خلوت میں ہر جگہ یکساں ہوتا ہے راحت میں بھی اور  
تکلیف میں بھی اور منافق کا عمل محض جلوت میں ہوتا ہے اس  
کا عمل محض راحت میں ہی ہے پس جب اس پر مصیبت  
آجاتی ہے تو نہ اس کے لیے عمل ہوتا ہے نہ خدا کی محبت  
و معیت اس کا اللہ عزوجل اور اس کے رسولوں اور اس کی  
کتابوں پر ایمان ہی نہیں نہ وہ حشر و نشر کو یاد کرتا ہے اور نہ حساب  
و کتاب کو اس کا اسلام صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا

سر اور مال دنیا میں سلامت ہے نہ اس لیے کہ آخرت میں  
اس آگ سے جو کہ مذاب الہی ہے سلامت  
رہ سکے۔ اس کا روزہ اور نماز اور علم پڑھنا لوگوں کے سامنے  
ہی ہوتا ہے جب ان سے جدا ہو جاتا ہے تب اپنے مشغلہ  
اور کفر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے اس  
حالت سے پناہ مانگتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اخلاص کا سوال  
کرتے ہیں۔ آمین!

اے غلام! اپنے عملوں میں اخلاص کو لازم پکڑ اور اپنی  
آنکھ کو عمل اور اس پر خلق و خالق سے عوض طلب کرنے سے  
اٹھالے نیز عمل محض اللہ کی ذات کے لیے ہو نہ کہ اس کی نعمت  
کے لیے۔ تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس کی ذات کو چاہتے  
ہیں اسی کو چاہ یہاں تک کہ وہ تجھے تیرا مقصد عطا فرمائے پس  
جب یہ عطیہ اس کی طرف سے تجھے مل جائے گا تو تجھے دنیا  
و آخرت میں جنت حاصل ہو جائے گی دنیا میں اس سے قرب  
اور آخرت میں دیدار الہی۔ اور جس بدلہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو  
تابع اور اس کے ضمن میں ہے۔

اے غلام! تو اپنے نفس اور مال کو اس کی تقدیر اور  
حکم اور قضا کے ہاتھ میں سوپ دے۔ آج سودا خریدار کے  
حوالہ کر دے وہ کل تجھے قیمت ادا کرے گا۔ بندگان خدا نے  
خدا کی طرف اپنے نفس و قیمت و سودا سب کو حوالہ کر دیا،  
اور کہہ دیا کہ نفس و مال و جنت اور نیرے سوا جو کچھ ہے وہ  
سب تیرا ہے۔ ہم تیرے سوا کوئی چیز نہیں چاہتے۔ پڑوسی گھر  
سے پہلے اور رفیق راستہ چلنے سے پہلے تلاش کرنا چاہیے  
اے جنت کے خواستگار اس کی خریداری اور آبادی آج ہے  
نہ کہ کل۔ جنت کی نہروں کا کھونا ان میں پانی کا بہانا آج ہی ابتدا

رَأْسُهُ وَمَالُهُ فِي الدُّنْيَا لَا يَبْسَلَمَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ الَّتِي هِيَ عَذَابُ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَرَأَّى الْعِلْمَ بِجَنَّةِ  
النَّاسِ فَإِذَا اخْلَا عَنْهُمْ رَجَعَ إِلَى شُغْلِهِ وَ  
كُفْرِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ هَذِهِ  
الْحَالَةِ نَسَأُ لَكَ إِخْلَاصًا فِي الدُّنْيَا وَ  
إِخْلَاصًا عِنْدَ الْآخِرَةِ.

يَا غُلَامُ عَلَيْكَ بِالْإِخْلَاصِ فِي  
الْأَعْمَالِ وَارْفَعْ بَصَرَكَ مِنْ عَمَلِكَ وَطَلَبِ  
الْعَوِصِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ اْعْمَلْ  
لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا لِنِعْمَةٍ كُنْ مِنَ الَّذِينَ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أَطْلُبْ وَجْهَهُ حَتَّى يُعْطِيَكَ  
فَإِذَا أَعْطَاكَ ذَلِكَ حَصَلَ لَكَ الْجَنَّةُ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا الْقُرْبُ مِنْهُ وَفِي  
الْآخِرَةِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَالْجَزَاءُ الْمَوْعُودُ بِيَع  
وَضَمَانٌ.

يَا غُلَامُ سَلِّمْ نَفْسَكَ وَمَالَكَ إِلَى يَدِ  
قَدْرِهِ وَحُكْمِهِ وَفَضْلِهِ سَلِّمْ الْمَشْتَرَى إِلَى الْمَشْتَرِي  
وَعَدَّ ابْتِغَاءَكَ الشَّمْنَ عِبَادُ اللَّهِ سَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِلَيْهِ الشَّمْنَ وَالْمَشْمَنَ قَالُوا أَلَنْفُسِ وَالْمَالِ وَ  
الْجَنَّةِ لَكَ وَمَا يَسْوَكَ لَكَ مَا يُرِيدُ شَيْئًا سِوَاكَ  
أَبَا قَبْلَ الدَّارِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ يَا مَنْ  
يُرِيدُ الْجَنَّةَ شَرِّ أَهْلِهَا وَحَمَاسَتِهَا  
الْيَوْمَ لَا عِنْدَ إِكْرَاءٍ أَنْهَايَهَا  
وَأَجْرُ السَّمَاءِ فِيهَا الْيَوْمَ

میں ہے نہ کرکل۔

اے قوم! قیامت کے دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس دن قدم لغزش میں آجائیں گے مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے ایمان و تقویٰ کے قدم پر کھڑا ہوگا۔ ثابت قدمی موافق اندازہ ایمان کے ہوگی۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا کہ کیوں اور کیسے ظلم کیا تھا اور مفسد اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کیوں فساد مچایا تھا اور اصلاح نہ کی اپنے آقا سے کیوں بھاگتا پھرا۔

اے غلام! عمل پر غور نہ کر کہ تحقیق اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے حق عزوجل سے خاتمہ بخیر ہونے کی اور اس بات کی دعا کیا کر کہ وہ تجھ کو اپنی طرف محبوب تر عملوں کے ساتھ اٹھائے ایمان پر موت ہو تو اس بات سے بچا رہ کہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دے اور معصیت کی طرف رجوع کر لے ایسا نہ کرنا تو کسی کہنے سے توبہ سے رجوع نہ کرنا تو اپنے نفس و خواہش اور طبیعت کی موافقت اور اپنے مولیٰ عزوجل کی مخالفت نہ کرنا۔ معصیت آج بھی تجھے ذلیل کرے گی اور جب تو معصیت کرے گا کل قیامت کو حق عزوجل تجھے رسوا کرے گا اور نیری مدد نہ فرمایا گا اے اللہ! اپنی طاعت کی توفیق سے ہماری مدد کر اور اپنی معصیت سے ہمیں رسوا نہ کر اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائی دینا اور عذاب و دوزخ سے بچانا۔ آمین!

## اٹھارویں مجلس

۱۴ ذی قعدة العجیب ۱۲۵۵ھ ہجری المقدس  
صبح کے وقت اتوار کے دن خانقاہ ثمرین

لَا عُدَا  
يَا قَوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْلَبُ الْقُلُوبُ  
وَالْأَسْبَادُ وَيَوْمَ تَرَكُ فِيهِ الْأَقْدَامُ كُلُّ وَاحِدٍ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَشْرُورُ عَلَى قَدَرِ إِيْمَانِهِ وَ  
تَقَرُّهُ نَبَاتُ الْأَقْدَامِ عَلَى قَدَرِ الْإِيْمَانِ  
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَعْصُ الثَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ كَيْفَ  
ظَلَمَ وَيَعْصُ الْمُسِيءُ عَلَى يَدَيْهِ كَيْفَ أَفْسَدَ  
وَلَكَيْبٍ لِّهِ كَيْفَ أَبْقَى مِنْ مَّوْلَاهُ۔

بَاغِلًا مَّرَلًا تَغْتَرِبُ بِعَمَلٍ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ  
يَخْوَانِيهَا عَلَيْكَ بِسُؤَالِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
أَنْ يُصْلِحَ خَاتَمَتَكَ وَيَقْبِضَكَ عَلَى أَحَبِّ  
الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ إِذَا أَتَيْتَ أَنْ  
تَنْقُضَ ثُمَّ تَرْجِعْ إِلَى الدَّعْصِيَّةِ لَا تَرْجِعْ عَنْ  
تَوْبِكَ يَقُولُ قَائِلٌ لَا تُرَافِقْ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ  
وَطَبْعَكَ وَتُخَالِفْ مَوْلَاكَ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْصِيَّةُ  
تُذِلُّكَ بِإِلَهِ الْيَوْمِ وَعَدَا إِذَا عَصَيْتَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
يَحْذُرُ ذَلِكَ وَلَا يَنْصُرُكَ۔

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِطَاعَتِكَ وَلَا تَحْذُلْنَا  
بِمَعْصِيَتِكَ وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

## المجلس الثامن عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُورَةُ الْأَحْبَابِ بِالْبَلَدِ سَادِسَ  
عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَأَمَّا بَعْضُ

خمس مائۃ

میں فرمایا :

بعد کچھ تقریر کے فرمایا: تحقیق اللہ عزوجل نے دو جہادوں کی خبر دی ایک جہاد ظاہر اور دوسرا جہاد باطن۔ جہاد باطن نفس اور خواہش اور شیطان اور طبیعت کا جہاد ہے اور گناہوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا اور اس پر ثبات قدم رہنا اور شہوتوں کا اور حرام چیزوں کا ترک کر دینا اور جہاد ظاہر کا فرد سے جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں جہاد کرنا ہے اور ان کی تلواروں اور نیزوں اور ان کے نیزوں کا مقابلہ کرنا اور قتل کیا جانا ہے جہاد باطن جہاد ظاہر سے بہت سخت تر ہے کیوں کہ وہ ایک شے لازم ہونے والی بار بار آنے والی ہے اور جہاد باطن (کسے) جہاد ظاہر سے سخت تر نہ ہو۔ اس واسطے کہ اس میں نفس کی الفت والی چیزوں حرام اشیا کا قطع کرنا اور چھوڑنا، اور شریعت کے تمام حکموں کو بجالانا اور تمام ممنوعات سے باز رہنا پڑتا ہے۔ پس جو شخص دونوں جہادوں میں اللہ عزوجل کے حکم کی تعمیل کرے گا اس کو دنیا و آخرت میں بدلہ ملے گا۔ شہید کے بدن میں جو زخم گتے ہیں جو ایسے ہیں جیسے تھامے ہاتھ میں فصد کا کھولنا شہید کو ان زخموں سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی اور موت اس شخص کے حق میں جو نفس سے جہاد کرنے والا گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے ایسی ہے جیسے کہ پیاسے کا ٹھنڈا پانی پی لینا۔

اے قوم! اللہ تعالیٰ تمہیں کسی شے کی تکلیف نہیں دیتا مگر تم کو اس سے بہتر عطیہ عطا فرماتا ہے خدا پرست کے لیے ہر لمحہ ایک خاص امر و نہی وارد ہوتی ہے جو اس کو قلبی حیثیت سے خاص کر دیتی ہے برخلاف باقی مخلوق کے اور برخلاف منافقوں کے جو کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسولوں کے

بَعْدَ كُلِّ مَوْقَدٍ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَذْرَ وَجَلَّ  
بِجَهَادَيْنِ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فَالْبَاطِنُ جِهَادُ النَّفْسِ  
وَالْهَوَىٰ وَالسَّيِّئِ وَالشَّيْطَانِ وَالتَّوْبَةُ عَنْ  
الْمَعَاصِي وَالزَّلَّاتِ وَالشَّبَاتِ عَلَيْهَا وَتَرْكُ  
الْمُتَهَوَّاتِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالظَّاهِرُ جِهَادُ الْكُفَّارِ  
وَالْمُعَادِيَةِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَمُقَابَلَةُ سَيُوفِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ وَسِهَامِهِمْ  
يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَالْجِهَادُ الْبَاطِنُ أَصْعَبُ  
مِنَ الْجِهَادِ الظَّاهِرِ لَا شَيْءَ مُكَلِّفٌ مُّتَكَبِّرًا  
وَكَيفَ لَا يَكُونُ أَصْعَبُ مِنَ الْجِهَادِ الظَّاهِرِ  
وَهُوَ قَطْعُ مَالِ الْوَقَاتِ النَّفْسِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ  
وَهَجْرَانِهَا وَامْتِنَالِ أَوَامِرِ الشَّرِّ وَالْإِتْبَاءِ  
عَنْ نَهْيِهِ فَمَنْ امْتَنَلِ أَمْرَ اللَّهِ عَذْرَ وَجَلَّ فِي  
الْجِهَادَيْنِ حَصَلَتْ لَهُ الْمَجَانَّةُ دُنْيَا وَ  
آخِرَةً الْجَرَاحَاتُ فِي جَسَدِ الشَّهِيدِ  
كَالنَّصَبِ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ لَا أَلَمَ لَهَا  
عِنْدَهُ وَالْمَوْتُ فِي حَقِّ الدَّجَاهِ لِلنَّفْسِ  
الْثَّابِتِ مِنْ دُنُوبِهِ كَشَرْبِ الْعُطَشَانِ  
لِمَاءِ الْبَارِدِ

يَا قَوْمِ مَا تَكَلِّفُكُمْ بَشْيَءَ آلا  
وَنُعْطِيكُمْ خَيْرَ أَمْرٍ أَلَمْ أَدْعُكُمْ لِحُظَّةٍ  
لَهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ يَخْصُهُ مِنْ حَيْثُ قَلْبُهُ  
يَخْلُفُ بَقِيَّةَ الْخَلْقِ يَخْلُفُ  
الْمُنَافِقِينَ أَعَدَّ اللَّهُ عَذْرَ وَجَلَّ وَ

دشمن ہیں ان کو حق عزوجل سے ان کی جمالت اور ان کی دشمنی اللہ سے ان کو دوزخ میں داخل کرے گی کیوں کہ یہ دوزخ میں داخل نہ ہوں گے ان کو دنیا میں اعمال کی تکلیف دی گئی لیکن یہ حق عزوجل کی مخالفت اور اپنے نفسوں اور خواہشوں اور طبعوں اور عاداتوں اور اپنے شیطانوں کی موافقت کرتے رہے اور دنیا کو اپنی آخرت پر اختیار کرتے رہے۔ یہ کیسے دوزخ میں داخل نہ ہوں گے۔ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے اور نہ اس کے حکموں پر عمل کیا اور نہ اس کے منوعات سے باز رہے۔

رَسُولِهِ يَجْهَلِيهِمْ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَاؤُهُمْ لَهُ يَدْخُلُونَ النَّارَ كَيْفَ لَا يَدْخُلُونَهَا وَقَدْ كَفَرُوا فِي الدُّنْيَا بِحَالِفُونَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤْفِقُونَ نَفْسَهُمْ وَأَهْوِيَّتَهُمْ وَطِبَاعَهُمْ وَعَادَاتِهِمْ وَشِيَاطِينَهُمْ وَيُؤْثِرُونَ دُنْيَاهُمْ عَلَىٰ آخِرَتِهِمْ كَيْفَ لَا يَدْخُلُونَ النَّارَ وَقَدْ سَبَّحُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَمْ يَكْمُلُوا يَا دَاوُدَ وَيَسَّاتُ عَنِ تَوَاهِيهِ

اے قوم! تم اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو اور اپنے عملوں میں اخلاص کرو اپنے عملوں میں ریاکاری اور نفاق نہ کرو اور مخلوق سے تعریف اور اعمال کا معاوضہ نہ چاہو۔ مخلوق میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائے ہیں اسی طرح غفلت کرتے ہیں اور منافق زیادہ۔ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں کسل مند ہو اور دشمن الہی اور اپنے دشمن شیطان مردود کی تابعداری میں کیسے قوی اور مضبوط ہو اہل اللہ ہمیشہ اس امر کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہ تکلیفوں سے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں کبھی خالی نہ ہوں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی تکلیفوں اور قصاص و قدر کے برداشت کرنے میں دنیا و آخرت میں بڑی بہتری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے تعزفات و تہلیلوں میں موافقت کرتے رہتے ہیں کبھی صبر میں اور کبھی شکر میں، کبھی قرب میں اور کبھی دوری میں کبھی تکلیف میں اور کبھی راحت میں کبھی امیری میں اور کبھی فقری میں کبھی غایت میں اور کبھی مدنی میں۔ ان کی تمام تر آرزوئیں اپنے قلوب کی حق عزوجل کے ساتھ حفاظت کرتا ہے اور ان کے نزدیک سب زیادہ امر ہی قابل اہتمام ہے دعا پنی اور طاعت کی سلامتی کی حق عزوجل کے ساتھ رہ کر فخر کرتے رہتے ہیں اور عین حق عزوجل سے غلو کی بیہوشی کا سوال تو نہ کرتے رہتے ہیں

يَا قَوْمِ اٰمِنُوْا بِهَذَا الْقُرْآنِ اِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يَخْلُصُ فِيْ اَعْمَالِكُمْ لَا تَرٰوْا اَوْلَانَا يَنْتَفِقُوْا فِيْ اَعْمَالِهِمْ وَلَا تَتْلِبُوْا الْحَمْدَ مِنَ الْخَلْقِ وَالْاَعْوَابُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَادٌ اَكْثَرُ لِمَنْ الْخَلْقِ يُؤْمِنُوْنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ يَعْبُدُوْنَ بِهٖ لَوْجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِهٰذَا قُلْتُ الْمَخْلُصُوْنَ وَكَثُرَ الْمُنَافِقُوْنَ مَا اَكْسَدَكُمْ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اَقْوَامٌ فِيْ طَاعَةِ عَدُوِّهِ وَعَدُوْكُمْ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ الْقَوْمُ يَتَمَتُّوْنَ اَنْ لَا يَدْخُلُوْا مِنْ تَكْلِيفِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلِمُوْا اَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى تَكْلِيفِهِ وَاقْصَبِيَّتِهِ اَقْدَارَ خَيْرٍ اَكْثَرَ اَدْنِيَا وَاٰخِرَةً يَرٰنِقُوْنَ فِيْ لَهٗ اَرْيَفُ فَتَعَالٰى تَارَةً فِي الْاَكْثَرِ وَتَارَةً فِي الْقُرْبِ وَتَارَةً فِي الْبُعْدِ تَارَةً فِي الشَّعْبِ وَتَارَةً فِي الرَّاحَةِ تَارَةً فِي الْعَنَاءِ وَتَارَةً فِي الْفَتْرَةِ تَارَةً فِي الْعَافِيَةِ وَتَارَةً فِي الْمَرَضِ كُلُّ امْتِحَانٍ حِفْظُ قُلُوْبِهِمْ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا هُوَ اَهْلُ الشَّيْءِ اَلَيْسَ يَكُوْنُ سَلَامَةً مَّ وَسَلَامَةً الْخَلْقِ مَعَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَيْزُ الْوَلَدِ يَسْأَلُوْنَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَصَالِحِ الْخَلْقِ

اے غلام! تو صبح و درست بن فصیح ہو جائے گا تو حکم  
میں مسیح بن ہر حکم مانا رہ علم میں فصیح ہو جائے گا پو شیدگی  
میں مسیح بن ظاہر میں فصیح ہو جائے گا تمام تر سلامتی حق عز و  
جل کی طاعت میں ہی ہے اور طاعت الہی اس کے تمام  
کھوں کے بجالانے اور اس کے تمام ممنوعات سے باز رہنے  
اور اس کے تمام امور قضا و قدر پر صبر کرنے میں ہے جو کوئی اللہ عز و  
جل کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا مقبول بنا لیتا ہے اور  
جو اس کی اطاعت کرتا ہے تمام مخلوق اس کی مطیع ہو جاتی ہے  
وہ سب کو اس کا تابعدار بناتا ہے۔

اے قوم! میری نصیحت قبول کرو میں تمہارا خیر خواہ ہوں  
میں اپنے سے اور تم سب سے جدا ہوں تمام وہ امور جو میں  
مشغول ہوں ان سے علیحدہ ہوں جو کچھ میرے اور تمہارے  
درمیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے میں اس کیلئے سیر کرتا رہتا ہوں۔ تم  
مجھ پر تہمت نہ لگاؤ بہ تحقیق میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں  
جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے اس کا ایمان تا وقتیکہ وہ اپنے  
مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنے نفس کے لیے چاہتا رہتا  
ہے نہ چاہے کمال نہیں ہوتا یہ ارشاد ہمارے امیر اور ہمارے  
رہبر اور ہمارے کبیر اور ہمارے رہنما اور ہمارے سفیر اور ہمارے  
شیخ کا ہے جو کہ زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک  
تمام نبیوں اور رسولوں اور صدیقیوں کے پیشوا ہیں اور سب آگے،  
آپ نے اس شخص سے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس  
جیسی چیز کو جو کہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے پسند نہ  
کرے ایمان کے کمال کی نفی فرمادی جب کہ تو نے اپنے نفس  
کے لیے اچھے کھانوں اور اچھے لباس اور اچھے مکانوں اور

يَا غُلَامُ كُنْ صَاحِبًا تَكُنْ فَصِيحًا تَكُنْ فَصِيحًا  
كُنْ صَاحِبًا فِي الْحُكْمِ كُنْ فَصِيحًا فِي الْعِلْمِ  
كُنْ صَاحِبًا فِي السِّرِّ تَكُنْ فَصِيحًا فِي الْعَلَانِيَةِ  
كُلُّ السَّلَامَةِ فِي طَاعَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ  
إِمْتِنَالٌ جَمِيعٌ مَا أَمَرَهُ وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ جَمِيعِ  
مَا نَهَى عَنْهُ وَالصَّبْرُ عَلَى جَمِيعِ مَا قَضَى بِهِ  
مَنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَجَابَهُ مَنْ  
أَطَاعَهُ طَوَّعَ لَهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ

يَا قَوْمُ اقْبَلُوا مِنِّي فَإِنِّي نَاصِرٌ لَكُمْ  
أَنَا نَاحِيَةٌ عَنِّي وَعَنْكُمْ فِي جَمِيعِ مَا أَنَا فِيهِ  
أَنَا نَاحِيَةٌ عَنْهُ أَتَقَرَّحُ عَلَى وَجَلِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَفِيكُمْ لَا تَتَّهِمُونِي  
فَإِنِّي أُرِيدُ لَكُمْ مَا أُرِيدُ لِنَفْسِي قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
لَا يَكْمَلُ الْمُؤْمِنُ إِيمَانَهُ حَتَّى يَرِيدَ  
لِإَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يَرِيدُ لِنَفْسِهِ  
هَذَا قَوْلُ أَمِيرِنَا وَرَأْسِنَا وَكَبِيرِنَا  
وَقَائِدِنَا وَسَفِيرِنَا وَشَفِيعِنَا مُقَدِّمِ  
النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنْ  
زَمَانِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
فَدَأْتَنِي كَمَالُ الْإِيمَانِ عَتَنَ لَا يَحِبُّ  
لِإَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِثْلَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ  
إِذَا أَحْبَبْتَ لِنَفْسِكَ أَطْيَبَ الْأَطْيَبِ وَ  
أَحْسَنَ الْكَسَوَةِ وَأَطْيَبَ الْمَنَازِلِ وَ

أَحْسَنَ الْوُجُوهِ وَكَثْرَةَ الْأَمْوَالِ وَ أَحَبَّتْ  
لَاخِيَةَ الْمُسْلِمِ بِالْصِّدْقِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ  
فِي دَعْوَاكَ كَمَا لَ الْإِيمَانِ .

يَا قَلِيلَ التَّذَبُّرِ لَكَ جَاءَ فَقِيرٌ وَلَكَ  
أَهْلٌ فَقَرَأَ وَلَكَ مَالٌ عَلَيْهِ سَكُونٌ وَ  
لَكَ كُلُّ يَوْمٍ مِائَتُ فَوْقَ رِبْحٍ وَمَعَكَ  
قُدْرَةٌ يَزِيدُ عَلَى دَرَجَاتِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ  
فَمَنْعَكَ لَهُمْ عَنِ الْعَطَاءِ هُوَ الرِّضَا بِمَا  
هُمْ فِيهِ مِنَ الْفُتْرِ وَالْكَفْرِ إِذَا كَانَ فَتْنُكَ  
وَهُوَ أَلَكَ وَشَيْطَانُكَ وَسَاءَ لَكَ فَلَا جَرَمَ  
لَا يَسْهَلُ عَلَيْكَ فَعْلُ الْخَيْرِ مَعَكَ قُوَّةُ  
حِرْصٍ وَكَثْرَةُ أَمَلٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا وَقِلَّةُ  
تَقْوَى وَ إِيْمَانٍ أَنْتَ مُشْرِكٌ بِكَ وَجْهَكَ  
وَبِالْخَلْقِ وَمَا عِنْدَكَ خَيْرٌ مَنْ كَثُرَتْ  
رَغْبَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَاشْتَدَّ حِرْصُهُ عَلَيْهَا وَ  
نَسِيَ الْمَوْتَ وَلِقَاءَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَفْرِقْ  
بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْكَفَّارِ  
الَّذِينَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا أَحْيَانُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ  
نَحْيِي وَمَا بِهِ لَكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ كَأَنَّكَ وَاحِدٌ  
مِنْهُمْ وَلَكِنْ قَدْ تَحَلَّيْتَ بِإِسْلَامٍ وَقَدْ  
حَقَّقْتَ دِمَاكَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَوَأَفَقَّتْ  
الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ عَادَةً  
لَا عِبَادَةَ يُظَاهِرُ لِلنَّاسِ أَنَّكَ تَقِيُّ وَقَلْبُكَ  
فَاجِرٌ مَا يَنْفَعُكَ ذَلِكَ  
يَا قَوْمَ الْإِشْ يَنْفَعُكُمُ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

اچھے وجہ اور کثرت مال کو پسند کیا دوست رکھا اور اپنے  
مسلمان بھائی کے واسطے اس کے برخلاف پسند کیا پس بلائیک  
تو اپنے اس دعوے میں کہ میرا ایمان کامل ہے جھوٹا ہو گیا ۔

اے کم عقل ! تیرا پڑوسی فقیر ہے اور تیرے اہل و عیال ،  
فقیر ہیں اور تیرا ملک و مال ہے جس پر ذکوۃ فرض ہے اور تجھے ہر  
دن نفع پر نفع حاصل ہوتا ہے اور تیرے پاس اس قدر مال ہے  
جو تیری حاجت سے زیادہ ہے پس ایسی حالت میں تیرا اپنے  
پڑوسی و اہل کو عطیے سے منع کر دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ تو ان  
کے فقر پر راضی ہے لیکن جب کہ تیرا نفس اور تیری خواہشات اور  
تیرا شیطان تیرے پیچھے لگا رہے تو بلائیک فعل خیر تیرے لیے  
آسان نہیں ۔ اس سے دوری کر تیرے ساتھ حرص کی قوت و  
آرزو کی کثرت اور دنیا کی محبت اور ایمان کی قلت ہے  
تو نفس و مال اور خلق کی وجہ سے بتلائے شرک ہے اور تجھ  
کو اس کی خبر نہیں کہ جس کی دنیا میں رغبت زیادہ ہوئی اور دنیا  
میں اس کی حرص بڑھی اور جموت کو اور حق عز و جل سے ہٹنے  
کو بھول گیا اور میں نے حلال و حرام میں فرق نہ کیا پس تحقیق کہ وہ  
ان کافروں کے ساتھ مشابہ ہو گیا جنہوں نے کہا ہماری زندگی نفس  
دنیا ہی کی زندگی ہے ہم مرتے اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا  
ہم کو مگر زمانہ ۔ گویا تو بھی انہیں میں سے ایک فرد ہے اور لیکن  
تو نے اسلام کا ذیورپن لیا ہے اور کلہ شریعت پڑھ کر اپنا خون  
محفوظ کر لیا ہے اور نماز روزہ میں عادت مسلمانوں کے ساتھ  
موافقت کر لی ہے نہ کہ عبادت سمجھ کر نماز و روزہ رکھا ہے  
تو لوگوں کو اپنا متقی ہونا ظاہر کرتا ہے حالانکہ تیرا قلب فاجر  
ہے ایسا کرنا تجھے کیا نفع دے گا ۔

اے قوم ! دن میں تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اور شام کو

حرام مال سے روزہ افطار کر لینا کیا نفع دے گا۔ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں گناہ کرتے ہو۔ اے حرام خوردہ! تم اپنے نفسوں کو دن میں پانی پینے سے باز رکھتے ہو پھر مسلمانوں کے غروں سے اس کا افطار کرتے ہو اور تم میں سے بعض وہ آدمی ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں گناہ کرتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہی امت جب تک رمضان کی تعظیم کرتی ہے اسے گی رسوا نہ ہوگی۔ رمضان کی تعظیم اس میں تقویٰ کرنا اور عدد و شرعی کی حفاظت کے ساتھ اس کے روزہ کا کھانا بوجہ اللہ رکھنا ہے۔

اے غلام! روزہ رکھ اور جب تو افطار کرے اپنی افطاری میں سے کچھ فقرا کو بھی دے ان کے ساتھ سلوک کر اور تمنا مت کھا کیوں کہ جو تمنا کھائے اور دوسرے کو نہ کھلائے۔ اس پر محتاجی و تنگ دستی کا خوف ہے۔

اے قوم! تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تمہارا ایمان درست نہیں ہوا تمہارے سامنے کثرت سے کھانا ہوتا ہے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے کھانے سے بچ رہتا ہے اور فقیر تمہارے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور پھر بھی محروم واپس کیا جاتا ہے۔ عنقریب تجھے اپنی خبر معلوم ہوگی عنقریب تو اس جیسا ہو جائے گا اور ویسا ہی محروم پھیرا جائے گا جیسے کہ تو نے باوجود قدرت و عطا اس کو محروم پھیرا تھا۔

تجھ پر افسوس! تو کیوں کھڑا نہ ہوا اور جو تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر کیوں تو نے فقیر کو نہ دیا تو دوا بھی خصلتوں میں جمع کر لیتا تو اعضا کھڑا ہونا اور اپنے مال میں سے

يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ  
يَا لَيْتَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْوُا إِلَّا فُطْرًا عَلَى الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ تَصُومُونَ

يَا غُلَامُ! رُزْهَ رَكْعَةٍ أَوْ رَجَبٍ تَوَافُطَارُكَ سَے اپنی افطاری میں سے کچھ فقرا کو بھی دے ان کے ساتھ سلوک کر اور تمنا مت کھا کیوں کہ جو تمنا کھائے اور دوسرے کو نہ کھلائے۔ اس پر محتاجی و تنگ دستی کا خوف ہے۔

يَا قَوْمُ! تَشْبَعُونَ وَجَبَرْتُمْ جِيَاءُ  
لَمْ تَدْعُوا أَنْكُمْ مُؤْمِنُونَ مَا صَدَقَ  
إِيمَانُكُمْ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ أَحَدِكُمْ  
طَعَامٌ كَثِيرٌ يَفْضُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ  
يَقِفُ السَّائِلُ عَلَى بَابِهِ وَيَرُدُّ خَائِبًا  
عَنْ قَرِيبٍ تَصِيرُ مِثْلَهُ وَتُرَدُّ  
كَمَا سَدَدْتَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى  
عَطَائِهِ۔

وَيُحَاكَ هَلَا قَسَمْتَ وَأَخَذْتَ مَا  
بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَعْطَيْتَهُ تَجْمَعُ بَيْنَ  
الْحَالَيْنِ التَّوَاضُّعُ فِي قِيَامِكَ وَالْعَطَاءُ مِنْ

مَا لَكَ يَبْنَا مَحَبَّرٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يُعْطَى السَّائِلَ بِيَدِهِ وَيَعْلِفُ نَاقَتَهُ وَ  
يَحْنُبُ شَاتَهُ وَيَخَيِّطُ قَبِيصَهُ كَيْفَ  
تَدْعُونَ مُتَابِعَتَهُ وَأَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ  
فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَنْتُمْ فِي دَعْوَى  
عَرِضَتِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ يُقَالُ فِي الْمَثَلِ إِمَّا أَنْ  
تَكُونَ يَهُودِيًّا خَالِصًا وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ  
بِالتَّوَرَةِ وَهَكَذَا أَقُولُ لَكَ إِمَّا أَنْ تَأْتِيَ  
بِشَرَائِطِ الْإِسْلَامِ وَ إِمَّا أَنْ تَقُلَ أَنَا مُسْلِمٌ  
عَلَيْكُمْ بِشَرَائِطِ الْإِسْلَامِ عَلَيْكُمْ بِحَقِيقَةِ  
الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْإِسْتِكْلَامُ بِيَدِي الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَأَمَّا الْخَلْقُ الْيَوْمَ حَتَّى يُوَسِّيكَ الْحَقُّ  
عَزَّ وَجَلَّ عَدَا بَرَحَّتِهِ إِدْحَمَ مَنْ فِي الْأَرْضِ  
حَتَّى يَرَحِمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔

وَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ مَا دُمْتُ قَائِمًا  
مَعَكَ لَنَسِيكَ لَا تَصِلُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ مَا  
دُمْتُ تُوصِلُ إِلَيْهَا حُطَّوْظَهَا فَإِنْ  
فِي قَيْدِهَا وَفِيهَا حَقُّهَا وَأَمْنُهَا حَظُّهَا  
بِإِصْبَالِ الْحَقِّ إِلَيْهَا بَقَاؤُهَا وَإِصْبَالِ  
الْحَقِّ إِلَيْهَا هَلَاكُهَا حَقُّهَا مَا لَا بُدَّ  
مِنْهُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالشَّرَابِ  
وَمَوْضِعٍ تَسْكُنُ فِيهِ وَحَظُّهَا الذَّاتُ  
وَالشَّهْوَاتُ خُذْ حَقَّهَا مِنْ يَدِ الشَّرِّعِ  
وَكُلْ حَظُّهَا إِلَى الْقَدَرِ وَالسَّابِقَةِ فِي  
عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهَا الْمُبَاحَ لَا

خدا واسطے دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست  
مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اور اونٹنی کو چارہ کھلاتے  
تھے اور بکری کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی قمیص اپنے ہاتھ  
سپا کرتے تھے تم حضور کی پیروی کرنے کا کیسے دعویٰ کرتے ہو  
حالانکہ تم حضور کے ان کے اقوال و افعال سب میں مخالفت ہو  
اور تمہارا دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں مثل مشور  
ہے یا تو تو خالص یہودی بن جا ورنہ تو ریت پر نانا فریفتہ نہ ہو  
میں اسی طور سے تجھ کو کہتا ہوں یا تو تو اسلام کی پوری شرطیں بجا  
لا ورنہ اپنے آپ کو مسلمان مت کہہ تمہارے اوپر اسلام کی  
شرطوں کا بجا لانا لازم ہے پھر اس کی حقیقت کا جو کہ شریعت کے  
سامنے سر جھکا دینا ہے لازم پکڑنا تمہارا سر ہڈا کے روبرو جھکا  
ہوا ہو۔ آج تم مخلوق کے ساتھ غمخواری اور مہربانی کو کل قیامت  
کے دن حق عزوجل تمہارے ساتھ مہربانی و غمخواری کرے گا تم  
زمین والوں پر رحم کرے گا کہ تم پر آسمان والا رحم فرمائے۔

اس کے بعد کچھ اور تقریر کی بعد فرمایا جب تک اپنے  
نفس کے ساتھ قائم رہے گا اس مقام تک نہ پہنچے گا جب  
تک تو نفس کو اس کی خواہش کے موافق اس کے حصے دیتا رہے  
گا تو اس کی قید میں رہے گا نفس کو اس کا پورا حق دے اور اس  
کے حصے سے منع کر۔ نفس کو اس کا حق دینے میں نفس کی بقا ہے  
اور اس کو اس کا حصہ دینے میں نفس کی ہلاکت ہے۔ نفس کا  
ضروری حق اس کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور لباس دینا اور  
رہنے کے لیے جگہ دینا ہے اور نفس کا حصہ لذتیں اور خواہشات  
نفسانیہ ہیں (اس سے نفس کو منع کر) نفس کا حق شرع کے ہاتھ  
سے لے اور اس کے حصہ کو تقصیر و قدر کی طرف جو علم الہی میں،  
سابق ہو چکا ہے پھر ذکر دے نفس کو مباح چیزیں کھلانا

الْحَرَامَ اتَّعَدُ عَلَىٰ بَابِ الشَّرِّ وَالزِّمْمَا  
يُخَذُّ مَتْنَهُ وَقَدْ أَفْلَحَتْ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَنَا كُمْ الرَّسُولُ فُخِّدُوهُ  
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ مُؤِثِّمُونَ بِالْيَسِيرِ  
وَلَنْ نُّنْفِثَكَ عَلَيْهِ فَإِنْ جَاءَ الْكَثِيرُ  
مَنْ يَدُ السَّابِقَةِ وَالْعِلْمُ كُنْتَ فِيهِ إِذَا قُنْتُ  
بِالْيَسِيرِ مَا تَهْلِكُ لِنَفْسِكَ وَلَا يَغْنُهَا مَا  
فُسِّمَ لَهَا كَانَ الْحَسَنُ الْبَصِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ  
عَلَيْهِ يَقُولُ يَكْفِي الْمُؤْمِنُ مَا يَكْفِي الْعَنِيزَةَ  
كَفٌّ مِنْ حَشَفٍ وَشَرْبُهُ مَاءُ الْمُؤْمِنِ  
يَتَّقُونَ وَالْمُنَافِقُ يَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُ يَتَّقُونَ  
لَا تَهْ فِي الطَّرِيقِ مَا وَصَلَ إِلَى الْمَنْزِلِ قَدْ  
عَلِمَ أَنَّ فِي الْمَنْزِلِ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ  
إِلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ لَا مَنْزِلَ لَهُ لَا مَقْصِدَ  
لَهُ مَا أَكْثَرَ تَقَرُّبَكُمْ فِي الْآيَاتِ وَالشُّهُورِ  
تَقْطَعُونَ الْأَعْمَارَ بِلَا نَفْعٍ أَرَأَيْتُمْ لَا  
تُقَرِّطُونَ فِي دُنْيَاكُمْ وَتُقَرِّطُونَ فِي آخِرَتِكُمْ  
إِعْصُوا بِتَصْدِيقِ الدُّنْيَا مَا بَقِيَتْ عَلَى  
عَلَى أَحَدٍ وَهَكَذَا لَا تَبْقَى  
عَلَيْكُمْ

کہ حرام مال تو شریعت کے دروازے پر بیٹھا اور اس کی خدمت  
لازم پکڑ اسی میں تیرے نجات و فلاح ہے کیا تو نے اللہ عزوجل  
کا قول نہیں سنا جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس  
اس کو لو اور جس سے وہ تمہیں منع کریں پس اس سے باز لاؤ تو  
تھوڑے پر قناعت کر اور اسی پر اپنے نفس کو برقرار رکھ۔ بعد  
اگر تقدیر و علم الہی کے ہاتھ سے تیرے پاس بہت کچھ آجائے  
تو اس میں تو محفوظ ہوگا۔ جب تو تھوڑے پر قناعت کر لے گا  
تو تیرا نفس ہلاک نہ ہوگا اور جو اس کا مقصود ہے وہ فوت نہ ہوگا  
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان کے لیے وہ مقدار  
کنفایت کرتی ہے جو کہ بکری کے بچہ کے لیے ایک ٹھکی خراب  
چھوٹے اور ایک گھونٹ پانی۔ مومن قوت لایکوت کھانا ہے  
اور مثل زاد راہ کے لیتا ہے۔ اور منافق خوب مزے اڑاتا ہے  
مومن تھوڑا اس لیے کھانا لیتا ہے کہ وہ ابھی راستہ میں ہے  
منزل پر نہیں پہنچا ہے وہ جانتا ہے کہ منزل میں اس کے لیے تمام  
حاجت کی چیزیں موجود ہیں اور منافق کے لیے نہ کوئی منزل ہے  
نہ اس کا کوئی مقصد تھا سوائے دنوں اور مہینوں میں بہت تقصیر و  
 کوتاہی ہے تم بلا نفع عمریں کیوں ضائع کر رہے ہو میں تمہیں دیکھ  
رہا ہوں کہ دنیا میں تم کوتاہی نہیں کرتے اور اپنے دینوں میں تم  
کوتاہی کر رہے ہو۔ اس کے برعکس معاملہ کرو اچھے رہو گے  
دنیا کسی کے پاس باقی نہیں رہی ہے اسی طور سے تمہارے  
پاس بھی باقی نہیں رہے گی۔

اے قوم! کیا تمہارے پاس حق عزوجل کی طرف سے  
زندگی کا پروانہ ہے۔ تمہاری سمجھ کس قدر ناقص ہے جو شخص غیر  
کی دنیا کو اپنی آخرت برباد کرے آباد کر رہا ہے وہ غیر کے لیے  
دنیا جمع کرتا ہے اور اپنے دین سے جدا ہائی کرتا ہے، اور

يَا قَوْمُ امْعَمُكُمْ تَوَقُّعٌ مِّنَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ بِالْحَيَاةِ مَا أَقَلَّ تَذَكُّرِكُمْ  
مَنْ يَعْمُرُ دُنْيَا غَيْرِهِ يَخْرَابُ آخِرَتِهِ  
يَجْمَعُ الدُّنْيَا لَغَيْرِهِ يَتَفَرَّقُ دِينُهُ

اپنے اور خدا کے درمیان پردہ ڈالتا ہے اور خدا کا غصہ اپنے جیسی مخلوق کی رضامندی کے لیے اپنے سر لیتا ہے۔ اگر وہ یقین کے ساتھ یہ جان لیتا کہ وہ عنقریب مرنے والا ہے اور خدا کے روبرو حاضر ہونے والا ہے اور اپنے تمام تصرفات پر حساب دینے والا ہے تو البتہ وہ اپنے بہت سے عملوں سے رُک جاتا۔

لقمان حکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے! جیسے کہ تو بیمار ہوتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کیوں کر بیمار ہوتا ہے اسی طور سے تو مرے گا اور یہ نہیں جانے گا کہ کیسے مرتا ہے میں تم کو ڈراتا ہوں اور روکتا ہوں اور تم نہ ڈرتے ہو اور نہ باز رہتے ہو۔ اے بھلائی سے غائب ہونے والو! دنیا میں مشغول ہونے والو! عنقریب تم پر دنیا حملہ کرے گی اور تمہارا گلا گھونٹ دے گی اور تم نے جو کچھ دنیا کے ہاتھوں سے جمع کیا ہے وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ لذتیں جن سے تم نے مزے اٹائے تھے کام دیں گی بلکہ یہ سب کا سب تمہارے اوپر وبال ہی وبال ہو گا۔

اے غلام تو تحمل اور قطع شر کو اپنے اوپر لازم کھڑے۔ کلمات کے مشابہ دوسرے کلمات ہیں جب تجھ سے کوئی ایک کلمہ کہے پھر تو اس کا جواب دے تو اس کی طرف سے اس کے مشابہ دوسرے کلمات آجائیں گے اسی طور سے گفت و گو بڑھ کر تم دونوں میں شر طرائی حاضر ہو جائے گی۔ مخلوق میں اکاذبا ایسے لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں کہ خلق کو خالق عز و جل کے دروانے کی طرف دعوت دیں۔ اگر ان کی بات قبول نہ کی جائے گی تو وہ لوگوں پر حجت ہوں گے۔ ایسے لوگ مومنوں کے لیے

يُوقِعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَقِّ عَرَّوَجَلٌ وَ سَخَطُهُ عَلَيْكَ لِرِسْمَا مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ لَوْ عَلِمَ وَ يَتَقَنَّ أَنَّ مَيِّتٌ عَنْ قَرِيبٍ حَاضِرُ بَيْنِ يَدَيِ الْحَقِّ عَرَّوَجَلٌ وَ أَنَّ مَحَاسِبٌ عَلَى جَمِيعٍ تَصَرُّفَاتِهِ لَا قَصَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ أَعْمَالِهِ.

عَنْ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمَا تَمَرَضُ وَلَا تَدْرِي كَيْفَ تَمَرَضُ هَكَذَا تَمُوتُ وَلَا تَدْرِي كَيْفَ تَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَ أَنْهَاكُمْ وَ لَا تَحْنُؤُوا وَ لَا تَتَهَوَّنُوا يَا عَائِثِينَ عَنِ الْخَيْرِ مَشْغُولِينَ بِالدُّنْيَا عَنْ قَرِيبٍ تَنْشُبُ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا تَحْنِيفُكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ مَا اجْتَمَعُوا مِنْ يَدِيهَا وَ لَا تَكَلِّدْنَهُمْ بِهَا بَلْ يَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ وَ بَالًا عَلَيْكُمْ.

يَا غُلَامُ رَحِمَكَ عَلَيْكَ بِالْإِحْتِمَالِ وَ قَطْعِ الشَّرِّ لِلْكَلِمَاتِ أَخَوَاتٌ إِذَا كَلَّمَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَلِمَةً ثُمَّ اجْبَتْهُ عَنْهَا جَاءَتْ أَخَوَاتُهَا ثُمَّ يَحْضُرُ الشَّرُّ بَيْنَكُمَا أَحَادُ أَفْرَادٍ مِنَ الْخَلْقِ يُؤْهِلُونَ لِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَرَّوَجَلٌ وَ هُمْ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ هُمْ

نِعْمَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نِقْمَةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ  
 أَعْدَادُ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُمَّ طَيِّبْنَا بِالتَّوْحِيدِ  
 وَبَخِّرْنَا بِالْفَنَاءِ عَنِ الْخَلْقِ وَمَا سِوَاكَ فِي  
 الْجَمَلَةِ يَا مُوَحِّدِينَ يَا مُشْرِكِينَ لَيْسَ بِيَدِ  
 أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ شَيْءٌ إِلَّا كَلَّ عِزَّةَ الْمَلُوكِ  
 وَالْمَمَالِيكَ وَالسَّلَاطِينَ وَالْأَغْنِيَاءَ وَالْغَنَى  
 الْعَقْرَاءُ كُلُّهُمْ أُسْرَاءُ قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
 قُلُوبَهُمْ بِيَدِهِ يُغَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ لَيْسَ  
 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا تُسَبِّحُوا  
 أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهَا تَاكُلُكُمْ كَمَا تَأْكُلُ الْكَلْبُ  
 صَدْرًا يَا قِيَرَبِيهِ وَيَسْمُنُهُ وَيَخْلُوا مَعَهُ  
 فَلَا جَرَمَ يَا كَلُّهُ لَا تُطْلِقُوا لِحَنَةِ النَّفُوسِ  
 وَتَحُدُّ وَأَسْكَكِيْنَهَا فَإِنَّهَا تَرْمِي بِكُمْ فِي  
 أَوْدِيَةِ الْهَلَاكِ وَتَخْدَعُكُمْ لِقُطْعُوا مَوَادِّهَا  
 وَلَا تُطْلِقُوا أَشْهُوَ رِجَالِهَا

اللَّهُمَّ ائْتِنَا عَلَى نَفْسٍ سَيِّئَةٍ وَارْتِنَا فِي الدُّنْيَا  
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

## المجلس التاسع عشر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عِشْرِينَ بِالْمَدِينَةِ  
 ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ ثَمَاسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمِيسَاءِ  
 وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلًا أَنْ يُخَافَ  
 وَيُرْجَى وَلَوْ لَمْ يَخْلُقْ جَنَّةً وَلَا نَارًا

نعمت اور منافقوں کے لیے جو کہ دین الہی کے دشمن ہیں عذاب  
 ہیں اے اللہ ہم کو توحید سے خوشبودار کر اور مخلوق اور ماسوی اللہ  
 سے فنا ہو جانے کی دھونی دے۔ اے موحیدین! اے مشرکین!  
 تمہارے ہاتھ میں مخلوق میں سے کوئی شے نہیں ہے سب کی  
 سب مخلوق و عاجز ہیں۔ بادشاہ اور غلام اور سلطان اور ان پرست  
 ہونے والے امیر اور فقیر کل کے کل تقدیر الہی کے قیدی ہیں۔  
 سب کے قلب اس کے قبض میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے ان کو  
 الٹ پلٹ کر تارہتا ہے اس کی مانند کوئی شے نہیں اور وہی سننے  
 والا دیکھنے والا ہے تم اپنے نفسوں کو موشانہ کر دو پس بھتیس دہم کو  
 کھائیں گے جس طرح کوئی شکاری کتا پالے اور اس کی پرورش  
 کرے اور اس کو موٹا کرے اور تمہا اس کے ساتھ ہے پس ضرور  
 ہے کہ وہ کتا اسی کو کھائے گا تم نفس کی باتوں کو ڈھیل نہ دو اور اس  
 کی چھریوں کو تیز نہ ہونے دو بلاتک وہ تم کو ہلاکت کے جنگوں  
 میں پھینک دے گا اور تمہیں دھوکا دے گا تم اس کے مادیوں کو  
 قطع کر دو اور نفسوں کو ان کی خواہشوں میں نہ چھوڑو۔

اے اللہ! ہمارے نفوس پر ہماری مدد فرما اور ہم کو دنیا فاجر  
 میں نکولیاں دے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ آمین:

## انیسویں مجلس

۱۸ ذی قعدہ ۱۱۵۵ھ ہجری المقدس کو منگل کے دن  
 شام کے وقت مدرسہ قادسیہ میں ارشاد فرمایا:  
 حق عزوجل اگرچہ جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا جب بھی  
 اس کا مستحق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس سے امید کی جائے

۱۵ ای وجہ سے کہ گیا ہے کہ ایمان خوف ورجا کے درمیان میں ہے خدا سے ڈرنا بھی لازم اور اسی سے امید دار رہنا ضروری ہے۔ ۱۲ قادسیہ غفرلہ

تم اس کی اطاعت محض اس کی طلب کے لیے کرو۔ تم کو اس کے عطا و عتاب سے غرض نہ ہونی چاہیے اس کی اطاعت اس کے حکم کے بجالانے اور اس کی منوعات سے باز رہنے اور اس کے تقدیری امور پر صبر کرنے میں ہے تم اس کی طرف رجوع کرو تو یہ کرو۔ اس کے روبرو رو دو آنکھوں اور دل کے آنسوؤں سے اس کے سامنے عاجزی کرو۔ رونا عبادت ہے اور وہ کمال درجہ کی عاجزی و ذلت ہے۔ جب تزیل و نیت اور توبہ اور پاک عملوں پر پیشگی کرے گا حتیٰ عز و جل تجھ کو نفع دے گا وہ تو مظلوموں کے بدلہ لینے کا والی ہے کیوں کہ وہاں اس کی راحت و رحمت اپنے تابعداروں کے لیے ظاہر ہوگی تو اس کی محبت کو دنیا و آخرت میں لازم پکڑو تو اس کی محبت کو تمام ضروری چیزوں سے جن کا وہ محتاج ہے زیادہ اہم مقصد بنالے۔ اسی کی محبت تجھے نفع دے گی۔

مخلوق میں سے ہر ایک تجھ کو اپنے لیے چاہتا ہے اور حق تعالیٰ تجھ کو تیرے ہی لیے چاہتا اور دوست رکھتا ہے۔

اے قوم! تمہارے نفس خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں کیوں کہ وہ حق تعالیٰ پر حکم چلاتے ہیں۔

اور جس کام کو خدا نے تعالیٰ چاہتا ہے نفس اس کا خلاف کرتے ہیں اور خدا کے دشمن شیطان مردود کو دوست رکھتے ہیں اور خدا کو دوست نہیں رکھتے اور جب تقدیری امور آتے ہیں تو ان کی موافقت نہیں کرتے اور نہ ان پر صبر کرتے ہیں بلکہ جھگڑا اور نزاع کرتے ہیں ان کو خدا کے سامنے سر جھکانے کی خبر ہی نہیں۔

محض اسلام کے نام پر قناعت کر لی ہے حالانکہ محض نام نفوس کو نفع نہ دے گا اور نہ اسی پر نفع عطا ہوگا۔

اے غلام! تو خوف کو لازم پکڑ اور خدا سے ڈرنے بہرہ پا

تک کہ تو رب تعالیٰ سے ملاقات کرے اور تیرے قلب

اَطِيعُوا طَلَبًا لِّوَجْهِهِ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَطَائِهِ  
وَعِثَابِهِ طَاعَتُهُ فِي امْتِنَالِ امْرِهِ وَالْإِنْفَاءِ  
عَنْ تَرْكِهِ وَالصَّبْرُ مَا اخْتَدَا سِرَّهُ نُبُوءًا اَبْكُو  
بَيْنَ يَدَيْهِ ذُلُّوْا لَهٗ بِدُمُوعِ اَعْيُنِكُمْ وَ  
قُلُوبِكُمْ اَلْبُكَاءُ عِبَادَةٌ وَهُوَ مَبَالِغَةٌ فِي الدَّلَالَةِ  
اِذَا امْتُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالتَّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَ  
الْعُمَالِ الرَّكِيَّةِ تَفْعَلُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَتَتَوَلَّى مُجَانِمًا اَلْمُظْلُومِيْنَ اِنْ لَيْسَ  
شَمَّ تَظَهَّرَ رَحْمَتُهُ وَرَأْفَتُهُ لِلطَّائِعِيْنَ  
لَهٗ عَلَيْكَ بِمَحَبَّتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
اجْعَلْ مَحَبَّتَهُ اَهْمًا لِّاَشْيَاءِ اِلَيْكَ لَا  
بَدَلَ لَكَ مِنْهَا فَهِيَ الَّتِي تَنْفَعُكَ كُلُّ  
مَنْ الْخَلْقِ يُرِيدُكَ لَهٗ وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
يُرِيدُكَ لَكَ۔

يَا قَوْمُ نَفُوسُكُمْ تَدَّعِي اِلٰهِيَّةً وَفَا  
عِنْدَكُمْ خَبْرٌ لَا تَهْتَكُوْا حَيْرَةً عَلَى الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَفَرِيدٌ غَيْرُ مَا يُرِيدُ وَتُحِبُّ عَدُوَّ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَا تُحِبُّهُ وَاِذَا جَاءَتْ  
اِقْضِيَّتُهُ لَا تُوَافِقُ وَلَا تَصْبِرُ بَلْ  
تُعَارِضُ وَتُنَازِعُ مَا عِنْدَهَا مِنْ  
اِلٰسْتِسْلَامٍ خَبْرٌ قَدْ قُبِعَتْ بِاسْمِ  
اِلٰسْلَامٍ وَهَذَا لَا يَنْسَعُهَا وَلَا يُجْدِي  
عِنْدَهَا نَفْعَهَا۔

يَا غُلَامُ لَا تَرَمِ الْخَوْفَ وَلَا تَأْمَنْ  
حَتَّى تَلْقَى رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَتْ قَدْ مَا قَبْلَكَ

وَبَيْنَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُوصَنُ تَرْقِيَةً  
الْأَمَانِ فِي يَدَيْكَ حِينَئِذٍ يَكُنِي لَكَ  
أَنْ تَأْمَنَ إِذَا أَمَنَكَ مَأْيَتٌ عِنْدَهُ  
خَيْرًا كَثِيرًا إِذَا أَمَنَكَ فَاسْتَقَرَّ  
لَا تَهُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَا يَرْجِعُ فِيهِ  
الْحَقُّ عَمَّا وَجَلَ إِذَا اصْطَفَى عَبْدًا  
قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَكَلَّمَا غَلَبَ عَلَيْهِ  
الْخَوْفُ أَلْقَى عَلَيْهِ مَا يَزِيلُ ذَلِكَ  
وَلَيْسَكُنْ قَلْبُهُ وَسِرَّهُ فَيَكُونُ  
ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ -

وَبَيْنَكَ يَاجَاهِلُ هَذَا تَعْرِضُ عَنِ  
الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ وَتَخْلِيهِ وَرَاءَ ظَهْرِ  
قَلْبِكَ وَتَشْتَغِلُ بِخِدْمَةِ الْخَلْقِ الْقَوْمِ  
اسْتَغْلُوا بِخِدْمَةِ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ  
فَقَرَّبَ قُلُوبَهُمْ إِلَيْهِ تَعَرَّفَ إِلَيْهَا فَعَرَفَتْهُ  
أَحَدُهُمْ إِذَا عَرَفَ الْحَقُّ عَمَّا وَجَلَ وَ  
فَرَحَ مِنْ مُحَارَبَةِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَطَبِيعِ  
وَشَيْطَانِهِ وَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ وَمِنْ دُنْيَاهُ  
وَفَتَحَ لَهُ الْحَقُّ عَمَّا وَجَلَ بَابَ قُرْبِهِ  
يَطْلُبُ شُغْلًا يَعْمَلُهُ فَيَدَالُ لَهُ ارْجِعْ  
وَرَاءَكَ وَاسْتَغْلُ بِخِدْمَةِ الْخَلْقِ  
وَدَلِّهِمْ عَلَيْنَا اخْدُمُوا الطَّلَابَ وَ  
الْمُرِيدِينَ لَنَا أَنْتُمْ عُمَّالُ الْقَوْمِ  
فِيهِ تَوَاصَلُونَ الْخَبِيَاءَ بِالْظُلَامِ

اور بدن کے پاؤں اس کے حضور میں ٹھہ جائیں اور تیرے درپردہ  
امان کا پردہ اندر رکھ دیا جائے اس وقت تجھے نڈر ہونا لاتی ہو جائیگا  
جب وہ تجھ کو پروانہ نجات دے دے گا تو تجھ کو اس کے پاس  
بہت بھلائیوں دکھائی دیں گی جب وہ تجھ کو امان دے گا پس  
وہ برقرار رہیں گی کیوں کہ حق عزوجل عطا کے بعد اس عطا کو واپس  
میں لیا کرتا ہے جب خدا نے عزوجل کسی بندے کو برگزیدہ بنا  
لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا مقرب کر لیتا ہے اور اپنے سے اس  
کو نزدیک کر لیتا ہے اور جب اس بندہ پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے  
تو رب العزت اس پر ایسی چیز کا القافرا تا ہے جو کہ اس کے  
خوف کو زائل کر دیتی ہے اور اس کے قلب و باطن کو تسکین  
بخشتی ہے پس یہی معاملہ بندہ اور خدا کے درمیان رہتا ہے۔  
اے جاہل تجھ پر افسوس کیا تو حق عزوجل سے منہ پھرتا  
ہے اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑتا ہے اور تو مخلوق کی خدمت  
گاری میں مشغول کیا پس اللہ نے ان کے قلوب کو اپنی طرف  
قرب عطا فرمایا ان کو اپنی شناخت کرا دی۔ انہوں نے اس کو  
پہچان لیا ان میں سے جب کوئی حق عزوجل کو پہچان لیتا ہے  
اور اپنے نفس و خواہش و طبیعت و شیطان کی لڑائی سے  
فاسخ ہو جاتا ہے اور ان دشمنوں سے اور اپنی دنیا سے چھوٹ  
جاتا ہے اور حق عزوجل اس کے لیے اپنے قرب کا دوازہ  
کھول دیتا ہے تو وہ کسی کام کا خواہاں ہوتا ہے کہ اس کو کرنے  
لگے پس اس سے کہا جاتا ہے تو پیچھے کو لوٹ اور مخلوق کی خدمت  
میں مشغول ہو اور ان کو ہمارا راستہ دکھا اور ہمارے طالبوں  
اور ارادت والوں کی خدمت کرتا رہ۔ تم اہل اللہ کے کام سے  
جس میں وہ مشغول ہوتے ہیں غافل و اندھے ہو تم نفسوں کی خاطر  
جو کہ تمہارے دشمن ہیں روشنی کو اندھیرے سے ملاتے ہو

تم اپنی عورتوں کو خدا کو ناغوش کر کے راضی کرتے ہو۔ مخلوق میں آپ سے بہت سے ہیں جو اللہ کی رضامندی پر اپنی جو رو اور بال بچوں کی رضامندی کو مقدم کرتے ہیں۔ میں تیری حرکات و سکنات اور تمام ہمت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب تیرے نفس اور بیوی اور اولاد کے لیے ہیں اور حق عزوجل کی تیرے پاس خبر ہی نہیں۔

تجھ پر افسوس بہتیرا شمار مردوں کے ساتھ نہیں ہے جو آدمی کہ اپنی مردانگی میں کامل ہوتا ہے وہ خدا کے سوا کسی ایک کے لیے کام نہیں کرتا۔ تیرے قلب کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور تیرے باطن کی صفائی مکدر ہو گئی ہے اور یہ یقین تو اپنے رب عزوجل سے پردہ میں ہو گیا ہے اور تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا (رحمہ اللہ علیہ) ان مجبوروں کے لیے سخت افسوس ہے جن کو اپنا محبوب ہونا بھی معلوم نہیں۔

تجھ پر افسوس! تیرے کھانے میں ٹوٹا ہوا کالج ہے اور تو اسے کھا رہا ہے اور تجھے اپنے غلبہ شہوت اور قوت حرص و خواہشات کی شدت کی وجہ سے اس کا علم بھی نہیں ایک گھڑی کے بعد وہ تیرے معدہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تیری کل بلائیں تیرے خدا کی دوری اور غیر خدا کو اختیار کر لینے کی وجہ سے ہیں۔ اگر تو مخلوق کا امتحان لینا چاہتا تو البتہ تو ان کو دشمن سمجھتا اور ان کے خالق کو اپنا دوست بناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے امتحان لے لے اس کو دشمن سمجھنے لگے گا۔ تیری دوستی و دشمنی تو بغیر جانچ و امتحان کے ہے جانچ تو عقل کرتی ہے تجھے تو عقل ہی نہیں جانچ تو قلب کرتا ہے تیرا تو قلب ہی نہیں۔ قلب بھی سوچتا، نصیحت پکڑتا اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا اس قرآن میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کا قلب ہویادہ اس کو کان لگا کر حضور قلب

فِي الْكِتَابِ عَلَى النَّفْسِ الَّتِي هِيَ عَذُوٌّ كَثِيرَةٌ تَدْنُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ يَسْخَطُ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْخَلْقِ يُقَدِّمُوْنَ رِضَا اَزْوَاجِهِمْ وَاَوْلَادِهِمْ عَلَى رِضَا الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ اَتَنِي اَرَى حَرَكَاتِكَ وَسَكَنَاتِكَ وَكُلَّ هَيْكَلٍ لِنَفْسِكَ وَرَوْحِكَ وَوَلَدِكَ وَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ خَبْرٌ

وَيُحَاكَ اَنْتَ لَا تُعَدُّ مِنَ الرِّجَالِ الرَّجُلُ الْكَامِلُ فِي رُجُوْ بَيْتِهِ لَا يَعْمَلُ لِاحِدٍ سِوَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ قَدْ عَمِيَتْ عَيْنَا قَلْبِكَ وَتَكَدَّرَ رِصْقَاءُ سِرِّكَ وَقَدْ حُجِبَتْ عَنْ رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ وَمَا عِنْدَكَ خَبْرٌ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَيَلِ الْمَحْجُوْبِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ مَحْجُوْبُوْنَ

وَيُحَاكَ فِي فِتْنَتِكَ رُجَا جَرِّ مَكْسَرٍ وَاَنْتَ تَأْكُلُهُ وَلَا تَعْلَمُ بِمَلْعُوْةٍ شَرِّهِكَ وَغَلَبِ شَهْوَتِكَ وَهَوَاكَ وَشِدَّةِ حِرْصِكَ بَعْدَ سَاعَةٍ تَقْطَعُ مَعْدَنَكَ وَتَهْلِكُ كُلُّ بَلَائِكَ لِبُعْدِكَ عَنْ مُوَلَاكَ عَزَّوَجَلَّ وَاجْتِنَابِكَ لِعَايَرِهِ لَوْ خَبَّرْتَ الْخَلْقَ لِبَغْضَتِهِمْ وَآخِيبَتْ خَالَفَتُهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتِيْرُ نَفْلُهُ يَعْنِي بُغْضُ اَنْتَ تُحِبُّ وَتُبْغِضُ مِنْ غَيْرِ اِخْتِيَارِ الْعَقْلِ يَخْتِيْرُ وَلَا عَقْلَ لَكَ الْقَلْبُ يَخْتِيْرُ وَلَا قَلْبَ لَكَ الْقَلْبُ يَنْفَكُ وَيَتَذَكَّرُ وَيَتَوَحَّظُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ

شَرَّهَيْدُهُ انْقَلَبَ الْعَقْلُ قَلْبًا وَ انْقَلَبَ الْقَلْبُ سِرًّا  
وَ انْقَلَبَ السِّرُّ فِتْنَاءً وَ انْقَلَبَ الْفِتْنَاءُ وَجُودًا اَدَمُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْاَنْبِيَاءُ كَانَتْ لَهُمْ شَهَوَاتٌ وَ  
رَغَبَاتٌ غَيْرَ اَنَّهُمْ كَانُوا اِيْحَالِ الْفُتُونِ نَفْسُهُمْ يَطْلُوتُ  
رَضَا بَرَبِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ اَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَشْتَهَى شَهْوَةً  
وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَنَمَلٌ نَمَلَةٌ وَاحِدَةً دَهْوًا فِي  
الْجَنَّةِ ثُمَّ تَابَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَوْرَةٌ وَ كَانَتْ  
شَهْوَتُهُ مُحْمُودَةً فَإِنَّهُ طَلَبَ اَنْ لَا يَفَارِقَ جَوَارِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَا زَالُوا اِيْحَالِ الْفُتُونِ  
نَفْسُهُمْ وَطَبَاعُهُمْ وَشَهَوَاتُهُمْ حَتَّى اتَّحَقَّ بِالْمَلَايِكَةِ  
مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ بِكَثْرَةِ مُجَاهَدَاتِهِمْ وَكَابِدَاتِهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ  
الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْاَوْلِيَاءُ يَصْبِرُونَ وَانْتَهَى  
اَيْضًا وَاقِفُوهُمْ فِي الصَّبْرِ -

يَا غُلَامُ اسْبِرْ لِصُرْبَةِ عَدُوِّكَ  
فَعَنْ قَرِيبٍ تَضْرِبُهُ وَتَقْتُلُهُ وَتَأْخُذُ  
سَكْبَةً ثُمَّ تَأْخُذُ الْخُلْعَةَ مِنَ الْمَلِكِ  
وَالْاَقْطَاعِ -

يَا غُلَامُ اجْهَدْ اِنَّكَ لَا تُؤْذِي أَحَدًا  
وَ اِنْ تَكُونُ نَيْتُكَ صَالِحَةً لِكُلِّ أَحَدٍ  
إِلَّا مَنْ أَمَرَكَ الشَّرُّ بِإِذْنِهِ فَإِذْنُكَ  
لَهُ عِبَادَةٌ الْعُقَلَاءُ النُّجَبَاءُ الصَّادِقُونَ  
قَدْ نَوَّعُوا فِي صُورِهِمْ وَقَدْ أَقَامُوا الْفِيَاةَ  
عَلَى نَفْسِهِمْ وَاعْمَرُوا عَيْنَ الدُّنْيَا  
بِهِمْ وَعَبَّرُوا الصِّرَاطَ بِتَصَدِيقِهِمْ  
سَارُوا بِقُلُوبِهِمْ حَتَّى وَفَقُوا أَعْلَى بَابِ الْجَنَّةِ -

سے نہیں۔ عقل ہی منقلب ہو کر قلب اور قلب منقلب ہو کر سر  
اور سر منقلب ہو کر فناء اور فنا منقلب ہو کر وجود بن جاتی ہے۔  
آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام میں شہوتیں اور رغبتیں تھیں  
لیکن وہ سب اپنے نفسوں کی مخالفت کرتے رہتے تھے، اور  
اپنے پروردگار عزوجل کی رضامندی چاہتے رہتے تھے۔ آدم  
علیہ السلام نے جنت میں ایک خواہش کی اور جنت ہی میں ایک  
نغزش کھائی پھر توبہ کر لی۔ پھر دوبارہ ایسا نہ کیا اور ان کی خواہش اچھی  
تھی کیوں کہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ کسی طرح حق عزوجل کے  
پڑوس سے جدا نہ ہوں اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنے نفسوں  
اور طبعیتوں اور خواہشوں کی مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ  
اپنے نفسوں کو بہت مجاہدوں اور سکینوں میں ڈال کر ختیقہ فرشتوں  
کے ساتھ مل گئے۔ نبی اور رسول اور ولی صبر کیا کرتے ہیں تم بھی  
صبر میں ان کے ساتھ موافقت کرو۔

اے غلام! تو اپنے دشمن کے حملے میں صبر کر لے پس  
عنقریب تو اس پر حملہ کرے گا اور اس کو قتل کرے گا تو اس کا مال  
لے لے گا بعدہ تو بادشاہ کی طرح خلعت اور جاگیر حاصل کرے  
گا۔

اے غلام! تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو ایذا نہ دے  
اور تیری نیت ہر ایک کے لیے نیک ہے۔ ہاں جس کو ایذا  
دینے کا شرع حکم دے پس اس کو ایذا دینا تیرے واسطے  
عبادت ہوگی ماقولوں شریفوں صدیقیوں کا صورت تو چھوٹا جا چکا،  
اور انہوں نے اپنے نفسوں پر قیامت برپا کر لی اور اپنی بہتوں  
کے باعث انہوں نے دنیا سے روگردانی کر لی اور اپنی تصدیق  
کی وجہ سے وہ پل صراط سے گزر چکے اور اپنے قلبوں سے  
چلے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے

وَقَفُّوا عِنْدَ الظَّبْيِ وَقَالُوا لَا نَأْكُلُ  
وَحَدَاكَ لَا تَكُنْ الْكَرِيمَ لَا يَأْكُلُ  
وَحَدَاكَ فَارْجِعُوا إِلَى الدُّنْيَا قَهْقَرَى كُنْ  
يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَيُخْبِرُونَهُمْ بِمَا هُنَاكَ فَدَيْسَهُ لَوْنُ الْأَهْوَى  
عَلَيْهِمْ مَنْ قَوَى إِيْمَانَهُ وَتَمَكَّنَ فِي إِيْمَانِهِ  
رَأَى بِقَلْبِهِ جَمِيعَ مَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
بِهِ مِنْ أُمُورِ الْقِيَامَةِ يَرَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ  
وَمَا فِيهَا يَرَى الصُّورَ وَالْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ  
بِهِ يَرَى الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ يَرَى الدُّنْيَا  
وَمَا وَالْهَذَا الْفِتْلَابَ دُولَ أَهْلِهَا يَرَى  
الْخَلْقَ كَمَا تَرَى قُبُورُهُمْ يَسْئَلُونَ إِذَا  
اجْتَمَعُوا عَلَى الْقُبُورِ بِمَا فِيهِ مِنَ  
النَّعِيمِ وَالْعَذَابِ يَرَى الْقِيَامَةَ  
وَمَا فِيهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْمُؤَافَقَةِ  
يَرَى رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
عَذَابَهُ يَرَى الْمَلَائِكَةَ قِيَامًا  
وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ  
الْأَبْدَالَ وَالْأَوْلِيَاءَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ  
يَرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْزِلُونَ وَ  
أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَتَعَادُونَ مَنْ  
صَحَّ نَظَرُهُ نَظَرَ بَعَيْنٍ رَأَى بِهِ الْخَلْقَ  
وَبَعَيْنٍ قَلْبِهِ إِلَى فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
فِيهِمْ يَرَى تَحْوِيلَهُ وَتَسْكِينَهُ لَهُمْ فَهَذَا  
نَظَرُ الْعَزَّةِ مِنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وہ راستہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہا نہ کھائیں گے  
کیوں کہ کریم کی عادت تنہا کھانے کی نہیں ہے پس وہ یہ کہہ کر  
دنیا کی طرف پچھلے پاؤں لوٹ آئے ہیں تاکہ یہاں اگر لوگوں کو  
اللہ عزوجل کی طرف بلائیں اور وہاں کی حالتوں کی ان کو خبر دے دیں  
اور ان پر تمام امور کو آسان کر دیں جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے  
اور جو اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے وہ قیامت کے تمام  
امور کو جن کی اس کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے اپنے  
قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو جنت و دوزخ اور جو  
کچھ ان دونوں میں ہے سب نظر آتا ہے۔ وہ صور اور اس  
فرشتہ کو جو اس پر متعین ہے دیکھتا ہے وہ تمام چیزوں کو ان کی  
حقیقت سے پہچانتا ہے وہ دنیا اور اس کے زوال اور اہل  
دنیا کی دولتوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے وہ مخلوق کو اس  
حالت میں دیکھتا ہے کہ گویا وہ قبروں میں مدفون ہیں چل پھر  
رہے ہیں اور جب وہ قبروں پر گزرتا ہے تو وہاں کے عذاب  
و ثواب کو محسوس کرتا ہے وہ قیامت کو اور جو کچھ اس میں قیام و  
موافقت سے ہونے والا ہے سب کو دیکھتا ہے وہ اللہ  
عزوجل کی رحمت و عذاب کو دیکھتا ہے وہ فرشتوں کو کھڑا ہوا  
اور نبی اور رسولوں اور ابدال اور اولیاء کو اپنے اپنے مرتبہ پر  
دیکھتا ہے وہ جنت والوں کو جنت میں ملاقات کرتے  
ہوئے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں عداوت کرتے ہوئے  
دیکھتا ہے جس کی نظر صحیح ہو جاتی ہے وہ اپنے سر کی  
آنکھ سے خلق کو اور اپنے قلب کی آنکھ سے اللہ عزوجل  
کے فعل کی طرف جو مخلوق کی طرف صادر ہوتا ہے دیکھتا ہے  
وہ اللہ کے حرکت دینے اور اس کی مخلوق کے سبک دینے  
کو دیکھتا ہے پس یہ نظر نظر عزت ہے بعض اولیاء اللہ

میں سے وہ ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی طوط نظر ڈالتے ہیں تو اس کے  
ظاہر کو سر کی آنکھ سے اور اس کے باطن کو اپنے قلب کی آنکھ  
سے اور اپنے مولیٰ عزوجل کو اپنے سر و حقیقت کی آنکھ سے  
دیکھتے ہیں۔ جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے  
جب ان کو کوئی تقدیری امر آتا ہے وہ اس کی موافقت کرتے ہیں  
خواہ اس کو تقدیر جنگل میں ڈالے یا دریا میں، ہمارا زمین میں ڈالے  
یا پہاڑ میں، اس کو شیریں کھانا کھلائے یا کڑوا یہ اس کی عزت و  
ذلت، امیری و فقری، عافیت و بیماری سب میں ہی موافقت  
کرتا، ہر امر میں وہ تقدیر کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک کہ جب  
تقدیر نے یہ جان لیا کہ وہ مشقت میں پڑ گیا۔ اتر کر اس کو اپنی جگہ  
سوار کر دیا اور اس کے ہمراہ ہر کام کی خدمت کی۔  
اور اس کے قرب الہی اور کرامت کی وجہ سے اس کے سامنے  
متواضع ہو گئی اور اس کو یہ سب ہر نبی اس وجہ سے ملے کہ اس نے  
اپنے نفس و خواہش و طبیعت اور عادتوں اور بادشاہ دنیوی اور  
برے ہمیشوں کی برابر مخالفت کی۔

اے اللہ! ہم کو اپنی تقدیر کی موافقت تمام حالتوں میں عطا  
فرما دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں نگوئیاں دے اور ہم کو دوزخ  
کے عذاب سے بچا۔ آمین

## میسویں مجلس

۲۱ ذی قعدہ النجیب ۵۲۵ھ ہجری المقدس  
کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ  
میں ارشاد فرمایا:  
اے اس شہر کے رہنے والو! تم میں نفاق بہت ہو گیا ہے

مَنْ إِذَا انْظَرَ إِلَى شَخْصٍ سَأَى ظَاهِرَهُ  
بَعَيْنٍ سَأَسَمَ وَبَاطِنَهُ بِعَيْنِ قَلْبِهِ وَ  
مَوْلَاهُ عَرَّ وَجَلَّ بِعَيْنِي سِرَّهُ مَنْ  
خَدَمَ رَحِمًا كَانَ إِذَا جَاءَهُ الْقَدَرُ  
وَأَفْتَقَهُ إِنْ حَزَنَ إِلَى الدَّرِّ أَوْ الْبَحْرِ  
إِلَى الشَّرْهِلِ أَوْ إِلَى الْجَبَلِ أَطْعَمَهُ حُلَا  
أَوْهُرًا وَأَفْتَقَهُ فِي الْعَرِّ وَالْثَّلِ وَالْغِي  
وَالْفَقْرِ وَالْعَافِيَةِ وَالشَّقِيقَةِ مَشَى مَعَ  
الْقَدَرِ حَتَّى إِذَا عَرِلَ لَهَا الْقَدَرُ أَتَتْهُ  
قَدْ تَعَبَ نَزَلَ وَأَمْرُ كَبَّةٍ مَكَانَهُ  
وَصَبَا رُكَّابًا لَمْ وَخَدَمَهُ وَتَوَاضَعَ  
لَهُ لِقْرَابِهِ مِنَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَكَوْأَمَتِهِ  
لَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَفْسِهِ  
وَهَوَاهُ وَطَبُوعِهِ وَعَادَاتِهِ وَشَيْطَانِهِ  
وَأَقْرَابِ الشُّعْرِ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَوَافَقَةً وَتَوَكَّلْ فِي  
جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَاتَّقِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ  
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

## المجلس العشرون

وَقَالَ رَحِمَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَكْرَةً  
بِأَلَمِ دَرَسَةِ عَشْرِينَ مِنْ دُونَ الْقَعْدَةِ سَنَةً  
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ  
يَا أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ قَدْ كَثُرَ الْيَفَاقُ بَيْنَكُمْ

اور اخلاص کم قول بلا عمل کی بہت کثرت ہے۔ قول بغیر عمل کے کچھ قدر نہیں رکھتا بلکہ وہ تم پر حجت ہے نہ کہ قرب الہی کا راستہ۔ قول بلا عمل ایسا ہے جیسے بلا دروازے کا گھر جس میں کچھ حق آنا نہ ہو یا ایسا خزانہ جس سے کچھ خرچ نہ کیا جائے وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ صورت بغیر روح کے ہے بُت ہے جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں اور نہ دونوں پیر اور نہ اس میں پکڑنے کی قوت ہے۔ تمہارے بڑے اعمال ایسے ہیں جیسے جسم بغیر روح کے۔ روح تو اخلاص و توحید اور قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت قدم رہنا ہے ایسا نہ کرو بلکہ تم اس کے برعکس عمل کرو اچھے رہو گے۔ خدا کے احکام کو بجا لاؤ اس کے منوعات سے باز رہو اور تقدیر کی نکتہ کرو۔ مخلوق میں سے ایک دو ہی ایسے ہیں جن کے قلب انس و مشاہدہ قرب الہی کی مشرب پی کر مست ہو جاتے ہیں پس انہیں تقدیری غلوں اور بلاؤں کا احساس بھی نہیں ہوتا ان کی مصیبتوں کے تمام دن گزر جاتے ہیں اور اس کا ان کو علم بھی نہیں ہوتا پس وہ اللہ عزوجل کی حمد و شکر گزاری کرتے رہتے ہیں وہ نزولِ بلا کے وقت گویا موجود ہی نہیں رہتے تاکہ وہ خدا پر اعتراض نہ کرے ان پر ویسی ہی آفتیں نازل ہوتی ہیں جیسی تم پر پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آفتوں سے اور ان پر صبر سے غائب ہو جاتے ہیں انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی تکلیف سے صبر کرنا ضعفِ ایمان سے اس کے بچیں میں ہوا کرتا ہے اور صبر کا بلا تکلف آنا جانا اس کے جوانِ قریب البلوغ ہونے کے وقت ہوتا ہے اور اس کے کمالِ جوانی کے پہنچ جانے کے وقت موافقت ہوتی ہے اور راضی برضا الہی ہو جانا اس کے قرب کے وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے

وَقَالَ الْإِخْلَاصُ وَقَدْ كَثُرَتِ الْأَقْوَالُ بِلاَ أَعْمَالٍ  
قَوْلُ بِلَا عَمَلٍ لَا يَسْتَوِي شَيْئًا بَلْ هُوَ حُجَّةٌ  
لَا مَحْجَظَةَ الْقَوْلُ بِلاَ عَمَلٍ كَذَا بِلاَ بَابٍ  
وَلَا مَرَافِقٍ كُنْزٌ لَا يَنْفَعُ مِنْهُ هُوَ مُجَرَّدُ  
دَعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ صُورَةٌ بِلَا نُذُوحٍ صَنِمٌ  
لَا يَدَانِ لَمْ وَلَا رِجْلَانِ وَلَا بَطْشٌ  
مُعْظَمُ أَعْمَالِكُمْ كَجَسَدٍ بِلَا رُوحٍ الرُّوحُ  
هُوَ الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ وَالشَّكَاةُ عَلَى  
كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ لَا  
تَفْعَلُوا إِنْ عَكُسُوا تَصِيبُوا امْتَثِلُوا الْأَمْرَ  
وَأَنْتُمْ هُمْ عَنِ النَّهْيِ وَوَاقِفُوا الْقَدْرَ أَحَادُ  
أَفْرَادٍ مِنَ الْخَلْقِ تَسْقَى قُلُوبُهُمْ بِبَيْتِهِمُ  
الْأَنْسِ وَالْمَشَاهِدَةِ وَالْقُرْبِ فَلَا يَحْشُونَ  
بِالْأَمْرِ الْقَدْرَ وَبَلَايَاهُ فَتَنْقَضِي آيَاتُ  
الْبَلَاءِ وَلَا يَعْلَمُونَ بِهَا فَيَحْمَدُونَ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ وَيَشْكُرُونَ لَهُ كَيْفَ لَمْ يَكُونُوا  
مَوْجُودِينَ حَتَّى لَا يَعْزِضُوا عَلَى رَبِّهِمْ  
عَزَّ وَجَلَّ الْأَفَاتُ تَنْزِلُ عَلَى الْقَوْمِ كَمَا  
تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْبِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ  
يَغِيْبُ عَنِ الْأَفَاتِ وَعَنِ الصَّبْرِ عَلَيْهَا  
الصَّبْرُ عِنْدَ ضَعْفِ الْإِيمَانِ عِنْدَ  
كَوْنِهِ طِفْلًا وَالصَّبْرُ عِنْدَ  
كَوْنِهِ شَابًا مُرَاهِقًا وَانْمُوافَقَةُ  
عِنْدَ كَوْنِهِ بَالِغًا وَالرِّضَا  
عِنْدَ كَوْنِهِ قَرِيبًا يَنْظُرُ

يُعْلِمُهُ إِلَىٰ مَرَاتِبِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْغَيْبَةِ وَ  
الْفَنَاءِ عِنْدَ وَجُودِ الْقَلْبِ وَالْبَسْرِ عِنْدَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَهِيَ حَالَةُ الْمَشَاهِدَةِ  
وَالْمُحَادَثَةِ يَفْقَهُ بَاطِنَهُ يَنْفِي وَجُودَهُ وَيُخَيِّ  
بِالِإِضَافَةِ إِلَى الْخَلْقِ وَيُوجِبُ عِنْدَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ يُدْعَى وَيَدُوبُ هُنَاكَ ذُو بَانَا  
ثُمَّ إِذَا شَاءَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ أَكْثَرَهُ إِذَا  
أَرَادَ أَعَادَهُ إِعَادَةً وَجَمَعَ مُمْتَلَا شَيْئَةً  
وَمُتَمَرَّةً فَتَكُونُ كَمَا جَمَعَ أَجْسَادَ الْخَلْقِ يَوْمَ  
الْيَوْمِ أَمَةً بَعْدَ التَّقْطِيعِ وَالتَّمَرُّقِ يَجْمَعُ  
عِظَاهُمْ وَلَحْوَهُمْ وَشُعُورَهُمْ ثُمَّ  
يَأْمُرُ إِسْرَافِيلَ بِنَزْخِ الْأَرْوَاحِ فِيهَا هَذَا  
فِي حَقِّ الْخَلْقِ أَمَّا هُوَ لَا يُعِيدُهُمْ بِلَا  
وَأَسْطَرَةٍ تَنْظُرُهُ تَنْذِيرُهُمْ وَنَظَرُهُ يُعِيدُهُمْ  
شَرْطُ الْمَحَبَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ لَكَ إِمْرَادَةٌ  
مَعَ مَحْبُوبِكَ وَأَنْ لَا تَشْتَغَلَ عَنْهُ بِدُنْيَا  
وَلَا آخِرَةٍ وَلَا خَلْقٍ مَحَبَّتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ لَيْسَتْ هَيْئَةً حَتَّى يَدْعِيَهَا كُلُّ  
أَحَدٍ كَمَا مَنَّ يَدْعِيهَا وَهِيَ  
بَعِيدَةٌ عَنْهُ وَكَمَا مَنَّ لَا  
يَدْعِيهَا وَهِيَ عِنْدَهَا لَا تَحْقِرُهَا  
أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَسْرَارَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَبْدُورَةٌ فِيهِمْ  
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرًا تَوَاضَعُوا فِي أَنْفُسِكُمْ وَلَا  
تَتَكَبَّرُوا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

علم سے رب عزوجل کی طرف نظر کرتا ہے اور غیبت ذات  
مطلق وقت پائے جانے قلب و سر کے حق تعالیٰ کی حضوری  
میں ہوتی ہے پس یہی حالت مشاہدہ اور ہمکلامی کی ہے اس حالت  
میں اس کا باطن اور اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے اور وہ بمقابلہ مخلوق  
کے محو ہو جاتا ہے اور وہ حق عزوجل کی حضوری میں پایا جاتا ہے  
وہاں محو ہو کر پورے طور سے گھل جاتا ہے بقا کا درجہ مل جاتا ہے  
پھر جب حق عزوجل چاہتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے

اور جب چاہتا ہے اس  
کو واپس کر لیتا ہے اور اس کے منتشر و متفرق اجزاء کو جمع کر  
دیتا ہے جیسے کہ وہ قیامت کے دن مخلوق کے بدنوں کو  
ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے اور پھٹ جانے کے  
باوجود جمع کر دے گا اور ان کی ہڈیوں اور گوشت اور بالوں کو جمع  
کر دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو ان میں روحوں کے پھرنے کا  
حکم دے گا یہ تو عام مخلوق کے حق میں ہوگا لیکن اہل اللہ کا اعادہ  
بغیر واسطہ ہوگا فقط نظر الہی ان کو فنا کرتی ہے اور اسی کی نظر ان  
کا اعادہ فرمائیگی۔ محبت کی شرط یہ ہے کہ تیرا اعادہ محض اپنے  
محبوب کے ساتھ ہو اور تجھ کو اس محبوب سے کوئی چیز اور مخلوق  
دنیا و آخرت میں روک نہ سکے۔ خدا کی قسم محبت اللہ عزوجل کی  
آسان نہیں ہے جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے۔ کتنے  
لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور  
ہوتی ہے اور کتنے ایسے ہیں جو محبت کے دعویدار نہیں حالانکہ  
محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے مسلمانوں میں سے تم  
کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو کیوں کہ اسرار الہی ان میں مثل نیچ کے  
بکھیر دیے گئے ہیں۔ اے گروہ مسلمان! اپنے نفسوں میں بہت  
تواضع اختیار کرو اور اللہ عزوجل کے بندوں پر مغرور و تکبر نہ کرو

اپنی غفلتوں سے ہر شے ہر جاؤ تم بڑی بھاری غفلت میں ہو  
گیا تھا راجا صاحب کتاب ہو گیا ہے اور تم نے پھر لڑا  
کر لیا ہے اور جنت میں تم نے اپنے مکان دیکھ لیے ہیں نہیں  
ہے یہ مگر بہت بڑا دھوکہ ہو چکا تم میں سے ہر ایک نے اللہ عزوجل کے  
بہت گناہ کیے ہیں اور وہ اس میں تفکر ہی نہیں کرتا اور نہ ان سے توبہ  
کرتا ہے اور یہ گناہ رہتا ہے کہ تحقیق وہ گناہ بھلا دیے گئے ہیں  
وہ تو تمہارے نامہ اعمال میں تاریخ وار درج ہیں وقتوں کے ساتھ۔  
ان میں سے قلیل و کثیر سب پر حساب و عقاب کیا جائے گا۔  
غافلوا جاگ اے سونے والو! ہوشیار ہو جاؤ! پروردگار عزوجل کی  
رحمت کے سامنے آ جاؤ۔ اے بندو! تحقیق تم اور تمہارے تابعدار  
کوئی بھی جو جس کے گناہ اور لغزشیں زیادہ نہیں اور وہ اس پر  
اڑ رہا اور توبہ و ندامت نہ کی تو اس نے اگر جلد اس کی تلافی نہ کر لی  
تو سمجھ لے کہ کفر کا قاصداً کیا اے دنیا کے بغیر آخرت طلب کرنے  
والے۔ اے خلق کو بغیر خالق کے چاہنے والے تو محاجی کے سوا کسی  
سے نہیں ڈرتا اور نہ امیری کے سوا کسی کی آرزو کرتا ہے۔

تجھ پر انوس! رزق تو مقسوم ہے جو گھٹ بڑھ نہیں سکتا  
اور نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو خدا کی ضمانت میں شک کرنے والا  
ہے جو تیرے لیے مقسوم نہیں ہوا اس کی طلب پر حرم کرنے والا ہے  
تجھ کو تیری حرم نے عاملوں کے پاس حاضر ہونے اور مجالس خیر کی  
حاضری سے روک دیا ہے۔ تو ڈرتا ہے کہ تیرے منافع کم ہو جائیں  
گے اور تیرے اونٹ کم ہو جائیں گے۔

تجھ پر انوس! تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو تجھ کو کس نے  
کھلایا تھا۔ آج تو اپنی ذات پر اور خلق پر اور اپنی اشرافیوں اور رپوں  
پر، اپنی خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر بھروسہ کرنے  
والا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر تو نے اعتماد و بھروسہ کیا پس وہ تیرا مبرور ہے

تَنْهَوْا مِنْ غَفْلَةٍ نَّكَمُ مَا أَنْتُمْ إِلَّا فِي غَفْلَةٍ  
عَظِيمَةٍ كَأَنَّكُمْ قَدْ حُسِبْتُمْ وَ عَابَرْتُمْ  
الصِّرَاطَ وَ ذَرَيْتُمْ مَنَازِلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ  
مَا هَذَا إِلَّا غَيْرُ أَمْرِ الْعَظِيمِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ قَدْ  
عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَاصِيَ كَثِيرَةٌ وَ هُوَ لَا  
يَتَفَكَّرُ فِيهَا وَ لَا يَتُوبُ مِنْهَا وَ يَكُنْ أَنَّهُمْ قَدْ نَسِيتُ  
هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي صَحَائِفِكُمْ يَتَوَارِيخُ أَوْ قَاتِلَهَا  
يُحَاسِبُ أَوْ يُعَاقِبُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ  
مِنْهَا اسْتَيْقِظُوا يَا عَقْلُ أَنْتُمْ هُوَ يَا نِيَامُ  
تَعَرَّضُوا لِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ  
اشْتَدَّتْ مَعَاصِيهِ وَ زَلَّاتُهُ وَ اصْرَعَتْ عَلَيْهَا  
وَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ يَنْدَمْ فَقَدْ جَاءَ يُرِيدُ  
الْكُفْرَ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكِ الْأَمْرَ يَا دُنْيَا بَلَا  
أَخْبَرُ يَا خَلْقًا بَلَا خَالِقٍ مَا تَخَافُ سِوَى  
الْفَقْرِ مَا تَرْجُو سِوَى الْغِنَى۔

وَيَحَاكُ الزُّرْقُ مَقْسُومٌ لَا يَزِيدُ  
وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ أَنْتَ تَشَاءُ  
فِي زَمَانِ الْحَقِّ عَزَّ وَ جَلَّ حَرِيصٌ عَلَى طَلَبِ  
مَا لَمْ يُقَسِّمْ لَكَ حِرْصُكَ قَدْ مَنَعَكَ عَنِ  
الْحُضُورِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَ مَشَاهِدِ الْخَيْرِ تَخَافُ  
أَنْ تَنْقُصَ أَرْبَاحُكَ وَ أَنْ يَقِلَّ رِزْقُكَ  
وَيَحَاكُ مَنْ أَطْعَمَكَ وَ أَنْتَ طَعْلٌ فِي  
بَطْنِ أُمِّكَ أَنْتَ مُعْتَمِدٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى الْخَلْقِ  
وَدَايِبُكَ وَ دَرَاهِيكَ وَ عَلَى بَيْعِكَ وَ شِرَاكَ عَلَى  
سُلْطَانِ بِلَدِكَ كُلُّ مَنْ اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ فَمُؤَلِّهُ الْهَلَكِ

وَكُلُّ مَنْ حَقَّقَتْ وَرَجَوَتْ وَهَوَّاهُ (الْمَلِكُ)  
 كُلُّ مَنْ رَأَيْتَهُ فِي الصُّنْدِ وَالنَّفْعِ وَلَمْ تَرَ لَكَ  
 مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ  
 فَهَوَّاهُ الْمَلِكُ عَنْ قَرِيبٍ تَرَى خَبْرَكَ يَأْخُذُ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ  
 وَبَطْنَكَ وَمَالَكَ وَجَمِيعَ مَا اعْتَمَدْتَ  
 عَلَيْهِ دُونَهُ وَيَقْطَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْخَلْقِ  
 وَيَقْبِضُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ وَيَقْبِضُ أَيْدِيَهُمْ  
 عَنْكَ يَعْزِلُكَ عَنْ شُغْلِكَ وَيُعَلِّقُ  
 الْأَبْوَابَ فِي وَجْهِكَ وَيَرُدُّكَ مِنْ  
 بَابٍ إِلَى بَابٍ وَلَا يُعْطِيكَ لِقَاءَهُ وَلَا  
 دَسَاقَةً وَإِذَا دَعَاكَ فَلَا يُجِيبُكَ كُلُّ  
 ذَلِكَ لِشُرُوكِكَ بِهِ وَإِعْزَامًا دُونَكَ عَلَى  
 غَيْرِهِ وَطَلَبِكَ نِعْمَةً مِنْ غَيْرِهِ وَ  
 اسْتِعَانَتِكَ بِهَا عَلَى مَعَاصِيهِ هَذَا قَدْ  
 رَأَيْتَهُ جَرَى عَلَى كَيْفٍ مِنْ هَذَا الْجَنَسِ  
 وَهُوَ الْأَعْلَبُ فِي الْعَاصِيَيْنِ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ يَتَدَارَكُ الْأَمْرَ بِالتَّوْبَةِ فَيَقْبَلُ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَتَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ  
 بِالرَّحْمَةِ وَيُعَامِلُهُ بِالْكَرَمِ وَاللُّطْفِ  
 يَا خَلْقُ اللَّهِ تَوَبُّوا يَا عُلَمَاءُ يَا فَقَهَاءُ  
 يَا زُهَّادَ يَا عُبَادَ مَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ يَحْتَاجُ  
 إِلَى تَوْبَةٍ أَحْبَابُكُمْ عِنْدِي فِي حَيَاتِكُمْ  
 وَمَمَاتِكُمْ إِذَا أُشْكِلَتْ عَلَى أَوَّلِ  
 أُمُورِكُمْ انْكَشَفَتْ لِي فِي إِحْرَاهَا عِنْدَ مَوْتِكُمْ

اور ہر ایک وہ جس سے تو ڈرا اور جس سے تو نے آرزو کی پس وہ  
 تیرا مہربان ہے ہر ایک وہ جس پر تو نے نقصان و نفع میں نظر ڈالی  
 اور یہ خیال نہ کیا کہ حق عزوجل نے اس کے ہاتھوں پر تیرا کام کر دیا  
 پس وہ تیرا مہربان ہے۔ عنقریب تجھے اپنی خبر معلوم ہو جائے گی  
 حق عزوجل تجھ سے تیرے کان اور آنکھ اور قوت اور تیرا مال اور  
 تمام وہ چیزیں جن پر خدا کے سوا تو نے اعتماد کیا تھا سب چھین لیگا  
 اور تیرے اور میرے خلق کے درمیان میں تعلق قطع کر دے گا اور  
 ان کے دلوں کو تیرے اور پرستش کرنے کے گا اور ان کے ہاتھ تیرے  
 طرف سے باندھ دے گا اور تجھے تیرے مشغلوں سے معزول  
 کر دے گا اور تمام دروانے تیرے اوپر بند کر دے گا۔ تجھے  
 ایک دروانے سے دوسرے دروانے پر بدید پھرائے گا  
 اور وہ تجھے ایک لقمہ اور ایک ذرہ نہ دے گا اور جب تو اسے  
 پکارسے گا وہ تجھے جواب نہ دے گا یہ سب کچھ تیرے شرک  
 اور غیر خدا پر اعتماد کرنے اور غیر اللہ سے خدا کی نعمت طلب  
 کرنے اور گناہوں پر نعمتوں سے مدد چاہنے کی وجہ سے ہو گا  
 میں نے یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتے ہوئے دیکھا  
 ہے اور یہ بڑاؤ نافرمانوں میں اغلب ہیں اور بعض گنہگاروں میں  
 سے وہ بھی ہیں جو گناہوں کی توبہ سے تلافی کریتے ہیں پس حق  
 عزوجل ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی طرف نظر رحمت  
 فرماتا ہے اور ان سے کرم و لطف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے  
 اے مخلوق الہی توبہ کرو۔ اے عالمو! اے فقیہو! اے زاہدو  
 اور اے عابدو! تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو توبہ کا محتاج  
 نہ ہو۔ میرے پاس تمہاری زندگی و مرگ کے حالات و خبریں  
 ہیں جب مجھ پر تمہارے ابتدائی اور مشکل و مشتبہ ہو جاتے  
 ہیں تو آخر کار تمہاری موت کے وقت وہ سب مجھ پر منکشف

ہو جاتے ہیں جب تمہارے مال کی اصلی حالت مجھ پر پوشیدہ رہتی ہے تو میں اس کے مصارف کا منتظر رہتا ہوں پس اگر وہ مال اولاد اور اہل و عیال کے نفقہ اور حق عزوجل کے نفقہ پر اور خلق کی مصلحتوں میں صرف ہوتا ہے تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کی اصل حق عزوجل پر توکل ہے اور بلاشبہ یہ مال حلال مطلق ہے۔ میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں رہتا ہوں اور لیکن حق عزوجل مجھ پر تمہارے مالوں کا حال ان طریقوں کا اور نیز دوسرے طریقوں سے ظاہر فرمادیتا ہے۔

اے غلام! تو اس امر سے ڈر کہ حق عزوجل تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف نہ دیکھے پس اس وقت تو رسوا ہو جائے گا اس سے بچ کر وہ تیرے دل میں اپنے غیر کا خوف یا اپنے غیر کی آرزو یا کسی غیر کی محبت دیکھے تم اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کر لو۔ ہر نقصان و فتنہ کا اسی کی طرف سے خیال کرو تم تو اس کے گھرمیں اور اس کی معافی میں ہو۔

اے غلام! تو جو ضرورت چہرے کو دیکھ کر ان کو چاہنے لگتا ہے یہ ناقص محبت ہے تو اس پر سزا کا مستحق ہے۔ صحیح محبت جس میں کبھی تغیر نہ آئے اللہ عزوجل کی محبت ہے اور وہی ایسی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا اور وہی صدیقوں روحانیوں کی محبت ہے انہوں نے محض بوجہ ایمان محبت نہیں کی بلکہ یقین و معائنہ سبب و محبت ہوا ان کے قلب کی آنکھوں سے پڑے کھول دیے گئے پس ان کو تمام وہ چیزیں جو غیب میں تھیں نظر آگئیں ایسی چیزیں دیکھی جن کا بیان ممکن ہی نہیں ہے۔

اے اللہ! مغفروانیت کے ساتھ اپنی محبت عطا فرما تمہارے مقسوم حصے دنیا کے پاس متین و تقویٰ ملک کے لیے

إِذَا حَقَّ عَلَى أَصْلٍ مَالٍ أَحَدِكُمْ أَنْتَظِرْ حُرُوجَهُ فَإِنْ خَرَجَتْ النِّفَقَةُ عَلَى الْأَوْلَادِ وَالْأَهْلِ وَفَقَرَاءِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَصَالِحِ الْخَلْقِ وَعَلِمْتُ أَنَّ أَصْلَكَ جَاءَ مِنْ حَلَالٍ وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الصِّدْقِ يَقِينُ الَّذِينَ هُمْ خَوَاصُّ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمْتُ أَنَّ أَصْلَكَ تَحْصِيلُهُ كَانَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ حَلَالٌ طَلَقْتُ لَسْتُ مَعَكُمْ فِي أَسْوَاقِكُمْ وَلَكِنَّ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ يَكُنْ فِي أَمْرِكُمْ بِهَذِهِ الصُّلُوحَةِ وَيَغْيِرَ هَافِنِ الطَّرِيقِ

يَا غُلَامُ احْذَرَا، يَبْرَى الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِكَ خَوْفٌ غَيْرُهُ فَتَعْلَمُ أَحَدًا مَا نَبْرَى فِي قَلْبِكَ خَوْفٌ غَيْرُهُ أَوْ رَجَاءٌ غَيْرُهُ أَوْ حُبٌّ غَيْرُهُ طَهِّرْ قُلُوبَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ كَلَامُ الصَّغَرِ وَالنَّفْعِ الْآمِنُ أَنْتُمْ فِي دَارِهِ وَضِيَا فَنَتِهِ

يَا غُلَامُ كُلُّ مَا تَرَاهُ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَرُجْبَةٍ فَهُوَ حُبٌّ نَاقِصٌ أَنْتَ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِ الْحُبُّ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ حُبُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي تَرَاهُ يَبْنِي قَلْبَكَ وَهُوَ حُبُّ الصِّدْقِ يَقِينُ الرُّوحَانِيَّةِ مَا أَحَبُّوْا بِإِلَهِيَّانَ بَلْ بِالْإِيْقَانِ وَالْعَيْنِ كَشِفَتِ الْحُجُبُ عَنْ أَعْيُنِ قُلُوبِهِمْ فَارَوْا مَا فِي الْغَيْبِ رَأَوْا مَا كَانَتْ يَبْكِيكُمْ عَنْ شَرْحِهِ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَحَبَّتَكَ مَعَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ أَتَمَّاكُمْ مَوْدَعَةً عِنْدَ الدُّنْيَا إِلَى أَوْقَاتِ

جن کا علم خدا کو ہے امانت رکھ دیے گئے ہیں ان کے مالک کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ تم کو وہ حصہ سپرد نہ کر دے دنیا مخلوق اور ان کی خرابی عقل پر نہستی اور استغناء کرتی ہے اور جو دنیا سے غیر مقسوم حصہ طلب کرتا ہے اس پر نیز اس پر جو بغیر اذن الہی اپنے مقسوم کی اس سے خواہش کرے نہستی نہستی ہے مذاقی کرتی ہے۔

اے قوم! اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور حق عزوجل کے دروازے کو منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی تم اللہ عزوجل سے عقل کی طلب کرو۔ جب دنیا اولیاء اللہ کی طرف آتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں چلی جا اور کسی کو دھوکا دے ہم تو تجھے پہچان چکے ہیں ہم نے تجھے دیکھا ہے تحقیق ہم تیرے حسن و ہیبت کو دیکھ چکے ہیں ہم پر اپنا کھوپڑی ظاہر نہ کر۔ تیری اثرنی خراب ہے تیری زینت کٹری کے اس خالی بُت کی طرح ہے جس میں روح نہیں تو ظاہر بلامنی ہے اور تو بغیر حقیقت کا دکھاوا ہے۔ حقیقت دیکھنے اور کہنے کے قابل آخرت ہے۔ جب اولیاء اللہ پر دنیا کے عیب ظاہر ہو گئے تو وہ اس سے بھاگے اور جب ان پر مخلوق کے عیب ظاہر ہوئے تو وہ ان سے غائب ہو گئے اور بھاگے اور ان سے وحشت کرنے لگے اور جنگوں اور ویرانوں اور غاروں اور جن و ملائکہ سے جو کہ زمین میں سیاحت کرنے والے ہیں۔ انس پکڑ لیا فرشتے اور جن ان کے پاس غیر صورتوں میں آتے ہیں بعض اوقات میں وہ زاہدوں اور برہمنوں کی صورت میں ڈاکھیلوں کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے اور کبھی مردوں کی صورت میں اور کبھی وحشی جانوروں کی صورت میں فرشتے اور جن جنسی صورت میں چاہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتوں اور جنوں

مَعْلُومَةٍ عِنْدَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَفْعَلُ أَحَدٌ عَلَى الْأَمْتِنَةِ عَمَّنْ تَسْلِيهِهَا إِلَيْكُمْ وَقَدْ مَجَى الْأَذْنِ مِمَّنْ مَنَّكَهَا هِيَ تَضَحِكُ بِالْخَلْقِ وَيَتَغَرَّبُ عَنْهُمْ وَكَسَتْ لَهْزَى بِهَا وَتَضَحِكُ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْسَمْ لَهُ مِنْهَا وَمِمَّنْ يَطْلُبُ قَسَمَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ۔

يَا قَوْمُ إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنْ بَابِهَا وَأَقْبَلْتُمْ عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَتْ وَتَبَعَتْكُمْ أَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَقْلَ إِذَا أَقْبَلْتِ الدُّنْيَا عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا لَهَا مَرِي عُمَرَى غَيْرِي نَا حُنْ قَدْ دَعَا فَذَلِكَ قَدْ رَأَيْتَكَ قَدْ عَرَفْنَا مَخْبَرَكَ كَا تَنْتَبَهُمْ رَجَى عَلَيْهِمَا فَإِنَّ دِينَكَ مُحْسِنٌ زَيْنَتِكَ عَلَى صَنِيعٍ مَجُوبٍ مِنْ خَشَبٍ لَا رُوحَ فِيهِ أَنْتَ طَاهِرٌ بِلا مَعْنَى مَنْظَرٍ بِلا مَخْبَرٍ الْمَنْظَرُ وَالْمَخْبَرُ لِلْآخِرَةِ لَمَّا ظَهَرَتْ عُيُوبُ الدُّنْيَا عِنْدَ الْقَوْمِ هَرَبُوا إِلَيْهَا وَلَمَّا ظَهَرَتْ عُيُوبُ الْخَلْقِ عِنْدَهُمْ عَابُوا عَنْهُمْ وَهَرَبُوا مِنْهُمْ وَاسْتَوَحْشَوْا مِنْهُمْ وَاسْتَأْنَسُوا بِالصَّحَارَى وَالْبَرَارِي وَالْخَرَابِ وَالْكَوْفِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ السَّائِحِينَ فِي الْأَرْضِ تَأْنِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ عَلَى صُورٍ غَيْرِ صُورِهِمْ يُظَاهِرُونَ لَهُمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى صُورِ الشُّهَادَةِ وَالزَّهْبَانِ بِالْحَادِ وَعَلَى صُورِ الْمَدَائِنِ وَعَلَى صُورِ الْوُحُوشِ يُظَاهِرُونَ فِي أَوَّلِ صُورَةٍ أَسَادًا وَالصُّورَ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ

كَتَبَ مُعَلَّقَةً عِنْدَ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ يَلِيسُ  
 أَيُّهَا سَاءَ الْمُرِيدُ الصَّادِقُ فِي إِرَادَتِهِ  
 الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَدَايَةِ أَمْرِهِ  
 يَصِيقُ عَنْ رُؤْيَا الْخَلْقِ وَعَنْ  
 سَمَاعِ كَلِمَةٍ مِنْهُمْ وَعَنْ رُؤْيَا  
 ذَمِّهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى  
 شَيْئًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ يَكُونُ قَلْبُهُ  
 تَائِبًا وَعَقْلُهُ غَائِبًا وَبَصَرُهُ شَاخِصًا  
 لَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ يَدُ الرَّحْمَةِ  
 عَلَى مَاسِ قَلْبِهِ فَيَأْتِيَهُ السُّكْرُ  
 لَا يَزَالُ سَكَمًا حَتَّى يَسْتَنْشِقَ  
 دَانِحَةَ الْقُرْبِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 فَحِينَئِذٍ يُفِيقُ وَإِذَا تَمَكَّنَ فِي  
 تَوْحِيدِهِ وَارْتِخَالِصِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ جَاءَهُ  
 الْكِبَارُ وَالسَّامِعُ الْخَلْقُ تَائِبِينَ الْقُوَّةُ  
 مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَحْمِلُ أَنْفَالَهُمْ  
 مِنْ غَيْرِ كَلْفَةٍ يَهْرُبُ مِنْهُمْ وَيَطْلُبُهُمْ وَيَكُونُ  
 كُلُّ شُعْلَةٍ فِي مَصَالِحِهِمْ وَهُوَ لَا يَشْغُلُ  
 عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرْفَةً عَيْنٍ الْمُنْزَهَّدُ  
 الْمُبْتَدِئُ فِي تَرْهِيهِ يَهْرُبُ مِنَ الْخَالِقِ  
 وَالرَّاهِدُ الْكَامِلُ فِي زُهْدِهِ لَا يُبَالِي مِنْهُمْ  
 لَا يَهْرُبُ مِنْهُمْ بَلْ يَطْلُبُهُمْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ  
 عَارِفًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَهْرُبُ مِنْ  
 شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ سِوَاكَ الْمُبْتَدِئِ يَطْلُبُهُمْ

کے نزدیک مختلف شکلیں بدلتا آیا ہے جیسے تھامے گھر میں لٹے  
 ہوئے مختلف کپڑے، جسے چاہا پس لیا۔ مرید جو خدا سے ارادے  
 میں سچائی والا ہوتا ہے اپنے ابتدائی معاملہ میں غلق کے دیکھنے  
 اور ان سے ایک کلمہ سننے اور دنیا کے ایک ذرے کے دیکھنے  
 سے بھی تنگی کرتا ہے وہ مخلوقات میں سے کسی ایک شے کے  
 دیکھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا اس کا قلب ابتداء میں جبران ہوتا  
 ہے اور عقل غائب اور اس کی آنکھ پتھر لائی ہوئی رہتی ہے۔  
 ایسی حالت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ رحمت کا  
 ہاتھ اس کے قلب کے سر پر آجائے پھر اس وقت اس کو ایک  
 نشہ آجاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ مست رہتا ہے یہاں تک کہ  
 قرب الہی کی براس کے دماغ میں سمجھتی ہے اس وقت یہ افانہ  
 میں آجاتا ہے بعدہ جب وہ توحید اور اخلاص اور معرفت الہی  
 اور علم و محبت خداوندی میں قرار پکڑنے والا ہو جاتا ہے تو اس  
 کو ثابت قدمی اور مخلوق کی گنجائش حاصل ہو جاتی ہے اس کے  
 پاس حق عزوجل کی طرف سے ایک قوت آجاتی ہے پس  
 اس وقت بغیر تکلیف کے ان کے بوجھ اپنے اوپر لادیتا ہے  
 مخلوق سے قریب ہو جاتا ہے اور ان کا طالب بنتا ہے۔  
 اور تمام مشغلہ اس کا ان کی مصلحتوں میں ہوتا ہے اور وہ اس  
 حالت میں ایک لمحہ کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا اس سے اعراض  
 نہیں کرتا۔ زاہد مبتدی ابتداء میں غلق سے بھاگتا ہے اور زاہد  
 کامل اپنے زہد میں کچھ بھی ان کی پروا نہیں کرتا نہ ان سے بھاگتا  
 ہے بلکہ ان کی خواستہ گاری کرتا ہے کیوں کہ وہ تو عارف باللہ  
 ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو وہ نہ کسی شے  
 سے بھاگتا ہے اور نہ وہ کسی شے سے سوا خدا کے ڈرتا ہے  
 مبتدی فاسقوں اور گنہ گاروں سے بھاگتا ہے اور منتہی ان کو طلب

کتاب ہے اور وہ کیسے طلب نہ کرے کیوں کہ ان کی ہر قسم کی دوا تو اس کے پاس موجود ہے۔ اور اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا نہیں ہنستا فاسق کے منہ پر مگر عارف باللہ جو معرفت الہی میں کامل ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرف رہنما بن جاتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے وہ ایک شکاری کا سا جال بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے مخلوق کا دنیا کے سمندر سے نکل کر تار ہوتا ہے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا اس کو ایسی قوت عطا فرمادی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے شیطان اور اس کے لشکر کو یہ عارف شکست دے دیتا ہے۔ اور مخلوق کو ان کے پنجہ سے چھڑا لیتا ہے۔ اے زاہد بن کربالت کو ساتھ لے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے آگے آ اور جو کچھ میں کتابوں اُسے سُن لے روئے زمین کے زاہد و آگے آو اپنے غلوت خانہ کو ویران کر دو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ تم اپنے غلوت غزل میں بغیر کسی اصل کے بیٹھ گئے ہو۔ تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے آگے بڑھو اور حکمت و دانائی کے میوے چنوا اللہ تم پر رحم کرے میں تمہارا انا اپنے نفع کے لیے نہیں چاہتا ہوں بلکہ تمہاری ہی غرض کے لیے چاہتا ہوں۔

اے غلام! تو حاجت مند ہے کہ محنت کرے تاکہ کوئی منست پیشہ سیکھے تو ہزار مرتبہ بتاتا تو رہتا ہے تاکہ تجھے ایسی اچھی عمارت بنانی آجائے جو پھر نہ ٹوٹے جب تو بناتے اور توڑنے میں خود فنا ہو جلتے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسی عمارت بنا دے گا جو ٹوٹ نہ سکے گی۔

اے قوم! تم کب سمجھو گے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کب معلوم کرو گے تم حق عزوجل کے طالبوں مریدوں کے پاس آمد و رفت کرو جب ان سے ملاقات ہو جلتے تو تم

كَيْفَ لَا يَطْلُبُهُمْ وَكُلٌّ دَوَائِهِمْ  
عِنْدَهُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ رَحِمَهُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ الْفَاسِقِ  
إِلَّا الْعَارِفُ مَنْ كَمَلَتْ مَعْرِفَتُهُ  
بِلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَمَاءً دَالًّا عَلَيْهِ يَصِيرُ  
شَبَكَةً يَصْطَادُ بِهَا الْخَلْقُ مِنْ  
بَحْرِ الدُّنْيَا يُعْطَى الْقُوَّةَ حَتَّى  
يَهْنَأَ مَرِئِيلَيْسَ وَجُنْدُهُ يَأْخُذُ الْخَلْقَ  
مِنْ أَيْدِيهِمْ يَأْمَنُ اعْتَزَلَ بِزُهْدِهِ  
مَعَ جَهْلِهِ تَقَدَّمَ وَاسْمَعُ مَا أَقُولُ  
يَأْتِي هَذَا الْأَمْرُ تَقَدَّمُوا خَرِبُوا  
صَوَامِعَكُمْ وَارْخَرِبُوا مِيتِي قَدْ  
قَعَدْتُمْ فِي خَلْوَاتِكُمْ مِنْ غَيْرِ  
أَصْلٍ مَّا وَقَعْتُمْ بِشَيْءٍ تَقَدَّمُوا  
وَالْقُطُوفُ أَشْمَاءُ الْحِكْمِ رَحِمَكُمُ  
اللَّهُ مَا أُرِيدُ مَجِيئَكُمْ لِي بَلْ  
أُرِيدُ لَكُمْ۔

يَا غُلَامُ تَحْتَاجُ تَتَعَبُ حَتَّى  
تَتَعَلَّمَ الصَّنْعَةَ تَبْنِي وَتَنْقُصُ  
الْفَنَ مَرَّةً حَتَّى تَحْسِنَ تَبْنِي مَا لَا يَنْقُصُ  
إِذَا قَبِلْتَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّقْصِ بَنِي لَكَ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يَمَاءً لَا يَنْقُصُ۔

يَا قَوْمُ مَتَى تَعْمَلُونَ مَتَى تُدْرِكُونَ  
الَّذِي أُشِيرُ إِلَيْهِ طَرَفُونَا عَلَى  
مُرِيدِي الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا وَقَعْتُمْ بِهِمْ

فَاُخِذَ مِنْهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ الَّتِي دُونِ  
الصَّادِقُونَ لَهُمْ رَوَاعِيَهُمْ عَلَامَاتُ ظَاهِرَةٍ  
نَبِيَّةٌ عَلَى وَجْهِهِمْ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَةَ فِيكُمْ وَفِي  
بَصَائِرِكُمْ وَفِي أَعْمَالِكُمْ السَّيِّئَةِ مَا تَقَرُّونَ  
بَيْنَ الصِّدِّيقِ وَالزُّنْدِيقِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  
بَيْنَ الْمُسْمُومِ وَغَيْرِ الْمُسْمُومِ

بِئْسَ

الْعَاصِي وَالظَّالِمِ بَيْنَ مُرِيدِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَبَيْنَ مُرِيدِ الْخَلْقِ أَحَدُ مَوَالِيهِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ  
حَتَّى يَعْرِفُواكُمْ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ اجْتَهِدُوا فِي  
مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّكُمْ إِذَا عَرَفْتُمُوهُ  
عَرَفْتُمْ مَا سِوَاهُ إِعْرِضُوا عَنْهُ إِحْبُوهُ إِذَا كُنْتُمْ  
مَائِرُونَ بِأَعْيُنِ دُؤُسِكُمْ فَانْظُرُوهُ بِأَعْيُنِ  
قُلُوبِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ الْبَعْدَ مِنْهُ أَحَبُّ مَوَالِيهِ  
صُرُورُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَحْبَبُوا اللَّهَ لِمَا يُغْنِيكُمْ مِنْ تَعْمِهِ وَأَحْبَبُونِي  
يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي

يَا قَوْمُ قَدْ غَدَاكُمْ بِبِعْمَةٍ وَأَنْتُمْ  
فِي بَطْوَانِ أَهْلِكُمْ وَبَعْدَ خُرُوجِكُمْ مِنْهَا  
لَكُمْ أَعْطَاكُمْ الْعَوَافِي وَالْقَوَى وَالْبَطْشَ وَ  
رَأَيْتُمْ طَاعَتَهُ وَجَعَلَكُمْ مُسْلِمِينَ مُتَّبِعِينَ  
لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شُكْرَهُ  
وَمَحَبَّتَهُ كَشُكْرِهِ وَمَحَبَّتُهُ إِذَا رَأَيْتُمْ الْبِعْمَةَ  
مِنْهُ زَالَتْ مَحَبَّتُهُ الْخَلْقِ مِنْ قُلُوبِكُمُ الْعَارِفُ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَحِبُّ لَهُ الْقَاطِرُ إِلَيْهِ بِعَيْنِي

اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی خدمت کرو سچے مریدین عاشقان  
خدا کے لیے خاص خوشنویس ہیں اور ظاہر حکمدار علامتیں ہیں لیکن  
تم میں اور تمہاری بینائیوں اور تمہاری ناقص سمجھوں میں تو آفتیں  
ہیں تم درمیان صدیق و زندق اور درمیان حلال و حرام نہر ملے  
ہوئے اور غیر نہر ملے ہوئے میں اور نافرمان اور تابعدار میں اور  
درمیان طالب خدا اور طالب خلق کے فرق نہیں کرنے تم ان  
مشائخوں کی جو علم کے موافق عمل کرنے والے ہیں خدمت کرو  
یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں کی حقیقت سے تمہیں آشنائیں  
اور تم حق عزوجل کی معرفت حاصل کرنے میں کوشش کرو پس  
بر تحقیق جب تم پہچان لو گے اس کے ماسوا سب کو پہچان لو گے  
تم اولاً اسے پہچان پورا سے محبوب بناؤ جب تم اس کو سر کی  
آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کو اپنے قلب کی آنکھوں  
سے دیکھو جب تم نعمتوں کو اس کی طرف سے سمجھو گے تو ضرور تم  
خدا سے بھی محبت کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے  
اللہ تعالیٰ کو اس لیے دوست رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے  
خدا اکھلتا ہے اور مجھ کو اپنا دوست اس لیے بناؤ کہ اللہ عزوجل  
مجھے دوست رکھتا ہے اس کی محبت سے میری محبت کرو۔

اے قوم! اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں اس حالت میں  
غذا دی کہ تم ماں کے پیٹوں میں تھے اور اس سے نکلنے کے بعد  
بھی غذا دی۔ پھر تم کو عافیت اور توفیق اور حلال کرنے کی قوت عطا فرمائی  
اور اس نے تم کو اپنی طاعت نصیب فرمائی اور اس نے تم کو مسلمان  
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنے والا بنایا پس اس کا شکر  
و محبت کمال ہے جب تم نعمتوں کو اس کی طرف سے خیال کرو گے  
تمہارے قلوب سے خلق کی محبت جاتی رہے گی۔ عارف باللہ  
اس کی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کی آنکھوں سے

قَلْبِهِ الَّذِي يَرَى الْإِحْسَانَ وَالْإِسَاءَةَ مِنْهُ لَا يُبْقِي لَهُ نَظَرًا إِلَى مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَيُسِيئُ مَنِ الْخَلْقِ إِنَّ ظَهَرَ مِنْهُمْ إِحْسَانًا وَلَا يُنْصَحِيرُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ ظَهَرَتْ مِنْهُمْ إِسَاءَةٌ لَا هَا بِتَسْلِيْلِهِ يَنْتَقِلُ نَظْرُهُ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى الْخَالِقِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْطِي الشَّرْعَ حَقَّهُ وَلَا يُسْقِطُ حُكْمَهُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْعَارِفِ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ حَتَّى يَقْوَى رُفْدُهُ فِي الْخَلْقِ وَالشَّرْكَ لَهُمْ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُمْ وَيَرْغَبُ فِي الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقْوَى كَوْنُهُ عَلَيْهِ يَذْهَبُ عَنْهُ اخْتِلَافُ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْخَلْقِ وَيَبْقَى عِنْدَهُ اخْتِلَافُهَا مِنَ الْخَلْقِ عَلَى يَدِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَتَأَكَّدُ وَيَتَأَبَّدُ عَقْلُهُ الْمُشْرِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَيُزَادُ عَقْلُ الْآخِرِ وَهُوَ الْعَقْلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

نظر کرنے والا۔ احسان و بڑائی سب اسی کی طرف سے جاتا ہے اس کی نظر اس کی طرف جس کے ساتھ مخلوق میں سے بھلائی و برائی کرتا ہے نہیں جاتی بلکہ جو مخلوق میں سے اس پر احسان کرتا ہے اس کو وہ حق عز و جل کے سحر کرنے سے ہی سمجھتا ہے اور اگر مخلوق سے اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے مسلط کر دینے سے جانتا ہے اس کی نظر خلق سے خالق کی طرف ہی جاتی ہے اور باوجود اس کے وہ شرع کا حق اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ شرع کے حکم کو ماقطع نہیں کرتا۔ عارف بانہ کا قلب ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ مخلوق میں اس کی بے رغبتی اور ان کا چھوڑ دینا اور ان سے روگردانی قوت پکڑ لیتی ہے اور حق عز و جل کی طرف رغبت کرتا ہے اور اس کا توکل خدا پر قوی ہو جاتا ہے اور مخلوق سے چیزوں کا لینا اور اس پر یہ خیال کہ مخلوق سے یہ لیا جاتا رہتا ہے صرف یہ خیال باقی رہتا ہے کہ اس کو حق سے براسلط خلق سے حاصل کیا ہے اور اس کی عقل جو کہ حق و خلق کے درمیان مشترک ہے مضبوط و مرکب ہو جاتی ہے اور دوسری عقل زیادہ کر دی جاتی ہے اور عقل خاص اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔

اے مخلوق کے محتاج! اور اے مشرک بالخلق اس بات سے ڈر کہ تجھے ایسی حالت پر کہیں موت نہ آجائے کہ تو اپنی حالت موجودہ پر ہو۔ ایسی حالت میں اللہ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے گا اور نہ وہ اس کی طرف دیکھے گا کیوں کہ وہ ہر مشرک پر جو اس کے غیر پر اعتماد کرنے والا ہو سخت ناراض ہے تو دنیا سے علیحدگی کو لازم پکڑ پھر خلق سے علیحدگی کو پھر نفس سے علیحدگی کو پھر آخرت سے تنہائی کو پھر ماموی اللہ سے جدائی کو اختیار کر۔ میر جیب تیرا ارادہ تہنائی و خلوت کا مولیٰ عز و جل کے ساتھ ہو۔

يَا فَاقِيرَ الْخَلْقِ يَا مُشْرِكًا بِهِمْ اخْذِرْ أَنْ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ وَفِيهِ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّهُ لِرُوحِكَ بَابَهُ وَكَرَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ غَضَبَانُ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ مُعْتَمِدٍ عَلَى غَيْرِهِ عَلَيْكَ بِالْخُلُوعِ عَنِ الْخَلْقِ ثُمَّ بِالْخُلُوعِ عَنِ الدُّنْيَا ثُمَّ بِالْخُلُوعِ عَنِ الْآخِرَةِ ثُمَّ بِالْخُلُوعِ عَمَّا سِوَى الْمَوْلَى إِذَا أَرَادْتَ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الْمَوْلَى

تو اپنے وجود و تدبیر اور فضول کو اس سب سے علیمہ ہو جا۔  
 تجھ پر انوس: تو اپنے خلوت خانہ میں بیٹھا ہے اور  
 تیرا قلب مخلوق کے گھروں میں ہوتا ہے تو ان کے آنے کا اور ان  
 کے ہدیر کا منتظر ہوتا ہے۔ تیرا زمانہ بیکار ضائع کیا اور تونے بے معنی  
 صورت بنائی جس چیز کا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اہل نہیں بنایا تو اس کا  
 اپنے نفس کو اہل نہ سمجھ۔ اور اگر تجھ کو اللہ عز و جل کی طرف سے  
 الہیت عطا نہ ہوئی تو تو اور تمام مخلوق اس کے لانے پر قدرت  
 نہیں رکھ سکتے جب خدا تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو وہ خود  
 اس کو تیرے لیے مہیا کر دے گا جب تیرا باطن صحیح نہیں اور قلب  
 ماسوی اللہ سے خالی نہیں تو تیری محض خلوت نشینی تجھے کیا نفع  
 دے گی۔

اے اللہ! جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے  
 والوں کو اس کے سننے سے نفع دینا۔

## ایکسویں مجلس

۲۵ / ذی قعدہ ۱۴۲۵ھ کو منگل کے دن

شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد  
 فرمایا:

دنیا آخرت سے حجاب ہے اور آخرت پروردگار دنیا و  
 آخرت سے حجاب ہے اور تمام مخلوق خالق سے حجاب  
 (عز و جل) جب تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ ٹھیرے گا پس  
 وہ تیرے لیے حجاب ہے تو خلق اور دنیا اور ماسوی اللہ تعالیٰ  
 کی طرف متوجہ نہ ہو یہاں تک کہ تراپنے سر کے قدموں اور ماسوی  
 اللہ میں زہد کے صحیح ہو جانے سے ہر ایک سے برہنہ و جہا ہو کر

فَاخْلُ عَنْ وُجُودِكَ وَتَدْبِيرِكَ وَهَذَا يَأْتِيكَ  
 وَيُحَاكُ تَقَعْدُ فِي صَوْمِ مَعْبَتِكَ وَقَبْلُكَ  
 فِي بَيُوتِ الْخَلْقِ مُنْتَظَرٌ لِمَجِيئِهِمْ وَهَذَا يَأْتِيكَ  
 صَنَاعُ مَا نَدَكَ وَجَعَلْتَ لَكَ الصُّورَةَ بِلَا  
 مَعْنَى لَا تَوَهَّلْ نَفْسَكَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَكَ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِنْ لَمْ يَأْتِكَ الشَّاهِدُ  
 مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا مَا تَقْدَرُ عَلَيْهِ  
 أَنْتَ وَلَا الْخَلْقُ إِذَا أَرَادَكَ إِكْمَالُ هَيْئَتِكَ لَهُ  
 إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بَاطِنٌ صَحِيحٌ وَقَلْبٌ خَالٍ  
 عَنِ اسْوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا فَجْرٌ دَلِيلُ الْخُلُوعِ  
 لَا يَفْعَلُكَ۔

اللَّهُمَّ انْقَعِبْ بِنَا أَقُولُ وَانْقَعِبْ بِنَا  
 أَقُولُ وَيَسْتَمِعُونَ۔

## المجلس الحادي وعشرون

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عَشِيرَةٍ  
 بِالنَّدَمِ سَلَةِ حَامِسٍ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ  
 خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ۔

الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ  
 حِجَابٌ عَنِ رَبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ كُلُّ خَلْقٍ حِجَابٌ  
 عَنِ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ مَهْمَا وَفَقَّتْ مَعَهُ فَهُوَ  
 حِجَابُكَ لَا تَلْقَيْتَ إِلَى الْخَلْقِ وَلَا إِلَى الدُّنْيَا وَلَا إِلَى  
 فَاسْوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ تَأْتِي إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 بِأَقْدَامِ سِرِّكَ وَصِحَّةِ هَدْيِكَ يَمَّا سَوَاكَ عَرِيَانًا عَنِ الْكُلِّ

مُتَحَيِّرًا فِيهِ مُسْتَعِينًا إِلَيْهِ مُسْتَعِينًا بِهِ  
 نَاطِلًا إِلَى سَابِقَتِهِ وَعَلَيْهِ وَكَذَا اتَّحَقَّنَ  
 وَصُولُ قَلْبِكَ وَسِرِّكَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ  
 وَهُوَ قَرَبُكَ وَأَذْنُكَ وَأَحْيَاكَ وَوَلَاكَ  
 عَلَى الْفُكُوبِ وَآمَرَكَ عَلَيْهَا وَجَعَلَكَ  
 طَبِيبًا لَهَا فَحَيِّنْ عَنِ التَّفَكُّتِ إِلَى الْخَلْقِ  
 وَالدُّنْيَا فَيَكُونُ الْيَقَاطُكَ إِلَيْهِمْ  
 نِعْمَةً فِي حَقِّهِمْ وَأَخْذُكَ لِلدُّنْيَا مِنْ  
 أَيْدِيهِمْ وَرَدُّهَا إِلَى فَخْرِ إِلَهِهِمْ وَسُيُفَاؤُكَ  
 لِقَسَمِكَ مِنْهَا عِبَادَةً وَطَاعَةً وَسَلَامَةً  
 مَنْ أَخَذَ الدُّنْيَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَا  
 تَنْصُرُهُ بَلْ يَسْكُمُ مِنْهَا وَيَصِفُّوْا لَهُ أَفْسَامَهُ  
 مِنْ نَنْ كَذَرِهَا الْوِلَايَةِ لَهَا عَلَامَةٌ  
 فِي وَجْهِهِ الْأَوَّلِيَاءِ يَعْرِفُهَا أَهْلُ  
 الْفِرَاسَةِ الْإِسْمَاءَاتِ تَنْطِقُ بِالْوِلَايَةِ  
 لَا النَّسَبِ مَنْ أَرَادَ الْفَلَاحَ فَلْيَبْذُلْ  
 نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَيَخْرِجْ بِقَلْبِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ  
 الدُّنْيَا كَخُرُوجِ الشَّعْدَةِ مِنَ  
 الْعُجَيْنِ وَاللَّبَنِ وَهَكَذَا مِنَ  
 الْآخَرَى وَهَكَذَا مِنْ جَمِيعِ مَا سَوَى  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَحَيِّنْ نِعْطِي  
 كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَأْكُلْ  
 أَفْسَامَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ  
 أَنْتَ عَلَى بَابِهِ وَهُمَا قَائِمَتَانِ

ذات الہی میں حیرت ناک بن کر اسی سے فریاد رسی چاہنے والا  
 مدعا نگنے والا سابقہ تقدیری و علم الہی کی طرف متوجہ ہونے والا  
 ہو کر دروازہ الہی تک آجائے پس جب تیرے قلب و سر  
 کا وہاں پہنچ جانا متحقق ہو جائے گا اور یہ دونوں بارگاہ الہی میں  
 داخل ہو جائیں گے تو وہ تجھے اپنا مقرب بنائے گا اور اپنے  
 سے نزدیک کرے گا اور تجھے حیات بخشے گا اور قلوب کا  
 تجھ کو حاکم بنائے گا اور ان پر تجھے امیر کر دے گا اور تجھ کو وہ اس  
 کا طبیب ٹھہرائے گا اس وقت پھر تو خلق و دنیا کی طرف متوجہ  
 ہو جائے گا اور یہ تیری توجہ ان کی طرف ان کے حق میں نعمت  
 ہوگی اور تیرا دنیا کو مخلوق کے ہاتھوں سے لینا اور اس کا نفیر  
 پر لوٹا دینا اور اس میں سے اپنے مقسم حصے پر قبضہ کر لینا  
 عبادت و اطاعت اور باعث سلامتی ہوگا جس نے دنیا  
 کو اس حالت سے حاصل کیا تو دنیا اس کو ضرر نہ دے گی بلکہ وہ  
 دنیا سے سلامتی میں رہے گا اور اس کے حصے دنیا کی خرابیوں  
 سے پاک و صاف رہیں گے دلی اللہ لوگوں کے چہرے پر ولایت  
 کی علامتیں نشان ہوتے ہیں جس کو اہل فراست و انائی ولے  
 ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ ولایت کا اظہار اشارات سے ہوتا  
 ہے نہ کہ زبان سے جو شخص اپنی فلاح و بہتری چاہے پس  
 اس کو چاہے کہ وہ اپنے نفس و مال کو حق عز و جل کے واسطے  
 خرچ کرے اور وہ اپنے قلب کے ساتھ خلق و دنیا سے مثل  
 نکلنے والے کے آئے اور دودھ سے نکل جائے اور اسی طور  
 سے آخرت اور جمیع ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو جائے پس اس  
 وقت تو سر حق دار کا حصہ اس کو خدا کے روبرو عطا کرے گا اور  
 تو دنیا و آخرت سے اپنے حصے حاصل کرے گا حالانکہ تو  
 خدا کے دروازے پر حاضر ہوگا اور وہ دونوں خادم بنے

کھڑے ہوئے ہوں گے نیز تیرے حقے قائم ہوں گے تو دنیا سے اپنا حصہ اس طور سے نہ کھا کہ وہ بیٹھنے والی ہو اور تو کھڑا ہونے والا ہو بلکہ بادشاہ کے آستانہ پر بیٹھ کر اس حالت سے کھا کہ دنیا اپنے سر پر طبق لیے ہوئے کھڑی ہو اور تو اسے کھائے۔ دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو حق عزوجل کے آستانہ پر بیٹھنے والا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ پر بیٹھنے والا ہوتا ہے تو دنیا اسے ذلیل کرتی ہے۔ تو دنیا سے غنا اور خدا داد عزمت کے ساتھ حصہ حاصل کر۔ اہل اللہ اللہ عزوجل سے دنیا میں افلاس کے ساتھ راضی ہو گئے اور آخرت میں ان کی رضامندی قرب الہی کے ساتھ ہو گی وہ اللہ عزوجل سے سوا کسی کو طلب نہیں کرتے انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ دنیا اقسیم کی جا چکی ہے لہذا انہوں نے دنیا کی طلب کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جان لیا کہ درجات آخرت کے اور جنت کی نعمتیں بھی تقسیم کی جا چکی ہیں لہذا انہوں نے اس کی طلب اور اس کے لیے عمل کر بھی چھوڑ دیا ہے وہ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز پر نہیں چاہتے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ناواقفیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور جنت میں نہ دیکھیں گے، اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے تو اپنے لیے تنہائی و جدائی کو درست رکھ جس کا قلب خلق و اسباب سے خالی و جدا نہیں ہوتا وہ اس بات کی قدر نہیں رکھتا کہ وہ انبیاء و صالحین کے راستہ پر چل سکے ناواقفیکہ وہ قلیل دنیا پر قناعت کرے اور کثیر کو یہ قدرت کے حوالہ کر دے تو زیادہ دنیا کی طرف توجہ نہ ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا جب زائد دنیا خدا کی طرف سے بلا تیرے اختیار کے تیرے پاس آ جائے تو تو اس میں محفوظ رہے گا۔

خَادِمَتَانِ لَا تَأْكُلُ قِسْمَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ قَاعِدَةٌ وَأَنْتَ قَاعِمٌ بَلْ كُلُّهَا عَلَى بَابِ الْمَلِكِ وَأَنْتَ قَاعِدٌ وَهِيَ قَاعِمَةٌ وَالطَّبِيقُ عَلَى رَأْسِهَا تَخْدِمُ مَنْ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَذِلُّ مَنْ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَابِهَا كُلُّ مَنْهَا عَلَى قَدَمِ الْغِيْ وَ الْعِزِّ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْغُومُ رَاضُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْفَلَسِ فِي الدُّنْيَا وَ رَاضُوا مِنْهُ بِالْآخِرَةِ أَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ إِلَيْهِ مَا يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِوَى اللَّهِ عِلْمُوا أَنَّ الدُّنْيَا مَقْسُومَةٌ وَ تَرَكَوْا الطَّلَبَ لَهَا وَ عِلْمُوا أَنَّ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَ نَعِيمَ الْجَنَّةِ مَقْسُومَةٌ أَيْضًا وَ تَرَكَوْا طَلَبَ ذَلِكَ الْعَمَلِ لَهُ لَا يُرِيدُونَ سِوَى وَجْهِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَقْتَحُونَ عُيُونَهُمْ حَتَّى يَرَوْا نُورَ وَجْهِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبِّبَ التَّجَرُّيدَ وَ التَّفَرُّيدَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ مُجَرَّدًا عَنِ الْخَلْقِ وَالْأَسْبَابِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْلُكَ جَادَةَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَ الصَّالِحِينَ حَتَّى يَقْنَعُوا بِالسَّيْرِ مِنَ الدُّنْيَا وَ يُسَلِّمُوا الْكَثِيرَ إِلَى يَدِ الْقَدِيرِ لَا تَتَعَرَّضُ بِطَلَبِ الْكَثِيرِ فَإِنَّكَ تَهْلِكُ إِذَا جَاءَكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِكَ كُنْتَ مُحْفُوظًا فِيهِ۔

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَظِ النَّاسُ بِعَدْلِكَ وَكَذَامِكَ  
 يَاوَ عِظَا عِظِ النَّاسُ بِصَفَاتِكَ وَتَقْوَى  
 قَلْبِكَ وَلَا تَعْظُهُمْ بِتَحْسِينِ عِلَاقَتِكَ نَعَمْ  
 قُبْحِ سِرِّكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ فِي  
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ  
 هَذِهِ سَابِقَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ مَعَ السَّابِقَةِ  
 وَالْإِتِّكَالُ عَلَيْهَا بَلْ تَجْتَهِدُ وَتَتَعَرَّضُ وَ  
 تَبْذُلُ الْمَجْهُودَ تَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ الْإِيمَانِ  
 وَالْإِيْقَانِ وَتَتَعَرَّضُ لِنَفَحَاتِ الْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَتُكَلِّمُ الْمُؤَقُّوفَ عَلَى بَابِهِ فَقُلُوبُنَا  
 تَجْتَهِدُ فِي الْكَيْسَابِ الْإِيْقَانِ فَالْعَلَّ الْحَقُّ  
 عَزَّ وَجَلَّ يَهْبُهُ لَنَا مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ وَلَا نَعْبِ  
 أَمَا كَسْتَحْيُونَ يَصِفُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
 نَفْسَهُ بِصِفَاتٍ قِرْصَاهَا لَهُ تَنَاقُؤُ لَوْنُهَا وَ  
 تَرْدُ وَنَهَا عَلَيْهِ مَا يَسْعُكُمْ مَا وَسِعَ مَنْ  
 تَقَدَّمَ مَكْرَمُ مِنَ الطَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَبَّنَا  
 عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا قَالَ مِنْ غَيْرِ  
 تَنْشِيدِهِ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَجْسِيمٍ  
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا وَوَقِّفْنَا وَجَنِّبْنَا الْإِبْتِدَاعَ  
 وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ  
 حَسَنَةٌ وَوَقِّفْنَا عَذَابَ التَّارِطِ

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے آپ فرمایا کرتے  
 تھے کہ تو لوگوں کو اپنے عمل اور اپنے کلام سے نصیحت کیا کر  
 اے واعظ! اپنے باطن کی صفائی اور قلب کے تقویٰ  
 کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر۔ ظاہر کو اچھا بنا کر باطن کی خرابی  
 کے ساتھ وعظ کرنا بے سود ہے۔ ایسا وعظ نہ کوہِ حق تعالیٰ  
 نے قلوبِ مؤمنین میں ایمان کو اس سے قبل کہ وہ پیدا ہوں لکھ  
 دیا ہے یہی سابقہ و تقدیر ہے اور اس سابقہ کے ساتھ ٹھیکہ جانا  
 اور اس پر بھروسہ کر لینا جائز نہیں بلکہ تیری کوشش و توجہ لازمی ہے  
 ایمان و ایقان کے حاصل کرنے کی کوشش کر اور اس میں اپنی جہد  
 و ہمد کو بڑے طور سے صرف کرنے اور حق تعالیٰ کی خوشبودی کی  
 طرف توجہ کر اور اس کے دروازہ رحمت پر پڑا رہے پس ہمارے قلوب  
 کو ایمان کے حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے  
 کہ حق عزوجل ہم کو ایمان بغیر کسب و مشقت کے عطا فرمادے یہی  
 جہد و ہمدِ فردی ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی حق عزوجل تو اپنے نفس  
 کے لیے پسندیدہ منقبات بیان کرتا ہے اور تم اس میں تاویلیں  
 گھڑتے ہو اور اس کو اسد پر رو کرتے ہو تمہارے علم میں ایسی گنجائش  
 نہیں جیسی متقدمین صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں تھی ہمارا رب عزوجل  
 عرش پر ہے جیسا کہ اس نے فرمایا بغیر تشبیہ و تعطیل اور بغیر تجسیم  
 کے۔

اے اللہ! تو ہم کو رزق دے اور ہم کو ترفیق دے اور ہم کو نسی  
 باتوں کے نکلنے سے بچا اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں دے  
 اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین!

بلکہ وہ ہر صفت کو ہر حکم کو مانتے اور اس پر بلا تاویل و تردید ایمان لاتے تھے تمہی ان کی اقتدار کو ۱۲

۱۲ تشبیہ کسی کے ساتھ متشابہ ہونا، تعطیل بیکار ہونا، تجسیم جسم کا ہونا، خدا کسی کے ساتھ مشابہ ہے نہ بیکار، نہ ہر وقت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نہ اس کیلئے۔  
 جمہ ہے وہ سراپا نہ ہے اس کی ذات اور صفات پر ایمان لائے۔ متشابہات پر ہمارا ایمان ہے اس واسطے کہ استوار علی العرش ہے اور اس کے حقیقی معنی وہی جانا ہے  
 ۱۲ قادیانی غلطی

## الْمَجْلِسُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

## بائیسویں مجلس

قلب کو دنیا سے فارغ کر لینے کے بیان میں

آخر ذی قعدہ ۸۷۵ھ ہجری کو  
صبح کے وقت خافتہ شریف  
میں فرمایا :

بعد کچھ تقریر کے ایک سائل نے سوال کیا۔ دنیا کی  
محبت کوں اپنے قلب سے کیسے نکالوں؟ پس ارشاد فرمایا:  
تو دنیا کی گردنوں کی طرف جو کہ وہ اپنے صاحبوں اور بچوں  
کے ساتھ کر رہی ہے دیکھ کیسے کیسے ان پر جیلہ کرتی ہے  
اور کیسے ان کے ساتھ کھیل کود کرتی ہے اور ان کو اپنے  
پچھے کیسے دوڑاتی ہے پھر ان کو ایک درجہ سے دوسرے  
درجہ کی طرف ترقی دیتی ہے یہاں تک کہ ان کو مخلوق پر  
اوپر کر دیتی ہے اور مخلوق کی گردنوں پر ان کو قدرت دیتی  
ہے اور اپنے خزانوں اور عجائبات کو ظاہر کرتی ہے۔ پس  
ایسی حالت میں کہ اہل دنیا اپنی بلندی اور قدرت اور خوش  
عیشی اور مخلوق کی خدمت گزاری پر خوش ہوتے ہیں یکایک  
ان کو کپڑے لیتی ہے اور ان کو قدر کر دیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے اور ان کو  
اپنی بلندی سے سروں کے بل نیچے ڈال دیتی ہے پس دھکے دے دے کر  
ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور دنیا کھڑی ہوئی یہ حال دیکھ کر ان پر ہنستی ہے  
اور دنیا کے پہلو پہلو شیطان بھی اس کا ساتھی بن کر ان پر ہنستا ہے دنیا  
کے پر کرتوت بہتے بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے  
زمانہ سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے دنیا اسی طور سے اونچا اٹھاتی ہے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَكَرَةً بِالرِّبَاطِ  
سَلَّمَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً خَمْسٍ وَارْبَعِينَ  
وَحَمْسٍ مِائَةً بَعْدَ كَلَامِهِ

سَأَلَ سَائِلٌ كَيْفَ أُخْرِجُ حُبَّ الدُّنْيَا  
مِنْ قَلْبِي فَقَالَ انْظُرْ إِلَى تَقَلُّبِهَا بِأَرْبَابِهَا  
وَأَبْنَائِهَا كَيْفَ تَحْتَالُ عَلَيْهِمْ وَتَتَلَبَّى  
بِهِمْ وَتُعْدِيهِمْ خَلْفَهَا ثُمَّ تُرْقِيهِمْ  
مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ حَتَّى تُعْلِيَهُمْ  
عَلَى الْخَلْقِ وَتُنَكِّدَهُمْ مِنْ رِقَابِهِمْ  
وَتُظْهِرُ كُنُوزَهَا وَعَجَائِبَهَا فَيَتَنَاوَمُونَ  
فَرِحُونَ بِعُلُوِّهِمْ وَتُنَكِّسُهُمْ وَطَيْبَةً  
عَيْشِهِمْ وَخِدْمَتِهَا لَهُمْ إِذَا أَخَذَتْهُمْ  
وَقَبَضَتْهُمْ وَعَزَّتْهُمْ وَرَمَتْ بِهِمْ  
مِنْ ذَلِكَ الْعُلُوِّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَتَقَطَّعُوا  
وَتَمَزَّقُوا وَأَمْ هَلَكُوا وَهِيَ وَاقِفَةٌ تَضْحَكُ  
بِهِمْ وَابْلِيسُ إِلَى جَنْبِهَا يَضْحَكُ مَعَهَا  
هَذَا فَعَلَهَا بِكَثِيرٍ مِنَ السَّلَاطِينِ وَ  
الْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَاءِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِذَلِكَ  
كُرِّعَ ثُمَّ تَضَعُ تَقْدِمَ ثُمَّ تُؤَخِّرُ تُغْنِي

مَا سِوَاهُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَغْنَىٰ قُلُوبَهُمْ  
وَمَلَائِكُهَا مِنْ قُرْبِهِ وَالْأَنْسِ بِهِ وَمِنْ  
أَنْوَارِهِ وَكَرَامَتِهِ لَا يَبَالُونَ بِبَيْدِ مَنْ  
تَكُونُ الدُّنْيَا وَمَنْ يَأْكُلُهَا لَا يَنْظُرُونَ  
إِلَىٰ أَوَّلِهَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ عَاقِبَتِهَا وَمَنَّا لَهَا  
يَجْعَلُونَ الْحَقَّ عَمًّ وَجَلَّ نُصَبَ عِيُونِ  
أَسْرَارِهِمْ لَا يَعْبُدُونَ حُرُوفًا مِّنَ  
الْهَلَكِ وَلَا رَجَاءً لِلْمَلِكِ خَلْقَهُمْ  
لَهُ وَلِدَوَامِ صُحْبَتِهِ وَيَخْلُقُ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ هُوَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ هُمَا مُنَافِقٌ  
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ  
وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ مَن بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ  
الْخِصَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِءَ مِّنَ  
التَّفَاقِ هَذِهِ الْخِصَالُ هِيَ الْمَحْكُومَةُ  
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ خُذْ  
هَذَا الدِّحْكُ خُذْ هَذِهِ الْمِرْآةَ وَابْصُرْ  
بِهَا وَجْهَ قَلْبِكَ أَنْظِرْ هَلْ أَنْتَ مُؤْمِنٌ  
أَوْ مُنَافِقٌ مُّوَحِّدٌ أَوْ مُشْرِكٌ كُلُّ الدُّنْيَا  
فِتْنَةٌ وَمَشْغَلَةٌ إِلَّا مَا أَخَذَ بِنَبِيَّةٍ  
صَالِحَةٍ لِلْآخِرَةِ إِذَا صَلَحَتِ النَّبِيَّةُ  
فِي التَّصَرُّفِ فِي الدُّنْيَا صَارَتْ آخِرَةً  
كُلُّ نِعْمَةٍ تَخْلُقُوا مِنَ الشُّكْرِ لِلْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِعْتِرَافِ بِهَا وَهِيَ نِقْمَةٌ قَبِيْذٌ  
نَعَمَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِشُكْرِهِ الشُّكْرُ لِلْحَقِّ

سے تمام ماسوائے اللہ کے مالک ہو گئے۔ حق عزوجل نے ان کے  
دلوں کو غمی بنا دیا ہے اور اپنے قرب اور انس اور نوروں اور کرات  
سے ان کو مالا مال کر دیا ہے وہ دنیا کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ  
وہ مردار کس کے قبضہ میں ہے اور کون اس کو کھاتا ہے۔ وہ دنیا  
کی ابتداء کی طرف نظر نہیں ڈالتے بلکہ وہ اس کے انجام و فنا کی  
طرف دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حق عزوجل کو  
اپنے اسرار کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اس کی طرف  
ہر دم متوجہ رہتے ہیں۔ وہ ہلاکت کے خوف اور بادشاہت  
کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے  
ان کو اپنے لیے اور ہمیشہ اپنی مصاحبت میں رکھنے کے لیے  
پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کو تم  
جاننے بھی نہیں۔ وہ جس شے کا ارادہ کرے اس کا کر ڈالتے  
والا ہے۔ منافق جب بات چیت کرتا ہے جھوٹ بولتا  
ہے اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب  
اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ جو ان  
تین خصلتوں سے محروم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے  
بری ہوا وہ یقیناً نفاق سے بری ہوا یہ خصلتیں کسوتی اور ایمان و  
نفاق والوں کے درمیان فرق و جدائی کرنے والی ہیں تو اس کسوتی  
کو لے۔ یہ آئینہ لے کر اس میں اپنے قلب کے چہرہ کو دیکھو اور متوجہ  
ہو کر دیکھو کہ آیا تو مؤمن ہے یا منافق، موعود ہے یا مشرک، دنیا  
مجموعۂ فتنہ و مشغلہ ہے مگر وہ کہ نیک نیتی کے ساتھ آخرت کی واسطے  
لے جائے جب تصرفات دنیوی میں نیت صالح ہو جاتی ہے تو  
دنیا سراسر آخرت بن جاتی ہے۔ یہ وہ نعمت جو نیکر الہی سے اور  
اقرار نعمت سے خالی ہو پس وہ مذاب ہی مذاب ہے تم اللہ  
کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ مقید کرو جب الیا کرو گے نعمت زیادہ ملے گی

ثُمَّ تَقْفَرُ تُرَبِّيْ شَمَّ تَدْبَحُ وَالتَّادِمُ مِنْهُمْ  
مَنْ يَسْلَمُ مِنْهَا وَيَعْلِبُهَا وَلَا تَغْلِبُكَ  
وَيَعَانُ عَلَيْهَا وَيَسْلَمُ مِنْ شَرِّهَا وَهُمْ  
أَحَادٌ أَفْرَادٌ إِنَّمَا يَسْلَمُ مِنْ شَرِّهَا مَنْ  
عَرَفَهَا وَاشْتَدَّ حَذَرُهَا مِنْهَا وَمِنْ  
حِيلِهَا.

يَا سَائِلُ إِنْ تَنَظَّرْتَ بَعِيَّتِي قَلْبِكَ  
إِلَى عُيُوبِهَا قَدَرْتَ عَلَى إِخْرَاجِهَا مِنْهُ  
وَإِنْ تَنَظَّرْتَ إِلَيْهَا بِعِيَّتِي رَأْسِكَ اشْتَغَلَتْ  
بِزِينَتِهَا عَنْ عُيُوبِهَا وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى  
إِخْرَاجِهَا مِنْ قَلْبِكَ وَالزُّهْدُ فِيهَا  
وَتَقَاتُلُكَ كَمَا قَاتَلْتَ غِيَّكَ جَاهِدْ  
نَفْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتَ  
عَرَفْتَ عُيُوبَ الدُّنْيَا وَزَهَدْتَ فِيهَا  
طَمَأْنِينَتُهَا أَتَاهَا تَقَبُّلٌ مِنَ الْقَلْبِ وَ  
تَوَافَقُ السِّرُّ وَطُطِيعُهَا فِيهَا يَأْمُرُ  
بِهِ وَيَنْهِي عَنْهُ وَتَقْتَعُ بِعَظَائِمِهَا  
وَتَصِيرُ عَلَى مَنَعِهَا إِذَا صَارَتْ  
مُطْمَئِنَّةً انْصَافَتْ إِلَى الْقَلْبِ وَ  
سَكَتَتْ إِلَيْهِ تَرَى تَابِعَ التَّقْوَى عَلَى  
رَأْسِهِ وَخَلَعَ الْقُرْبَ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ  
بِإِلَهِمَانٍ وَالتَّصَدِيقِ وَتَرَى التَّكْذِيبَ  
بِلَقُومٍ وَالمَجَادِلَةِ لَهُمْ لَا تُنَارِعُوهُمْ  
فَإِنَّهُمْ مُلُوكٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
مَلِكُوا قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَمَلِكُوا

پھر بھی بٹاتی ہے۔ امیر بٹاتی ہے پھر محتاج کر دیتی ہے پرورش  
کرتی ہے پھر فزع کر دیتی ہے۔ شاد و نادہی مخلوق سے ایسے رکتے  
ہیں جو دنیا سے سلامت رہتے ہیں اور اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور دنیا کو اپنے  
پر غالب نہیں مرنے دیتے اور دنیا پر وہ مدد دیتے جاتے ہیں اور دنیا کے شر سے  
وہ سلامت رہتے ہیں ایسے چند افراد ہی ہوتے ہیں دنیا کے شر سے وہ ہی سلام  
رہتا ہے جو دنیا کو پہچان لیتا ہے اور دنیا اور اس کے شر و عیبت سخت طریقہ سے پہچان  
لے سائل اگر تو دنیا کے عیوب کی طرف اپنے قلب کی آنکھوں  
سے نظر کرے گا تو تو دنیا کو اس کے نکال دینے پر اپنے قلب سے قادر  
ہو جائے گا اور اگر تو دنیا کی طرف سر کی آنکھوں سے نظر ڈالے گا تو تو  
اس کی زینت میں مشغول ہو کر اس کے عیوب سے قطع نظر کر لے گا اور دنیا  
کو اپنے قلب سے نکال ڈالنے اور اس سے بے رغبتی کرنے پر  
قدرت نہ پاسکے گا اور وہ تجھ کو ویسے ہی قتل کر ڈالے گی جیسے اس نے  
اوروں کو قتل کر دیا تو اپنے نفس سے یہاں تک جہاد کر کہ وہ مطمئن ہو جائے  
پس جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ دنیا کے عیوب کو پہچان لیگا  
اور دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ نفس کا مطمئن ہونا اس طور سے  
ہوتا ہے کہ وہ قلب کی بات قبول کرے اور سر کی موافقت  
کرے اور اوامر و نواہی میں ان دونوں کی اطاعت کرے اور  
ان دونوں کے عطیہ پر قناعت کرے اور ان دونوں کے منع کو  
دینے پر مبرا کرے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ قلب سے متصل  
ہو جائے گا اور اسی کی طرف سکون پائے گا اور سر پر تقویٰ کا تلج  
اور قرب الہی کی خلعت دیکھنے لگے گا۔ تم ایمان اور تصدیق  
مستحبی کو لازم پکڑو اور اولیاء اللہ کے حبسٹلانے  
اور ان سے جھگڑنے لڑنے سے باز رہو۔ تم ان سے  
منازعہ مت نہ کرو وہ دنیا و آخرت میں بادشاہ ہیں  
وہ مشرب الہی کے مالک ہیں پس وہ اس کثرت میں

عَزَّوَجَلَّ شَيَانِ الْأَوَّلُ إِلَّا سَتَعَلَنَ بِالْيَتَمِّ  
عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمُؤَاسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهَا  
وَالثَّانِي الْإِعْزَافُ بِهَا لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَ  
الشُّكْرُ لِمَنْزِلَتِهَا وَهُوَ الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ  
عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ  
قَالَ كُلُّ مَا يُشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّو  
جَلَّ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْغُومٌ إِنْ شَغَلَكَ  
ذِكْرُهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَيْكَ مَشْغُومٌ كَذَا الصَّلَاةِ  
وَالصَّوْمِ وَالْحَبِّ وَجَمِيعِ أَعْمَالِ الْخَيْرِ  
فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ مَشْغُومٌ إِذَا شَغَلَتْكَ  
نِعْمَةٌ عَنْهُ فَهِيَ عَلَيْكَ مَشْغُومَةٌ قَابَلَتْ  
نِعْمَتَهُ بِمَعَاصِيهِ وَالرَّجُوعِ فِي الْمَهْمَاتِ  
إِلَى غَيْرِهِ فَتَدْتَمِكُنَ الْكِبْدُ وَالْيَقَانُ  
فِي حَرَكَاتِكَ وَاسْكِنَاتِكَ وَصَوَرَتِكَ وَ  
مَعْنَاكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ قَدْ احْتَمَلَ  
عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ وَنَمَيْتَ لَكَ الْكِبْدُ وَ  
الْأَعْمَالُ الْقَبِيحَةُ تَكْذِيبُ حَتَّى فِي  
صَلَاتِكَ لَا تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَكْذِيبُ  
لَا فِي قَلْبِكَ إِلَّا غَيْرُهُ كُلُّ مَا نَفْسُهُ  
عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَهُكَ كُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ  
مِنْهُ وَتَرْجُوهُ فَهُوَ إِلَهُكَ قَبْلَكَ لَا  
يُؤَافِقُ لِسَانُكَ فِعْلَكَ لَا يُؤَافِقُ قَوْلَكَ  
قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ أَلْفَ مَرَّةٍ بِقَلْبِكَ وَ  
مَرَّةً بِلِسَانِكَ مَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَقُولَ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكَ أَلْفُ مَعْبُودٍ غَيْرُهُ

شکر الہی دو چیزیں ہیں۔ اولاً نعمت سے طاعتوں پر مدد لینا  
اور اس کے فقیروں کی غمخواری کرنا، ان کو دینا دلانا، دوسرے  
نعمت دینے والے کا اس نعمت کی وجہ سے اقرار کرنا اور شکر  
بجالانا اور وہ نعمت دینے والا حق عزوجل ہے۔ بعض اہل اللہ سے  
مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ عزوجل سے  
روکے، باز رکھے پس وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ اگر تجھ کو اس کا  
ذکر بھی اس سے مشغول بنائے رکھے پس وہ ذکر بھی منحوس ہے۔  
اور ایسے ہی نماز و روزہ اور تمام افعال خیر اگر تجھ کو خدا سے روکیں  
پس یہ سب تیرے لیے منحوس ہیں۔ جب تجھ کو نعمت اللہ تعالیٰ سے  
باز رکھے پس وہ نعمت تیرے لیے منحوس ہے۔ تو نے اس کی  
نعمتوں کا اپنے گناہوں سے اور مشکلات میں اس کے غیر کی طرف  
رجوع کرنے میں مقابلہ کیا تیری حرکتوں اور سکنت اور صورت و معنی اور  
تیرا رات و دن میں جھوٹ اور نفاق قرار پذیر ہو گیا ہے۔ تیرے اوپر  
شیطان سوار ہو گیا ہے اور اس نے تیرے لیے جھوٹ اور اعمال  
قبیحہ کو زینت دے دی ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ  
اپنی نمازوں میں بھی کیونکہ تو نمازیں کتا ہے اللہ اکبر اور جھوٹ  
بولتا ہے اس واسطے کہ تیرے قلب میں خدا کے سوا دوسرے  
معبود ہیں جن پر تو اعتماد رکھتا ہے پس وہ تیرا معبود ہے۔ ہر وہ چیز  
جس سے تو دُڑے اور امید واری کرے پس وہ تیرا معبود ہے  
تیرا قلب تیری زبان کی موافقت نہیں کرتا۔ تیرا فعل تیرے قول  
کی موافقت نہیں کرتا تو اپنے قلب سے ہزار مرتبہ اللہ  
اکبر کہہ اور زبان سے ایک مرتبہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو  
لا الہ الا اللہ (کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے)  
کتا ہے حالانکہ سوائے خدا کے تیرے ہزاروں معبود  
ہیں۔ تو شکم ان حالتوں سے جس میں تو مبتلا ہے اللہ

تُبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَمِيعٍ مَا أَنْتَ فِيهِ وَأَنْتَ يَا مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَقَدْ قَنَعَ مِنْهُ بِإِلْسَامٍ دُونَ الْعَمَلِ الْإِشِّ يَنْفَعُكَ إِذَا قُلْتَ أَنَا عَالِمٌ فَقَدْ كَذَبْتَ كَيْفَ تَرْضَى لِنَفْسِكَ إِنَّكَ تَأْمُرُ غَيْرَكَ بِمَا لَا تَعْمَلُهُ أَنْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

وَيَحْكُ تَأْمُرُ النَّاسَ بِالصِّدْقِ وَأَنْتَ تَكْذِبُ تَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ تَأْمُرُهُمْ بِإِخْلَاصٍ وَأَنْتَ مُرَاءٍ مُتَافِقٌ تَأْمُرُهُمْ بِتَرْكِ الْعَوَاصِي وَأَنْتَ تَرْتِكِبُهَا قَدْ ارْتَفَعَ الْحَيَاءُ مِنْ عَيْنِكَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيمَانٌ لَأَسْتَجَبْتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ لَا إِيمَانُ لَكَ وَلَا إِيْقَانُ لَكَ وَلَا أَمَانَةٌ تُخْنِتُ الْعِلْمَ فَذَهَبَتْ أَمَانَتُكَ وَكُيِّبَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَوَانًا لَا أَعْرِفُ لَكَ دَوَاءً إِلَّا التَّوْبَةُ وَالتَّابَاتَ عَلَيْهَا مَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ بِقُدْرِهِ سَلَّمَ كُلُّ أُمُورِهِ إِلَيْهِ وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ شَرِيكًا فِيهَا لَا تُشْرِكُ بِالْخَلْقِ وَالْأَسْبَابِ وَلَا تَتَّقِيكَ بِهَا عَنْهُ فَإِذَا اتَّحَقَّتْ فِي هَذَا سَلَمُهُ مِنَ الْأَفَاقِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ لَكُمْ يَنْتَقِلُ

عزوجل کی طرف توبہ کر۔ اور تو اسے وہ شخص کہ تو نے علم سیکھا اور اس کے نام سے قناعت کر لی اور عمل نہ کیا یہ تجھے کیا نفع دے گا۔ جب کہ تو نے کمائیں عالم ہوں پس تحقیق تو نے جھوٹ بولا۔ تو اپنے نفس کے لیے اس بات پر کیے راضی ہو گیا کہ وہ دوسروں کو ایسے امر کا حکم دے کہ خود نہ کرے اللہ عزوجل نے فرمایا تم وہ کیوں کہتے ہو جو کہ تم خود نہیں کرتے۔

تجھ پر افسوس! کہ تو آدمیوں کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ اُن کو توحید کا حکم دیتا ہے اور خود مشرک ہے۔ ان کو اخلاص کا حکم دیتا ہے اور تو خود بیاکار منافق ہے۔ ان کو گناہوں کے چھوڑنے کا حکم کرتا ہے اور تو خود گناہ کرتا ہے۔ تحقیق تیری آنکھوں سے جی اٹھ گئی ہے۔ اگر تجھ میں ایمان ہوتا تو البتہ شرم و حیا کرتا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ”جیا ایمان کا جزو ہے“ تجھ میں نہ ایمان ہے اور نہ ایقان اور نہ اُمت تو نے علم میں خیانت کی پس تیری امانت چلی گئی۔ اور تو اللہ کے نزدیک بڑا خیانت کرنے والا لکھ دیا گیا اس حالت میں میں تیرے لیے سوائے اس کے کہ تو توبہ کرے اور اس پر ثبات ہے کوئی علاج نہیں جانتا جس کا ایمان اللہ عزوجل اور اس کی تقدیر پر درست ہوتا ہے وہ اپنے تمام امور اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے اور اس میں کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ خلق و اسباب کے ساتھ مشرک نہیں کرتا اور نہ وہ اس کے ساتھ مقید ہوتا ہے پس جب وہ اس امر پر ثبات قدم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام حالتوں میں سلامتی بخشتا ہے پھر

مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيمَانِ لَمَّا تَأْتِيهِ الْوَلَايَةُ  
 الْبَدَلِيَّةُ لَمَّا نَسَخْنَا عَنْهُمُ الرِّسَالَةَ وَرُبَّمَا آتَتْ فِي آخِرِ  
 أَحْوَالِهِ الْقُطَيْبَةُ يَبَاهِي بِهَا الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
 عِنْدَ كُلِّ حَقِيقَةٍ الْحَقِّ وَالْإِشْرَافِ  
 الْأَرْدَافِ يُفَتِّدُهَا وَيُفَرِّدُهَا وَيُؤَلِّيهِ  
 عَلَى خَلْقِهِ وَيَمْلِكُهَا وَيَمَكِّنُهَا وَيُجَبِّئُهَا  
 وَيُحَيِّبُهَا إِلَى خَلْقِهِ وَكُلُّ هَذَا  
 أَسَاسُهُ وَبَدَايَتُهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَ  
 بِرُسُلِهِ وَالتَّصَدِّيقُ بِهِمَا أَسَاسُ هَذَا  
 الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ثُمَّ الْإِيمَانُ ثُمَّ  
 الْعَمَلُ يَكْتَابُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَشَرِيعَةً  
 رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 ثُمَّ الْإِتِّخَاصُ فِي الْعَمَلِ مَعَ تَوْحِيدِ  
 الْقَلْبِ عِنْدَ كَمَالِ الْإِيمَانِ الْمُؤْمِنُ  
 يَقْنِي عَنْهُ وَعَنْ عَمَلِهِ وَعَنْ كُلِّ  
 مَا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَيَعْمَلُ  
 الْأَعْمَالَ وَهُوَ فِي مَعَزِلٍ عَنْهَا مَا  
 زَالَ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ وَالْخَلْقَ كُلَّهُمْ  
 فِي جَنْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى هَدَاهُ  
 إِلَى سَبِيلِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ  
 جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  
 كُونُوا سَاهِدِينَ فِي الْأَشْيَاءِ وَقَدْ رَضِينَا  
 بِتَدْبِيرِهِمْ فِي يَدِ قُدْرِهِ إِذَا وَقَعُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى  
 قُدْرَتِهِ يَا طُغْيَانُ لِمَنْ وَافَقَ الْقُدْرَةَ  
 أَنْتَ تَنْتَظِرُ فِعْلَ الْمُقَدَّرِ عَمَلُ بِأَلْقَدَرِ

وہ بندہ ایمان سے ایقان کی طرف نقل کرتا ہے۔ پھر اس کو  
 ولایت مل جاتی ہے پھر بدلیت پھر غوثیت۔ اور باذقات  
 آخر حال میں اس کو قطبیست مل جاتی ہے۔ حق عزوجل اس بندہ  
 پر اپنی تمام مخلوق جن داس اور فرشتہ اور ارواح کے سامنے  
 فخر کرتا ہے اس کو آگے بڑھاتا اور اس کو اپنا قرب عطا فرماتا  
 ہے اور اپنی مخلوق پر اس کو حاکم و مالک بنا دیتا ہے اور اس  
 کو قدرت دے دیتا ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور  
 تمام مخلوق کی طرف اس کو دوست کرا دیتا ہے اور اس  
 سب کی بنیاد اور بتدار اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا  
 اور ان کو سچا سمجھنا ہے۔ اس امر کی بنیاد اسلام ہے۔  
 پھر ایمان، پھر قرآن مجید اور شریعت مصطفویہ پر عمل  
 کرنا علی صاحبہا الف الف سلام و  
 تحیہ۔ پھر عمل میں اخلاص کرنا ساتھ توحید قلب  
 کے وقت کمال ایمان کے۔ سچا مسلمان اپنے نفس  
 اور اپنے عمل اور کل ماسوی اللہ عزوجل سے فنا ہو جاتا  
 ہے۔ اس کے تمام عمل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ  
 ان سب سے جدا رہتا ہے وہ اپنے نفس اور تمام  
 خلق سے ہمیشہ حق عزوجل کے مقابلہ میں جہاد کرتا رہتا ہے  
 یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے  
 اللہ عزوجل نے فرمایا والذین جاہدوا لایہ اور جو لوگ ہمارے راستہ میں  
 جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بنا دیتے ہیں۔ تم خدا کی تدبیر  
 پر تمام اشیاء میں راضی ہو کر تمام چیزوں سے بے رغبتی کر لو،  
 ناہدین جاؤ وہ ان کو اپنی تقدیر کے معائنہ سے الٹا پلٹا رہتا ہے  
 پس جب اس کی موافقت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت  
 کی طرف منتقل کر لیتا ہے خوشخبری اس کے لیے جس نے تقدیر کی موافقت کی

وَسَامِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ نِعْمَةً الْأَقْدَارِ وَ  
 آيَةُ نِعْمَةِ الْمُقَدَّرِ رَحْمَتُهُ وَاللَّهُ  
 مِنْهُ وَالَّذِي بِهِ عَنْ كُلِّ خَلْقٍ إِذَا وَصَلَ  
 قَلْبُ الْعَبْدِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَاهُ  
 بِهِ عَنِ الْخَلْقِ يُفْقِرُ بِهِ عَنِ الْحَقِّ  
 وَيُكِنُّهُ يَقُولُ لَهُ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَرَبِّكَ  
 مَكِينٌ أَمِينٌ هُ يَسْتَحْلِفُهُ فِي مُلْكِهِ  
 وَحَوَائِثِهِ وَتَدْبِيرِ مُلْكِهِ وَأَسْبَابِهِ  
 وَيَحُولُ أَمِينًا عَلَى خَزَائِنِهِ هَكَذَا  
 الْقَلْبُ إِذَا صَحَّ ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ وَ  
 طَهَارَتُهُ عَمَّا سِوَى مَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ  
 مَكْنَهُ مِنْ قُلُوبِ خَلْقِهِ وَمِنْ هَمَلِكِهِ  
 دُنْيَاهُ وَأَحْرَاهُ فَيَصِيرُ كَعَبْدَةِ الْمُرِيدِينَ  
 الْفَاصِدِينَ الظَّالِمِينَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ  
 وَالْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الظَّاهِرِ لَا تَتَعَوَّدُ  
 الْبَطَالَةُ وَالْكَسَلُ عَنْ طَاعَةِ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَبْتَلِيكَ عَقُوبَةً  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
 قَالَ إِذَا قَصَرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ ابْتَدَاهُ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْهَمِّ يَبْتَلِيهِ بِهِ  
 مَا لَمْ يُقَسِّمْ لَهُ وَهَمَّ الْعِيَالِ وَأَذْيَةِ  
 الْأَهْلِ وَنُقْصَانِ الرِّبْحِ فِي الْمَعِيشَةِ  
 وَعِصْيَانِ الْوَلَدِ لَهُ وَمُتَاخَذَةِ الزَّوْجَةِ  
 وَأَيْنَمَا تَوَجَّهَ يَعْثُرُ كُلُّ ذَلِكَ عَقُوبَةً  
 لِنَقْصِيرِهِ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

اور تقدیر لکھنے والے کے فعل کا منتظر رہا اور تقدیر پر عمل کیا اور تقدیر  
 کے ساتھ چلا اور تقدیری نعمت کی ناشکری کی۔ ہر امر پر شک و گواہی  
 ہی کرتا رہا اور خالق تقدیر کی نعمت کی علامت اس کی رحمت اور  
 قرب الہی ہے اور اس کے سبب سے تمام مخلوق سے مستغنی  
 ہو جانا۔ جب بندہ کا قلب اپنے رب عزوجل کی طرف پیچ جاتا ہے  
 تو رب تعالیٰ اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے اور اپنا قرب عطا  
 کر دیتا ہے اور اس کو قدرت عطا دیتا ہے اور بندہ سے کتا  
 ہے تو اب میرے نزدیک قدرت والا امانت والا ہے۔ رب  
 تعالیٰ اس کو اپنے ملک اور اپنے خدام اور تدبیر ملک و اسباب  
 میں اپنا غیفر بنا دیتا ہے

اور اس کو اپنے  
 خزانہ کا امین کر دیتا ہے۔ اسی طور پر قلب جب صحیح ہو جاتا ہے  
 اور اس کی شرافت اور طہارت ماسوی اللہ سے ظاہر ہو جاتی ہے  
 تو حق تعالیٰ اس کو اپنی مخلوق کے قلوب پر قبضہ عطا دیتا ہے  
 اور اس کو اپنی سلطنت دنیا و آخرت میں اور حکومت بخشتا ہے پس  
 وہ اپنے مریدین و فاصدین کا کعبہ بن جاتا ہے۔ سب اسی کی طوط  
 کچھ چلے آتے ہیں۔ اس کا راستہ علم ظاہر کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے  
 بیودہ امور اور لغویات اور حق تعالیٰ کی طاعت میں کاملی کا عادی مت  
 بن پس یہ تجھ کو عذاب میں مبتلا کرے گا اس بڑی عادت کو چھوڑنی  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ عمل میں  
 قصور واری کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کو فکر و غم میں مبتلا کر دیتا ہے  
 جو قسمت میں لکھا نہیں گیا اس کے غم میں مبتلا کرتا ہے اولاد کے غم میں  
 اور پڑوسی کے تکلف دینے میں اور تجارت و معیشت میں نفع کی کمی میں اور  
 اس کی اولاد کی نافرمانی میں اور جو کفر و نفرت والے ہیں (معاذ اللہ) اور لاشعش  
 جہاں جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے یہ سب سزا و عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ

طاعت الہی میں کمی کرنا ہے اور دنیا و خلق میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہو جانا ہے ارشاد الہی ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ کسی کو یہ جاننا نہیں کہ وہ قضا و تقدیر الہی میں محبت کرے (راضی برضا نہ چاہیے) غلامی کے لیے ہر قسم کا تصرف و حکم ہے۔ وہ جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کیا جائے گا اور وہ سب سوال کیے جائیں گے۔

تجھ پر انوس: تو کب تک اپنے نفس و اہل و عیال میں مشغول رہ کر خدا سے غافل رہے گا۔ بعض اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تیرا بچہ چھوڑے گی گٹھیاں بنانا سیکھ جائے پس تو اس سے اعراض کر اور اپنے نفس کو رب عزوجل کے ساتھ مشغول کر دے۔ اس قول سے مراد یہ ہے کہ جب یہ بچہ جان لے کہ تحقیق گٹھلی بھی کسی کام آتی ہے اور اس کی قیمت ہے۔ پس اس نے اپنے نفس کی تمام ضروریات کو جان لیا۔ پس تو اپنے زمانہ کو اس پر کوشش و محنت میں ضائع نہ کر کیوں کہ وہ تجھ سے مستغنی ہو گیا۔ اپنی اولاد کو پیش سکھا اور تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے فارغ البال ہو جا کیوں کہ تیرے اہل و عیال بال بچے تجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کچھ دفع نہ کر سکیں گے۔ تو اپنے نفس اور اپنی اولاد اور اہل کے لیے ضروریات میں قناعت کو لازم کر پڑے اور تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت حاصل کر۔ اگر عالم غیب میں تمہارے لیے وسعت رزق ہے پس وہ اپنے اوقات مقررہ پر تمہارے پاس ضرور آئے گا تو اس کو حسد کی طرف سے سمجھ گا اور تو خدا کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر تیری تقدیر میں وسعت رزق نہ ہو گی پس تیرے

وَاسْتَعَالَیَ عَنْهُ بِالْذُّنُبِ وَالْخَلْقُ قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكِ إِن  
شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَلَا يَجْزِيكُمْ إِلَّا خَيْرًا  
أَنْ يَحْتَبِرَ عَلَيْهِ بِقَصَائِهِ وَقَدَرِهِ  
لَهُ التَّصَرُّفُ وَالْحُكْمُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا  
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

وَيُحَكِّمُ إِلَىٰ مَتَىٰ تَشْتَغِلُ بِنَفْسِكَ  
وَأَهْلِكَ عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ بَعْضِهِمْ  
رَحْمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَفَكَّرَ  
وَلَدَكَ لَقَطَ النَّوَىٰ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَ  
اشْتَغِلْ بِنَفْسِكَ مَعَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
أَرَادِيهِ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ النَّوَىٰ  
يَصِلُهُ لِشَيْءٍ وَأَنَّ لَهُ ثَمَنًا فَقَدْ  
تَعَلَّمَ بِكُلِّ مَا عَلَىٰ نَفْسِهِ فَلَا تُصَيِّعُ زَمَانُكَ  
فِي الْكَدِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اسْتَغْنَىٰ عَنْكَ  
عِلْمُ أَوْلَادِكَ الصَّنَائِعَ وَتَفَرَّغَ  
بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الْأَهْلَ  
وَالْوَلَدَ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا أَلِزِمَ نَفْسَكَ وَأَهْلَكَ وَوَلَدَكَ  
الْقَنَاعَةَ يَمَا لَا بُدَّ لَكَ عَنْهُ وَتَفَرَّغْ  
أَنْتَ وَهُمْ بِطَاعَةِ مَوْلَاكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  
جَلَّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِي الْغَيْبِ سَعَةٌ  
الرِّزْقِ فِيهِ تَأْتِي فِي ذَقْنِهَا الْمُقَدَّرِ  
عِنْدَ اللَّهِ تَرَاهَا مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَتَتَخَلَّصُ مِنَ الشِّرْكِ بِالْخَالِقِ وَإِنْ

لَمْ يَكُنْ لَكَ عِنْدَ الْقَدَرِ ذَلِكَ فَعِنْدَكَ  
عَنِّي عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بِرُحْمِكَ وَ  
قَنَاعَتِكَ الْمُؤَمِّنُ الْقَائِمُ إِذَا احْتَجَّ  
إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا دَخَلَ عَلَى رَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ بِأَقْدَامِ سُؤَالِهِ وَتَضَرَّعَ  
وَدُلَّهِ وَتَوَبَّيْتَهُ فَإِنْ أَعْطَاهُ الَّذِي  
يُرِيدُ شَكَرَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ وَإِنْ  
لَمْ يُعْطِهِ وَافَقَهُ فِي الْمَنَعِ وَصَبَرَ  
مَعَهُ إِلَى إِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَاضٍ  
وَمُنَاسَاةٍ لَا يَطْلُبُ الْغَنَى بِدَائِيهِ  
وَبِرْيَايِهِ وَيَفَاقِهِ وَتَتَمَسِّسُهُ كَمَا  
تَفْعَلُ أَنْتَ يَا مُنَافِقُ الْبِرِّيَّاءُ وَالْيَفَاقُ  
وَالْمَعَاصِي سَبَبُ الْفَقْرِ وَالْذُّلِّ وَ  
الظُّرْدِ مِنْ بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُرَائِي  
الْمُنَافِقُ يَأْخُذُ الدُّنْيَا بِدَائِيهِ وَ  
تَزَيُّعُهُ يَزِيُّ الصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيَّةٍ  
فِيهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِهِمْ وَتَتَلَبَّسُ  
بِتَيَابِهِمْ وَلَا يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِمْ يَدْعِي  
النَّسَبَ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ نَسَبِهِمْ  
قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَعَاؤُكَ وَتَوَكُّلُكَ  
عَلَيْهِ وَثِقَتُكَ بِهِ وَإِعْرَاضُ قَلْبِكَ  
عَنْ غَيْرِهِ بَيِّنَةٌ -

يَا كَذَّابِينَ أَصْدَقُوا يَا هَارِيِينَ  
مِنْ مَوْلَاهُمْ أَجْعُوا أَفْضِدُوا يَقْلُوبِكُمْ  
بَابُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَصَالِحُوهُ وَاعْتَذِرُوا

بسیب تیرے زہد و قناعت کے تمام اشیاء سے غنا حاصل ہو  
گی۔ مومن قناعت کرنے والا جب دنیا سے کسی چیز کا ضرور  
مند ہو تا ہے تو وہ سوال و عاجزی ذلت و توبہ کے قدموں  
سے اپنے رب عز و جل کے روبرو حاضر ہوتا ہے۔  
پس اگر رب تعالیٰ اس کی مراد اس کو دے دیتا ہے  
وہ اس کا اس عطا پر شکریہ ادا کرتا ہے اور اگر اس  
کی مراد نہیں ملتی تو وہ منع کر دینے میں اللہ کے ساتھ مرافقت  
کرتا ہے اور بغیر اعتراض اور جھگڑنے کے اس کے ارادہ  
پر صبر اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے دین اور ریا کاری اور  
منافقت اور ملمع کاری کے ذریعے سے تیری مثل اسے  
منافق! امیری کا طالب نہیں ہوتا۔ ریا کاری اور نفاق  
اور گناہ و فتنہ تیری اور ذلت خدا کے دربار سے ہٹاؤ  
جانے کے سبب ہیں۔

ریا کار منافق دنیا کو دین کے بدلہ اختیار کرتا ہے  
اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا  
کلام کرتا ہے اور ان کا سا لباس پہنتا ہے اور ان جیسا  
عمل نہیں کرتا اور ان کی طرف نسبت کا دعویٰ کرتا ہے،  
لیکن یہ نسبت درست نہیں غلط ہے کیوں کہ دعویٰ ہی دعویٰ  
ہے (تیرا قول لا الہ الا اللہ کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں)  
دعویٰ ہے اور تیرا توکل و وثوق خدا پر اور اپنے قلب  
کا غیہ خدا سے پھیر لینا۔ اس کے گواہ موجود  
ہیں۔

اے جھوٹ بولنے والو! اپنے بنوئے مولیٰ تعالیٰ سے  
بھاگنے والو تم اسی کی طرف لوٹ آؤ اپنے قلوب کے ساتھ حق عز و جل کے  
دروازہ کا قصد کرو اور وہاں پہنچ کر اس سے صلح کرو اور اس سے عذر

چاہو۔ مومن حالتِ ایمان میں دنیا کو ساتھ بااحتِ شرعی کے لیتا ہے اور حالتِ ولایت میں امر خداوندی کے ہاتھ سے ساتھ گواہی کتاب و سنت کے اگر شرع اجازت دے گی لے گا ورنہ ہرگز نہیں اور بحالتِ بدلیت و قطیبت اس کو فعلِ الہی سے لیتا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے۔

اے غلام! تو شرماتا نہیں۔ تو اپنے نفس پر تو صواب و حق اور تو نسبتی خیر سے محروم کر دیا گی۔ تجھے شرم نہیں آتی۔ آج فرماں بردار بنتا ہے اور کل نافرمان آج مخلص بنتا ہے اور کل مشرک بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کے دو دن (یعنی آج اور کل) برابر ہوں وہ نقصان میں ہے اور جس کی کل گزشتہ آج کے دن سے بہتر ہو وہ محروم ہے۔

اے قوم! تجھ سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور تجھے بغیر کیے چارہ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی سی کوشش کر۔ مددِ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے وہی انجام کو پہنچائے گا۔ تو جس دریا میں ہے اس میں ہاتھ پاؤں مارے جا۔ جو میں تجھے اٹھائیں گی اور تجھے کنارے پر لا دالیں گی۔ تیرا کام دُعا مانگنا ہے اور قبول کرنا خدا کی طرف سے ہے اور قبولیت خدا کی طرف سے کوشش تیری طرف سے ہے اور توفیق اس کی طرف سے تیری طرف سے چھوڑ دینا اور بچا نا اس کی جانب سے تو اپنی طلب میں سچاں وہ بیشک تجھ کو اپنے قریبے دروازہ پر جگہ دے دیگا تو اس کی رحمت ہاتھ کو اپنی جانب

إِلَيْهِ فِي حَالَةِ الْإِيمَانِ تَأْخُذُ مِنَ الدُّنْيَا بِمُبَاحِ الشَّرْعِ وَفِي حَالِ الْوِلَايَةِ تَأْخُذُ بِبَيْدِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ شَهَادَتَيْهَا لَهُ يَعْنِي مَعَ شَهَادَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِي حَالَةِ الْبَدَلِيَّةِ وَالْقَطِيبَةِ تَأْخُذُ بِفِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقْوَمُ الْأَشْيَاءُ إِلَيْهِ يَا غَلَامُ مَا تَسْتَجِيبُ إِبْرَكَ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّكَ قَدْ حُرِمْتَ الصَّوَابَ وَالتَّوْفِيقَ مَا تَسْتَجِيبُ تَكُونُ الْيَوْمَ طَائِعًا وَعَدَا عَاصِيًا الْيَوْمَ مُخْلِصًا وَحَدَا مُشْرِكًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَعْبُودٌ وَمَنْ كَانَ أَمْسِيهِ خَيْرًا مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَحْرُومٌ۔

يَا قَوْمُ بِكَ يَبْجَى شَيْءٌ وَلَا يَدُ مِنْكَ اجْتِهَدُ وَالْمَعُونَةُ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَحَوَّلْ فِي هَذَا الْبَحْرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَالْأَمْوَاجُ تَرْفَعُكَ وَتَقْبَلُكَ إِلَى السَّاحِلِ الدُّعَاءُ مِنْكَ وَالْإِجَابَةُ مِنْهُ الْإِجْتِهَادُ مِنْكَ وَالتَّوْفِيقُ مِنْهُ التَّرَكُّ مِنْكَ وَالْحِمِيَّةُ مِنْهُ الصَّدَقُ فِي طَلَبِكَ وَقَدْ أَرَاكَ بَابَ قَرْيَةٍ تَرَى يَدَ رَحْمَتِهِ مُتَدَدَةً۔

اے انسان کو چاہیے کہ روز بروز قرب و ذکرِ الہی میں ترقی کرے کہ یہی معراجِ کمال ہے۔ ہر نئے دن کا عمل گزشتہ دن کے عمل سے بہتر ہو ورنہ نقصان ہی نقصان ہے ۱۲ تاوری غفرلہ۔

إِلَيْكَ وَنُطْفَةٍ وَكَرَمَةٍ وَمَحَبَّةٍ  
مُسْتَقْبِلِينَ لَكَ وَهَذَا هُوَ عَنَاءُ  
مَطْلُوبِ الْقَوْمِ آيَشُ أَعْمَلُ بِكُمْ يَا عَبِيدَ  
الْغُفُوسِ وَالطَّبَائِعِ وَالْأَهْوِيَةِ وَالشَّيَاطِينِ  
مَا عِنْدِي إِلَّا حَقٌّ فِي حَقِّ لُبِّي فِي لُبِّ  
صَفَاءٍ فِي صَفَاءٍ قُطْعٌ وَوَصْلٌ قُطْعٌ  
مَا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَصْلٌ بِهِ لَا  
أَقْبَلُ مِنْ هُوَ سِكْمٌ

يَا مُنَافِقُونَ يَا مُدْعُونَ يَا كَذَّابُونَ  
لَا أَسْتَحْيِي مِنْ وُجُوهِكُمْ كَيْفَ أَسْتَحْيِي  
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَا تَسْتَحْيُونَ مِنْ رَبِّكُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ وَتَتَوَاقِحُونَ عَلَيْهِ وَ  
تَسْتَهْيُونَ بِنَظَرِهِ وَمَلَأَ إِلَهُكَ الْمُؤْمِلِينَ  
بِكُمْ عِنْدِي صِدْقٌ أَقْطَعُ بِهِ رَأْسَ  
كُلِّ كَاذِبٍ وَ مُنَافِقٍ كَذَّابٍ لَا يَتُوبُ  
وَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا قَدْ أَمِ  
تَوْبَتِهِ وَاعْتَدَايَاهُ عَنْ بَعْضِهِمْ  
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ الصِّدْقُ  
سَيِّفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ مَا وَضِعَ  
عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ اقْبَلُوا مِنِّي فَإِنِّي  
نَاصِحٌ لَكُمْ أُرِيدُ كُمْ لَكُمْ أَنَا مَيِّتٌ  
عَنْكُمْ وَحَيٌّ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ

بڑھتے ہوئے دیکھے گا اور اس کا لطف و کرم اور محبت نیرا  
استقبال کریں گے۔ اور یہی انتہائی مطلوب و مقصود اہل اللہ  
کا ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں  
اور شیطانوں کے بندو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔  
میرے پاس تو حق ہی حق ہے اور خلاصہ در خلاصہ اور صفائی  
در صفائی اور توڑنا اور جوڑنا ماسوائے اللہ سے قطع تعلق  
(جل جلالہ) اور خدا سے جوڑنا ملنا۔ میں تمہاری ہوس کو  
قبول نہیں کر سکتا۔

اے منافقو! اے جھوٹے مدعیو! میں تمہارے  
پھروں سے شرم نہیں کرتا ہوں۔ میں تم سے کیسے شرم و  
حیا کروں حالانکہ تم رب العزت سے شرم و حیا نہیں  
کرتے ہو اور اس سے بے جہانیاں کرتے ہو اور اس  
کی نظر اور اس کے ان فرشتوں کے ساتھ جو تم پر منظر ہیں  
بے عزتی کرتے ہو۔ میرے پاس سچائی ہے جس سے میں  
ہر وقت اس کا منہ اور منافق اور جھوٹے کا منہ کاٹتا ہوں  
جو نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ اور  
عذر خواہی کے قدموں سے رجوع کرتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ  
سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سچائی زمین میں اللہ عز  
وجل کی تلوار ہے وہ کسی چیز پر نہیں رکھی جاتی مگر اس کو  
قطع کر دیتی ہے۔ میری بات تم قبول کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ  
ہوں۔ میں تم کو تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں۔ میں تم سے  
مردہ ہوں اور حق عز وجل کے ساتھ زندہ۔ جس نے

اے خدا نے تعالیٰ تم کو ہر حالت میں ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرشتے نامہ اعمال کھنڈے والے تمہارے ساتھ بہتے ہیں پھر تم گناہ کرتے ہو۔ نہ خدا سے  
شرم ہے نہ فرشتوں کا خیال۔ سوچو سمجھو کہ میں کچھ بھڑو۔ ہر وقت ہر جگہ وہ تم کو دیکھتا ہے۔ ۱۲۔ قادری غفرلہ سلمہ میں تم سے لاپرواہ ہوں، تم سے  
کچھ کہتا ہوں وہ تمہارے نفع کے لیے تم سے میرا کوئی علاقہ نہیں جو تعلقات و علاقہ ہیں وہ سب خدا سے ہیں ۱۲۔ قادری غفرلہ۔

میری صحبت اختیار کی اور اسے سچا جانا اس نے نفع حاصل کیا اور نجات پائی اور جس نے میری تکذیب کی اور میری صحبت کو جھٹلایا وہ محروم ہوا اور دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ منجملہ معرفت الہی کے سببوں کے اللہ تعالیٰ سے منازعت جھگڑے کا چھوڑنا اور اس پر استعراض نہ کرنا اور اس کی تدبیر پر راضی رہنا ہے اور اسی واسطے مالک ابن دینار علیہ الرحمۃ نے اپنے بعض مریدوں سے کہا، اگر تو معرفت الہی کا خواہشمند ہے پس تو اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہ اور اپنے نفس و خواہش اور اپنی طبیعت اور ارادہ کو تدبیر و تقدیر میں خدا کا شریک نہ بنا، اے تندرست لوگو! اے عمل سے فارغ اور بے فکر ہوجانے والو! کیا کیا چیزیں تمہارے رب عزوجل سے ضائع ہو رہی ہیں اگر تمہارے قلوب اس پر آگاہ و خبردار ہو جائیں تو البتہ تم حسرت و ندامت کرو، ہوشیار ہو جاؤ۔

اے قوم! تم غمگین مرنے والے ہو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے تم اپنے نفسوں پر رولو۔ تمہارے گناہ بکثرت ہیں اور انجام نامعلوم۔ تمہارے قلب دنیا کی محبت میں بیمار ہیں اور اس پر حرص کرنے والے۔ تم زہد اور ترک دنیا اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ان کا علاج کرو۔ دین کی سلامتی اصل مال ہے اور نیک عمل اس کا منافع۔ تم اس چیز کی طلب کرو جو تم کو سرکشی میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور جو کچھ تمہیں کفایت کرے اس پر قناعت کرو۔ عقل مند کسی شے سے خوش نہیں ہوتا اس کا حلال حساب ہے اور اس کا حرام

صَدَقْتَنِي فِي الصُّحْبَةِ اَنْتَفَعَمَ وَ اَفْلَحَ  
وَمَنْ كَذَّبَنِي وَ كَذَّبَ فِي صُحْبَتِي  
حُرِمَ وَ عُوِقِبَ عَاجِلًا وَ اَجَلًا مِّنْ  
جُمْلَةِ اَسْبَابِ مَعْرِفَتِهِ تَرَكُ الْمُنَادِيَةَ  
لَهُ وَ اِلَا عِتْرًا حِضَّ عَلَيْهِ وَ الرِّضَا بِتَدْيِيرِهِ  
وَلِهَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ لِبَعْضِ  
مُرِيدِيهِ اِنْ ارَدْتَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَارْضَ بِتَدْيِيرِهِ وَ تَقْدِيرِهِ  
وَلَا تَجْعَلْ نَفْسَكَ وَ هَوَاكَ وَ طَبْعَكَ  
وَ ارَادَتَكَ شُرَكَاءَ لَهُ فِيهِمَا يَأْ  
أَصْحَاءُ الْأَجْسَادِ يَا مُتَفَرِّغِينَ مِّنْ  
الْأَعْمَالِ الْيَشُ يُفَوِّتُكُمْ مِّنْ رَّيْكُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ لَوْ اَطْلَعْتَ قُلُوبَكُمْ عَلَى  
ذَلِكَ لَتَحَسَّرْتُمْ وَ نَدِمْتُمْ اِنَّهُمْ لَهَؤُا  
يَا قَوْمُ اَنْتُمْ عَنْ قَرِيبٍ مَّوْتِي  
اُبْكُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ قَبْلَ اَنْ يُبْكِي  
عَلَيْكُمْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ مُّرَدِّمَةٌ  
عَلَى عَاقِبَةِ مُبْلَمَةٍ قُلُوبُكُمْ مَّرْضَى  
مُحِبُّ الدُّنْيَا وَ الْحِرْصُ عَلَيْهَا  
دَاوُودُهَا يَالْهُدَى وَ التَّرْكُ وَ الْاِقْبَالُ  
عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ سَلَامَةُ الدِّينِ  
رَأْسُ الْمَالِ وَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ  
هِيَ الْأَرْبَاحُ اَتْرَكُوا الْقَلْبَ لِمَا  
يُطْغِيكُمْ وَ افْتَنُوا بِمَا يَكْفِيكُمْ  
الْعَاقِلُ لَا يَفْرَحُ بِشَيْءٍ حَلَّ لَهُ

عقاب۔ تم میں سے اکثر سزا و جزا کو بھولے ہوئے ہیں۔

اے غلام! جب تیرے سامنے دنیاوی کوئی چیز حاضر ہو اور تو اپنے قلب کو دیکھے کہ وہ اس سے منفص ہوتا ہے پس تو اس کو چھوڑ دے اور لیکن تیرے تو قلب ہی نہیں تو تو مجسم نفس و طبیعت و خواہش بنا ہوا ہے۔ اہل دل ادیار اللہ کی صحبت میں رہ تاکہ تجھے دل مل جائے تیرے لیے ایک ایسے شیخ کی ضرورت ہے جو حکیم ہو اور حکم الہی پر چلنے والا۔ وہ تجھے راستہ بتائے اور تسلیم دے اور تجھے نصیحت کرے۔ اے شے کو لاشے سے بیچنے والے اور لاشے کو شے سے خریدنے والے! تو نے دنیا کو آخرت کے بدلہ میں خرید لیا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں بیچا۔

تو تو ہوس در ہوس، عدم در عدم، ہل در ہل ہے جسے چوپائے کھاتے ہیں ویسے ہی تو کھاتا ہے۔ نہ تقشیش ہے کہ آیا حلال ہے یا حرام اور نہ سوال ہے اور نہ حساب نہ پوچھ کچھ نہ نیت۔ نہ حکم کا انتظار ہے نہ فعل کا مسلمان بندہ مباح شرعی کو تلاش کر کے کھایا کرتا ہے اور ولی کو کھانے اور نہ کھانے کا قلب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے جیسا حکم دینی ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور ابدال کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں خود چیزیں اثر کرتی ہیں اور وہ عالم غیب میں اپنے رب عزوجل کے ساتھ اور اس میں فنا ہوتے ہیں انیس ماسوی اللہ سے کچھ سو کا ہی نہیں ہوتا۔ ولی حکم کے ساتھ

اے حلال کھانے والے سے قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے حلال روزی دی تھی تم نے اس پر کیا عمل کیے۔ حرام کھانے والے

حِسَابٌ وَحَرَامُهُ عِقَابٌ أَكْثَرُكُمْ قَدْ نَسُوا الْعِقَابَ وَالْحِسَابَ.

يَا غُلَامُ إِذَا احْصَرْتَيْنَ بَيْنَكَ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَرَأَيْتَ قَلْبَكَ يَشْتَرِي مِنْهُ فَاتْرُكْهُ وَلَئِن كَانَ قَلْبُكَ لَكَ كُلُّكَ لَفَسٌ وَطَبَعٌ وَهَوًى اصْحَبْ أَرْبَابَ الْقُلُوبِ حَتَّى يَصِيرَ لَكَ قَلْبٌ لَا يَبْدُ لَكَ مِنْ شَيْخٍ حَكِيمٍ عَامِلٍ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَهْدِيكَ وَيُعَلِّمَكَ وَيَنْصَحُكَ يَا مَنْ بَاعَ كُلَّ شَيْءٍ بِلَا شَيْءٍ وَاشْتَرَى لَاشَيْءٍ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ اشْتَرَيْتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَبِعْتَ الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا أَنْتَ هَوَسٌ فِي هَوَسٍ عَدَمٌ فِي عَدَمٍ جَهْلٌ فِي جَهْلٍ تَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ مِنْ غَيْرِ تَفْتِيْشٍ وَلَا احْتِسَابٍ وَلَا سُؤَالَ مَنْ غَيْرِ بَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ فَعَلِ الْمُؤْمِنُ يَا كُلُّ مُبَاهٍ الشَّرِّعِ وَالْوَلِيُّ يَوْمَ مَرٍّ بِالْأَكْلِ وَيَنْهَى عَنْهُ مِنْ حَيْثُ قَلْبُهُ وَالْبَدَلُ لَا يَهْتَمُّ بِشَيْءٍ بَلْ يَفْعَلُ فِيهِ إِلَّا شَيْئًا وَهُوَ فِي غَيْبَتِهِ مَعَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَنَائِهِ فِيهِ فَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَعَ الْأَمْرِ وَالْبَدَلُ

پر سزا و سختی ہوگی ۱۲۔ قادری عفریہ

ٹھہرنے والے ہوتے ہیں اور بدل سلوب الاختیار۔ اور یہ تمام باتیں حدود و شریعیہ کی محافظت کے ساتھ ہوتی ہیں جو شخص اپنے سے اور خلق سے فنا ہو جاتا ہے وہ حدود و شریعیہ کی محافظت کرتا ہے بعد قدرت کے سمندر پر آواز کرتا ہے پس اس سمندر کی موجیں کبھی اس کو اونچا کر دیتی ہیں اور کبھی اس کو نیچا کر دیتی ہیں اور کبھی اس کو کنارے پر لا کر ڈال دیتی ہیں

اور کبھی اس کو منجھادیں گرا دیتی ہیں۔ پھر وہ ان اصحاب کف کی طرح ہو جاتا ہے جن کے بارہ میں رب عزوجل نے فرمایا و نَقَلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ الْاُخْرٰی اِلٰی شِمَالٍ ہم ان کو داہنے بائیں کر دیں دلاتے ہیں۔ نہ ان کے لیے عقل ہے اور نہ تدبیر اور نہ حس و ادراک۔ وہ لطف و قرب کے گھرمیں ظاہر اور باطن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ پس اسی طور سے اس قرب چاہنے والے نے اپنے قلب کی آنکھوں کو ماسوی اللہ سے بند کر لیا ہے پس وہ خدا ہی کے لیے دیکھتا ہے اور اسی کے واسطے اور جو کچھ سنتا ہے اسی سے سنتا ہے۔

اے اللہ ہم کو اپنے ماسوا سے فنا کر دے اور اپنے ساتھ موجود کرے اور ہم کو دنیا و آخرت کی نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین :

## تیسویں مجلس

مَسْلُوبُ الْاِخْتِيَارِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَعَ حِفْظِ حُدُودِ الشَّرْعِ اَفْقَانِي عَنْهُ وَعَيْنِ الْخَلْقِ يَحْفَظُ حُدُودَ الشَّرْعِ ثُمَّ يَسْتَصْرِحُ فِي بَحْرِ الْقُدْرَةِ فَاَمَوجُهُ تَرْفَعُهُ تَارَةً وَتَحْفِظُهُ اُخْرٰی وَلُفْلِبُهُ عَلَى السَّاحِلِ تَارَةً وَتُوقِعُهُ فِي وَسْطِ اللُّجَّةِ اُخْرٰی يَصِيدُ كَاَصْحَابِ الْكُفْرِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهِمْ وَنُقِلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ مَا كَانَ لَهُمْ عَقْلٌ وَلَا تَدْبِيرٌ وَلَا حِسٌّ كَانُوا فِي بَيْتِ اللُّطْفِ وَالْقُرْبِ مُغْمِضِينَ الْاَعْيُنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهَكَذَا هَذَا الْمُقَرَّبُ قَدْ غَمَضَ عَيْنِي قَلْبِهِ عَمَّا سِوَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَنْظُرُ اِلَّا لَهٗ وَبِهٖ وَلَا يَسْمَعُ اِلَّا مِنْهُ۔

اَللّٰهُمَّ اَفِنَّا عَمَّا سِوَاكَ وَاَوْجِدْنَا بِكَ وَاَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

## المجلس الثالث والعشرون

قلب کے جلا کرنے کے بیان میں اور اس بارے میں کہ اگر حقیقت شریعت کی مطابق نہ ہو تو وہ بے دینی ہے

۱۲۔ ذی حجہ ۱۴۲۵ھ کو صبح کے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ

بِالْمَدْرَسَةِ ثَانِي عَشْرَةَ الْحَجَّةِ سَنَةِ خَمْسٍ  
وَأَرْبَعِينَ خَمْسٍ مِائَةٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأُ وَإِنْ  
جَلَاءَ هَاقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ  
وَحُضُورُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْقَلْبُ  
يَصْدَأُ فَإِنْ تَدَارَكَهُ صَاحِبُهُ يَمَّا  
وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَالْإِنْفِلَ إِلَى السَّوَادِ يُسْوَدُ لِبُعْدِهِ  
عَنِ الشُّورِ يُسْوَدُ لِحُبِّ الدُّنْيَا وَ  
الْحَرَمِ عَلَى جَمْعِهِ مِنْ غَيْرِ وَمَرَجَ لَا  
مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِهِ حُبُّ الدُّنْيَا  
زَالَ وَمَا عَهُ فَيَجْمَعُهَا مِنْ حَلَالٍ وَ  
حَرَامٍ يَزُولُ تَنْمِيزُهُ فِي جَمْعِهِ يَزُولُ  
حَيَاءُهُ مِنْ رَبِّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَمَرَأَتِهِ  
يَا قَوْمُ اقْبَلُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَاجْلُؤْا  
صَدَأَ قُلُوبُكُمْ بِالذَّوَاءِ الَّتِي قَدْ  
وَصَفَهُ لَكُمْ تَوَّاتٍ بِأَحَدِكُمْ مَرَضًا  
وَوَصَفَ بَعْضُ الْأَطْبَاءِ دَوَاءً لَهُ  
لَمَّا أَهْنَاهُ الْعَيْشُ حَتَّى يَسْتَعْمِلَهُ  
رَاقِبُهُ أَرَبَكُمْ عَرَّ وَجَلَّ فِي حَلَاوَاتِكُمْ  
وَجَلَّوَاتِكُمْ رَاجِعُوهُ نُصِبَ أَعْيُنُكُمْ  
حَتَّى كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
تَرَوْنَهُ فَهُوَ يَرَاكُمْ مَنْ كَانَ ذَاكِرًا  
لِلَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بِغَلْبِهِ فَهُوَ الذَّاكِرُ

وقت جمعہ کے دن مدرسہ قادریہ میں  
ارشاد فرمایا :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے  
ارشاد فرمایا کہ تحقیق یہ قلوب البستہ زنگ لاتے ہیں  
اور تحقیق اس کی جلا و صیقل نہ آن مجید کا پڑھنا اور موت  
کا یاد کرنا اور مجالس ذکر و عظمیٰ حاضر ہونا ہے قلب  
زنگ آلود ہوتا ہے۔ پس اگر اس قلب والے نے مطابق  
فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام، اس کی جلا کر لی  
بہتر ورنہ وہ قلب سیاہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے  
نور سے دوری کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے نیز بوجہ حُب  
دنیا اور دنیا جمع کرنے کی وجہ سے جو کہ بغیر تقویٰ جمع کرتا ہے  
کیوں کہ جس کے دل میں حُب دنیا جگہ کر لیتی ہے اس کا  
آقوی جاتا رہتا ہے۔ پس وہ حلال و حرام سے دنیا کو جمع کرتا  
رہتا ہے۔ اس کی حلال و حرام کی تمیز جاتی رہتی ہے اس کی حیا  
رب العزیز جل مجدہ سے اور اس کے ملاحظہ سے شرمانا سب جاتا رہتا ہے  
اے قوم! تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول  
کو قبول کرو اور آپ نے جو تمہارے قلوب کے زنگ کے  
دور ہونے کی دوا تجویز کی ہے اس سے اپنے قلوب کے  
زنگ کا علاج کرو۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی  
طیب اس کے لیے دوا تجویز کرے تو تا وقتیکہ وہ اس  
دوا کا استعمال نہ کرے گا البتہ اس کا عیش و آرام خوشگوار نہ ہوگا  
تم اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ملاپ  
کرنے والے رہو اس کو اپنا نصب العین بنا لو یہاں تک کہ  
گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پس  
وہ تم کو قیقا دیکھتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر قلب سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے

وَمَنْ لَّمْ يَدْكُرْهُ بِقَلْبِهِ فَلَيْسَ يَدْكُرْهُ  
 اللِّسَانُ غَلَامُ الْقَلْبِ وَتَبَعَ لَهُ دَاوَمٌ  
 عَلَى سَمَاعِ الْمَوَاعِظِ عَنِ حَقِيقَةِ التَّوْبَةِ  
 نَعْظِيمُ أَمْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلِهَذَا  
 قَالَ بَعْضُهُمْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ  
 التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشَّقَقَةُ  
 عَلَى خَلْقِهِ كُلِّ مَنْ لَا يَعْظِمُ أَمْرَ  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَشْفِقُ عَلَى خَلْقِ  
 اللَّهِ فَهُوَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْحَى اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 اِرْحَمْ حَتَّى أَرْحَمَكَ إِنِّي رَحِيمٌ مَّنْ  
 رَّحِمَ رَحِمَتُهُ وَأَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي  
 فَيَا طُوبَى لِلرَّحْمَاءِ ضَاعَ عُمْرُكُمْ فِي  
 أَكْلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَشَرِبْنَا  
 وَلَيْسُوا وَلَيْسْنَا وَجَمَعُوا وَجَمَعْنَا  
 مِّنْ أَسَادِ الْفَلَاحِ فَلْيَصِيرْ نَفْسُهُ  
 عَنِ الْمَحْرَمَاتِ وَالشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ  
 وَيَصِيرْ عَلَى أَدَاءِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَالْإِنْتِهَاءِ عَنْ تَهْيِيهِ وَعَلَى الْمَوَافَقَةِ  
 لِقَدَرِهِ الْقَوْمُ صَبَرُوا مَعَ اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَلَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ صَبَرُوا  
 لَهُ وَفِيهِ صَبَرُوا لِيَكُونُوا مَعَهُ طَلَبُوا  
 لِيَحْصُلَ لَهُمُ الْقُرْبُ مِنْهُ خَرَجُوا  
 مِّنْ بُيُوتِ نَفْسِهِمْ وَآهْوَيْتِهِمْ  
 وَاسْتَصْحَبُوا الشَّرْعَ مَعَهُمْ وَسَارُوا

اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا  
 ہی نہیں۔ زبان قلب کی غلام اور اس کی تابع ہے۔ تو وعظ ہمیشہ  
 سنا کر کیوں کہ قلب جب وعظوں سے غائب ہو جاتا ہے  
 تو اندھا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت تمام حالتوں میں امر الہی  
 کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی بنا پر بعض اہل اللہ نے فرمایا ہے رحمة  
 اللہ علیہم، کل بھلائی دو کھوں میں ہے۔ ایک تعظیم امر الہی دوسرے  
 مخلوق پر شفقت کرنا۔ جو شخص امر الہی کی تعظیم نہیں کرتا اس کو بڑا نہیں  
 جانتا اور جو خلق الہی پر شفقت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے  
 دور ہے۔ اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی  
 تو دوسروں پر رحم کرنا کہ میں تجھ پر رحم کروں۔ تحقیق میں رحم  
 کرنے والا ہوں۔ جو رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں اور  
 اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رحم کرنے والوں کے  
 لیے بڑی خوش خبری ہے تم نے تو اپنی عمر اس میں ضائع  
 کی کہ انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا اور انہوں نے  
 یہ پیا اور ہم نے یہ پیا اور انہوں نے یہ پینا اور ہم نے  
 یہ پینا اور انہوں نے جمع کیا اور ہم نے جمع کیا (آہ صدآہ)  
 جو شخص فلاح اور بتری چاہے وہ اپنے نفس کو حرام چیزوں  
 اور شبہ والے امور اور غاہشات نفسانیہ سے روکے  
 صبر کرے اور اوامر الہی بجالائے اور نواہی منع کیے گئے امور  
 سے بچے۔ محنت پر صبر کرے اور تقدیر الہی پر موافقت۔  
 اہل اللہ نے اللہ کے ساتھ صبر کیا اور اس سے صبر کیا۔ اسی کے  
 واسطے اور اسی کے بارے میں صبر کیا تاکہ وہ معیت الہی میں لیں  
 اور اللہ کو طلب کیا تاکہ اس سے ان کو نزدیکی حاصل ہو جائے  
 وہ اپنے نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کے گھروں سے  
 جدا ہو گئے اور اپنے ساتھ شریعت کو لے کر اللہ عزوجل کی طرف

چلے۔ راستہ میں ان کا آفتوں اور دہشتوں اور مصیبتوں اور غم و رنجوں اور بھوک اور پیاس اور بربہنگی اور ذلت و خواریوں نے استقبال کیا۔ پس انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور اپنے سیر رجوع نہ کیا اور جس ارادہ سے چلے تھے اس میں تغیر پیدا نہ کیا وہ آگے ہی بڑھتے رہے۔ ان کے سیر میں فتور نہ آیا وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہے۔ یہاں تک کہ ان کو بقائے قلب و قالب حاصل ہو گئی۔

اے قوم! تم اللہ سے ملاقات کے لیے عمل کرو اور اس کی ملاقات سے پہلے اس سے شرم کرو۔ تمہیں اس کے روبرو جانا ہے۔ مسلمان کی جیا اولاً اللہ تعالیٰ سے ہے پھر اس کی مخلوق سے۔ مگر ایسے امر میں جو کہ دین کی طرف راجع ہوتا ہو اور اس میں حدود و شریعہ کا تہنک ہوتا ہو تو اس میں شرمانا، حیا کرنا حلال نہیں بلکہ امور دینیہ میں حیا نہ کرے اور حدود و شریعہ کو قائم کرے اور امر الہی کو بجالائے کہ اس نے فرمایا ہے کہ مجرموں کو سزا دینے میں دین الہی میں تم کو رافت و شفقت مانع نہ ہو جس کی تاب برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو جاتی ہے اس کو حضور اپنی درہ و خود پہنا دیتے ہیں اور اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنے طریقوں اور خصلتوں اور اخلاق سے آراستہ کر دیتے ہیں اور اپنی خلعتوں سے اسے خلعت دے دیتے ہیں اس بندہ کی ایسی حالت ہے حضور کی خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے ایسی حالت کیونکر نہ ہو حالانکہ وہ حضور کا امتی ہے اس حضور اپنے رب کا شکر کرتے ہیں پھر حضور اس کو اپنی امت میں اپنا نائب اور مہتمم اور مخلوق کا

إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَقْبَلَتْهُمْ الْأَفَاتُ وَالْأَهْوَالُ وَالْمَصَائِبُ وَالْغُمُومُ وَالْهُمُومُ وَالْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَالْعُرَى وَالذُّلُّ وَالْمَهَانَةُ فَلَمْ يَبْأَلُوا بِهَا وَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْ سَيْرِهِمْ وَلَمْ يَتَغَيَّرُوا عَنْهَا هُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ إِلَى قَدَامٍ لَا يَخْتَرُ سَيْرُهُمْ لَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَهُمْ بَقَاءُ الْقَلْبِ وَالْقَالِبِ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا لِلْقَاءِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحْيُوا مِنْهُ قَبْلَ لِقَائِهِ حَيَاءُ الْمُؤْمِنِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الدِّينِ وَخَرَقَ حُدُودَ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ بَلْ يَتَوَاقَعُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا نَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ هُ مِنْ صَحَّتْ تَبَعِيَّتُهُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَهُ دَرْعَهُ وَخُوْدَهُ وَقَلَدَهُ لِسِينِهِ وَيَحْلِيهِ مِنْ أَدْبِهِ وَشَمَائِلِهِ وَ أَخْلَاقِهِ وَخَلَعَ عَلَيْهِ مِنْ خِلْعِهِ وَاسْتَدَّ فَرْحَهُ بِهِ كَيْفَ هُوَ مِنْ أُمَّتِهِ وَكَيْشَرُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ نَائِبًا لَهُ فِي أُمَّتِهِ وَدَلِيلًا وَدَاعِيًا لَهُمْ إِلَى بَابِ الْحَقِّ

۱۔ امور شریعہ میں شرم جائز نہیں۔

داعی اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف مقرر فرما دیتے ہیں۔ صل رہنما اور داعی حضور تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوا اور اس نے حضور کو وفات دے دی تو آپ کے لیے آپ کی امت میں سے وہ لوگ قائم کر دیے جو آپ کی سچی جانشینی کریں اور وہ لاکھوں میں سے اکا و تکا ہی ہیں۔ وہ خلق کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ خیر خواہی کرتے رہتے ہیں اور ان کی ایذا و کبر و داغ و خست کرتے رہتے ہیں۔ وہ منافقوں اور فاسقوں کے منہ پر تلبسم کرتے ہیں اور ہر قسم کا ان پر حیلہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کے نفاق اور فسق سے چھڑائیں اور ان کو رب تعالیٰ کے دروازہ کی طرف لے جائیں۔ اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ فاسق کے منہ پر عارف عارف باللہ ہی پہنتا ہے۔ وہ اس کے منہ پر سنس کر اس کو یہ دکھاتا ہے کہ گویا یہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اس کے دین کے گھر کی خرابی اور اس کے قلب کی سیاہی اور اس کے کھوٹے پن اور میلے پن کو خوب جانتا ہے اور فاسق و منافق دونوں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی حالت ان پر پوشیدہ ہے اور اس نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ نہیں نہیں۔ ان دونوں کی کوئی عزت ہی نہیں کہ ان کا حال چھپ سکے۔ وہ عارف سے چھپ نہیں سکتے وہ ان کو اپنی نگاہ و نظر، کلام و حرکت سے پہچانتا ہے وہ ان دونوں کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس میں شک ہی نہیں۔

تم پر افسوس! کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صدیقین اور عارفین، عالمین سے مخفی رہ سکتے ہو۔ تم کب تک اپنی عمروں کو فضول باتوں میں ضائع کرتے

عَزَّ وَجَلَّ كَانَ هُوَ الدَّاعِي وَ الدَّلِيلُ  
وَلَمَّا قَضَى الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ وَقَبَضَهُ أَتَاهُ  
لَهُ مِنْ أَمَّتِهِ مَنْ يَخْلُقُهُ فِيهِمْ وَهُوَ  
أَحَادٌ أَفْرَادٍ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَلْفٍ -  
إِلَى الْفُطَاةِ النَّفْسِ وَ أَحَدًا يَدُّ تَوْنُ  
الْخَلْقِ وَ يَصْبِرُونَ عَلَى آذَاهُمْ مَعَ  
دَوَامِ النَّصِيحِ لَهُمْ يَتَبَسَّمُونَ فِي وُجُوهِ  
الْمُتَأَفِّفِينَ وَ الْفَسَاقِ وَ يَحْتَالُونَ  
عَلَيْهِمْ بِكُلِّ حِيلَةٍ حَتَّى يُحْلِصُوهُمْ  
مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ يُحْمِلُوهُمْ إِلَى بَابِ  
رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَ لِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ  
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ  
الْفَاسِقِ إِلَّا الْعَارِفُ يَضْحَكُ فِي  
وَجْهِهِ وَ يُرِيهِ آتَهُ مَا يَعْرِفُهُ  
وَ هُوَ يَعْلَمُ بِخَدَائِبِ بَيْتِ دِينِهِ  
وَ سَوَادِ وَجْهِ قَلْبِهِ وَ كَثْرَةِ وَعْلِهِ  
وَ كُدْرَانِهِ وَ الْفَاسِقُ وَ الْمُنَافِقُ  
يُظَنُّانِ أَنَّهُمَا قَدْ خَفِيََا عَلَيْهِ وَ لَمْ  
يَعْرِفْهُمَا لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُمَا  
مَا يَخْفِيَانِ عَلَيْهِ يَعْرِفُهُمَا يَكْمُلُهُ  
وَ تَطْرَهُ وَ كَلِمَةٍ وَ حَرَكَةٍ يَعْرِفُهُمَا  
عِنْدَ ظَاهِرِهِ وَ بَاطِنِهِ وَ لَا شَكَّ  
وَلَيْكُمُ تَظَنُّونَ أَنَّكُمْ تَخْفَوْنَ عَلَى  
الصِّدِّيقِينَ الْعَارِفِينَ الْعَامِلِينَ  
إِلَى آتِي وَ قَدْ نُصَيِّحُكُمْ فِي

لَا تَشَىءَ أَطْلُبُوا مِنْ يَدِ تَكْمُ عَلَى طَرِيقِ  
الْآخِرَةِ يَا ضَلَالًا عَنْهَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْكُمْ  
يَا مَوْتَى الْقُلُوبِ يَا مُشْرِكِينَ بِالْأَسْبَابِ  
يَا عَابِدِينَ أَصْنَامَ حَوْلِهِمْ وَقَوَاهُمْ  
وَمَعَايِشِهِمْ وَهُؤُوسِ أَمْوَالِهِمْ وَ  
سَلَاطِينَ بِلَادِهِمْ وَجِهَاتِهِمْ أَلَيْسَ  
يَنْتَهُونَ إِلَيْهَا أَنَّهُمْ مَعْجُزُونَ عَنِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ مَنْ يَرَى الصُّرَّةَ  
وَالنَّفْعَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ  
بِعَبْدٍ لَهُ هُوَ عَبْدٌ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ  
فَهُوَ الْيَوْمَ فِي نَارِ الْمَقْتِ وَالْحِجَابِ  
وَعَدَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَا يَسْلُمُ مِنْ  
تَأْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْمُتَّقُونَ الْمُؤَحِّدُونَ  
الْمُخْلِصُونَ الثَّابِتُونَ تَوَلَّوْا إِلَى قُلُوبِكُمْ  
لَكُمْ بِالسِّنَةِ كُمْ التَّوْبَةُ قَلْبٌ دَوْلَةٍ  
تُقَلِّبُ دَوْلَةَ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ وَ  
شَيْطَانِكَ وَأَقْرَانِكَ السُّوءِ إِذَا تَبَّتْ  
قَلْبَتِ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَلِسَانَكَ وَ  
قَلْبِكَ وَجَمِيعَ حَوَارِكَ وَنُصْبِيهِ  
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ مِنْ كَدَرِ الْحَرَامِ  
وَالشُّبْهَةِ وَتَتَوَدَّعُ فِي مَعِيشَتِكَ  
وَبَيْعِكَ وَشَرَايِكَ وَتَجْعَلُ كُلَّ  
هَيْمِكَ مَوْلَاكَ عَزَّ وَجَلَّ تُزِيلُ الْعَادَةَ  
وَتُزِيلُ مَكَانَهَا الْعِبَادَةَ تُزِيلُ الْمُعَصِيَةَ  
وَتُزِيلُ مَكَانَهَا الطَّاعَةَ ثُمَّ تَتَحَقَّقُ

رہو گے۔ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو ہمیں آخرت  
کا راستہ بتائے۔ اے گمراہو! اللہ تم سب سے  
بڑا ہے۔ اے مردہ دلوں والو! اے سبیلوں کو شریک  
خدا سمجھنے والو! اے اپنی قوت و طاقت اور اپنے  
معاش اور اس مال اور اپنے شہر کے بادشاہوں  
اور جن طرفوں کی طرف پہنچتے ہو ان کے بادشاہوں  
کے پجاریو! تحقیق یہ سب اللہ عزوجل سے محبوب  
و دور ہیں۔ جو شخص نقصان و نفع کو غیر اللہ کی طرف  
سے سمجھے وہ اللہ عزوجل کا بندہ نہیں ہے وہ اسی  
غیر کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع و نقصان کو سمجھا  
وہ آج دنیا میں غصہ اور حجاب کی آگ میں ہے کل آخرت  
میں جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ عزوجل کی آگ سے متقی  
موصد، مخلص ثابت قدم لوگ ہی سلامت رہیں گے۔ تم  
اللہ کی طرف اتلا اپنے قلوبوں سے توبہ کرو۔ پھر اپنی نبالوں  
سے۔ توبہ دولت کا پلٹ دینا ہے وہ تیرے نفس  
و خواہش اور تیرے شیطان اور تیرے بے ہمتیوں  
کی دولت کو پلٹ دیتی ہے اور ان سب کو تیرا غلام بنا  
دیتی ہے۔ جب تو توبہ کرتا ہے تو اپنے کان اور آنکھ  
اور زبان اور قلب اور تمام اعضاء کو پلٹ دیتا ہے،  
اور اپنے کھانے پینے کو حرام و شبہ کی کدورتوں سے  
صاف کر لیتا ہے اور اپنی معیشت اور خرید و فروخت  
میں پرہیزگار بن جاتا ہے اور تو اپنا مقصود اصلی اپنے مولا  
عزوجل کو بنا لیتا ہے اپنی عادت کو زائل کر دیتا ہے اور  
اس کی جگہ پر عبادت کو رکھتا ہے اپنی معصیت کو زائل کر دیتا ہے  
اور اس کی جگہ طاعت کرنے لگتا ہے۔ پھر درستی شریعت

اور شہادت شریعت کے ساتھ تو حقیقتاً مضبوط ہو جاتا،  
حقیقت پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ جس حقیقت پر شریعت ثلثاً  
نہ دے وہ زندہ بے دینی ہے۔ پس جب تجھ میں یہ امر  
متحقق ہو جائے گا تو تجھے بُری عادتوں اور تمام خلق کی جانب  
دیکھنے سے فنا حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت تیرا ظاہر  
محفوظ ہو جائے گا اور تیرا باطن رب عزوجل کے ساتھ  
مشغول ہو گا۔ اور پس جب تیری یہ حالت کمال کو پہنچے  
گی پس اگر تمام دنیا تیری طرف اُٹے گی اور وہ تجھے  
اپنے اوپر پورے طور سے قدرت دے دے گی،  
اور سب اگلی پچھلی مخلوق تیری تابعداری کرے گی تو تجھے  
کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی اور تجھ کو تیرے مولیٰ عزوجل کی  
جانب سے نہ پٹا سکے گی کیوں کہ تو تو اس کے ساتھ قائم  
ہے اسی کی طرف اور اسی کے ساتھ مشغول اس کے جلال و  
جمال کی طرف دیکھنے والا ہے۔ جب تو اس کے جلال کی  
طرف نظر ڈالتا ہے خوف الہی سے پارہ پارہ ہو جاتا  
ہے اور جب اس کے جمال کو دیکھتا ہے تمتع ہو جاتا ہے  
الہیان حاصل ہوتا ہے۔ جلال کے دیکھتے وقت ڈر جاتا ہے اور  
جمال کو دیکھتے ہوئے امیدار بن جاتا ہے جلال کے دیکھتے وقت  
مخوف ہو جاتا ہے اور جمال کو دیکھ کر موجود ہو جاتا ہے۔ اس  
ذائقہ کے چھنے والوں کے لیے مبارک باد دی ہے۔

اے اللہ! ہم کو اپنے قرب کے طعام سے کھانا  
دے اور اپنی شراب اس سے سیراب کر اور دنیا و  
آخرت میں نکوئیاں دے اور دوزخ کے عذاب سے  
بچا۔ آمین

فِي الْحَقِيقَةِ مَعَ صِحَّةِ الشَّرِيعَةِ وَ  
شَهَادَتِهَا لَا تَكُنْ كُلَّ حَقِيقَةٍ لَا تَشْهَدُ  
لَهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ فَإِذَا  
تَحَقَّقَ لَكَ ذَلِكَ جَاءَكَ الْفَنَاءُ عَنِ  
الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ عَنْ رُؤْيِهِ  
سَائِرِ الْخَلْقِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ظَاهِرُكَ  
مَحْفُوظًا وَبَاطِنُكَ بِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
مَشْغُولًا فَإِذَا انْتَهَى لَكَ هَذَا فَلَوْجَاءَتْ  
إِلَيْكَ الدُّنْيَا بِحَذَائِقِهَا وَمَكْنَتِكَ  
مِنْهَا وَتَبِعَكَ الْخَلْقُ بِأَجْمَعِهِمْ مِنْ  
تَقَدَّمَ وَمَنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَصُفِّرْكَ وَذَلِكَ  
وَلَمْ يُعَيِّرْكَ عَنْ بَابِ مَوْلَاكَ عَزَّ وَ  
جَلَّ لَا تَكُنْ قَائِمًا مَعَهُ مُقِيلٌ عَلَيْهِ  
مَبْشُورٌ بِهِ نَاطِرٌ إِلَى جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ  
إِذَا نَظَرْتَ إِلَى جَلَالِهِ تَفَرَّقْتَ وَإِذَا  
نَظَرْتَ إِلَى جَمَالِهِ اجْتَمَعَتْ تَخَافُ  
عَنْ رُؤْيِيهِ الْجَلَالِ وَتَرْجُو عِنْدَ رُؤْيِيهِ  
الْجَمَالَ تَنْمَحِي عِنْدَ رُؤْيِيهِ الْجَلَالِ  
وَتَشْتَبِي عِنْدَ رُؤْيِيهِ الْجَمَالَ فَطُوبَى  
لِمَنْ ذَاقَ هَذَا الطَّعَامَ .

اللَّهُمَّ اطْعِمْنَا مِنْ طَعَامِ قُرْبِكَ ابْنِ  
وَاسْقِنَا مِنْ شَرَابِ نُسُكِكَ وَاتِنَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

## الْمَجْلِسُ الرَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ

## چوبیسویں مجلس

اس بیان میں کہ تدبیر و علم الہی میں دخل نہ دیا جائے اور اس کے سامنے تسلیم خم کر دیا جائے

۱۲ ذی حجہ ۱۲۵۵ھ ہجری کو صبح کے وقت اتوار

کے دن خاتقاہ شریف میں ارشاد فرمایا :

حق تعالیٰ کی تدبیر و علم میں اپنے نفسوں اور خواہشوں اور اپنی طبیعتوں کو شریک نہ بناؤ۔ اپنے اور غیر کے معاملات میں حق تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرو۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کے بارے میں حق عز وجل کے ساتھ موافقت کرو اور اللہ کے بارے میں غلطی کی موافقت نہ کرو جو ٹوٹا ہوا ٹوٹ گیا۔ جوڑا جو جڑ گیا۔ حق عز وجل کے ساتھ موافقت کرنا اس کے نیک بندوں کی موافقت کرنے والوں سے سیکھ۔ علم عمل کے لیے بنایا گیا ہے نہ محض یاد کرنے اور مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے لیے خود علم سیکھ اور اس پر عمل کر بعدہ دوسروں کو سکھا۔ جب تو علم پڑھے گا پھر اس پر عمل کرے گا تو علم تیری طرف سے کلام کرے گا اگرچہ تو خاموش رہیگا تو عمل کی زبان سے اس سے زیادہ کلام کرے گا کہ زبان علم سے کلام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا رحمتہ اللہ علیہم اجمعین جس کا دیکھنا تجھے نفع نہ دے اس کا وعظ تجھے نفع نہیں دے سکتا۔ جو شخص کہ اپنے علم پر عمل کرے والا ہوتا ہے تو وہ اس علم سے خود بھی نفع لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُكْرَةُ الْأَحْدِيَا لِرَبِّهَا رَابِعَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ ثَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَثَمْسٍ مِائَةٍ لَا تَشَارِكُوا الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَنْدِيرِهِ وَعَلَيْهِ بِفُؤُسِكُمْ وَأَهْوِيَّتِكُمْ وَطِبَاعِكُمْ وَاتَّقُوهُ فِيكُمْ وَفِي غَيْرِكُمْ عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَافِقِ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تَوَافِقْهُ فِيهِ إِنْ كَسَرَ مِنْ إِنْ كَسَرَ وَانْجَبَرَ مِنْ إِنْجَبَرَ تَعَلَّمُوا مُوَافَقَةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ الْمُوَافِقِينَ أَلْعَلُّكُمْ جُعِلَ لِلْعَمَلِ لَا لِمَجَرَّدِ الْحِفْظِ وَإِيرَادِهِ عَلَى الْخَلْقِ تَعَلَّمُوا وَاعْمَلُوا ثُمَّ عَلِمُوا غَيْرَكُمْ إِذَا عَلِمْتُمْ ثُمَّ عَمِلْتُمْ تَكَلَّمُوا الْعِلْمُ عَنْكُمْ وَإِنْ سَكَتَ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ الْعَمَلِ أَكْثَرِمَتَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَ لِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَنْفَعُكَ لِحُظُّهُ لَا يَنْفَعُكَ وَ عَظْمَةُ الْعَامِلِ يَعْلَمُهُ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ هُوَ غَيْرُهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطِيعُنِي بِمَا يَشَاءُ

عَلَى قَدَرٍ أَحْوَالِ الْحُصُونِ عِنْدِي وَإِلَّا  
فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ عَرَضِيٌّ لَكُمْ  
مَبْدُوءٌ وَمَا لِي وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَإِنْ  
كَانَ لِي شَيْءٌ فَهَذَا أَمْنُكُمْ مِنْهُ مَا  
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سِوَى التَّصِيحَةِ أَنْصَحُكُمْ  
لِلْعَدُوِّ وَجَلَّ لَا لِي وَافِقُ الْقَدَرِ وَإِلَّا  
يَقْصِمُكُمْ أَمْرٌ مَعَهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ وَ  
الآن حَرَكَةُ كُنْ بَارِكًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى  
أَنْ تَرَحَّلَكَ وَيُرْدِفَكَ خَلْفَهُ  
بِكَلَامِهِ أَمْرُ الْقَوْمِ الْكَسْبُ يَأْخُذُونَ  
مِنَ الدُّنْيَا عَلَى قَدَرِ الْحَاجَةِ بِيَدِ  
الشَّرْعِ حَتَّى إِذَا عَجَزَتْ مَبَانِيهِمْ عَنِ  
الْكَسْبِ وَجَاءَ التَّوَكُّلُ فَخَلَّتْ عَلَى  
قُلُوبِهِمْ وَقَيَّدَ جَوَارِحَهُمْ جَاءَتْهُمْ  
أَقْسَامُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَهْنَةً مُكْفَأَةً  
مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا عَنَاءٍ الْوَاحِدُ  
مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي الْآخِرَةِ يَتَلَبَّسُ  
بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ عَلَى غَيْرِ إِزَادَةٍ مِنْهُ  
بَلْ يُوَافِقُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ  
كَمَا وَافَقَهُ فِي التَّلَبُّسِ بِالْأَقْسَامِ  
الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا يُوقِيهِمْ  
أَقْسَامُهُمْ دُنْيَا وَآخِرَةً لِأَنَّهُ كَيْسٌ  
يُظْلَمُ بِالْعَبِيدِ

يَا عَلَّامُ عَلَى قَدَرِ هِمَّتِكَ تُعْطَى  
أَبْعَدُ عَمَّا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَقْلِبُكَ

کیونکہ اللہ عزوجل میرے پاس حاضر ہونے والوں کے حالات  
کے اندازہ کے موافق جو کچھ چاہتا ہے مجھ سے کلام کر دیتا  
ہے ورنہ میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے کیونکہ  
تم میں عمل نہیں میری ابرو اور مال سب تمہارے واسطے خرچ  
کی گئی ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں اگر میرے پاس کچھ ہے  
تو میں اس کو تم سے روکتا نہیں ہوں میرے اور تمہارے درمیان  
میں سوائے خیر خواہی و نصیحت کے اور کچھ نہیں ہے میں تم کو محض  
اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں نہ اپنے فائدہ کے لیے تو تقدیر  
کے ساتھ موافقت کرو ورنہ وہ تیری گردن توڑ دے گی۔ تو اُس  
کے ساتھ اُس کے اختیار پر چل ورنہ وہ تجھے ذبح کر ڈالے گی تو  
اُس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ تجھ پر رحم  
کرے اور تجھے اپنا ردیف بنا لے اور ادب اللہ کے معاملے  
کی ابتدا کسب ہوتی ہے۔ وہ بمقدار حاجت دنیا کو شریعت  
کے ہاتھوں سے لیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اُن کے  
اعضاء ظاہری کسب سے عاجز ہو جاتے ہیں اور اُن کو  
توکل حاصل ہو کر اُن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور اُن کے  
اعضاء کو جگر بند کر دیتا ہے (وہ فکر دنیا سے قطعاً غافل  
ہو جاتے ہیں) تو اُن کو مقسوم دنیوی کفایت و خوشگواہی کے ساتھ  
بلا مشقت و تکلیف برابر اُمتار رہتا ہے مقررین خدا میں سے  
ہر ایک آخرت میں بغیر اپنے ارادہ و خواہش کے جنت کی نعمتیں حاصل  
کرے گا مثلاً دیگر امور کے وہ اس میں بھی حق عزوجل کی موافقت کرے  
گا۔ جیسے کہ اُس نے دنیا میں اقسام دنیوی کے حاصل کرنے میں خدا  
کی موافقت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اُن کو دنیا و آخرت میں ان کے پورے  
پورے حصے دیتا ہے کیونکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا انہیں ہے اے غلام تجھے تیرا  
ہمت کی مقدار دیا جائیگا تو جتنی ہمت کرے گا اتنا پائیگا تو اپنی ہمت کو

حَتَّى تَتَقَرَّبَ مِنْهُ مِمَّنْ عِنْدَكَ وَ عَنِ  
الْخَلْقِ وَقَدْ رَفَعْتَ الْحُحْبُ بَيْنَكَ  
وَبَيْنَ رَيْكَ عَمَّا وَجَلَّ قَالَ كَيْفَ  
أَمُوتُ مِمَّنْ عَنْ مُتَابَعَةِ نَفْسِكَ وَهُوَ  
هُوَ الْكَ وَطَبِيعِكَ وَعَادَاتِكَ وَ عَنِ  
مُتَابَعَةِ الْخَلْقِ وَاسْبَابِهِمْ وَ أَيْسَ  
مِنْهُمْ وَ انْتَرَكِ الشَّرْكَ بِهِمْ وَ عَنِ  
طَلَبِ شَيْءٍ سِوَى الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ  
اجْعَلْ أَعْمَالَكَ كُلَّهَا يُوْجِئُ اللَّهُ عَمَّا وَ  
جَلَّ لَا يَطْلُبُ نِعْمَةً إِنْ صَحَّ بِتَدْبِيرِهِ  
وَقَضَائِهِ وَ أَعْمَالِهِ فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا  
فَقَدْ مِمَّنْ عِنْدَكَ وَ كَيْفِيَّتُ بِهِ يَصِيرُ  
قَلْبُكَ مَسْكَنَهُ يُعْتَلِيهِ كَيْفَ نِشَاءُ  
يَصِيرُ فِي كَعْبَةٍ قُرْبِهِ مُتَمَسِّكًا  
بِاسْتَارِهَا ذَاكِرًا لَهُ تَائِسِيًّا لِمَا سِوَاهُ  
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْيَوْمَ وَعَدَّا يُفْنَايْكَ  
عِنْدَكَ وَ عَنِ غَيْرِكَ وَ عَنِ كُلِّ مَا  
سِوَاهُ مَعَ حِفْظِ حَدِّ وَدِ الشَّرْعِ قُرْبُ  
الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ جَنَّةُ الْقَوْمِ وَ بَعْدُهُمْ  
عَنْهُ تَارُهُمْ لَا يَرْجُونَ إِلَّا هَذِهِ  
الْجَنَّةَ وَلَا يَخَافُونَ إِلَّا هَذِهِ النَّارَ  
أَيُّ غِلٍّ لِلنَّارِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَخَافُوا  
مِنْهَا هِيَ تَسْتَعِيثُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ  
وَتَهْرُبُ مِنْهُ فَكَيْفَ لَا تَهْرُبُ مِنْ

قلب کے ساتھ ماسوی اللہ سے دُور کرے یہاں تک کہ تو حق  
عزوجل سے نزدیک ہو جائے تو اپنی ذات اور مخلوق کی طوط  
سے مر جائے کہ وہ پرے سے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل  
ہیں اٹھائیے جائیں۔ اگر کوئی کہے میں کیسے مروں تو جواب یہ  
ہوگا کہ تو اپنے نفس و خواہش و طبیعتوں و عاداتوں اور خلق کی تابعداری  
اور اسباب کی تابعداری سے مر جا۔ خودی چھوڑ دے اور ان سب  
سے ناامید ہو جا اور ان کے ساتھ شرک کو چھوڑ دے اور غیر  
خدا سے خواستگاری کو چھوڑ دے۔ تو اپنے تمام کام خالصتہ  
لوجہ اللہ کر۔ نہ طلبِ نعمت کے لیے۔ تو تدبیر و تقدیر و افعال  
الہی پر راضی ہو جا۔ جب تو ایسا کرے گا تو تو اپنے نفس سے  
مر جائے گا اور حق تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو جائیگا۔ تیرا  
قلب اس کا مسکن ہو جائے گا وہ اس کو جس طور سے چاہے  
گا الٹ پلٹ کرے گا تو اس کے کعبہ قرب میں ٹھہر کر اس کے  
پردوں کو کپڑے ہوئے اس کی یاد کرنے والا اس کے غیر کو  
بھول جائے گا۔ آج جنت کی کبھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے  
اور کل یہ تیرے اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود اور  
کل ماسوی اللہ سے فنا ہو جانا ہے جو کہ حدود شرعیہ  
کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ اولیاء اللہ کی جنت  
قرب الہی ہے اور ان کی دوزخ خدا سے دُوری  
وہ سوائے اس جنت کے کسی شے کی امید داری  
نہیں کرتے اور نہ وہ اس دوزخ کے سوا کسی آگ سے  
ڈرتے ہیں ہر وقت وہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں ان  
کے پاس کھوٹ ہی کیا ہے جو دوزخ سے ڈریں دوزخ تو خود دوزخ  
سے فریاد ہی کرتی ہے اور اس سے بھانپتی ہے پھر بھلا وہ مجبورین

و غلصین سے کیسے نہ بھاگے گی۔ مسلمان کا دنیا و آخرت میں کیا بھی اچھا حال ہے۔ وہ دنیا میں اس کے بعد کہ اسے معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہے کسی حالت میں بھی رہے کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ یہاں بھی اترتا ہے اپنا مقسوم حاصل کر لیتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے جدھر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے وہ نور الہی سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے اس کے پاس ظلمت ہے ہی نہیں۔ اس کا کل اشارہ خدا ہی کی طرف ہوتا ہے اور پورا پورا اعتماد و توکل اسی خدا پر ہوتا ہے۔ تم مسلمانوں کو ایذا دینے سے بچو کہوں کہ وہ ایذا دینے والے کے بدن میں زہر اور اس کی محتاجی و سزا اور عذاب کا سبب ہے۔ اے اللہ عزوجل اور اس کے مخصوص بندوں سے جاہل تو ان کی غیبت و بدگوئی کا مزہ مت چکھ۔ پس وہ یقیناً قاتل زہر ہے تو اپنے آپ کو ان کی بدگوئی سے بچا، پھر بچا، ڈر، پرہیز کر، دور نہ تو ہلاک ہو جائے گا اور ان کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کا ایسا مددگار ہے جو ان پر غیرت کرتا ہے۔ اے منافق تیرے قلب میں نفاق کا شک و البستہ ہو گیا ہے اور وہ تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن گیا ہے۔ تو توحید و اخلاص کو اپنی تمام حالتوں میں استعمال کر تو شفا پالے گا اور نیر اشک جاتا ہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بہت زائد حدود و شریعہ کو توڑتے ہو اور اپنے تقویٰ کی زنجیروں کو پارہ پارہ کرتے ہو اور اپنے توحید کے کپڑوں

الْمُحْلِصِينَ الْمُخْلِصِينَ مَا أَحْسَنَ حَالُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هُوَ فِي الدُّنْيَا لَا يُبَالِي عَلَى آتِي حَالٍ كَانَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَاضٍ عَنْهُ أَيْنَمَا سَقَطَ لَقَطٌ قِسْمَهُ وَرَضِيَ بِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ نَظَرَ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا ظُلْمَةَ عِنْدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ رَأَى إِلَيْهِ كُلُّ اعْتِمَادِهِ عَلَيْهِ كُلُّ تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ إِحْدَرُوا مِنْ آذَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَّهَمُوا سَمًّا فِي جَسَدِ مُؤْذِيهِ وَسَبَبَ لِفَقْرِهِ وَعُقُوبَتِهِ يَا جَاهِلًا يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَخَوَّصِهِ لَا تَذُقْ طَعْمَ غَيْبَتِهِمْ فَاتَّهَمُوا سَمًّا قَاتِلٌ إِيَّائَكَ ثُمَّ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِسُوءٍ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ نِجَامٍ عَلَيْهِمْ يَا مُنَافِقًا قَدْ عَلِقَ شَكُّكَ الْبُغْيَاقَ فِي قَلْبِكَ وَقَدْ مَلَكَ ظَاهِرَكَ وَبَاطِنَكَ اسْتَحْمِلِ التَّوْحِيدَ وَالْإِحْلَاصَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَقَدْ شَفِيتَ وَذَهَبَ نَشْكُكَ مَا أَكْثَرَ مَا تَخْرُقُونَ حُدُودَ الشَّرْعِ وَتُتَرِّقُونَ ذُرُوعَ كُفْرٍ كُفْرًا وَ

اے حدیث صحیح میں وارد ہے من اذی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب جو میرے ولی کرتے ہیں میں اس کو اپنے سے لڑائی کرنے کی اجازت دیتا ہوں یعنی ولی کو ت نے والا، ان کا ادب نہ کرنے والا، ان کا گستاخ خدا سے لڑنے والا عذاب سرمدی کا مستحق ہے، وہ دنیا و آخرت میں رسوا و ذلیل ہے اولیاء و انبیاء کی گستاخی کرنے والے، ان کو اپنے جیسا سمجھنے والے ذرا سوچیں سمجھیں، توبہ کر لیں۔ اب بھی وقت ہے واللہ الموتی ۱۲ قادری غفرلہ

تَجَسُّوْنَ نِيَابَ تَوْحِيدِكُمْ وَتُطْفِئُوْنَ  
نُورَ اِيْمَانِكُمْ وَتَتَبَخُّضُوْنَ اِلَى  
رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ اَفْعَالِكُمْ  
وَاحْوَايِكُمْ اِذَا اَقْلَحَ الْوَاحِدُ مِنْكُمْ  
وَعَمِلَ طَاعَةً فَهِيَ مَسْئُوبَةٌ بِالْعَجَبِ  
وَرُؤْيَاةِ الْحَقِّ وَطَلَبِ الْحَمْلِ مِنْهُمْ  
عَلَيْهَا مَنْ ارَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَّعْبُدَ اللّٰهُ  
عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَدْتَرِلْ عَنِ الْخَلْقِ فَإِنَّ  
رُؤْيَاهُمْ لِلْاَعْمَالِ مُبْطِلَةٌ لِّهَا عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ  
قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْعَزَلَةِ فَاتَّهَا عِبَادَهُ  
وَإِنَّهَا دَابُّ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
عَلَيْكُمْ يَا اِيْمَانِ ثُمَّ يَا اِيْمَانِ ثُمَّ  
الْفَتَاءَ وَالْوُجُودَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا يَكُ وَلَا يَغْيُرُكَ مَعَ حِفْظِ الْحُدُودِ  
مَعَ اِنْصَاءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رِضَا الْمَمْلُوكِ الْمَسْمُومِ  
الْمَقْرُودِ لَا كَرَامَةَ لِمَنْ يَقُولُ غَيْرَ  
هَذَا هَذَا الَّذِي فِي الْمَصَاحِفِ وَ  
الْاَكْوَادِ كَلَامُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرُفٌ  
بَيِّدُهُ وَطَرُفٌ بِاَيْدِيْنَا عَلَيْكَ يَا اللّٰهُ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالا نَقْطَاعُ إِلَيْهِ وَالتَّعَلُّقُ  
بِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ مَوْدَةَ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَيَحْفَظُكَ فِي الْحَيَاةِ وَ  
الْمَمَاتِ وَيَدُبُّ عَنْكَ فِي جَمِيعِ

کو ناپاک کرتے اور اپنے نور ایمان کو بجھاتے ہو اور اپنی  
تمام حالتوں اور فعلوں میں خدا کے دشمن بنے چلے جاتے ہو  
تم میں سے جب کوئی فلاح پانا ہے اور نیک عمل بھی  
کرتا ہے تو وہ محب دریا اور مخلوق کے دکھاوے کے  
ساتھ اور مخلوق سے تعریف کی طلب کے ساتھ ملا ہوا ہوتا  
ہے آہ صد آہ۔ تم میں سے جو کوئی اللہ عزوجل کی عبادت  
کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ خلق سے الگ رہے  
مخلوق کا دکھاوا عملوں کو باطل کرنے والا ہے نبی صلی  
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے  
ارشاد فرمایا تم تنہائی کو لازم پکڑو کیوں کہ وہ عبادت ہے  
اور تم سے پہلوں کا جو کہ صاحبین تھے۔ یہی طریقت رہا  
ہے۔

اے صاحبو! تم ایمان کو لازم پکڑو پھر یقین کرنے  
کو پھر فنا کو اور وجود کو اللہ عزوجل کے ساتھ نہ کہ اپنے  
اور اپنے غیر کے ساتھ۔ یہ سب حدود شرعیہ کی حفاظت  
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور قرآن  
مجید کی خوشنودی کے ساتھ ہو جو کہ سنا گیا ہے پڑھا  
گیا ہے جو اس کے سوا کہے اس کے لیے عزت و کرامت  
نہیں یہی قرآن جو کا غدول اور پٹھوں کے درمیان ہے  
کلام الہی ہے جس کا ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے  
اور ایک کمرہ رہا ہمارے ہاتھ میں اس میں تغیر و  
تبدل نہیں ہو سکتا تو اللہ عزوجل کو لازم پکڑو اور سب سے  
قطع کر کے اسی کی طرف جھک جا۔ اسی سے علاقہ پیدا  
کر وہ تیرے لیے دنیا و آخرت کی مشقتوں سے کفایت کرے  
گا اور موت و زندگی میں تیری حفاظت فرمائے گا اور تمام

الْأَحْوَالِ عَلَيْكَ بِهَذَا السَّوَادِ عَلَى  
الْبَيَاضِ إِحْدَاهُ حَتَّى يَخْتَدِمَكَ  
يَا خُذْ بِيَدِ قَلْبِكَ وَيُوقِفْهُ بَيْنَ  
يَدَيِ رَبِّهِ عَنَّا وَجَلَّ الْعَمَلُ بِهِ  
يُرِيْشُ جَنَاحِي قَلْبِكَ فَيُطَيِّرُ بِهِمَا  
إِلَى رَبِّهِ عَنَّا وَجَلَّ يَا مَنْ قَدْ لَبَسَ  
الصُّوْفَ الْبَيْسَ الصُّوْفَ لِيَسِرَّكَ ثُمَّ  
لِقَلْبِكَ ثُمَّ لِنَفْسِكَ ثُمَّ لِبَدَنِكَ  
بَدَايَةُ الزُّهْدِ مِنْ هُنَاكَ تَكُونُ  
لَا مِنْ الظَّاهِرِ إِلَى الْبَاطِنِ إِذَا صَفَا  
السِّرُّ تَعَدَّى الصَّفَاءُ إِلَى الْقَلْبِ وَ  
النَّفْسِ وَ الْجَوَارِحِ وَالْمَاكُولِ وَ  
الْمَكْبُوسِ وَ تَعَدَّى إِلَى جَمِيعِ أَحْوَالِكَ  
أَوَّلُ مَا يَعْتَرِدُ دَاخِلَ الدَّارِ فَإِذَا كَمَلَتْ  
عِمَارَتُهَا أَخْرَجَ إِلَى عِمَارَةِ الْبَابِ لَا  
كَانَ ظَاهِرٌ بِلَا بَاطِنٍ لَا كَانَ  
بِلَا خَالِقٍ لَا كَانَ بَابٌ بِلَا دَارٍ لَا كَانَ  
قِفْلٌ عَلَى خَوِيَّةٍ يَا دُنْيَا بِلَا آخِرَةٍ يَا  
خَلْقًا بِلَا خَالِقٍ جَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ  
لَا يَنْفَعُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَلْ يَضُرُّكَ  
هَذَا الْمَتَاعُ الَّذِي مَعَكَ مَا يُبْتَاعُ  
مِنْكَ هُنَاكَ مَتَاعُكَ الرِّيَاءُ وَ النِّفَاقُ  
وَالْمَعَاصِي وَ هِيَ شَيْءٌ لَا يُنْفَقُ فِي سَوْقِ  
الْآخِرَةِ مُحَمَّدٌ ﷺ تَأْوَلِ الْإِسْلَامَ مُشْتَقٌّ  
مِنْ الْإِسْلَامِ وَأَنْ تَسْلِمَ أَمْرُ اللَّهِ

حالتوں میں تجھ سے مصیبتوں کو دفع کرتا ہے گا تو اس سیاحی  
کو جو سیدی پر ہے لازم پکڑ یعنی لکھے ہوئے پر عمل کر تو  
اس کی خدمت کرتا کہ وہ تیری خدمت کرے وہ تیرے  
قلب کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے رب عزوجل کے روبرو  
لے جا کر کھڑا کرے۔ قرآن پر عمل کرنا تیرے قلب کے  
دونوں بازوؤں پر پر لگا دے گا۔ پس تو ان کے ذریعہ سے  
اپنے رب عزوجل کی طرف اڑ جائے گا۔ اے صوف پش  
تزاؤ! اپنے باطن کو صوف پہنا پھر اپنے قلب کو پھر  
اپنے نفس کو، پھر اپنے بدن کو۔ ابتدا زہد کی اسی طریقت  
سے ہوتی ہے نہ کہ ظاہر سے طرف باطن کے جب باطن  
صاف ہو جائے گا تو یہ صفائی قلب اور نفس اور اعضا  
ظاہری اور طعام و لباس کی طرف متعدی ہو جائے گی اور  
تیری تمام حالتوں کی طرف پہنچ جائے گی۔ اولاً گھر کا اندرونی  
حصہ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو دروازہ  
کی عمارت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ظاہر بغیر باطن کے  
کچھ نہیں۔ دروازہ بغیر عمارت اندرونی کچھ نہیں۔ بیچ ہے  
قفل ویرانہ پر لگانا کچھ نہیں، بیچ ہے۔ اے دنیا کو  
بغیر آخرت اور اے خلق کو بغیر خالق کے طلب کرنے  
والے جس مشغلہ میں تو ہے یہ تجھے قیامت میں کچھ نفع  
نہ دے گا بلکہ یہ تجھے ضرر پہنچائے گا۔ یہ سامان جو  
تیرے پاس ہے وہاں تجھ سے خرید نہ کیا جائے گا۔  
تیرا اسباب تو ریا اور نفاق اور گناہ ہیں اور یہ ایسی  
چیز ہے جو آخرت کے بازار میں رواج نہ پاسے گی  
اولاً تو اسلام کو درست کر لے پھر کچھ حاصل کر۔ اسلام  
استسلام سے مشتق ہے (جس کے معنی ہیں اپنے

عَزَّ وَجَلَّ إِلَى اللَّهِ تَسَلَّمَ فَهَسَكَ إِلَيْهِ  
وَتَعَتَّمَهُ عَلَيْهِ وَتَنَسَّى حَوْلَكَ وَقَوْلَكَ  
وَمَا فِي يَدَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا تَنَفَّهْتُ فِي  
طَاعَتِهِ تَعْمَلُ بِالطَّاعَاتِ وَتُسَلِّمُهَا  
إِلَيْهِ وَتَنْسَاهَا كُلُّ عَمَلِكَ جَوْزٌ  
فَارِغٌ كُلُّ عَمَلِكَ لَا إِخْلَاصَ فِيهِ  
فَهُوَ قَشْرٌ لَا لُبَّ فِيهِ خَشَبَةٌ مَمْدُودَةٌ  
جَسَدٌ بَلَا دُورٍ صَوْرَةٌ بِلَا مَعْنَى وَ  
هَذَا عَمَلُ الْمُنَافِقِينَ.

يَا غَلَامُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ إِلَهٌ وَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّانِعُ لَهَا وَالْمُتَصَرِّفُ  
فِيهَا فَمَنْ رَأَى هَذَا تَخَلَّصَ مِنْ  
التَّقْيُّدِ بِالْأَلَةِ وَرَأَى الْمُتَصَرِّفَ فِيهَا  
الْوَقُوفُ مَعَ الْخَلْقِ بَعْضُهُ وَكُلْفَةٌ  
وَكَرْبٌ وَالْوَقُوفُ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ فَرَحُهُ وَطَيْبُهُ وَيَعْمَهُ أَنْتَ  
مُنْقِطِعٌ عَنْ جَادَّةٍ مَنْ تَقَدَّمَ لَا  
تَسْبَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَدْ قَنَعْتَ بِرَأْيِكَ  
وَلَمْ تَجْعَلْ لَكَ أَسْتَاذًا يُعْرِفُكَ وَ  
يُؤَدِّبُكَ يَا مُنْقِطِعًا عَنِ الظَّرِيقِ  
يَا مَنْ تَتَلَا عِبَ بِهِ شَيْطَانِينَ الْإِنْسِ  
وَالْجِنِّ يَا عَبْدَ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالطَّبَعِ  
وَيُحَكِّكَ قَدْ خَرَسْتَ اسْتَعِثْ  
إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ارْجِعْ إِلَيْهِ بِأَقْدَامِ  
السَّادِمِ وَالْإِعْتِزَارِ حَتَّى يُخَلِّصَكَ مِنْ

آپ کو دوسرے کے حوالہ کر دینے کے، استسلام یہ ہے  
کہ تو اپنے معاملہ کو اور نفس کو اللہ کی طرف سپرد کر دے اور اسی  
پر بھروسہ کر لے اور اپنی طاقت اور قوت کو بھول جائے اور  
جو کچھ دنیا سے تیرے پاس ہے اس کو طاعت الہی میں  
خرچ کر دے تیرا عمل تیری طاعتوں کے ساتھ ہو اور ان بات  
کو تو اسی کی طرف سپرد کر دے اور ان کو بھول جائے۔ تیرا تو  
کل عمل ایک خالی اخروٹ کی طرح ہے۔ تیرے جس  
عمل میں اخلاص نہ ہو وہ بغیر مغز کا پھلکا ہے یا لکڑی ہے  
جس کو کھینچ کر لایا گیا ہو۔ بلا روح کا جسم اور بغیر معنی کی صورت ہے اور یہ  
مناظروں کا مل ہے۔ اے غلام! کل مخلوق ایک آلہ ہے اور اللہ  
عز و جل کا ریگڑ اور اس میں تصرف کرنے والا ہے پس جس نے  
یہ اعتقاد رکھا اور سمجھا وہ آلہ کی قید سے رہا ہوا اور اس نے  
تصرف کرنے والے پر نظر رکھی مخلوق کے ساتھ ٹھہرنا دشمنی  
اور تکلیف اور مشقت ہے اور حق عز و جل کے ساتھ ٹھہرنا  
فرحت اور خوشی اور نعمت ہے۔ تو اگلے بزرگوں کے  
راستہ سے علم کی گئی کرنے والا ہے اور جدا ہے تیرے اور  
ان کے درمیان میں کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ تو نے تو اپنی  
رہے پر قناعت کر لی ہے اور اپنے لیے کوئی استاد مقرر  
ہی نہیں کیا جو تجھے معرفت سکھائے اور طریقہ بتائے۔ اے  
راستہ سے جدا ہو جانے والے اے وہ شخص جس کے ساتھ  
شیطان انس و جن کے کھیل کرتے ہیں۔ اے نفس و خواہش  
کے بندے تجھ پر افسوس ہے تو تو قطعی گونگا بن گیا ہے  
اپنے حق عز و جل سے استغاثہ کر اس کی طرف نہایت  
اور عذر کے فتروں سے رجوع کر دوڑتا کہ وہ تجھ  
کو تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھپڑا دے۔

أَيُّدِي أَعْدَائِكَ وَيُنْجِيكَ مِنْ لُجَّةِ  
بَحْرٍ هَلَاكَكَ تَفَكَّرْ فِي عَاقِبَةِ مَا أَنْتَ  
فِيهِ وَقَدْ سَهَلَ عَلَيْكَ تَرْكُهُ أَنْتَ  
مُسْتَظِلٌّ بِشَجَرَةِ الْعَفْلَةِ أُخْرِجْ مِنْ  
ظِلِّهَا وَقَدْ رَأَيْتَ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَ  
عَرَفْتَ الطَّرِيقَ شَجَرَةُ الْعَفْلَةِ تُرْبِي  
بِمَاءِ الْجَهْلِ وَشَجَرَةُ الْيَقْظَةِ وَ  
الْمَعْرِفَةِ تُرْبِي بِمَاءِ الْفِكْرِ وَشَجَرَةُ  
التَّوْبَةِ تُرْبِي بِمَاءِ التَّوْبَةِ وَشَجَرَةُ  
الْحُبَّةِ تُرْبِي بِمَاءِ الْمَوَاقِفَةِ

يَا غُلَامُ قَدْ كَانَ لَكَ بَعْضُ الْعُدْرِ  
وَأَنْتَ صَبِيٌّ وَ شَابُّ إِلَى الْإِنِّ وَتَدَّ  
قَارِبَتِ الْأَرْبَعِينَ أَوْ قَدْ جَاوَزَتْهَا وَ  
أَنْتَ تَلْعَبُ بِمَاءِ لَعَبِ الصِّغَارِ أَحْذَرُ  
مِنْ مُخَالَطَةِ الْجُهَالِ وَالْخُلُوةِ  
بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَصْحَابِ الشُّبُوحِ  
الْمُتَّقِينَ وَاهْرُبْ مِنَ الشَّيْبَابِ  
الْجَاهِلِينَ قُمْ نَاحِيَةً عَنِ الْقَوْمِ  
فَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْكَ فَكُنْ بِهِ  
كَالطَّبِيبِ لَهُمْ كُنْ لِلْخَلْقِ كَالْأَبِ  
الشَّافِعِ عَلَى أَوْلَادِهِ أَكْثَرُ مِنْ طَاعَةِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ طَاعَتَهُ ذَكَرَهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
فَقَدْ ذَكَرَهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَ

اور تجھ کو ہلاکت کے دریا کے بھنور سے نجات دے  
دے۔ تو جس امر میں پھنسا ہوا ہے اس کا انجام سوچ۔  
تیرے لیے اس کا چھوڑ دینا آسان ہے تو غفلت کے  
پیڑ کے نیچے سایہ لینے والا ہے تو اس کے سایہ سے  
ہٹ جا۔ بیشک تجھے آفتاب کی روشنی نظر آجائے  
گی اور تجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ غفلت کا جھاڑ  
جہالت کے پانی سے پرورش کیا جاتا ہے اور معرفت  
وبیداری کا جھاڑ فکر کے پانی سے اور محبت کا جھاڑ ثنوت  
کے پانی سے پرورش کیا جاتا ہے۔

اے غلام! اس حالت میں کہ تو بچہ اور جوان تھا تجھے  
کچھ غمزدگی تھا۔ اب کہ تو قریب چالیس برس کے ہو گیا یا  
اس سے بھی کچھ بڑھ گیا ہے اور تو وہی کھیل کھیلے جاتا  
ہے جو کہ بچے کھیلے ہیں۔ تو جاہلوں کے ساتھ میل جول  
اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ خلوت نشینی سے بچ۔  
مٹانچیں متیقن کی صحبت اختیار کر اور جاہل نوجوانوں کی صحبت  
سے بھاگ۔ قوم سے ایک کنارہ ہو کہ کھڑا ہو جا  
پس ان میں سے جو کوئی بھی تیری طرف آئے تو ان کا  
طیب و معالج بن جا تو خلق کے لیے ایسا ہو جا  
جیسا کہ شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ عز و جل کی  
طاعت زیادہ کر۔ بے شک اس کی طاعت اس کا  
یاد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے  
اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے بے شک  
اللہ کو یاد کیا۔ اگرچہ اس کی نماز اور روزہ

اور فرائض قرآن کم تر ہی ہوا اور جس نے اُس کی نافرمانی کی وہ بے شک اللہ کو بھول گیا اگرچہ اُس کی نماز اور روزہ اور قرأت قرآن بہت زیادہ ہو مومن اپنے رب عزوجل کے لیے تابعداری کرنے والا اُس کے ساتھ موافقت کرنے والا صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی لذتوں اور کلام اپنے طعام اور لباس اور تمام تصرفات کے وقت توقف کرتا ہے اور منافق ان تمام حالتوں میں کسی طرح بھی پروا نہیں کرتا۔

اے غلام تو اپنے معاملہ میں تفکر کر اور جو خوبی تجھ میں نہ ہو اُس کو اپنے نفس کے لیے ثابت و حاصل کرنے تو طلب میں سچا ہے اور نہ صدیقی اور نہ محب نہ موافقت کرنے والا اور نہ راضی برضا اور نہ عارف باللہ۔ تو معرفت الہی کا مدعی تو بن گیا یہ تو مجھے بتا اُس کی معرفت کی علامت کیا ہے تو اپنے قلب میں کون کون سی حکمتیں اور نور دیکھتا ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے جانشین ابدالوں کی کیا علامت ہے تیرا پرگان ہے کہ ہر شخص جس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور اُس سے گواہ اور دلیل کچھ طلب نہ کیے جائیں گے۔ اور اُس کی دنیا کو سوٹی پر نہ گھسا جائے گا۔ منجملہ عارف باللہ کی صفتوں کے ایک صفت اُس کی یہ ہے کہ تحقیق وہ تمام افسوس پر صبر کرتا ہے اور وہ تمام حالتوں میں قضاء و تقدیر الہی پر اپنے اور اپنے اہل و عیال اور تمام خلق کے لیے راضی رہتا ہے۔

اے غلام اللہ عزوجل اور اُس کے غیر کی محبت دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ اللہ نے کسی آدمی کے درمیان

صِيَامُهُ وَقِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ وَمَنْ عَصَاهُ قَدْ تَسِيءَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ الْمُؤْمِنُ مُطِيعٌ لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ مُوَافِقٌ لَهُ صَابِرٌ مَعَهُ يَقِفُ عِنْدَ حُطُوطِهِ وَكَعِيدِهِ وَآكِلُهُ وَلَبْسِهِ وَجَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ وَالْمُنَافِقُ لَا يُبَالِي بِهِذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ۔

يَا غَلَامُ تَفَكَّرْ فِي أَمْرِكَ وَحَاقِقْ نَفْسَكَ مَا لَيْسَ فِيكَ مَا أَنْتَ صَادِقٌ وَلَا صَدِيقٌ وَلَا مُحِبٌّ وَلَا مُوَافِقٌ وَلَا رَاحِلٌ وَلَا عَارِفٌ قَدْ اذْعَيْتَ الْمَعْرِفَةَ يَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلُوبِي مَا عَلِمَهُ مَعْرِفَتِهِ أَلَيْشَ تَرَى فِي قَلْبِكَ مِنَ الْحِكْمِ وَالْأَكْوَادِ مَا عَلِمَهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَبْدَالِ أَنْبِيَائِهِ نَظُنُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ اذْعَى شَيْئًا سَلِمَ إِلَيْهِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُحَكَّمُ وَيُنَادَى عَلَى الْمَحَكَّمِ مِنْ حُمَلَةِ صَفَاتِ الْعَارِفِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ تَصِيدُ عَلَى الْأَفَاتِ وَيَرْضَى بِجَمِيعِ أَقْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاقْتِدَارِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ۔

يَا غَلَامُ حُبُّ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَحُبُّ غَيْرِهِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ

میں دو قلب نہیں بنائے۔ دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ خالق و مخلوق دونوں ایک قلب میں جمع ہو سکتے ہیں تو تمام فنا ہونے والی چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ تجھے ایسی شے حاصل ہو جائے جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ تو اپنے نفس اور مال کو خرچ کرتا کہ تجھے جنت حاصل ہو جاوے اللہ عزوجل نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں اُن کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ بعدہ اپنے قلب ماسوی اللہ کی رغبت و درگزرے تاکہ تجھے قرب الہی حاصل ہو جائے اور تو دنیا و آخرت میں اُس کی صحبت میں رہے۔ اے خدا کے دوست اور اُس کی تقدیر کے ساتھ جیسے وہ تجھے گھوماوے گھومتا رہ اور اپنے قلب کو جو کہ قرب الہی کا مسکن ہے پاک و ستھر رکھ اُس کو ماسوی اللہ سے صاف کرے اور تو قرب کے دروازہ پر توجید و اخلاص و سچائی کی تلوار لے کر بیٹھ جا اور اُس کو سوائے خدا کے کسی کے لیے نہ کھول۔ اور تو اپنے قلب کے گوشوں میں سے کسی گوشہ کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ کر۔ اے بہو و لعب میں مشغول ہونے والو! میرے پاس بہو و لعب نہیں ہے اے کھوکل چھلکا! میرے پاس سوائے مغز کے کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس تو بغیر نفاق کا اخلاص اور بغیر کذب کا صدق ہے۔ اللہ عزوجل تمہارے قلب سے تقویٰ و اخلاص چاہتا ہے۔ وہ تمہارے ظاہر اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا اللہ عزوجل نے فرمایا اللہ کو قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز نہ پہنچیں گے اور لیکن اُس کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ و اخلاص اختیار کرو۔ اے اولاد آدم جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس تمہاری شکر گزاری اور تمہارا

مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ وَالْخَالِقُ وَالْمَخْلُوقُ لَا يَجْمَعَانِ اَمْثَلُكَ الْاَشْيَاءُ الْفَانِيَّةُ حَتَّى يَحْصَلَ لَكَ شَيْءٌ لَا يَغْنَى اَبْدُلُ نَفْسِكَ وَمَالِكَ حَتَّى تَحْصَلَ لَكَ الْجَنَّةُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ثُمَّ اَبْدُلُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّعْبَةَ فَيَمَّا سِوَاهُ حَتَّى يَحْصَلَ لَكَ الْقُرْبُ مِنْهُ وَتَكُوْنُ فِيْ صُحْبَتِهِ دُنْيًا وَاٰخِرَةً يَّا حُبُّ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ دُرٌّ مَعَ قَدْرِهِ كَيْفَمَا دَارَ وَ طَهَّرْ قَلْبَكَ الَّذِي هُوَ مَسْكَنُ قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ اَكْنُسُهُ عَمَّا سِوَاهُ وَاقْعُدْ عَلَى بَابِهِ يَسِيْفُ التَّوْحِيْدِ وَالْاِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَلَا تَفْتَحْهُ لِاحِدٍ غَيْرِكَ وَلَا تَشْعَلْ رَاوِيَةً مِنْ ذَوَايَا قَلْبِكَ بِغَيْرِهِ يَّا لَعَابِيْنَ مَا عِنْدِي لِعَبٍّ يَّا فَتْشُوْرُ مَا عِنْدِي سِوَى اللّٰهِ عِنْدِيْ اِخْلَاصٌ يَّلَا رِفَاقٍ وَصِدْقٌ يَّلَا كِذْبٍ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيْدُ التَّقْوٰى وَالْاِخْلَاصَ مِنْ قُلُوْبِكُمْ مَا يَنْظُرُ اِلٰى ظَاهِرِ اَعْمَالِكُمْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَبْنٰى اللهُ لِحُومِهِمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَبْنٰى لُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ يَّا بَنِيْ اٰدَمَ كُلُّ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَخْلُوْقٌ لَّكُمْ فَاَيْنَ شُكْرُكُمْ فَاَيْنَ

تقوا ای اور تمہارا اللہ کی طرف اشارہ اور تمہاری خدمتیں کہاں  
میں تم تھکتے نہیں۔ حالانکہ تم بغیر روح کے برابر عمل کر رہے ہو۔  
عملوں کے لیے روحیں ہیں اور وہ روحیں اخلاص ہے۔

تَقْوَاكُمْ وَاسْتَاذَاكُمْ إِلَيْهِ وَآخِزْكُمْ  
لَا تَعْمُوا وَتَعْمَلُوا أَعْمَالًا بِلَا أَرْوَاحٍ  
الْأَعْمَالُ لَهَا أَرْوَاحٌ وَهِيَ الْإِخْلَاصُ

## پچیسویں مجلس

## المجلس الخامس والعشرون

### زاہدوں کو دنیا سے کنارا کرنے کے بیان میں

۱۹ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ کو آپ نے ارشاد

فرمایا:

عبدی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب کوئی خوشنواپ  
کی ناک میں پہنچتی تھی تو آپ ناک کو بند کر لیتے تھے اور فرماتے  
تھے یہ بھی دنیا ہی سے ہے۔ اے اپنے قول و فعل سے زاہد کا  
دعویٰ کرنے والو! یہ تم پر حجت ہے تم نے زاہدوں کے سے  
پکڑے پہن لیے ہیں۔ اور تمہارے باطن رغبت اور دنیا پر حسرت  
بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان پکڑوں کو اتار ڈالتے اور اس  
رغبت کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کر دیتے تو تمہارے  
لیے البرز زیادہ اچھا تھا اور نفاق سے تم کو زیادہ دور لے  
جانے والا ہوتا۔ جو شخص کہ اپنے زہد میں سچا ہوتا ہے۔  
اُس کا مقصود اُس کی طرف اتنا ہے اور وہ اُس کو  
لے لیتا ہے وہ اپنے ظاہر کو اُس سے آراستہ  
کر لیتا ہے اور اُس کا قلب اُس کے اور اُس کے ہوا  
دوسری چیزوں سے بے رغبتی میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔  
اسی واسطے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
علیہ السلام اور تمام دیگر انبیاء علیہم السلام سے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تَاسِعِ عَشْرَةِ  
الْحِجَّةِ سَنَةِ ثَمَانِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ  
عَنْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ  
إِذَا شَمَّ رَائِحَةً حَبِيبَةً سَدَّ أَنْفَهُ وَقَالَ  
هَذَا مِنَ الدُّنْيَا هَذَا حُبُّهُ عَلَيْكُمْ  
يَا مَدَّ عَيْنَ الزُّهْدِ يَا قُوَايِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ  
قَدْ تَلَبَّسْتُمْ بِثِيَابِ الزُّهَادِ وَبَوَاطِنِكُمْ  
مَلَأَ رَغْبَةً وَحَسْرَةً عَلَى الدُّنْيَا لَوْ  
خَلَعْتُمْ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَطَهَرْتُمُ الرِّغْبَةَ  
الَّتِي فِي قُلُوبِكُمْ لَقَدْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ  
وَأَبْعَدَ لَكُمْ مِنَ النِّفَاقِ الصَّادِقِ فِي  
زُهْدِهِ تَجِيءُ إِلَيْهِ أَقْسَامُهُ وَيَتَنَاوَلُهَا  
يَتَلَبَّسُ بِهَا وَفِي غَيْرِهَا وَلِهَذَا نَبِيْنَا  
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ آزْهَدَ مِنْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ  
مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَبَبٌ إِلَى مَنْ دُنِيَاهُ  
ثَلَاثُ الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ  
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ أَحَبَّ ذَلِكَ مَعَ  
زُهْدِهِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ  
مِنْ قَسَمِهِ قَدْ سَبَقَ بِهِ عِلْمُ رَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ يَتَنَاءَلُهُ إِمْتِنَانًا  
لِلْأَمْرِ وَامْتِنَانًا لِأَمْرِ طَاعَةٍ فَكُلُّ  
مَنْ يَتَنَاءَلُ أَقْسَامَهُ عَلَى هَذِهِ  
الصِّفَةِ فَهُوَ فِي طَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ  
مُتَكَبِّرًا بِالدُّنْيَا كِلَاهَا زُهَادًا  
عَلَى قَدَامِ الْجَهْلِ اسْمَعُوا وَصَدِّقُوا  
وَلَا تُكْذِبُوا تُعَلِّمُوا هَذَا حَتَّى لَا  
تَرُدُّوا عَلَى الْقَدْرِ يَجْهَلِكُمْ كُلُّ مُجَاهِلٍ  
بِالْعِلْمِ مُسْتَعِينٍ بِرَأْيِهِ قَابِلٍ كَلَامَ  
نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَشَيْطَانِهِ فَهُوَ عَبْدُ  
إِبْلِيسَ تَائِبٌ لَهُ قَدْ جَعَلَهُ شَيْخَهُ -  
يَا جُهَاًلًا وَيَا مُنَافِقِينَ مَا أَظْلَمَ  
قُلُوبَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ رَوَّاحِكُمْ وَمَا  
أَكْثَرَ لَقَافَةَ السِّنِّكُمْ تَوْبُوا مِنْ  
جَمِيعِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَاتَّزَكُوا الطَّعْنَ  
فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ  
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا تَعْدُوا عَلَيْكُمْ  
فِي تَنَاوُلِ الْأَقْسَامِ فَإِنَّهُمْ مَتَنَّا وَلَوْ  
بِالْأَمْرِ لَا بِالْهَوَى عِنْدَهُمْ شِدَّةٌ فِي  
جُحِيمِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشُّوقِ إِلَيْهِ

بہت زیادہ زاہد تھے۔ ہاں آپ نے خود ارشاد فرمایا۔  
تمہاری دنیا میں سے میری طرف تین چیزیں محبوب بنائی  
گئیں۔ خوشبو، عورتیں۔ اور نمازیں میری آنکھوں کی  
ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ حضور نے باوجود اس کے کہ تمام  
دنوی چیزوں سے بے رغبتی تھی۔ ان چیزوں کو اسی لیے  
محبوب سمجھا کہ آپ کے لیے یہ علم ازلی میں مقسوم ہو چکی  
تھیں پس اُن کا لینا حکم کی تعمیل کرنا ہوا۔ اور تعمیل حکم طاعت و  
عبادت ہے۔ پس ہر وہ شخص جو کہ اس طور پر اپنے مقسوم کو  
لے پس وہ طاعت ہی میں ہے۔ اگرچہ کل دنیا سے نفع حاصل  
کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے جہالت کے قدموں پر زاہد  
نہنے والوں سنو اور تصدیق کرو اور تکذیب نہ کرو اس زاہد کو  
نیکھو نہ کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے تقدیر کا رد نہ کرنے لگو۔  
جو شخص کہ علم سے جاہل ہو اور اپنی رائے پر استغناء کرنے  
والا اور اپنے نفس و خواہش و شیطان کے کلام کو قبول کرنے  
والا پس وہ ابلیس کا بندہ اور تابعدار ہے اُس نے شیطان کو اپنا  
شیخ مرشد بنالیا ہے۔ اسے جاہلو! اور اسے منافقو! تمہارے  
قلب کس قدر تاریک ہو گئے اور تمہاری بوسن کس قدر گھٹی ہو  
گئیں۔ اور تمہاری زباں درازی کلام کی سمجھتی کس قدر بڑھ گئی ہے۔  
ان تمام فضول باتوں سے جن میں تم مبتلا ہو تو تبرک و اور اللہ تعالیٰ اور  
اللہ تعالیٰ کے اُن اولیاء کے بارہ میں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے  
اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں طعنہ کرنے کو چھوڑ دو۔ اُن پر  
مقسوم و نبوی حاصل کرنے میں تم طعن سے پیش نہ آؤ کیونکہ وہ  
اس مقسوم کو ماتحت اسراہلی حاصل کرتے ہیں نہ ساتھ خواہش  
نفسانی کے اُن کے پاس اللہ عزوجل کی سمجھت نہ محبت و دوستی ہے  
اور اُس کا اشتیاق اُن کے پاس ماسوائے اللہ سے بے رغبتی ہے

اور کل سے ظاہر و باطن کا رخ پھیر لینا۔ اور لیکن اُن کے واسطے مقسوم حصہ ہیں جن کا مطابق تقدیر الہی اُن کو لینا ضرور ہے اُن پر سخت تر بلا اُن کا دنیا میں ٹھہرنا اور اُس میں اُن کا باقی رہنا اور اپنے مقسوم کو اُس سے حاصل کرنا اور اُن لوگوں کا جو حکم اللہ عز و جل کی تکذیب کرنے والے ہیں دیکھنا ہے۔

وَالْزُّهْدِ فِي مَا سِوَاهُ وَاعْرَاضِ الظَّاهِرِ  
وَالْبَاطِنِ عَنِ الْكُلِّ وَلَكِنْ لَهُمْ  
اَقْسَامٌ قَدْ سَبَقَ بِهَا الْعِلْمُ لَا بُدَّ لَهُمْ  
مِنْ تَنَاولِهَا اَشَدُّ اَلْبَلَاءِ عَلَيْهِمْ فَيَأْتِيهِمْ  
فِي الدُّنْيَا وَبَعَاثُهُمْ فِيهَا وَتَلْبُسُهُمْ  
بِاَقْسَامِهِمْ وَمُرُوءَتُهُمْ لِلْمَكْدِ بَيْنَ يَدَيْهِ  
عَرَّ وَجَلَّ وَلَهُمْ ۔

اے غلام تو جب تک اپنے نفس اور خواہشوں کا ساتھی ہے اور ان کے ساتھ قائم مخلوق سے کلام اُن کو وعظ سنانا چھوڑ دے کلام سے مراد کوارہ کیونکہ حق عز و جل جب تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو وہ اُس کو تیرے لیے مہیا کر دے گا۔ جب چاہے گا وہ تجھے زندہ کر دے گا۔ اور تجھے ثابت قدم کر دے گا اور تجھے کلام کا اہل بنا دے گا اُس صورت میں وہی خود ظاہر کرنے والا ہو گا نہ کہ تو۔ تو اپنے نفس اور اپنے کلام اور اپنی تمام حالتوں کو اُس کی طرف سپرد کر دے اور اُس کے کام میں مشغول ہو جا۔ تو عمل بغیر کلام۔ اخلاص بغیر ریا، توحید بلا شرک گناہی بلا ذکر خلوت بلا جلوت باطن بغیر ظاہر بن جا اور تو باطن کے ساتھ مشغول رہ اے جھوٹے بیدار ہو جا۔ تو حق تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے قول ایک نعت و ایک نستین میں تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ خطاب کی تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں حاضر سے خطاب ہے گویا تو یوں کہتا ہے کہ اے میرے نزدیک مجھ کو جاننے والے اے مجھ سے قریب اے میرے اوپر گواہ تم نماز اور غیر نماز میں اس نیت اسی حالت پر خطاب کیا کرو اور نہ ہو کہ کچھ کر دو کچھ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَا غُلَامُ اهْجُرِ الْكَلَامَ عَلَى  
الْخَلْقِ مَا دُمْتَ قَائِمًا مَعَ نَفْسِكَ  
وَهَؤَالِكَ مَثَ عَنِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْحَقَّ  
عَرَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَكَ لَا مِرْهِيَّاكَ لَهُ  
إِذَا شَاءَ اَنْشُرَكَ وَآهْلَكَ وَآثَبْتَكَ  
يَكُونُ هُوَ الْمُظْهِرُ لَا أَنْتَ سَلِمَ  
نَفْسَكَ وَكَلَامَكَ وَجَمِيعَ اَحْوَالِكَ  
إِلَى قَدَائِهِ وَاسْتَعِلْ بِالْعَمَلِ لَهُ كُنْ  
عَمَلًا بِلَا شَرِكٍ حُمُولًا بِلَا ذِكْرِ  
خَلْوَةً بِلَا جَلْوَةٍ بَاطِنًا بِلَا ظَاهِرٍ  
وَاسْتَعِلْ بِالْبَاطِنِ يَا بَاطِلًا لَا تَنْبَهُ  
أَنْتَ تُخَاطَبُ الْحَقُّ عَرَّ وَجَلَّ وَ  
لُشِيرُ إِلَيْهِ بِقَوْلِكَ إِيَّاكَ لَعَبْدُ وَإِيَّاكَ  
تَسْتَعِينُ هَذَا اِخْطَابُكَ لِخَاضِرٍ يَأْتِي  
خَاضِرًا عِنْدِي يَا عَالِمًا بِي فَرِيًّا مَيِّتِي  
يَا شَاهِدًا عَلَيَّ خَاطِبُوهُ فِي صَلَاتِكُمْ  
وغيرها بِهَذِهِ النِّيَّةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ  
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَعْبُدِ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ  
فَاِنَّهُ يَرَاكَ .

يَا غُلَامُ صُفِّ قَلْبَكَ بِاَكْلِ  
الْحَلَالِ وَقَدْ عَمَفَتْ رَبِّكَ عَرَّةٌ وَجَلَّ  
صُفِّ لُفْمَتِكَ وَخِزْفَتِكَ وَقَلْبِكَ وَ  
قَدْ صِرْتَ صَافِيًا لِلتَّصَوُّفِ مُشْتَقًّ  
مِّنَ الصَّفَاءِ يَا مَنْ لُبِّسَ التَّصَوُّفِ  
الصُّوْفُ الصَّادِقُ فِي تَصَوُّفِهِ يَصْفُو  
قَلْبَهُ عَمَّا سِوَى مَوْلَاهُ عَرَّةٌ وَجَلَّ  
وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَحِيءُ بِتَغْيِيرِ الْخَرَقِ  
وَتَصْفِيرِ الْوُجُوهِ وَجَمْعِ الْأَكْتَافِ  
وَلَفْلَقَةِ اللِّسَانِ بِحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ  
وَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ بِالتَّسْبِيحِ وَ  
التَّهْلِيلِ وَإِنَّمَا يَحِيءُ بِالصِّدْقِ فِي  
طَلَبِ الْحَقِّ عَرَّةٌ وَجَلَّ وَالزُّهْدِ فِي  
الدُّنْيَا وَالْخِرَاجِ الْخَلْقِ مِنَ الْقَلْبِ  
وَتَجَرُّدِهِ عَمَّا سِوَى مَوْلَاهُ عَرَّةٌ وَجَلَّ  
عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ  
قُلْتُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي إِلَهِي لَا تَبْتَعِنِي  
مَا يَنْتَعِنِي وَلَا يَصُرُّكَ وَكَثُرَتْ  
ذَلِكَ ثُمَّ بَسْتُ قَدْ آيَتْ فِي السَّامِ  
كَانَ قَائِلًا يَقُولُ لِي وَأَنْتَ أَيْضًا لَا  
تَمْتَنِعْ مِنْ عَمَلٍ مَا يَنْفَعُكَ وَامْتَنِعْ  
مِنْ عَمَلٍ مَا يَصُرُّكَ نَصَحُوا النَّسَابَكُمُ  
مَنْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو عبادت الہی اس طرح کیا کر گویا تو اُس کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو  
اُس کو نہیں دیکھتا پس وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔

اے غلام تو اپنے قلب کی اکل حلال سے صفائی کر تو  
اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو اپنے لقمہ اور اپنے لباس اور  
قلب کو صاف کرے تو تصوف میں خود صاف ہو جائے گا  
تصوف لفظ صفا سے مشتق ہے نہ کہ صوف پہن لینے سے،  
سچا صوفی جو اپنے دعوائے تصوف میں صادق ہوتا ہے۔

اپنے قلب کو ماسوی اللہ سے صاف کر لیتا ہے اور یہ  
تصوف ایسی چیز ہے جو محض کپڑے کے رنگ برنگ کرنے  
اور چہروں کو زرد کر لینے اور کندھوں کے ہلانے اور تیری  
زبان سے صالحین کی حکایتیں بیان کر دینے اور تسبیح تہلیل  
میں انگلیاں ہلانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے حصول

کے لیے حق عزوجل کی سچی طلب اور دنیا سے بے رغبتی اور  
خلق کا قلب سے نکال ڈالنا اور اس کو ماسوی اللہ  
سے خالی کر لینا ضروری ہے۔ بعض اولیاء اللہ

سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے  
بعض راتوں میں یہ دعا کی اے خدا مجھ کو ان چیزوں  
سے جو مجھے نفع دیں اور تجھے ضرر پہنچیں محروم  
نہ کر اور یہ چند بار کہا پھر میں سو رہا پس میں نے  
خواب میں دیکھا کہ گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے۔

اور تو بھی اُس چیز کے کرنے سے جو تجھے نفع  
دے باز نہ رہ اور جس چیز کا کرنا تجھے نقصان  
کرے اُس سے باز رہ تم اپنی نسبتوں کو حضور  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

مَنْ صَحَّحَتْ تَبَعِيَّتُهُ لَهُ فَقَدْ صَحَّحَتْ نَسَبُهُ  
وَأَمَّا بِقَوْلِكَ أَنَا مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ  
مُتَابَعَةٍ لَا يَنْفَعُكَ إِذَا اتَّبَعْتُمُوهُ فِي  
أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ كُنْتُمْ مَعَهُ فِي  
صُحْبَتِهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ إِذْ سَمِعْتُمْ  
قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَنَا كُمُ الرَّسُولُ  
وَحُدُودُهُ وَمَا تَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ هَاهُ  
إِمْتِثِلُوا مَا أَمَرَكُمُ وَاتَّبِعُوا عَمَّا نَهَاكُمُ  
قَدْ قَرَّبْتُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي الدُّنْيَا بِعُلُوبِكُمْ وَفِي الْآخِرَةِ  
بِنُفُوسِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ.

يَا زُهَّادُ أَمَا تَحْسِبُونَ

تَزْهَدُونَ بِأَنْفُسِكُمْ وَأَهْوِيَّتِكُمْ  
تَسْتَقِلُّونَ بِرَأْيِكُمْ أَتَّبِعُوا وَاصْبَحُوا  
الْمَشَائِخَ الْعَارِفِينَ يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
الْعَالِمِينَ الْعَامِلِينَ الْمُقْبِلِينَ عَلَى  
الْخَلْقِ يَلِسَانَ النَّصِيحَةِ وَتَوَالِ  
الطَّمَعِ مِنْ إِعْرَاضِ قُلُوبِهِمْ عَنْكُمْ  
وَإِقْبَالِهَا عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ هُمْ  
عَلَيْهِ مُقْبِلُونَ وَعَنْ غَيْرِهِ مُعْرِضُونَ.

يَا غَلَامُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ بِقَلْبِكَ

قَبْلَ أَنْ يَنْفَعَكَ خَلْفُكَ قَدْ قَنَعَتْ مِنْ أَحْوَالِ  
الضَّالِّينَ بِالْكَلامِ فِيهَا وَالْقَبِيحِ لَهَا كَالْقَابِضِ عَلَى  
الْمَاءِ يَقْنَعُ يَدَهُ فَلَا يَرَى فِيهَا شَيْئًا.

وَيَحْكُ التَّشْيِيقِ وَادِي الْحُسْنِ

صحیح کرو جس کسی کا اتباع آپ کے ساتھ درست ہو گیا اُس کی  
نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہوئی لیکن تیرا محض یہ قول کہ میں حضور کا  
امتی ہوں بغیر متابعت کے تجھے نفع نہ دے گا جب تم حضور  
کی آپ کے اقوال و افعال میں تابعداری کرو گے تو تم دار آخرت  
میں حضور کی محبت و مصاحبت میں رہو گے جب تم نے یہ  
قول الہی سنا دھا انکم الرسول الخ جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم دیں پس اُس کو قبول کرو اور جس سے وہ تم کو منع  
کریں پس اُس سے باز رہو تو تم اس کے حکموں کی تعمیل کرو اور  
ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہو۔ ایسا کرنے پر بے شک تم  
دنیا میں اپنے قلوب سے اور آخرت میں اپنے قلوب و اجساد  
دونوں سے اپنے رب عزوجل سے قریب ہو جاؤ گے۔

اسے زاہد و تم یہ اچھا نہیں کرنے کہ تم اپنے نفوس و  
خواہشات سے زاہد بنتے ہو اور اپنی رائے پر اکتفا کرتے  
ہو اُس کو مستقل سمجھتے ہو تم تابعداری کرو اور ان مشائخین و  
عارف باللہ حضرات کی محبت اختیار کرو جو کہ عالم باعمل ہیں  
اور نصیحت کی زبان سے خلق پر توبہ ہونے والے۔ اور انہوں  
نے اپنے قلوب کو تم سے پیچ کر اللہ کی طرف متوجہ کر کر طمع  
دنیاوی کو زائل کر دیا ہے۔ وہ خدا ہی کی طرف متوجہ  
ہونے والے ہیں۔ اور غیر اللہ سے روگردانی کرنے  
والے۔

اے غلام تو اپنی ہستی سے فنا ہونے سے پہلے اپنے قلب کے  
ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو جس شخص صاحبین کے حالات  
ان کے مذکورہ اور تمنا پر تناعت کر لی ہے نیری مثال ویسی ہی ہے  
جیسے پانی کو مٹی میں لینے والا جب ہاتھ کھولے گا اس میں کچھ نہ رہے ایسا مت بن  
تجھ پر افسوس محض تمنا و آرزو تو حماقت کا جنگل ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَيَاكُمْ وَالتَّيْبَتِ فَإِنَّهُ وَإِدَى الْحَقِيقِ  
 كَعَمَلِ أَعْمَالِ أَهْلِ الشَّرِّ وَتَتَمَتَّتِي  
 دَرَجَاتِ أَهْلِ الْخَيْرِ مَنْ غَلَبَ وَ  
 جَاؤُهُ خَوْفُهُ تَزُنَّدَقَ وَمَنْ غَلَبَ  
 خَوْفُهُ رَجَاءُهُ قَنَظَ وَالسَّلَامَةُ فِي  
 إِعْتَدَ إِلَهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُرِينَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ  
 وَرَجَاءُهُ لَا عَتَدَ لَا عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةُ  
 اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَفِيَّانَ  
 الثَّوْرِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ  
 فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ بِكَ فَقَالَ وَضَعْتُ إِحْدَى  
 قَدَمِي عَلَى الصِّبْرَاطِ وَالْأُخْرَى فِي  
 الْجَنَّةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَقَدْ كَانَ  
 فَقِيرًا زَاهِدًا وَرِعًا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ  
 عَمِلَ بِهِ أَعْطَاهُ حَقَّهُ بِالْعَمَلِ وَأَعْطَاهُ  
 الْعَمَلُ حَقَّهُ بِإِلَاحْلَاصٍ فِيهِ وَأَعْطَاهُ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ رِضَاهُ بِالْقَصْدِ إِلَيْهِ  
 وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ رِضَاهُ بِالْمُتَابَعَةِ لَهُ رَحْمَةُ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم  
 اپنے آپ کو آرزو سے بچاؤ کیونکہ وہ توحاقت کا جھگڑ ہے  
 تو عمل تو بڑے لوگوں کے سے کرتا ہے اور اچھے لوگوں کے  
 درجوں کا متمنی ہے جس کی آرزو و تمنا خوف پر غالب ہوئی بیدین  
 بن گیا۔ اور جس کا خوف امید و تمنا پر غالب ہوا وہ  
 نا امید ہوا جو کہ کفر سے سلامتی دونوں کی برابری میں ہے  
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر  
 ایمان دار کا خوف اور اس کی امید کا وزن کیا جائے  
 تو البتہ دونوں میں برابری ہوئی چاہیے۔ بعض اولیاء اللہ  
 سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت سفیان  
 ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا  
 میں نے دریافت کیا کہ اللہ عزوجل نے تمہارے ساتھ  
 کیا معاملہ کیا جواب دیا میں نے اپنے ایک پاؤں کو (بوجہ  
 خوف) پل حراط پر رکھا اور دوسرے کو (براہمید رحمت)  
 جنت میں سلام اللہ علیہ البتہ سفیان ثوری فقیر زاہد  
 تھے۔ انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ علم کو اس کا حق اخلاص  
 کے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے کہ انہوں  
 نے اللہ کی طرف قصد کیا وہی ان کا مقصود تھا اپنی رضائے  
 عطا فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی  
 عطاء کی اس وجہ سے کہ سفیان علیہ الرحمۃ نے آپ کی

یعنی خوف الہی اس کے غضب سے اور امید واری اس کی رحمت سے دونوں ہونا چاہیے نہ  
 صرف خوف نہ محض امید واری اسی وجہ سے فرمایا اگر اسے ایمان خوف ورجا کے درمیان میں ہے۔  
 دل مسلم میں خوف و امید دونوں کی ضرورت ہے۔ تادری غفرلہ ہر کہ ایمان از عذاب حق بود  
 بیست و مومنی کافر مطلق بود۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الصَّالِحِينَ  
وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلٌّ مَّنْ لَّمْ يَتَّبِعِ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْخُذْ  
شَرِيعَتَهُ فِي يَدِهِ وَالْكِتَابَ الْمُنْتَلَىٰ  
عَلَيْهِ فِي الْبَيْلِ الْأُخْرَىٰ وَلَا يَصِلُ فِي  
طَرِيقِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَهْلِكُ وَ  
يُهْلِكُ يَصِلُ وَيُضِلُّ هُمَا دَلِيلَانِ  
إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْفَرَانُ دَلِيلُكَ  
إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالسُّنَّةُ دَلِيلُكَ  
إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  
نُفُوسِنَا وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَعَدَّ أَب  
النَّارِ

متابعت کی۔ اُن پر اور تمام نیک بندوں پر اور اُن کی  
میت میں ہم سب پر خدا کی رحمت نازل ہو جس  
نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت نہ کی اور اُن  
کی شریعت کو ایک ہاتھ میں اور قرآن مجید کو دوسرے  
ہاتھ میں نہ لیا پس وہ اپنے راستہ میں خدا تک نہ  
پہنچا۔ خود بھی ہلاک و گمراہ ہو گا۔ اور دوسروں کو  
بھی ہلاک و گمراہ کرے گا قرآن و حدیث دونوں  
دو دلیلیں ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف قرآن اللہ  
کی طرف دلیل ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کی طرف دلیل ہے۔ اے اللہ  
تعالیٰ ہمارے اور ہمارے نفسوں کے درمیان  
دوری ڈال دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں  
بھلائی عطا کر اور ہم کو عذاب دوزخ سے  
بچا آمین۔

## چھیسویں مجلس

## المجلس السادس والعشرون

### مصیبتوں کے چھپانے کے بیان میں

۲۰ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ ہجری کو صبح کے وقت اترار

کے دن خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا:

حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق  
اپنے ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ  
مصیبتوں کا چھپانا ہے۔ اے خلق کی طرف اپنی مصیبتوں  
کی شکایت کرنے والے تجھ کو مخلوق سے شکایت

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالزَّبَاطِ وَالْعَشْرَيْنِ  
ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ مَنْ كُنُوْا الْعَرْشِ كِثْمَانِ  
الْمَصَائِبِ يَا مَنْ يَشْكُو إِلَى الْخَلْقِ  
مَصَائِبَهُ أَيْشٌ يَنْفَعُكَ شَكْوَاكَ

إِلَى الْخَلْقِ لَا يَنْعَمُونَكَ وَلَا يَصْرُونَكَ  
وَأَذَا عَمَدَتْ عَلَيْكُمْ وَأَشْرَكَتْ  
فِي بَابِ الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَّ يَبْعِدُ وَنَكَ  
وَفِي سَخَطِهِ يُوقِعُونَكَ وَ عَنْهُ  
يَحْجُبُونَكَ أَنْتَ يَا جَاهِلُ تَدَّعَى  
الْعِلْمَ مِنْ جُمْلَةِ جَهْلِكَ طَبَبُكَ  
الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ رَبِّهَا عَرَّ وَ جَلَّ  
تَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنَ الشَّدَايِدِ بِشُكْلِكَ  
إِلَى الْخَلْقِ

وَيَحْكُ إِذَا كَانَ هَذَا الْكَلْبُ  
الشَّرُّهُ يَتَعَلَّمُ حِفْظَ الصَّيْدِ وَيَتْرُكُ  
فَهْمَهُ وَطَبْعَهُ وَهَذَا الطَّائِرُ أَيْضًا  
بِالتَّعْلِيمِ يُخَالِفُ طَبْعَهُ وَيَتْرُكُ مَا  
كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَكْلِ الصُّيُودِ الَّتِي  
تَجْعَلُ لَهُ فَنَفْسُكَ أَوَّلَى بِالتَّعْلِيمِ  
عَلِمَهَا وَفَهَمَهَا حَتَّى لَا تَأْكُلَ دِينَكَ  
وَتَتَرَكَكَ وَلَا تَخُونُ فِي أَمَانَاتِ  
الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَّ الْمُودَعَةُ عِنْدَهَا  
دَيْنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ  
لَا تُصَحِّبُهَا قَبْلَ تَعْلِيمِكَ لَهَا إِذَا  
تَعَلَّمَتْ وَفَهَمَتْ وَاطْمَأَنَّتْ حِينَئِذٍ  
أَسْتَصْحِبُهَا أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ لَا تُفَارِقُكَ  
فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِذَا اطْمَأَنَّتْ صَارَتْ  
حَلِيمَةً عَالِمَةً رَاضِيَةً بِمَا يَأْتِيهَا  
الْقَدَرُ بِهِ مِنَ الْأَسْهَامِ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ

کرنا کیا نفع دے گا نہ وہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ  
وہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ اور جب تو ان پر  
اعتماد کرے گا پس مشرک ہو جائے گا اور وہ تجھے  
اللہ تعالیٰ کے دروازہ سے دور کر دیں گے اور  
تجھے کو اُس کے عذاب میں ڈال دیں گے اور اُس  
سے تجھے حجاب میں، ڈال دیں گے تو خدا سے  
محبوب ہو جائے گا۔ اسے جاہل تو علم کا دعویٰ کرتا ہے  
تیرا دنیا کو غیر اللہ سے طلب کرنا منجلی تیری جہالتوں کے ایک جہات  
تو اپنی مصیبتوں سے غلامی مخلوق کی طرف شکایت کر کر طلب کرتا ہے  
تجھ پر افسوس جب کہ یہ حریص کتنا تعلیم پا کر شکار کی  
حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنی حرص و طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے  
اور یہ پرتدہ باز شکار بھی تعلیم کی وجہ سے اپنی طبیعت کی  
مخالفت کرتا ہے اور اپنی شکار کھالینے کی عادت جو  
پہلے سے تھی چھوڑ دیتا ہے پس تیرا نفس تو تعلیم  
کے لیے زیادہ لائق ہے تو اپنے نفس کو سکھا اور  
سمجھاتا کہ وہ تیرے دین کو نہ کھالے اور پارہ  
پارہ نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اُن امانتوں  
میں جو اُس کے پاس امانت رکھ دی گئی ہیں  
خیانت نہ کرے۔ نفس کے پاس مومن کا دین  
اُس کا گوشت و خون ہے تو نفس کی تعلیم دینے  
سے پہلے مصاحبت نہ کر جب نفس تعلیم پا کر  
اور سمجھنے لگے اور مطمئن ہو جائے اُس وقت  
اُس کا ساتھ دے۔ جہاں کہیں بھی متوجہ ہو تمام حالتوں میں تو  
اُس سجدائی نہ کر اُس کے ساتھ رہ جب نفس مطمئن ہو بار عالم بن جائے گا  
اور اُس تقدیری قسم پر جو اُن کی طرف آئے گا رضی ہو جائیگا تو گمبوں کے

لَبَّ الْحُطُوطِ وَخَبَرَ الشَّعِيرِ تَرْتِفَعُ  
لِلْحُطُوطِ تَصِيرُ لَنْ لَا تَأْكُلَ أَحَبَّ  
أَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَأْكُلَ مُسَاعَدَةً لَكَ  
عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ وَالْإِثَارِ  
يَنْتَقِلُ طَبْعُهَا تَصِيرُ سَخِيَّةً كَرِيمَةً  
زَاهِدَةً فِي الدُّنْيَا رَاغِبَةً فِي الْآخِرَةِ  
نَحْمُ إِذَا زَهَدْتَ فِي الْآخِرَةِ وَطَلَبْتَ  
الْمَوْلَى طَبْعُهُ مَعَكَ وَسَادَتْ مَعَهُ  
قَلْبِكَ إِلَى بَابِهِ فَحِينَئِذٍ تَحِيَّيْهَا  
السَّائِقَةُ تَقُولُ كُلُّ يَأْمَنْ لَمْ يَأْكُلْ  
وَأَشْرَبَ يَأْمَنْ لَمْ يَشْرَبِ الْمَرِيضُ  
الْعَاقِلُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا يَدَ الطَّيِّبِ أَوْ  
بِأَمْرِهِ مَعَ دَوَامِ آدِيهِ وَالْقَبُولُ مِنْهُ  
وَتَرْكُ الشَّرِّ فِي حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ  
يَا شَرُّهُ يَا مُسْتَعْجِلُ طَعَامٍ قَدْ خُلِقَ  
لَكَ مَنْ يَقْدِرُ يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ لِبَاسُ  
وَمَسْكَنٌ وَمَرْكُوبٌ وَمَنْكُوحٌ فَتَدُ  
خُلِقَ لَكَ مَنْ يَقْدِرُ دَيْنًا وَلَهُ وَ  
يَلْبَسُهُ غَيْرُكَ أَلَيْشَ هَذَا الْبَهْلُ  
مَا لَكَ تَبَاتٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا إِيْمَانٌ  
وَلَا تَصْدِيقٌ بِوَعْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يَا زُؤْكَارِي إِذَا عَمِلْتَ مَعَ رَجُلٍ  
كَرِيمٍ فَتَأَدَّبْ وَلَا تَطْلُبِ التَّرْكَ  
الْأَجْرَةَ فَهَمَّا يَحْصُلَانِ لَكَ مِنْ  
غَيْرِ طَلَبٍ وَسَوْءِ آدَبٍ إِذَا رَاكَ

میدہ اور جو کی روٹی میں فرق نہ کرے گا۔ لذات نفسیانہ  
اُس سے دور ہو جائیں گی۔ اُس کو فائزہ کربا بہ نسبت کھانا  
کے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ فعل خیر و طاعت پر اور  
ایشیا پر وہ تیری موافقت کرنے والا ہو جائے گا اُس کی  
طبیعت بدل جائے گی وہ سخی و کریم۔ دنیا میں۔ بے رغبتی  
کرنے والا آخرت کی طرف راغب ہو جائے گا زال بعد  
جب تو آخرت کا راغب ہو گا اور مولیٰ کو طلب کرے گا  
تو وہ بھی تیرے ساتھ اُس کا طالب بنے گا اور اُس کے  
دروازہ کی طرف چلے گا پس اُس وقت تیرے پاس سابقہ  
الہی امر تقدیری اُسے گا تجھ سے کہے گا اے فائزہ کرنے  
والے کھانے کی پیاس پانی پی۔ عقل مند بعض طبعیہ کے ہاتھ  
ایسا اُس کے حکم سے ہی کھاتا ہے اور ہمیشہ اُس کا ادب کرتا  
اور اُس کی بات کو قبول کرتا اور اپنی حرص کو اُس کی موجودگی  
اور رغبت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اے حریص اور اے  
اُس کھانے کے جلد طلب کرنے والے جو تیرے لیے  
پیدا کر دیا گیا ہے تیرے سوا اُس کے کھانے کی کون  
قدرت رکھتا ہے تیرے سوا اُسے کوئی نہیں کھا سکتا جو  
لباس اور مکان اور سواری اور عورت تیرے لیے پیدا کیا  
گیا ہے اُس کے استعمال اور لینے پہنے پر تیرے سوا کون  
قدرت رکھتا ہے تیرا یہ جہل اور نادانی کیسی ہے۔ تجھے  
ثبات و عقل اور ایمان اور وعدہ الہی کی تصدیق نہیں جس کا  
اُس نے وعدہ کر لیا ہے۔ اے جلد باز مزدور جب تو کسی  
کریم آدمی کے ساتھ معاملہ کرے پس اُس کا ادب کر اور  
ترک و اجرت کو طلب نہ کر پس وہ دونوں تجھے بغیر طلب اور  
بغیر ادبی کے حاصل ہو جائیں گے جب وہ کریم تجھ کو دیکھے گا کہ

قَدْ تَرَكْتَ الْفَرَّكَ وَالظَّلَبَ وَسُوءَ  
الْأَدَبِ مَيِّزَكَ عَلَى أَصْحَابِكَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ مَعَكَ وَمَا فَعَلَكَ وَأَقْعَدَكَ  
مُسْتَرْفًا عَلَيْهِمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَصْحَبُ  
مَعَ الْإِعْتِرَاضِ وَالْمَنَازَعَةِ وَإِنَّمَا  
يَصْحَبُ مَعَ حُسْنِ الْأَدَبِ وَسَكُونِ  
الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّائِمَةِ  
كُلُّ مَنْ وَافَقَ الْقَدَارَ دَامَتْ لَهُ الصُّحْبَةُ  
مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْعَارِفُ بِاللَّهِ  
الْعَالِمُ بِهِ قَائِمٌ مَعَهُ لَا مَعَ غَيْرِهِ  
مُوَافِقٌ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ حَتَّى بِهِ مَيِّتٌ  
عَنْ غَيْرِهِ.

يَا غُلَامُ إِذَا تَكَلَّمْتَ فَتَكَلَّمْ  
بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَإِذَا سَكَتَ فَاسْكُتْ  
بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ كُلُّ مَنْ لَا يُقَدِّمُ  
النِّيَّةَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَلَا عَمَلَ لَهُ  
أَنْتَ إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ سَكَتَ فَانْتَ  
فِي ذَنْبٍ لَا تَكَ لَا تُصَحِّحُ نِيَّتَكَ  
سَكُوتَكَ وَكَلَامَكَ بِغَيْرِ الشَّرَةِ  
عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَصِيقَةِ الْأَرْزَاقِ  
تَتَغَيَّرُونَ عَلَيْهِ لِاجْلِ لِقْمَةٍ وَعِنْدَ  
كُسْرٍ عَنْ مَنْ تَكْفُرُونَ كُلَّ نِعْمَةٍ لِاجْلِ زَوَالِ قُوَّةِ نِعْمَةٍ  
كَانَتْكُمْ جَبَّارُونَ تَتَحَكَّمُونَ عَلَيْهِ  
إِفْعُلْ وَلَا تَفْعَلْ وَلِمَ فَعَلْتَ وَكَانَ  
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا هَذَا بَعْدُ وَ

تو نے حرص اور طلب اور بے ادبی کو چھوڑ دیا ہے۔  
تو وہ تجھ کو دو سنگ مروروں پر جو تیرے ساتھ کام کرتے  
ہیں متنازع بنائے گا اور تجھے خوش کر دے گا اور تجھ کو بعض  
نسبت اُن کے بلند جگہ پر بٹھا دے گا۔ حتیٰ عزوجل اعتراض  
اور منازعت کا ساتھی نہیں ہے وہ تو حسن ادب اور  
سکون ظاہر و باطن اور موافقت دائمی کا ساتھ دینے والا  
ہے۔ ہر وہ شخص جو تقدیر کی موافقت کرتا ہے اُس کو حتیٰ  
عزوجل کی مصاحبت ہمیشہ نصیب رہتی ہے۔  
عارف باللہ اللہ کا جاننے والا اُس کے ساتھ قائم رہنے  
والا ہے نہ اُس کے غیر کے ساتھ۔ اُسی کے ساتھ موافقت  
کرنے والا ہے نہ اُس کے غیر کے لیے۔ اُسی کے ساتھ  
زندہ اور غیر اللہ سے مردہ۔

اے غلام جب تو کلام کرے تو نیک نیتی کے ساتھ  
کلام کر اور جب تو سکوت کرے پس تیرا سکوت نیک نیتی  
کے ساتھ ہو۔ جو نیت قبل عمل پہلے سے نہیں کر لیتا اس کا  
کچھ عمل نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جب تو کلام کرے گا۔  
یا سکوت کرے گا پس تو گناہ میں مبتلا رہے گا۔ کیونکہ  
تیری نیت درست ہی نہیں ہوتی۔ تیرا سکوت و کلام  
دونوں بغیر نیت کے ہیں۔ حالتوں کے تغیر اور رزق کی  
متغی پر ایک لقمہ کی وجہ سے تم رنگ بدل ڈالتے ہو خدا سے  
بگڑ جاتے ہو اور ایک غرض پوری نہ ہونے پر تمام نعمتوں  
کی ناشکری کرنے لگتے ہو۔ گویا کہ تم اُس پر  
جبر کرنے والے ہو اُس پر حکم دیتے ہو کہ ایسا  
کر دو اور ایسا نہ کر دو اور ایسا کیوں کیا اور یوں  
کرنا چاہیے تھا۔ یہی خدا سے دوری اور

غصہ اور راندہ درگاہ ہونا ہے تو کون ہے تو تو ایک ذلیل و حقیر  
پانی سے پیدا کیا گیا ہے اپنی حقیقت دیکھ۔ اپنے رب  
عزوجل کے لیے تواضع کرو اور اس کے سامنے جھک جا۔  
جب تیرے پاس تقویٰ نہیں تو تو اللہ عزوجل کے نزدیک  
اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک کریم نہیں ذلیل ہے۔  
دنیا حکمت ہے اور آخرت سراسر قدرت۔

اے قوم تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں تم خدائے  
تعالیٰ کی سپردگی میں ہو۔ اور تم کو خیر نہیں تم مائل ہوا اپنے دلوں  
کی آنکھیں کھولو جب تمہارے گھر میں کوئی جماعت حاضر ہو  
پس اہل خانہ کلام کا شروع کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کا کلام  
جواب ہو اور ایسا سوال نہ کرے جو مفید نہ ہو۔ خدا کا ایک  
جاننا فرض ہے۔ حلال روزی طلب کرنا فرض ہے۔  
ضروری علم کا طلب کرنا جس کے بغیر چارہ نہیں فرض ہے۔  
عمل میں اخلاص کرنا فرض ہے۔ عمل پر معاوضہ کا چھوڑنا  
فرض ہے کوئی عمل بدلہ کی نیت سے نہ کرے تو ناسقوں  
اور منافقوں سے دور بھاگ اور نیک و سچے آدمیوں سے  
میل کر جب کوئی امر تجھ پر مشکل ہو اور تو صالح اور منافق  
کے درمیان فرق نہ کر سکے یہ نہ جانے کون صالح ہے کون  
منافق۔ پس تو رات میں کھڑا ہو اور دو رکعت نماز نفل پڑھ  
پھر یہ دعا مانگ یا رب دلنی الخ اے رب میرے مجھے  
اپنی مخلوق میں سے صالح لوگوں کی طرف رہنمائی کر جو  
کہ مجھ کو تیری طرف راہبری کریں اور وہ مجھ کو تیرے  
کھانے سے

مَقَّتٌ وَ طَرْدٌ مِّنْ أَنْتَ يَا أَبَنَ آدَمَ  
أَنْتَ مَخْلُوقٌ مِّنْ هَآءِ قَهْلِينَ تَوَاضَعُ  
لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَ ذَلِّ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ  
تَقْوَى فَلَسْتَ بِكَرِيمٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَ لَا عِنْدَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ  
الدُّنْيَا حِكْمَةٌ وَ الْآخِرَةُ كُلُّهَا قُدْرَةٌ  
يَا قَوْمُ عَلَيْكُمْ رُقْبَاءُ أَنْتُمْ فِي  
تَوَكُّيلِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَا عَنْكُمْ  
فِي خَبَرِ كُوتُوا عَقْلَاءَ افْتَحُوا أَعْيُنَ  
قُلُوبِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ  
جَمَاعَةٌ فَلَا يَكُنْ مُبْتَدِئًا يَا لَكَلَامٍ  
بَلْ يَكُونْ كَلَامُهُ جَوَابًا وَ لَا يَسْأَلُ  
عَمَّا لَا يَعْنِيهِ التَّوَحُّيدُ فَرَضٌ وَ طَلَبُ  
الْحَلَالِ فَرَضٌ وَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ  
الْعِلْمِ فَرَضٌ وَ الْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ  
فَرَضٌ وَ تَرْكُ الْيَعُوزِ عَلَى الْعَجَلِ  
فَرَضٌ أَهْرَابٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَ  
الْمُسَافِقِينَ وَ التَّحَقُّقُ بِالصَّالِحِينَ  
الصِّدِّيقِينَ إِذَا أُشْغِلَ عَلَيْكَ  
الْأَمْرُ وَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّلَاحِ وَ  
الْمُسَافِقِ فَقُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَ صَلِّ  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ يَا رَبِّ ذَلِّلْنِي عَلَى  
الصَّالِحِينَ مِنْ خَلْقِكَ ذَلِّلْنِي عَلَى  
مَنْ يَدُلُّنِي عَلَيْكَ وَيُطْعِمُنِي مِنْ  
و ب۔ رفع مشکل کا عمل۔

طَعَامِكَ يَسْقِيَنِي مِنْ شَرَابِكَ وَيَكْثِلُ  
عَيْنَ قَلْبِي بِسُورِ قُرْبِكَ وَيُخَيِّرُنِي بِمَا رَأَى  
عِيَانًا لَا تَقْلِيدًا الْقَوْمُ أَكَلُوا مِنْ  
طَعَامِ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَشَرَبُوا  
مِنْ شَرَابِ أُنْسِهِ وَشَاهَدُوا بِآبِ  
قُرْبِهِ لَمْ يَقْنَعُوا بِالْخَيْرِ بَلْ جَاهَدُوا  
وَصَابَرُوا وَسَافَرُوا عَنْهُمْ وَعَنِ الْخَلْقِ  
حَتَّى صَارَ الْخَبَرُ عَنْدهُمْ عِيَانًا لَمَّا  
وَصَلُّوا إِلَى رَبِّهِمْ أَذَبَهُمْ وَهَدَّاهُمْ  
وَعَلَّمَهُمُ الْحِكْمَ وَالْعِلْمَ أَطْلَعَهُمْ  
عَلَى مُلْكِهِ وَعَزَّاهُمْ أَنَّ لَيْسَ فِي  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ غَيْرُهُ وَلَا مُعْطَى  
غَيْرُهُ وَلَا مَانِعَ غَيْرُهُ وَلَا مُحَرَّكَ  
وَلَا مُسَكِّنَ غَيْرُهُ وَلَا مُقَدِّرَ وَكَافِلَ ضَعْفِ  
غَيْرُهُ وَلَا مُعِزَّ وَلَا مُذِلَّ غَيْرُهُ وَلَا  
مُسْلِطَ وَلَا مُسَخِّرَ غَيْرُهُ وَلَا قَاهِرَ  
غَيْرُهُ يُرِيهِمْ مَا عِنْدَهُ فَيَذَرُونَهُ  
بِأَعْيُنِ قُلُوبِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ فَلَا  
يَبْقَى لِلدُّنْيَا وَمُلْكِهَا عِنْدَهُمْ قَدَرٌ  
وَلَا وَزَنٌ -

اللَّهُمَّ ارِنَا كَمَا أَرَيْتَهُمْ مَعَ الْعَفْوِ  
وَالْعَافِيَةِ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
الْمَنَارَةِ

ف: اویا اللہ تمام موجودات پر خیر دار ہوتے ہیں۔

کھانا کھلائیں۔ اور تیرے پانی میں سے پانی پلائیں اور  
میرے قلب کی آنکھ میں تیرے قرب کے نور سے  
سرمر لگائیں اور جو چیز کو ظاہر مشاہدہ غیبی سے دیکھتے  
ہوں اُس سے مجھے خبردار کر دیں۔ محض تقلید سے نہیں۔  
اہل اللہ نے فضل الہی کے طعام سے کھانا کھایا۔  
اور اُس کے شراب اُنس سے انہوں نے پانی پیا اور  
اُس کے باپ قرب کا مشاہدہ کیا۔ اور انہوں نے محض  
خبر پر قناعت نہ کی بلکہ برابر مجاہدہ و ریاضت کرتے  
رہے صبر کیا اور اپنے نفوس اور مخلوق سے مسافرت  
کی اُن کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ سستی ہوئی خبر اُن کے  
نزویک مشاہدہ بن گئی۔ جب وہ اپنے رب تک اس  
طریقہ سے پہنچ گئے تو اُس نے اُن کو ادب اور تہذیب سکھائی  
اور اُن کو کمیتیں اور علم سکھائے اور اپنے امور مملکت پر اُن کو آگاہ  
کر دیا اور یہ بات پہنچا دی کہ زمین و آسمان میں سوا اُس کے کوئی  
نہیں ہے اور نہ کوئی اُس کے سوا عطا کرنے والا اور منع کرنے والا  
اور نہ کوئی اُس کی سوا حرکت و سکون دینے والا اور نہ کوئی اندازہ کرنے والا  
اور حاکم اور نہ اُس کے سوا کوئی عزت و ذلت دینے والا اور نہ غلبہ اور خیر  
کرنے والا اور نہ کوئی غیض و اقامہ و غالب ہے، وہ اُن کو تمام موجودات غیبیہ  
دکھا دیتا ہے پس وہ اُس کو اپنے قلب و باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پس  
اویا اللہ کے نزویک دنیا اور اُس کی بادشاہت حکومت کی کچھ قدر و وزن نہیں ہوتا۔  
اے اللہ تو ہم کو بھی عفو و عافیت کے ساتھ ویسا  
ہی دکھا دے جیسا تو نے اُن کو مشاہدہ کرایا اور ہم  
کو دنیا و آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو عذاب  
دوزخ سے بچا آمین۔

يَا قَوْمِ تَوُوبُوا مِنْ تَرْكِكُمْ التَّقْوَى  
 دَوَّاءُ وَتَرْكِهَا دَاءٌ تُوبُوا فَإِنَّ التَّوْبَةَ  
 دَوَّاءٌ وَالدُّنُوبَ دَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ  
 أَلَا أُعَلِّمُكُمْ مَا دَاءُكُمْ وَمَا دَوَّاءُكُمْ  
 فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ دَاءُكُمْ  
 الدُّنُوبُ وَدَوَّاءُكُمْ التَّوْبَةُ التَّوْبَةُ  
 عَرَسٌ وَالْمَوَاطِنَةُ عَلَى الْجَالِسِ  
 الذِّكْرُ وَطَاعَةُ الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَّ  
 شِفَاءٌ لَهَا تَوُوبُوا يَلِسَانَ الْإِيْمَانِ وَقَدْ  
 جَاءَكُمْ الْفَلَاحُ كَلَّمُوا يَلِسَانَ التَّوْحِيدِ  
 وَالْإِخْلَاصِ وَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَلَاحُ  
 اجْعَلُوا الْإِيْمَانَ سِلَاحَكُمْ عِنْدَ مَجِيءِ  
 الْأَفَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ عَرَّ وَجَلَّ وَكَانَ  
 يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ابْتِدَاءِ كُلِّ  
 مَجْلِسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 يُكْرَمُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَسْكُتُ فِيهَا  
 عَقَبَ كُلِّ مَرَّةٍ لِحُظَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ  
 عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِزْقَ عَرْشِهِ وَرِضَاءَ  
 نَفْسِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ مُنْتَهَى عِلْمِهِ  
 وَجَبَّتْهُ مَا شَاءَ وَخَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ  
 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

اے قوم تم تقویٰ کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو۔ تقویٰ  
 پر بیزار گاری دوا ہے اور اس کا چھوڑ دینا بیماری تم توبہ کرو  
 برحقین توبہ دوا ہے اور گناہ بیماری۔ ایک دن حضور نبی کریم  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے کہا  
 کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور  
 تمہاری دوا کیا پس عرض کیا ہاں بتائیے پس ارشاد فرمایا گناہ  
 تمہاری بیماری ہے اور توبہ تمہاری دوا۔ توبہ ایک درخت  
 ہے اور زکریٰ مجلسوں میں ہمیشہ جانا اور حق کی طاعت میں پیشگی  
 کہنا اس کو پانی دینا ہے۔ تم ایمان کی زبان سے توبہ کرو بیشک  
 تمہیں نجات مل جائے گی۔ تم توحید اور اخلاص کی زبان سے کلام کرو  
 بے شک تمہیں نجات مل جائے گی تم اللہ کی طرف سے اقوال  
 کے آنے کے وقت ایمان کو اپنے ہتھیار بناؤ ایمان ہی تم کو  
 بچانے والا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر ابن ابوصالح  
 ابن عبداللہ جبیلانی رضی اللہ عنہ جب خطبہ پڑھتے تو ابتداً خطبہ  
 میں ہر مجلس میں تین بار الحمد للہ رب العالمین کہاتے  
 تھے اور ہر ایک مرتبہ کے بارے میں دیر سکوت فرماتے تھے  
 پھر فرماتے تھے عدد خلقہ و حسن عبادتک تک یعنی اتنی حمد جو  
 اُس کی مخلوق کے شمار اور اُس کے عرش کے وزن کی برابر اور  
 اُس کے نفس کی خوشنودی۔ اور اُس کے کلمات کی سیاہی اور اُس کے  
 علم کی انتہا کی موافق اور ان تمام چیزوں کے برابر ہو جس کو  
 اُس نے چاہا اور پیدا و ظاہر کیا ہے۔ جو کہ حاضر و غائب کا  
 جاننے والا عام و خاص پر رحم فرمائے والا ہے۔ باوجود غایت  
 درجہ پاک غالب و حکمت والا ہے۔ اور میں اس بات کی  
 گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس  
 کا کوئی شریک نہیں۔ اُسی کے لیے حمد و ملک ہے۔

الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ  
بَيِّدُهُ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
وَرَأَيْتُ الْمَصْبِيْرَ وَاسْتَهْدَأْتُ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ  
وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الْمَشْرُكُونَ ه  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْ إِيْمَانَهُ وَالْأُمَّةَ وَ  
الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةَ أَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ  
فِي الْخَيْرَاتِ إِذْ فَعَّمْ نَشْرَ بَعْضِهِمْ عَنْ  
بَعْضٍ.

اللَّهُمَّ وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِسَرَائِرِ قَاصِلِهَا  
وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِخَوَائِجِنَا فَاقْضِهَا وَ  
أَنْتَ الْعَالِمُ بِذُنُوبِنَا فَاغْفِرْهَا وَأَنْتَ  
الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتُرْهَا لَا تَرْنَا حَيْثُ  
كُنْهِنَا لَا تَفْقَدْ نَا حَيْثُ أَمَرْتَنَا لَا تُنْسِنَا  
ذِكْرَكَ وَلَا تُؤْمِنَا مَكْرَكَ وَتُحَوِّجْنَا  
إِلَى غَيْرِكَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ.

اللَّهُمَّ اإِهْمِنَا رُشْدَنَا وَاعِدْنَا مِنْ  
شَرِّ أَنْفُسِنَا اشْغَلْنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ  
اقْطَعْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ يَقْطَعُنَا عَنْكَ  
اإِهْمِنَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ  
عِبَادَتِكَ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَ  
يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا  
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
ثُمَّ يَقُولُ تَلَقَاءُ وَجْهِهِ هَكَذَا ثُمَّ

وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہی ایسا زندہ ہے جسے  
موت نہیں خیر اسی کے قبضہ میں ہے اور وہی ہر شے پر قدرت  
والا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے اور میں اس بات کی گواہی  
دیتا ہوں کہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول  
ہیں جن کو اس نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو  
تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ وہ مشرکوں کو ناکار گورے  
اسے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیجے اور  
امام و امت اور اعلیٰ و دین کی حفاظت فرما اور تمام نیک  
کاموں میں ان کے قلوب کو متفق کر دے بعض کی شر کو بعض  
سے دفع فرما دے۔

اے اللہ اور تو ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہے پس تو ان  
کی اصلاح کر دے اور تو ہماری حاجتوں کا جاننے والا ہے پس ان کو  
بخش دے اور تمہارے علیوں کا جاننے والا ہے پس تو ان کو چھپانے  
جہاں موجود ہونے سے تو نے ہمیں منع کیا ہے وہاں ہم کو موجود نہ کرنا اور  
جہاں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں مستغفونہ کرنا تو ہمیں اپنی یا سے غافل نہ  
کرنا اور ہم کو اپنی فحش سے مندر نہ کر دینا۔ ہم کو اپنے غیر کی طرف محتاج نہ  
بانا اور ہم کو غافل قوم سے نہ کر دینا۔

اے اللہ ہم کو ہمارے سیدھے راستہ کا ابھام کر اور ہم کو نفسوں  
کی برائی سے پناہ میں رکھ اپنے ساتھ مشغول رکھ جو قطع کرنے والا ہمارے کچھ  
تھے قطع کر دے اس کو ہم سے قطع کر دے ہم کو اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کا ابھام کر  
اس کے بعد آپ سیدھی جانب التفات فرما کہ کہتے لا الہ الا اللہ آخر  
تک کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے نہیں ہے جو وہ چاہتا  
ہے وہ ہوتا ہے بغیر اللہ بزرگ و برتر کے عطا  
کیے کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ پھر منہ  
سامنے کر کے ایسے ہی کلمات فرماتے :-

پھر الٹی جانب متوجہ ہوتے اور ایسا ہی فرماتے۔ پھر فرماتے  
اے اللہ تو ہماری خیروں کو ظاہر نہ فرما اور ہمارے پردہ نہ  
پھاڑ اور ہماری بد اعمالیوں پر ہم سے مواخذہ نہ کر۔ ہماری  
غفلت و غفلت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ رکھ رسوائہ کر  
اور ہمیں اچانک نہ پکڑ لینا۔ اے رب ہمارے اگر ہم  
بھول جائیں یا خطا کریں تو تو مواخذہ نہ کرنا۔ اے رب  
ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے  
پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے رب ہمارے ہم پر  
وہ چیز نہ ڈال دینا جس کی ہم کو طاقت نہیں اور ہمیں معاف  
کر دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مولا  
ہے اور ہماری کاف رقوم پر مدد فرما اس کے بعد فتوح  
غیب سے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک  
پر لے آتا ہے بغیر تقریر اور بغیر کسی تمہید کے وعظ شروع  
فرما دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی بعض مجلسوں میں آپ کے وعظ کی ابتدا  
کسی حدیث نبوی یا کلام حکماء سے کسی کلمہ کے ساتھ جواب کیا دیتا تھا  
کرتی تھی۔ اولاً آپ اپنے کلام میں تبرکات کو پڑھا کرتے تھے اور  
وعظ شروع کرتے اور کلام کی بنیاد اسی پر رکھتے تھے۔

يَقُولُ لَا تَبْدِ احْبَارَنَا وَلَا تَهْتِكْ اسْتَارَنَا  
وَلَا تَوَاحِدْنَا بِسُوءِ اَعْمَالِنَا لَا تَخَيِّبْنَا  
فِي عَفْلَةٍ وَلَا تَوَاحِدْنَا عَلَى غَرَّةٍ رَبَّنَا  
لَا تَوَاحِدْنَا اِنْ تَسَيَّبْنَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا  
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا  
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ  
لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ه ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الْكَلَامِ  
بِمَا يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ فَتْوَحِ  
الْغَيْبِ مِنْ غَيْرِ تَقْرِيرٍ وَلَا تَعْيِيبَةٍ بِالْكَلامِ  
وَفِي التَّادِيرِ مِنَ الْمَجَالِسِ يَكُونُ وَتَدُ  
حَفِظَ خَيْرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ كَلِمَةً حِكْمَةٍ مِنْ  
كَلَامِ الْحُكَمَاءِ مِنْ جُمْلَةٍ مَا يُفْتَحُ  
عَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِذِكْرِ ذَلِكَ تَبَرُّكًا بِهِ  
وَيَشْرَعُ وَيَبْنِي الْكَلَامَ عَلَيْهِ۔

## ستا میسویں مجلس

## المجلس السابع والعشرون

اس بیان میں کہ عاقل بن اور جھوٹ نہ بول

۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۲۵۵ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت

مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

عاقل بن اور جھوٹ نہ بول۔ تو کہتا ہے میں اللہ عزوجل

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِكْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ

سَابِعَةِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةِ ثَمَانِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِ مِائَةٍ بَعْدَ كَلَامِ۔

كُنْ عَاوِلًا وَلَا تَكُنْ ذِي تَقْوَلٍ اَنَا حَاضِرٌ

مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ تَخَافُ مِنْ  
غَيْرِهِ لَا تَخَفُ حِينَئِذَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مَلَكًا  
وَلَا تَخَفُ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ النَّاطِقَةِ  
وَالصَّامِتَةِ لَا تَخَفُ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا  
وَلَا تَخَفُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا  
تَخَافُ مِنَ الْمُعَذِّبِ بِالْعَذَابِ الْعَاقِلِ  
لَا يَخَافُ كَوْمَةً لَا يَمُوتُ فِي جَانِبِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ هُوَ أَصَمُّ عَنْ كَلَامِ غَيْرِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ أَلْخَلَقَ كُلَّهُمْ عِنْدَهُ عَجَزَهُ  
مَرْضَى فَقَرَأَ هَذَا وَآمَنَ لَهُ هُمُ  
الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِمُ الْعُلَمَاءُ  
بِالشَّرْعِ وَحَقَائِقِ الْإِسْلَامِ هُمُ أَطْبَاءُ  
الَّذِينَ الْجَائِرُونَ يَكْسِرُهُ يَأْمَنُ قَدْرُ  
الْكُسْرِ دَيْنُهُ نَقْدًا مَرَّ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَجْبُرُوا  
كُسْرَكَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ هُوَ الَّذِي  
يُنْزِلُ الدَّاءَ هُوَ أَعْرَفُ بِالصِّلَحَةِ  
مِنْ غَيْرِهِ لَا تَتَّبِعْ رِيكَ عَزَّ وَجَلَّ فِي  
فَعْلِهِ نَفْسُكَ أُولَى بِاللَّهِمَّ وَاللَّوْمُ مِنْ  
غَيْرِهَا قُلْ لَهَا الْعَطَاءُ لِمَنْ أَطَاعَ وَ  
الْعَصَا لِمَنْ عَصَى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ يَعْصِدُ خَيْرًا سَكَبَهُ فَإِنْ صَبَرَ  
دَفَعَهُ وَطَيَّبَهُ وَاعْطَاهُ وَاقْتَنَاهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْقُرْبَ مِنْكَ  
بِلَا بَلَاءٍ الْطُفْ بِنَا فِي قَضَائِكَ وَ  
قَدْرِكَ أَكْفِنَا شَرَّ الْأَشْرَارِ وَكَيْدَ

سے ڈرنے والا ہوں حالانکہ تو غیر خدا سے ڈرتا ہے تو کسی جن  
اور انس اور فرشتہ سے نہ ڈراور نہ کسی بولنے والے اور چپ  
رہنے والے حیوان سے ڈراور نہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت  
سے تیرا خوف تو محض عذاب دینے والے سے ہونا چاہیے۔  
یعنی صرف خدا ہی سے ڈر۔ عقل مند کسی ملامت کرنے والے کی  
لامت سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف نہیں کرتا ہے  
ہر پہلو اسی سے ڈرتا رہتا ہے وہ تو غیر اللہ کے کلام کے  
سننے سے بھرا رہتا ہے اس کے نزدیک تو تمام مخلوق عاجز و  
بیمار محتاج ہیں۔ یہ اور اس جیسے دوسرے علماء میں جن کے  
علم سے دوسرے کو نفع حاصل ہوتا ہے جو شریعت اور  
حقیقت اسلام کے عالم ہیں وہی دین کے معالج میں اور طبیب  
دین کی شگستگی و خرابی کے جوڑنے والے ہیں۔ اے وہ شخص جس کا دین  
شگستہ ہو گیا ہے تو ایسے عالموں کی طرف بڑھنا کہ وہ تیری شگستگی کو  
جوڑ دیں جس ذات پاک نے بیماری اتاری ہے وہی دوا نازل کرتی ہے  
یعنی وہی خدا بنسبت دوسروں کے مصلحت کا زیادہ جاننے والا ہے  
تو اپنے رب کو اس کے فعل میں تہمت نہ لگانا۔ نفس تہمت و ملامت  
کے لیے بنسبت غیر کے زیادہ لائق و بہتر ہے تو نفس سے کہہ دے جو کہ  
اللہ کی اطاعت کرے اس کے لیے عطا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرے  
اس کے لیے عطا و سزا ہے جب خدا کسی بندے کی بہتری چاہتا  
ہے تو اس کے مال و عزت کو سلب کر لیتا ہے پس اگر وہ بندہ اس  
پر صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کو بلند کر دیتا ہے اور خوش کر دیتا ہے اور  
عطیہ دیتا اور اپنے میں فنا کر لیتا ہے۔

اے اللہ ہم تجھ سے ایسا قرب چاہتے ہیں جو بغیر انائش  
کے ہو تو اپنی قضاء و قدر میں ہم پر اپنی مہربانی رکھ اور تو ہم  
کو شریر لوگوں کی شرارت اور بدکاروں کے

مکر سے بچا اور جس طور سے اور جس طریقہ سے تو چاہے ہماری صفات  
فرما، ہم تجھ سے دین و دنیا اور آخرت کی عفو و عافیت چاہتے ہیں۔  
اعمال صالحہ کی توفیق اور تمام عملوں میں توفیق طلب کرتے ہیں  
قبول فرما۔

ایک شخص ابو یزید برطانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں داخل ہوا  
پس دایمیں بائیں دیکھتا رہا۔ ابو یزید علیہ الرحمۃ نے فرمایا تمہارا  
کیا حالت ہے کیا دیکھتے ہو کہا۔ اُس کا ارادہ ہے نماز کے  
لیے پاک جگہ دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے قلب کو پاک  
کرا اور جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ ریاء کو مخلص ہی جانتا  
ہے کیونکہ وہ اُس میں رہ کر اُس سے نجات پا چکا ہے۔

ریا اہل اللہ کے راستہ میں ایک گھاٹی ہے جس سے  
انہیں عبور کرنا ضروری ہے ریا اور نفاق اور تکبر مجملہ شیطان  
کے تیروں کے ہے جس سے وہ انسانی قلوب پر تیرا اندازی  
کرتا ہے تم مشائخ کرام کی بات کو قبول کرو اور ان سے سیکھو  
وہ تم کو خدا کے رستہ کا چلنا بتائیں گے کیونکہ وہ اس راستہ  
پر چل چکے ہیں۔ نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کی آفتوں کا  
حال ان سے دریافت کرو کیونکہ وہ ان کا اندازہ کر چکے  
ہیں۔ ایک زمانہ تک وہ ان کی خرابیوں اور خیاثتوں کو پہچان  
جان چکے ہیں آزمایا ہے۔ مدت کتنی مدت بعد ان پر  
غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو مغلوب کر کر ان پر  
غالب اور ان کے مالک ہو گئے ہیں۔ شیطان کے  
وسوسہ سے دھوکہ نہ کھا اُس کے چھونک مارنے پر  
مغرور نہ ہوا اور تو نفس کے تیروں سے شکست  
نہ کھا تحقیق وہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا  
ہے۔ شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے۔

الْعُبَّارِ رَحِمْنَا كَيْفَ شِئْتَ وَكَمَا شِئْتَ  
نَسَأَكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ نَسَأَكَ التَّوْفِيقَ لِلْأَعْمَالِ  
الصَّالِحَةِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالِ أَمِينَ  
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي يَزِيدَ الْبُسْطَامِيِّ  
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَبَقِيَ يَنْظُرُ يَمِينًا وَ  
شِمَالًا فَقَالَ أَبُو يَزِيدَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ  
أُرِيدُ مَوْضِعًا نَظِيفًا أُصَلِّي بِهِ فَقَالَ  
لَهُ طَهَّرْ قَلْبَكَ وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ  
لَا يَعْرِفُ الرِّيَاءُ إِلَّا الْمُخْلِصَ كَانَ  
فِيهِ وَتَخَلَّصَ مِنْهُ هُوَ عَقِبَهُ فِي طَرِيقِ  
الْعُورِ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْعُورِ عَلَيْهَا  
الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَالنِّفَاقُ مِنْ جُمْلَةِ  
سَهَامِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَرْمِي بِهَا إِلَى  
الْقُلُوبِ إِقْبَلُوا مِنَ السَّائِرِينَ وَتَكَلَّمُوا  
مِنْهُمْ السَّيْرَ فِي الطَّرِيقِ الْمَوْصِلَ إِلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ طَرِيقٌ قَدْ  
سَكَّوْهُ سَلُّوهُمْ عَنْ أَقَاتِ النَّفْسِ  
وَالْأَهْوِيَةِ وَالطَّبَاعِ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَاسَوْا  
أَفَاتِهِمْ وَعَرَفُوا غَوَايِلَهُمْ وَمَخَائِلَهُمْ  
بَقُوا فِي ذَلِكَ زَمَانًا فَبَعْدَكُمْ وَكَمْ حَتَّى  
غَلَبُوا عَلَيْهِ وَغَلَبَوْهُمْ وَمَلَكُوهُمْ  
لَا تَغْتَرَّ بِنَفْعِ الشَّيْطَانِ فِيكَ وَلَا  
تَنْهَزِمَ مِنْ سَهَامِ النَّفْسِ فَإِنَّهَا تَرْمِيكَ  
بِسَهَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا

يَطْرُقُهَا شَيْطَانُ الْجِنَّ لَا يَفْدُرُ عَلَيْكَ  
 إِلَّا بِشَيْطَانِ الْإِنْسِ وَهِيَ النَّفْسُ وَ  
 أَقْرَانُ السُّوءِ اسْتَعِثْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَاسْتَعِزْ بِهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ  
 فَإِنَّهُ يُعِثُّكَ فَإِذَا وَجَدْتَهُ وَرَأَيْتَ  
 مَا عِنْدَهُ وَحُطِّيتَ بِهِ ارْجِعْ مِنْ  
 عِنْدِهِ إِلَى الْعِيَالِ وَالْخَلْقِ وَخُذْهُمْ  
 إِلَيْهِ قُلْ لَهُمُ اتَّوْنِي يَا هَيْلَكُمْ أَجْمَعِينَ  
 يُوسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا ظَفِرَ بِالْمَلِكِ  
 وَالْمَلِكُ قَالَ لَا هَيْلَ لِي تَوْنِي يَا هَيْلَكُمْ  
 أَجْمَعِينَ هُ الْمَحْرُومُ مِنْ حُرْمِ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَقَاتَهُ الْقُرْبُ مِنْهُ دُنْيَا  
 وَآخِرَةً قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ  
 كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ قُتْلَكَ قَاتَكَ  
 كُلُّ شَيْءٍ كَيْفَ لَا يَقُوتُكَ الْحَقُّ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ وَعَنِ  
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ مُؤَذِّيًا لَهُمْ  
 يَقُولُكَ وَفِعْلَكَ مُعْرِضًا عَنْهُمْ يَظَاهِرُكَ  
 وَبَاطِنُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ أَدِيكَ الْمُؤْمِنُ  
 أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ تَقْضِ الْكَعْبَةِ  
 وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ  
 مَرَّةً

اسْمَعُ وَبَيْدَكَ يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ يُؤَذِّي  
 فَقَرَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

راستہ سے قدرت ہوتی ہے شیطان جن کوئی تجھ پر بغیر شیطان  
 انس کے جو کہ تیرا نفس اور برے ہم نشین ہیں قدرت و قبالہ  
 نہیں پاسکتا ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد چاہ اور ان دشمنوں پر  
 اُس سے مدد طلب کر پس تحقیق وہ تیری فریاد کو پہنچے گا  
 پس جب تو خدا کو پالے اور جو کچھ اُس کے پاس ہے  
 اُسے دیکھ لے اور تو اُس سے بہرہ یاب ہو جائے تو  
 تو اُس کے پاس سے اہل و عیال اور خلق کی طرف متوجہ  
 ہو اور اُن کو خدا کی طرف لے جا اور اُن سے کہو کہ میری  
 طرف اپنے لب کہ بتید کو لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے  
 جب ملک و سلطنت پر کامیابی پالی اُس وقت اپنے  
 اہل سے فرمایا تمھارا تم میری طرف اپنے سب کنبے  
 کو لے آؤ۔ وہ بڑا محروم ہے جو کہ حق عزوجل سے محروم  
 رہا اور اُس سے دنیا و آخرت میں قرب الہی فوت ہو گیا  
 اللہ عزوجل نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے اے  
 ابن آدم اگر میں تیرے ہاتھ سے فوت ہو گیا تو ہر چیز تجھ  
 سے فوت ہو گئی۔ تجھ سے حق عزوجل کیسے فوت نہ ہو  
 جبکہ تو اُس سے اور اُس کے ایمان دار بندوں سے  
 روگردانی کرنے والا اور اُن کو اپنے قول و فعل سے تکلیف  
 دینے والا ہے تو اُن سے ظاہر و باطن روگردانی کرنے والا  
 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تحقیق اپنے ارشاد  
 فرمایا مسلمان کو تکلیف دنیا اللہ کے نزدیک بیت معمور اور  
 کعبہ کے گرامینے سے پندرہ گنا زیادہ بڑا گناہ  
 ہے۔

یہ سن اے فقراء الہی کہ ہمیشہ سنانے والے  
 جو کہ اُس پر ایمان لانے والے اور نیک

بندہ عارف باللہ اُس پر بھروسہ کرنے والے میں تجھ پر سخت  
افسوس ہے۔ تجھ پر افسوس تو عنقریب مرنے والا ہے۔ پھینک  
کر اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا اور تیرا وہ مال جس پر تو اترا تا  
ہے لوٹ لیا جائے گا۔ تجھے وہ کچھ نفع نہ دے گا اور نہ تجھ سے  
وہ کچھ دفع کر سکے گا۔

بِهِ الصَّالِحُونَ لَهُ الْعَارِفُونَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُونَ  
عَلَيْهِ وَبَيْتِكَ أَنْتَ عَنْ قَرِيبٍ مَيِّتٌ  
مَسْحُوبٌ مَخْرُوجٌ مِّنْ بَيْتِكَ وَمَالِكَ  
الَّذِي تَفْتَنَ خَيْرٌ بِهِ مِنْهُوَ لَّا يَفْعُولُ  
وَلَا يَرُدُّ عَنْكَ

## اٹھائیسویں مجلس

## المجلس الثامن والعشرون

بلا پر صابر رہنے اور فقر کے اختیار کرنے کے بیان میں

۹۔ جمادی الآخری ۱۲۵۵ھ کو خالقہ شریف میں

ارشاد فرمایا:

نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق ایک  
شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا کہ میں آپ کو  
اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہوں آپ نے یس کر اس سے  
ارشاد فرمایا تو بلا اور فقری کو اپنی چادر بنا لے کیونکہ تو میری  
صفت کے ساتھ متصف ہونا چاہتا ہے اور میری حالت  
چاہتا ہے۔ اور تحقیقی محبت کی شرط مطلوب و محبوب کے ساتھ موافقت  
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب محبت رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ والہ وسلم میں پہنچے تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ  
نے آپ پر اپنا تمام مال خرچ کر دیا اور آپ کی صفت  
کے ساتھ متصف ہو گئے اور فقر میں آپ کے شریک  
ہو گئے یہاں تک کہ محض ایک عبا سے گذر فرماتے۔ آپ  
کی ظاہری و باطنی خفیہ و علانیہ طرح سے موافقت کی۔ اور اسے  
جھوٹے تو نیک بندوں اولیاء اللہ کی محبت کا تو دھڑکی کرتا ہے  
اور ان سے اپنے درہم و دانیز رو پیدا شرفی کو چھپاتا ہے۔

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا لِي بِأُتَاسَةِ جَمَادَى  
الْآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ تَحْسِيسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِينَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ  
إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ  
لَهُ إِنِّي أَخَذَ الْبَلَاءَ حُبًّا بَأْ أَخَذَ الْفَقْرَ  
حُبًّا بَأْ لَا تَكُ تُرِيدُ تَتَّصِفُ بِصِفَتِي  
تَتَّصِفُ بِي لِأَنَّ مِنْ شَرِّطِ الْمَحَبَّةِ  
الْمُوَافَقَةَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَدَّقَ فِي مَحَبَّةِ الرَّسُولِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ  
مَالِهِ وَاتَّصَفَ بِصِفَتِهِ وَشَارَكَهُ فِي  
الْفَقْرِ حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَاءِ وَافَقَهُ  
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنْتَ  
يَا كَذَّابُ تَدْعِي مَحَبَّةَ الصَّالِحِينَ  
وَتَتَّبِعِي عَنْهُمْ ذُنُوبَكَ وَدَمَاحِيكَ

وَتُرِيدُ الْقُرْبَ مِنْهُمْ وَالْمَصَاحِبَةَ لَهُمْ  
 كُنْ عَاقِلًا هَذِهِ حَبِيبَةٌ كَاذِبَةٌ الْمُحِبُّ  
 لَا يَخْبَأُ عَنْ مَحْبُوبِهِ شَيْئًا يُؤْتِرُهُ عَلَى  
 كُلِّ شَيْءٍ كَانَ الْفَقْرُ مَلَاذِمًا لِلنَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَارِفُهُ  
 وَلِهَذَا قَالَ الْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ  
 يُحِبُّنِي مِنْ سَبِيلِ الْمَاءِ إِلَى مُنْتَهَاهُ  
 وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا  
 مَا ذَلَّتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا كِبَارَةَ عُسْرَةٍ  
 مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَلَمَّا قُبِضَ صُبَّتِ  
 الدُّنْيَا عَلَيْنَا سَبًّا فَشَرُطَ حُبُّ الرَّسُولِ  
 الْفَقْرُ وَشَرُطَ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 الْبَلَاءُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ وَكَلَّ  
 الْبَلَاءُ بِأَلْوَاءٍ كَيْلًا يَدْعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ مَعَ كَيْدِهِ وَيَذَاقُهُ وَرِيَاءُهُ  
 ارْجِعْ عَنْ دَعْوَاكَ وَكَيْدِكَ لَا تُخَاطِرُ  
 بِرَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ تَصَدَّقُ وَ  
 إِلَّا فَلَا تَتَمَعَّنَا لَا تَتَبَهَّرْ عَلَى الصَّغِيرِ  
 فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ وَيَقْضُكَ  
 تَتَوَلَّى بِالْحَيَّةِ وَالسَّبُعِ فَإِنَّهُمَا يَهْلِكَاكَ  
 إِنْ كُنْتَ حَوَاءً فَتَقَدَّمْ إِلَى السَّبُعِ طَرِيقُ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَحْتَاجُ إِلَى الصِّدْقِ  
 وَيَحْتَاجُ إِلَى  
 نُورِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ شَمْسُ الْمَعْرِفَةِ

اور اُن سے نزدیکی کی خواہش رکھنا اور دوستی چاہنا ہے۔ تو  
 عقلمند بن ایسی محبت جھوٹی ہے۔ محب و عاشق اپنے محبوب کے  
 کسی چیز کو چھپایا نہیں کرتا ہے بلکہ اُس کو ہر چیز پر ترجیح دیتا  
 ہے۔ فقر و افلاس حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے واسطے  
 لازم تھا اُن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور آپ سے جدا  
 نہ ہوتا تھا اور اسی واسطے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص  
 میری محبت کا دعویٰ کرے اُس کی طرف فقر اس سے  
 زیادہ تیزی و جلدی کرتا ہے جیسے پانی کار واپنی انتہا  
 کی طرف۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا  
 جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے  
 دنیا ہم پر تنگ اور کمزور رہی پس جب کہ آپ کی وفات  
 شریف ہو گئی کثرت سے دنیا ہم پر ڈال دی بہت دنیا کمال  
 دیا گیا۔ پس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط فقر ہے  
 اور محبت الہی کی شرط بلا بعض اویام اللہ سے مودی کہ انہوں نے  
 فرمایا بلا محبت کے ساتھ مسلط کر دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص  
 کذب و نفاق و ریا کے ساتھ محبت الہی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اے  
 جھوٹے مدعی تو اپنے دعویٰ اور جھوٹ سے رجوع کر لے۔  
 اپنے سر کو خطرہ میں نہ ڈال۔ اگر تو سچائی کے ساتھ اس میدان میں آیا  
 ہے تو بہتر ورنہ ہمارا یہ چھانہ کہ اپنے کھوٹے دام مراکے روبرو  
 پیش نہ کر وہ یقیناً تجھ سے اُس کو قبول نہ کرے گا اور وہ تجھے سوا  
 کر دے گا تو سانپ اور درندہ پر فریقہ نہ کو وہ دونوں تجھ کو ہلاک  
 کر دیں گے اگر تو سانپ کا زہر اتارنے والا ہے پس سانپ کی طرف  
 پیش قدمی کر اور اگر تجھ میں قوت ہے پس تو درندوں کی طرف بڑھ  
 حق تعالیٰ کے راستہ کو سچائی کی حاجت ہے اور نور معرفت کی ضرورت  
 بغیر اس کے منزل ملنا دشوار ہے۔ صدیقین کے قلب میں

معرفت کا آفتاب رات دن چمکتا رہتا ہے کسی وقت غروب نہیں ہوتا۔

اسے غلام تو منافقوں سے جو کہ غضب الہی کی طرف توجہ کرنے والے ہیں اپنے رخ کو پھیر لے عقلمند بن جا۔ ایسے کے پاس نہ جا۔ اس زمانہ کے اکثر لوگ بھیڑیے ہیں جن پر انسانوں کے سے کپڑے ہیں۔ تو فکر کا آئینہ لے اور اس میں دیکھ اور اللہ عزوجل سے سوال کر کہ وہ اُس میں تجھ کو اور اُن منافقوں کو دکھا دے تاکہ تجھے تمیز حاصل ہو جائے۔ میں نے بہ تحقیق خلق و خالق دونوں کو آزمایا ہے۔ پس خلق کے پاس شر اور برائی کو پایا اور خالق کے پاس بھلائی کو۔

اسے اللہ تعالیٰ تو ہم کو مخلوق کی برائیوں سے محفوظ رکھ اور دنیا و آخرت میں اپنی بھلائی عطا فرمائیں تم کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں تمہاری رسیوں میں تمہارے لیے بل دیتا مضبوط کرتا ہوں۔ میں تم سے جو کچھ بھی لیتا ہوں وہ تمہارے ہی لیے مفید ہے نہ کہ مجھ کو میرے پاس جو مخصوص شے ہے وہ مجھے تمہاری چیزوں سے بے پروا کر رہی ہے میرے پاس کسب یا خدا پر بھروسہ ہے۔ میں تمہاری کسی چیز کے لانے کا ویسا منتظر نہیں رہتا جیسا کہ یہ منافق ریاکار تم پر بھروسہ رکھنے والا رب عزوجل کو بھول جانے والا انتظار کرتا رہتا ہے میں تو زمین والوں کے لیے ایک کسوٹی ہوں تم مائل بنو اور اپنے کھوٹے مال کو میرے روبرو پیش نہ کرو بہ تحقیق میں تمہارے کھرے کھوٹے کو توفیق الہی اُس کے اہل بنانے سے خوب جانتا پہچانتا ہوں۔ اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو میرے

طَالِعَةً فِي قَلْبِ الصَّادِقِينَ لَا تَغِيبُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا۔

يَا غُلَامَ اعْرِضْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَقَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ عَاقِلًا وَلَا تَقْرُبْ أَكْثَرُ أَهْلِ الزَّمَانِ ذُنُوبٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُذْ مِرَاةَ الْفَكْرِ وَالنُّظَرِ فِيهَا وَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَصِّرَكَ بِكَ وَبِهِمْ إِنِّي قَدْ خَبَرْتُ الْخَلْقَ وَالْخَالِقَ فَوَجَدْتُ الشَّرَّ عِنْدَ الْخَلْقِ وَالْخَيْرَ عِنْدَ الْخَالِقِ۔

اللَّهُمَّ سَلِّمْنا مِنْ شُرُورِهِمْ وَادْفَعْني خَيْرِكَ دُنْيَا وَآخِرَةً إِنِّي لَا أُرِيدُكُمْ لَكُمْ فِي حَبَائِكُمْ أَفِيلُ مَا أَخَذُ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا لَكُمْ لَا لِي عِنْدِي فِيهَا يَخْصِي عَنِّي عَمَّا أَخَذَهُ مِنْكُمْ مَا عِنْدِي إِلَّا الْكَسْبُ أَوِ الشُّوْكَلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَسْطَرُّ مَا تَأْتُونِي بِهِ كَمَا يَنْتَظِرُكُمْ هَذَا الْمُنَافِقُ الْمُرَائِي الْمُتَوَكِّلُ عَلَيْكُمْ النَّاسِي يَدِيهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَجْهُدٌ أَهْلُ الْأَرْضِ فَكُونُوا عَقْلَاءَ وَلَا تَتَّبِعْهُمْ جُوعًا عَلَى فَإِنِّي أَعْرِفُ جَيْدَكُمْ مِنْ رَدِيْعِكُمْ يَتَوَفِّيكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْهِيلِهِ لِي إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ فَكُنْ

ہتھوڑے کا اہرن بن جاتا کہ میں تیرے نفس اور تیری خواہش اور طبیعت اور تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں اور تیرے بُرے ہم نشینوں کے دماغ کو کوٹ ڈالوں۔ تم ان دشمنوں پر اپنے رب عزوجل سے مدد پاؤ۔ فتح مند اور منصور وہ ہے جو ان پر مدد دیا جائے اور وہ محروم ہے جو ان کی طرف سپرد کر دیا جائے۔ آفتیں بہت ہیں اور ان کا نازل کرنے والا ایک مرض بہت ہیں اور ان کا طبیب ایک۔

اسے نفسوں کے بیمار و تم اپنے نفسوں کو طبیب کی طرف سپرد کرو اور جو کچھ وہ کرے اس پر تہمت نہ دھرو۔ پس وہ تم پر تم سے زیادہ مہربان ہے تمہاری مہربانی اپنے نفسوں پر اتنی نہیں تم اس کے روبرو گنہگار بن جاؤ اور اس سے بھگڑنا کہ اس حالت میں تم دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کر لو گے۔ اہل اللہ پر سکوت اور پوری افسردگی اور پوری مدہوشی میں رہتے ہیں جب ان کو درجہ بکمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پریشانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح گویائی عطا فرمادیتا ہے جیسے کہ وہ قیامت کے دن جمادات کو گویائی عطا فرمائے گا۔ اہل اللہ بغیر اس کے کہ بولائے جائیں نہیں بولتے بغیر اس کے کہ وہ دیئے جائیں نہیں لیتے اور وہ بغیر اس کے کہ خوش کیے جائیں خوش نہیں ہوتے ان کا ہر کام مطابق مرضی الہی ہوتا ہے اور اللہ کے قلوب ان فرشتوں سے جاملے ہیں جن کے بارہ میں حق عزوجل نے ارشاد فرمایا لَا یَعصُونَ اللہَ فَرشتے ان کاموں میں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی "فرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں وہ فرشتوں سے جاملے ہیں اور فرشتوں سے مرتبہ میں بڑھ گئے ہیں۔ معرفت الہی اور اس کے علم میں

سَدَدًا أَنَا لِقَضِيَّتِي حَتَّى أَقْرَعَ دِمَاعَ نَفْسِكَ وَهُوَ أَكْ وَطَبْعُكَ وَشَيْطَانُكَ وَأَعْدَاؤُكَ وَأَقْرَانُكَ السُّوءِ اسْتَعِينُوا بِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ وَالْمَنْصُورِ مَنْ نَصَرَ عَلَيْهِمْ وَالْمُخْذُولُ مَنْ وُكِّلَ إِلَيْهِمْ الْأَفَاتُ كَثِيرَةٌ وَمَنْزِلُهَا وَاحِدٌ الْأَمْرَاضُ كَثِيرَةٌ وَطَبِيبُهَا وَاحِدٌ۔

يَا مَرْضَى النَّفُوسِ سَلِمُوا نَفُوسَكُمْ إِلَى الطَّبِيبِ لَا تَتَّهِمُوهُ فِيهِمَا يَفْعَلُ بِكُمْ فَهُوَ أَدَاتُ بَيْكُمْ مِنْكُمْ عَلَى نَفُوسِكُمْ اخْرُسُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تُعَارِضُوهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْقَوْمُ فِي سَكُوتٍ وَجُودٍ كُلِّيٍّ وَدَهْشَةٍ كُلِّيَّةٍ فَإِذَا اتَّهَمْتُمْ ذَلِكَ وَدَامُوا عَلَيْهِ انْطَقْتُمْ كَمَا يُنْطِقُ الْحَمَادَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْطِقُونَ إِلَّا إِذَا انْطَقُوهُ يَأْخُذُونَ إِلَّا إِذَا أُعْطُوا لَا يَنْبَسِطُونَ إِلَّا إِذَا بَسِطُوا انْتَحَقَتْ قُلُوبُهُمْ بِفُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ هُ التَّحَقُّوا بِالْمَلَائِكَةِ وَزَادُوا عَلَيْهِمْ بِالْمَنْزِلَةِ زَادُوا عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرِفَةِ يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعِلْمِ بِهِ

وَالْمَلَائِكَةُ غِلْمَاتُهُمْ وَآتَبَا عَنْهُمْ  
يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْحَكَمَ نَصَبٌ  
فِي قُلُوبِهِمْ صَبًا قُلُوبُهُمْ مَحْرُوسَةٌ  
مِنْ جَمِيعِ الْأَقَاتِ تَأْتِي إِلَى جَوَارِحِهِمْ  
وَمَبَانِيرِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ أَمَّا قُلُوبُهُمْ  
فَلَا إِنْ أَرَدْتَ الْوُصُولَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ  
فَعَلَيْكَ بِتَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَرَكِ  
الدُّنُوبَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ثُمَّ  
الْوَرَعَ الشَّاقِي ثُمَّ الزُّهْدَ فِي مَبَاحِ  
الدُّنْيَا وَحَلَالِهَا ثُمَّ الْإِسْتِعْنَاءَ  
بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الزُّهْدَ  
فِي فَضْلِهِ وَالْإِسْتِعْنَاءَ بِقُرْبِهِ  
وَإِذَا صَحَّ لَكَ الْإِسْتِعْنَاءُ بِقُرْبِهِ  
صَحَّتْ عَلَيْكَ فَضْلُهُ وَقَتَّحَ عَلَيْكَ  
أَبْوَابَ أَقْسَامِهِ بَابَ لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ  
وَمِنْهُ قَبْضَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا ثُمَّ  
بَسَطَهَا إِلَى نَهَائِيَّةٍ وَهَذَا لِأَحَادِ  
أَفْرَادٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ  
لِعَلِيهِ يَتَّقَوْنَهُمْ فَكَفَّ عَنْهُمْ لَاسْتِغْلَاوْنَ  
عَنْهُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا الْغَالِبُ مِنْهُمْ  
فِي الدُّنْيَا عَنْهُ مَقْبُوضَةٌ لِأَنَّهُ يُحِبُّ  
فَرَاغَهُمْ لَهُ وَدُخُولَهُمْ عَلَيْهِ وَ  
طَلَبَهُمْ مِنْهُ وَلَوْ أَعْطَاهُمْ الدُّنْيَا  
لَعَلَّمَهُمْ كَانُوا يَسْتَغْلَوْنَ بِهَا عَنْ  
خِدْمَتِهِ وَيَقْعُدُونَ مَعَهَا هَذَا

فرشتوں پر وہ فائق ہو گئے ہیں اور فرشتے اُن کے خادم و تابع ہمارے ہیں وہ اولیاء اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اہل اللہ کے قلب میں حکمتیں برابر اترتی رہتی ہیں اور ان کے قلوب تمام افعال سے محفوظ ہوتے ہیں اور جو اُفتیں آتی ہیں تو اُن کے اعضاء اور اجسام اور اُن کے نفسوں پر آتی ہیں۔ لیکن اُن کے قلوب محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تو ان کے مرنہوں کی طرف پہنچنا چاہتا ہے پس تو اولاً حقیقت اسلام کو دریافت کر اُسے لازم پکڑ پھر تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے دوری اختیار کر پھر پورا تقویٰ پھر مباحات و حلال دنیوی میں زہد پھر فضل الہی کے ساتھ استغنا اختیار کر پھر اُس کے فضل میں بھی زہد کر اور اُس کے قرب کی وجہ سے درت ہو جائے گا اُس وقت تجھے پھر فضل الہی کی بارش کی جائے گی وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اور تیرے اوپر ہر قسم کے دروازے کھول دے گا۔ لطف کا دروازہ رحمت کا دروازہ اپنے احسان کا دروازہ پھر وہ تجھ سے دنیا کو تنگ کر دے گا پھر اُس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا یہ وسعت اولیاء اللہ اور صدیقین میں کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کو اُن کی قوتِ رحمت کا علم ہے۔ اولیاء اللہ کسی شے میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل جدا نہیں ہوتے یہی جن پر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے اس لیے کہ خدائے تعالیٰ اپنے ہی لیے اُن کے فارغ ہونے کو اور اُن کو اپنے اوپر داخل ہونے اور اپنے ہی سے اُن کے مانگنے کو پسند فرماتا دوست رکھتا ہے وہ اُسی کی طرف ہر دم راغب رہتے ہیں ماسوائے اللہ سے اُن کو انقطاع لگی رہتا ہے اگر خدائے تعالیٰ انہیں دنیا عطا فرماتا شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر خدمتِ مولے تعالیٰ سے جدا ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔

یعنی اہل اللہ کے لیے تنگ دستی و فقر غالب و اکثر ہے۔ اور وہ یعنی فراخی نادر ہے اور نادر پر حکم نہیں دیا جاتا ہے وہ مثل معدوم کے ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لوگوں میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی۔ پس آپ خدمت مولیٰ کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے کمال زہد و اعراض کی وجہ سے آپ نے مقسوم کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ آپ پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں تھی پس آپ نے ان کو واپس کر دیا اور ارشاد فرمایا اے رب میرے مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین رکھ کر موت دینا اور محتاجوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمانا۔ آپ کا زہد صالح اور کامل تھا۔ ورنہ اپنے مقسوم میں زہد کرنے پر کون قدرت رکھتا ہے مسلمان حرص کے بوجھ و گرائی سے راحت میں رہتا ہے رزہ حرص کرتا ہے اور زہد جلد بازی کرتا ہے تمام اشیاء میں قلب سے زہد و بے رغبتی کر لی ہے اور باطن میں ان سے روک دانی کر لی ہے اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں مشغول ہے اور یہ جانے ہوئے ہے کہ اس کا مقسوم اس سے فوت نہ ہو گا۔ اس لیے اس نے طلب کو چھوڑ رکھا ہے مقسوم اس کے پیچھے دوڑتا اور عاجزی کرتا ہے اور اس سے قبول کر لینے کا سوال کرتا رہتا ہے۔

اے غلام تو ایسے ایمان کا محتاج ہے جو تجھ کو حق عزوجل کے راستہ پر چلائے اور ایسے یقین کا محتاج ہے جو تجھ کو اس راہ میں ثابت قدم رکھے اولاً اس راستہ میں چلنے کے لیے تجھے ہمیان کی ضرورت ہے جس میں مال و زر کو۔ اور انجام کار میں ایمان کی حاجت۔ برخلاف راہ مکہ کے کہ بغیر ایمان و ہمیان کے جمع کیے فرض نہیں ہوتا اس میں ایمان کے بعد مال آنے پر چلنا ہوتا ہے بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ راستہ ایمان بچہ ہمیان کا محتاج ہے اور یہ

هُوَ الْأَعْلَبُ وَ ذَلِكَ نَادِرٌ وَ النَّادِرُ لَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ حُكْمٌ نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ عَرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا عَنْ خِدْمَتِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْأَفْسَامِ مَعَ كَمَالِ الزُّهْدِ وَالْإِعْرَاضِ عَرِضَتْ عَلَيْهِ مَقَاتِلُهُ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَزَدَهَا وَقَالَ رَبِّ احْنِنِي مُسْكِينًا وَ اِمْتِنِي مُسْكِينًا وَ احْشُرْنِي مَعَ الْمَسَاكِينِ الزُّهْدُ مِنْهُ صَالِحَةٌ وَ الْإِفْتِمَاءُ يَقْدَرُ أَحَدٌ أَنْ يَزْهَدَ فِي قِسْمِهِ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ ثِقَلِ الْحَرِصِ لَا يَشْرُهُ وَلَا يَسْتَعِجِلُ زَهْدٌ فِي الْأَشْيَاءِ بِقَلْبِهِ وَ أَعْرَضَ عَنْهَا يَسْرُهُ وَ اسْتَعْلَى بِهَا أَمْرُهُ وَ عَلِمَ أَنَّ قِسْمَهُ لَا يَقُوتُهُ فَلَمْ يَطْبِقْ تَرْكُ الْأَفْسَامِ تَعْدُوا خَلْقَهُ وَ تَذَلُّ وَ تَسْأَلُهُ قَبُولُهَا

يَا غُلَامُ تَحْتَاجُ إِلَى إِيْمَانٍ يُسِيرُكَ فِي طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى يُقَيِّنُكَ فِيهِ تَحْتَاجُ فِي أَوَّلِ سُكُوكِكَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ إِلَى هَمِيَانٍ وَ فِي آخِرِهِ إِلَى إِيْمَانٍ بِخِلَافِ طَرِيقِ مَكَّةَ بَعْضُهُمْ قَالَ طَرِيقُ مَكَّةَ يَحْتَاجُ إِلَى إِيْمَانٍ وَ هَمِيَانٍ وَ هَذِهِ

راستہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ابتدا و انتہا میں ہمایان اور ایمان کا حاجت مند ہے۔

حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ سے مروی کہ جب آپ ابتدا میں طلب علم کے لیے چلے تو آپ کی کمرب پانچ سو دینار کی ایک ہمایان تھیلی اٹھی اس میں سے آپ خرچ کرتے اور علم سیکھتے تھے اور اس پر ہاتھ مار کر فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتا تو لوگ مجھے پامال کر دیتے رد مال پونجھیں بنالیتے پس جب آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے حق عزوجل کو پہچان لیا تو تمام بقیہ مال ایک ہمدان میں فقیروں پر خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اگر آسمان لوہے کا بن کر مینہ نہ برسائے اور زمین پتھر کی بن کر سبز نہ اودگائے اور میں اپنی روزی کا اہتمام کروں تو میں اپنے آپ کو کافر جانوں کیونکہ رزاق مطلق پر اعتماد نہ رکھا، تو اس وقت تک کسب۔ اور سبب کے ساتھ تعلق کو اپنے اوپر لازم پکڑ کر تیرا ایمان فوت پکڑ لے پھر تو سبب سے سبب کی طرف منتقل ہو جا کر وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے اس پر پورا بھروسہ کرے انبیاء علیہم السلام نے ابتدا کسب بھی کیا اور قرض بھی لیا اور سببوں کے ساتھ تعلق بھی رکھا۔ اور آخر میں صرف توکل اختیار کیا۔ انہوں نے ابتدا و انتہا میں شرعاً اور حقیقتاً کسب و توکل دونوں کو جمع کیا وہ دونوں کے جامع رہے۔

الطَّرِيقُ الَّتِي قَدْ أَشْرْتُ إِلَيْهَا حَتَّاجٌ إِلَى هَمِيَّانٍ وَلَا إِيْمَانٍ بَدَايَةٍ وَنَهَايَةٌ عَنْ سَفِيَّانِ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ عَلَى وَسْطِهِ هَمِيَّانٌ فِيهِ خَمْسُ مِائَةٍ دِينَارٍ يُنْفِقُ مِنْهُ وَيَتَعَلَّمُ وَيَدُّقُ عَلَيْهِ يَبْدَاهُ وَيَقُولُ لَوْلَاكَ لَتَسَدَّلُوا بِمَا فَلَمَّا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَعَرَفَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ انْفَقَ مَا بَقِيَ مَعَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَقَالَ لَوْ أَنَّ السَّمَاءَ حَدِيدٌ لَا تُمْطَرُ وَالْأَرْضُ صَخْرٌ لَا تُنْبِتُ وَاهْتَمَمْتُ بِرِزْقِي فِي الطَّلَبِ إِنِّي كَافِرٌ عَلَيْكَ يَا كَسْبٌ وَالتَّعَلُّقُ بِالسَّبَبِ إِلَى أَنْ يَقْوَى إِيْمَانُكَ ثُمَّ انْتَقَلَ مِنَ السَّبَبِ إِلَى الْمُسَبَّبِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اكْتَسَبُوا وَافْتَرَضُوا وَتَعَلَّقُوا بِالسَّبَبِ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ وَفِي الْآخِرِ تَوَكَّلُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْكَسْبِ وَالتَّوَكُّلِ جَمَعُوا بَيْنَ الْكَسْبِ وَالتَّوَكُّلِ بَدَايَةٌ وَنَهَايَةٌ شَرِيعَةٌ وَحَقِيقَةٌ

يَا مَحْرُومٌ لَا تَحُلْ مِنْ يَدِكَ الْكَسْبَ فِي التَّوَكُّلِ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَتَكْدِي مِنْهُمْ فَتَكْفُرُ نِعْمَةً

اے محروم تو اپنے ہاتھ سے کسب کو نہ چھوڑ اور لوگوں کے پاس جو مال و اسباب اس پر بھروسہ کر کے ان سے بھیک مانگنے لگے ایسا نہ کر ایسا کرنے سے تو مقدار نعمت کا ناشکر بن جائے گا۔

الْأَقْدَارِ فَيَمُوتُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
يُبْعِدُكَ تَرْكُ الْكَسْبِ وَالْكَذِبِ مِنَ  
النَّاسِ عُقُوبَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لِلْعَبْدِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا زَالَ  
مُدْكُهُ عَاقِبَةً بِأَشْيَاءٍ مِنْ جُحْلَتِهَا  
الْكَذِبِ مِنَ النَّاسِ كَانَ فِي أَيَّامِ  
مَمْلُكَتِهِ يَكْتَسِبُ وَيَأْكُلُ فَكَمَّا  
ضَيَّقَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ  
مِنْ مَمْلُكَتِهِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ طُرُقَ  
الْأَرْزَاقِ حَتَّى أَكْدَى مِنَ النَّاسِ  
وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ عِبَادَةُ امْرَأَةٍ  
فِي بَيْتِهِ تَمَثَّلًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَبَقِيَ  
فِي الْعُقُوبَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمَ يَوْمِ  
الْقَوْمِ لَا فَرَحَةَ لِعِبَادِهِمْ وَلَا وَضْعَ  
لِحَبِيرِهِمْ لَا قَرَارَ لِعِيُوبِهِمْ لَا سَلْوَةَ  
لِمَصَابِيهِمْ حَتَّى يَلْقُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلَقَاؤُهُمْ عَلَى صُرْبَيْنِ لِقَاءٌ فِي  
فِي الدُّنْيَا يَلْقَوْنَهُمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَ  
هُوَ نَادِرٌ وَلِقَاءٌ فِي الْآخِرَةِ إِذَا لَقُوا  
رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ جَاءَهُمْ الْهَنَاءُ وَ  
الْفَرَحُ أَمَّا قَبْلَ هَذَا فَمَصَابِيهِمْ  
دَائِمَةٌ وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
بَعْدَ كَلَامِ النَّفْسِ -

يَا غُلَامُ اِمْنَعَهَا الشَّهَوَاتِ وَ  
الذَّلَاتِ وَاطْعِمَهَا طَاهِرًا لَا يَكُونُ

پس اللہ عزوجل تجھ پر عذاب کرے گا اور تجھ کو اپنے قرب  
سے دور کر دے گا۔ کسب کا چھوڑ دینا۔ اور لوگوں  
سے بھیک مانگنا بندہ کے لیے عذاب الہی ہے۔  
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت جاتی رہی  
تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو چند طریقوں سے آزمایا منجملہ اُس  
کے دوسرے لوگوں سے سوال کرنا بھی تھا۔ اپنے  
زمانہ سلطنت میں کسب کر کے کھاتے تھے پس جب  
اللہ تعالیٰ نے اُن پر تنگی ڈالی اُن کو اُن کی حکومت سے  
نکال دیا اور اُن پر رزق کے راستہ تنگ کر دیئے یہاں  
تک کہ آدمیوں سے سوال کرنے لگے اور اس کا سبب  
راپ کی لاعلمی میں آپ کے گھرمیں چالیس دن تک ایک  
عورت کا بت پرستی کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ پس اُس کی بت  
پرستی کے عوض چالیس دن تک آپ کو عقوبت میں رکھا  
ایک دن کا بدلہ ایک دن رکھا گیا۔ اہل اللہ جب تک خلا  
سے ملاقات نہیں کر لیتے اُن کے غم کو فرحت اور اُن  
کے بوجھ کو سر سے اتارنا اور اُن کی آنکھوں کو قرار اور اُن کی  
مصیبتوں کو تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اُن کی ملاقات  
رب تعالیٰ سے دو قسم کی ہے ایک ملاقات دنیوی  
دل اور اسرار سے اور وہ نادر ہے اور دوسری ملاقات  
اخروی آنکھوں سے۔ جب وہ خدا سے ملیں گے اُن  
کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن اس سے قبل پس اُن کی  
مصیبتیں دائمی ہیں اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے  
نفس کے بارے میں کچھ کلام فرما کر ارشاد کیا۔

اے غلام تو اپنے نفس کو شہوتوں اور لذتوں سے  
روک اور اس کو پاک کھانا کھلا جو کہ پلیس دہ نہ ہو۔

حلال پاک ہے اور حرام ملیدہ ناپاک۔ پھر فرمایا تو حلال سے بھی  
اُس کو کم غذا دے تاکہ نفس غرور نہ کرنے لگے اور اترا کر ادب کو  
بھول جائے۔

اے اللہ ہم کو اپنی معرفت دے تاکہ ہم تجھ کو پہچان  
لیں آمین۔

نَجَسًا ظَاهِرًا الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ الْخَسْرَ  
ثُمَّ قَالَ قَلِيلٌ غِذَاءُهَا مِنَ الْحَلَالِ حَتَّى لَا  
تَبْطُرَ وَتَشْتَمَّ وَتَنْسَى الْأَدَبَ.  
اللَّهُمَّ عَزِّ فُتَايَكَ حَتَّى نَعْرِفَكَ  
آمِينَ.

## انتیسویں مجلس

## المجلس التاسع والعشرون

### دنیا دار کی تعظیم کرنے کے بیان میں

الرجادی الآخری ۵۴۵ھ کو مدرسہ قادریہ میں  
ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ حقیقی جو  
کوئی غنی کی تعظیم کے لیے ہلا۔ اُس مال کی خواہش میں جو اُس  
قبضہ میں ہے کھڑا ہو تو اُس کا دو تہائی دین چلا گیا۔ اے  
منافع سنو یہاں کے لیے فرمایا جو امیروں کے لیے حرکت کرے  
ہے۔ اُن کی امداد کی وجہ سے تعظیم کرے پس کیا حال ہوگا  
اُس کا جو اُن کے لیے نماز روزہ حج کرے گا اور ان کی دینر  
چومے گا۔ اے اللہ کے ساتھ شکر کرنے والو تم کو کچھ اللہ  
اور اُس کے رسول سے خبر نہیں۔ تم مسلمان بنو اور توبہ کرو اور  
توبہ میں اخلاص پیدا کرو تاکہ تمہارا ایمان ترقی کرے اور تمہارے  
یقین میں تزلزل پیدا نہ ہو اور تمہاری توحید نشوونما حاصل کرے  
پس اُس کی شاخیں عرش الہی تک پہنچ جائیں۔

اے غلام جب تیرا ایمان ترقی کرے گا اور  
اُس کا درخت اونچا ہو جائے گا تو حق عزوجل تجھ کو خود تجھ سے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمَدْرَسَةِ وَحَادِي عَشَرَ  
بِجَارِي الْآخِرَةِ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَزَعَزَعَ لِعَنِي طَلَبًا لِمَا فِي  
يَدَيْهِ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ رِاسْمَعُوا يَا  
مُنَافِقُونَ هَذَا لِمَنْ تَزَعَزَعَ لِلْغَنَاءِ  
فَكَيْفَ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَحَبَّ لَهُمْ  
وَقَبِلَ أَعْتَابَهُمْ يَا مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ مَا عِنْدَكُمْ مِنْهُ وَلَا مِنْ  
رَسُولِهِ خَبَرٌ أَسْلِمُوا وَتَوَبُّوا وَأَخْلَصُوا  
فِي التَّوْبَةِ حَتَّى يَتَرَبَّى إِيْمَانُكُمْ وَلَا  
يَتَزَعَزَعُ إِيْقَانُكُمْ وَكَيْنَشَوْ تَوْحِيدَكُمْ  
فَتَصْعَدُ فَرْوَعُهُ إِلَى الْعَرْشِ  
يَا غُلَامُ إِذَا تَرَبَّى إِيْمَانُكَ وَ  
صَعِدَتْ شَجَرَتُهُ أَعْنَاكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ

عَنْكَ وَ عَنِ الْخَلْقِ يُغْنِيكَ عَنْ  
كَسْبِكَ وَعَنْ اِكْتِسَابِكَ الْحَقُّ عَزَّ  
جَلَّ يُشْبِعُ نَفْسَكَ وَقَلْبَكَ وَسِرَّكَ  
يُوقِفُكَ عَلَى بَابِهِ وَيُعَيِّنُ فَتَرَكَ  
يَذْكُرُهُ وَفَرِيهَ وَالْأُنْسَ بِهِ وَلَا  
تُبَالِي بِمَنْ أَكَلَ مِنَ الدُّنْيَا وَاشْتَغَلَ  
بِهَا لَا تُبَالِي بِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَتَصِيرُ  
رُؤْيَاكَ لَهُ رَحْمَةً وَكَلْفَةً وَ  
ظُلْمَةً يَا مَنْ يَدْعِي الْعِلْمَ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا  
مِنْ اِبْنَاءِهَا وَيَذِلُّ لَهُمْ قَدْ اَصْلَكَ  
اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ ذَهَبَتْ بَرَكَتُهُ عَلَيْكَ  
ذَهَبَ لُبُّهُ وَبَقِيَ قَشْرُهُ وَأَنْتَ يَا  
مَنْ يَدْعِي الْعِبَادَةَ وَقَلْبُهُ يَعْبُدُ  
الْخَلْقَ وَ يَخَافُهُمْ وَيَرْجُوهُمْ ظَاهِرُ  
عِبَادَتِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ بَاطِنُهَا  
لِلْخَلْقِ كُلِّ طَلَبِكَ وَهَمِّكَ لِمَا  
بِأَيْدِيهِمْ وَمِنَ الدُّرْهِمِ وَالْدِّيْنَارِ  
وَالْحُطَامِ تَرْجُوا أَحْمَدَهُمْ وَتَنْتَاءَهُمْ  
وَتَخَافُ ذَمَّهُمْ وَاعْرَاضَهُمْ تَخَافُ مِنْ مَنَعِهِمْ وَتَرْجُوا  
عَمَلَهُمْ بِشَرِّهِ تَمَادِيكَ وَتَخَافُ دُعَاكَ وَلِيْنِ  
كَلَامِكَ عَلَى آبَوَائِهِمْ .

وَيْلَكَ أَنْتَ مُشْرِكٌ مُتَافِقٌ  
مُرَائِي مَدَاخِلُ زِنْدِيقٍ وَيَلَكَ  
عَلَى مَنْ تَتَّبَعُ رَجْمَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ  
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ رَيْلَكَ

اور تمام خلق سے بے پروا کر دے گا۔ کسب و اکتساب سے  
بے نیاز بنا دے گا۔ تیرے نفس اور تیرے قلب  
اور تیرے باطن کو سیر کر دے گا۔ تجھ کو اپنے آستانہ  
پر لا کر کھڑا کر دے گا اور تیرے فقر کو اپنے ذکر و قرب  
اور اُنس سے دفع کر دے گا۔ اور تو اُن لوگوں سے جو  
کو دنیا حاصل کرنے والے اور اُس میں مشغول رہنے والے  
ہیں بے پروا ہو جائے گا تو کسی دنیا دار کی پروا نہ کرے  
گا تجھ کو اُن کا دیکھنا سبب زحمت و کلفت اور موجب  
ظلمت کا ہو جائے گا۔ اے علم کے دعوے دار دنیا کو  
اہل دنیا سے طلب کرنے والے اے اُن سے عاجزی  
کرنے والے حق تعالیٰ نے تجھے باوجود علم دینے کے گمراہ  
بنا دیا تیرے علم کی برکت جاتی رہی اُس کا مغر جاتا رہا  
پرست باقی رہ گیا۔ اے وہ شخص جو کہ عبادت کا مدعی ہے  
اور اُس کا قلب خلق کی عبادت کرتا اور اُن سے امیدواری  
کرتا ہے ظاہر میں تیری عبادت اللہ عزوجل کے لیے  
ہے اور باطن میں خلق کے لیے۔ تیری تمام خواہش و ہمت  
دنیا والوں کے درہم و دینار اُن کے مال و اسباب  
سے ہے تو اُن کی حمد و ثنا کا امیدوار ہے اور اُن کی  
یرائی اور روگردانی سے ڈرتا ہے۔ تو اُن کے منع کرنے  
سے ڈرتا ہے اور اُن کے دروازوں پر بار بار جانے  
اور چاہی ہوئی کرنے اور مٹھی اور زم بائوں کے کرنے سے اُن کی بخشش کا امیدوار  
تجھ پر افسوس ہے تو تو مشرک منافق ریاکار بے جا دخل دینے  
والا ہے دین ہے تجھ پر افسوس ہے تو اپنا کھوٹا مال کس پر  
پیش کر رہا ہے اُس پر جو کہ آنکھوں کی خیانت  
اور سینوں کے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ تجھ پر افسوس

تَقِفْ فِي الصَّلَاةِ وَتَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
وَأَنْتَ تَكْذِبُ فِي قَوْلِكَ الْخَلْقُ فِي  
قَلْبِكَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَعْمَلْ حَسَنَةً  
لِغَيْرِهِ لَا لِلدُّنْيَا وَلَا لِآخِرَةٍ كُنْ  
مِمَّنْ يَرْيَدُ وَجْهَهُ أَعْطِ الزُّبُيَّةَ  
حَقَّهَا لَا تَعْمَلْ لِلْحَبِيدِ وَالشَّيْءِ لَا  
لِلْعَطَاءِ وَلَا لِلْمَنْعِ وَيُحَكِّ رِزْقَكَ  
لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مَا قَدْ قَضَى  
عَلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ لَا بُدَّ مِنْ  
مَجِيئِهِ فَلَا تَسْتَعِزَّ بِشَيْءٍ قَدْ فُرِعَ  
مِنْهُ

وَأَسْتَعِزَّ بِطَاعَتِهِ قَلِيلَ حِرْصِكَ وَ  
قَصْرَ أَمَلِكَ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ نَصِيبَ  
عَيْنِكَ بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي جَمِيعِ  
أَحْوَالِكَ

يَا قَوْمُ أَلَيْسَ قَدْ بَقِيَ عِنْدَكُمْ  
مِنْ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ قَدْ تَرَكْتُمُوهُ  
مِنْ أَيْدِي ظَوَاهِرِكُمْ وَبَوَاطِنِكُمْ وَ  
بِعَتُّمُ نَفُوسِكُمْ وَأَهْوَيْتُمْ وَ  
اعْتَرَزْتُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكُمْ  
يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ يَرْفَعُ الْعَذَابَ وَالنَّكَالَ  
عَنْكُمْ وَفِي الْآخِرَةِ يُنْزِلُهُ عَلَيْكُمْ  
مِنْ جَمِيعِ جَهَنَّمَ يَا خُذْكَ وَيَبْطِشْ  
بِكَ ثُمَّ يَجِئُكَ الْمَوْتُ وَالتَّزْوِيلُ

تو نمازیں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے حالانکہ تو  
اپنے سچے قول اللہ اکبر میں جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ تیرے  
قلب میں (مخلوق) اللہ عزوجل سے برتر ہے۔ تو جلد اللہ  
کی طرف رجوع کر تو برکرا اور کوئی نکوئی غیر اللہ کے لیے  
نہ کرنے دنیا کے لیے اور نہ آخرت کے لیے تو ان لوگوں  
سے ہو جا جو کہ محض ذات الہی کے طالب ہیں۔ ربوریت  
کا حق ادا کر۔ کوئی کام حمد و ثنا اور منع و عطاء کے لیے  
نہ کر ہر عمل سے مقصود خدا ہی ہو تجھ پر افسوس تیرا مقدر  
رزق تو گھٹنے بڑھنے والا نہیں جو کچھ بھلائی و برائی تیرے  
مقدر میں لکھی جا چکی ہے اس کا آنا ضروری ہے تو  
ایسی چیزیں جس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے مشغول نہ  
رہ اپنی حرص کو کم دے اور آرزو کو کوتاہ کر اور موت کو  
اپنے پیش نظر رکھ۔ تو یقیناً نجات پالے گا۔ تمام حالتوں  
میں موافقت شریعت کو لازم پکڑ

ۛ

اے قوم کیا تمہارے پاس موافقت شریعت  
باقی نہ رہی ہے تم نے اس کو اپنے ظاہر و باطن کے ہاتھوں  
چھوڑ دیا اور اپنے نفسوں اور خواہشوں کے  
مابعدار بن گئے۔ اور خدا کی برباداری سے دھوکہ  
میں پڑ گئے وہ بیچے بددیگر سے دن بدلہ تم  
سے عذاب و سزا کو اٹھاتا رہتا ہے آخر میں وہ  
اس کو تم پر ہر طرف سے اتار دے گا۔ کیا ایک  
تم کو پکڑے گا۔ اور گرفتار کرے گا۔  
پھر تمہیں موت آجائے گی یا اور موت کے بعد قبر میں

إِلَى الْقَبْرِ فَتَلْقَى صَنِيقَهُ وَعَدَا أَبَهُ فَتَبْقَى  
فِي ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ثُمَّ يُعَادُ  
إِلَيْكَ يَنْيَتُكَ وَتُحْشَرُ إِلَى الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ  
فَتَحَاسِبُ عَلَى الذَّرَاتِ وَعَلَى جَمِيعِ مَا  
عَمِلْتَ فِي السَّاعَاتِ تُسْأَلُ عَنِ الْقَلِيلِ  
وَالْكَثِيرِ أَنْتَ صَنَمٌ بِلَا رُوحٍ جِلْدٌ  
يَابِسٌ بِلَا مَعْنَى وَلَا قُوَّةٍ لَا تَصِلُهُ  
إِلَّا لِلنَّارِ عِبَادَتُكَ لَا إِخْلَاصَ فِيهَا  
قَادًا إِلَّا رُوحٌ فِيهَا لَا تَصِلُهُ أَنْتَ وَ  
عِبَادَتُكَ إِلَّا لِلنَّارِ مَا تَحْتَاجُ تَتَعَبُ  
إِنْ لَمْ تَخْلُصْ فِي الْأَعْمَالِ مَا يُفِيدُ  
مِنْهَا شَيْءٌ أَنْتَ مِنَ الْعَامِلَةِ النَّاصِبَةِ  
عَامِلَةٌ فِي الدُّنْيَا نَاصِبَةٌ فِي النَّارِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَتَعْتَدِرَ  
قَبْلَ يَحْيَى الْمَوْتِ ارْجِعْ إِلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ بِتَجَدِيدِ الْإِسْلَامِ وَ  
حُسْنِ التَّوْبَةِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا قَبْلَ  
أَنْ يَحْيَى الْمَوْتِ فَيُغْلِقَ الْبَابَ فِي  
وَجْهِكَ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الدُّخُولِ إِلَى  
بَابِ التَّوْبَةِ ارْجِعْ إِلَيْهِ بِإِقْدَامٍ  
قَلْبِكَ حَتَّى لَا يُغْلِقَ فِي وَجْهِكَ  
بَابَ فَضْلِهِ وَيَكِلْكَ إِلَى نَفْسِكَ  
وَحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَمَالِكَ وَكَأ  
يُبَارِكُ لَكَ فِي جَمِيعِ مَا أَنْتَ فِيهِ -  
وَيُحَكِّمُ مَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ

اترنا ہو گا اُس وقت قبر کی تنگی اور اُس کا عذاب تجھ سے  
ملے گا۔ بعد قیامت تک اسی حالت میں تو باقی رہے گا۔  
پھر دوبارہ تیرا جسم پیدا کیا جائے گا اور تو بڑی پیشی کی طرف  
لایا جائے گا اور اُس وقت ذرہ ذرہ کا اور منٹ منٹ  
میں جو کچھ تو نے کیا تھا سب کا حساب لیا جائے گا ہر  
قلیل و کثیر کا تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو بغیر روح کا  
بت اور بغیر حقیقت و قوت کا سوکھا چڑا ہے۔ سوا جہنم  
کے کسی امر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تیری عبادت میں  
اخلاص نہیں پس جب تیری عبادت بغیر روح کی ہے  
تو تو اور تیری عبادت جہنم کے سوا کسی چیز کی صلاحیت  
نہیں رکھتی جب تو اپنے عملوں میں اخلاص نہیں کرتا تو تجھے  
اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا حاجت ہے تجھے اُن  
میں سے کوئی شے فائدہ نہ دے گی تو اُس جماعت میں سے  
ہے جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے عالمہ ناصبتہ عمل کرنے والی مشقت  
نعم اٹھانے والی وہ دنیا میں عمل کرنے والی ہے قیامت کے دن دوزخ  
میں مشقت اٹھانے والی ہاں موت کے آنے سے پہلے تو توبہ و معذرت کر لے  
تو نجات پاسکتا ہے تو موت کے آنے سے پہلے اسلام کی تجدید کر کے توبہ  
اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرے موت کے آنے کے وقت  
تیرے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اُس وقت تو توبہ کے  
دروازہ میں داخل ہونے پر تو قادر نہ ہو گا تو اپنے قلب کے  
قدموں سے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کہ وہ  
تیرے اوپر اپنے فضل کا دروازہ بند نہ کر دے اور وہ  
تجھ کو تیرے نفس و طاقت و موت و مال کی طرف کہیں  
حوالہ نہ کر دے اور پھر تجھے کسی حالت میں برکت نہ دے۔  
تجھ پر افسوس تو اللہ عزوجل سے نہیں شرماتا۔

وَقَدْ جَعَلْتَ دِينَارَكَ رَبَّكَ وَدِرْهَمَكَ  
هَمَّكَ وَنَسِيَّتَهُ بِالْكِلْيَةِ عَنْ قَرِيبٍ  
تَرَى خَبَرَكَ

وَيُحَكِّكَ إِنْ جَعَلَ دُكَّانَكَ وَمَالَكَ  
لِعِيَالِكَ تَكْسِبُ لَهُمْ بِأَمْرِ الشَّرِّحِ وَ  
يَكُونُ قَلْبُكَ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ أَطْلُبُ رِزْقَكَ وَرِزْقَهُمْ  
مِنْهُ لَا مِنَ الْمَالِ وَالْذُّكَّانِ فَيَجْرِي  
رِزْقُكَ وَرِزْقَهُمْ عَلَى يَدِكَ وَيَجْعَلُ  
فَضْلَهُ وَقُرْبَهُ وَالْأُنْسَ بِهِ لِقَلْبِكَ  
يُغْنِي عِيَالَكَ عَنْكَ وَيُغْنِيكَ بِهِ  
يُغْنِيهِمْ بِمَا شَاءَ وَكَيْفَ يَشَاءُ وَيُقَالُ  
لِقَلْبِكَ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِعِيَالِكَ كَيْفَ  
تَصِلُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَأَنْتَ عُمْرُكَ  
كُلُّهُ مُشْرُوكٌ مَحْجُوبٌ مَظْرُودٌ لَا  
تَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا وَجَمِيعَهَا أَعْلَى بَابٍ  
قَلْبِكَ وَآيُنُسُ الْكُلِّ مِنَ الدُّخُولِ  
إِلَيْهِ وَآيُنُلُ فِيهِ ذِكْرُ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ حَسْبُ وَتَبُ تَوْبَةً فِي إِثْرِ تَوْبَةٍ  
مِنْ أَعْمَالِكَ وَنَدَامَةٌ فِي إِثْرِ نَدَامَةٍ  
مِنْ نَحْوَتِكَ وَسَوْءٌ أَدَبِكَ وَآكُثَرُ  
الْبُكَاءِ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَوَأْسُ الْفُقَرَاءِ  
بِشَيْءٍ مِنْ مَالِكَ لَا تَبْخُلُ بِهِ فَعَنْ  
قَرِيبٍ تُفَارِقُهُ أَلَمْؤُومٌ مِنَ الْمَوْقِنِ بِالْخَلْفِ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا يَكُونُ بَخِيلًا عَنْ

تو نے اپنے دینار کو اپنا رب اور اپنے درہم کو اپنا مقصود  
بنالیا ہے۔ اور اللہ عزوجل کو کھینٹا مچھلا دیا ہے تجھے عنقریب  
اپنی خبر معلوم ہوگی تو اپنا انجام دیکھے گا۔

تجھ پر افسوس تو اپنی دوکان اور اپنے مال کو اپنے  
اہل و عیال کا حصہ بناؤں گے یہ موافق امر شرع کسب کر اور  
تیرا قلب اللہ عزوجل پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ اپنا اور ان کا  
رزق خدا ہی سے طلب کرنے کہ مال و دوکان سے۔ اس حالت  
میں وہ تیرا اور ان کا رزق تیرے ہاتھ پر جاری فرما دے گا  
اور تیرے قلب میں اپنے فضل و قرب اور اس کو جگہ دے  
دے گا تیرے اہل و عیال کو وہ تجھ سے بے نیاز کر دے گا  
اور تجھ کو اپنی ذات کے ساتھ تو لگ رہی بنے گا۔ وہ ان کو جس طور  
اور جس کیفیت سے چاہے گا تو مگر وہ بے نیاز بنا دے گا اور  
تیرے قلب کے کہا جائے گا کہ یہ قلبی بے نیازی تیرے لیے ہے  
اور یہ ظاہری مال تیرے اہل و عیال کے لیے تو اس مقام تک  
کیسے پہنچ سکتا ہے حالانکہ تو اپنی تمام عمر میں شرک کرنے والا  
اور محجوب و راندہ درگاہ رہا ہے۔ دنیا اور اس کے جمع کرنے  
سے تیرا پرہیز ہی نہ بھلا۔ تو اپنے قلب کے دروازہ کو بند کر اور ہر  
ایک دنیوی شے کو اس کے اندر داخل ہونے سے ناامید  
کر دے اور اس میں محض ذکر الہی کو جگہ دے اور اپنے برے  
عملوں سے توبہ پر توبہ کر اور ندامت پر ندامت اور اپنے غرور  
اور بے ادبی پر شرمندہ ہو اور جو کچھ تجھ سے ہوا اس پر اکثر  
روتا رہ اور اپنے کسی قدر مال سے فقیروں کی غم خواری کرتا  
رہ مال کے ساتھ بغل نہ کر پس عنقریب تو اس سے جدا ہو جائے گا  
ایمان دار یقینی رکھنے والا اس چیز سے بغل نہیں کرتا جس کا عوض  
دنیا و آخرت دونوں میں ملنے والا ہے اور وہ بھی نعم البدل

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ لَا تَلْبِسُ  
مَنْ أَحَبَّ الْخَلْقَ إِلَيْكَ قَالَ مُؤْمِنٌ  
بَخِيلٌ قَالَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ إِلَيْكَ قَالَ  
فَاسِقٌ كَرِيهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ ذَلِكَ  
قَالَ لِأَنِّي أَرْجُو الْمَوْتَ مِنَ الْبَخِيلِ أَنْ  
يُوقِعَهُ بِخُلَّةٍ فِي الْمَعْصِيَةِ وَآخَافُ  
مِنَ الْفَاسِقِ الْكَرِيمِ أَنْ تَنْهَى سَيِّئَاتِهِ  
يَكْرَهُهُ اسْتَعْلَى بِالدُّنْيَا لِلدُّنْيَا الشَّرُّ  
إِنَّمَا شَرُّهُ الْكُسْبُ يَسْتَعَانُ بِهِ عَلَى  
طَاعَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَمَا أَنْتَ إِذَا  
الْتَسَبْتَ اسْتَعْنَتْ بِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ  
وَتَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَفَعَلَ الْخَيْرَ وَلَمْ  
تُخْرِجِ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ فِي مَعْصِيَةٍ لَا  
فِي طَاعَةٍ يَصِيرُ كَسْبُكَ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ  
عَنْ قَرِيبٍ يَجِيءُ الْمَوْتَ فَيَخْرُمُ بِهِ  
إِلْمُؤُهُمْ وَيَعْتَمِدُ بِهِ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ مِنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ  
مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا وَلَا سَاعَةَ لِمَا يَرَى  
مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ آيَةُ  
النَّارِ الثَّابِتُ الثَّابِتُ عَلَى تَوْبَتِهِ آيَةُ  
الْمُسْتَحْيِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَأْتِبُ  
لَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ آيَةُ الْمُتَعَفِّفِ  
عَنِ الْمَحَارِمِ فِي خَلْوَتِهِ وَجَلْوَتِهِ إِنَّ  
الْفَاضِلَ لَيَبْصُرُ قَلْبَهُ وَقَالِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنے ابلیس بعین سے  
دریافت کیا کہ مخلوق میں تجھ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے  
جواب دیا بخیل مسلمان اور فرمایا سب سے زیادہ دشمن تیرا کون ہے  
جواب دیا کہ میں بخیل مسلمان سے اس امر کی امید رکھتا ہوں کہ  
اُس کا بخل اُس کو گناہ میں ڈال دے گا اور میں فاسق کریم سے  
خوف کرتا ہوں کہ اُس کے کرم کی وجہ سے اُس کے گناہ محو  
کر دیئے جائیں گے۔ تو دنیا میں دنیا کے واسطے مشغول  
نہ ہو، شرع مقدس نے کسب کو اس لیے مشروع کیا ہے  
تاکہ اُس کے ذریعہ سے طاعت الہی پر مدد ملی جائے لیکن  
تو نے جب کمائی کی معصیت پر مدد چاہی اور نماز اور  
کار خیر کو چھوڑ دیا اور مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ پس تو  
معصیت میں مصروف رہا نہ کہ طاعت میں۔ تیری کمائی  
گو یا مثل رہزنی کے ہوگی تو ڈاکو ڈالنے لگا۔ عنقریب موت  
آئے گی پس مسلمان تو اُس سے خوش ہوگا اور کافر و  
منافق غلیظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی  
ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بر تحقیق جس وقت مسلمان  
مرتا ہے تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے  
سوا مقیم نہ رہتا کیونکہ وہ وہاں اللہ کا فضل و کرم  
دیکھتا ہے۔ کہاں ہے تو برب کرنے والا اور اُس  
پر قائم رہنے والا۔ کہاں ہے اللہ عز و جل سے  
جیا کرنے والا۔ تمام حالتوں میں اُسی کی طرف  
نظر رکھنے والا کہاں ہے حرام چیزوں سے  
اور محارم سے خلوت و جلوت میں پارسائی  
کرنے والا۔ کہاں ہے اپنے قلب و جسم  
کی آنکھ کا پست رکھنے والا۔ حضور نبی کریم

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم اَنَّهُ قَالَ اِنَّ  
الْعِیْنِیْنِ لَتَزْنِیَانِ وَرِنَاهُمَا النَّظْرُ اِلَى  
الْمَحْرَمَاتِ كَمَا تَزْنِیْ عَیْنَاكَ بِالنَّظْرِ  
اِلَى الْمَحْرَمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبَّیَّانِ  
اَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ  
لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ یَا  
فَقِیْرٌ اَصْبِرْ عَلٰی قَفْرِكَ فَاِنَّ قَفْرَ  
الدُّنْیَا یَنْقُطُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی  
عَلَیْهِ وَسَلَّم اَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِیَ  
اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا یَا عَائِشَةُ یَخْرَعُ مَرَّۃً  
الدُّنْیَا لِیُعِیْمَ الْاٰخِرَةَ مَا تَدْرِیْ مَا  
اَسْمُكَ مَعَ الْقَوْمِ شَقِیٌّ اَمْ سَعِیْدٌ  
مَعْلُوْمٌ اَنْ هَذَا فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَسَابِقَتِهِ لَیْكُنْ لَا تَتْرُکُ الْخَوْفَ  
وَتَتَّكِلُ عَلٰی الْعِلْمِ وَالسَّابِقَةِ فَتَمُرَّ  
عَنْ حَدِّ الشَّرْعِ اِجْهَدْ فِیْ فِعْلٍ مَا  
اُمِرْتَ بِهٖ وَمَا عَلَیْكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ  
السَّابِقِ هَذَا شَیْءٌ مَا تَعْلَمُهٗ اَنْتَ وَلَا  
غَیْرُكَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْعُیُوْبِ الْقَوْمُ  
طَوُّوا فِرَاشَ الدُّنْیَا وَتَنَحَّوْا عَنْهَا  
وَقَامُوا بَیْنَ یَدَیْ مَوْلَاهُمْ وَاسْتَغْفَلُوا  
بِحَدَمَتِهِ مَعَ خَدَمِهِ یَا خُدُوْنَ مِنْهَا  
تَزُوْدًا لَا تَتَعَمَّأَ بَلْ یَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ  
ضُرُوْرَةً یُقَوِّمُوْنَ بُنْیَانَهُمْ عَلٰی  
الْعِبَادَةِ وَیُحْصِنُوْنَ فُرُوْجَهُمْ مَنْ

علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا  
برحق دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اور اُن کا زنا ناجہلی عورتوں  
کا دیکھنا ہے۔ اسے مخاطب تیری آنکھیں اجنبی غیر محرم  
عورتوں اور امر و نہیوں کو دیکھ کر کس قدر زنا کرتی ہیں۔ اُنکو  
نے اللہ عزوجل کا ارشاد سنا (یعنی نہیں سنا) کہ آپ  
مسلمانوں سے فرمادیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو پسیت جھکا  
ہوا رکھیں۔ اسے فقیر تو اپنے دنیوی فقر و محتاجی پر مگر کہ وہ  
ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ آپ  
نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اسے عائشہ!  
دنیا کی تلخی کے گھونٹ کو آخرت کی نعمتوں کے لیے اُن  
کے شوق میں پیو۔ ابے مخاطب تو نہیں جانتا کہ قوم کی  
معیت میں تیرا کیا نام ہے۔ شقی یا سعید یہ تو اللہ عزوجل کے  
علم اور سابقہ تقدیر میں ہی لکھا جا چکا ہے لیکن تو اس پر  
بھروسہ کر کے خوف الہی کو مت چھوڑو ورنہ تو حد شرعی  
سے باہر نکل جائے گا۔ تجھے جو کچھ حکم ملا ہے اُس کی  
بجا آوری میں کوشش کیے جا۔ تجھے علم سابق سے کیا  
مطلب غرض یہ تو ایسے غیبی امور میں سے ہے جس کو نہ  
تو جانتا ہے نہ کوئی دوسرا تیرے سوا۔ اہل اللہ نے  
دنیا کے فرش کو لپیٹ دیا۔ اور وہ اُس سے علیحدہ ہو  
گئے اور وہ اپنے مولیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر اُس کے  
خادموں کے ساتھ ہیں اُس کی خدمت میں مشغول ہو گئے  
وہ جو کچھ دنیا سے حاصل کرتے ہیں بطور زاد و راہ یعنی  
ذکر منے اڑانے کے لیے بلکہ وہ یہ ضرورت ایسا کرتے  
ہیں کہ اپنے جسموں کو عبادت کے لیے قائم کر لیں  
اور اپنی شرم گاہوں کو شیطان کے

کید و کمر سے محفوظ رکھ سکیں۔ وہ اس امر میں امر ربی کی بجا آوری کرتے ہیں اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں اسی کے متلاشی رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کا کامل مشغلہ احکام کی بجا آوری اور اتباع سنت میں ہے وہ باوجود اس کے کہ کل اشیاء میں نور ہمت و بلند حوصلگی اور قوت زہد کے ساتھ ممکن ہوتے ہیں۔ اسے اللہ ہم کو اُنہیں میں بنادے اور اُن کی برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ دے آمین۔

اے غلام! جب تک تیرے قلب میں دنیا کی محبت رہے گی تو صالحین کے حالات کو ہرگز نہ پاسکے گا جب تک تو خلق سے بھیک مانگتا رہے گا رنج اٹھاتا رہے گا اُن کے ساتھ شرک کرتا رہے گا۔ تیرے قلب کی آنکھیں نہ کھلیں گی جب تک تو دنیا و خلق سے زہد نہ کرے گا بے نیاز نہ ہو گا تیرا کلام معتبر نہ ہو گا۔ کوشاں بن سنا کہ وہ تجھے نظر آنے لگے جو تیرے غیر کو نظر نہیں آتا۔ خرق عادت ظاہر ہونے لگے تو صاحب کرامت ہو جائے جب تو اُس چیز کو چھوڑ دے گا جو کہ تیرے حساب میں ہے تو تیرے پاس وہ آنے لگے گا جو تیرے حساب میں نہیں جب تو حق عزوجل پر بھروسہ کر لے گا۔ اور اُس سے غفلت و غلوٹ میں ڈرتا رہے گا تو وہ تجھے ایسی جگہ رزق دے گا جہاں نیرا گمان بھی نہیں اور آخر میں اُس کا لینا۔ ابتداء امر میں تلب کو دنیا کے چھوڑنے میں اور خواہشوں کے چھوڑنے میں تکلیف میں ڈالتا ہے اور آخر میں اُس کے حاصل کرنے میں تکلیف اٹھاتا اول حالت پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور دوسری ابدال کے لیے جو طاعت الہی تک پہنچنے والے ہیں۔

كَيِّدَ الشَّيْطَانِ وَمَكْرِهِ يَمْتَثِلُونَ فِي ذَلِكَ أَمَرَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شُعْلِهِمْ فِي إِمْتِنَالٍ عَلَى الْأَقَامِرِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ هُمُ مَع ذَلِكَ يَنْوِرُ لَهُمُ الْقُوَّةَ الزُّهْدَ فِي كُلِّ الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَأَعِدْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ۔ آمِينَ

يَا غُلَامُ مَا دَامَ حُبُّ الدُّنْيَا فِي قَلْبِكَ لَا تَرَى شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ الصَّالِحِينَ مَا دُمْتَ مُكْدِيًا مِنَ الْخَلْقِ مُشْرِكَايَهُمْ لَا تَنْفَعُ عَيْنَا قَلْبِكَ لَا كَلَامَ حَتَّى تَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَالْخَلْقِ كَنْ مُجْتَهِدًا لِتَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُكَ تَخْرُقُ لَكَ الْعَادَةُ إِذَا تَرَكْتَ مَا هُوَ فِي حِسَابِكَ جَاءَكَ مَا هُوَ فِي غَيْرِ حِسَابِكَ إِذَا اعْتَمَدْتَ عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّقَيْتَهُ خَلْوَةً وَجَلْوَةً رَمَقَكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ أَتُرْكُ أَنْتَ يُعْطَاكَ هُوَ إِذْ هَذَا أَنْتَ يَرْغَبُكَ هُوَ فِي الْبَدَايَةِ التَّرْكُ وَفِي الْآخِرَةِ الْإِخْدُ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ تَكَلَّفُ الْقَلْبُ يَتْرُكُ الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ وَفِي آخِرِهَا تَتَاوَلَهَا الْأَوَّلُ لِلْمُتَّقِينَ وَالثَّانِي لِلْأَبْدَالِ الْوَاصِلِينَ

إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا مُرَائِي يَا  
مُنَافِقُ يَا مُشِيرُكَ لَا تُزَايِمُهُمْ فِيمَا  
تُتْرَكُ هُمْ مَعْدُودُونَ لَا تَطْلُبْ أَحْوَالَهُمْ  
فَمَا يَقَعُ بِبَيْدِكَ هُمْ خَرَقُوا الْعَادَاتِ  
وَأَنْتَ حَفِظْتَهَا فَلَا جَرَمَ خَرَقْتَ لَهُمْ  
الْعَادَاتِ وَلَمْ تُخَرِّقْ لَكَ قَامُوا عِنْدَ  
نَوْمِكَ صَامُوا عِنْدَ افْطَارِكَ خَافُوا  
عِنْدَ أَمْنِكَ آمَنُوا عِنْدَ خَوْفِكَ بَدَلُوا  
عِنْدَ امْسَاكِكَ عَمِلُوا لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَعَمِلْتَ أَنْتَ لِغَيْرِهِ أَرَادُوا وَارَدَتْ  
أَنْتَ غَيْرَهُ سَلَّمُوا الْأَمْرَ إِلَيْهِ وَجَادَلْتَهُ  
أَنْتَ حَارَبْتَهُ فَغَتَّوْا بِفَضَائِهِ وَقَطَعُوا  
الْيَسْتَنَّهُمْ عَنِ الشُّكْوَى إِلَى الْخَلْقِ  
وَلَمْ تَفْعَلْ أَنْتَ كَذَلِكَ صَبَرُوا عَلَى  
الْمَرَارَةِ فَانْقَلَبَتْ فِي حَقِّهِمْ حَلَاوَةً  
سَكَكَيْنِ الْقَدَارِ تَقْطَعُ لِحُومَهُمْ  
وَلَا يُبَالُونَ وَلَا يَتَأَلَّمُونَ وَ ذَلِكَ  
لِرُؤْيَيْهِمْ الْمُؤَلِمَ وَ دَهْشَتِهِمْ بِهِ  
الْخَلْقِ مِنْهُمْ فِي رَاحَةٍ لَا يَتَعَدَّى مِنْهُمْ  
إِلَى أَحَدٍ أَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ  
لَا يُؤْذُونَ الدَّيْثَ وَالذَّيْثُ وَهُوَ سَمْلٌ  
صَغَائِرٌ لَا يَكَادُ يُوَاصِلُونَ الْحَقَّ  
عَزَّ وَجَلَّ بِالطَّاعَةِ وَالْخَلْقِ بِحُسْنِ  
الْعُشْرَةِ وَالْأَهْلَ بِالصِّلَةِ هُمْ فِي نَعِيمٍ  
دُنْيَا وَ أُخْرَى فِي الدُّنْيَا نَعِيمُ الْقُرْبِ

اے ریاکار اے منافق۔ اے مشرک جس چیز کو ترک کیا جاتا  
ہے اس میں تو ان سے مزاحمت نہ کر وہ گنتی کے لوگ ہیں تو  
ان کے عمل طلب نہ کر وہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے انہوں نے  
عادتوں کا خلاف کیا ہے اور تو نے ان کی حفاظت کی  
ہے پس ضرور ان کے واسطے خرق عادات کیا گیا اور تیرے  
لیئے نہ کیا گیا۔ انہوں نے تیرے سونے کے وقت قیام  
کیا تیرے افطار کے وقت روزہ رکھا۔ تیرے امن کے  
وقت خوف اور تیرے خوف کے وقت امن کیا۔ اور تیرے محل  
کے وقت انہوں نے خرچ کیا۔ انہوں نے تمام عمل حق عزوجل  
کے لیے کیے اور تو نے اپنے عمل غیر اللہ کے لیے کیے انہوں  
نے اللہ کا ارادہ کیا اور تو نے غیر اللہ کا انہوں نے اپنا معاملہ اللہ  
کی طرف سپرد کر دیا اور تو اس سے لڑائی اور جوا بدلتی کرتا رہا وہ  
راضی برضا ہے پس بحکم الہی وہ غنی ہو گئے اور انہوں نے اپنی  
زیانوں کو کاٹ ڈالا غنی کی طرف مگر شکایت نہ کی اور تو نے ایسا  
نہ کیا۔ انہوں نے زمانہ کی سختی تلخی پر صبر کیا پس وہ سختی تلخی اس جبر  
رضائی وجہ سے ان کے حق میں شیریں بن گئی۔ تقدیر کی چھریاں  
ان کے گوشت کو قطع کرتی ہیں اور وہ اس سے لاپرواہ ہیں اور  
وہ اس سے تکلیف نہیں پاتے کیونکہ وہ تو صرف رنج دینے والے  
کو دیکھتے ہیں اور وہ اسی کے ساتھ مدوش ہیں۔ ان سے  
مخلوق راحت میں ہے۔ ان کی طرف سے کسی کو رنج نہیں پہنچتا  
ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے اور  
ذرا اس چھوٹی چھوٹی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی نہ آئے۔ ابراہیم  
اللہ عزوجل سے طاعت کے ساتھ اتصال کرتے ہیں اور  
خلق سے حسن معاشرت کے ساتھ اور اہل قرابت صلہ رحم کے  
ساتھ وہ دنیا و آخرت میں نعمتوں میں ہیں دنیا میں نعمت قرب حاصل ہے

اور آخرت میں نعمت جنت اور ان کے لیے دیدار الہی اور خدا سے نزدیک ہونا اور اس کے کلام کا سننا اور اس کے خلعت کا پہننا ان سے تجھے کوئی مشابہت نہیں۔ تو اپنے گناہوں اور خدا کے ساتھ بے شرمی کرنے اور اپنے نخوت و غرور سے توبہ میں مشغول ہو توبہ کر۔

وَفِي الْآخِرَىٰ لَعْلِمَ الْجَنَّةِ لَوْ يَتَهُمْ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذُكُّوا هُمْ مِنْهُ وَالسَّمَاءُ  
يَكَلِّمُهُمُ وَاللَّيْلُ يُخَلِّصُ بِخَلْعِهِ مَا عَلَيْكَ  
مِنْهُمْ اسْتَغْلِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِكَ  
وَوَقَّحَتْكَ عَلَىٰ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
نَحْوَتِكَ عَلَيْهِ.

تجھے پرافسوس ہے حیا و شرم تو اللہ ہی سے ہوتی ہے نہ کہ خلق سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے سے پہلے ہے پس تو مخلوق سے جو کہ حادث ہے شرم تا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جو کہ قدیم ہے بے شرمی کرتا ہے (تعجب و افسوس ہے۔) اللہ کریم ہے اور اس کا غیر یلیم بخیل۔ اللہ غنی ہے اور اس کا غیر محتاج و فقیر۔ اللہ کی عادت شیش ہے اور غیر اللہ کی عادت بخل و منع کرنا۔ تو اپنی تمام حاجتیں اسی کی طرف سے جاوہ تو غیروں سے بہتر ہے تو اس کی کاری گری سے اس پر دلیل پکڑ اس کی شرعی حدود پر محاطت کر اور اس کے تقویٰ کو لازم پکڑ جب تو تقویٰ پر مداومت کرے گا بے شک وہ تجھ کو اہل ملک بنیاد سے گا پس تو مصنوعات منہ پھر کر اسی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اسی کی راہ ڈھونڈا اور اسی کو طلب کر اور دنیا و آخرت کو چھوڑ دے جو کچھ ان دونوں سے نیرے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ تجھے ملے گا اور ضائع نہ ہو گا۔ تیرا سامی اللہ کو چھوڑ دینا تیرے قلب کو کدورتوں سے صاف کر دے گا۔ اگر تیرا قلب اس کی طرف رہنمائی نہ کرے پس تو مثل چوپایوں کے بے عقل ہے تو دنیا سے اٹھ کھڑا ہو اور ان عقلمندوں کی طرف جا جس کی عقل نے ان کو اللہ عزوجل کی طرف رہبری کی ہے۔ پس ان سے عقل سیکھ اور اس سے اپنے نفس

وَيْلَكَ الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يَكُونُ لَا مِنْ الْخَلْقِ هُوَ الْكَائِنُ قَبْلَ  
كُلِّ شَيْءٍ فَتَسْتَحْيِ مِنَ الْمُحَدِّثِ وَ  
تَتَوَاقَعُ عَلَى الْقَدِيمِ هُوَ الْكَرِيمُ وَ  
غَيْرُهُ لَيْيَمٌ هُوَ الْغَنِيُّ وَغَيْرُهُ الْفَقِيرُ  
دَابُّهُ الْعَطَاءُ وَدَابُّ غَيْرِهِ الْكَدُّ  
ارْجِعْ بِحَوَائِجِكَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ مِنْ  
غَيْرِهِ اسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِصُنْعِيهِ حَافِظٌ  
عَلَىٰ حُدُودِ شَرْعِهِ وَلَا يَزِمُ تَتَوَاقَعُ فَإِنَّكَ  
إِذَا دُمْتَ تَوَاقَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ  
اسْتَغْلَتْ عَنِ الْمَصْنُوعِ اسْتَدِلَّ  
عَلَيْهِ وَاطْلُبْهُ وَانْزِلْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ  
فَإِنَّ مَا لَكَ مِنْهَا يَأْتِيكَ وَلَا يَفُوتُكَ  
بِتَوَكُّلِكَ لِمَا سِوَاهُ يَصْفُو قَلْبَكَ مِنْ  
الْكَدَّارِ إِنْ لَمْ يَدُلَّكَ قَلْبُكَ عَلَيْهِ  
فَأَنْتَ كَالْبَهَائِمِ بِلَا عَقْلٍ ثُمَّ عَنِ  
الدُّنْيَا وَتَعَالَىٰ إِلَى الْعُقَلَاءِ الَّذِينَ  
ذَلَمُوا عَقْلَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
فَتَعَلَّمِ الْعَقْلَ مِنْهُمْ وَاعْرِفْ بِهِ نَفْسَكَ

وَرَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ -

وَيُحِبُّكَ عَمُّكَ يَذُوبُ وَ مَا  
عِنْدَكَ خَيْرٌ إِلَيَّ مِنْ هَذَا إِلَّا عَرَا ضُ  
عَنِ الْآخِرَةِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَى الدُّنْيَا  
وَيُحِبُّكَ رِشَا فُكْ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ  
مَوْضِعَكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ لَا يَسْكُنُهُ  
غَيْرُكَ فَدَمَلْتُكَ الْغَفْلَةُ وَ أَسْرَكَ  
الْهَوَى كُلُّ هَمِّكَ فِي الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ  
وَ النِّكَاحِ وَ التَّوَمْرِ وَ بُلُوغِ أَعْمَارِكَ  
هَمُّكَ هَمُّ الْكُفَّارِ وَ الْمُتَأَفِّقِينَ بَعْدَ  
مَا تَشَبَّعَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ مَا عَلَى  
قَلْبِكَ كَانَ لَكَ دِينٌ أَوْ لَا -

يَا مَسْكِينُ رَبُّكَ عَلَى نَفْسِكَ  
يَمُوتُ وَ لَكَ تَتَوَمُّ الْقِيَامَةُ عَلَيْكَ  
وَ يَمُوتُ دِينُكَ وَ لَا تَبَالِي وَ لَا تَبْكِي  
عَلَيْهِ الْمَلَايِكَةُ الْمُؤَكَّلُونَ بِكَ  
يَبْكُونَ عَلَيْكَ لَمَّا يَرَوْنَ مِنْ خَسْرَانِكَ  
فِي بَصَاعَةِ دِينِكَ مَا لَكَ عَقْلٌ لَوْ  
كَانَ لَكَ عَقْلٌ بَكَيْتَ عَلَى ذَهَابِ  
دِينِكَ مَعَكَ رَأْسُ مَالٍ وَ أَنْتَ لَا  
تَتَجَرَّبُهُ هَذَا الْعَقْلُ وَ الْحَيَاءُ هُمَا  
رَأْسُ الْمَالِ وَ أَنْتَ مَا تَحْسِنُ أَنْ  
تَتَجَرَّبَهُمَا عِلْمٌ لَا تَعْمَلُ بِهِ وَ عَقْلٌ  
لَا تَنْتَفَعُ بِهِ وَ حَيَاةٌ لَا تُفِيدُ كَيْفَ لَا  
يُسْكُنُ وَ كَيْفَ يَعْرِفُ وَ طَعَامٌ لَا يُؤْكَلُ

اور اپنے رب عزوجل کو پہچان۔  
تجھ پر انیسویں تیری عمر ضائع ہو رہی ہے اور تجھے کچھ خیر  
بھی نہیں ہے۔ تیری آخرت سے یہ روگردانی اور دنیا کی طرف  
توجہ کب تک رہے گی۔

تجھ پر انیسویں تیرے رزق کو کوئی دوسرا نہ کھائے گا تیری  
جگہ جنت و دوزخ میں جہاں بھی ہے اُس سے تیرے سوا  
کوئی دوسرا سکونت نہ کرے گا۔ غفلت تیری مالک بن گئی ہے  
اور غمازش نے تجھے قیدی بنالیا ہے تیرا سارا مقصد کھانے  
اور پینے اور نکاح کرنے اور سونے اور اپنے اغراض کے حاصل  
کرنے میں ہے تیرا مقصد کافر و منافقوں کا سا مقصد ہے۔  
حلال یا حرام سے پیٹ بھر لینے کے بعد تیرے دل پر کچھ  
اثر نہیں کہ تیرے لیے کوئی دین بھی ہے یا نہیں۔

اے مسکین اپنے نفس پر انیسویں (رو) تیرا بچہ مر جاتا ہے  
تو تیرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تیرا دین مڑتا  
ہے تو تو پروا بھی نہیں کرتا اور نہ تو اس پر روتا ہے۔ وہ  
فرشتے جو تجھ پر مقرر ہیں وہ دین کے بارے میں تیرے  
نقصان کو دیکھ کر تجھ پر روتے ہیں کہ تو دین کے سرمایہ سے  
بالکل لاپرواہ ہے۔ تجھے مطلق عقل نہیں۔ اگر تجھے کچھ بھی عقل ہوتی  
تو تو اپنے دین کے چلے جانے پر ہتھینا روتا۔ تیرے پاس  
اس المال ہے اور تو اس سے تجارت نہیں کرتا عقل و حیا یہ  
دونوں اس المال میں ہیں لیکن تو ان سے اچھی طور پر تجارت کرنا  
نہیں جانتا وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے اور وہ عقل جس سے نفع نہ  
لیا جائے اور وہ زندگانی جو فائدہ نہ دے مانند اُس گھر کے ہے  
جو اجاڑ ہو اُس میں سکونت نہ کی جائے اور اُس خزانہ کے ہے جو ہلاتے  
ہو اور اُس کھانے کے ہے جو کھایا نہ جائے۔

إِذَا كُنْتَ لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتَ فِيهِ قَانَا  
 أَعْرِفُ مَعِيَ مِرَاةَ الشَّرِّ الَّذِي هُوَ  
 الْحُكْمُ الظَّاهِرُ وَ مِرَاةَ الْعِلْمِ بِاللهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ الْبَاطِنُ  
 إِنْتِبِهْ مِنْ تَوَهُّرِ الْعَقْلَةِ وَ اغْسِلْ  
 وَجْهَكَ بِمَاءِ الْيَقْظَةِ فَانْظُرْ مَا أَنْتَ  
 مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ مُؤْمِنٌ أَوْ مُنَافِقٌ  
 مُوَحِّدٌ أَوْ مُشْرِكٌ مُرَائِيٌّ أَوْ مُخْلِصٌ  
 مُوَافِقٌ أَوْ مُخَالِفٌ رَاضٍ أَوْ سَاحِظٌ  
 الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُبَالِي بِكَ رَضِيَتْ  
 أَمْ سَخِطَتْ صَرُّهُ هَذَا أَوْ مَنْفَعَتُهُ  
 عَائِدَةٌ إِلَيْكَ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ  
 الْحَلِيمِ الْمُتَفَضِّلِ الْكُلُّ تَحْتَ  
 لُطْفِهِ وَ فَضْلِهِ تَوَلَّى لَمْ يَلْطَفْ بِنَافِلِكُنَا  
 لَوْ قَابَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا حَقِيقَةَ  
 الْمُقَابَلَةِ عَلَى فِعْلِهِ لَهْلَكْنَا أَجْمَعُ  
 يَا غُلَامُ تَمَنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ بِعِبَادَتِكَ مَعَ سَهْوِكَ وَ يَأْتِيكَ  
 وَ يَفَاقِكَ وَ تَطْلُبُ كَرَامَتَهُ لَكَ وَ  
 تُزَاجِمُ الصَّالِحِينَ مَعَ فَسَادِكَ فَالْكَ  
 وَ الذِّكْرُ لَهُمُ وَ الدَّعْوَى لِمَعْرِفَتِهِمْ  
 يَا ابْنَ يَأْسَارٍ دُيَاخَرَجُ عَنْ دَائِرَةِ  
 الْمُخْلِصِينَ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ هَذِهِ  
 الْأُمَّةِ

وَيُحَكِّمُ ابْنِكَ حَتَّى يُبْكِي مَعَكَ

جب تو اپنی حالت کو جس میں تجھے ہونا چاہیے نہیں جانتا  
 پہچانتا پس میں اُسے جانتا ہوں تو مجھ سے دریافت  
 کر میں تجھے بتا دوں گا میں سہ پاس ایک شریعت کا آئینہ  
 ہے جو کہ حکم ظاہر ہے اور ایک معرفت الہی کا آئینہ ہے  
 جو کہ علم باطن ہے تو غفلت کی تیند سے بیدار ہو جا اور اپنے  
 چہرہ کو بیداری کے پانی سے دھو لے پھر دیکھ کہ تو کون ہے  
 آیا مسلمان یا کافر مومن یا منافق موحد یا مشرک ریاکار یا غلام  
 و الاموافق یا مخالف راضی ہے یا ناراض حق عزوجل تیری پروا  
 نہ کرے گا خواہ تو راضی رہے یا ناراض اس کا نقصان نفع تیری  
 ہی طرف لوٹنے والا ہے۔ پاک ہے کریم و حلیم فضل  
 فرمانے والا ہر چیز اس کے لطف و فضل کے ماتحت ہے  
 اگر وہ ہم پر لطف نہ فرمائے البتہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اگر  
 وہ ہم میں سے ہر ایک کا مقابلہ ہمارے قول و فعل پر  
 کرے تو ہم یقیناً سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔

اے غلام تو اللہ تعالیٰ پر اپنی عبادت کا باوجود اپنے  
 سہو اور ریاکاری اور اپنے نفاق کے احسان جتنا  
 ہے اور اُس کی کرامت کو طلب کرتا ہے اور تو باوجود  
 اپنی خرابی و تباہ کاری کے نیک بندوں سے مزاحمت کرتا ہے  
 تجھے اے بھاگنے والے نافرمان غلام! اٹھلے موحیدین کے دائرہ سے  
 علیحدہ ہو جانے والے بندے ان صالحین سے کیا نسبت  
 تجھے ان کے نوکروں کے معرفت کے دعوے کے ذکر  
 سے کیا غرض شرم کر۔

تجھ پر افسوس تو اس قدر رو کہ تیرے ساتھ رویا جاتے۔

أَتَعِدُّ فِي مُصِيبَتِكَ وَالْبَسُ ثِيَابَ  
الْعَزَاءِ حَتَّى يُقَدَّرَ مَعَكَ أَنْتَ لِحُجُوبٍ  
وَمَا عَدَدَكَ خَبَرَ قَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ  
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيْلٌ لِلْمُحْجُوبِينَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ

وَيْلٌ لَكَ أَيُّ شَيْءٍ قَلْبُكَ أَيُّ شَيْءٍ  
تَعْقِلُ إِلَى مَنْ تَشْكُرُ إِلَى مَنْ تَسْتَعِينُ  
مَعَ مَنْ تَتَّكِمُ إِذَا وَقَعَتْ فِي شِدَّةٍ يَمُنُ  
تَشَقُّ حَدِّ رَيْبِي أَيُّ أَعْرِفُ كَذْبَكَ وَ  
يَفَاقَكَ أَنْتَ الْخَلْقُ عِنْدِي مَالِكِي  
الصَّادِقُ مِنْكُمْ أَنَا عَلَيْهِمْ وَخَادِمُهُ  
إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَنِي إِلَى السُّوقِ يَبِيعُنِي  
أَوْ يَكَا تَبِينِي فَلْيَفْعَلْ إِنْ أَرَادَ أَنْ  
يَأْخُذَ ثِيَابِي وَمَا بِيَدَيَّ أَوْ يَأْمُرَنِي حَتَّى  
أُكْدِيَ فَلْيَفْعَلْ أَنْتَ لَا صِدْقَ لَكَ وَلَا  
تَوْحِيدَ وَلَا إِيمَانَ أَلَيْسَ أَعْمَلُ بِكَ  
أَسَدُ بِكَ الشَّقِيقُ أَنْتَ خَشَبٌ خَيْرٌ  
لَا تَصْلِحُ إِلَّا لِلنَّارِ

يَا قَوْمُ الدُّنْيَا تَذْهَبُ وَالْأَعْمَارُ  
تَقْنِي وَالْآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكُمْ وَمَا  
هَمُّكُمْ بِهَا بَلْ هَمُّكُمْ لِلدُّنْيَا وَ  
جَمْعُهَا أَنْتُمْ أَعْدَاءُ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ إِنْ كَانَ مِنْهُ إِلَيْكُمْ شَرٌّ  
تُظْهِرُونَ وَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ إِلَيْكُمْ  
خَيْرٌ تَكْتُمُونَ إِذَا كَتَمْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ

دوسرے تجھ رو میں تو مصیبت میں ماتمی لباس پہن کر بیٹھا کر  
دوسرے تیرے ساتھ بیٹھیں تیری تعزیت کریں تو محروم ہے  
اور تجھے خبر بھی نہیں بعض صالحین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان  
محرومین پر سخت انوس ہے جو کہ اپنے کو محروم نہیں  
جانتے۔

تجھ پر انوس تیرا دل کیا چیز ہے تو کیا بھگتا ہے تو کس  
کی طرف لگا کر کتاب ہے تو کس سے فریاد چاہتا ہے کس کے  
ساتھ سوتا ہے جب تو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو تو کس  
پر بھروسہ کرتا ہے مجھے گفتگو کو تحقیق میں تیرے جھوٹ  
اور لفاظی کو پہچانتا ہوں۔ تو اور تمام مخلوق میرے نزدیک مثل  
مجھ کے ہے۔ تم میں سے جو سچا ہے میں اُس کا ادنیٰ غلام  
اور خادم ہوں وہ اگر مجھے اٹھا کر بازار میں لے جا کر بیچنا  
چاہے یا مجھے مکاتب بنائے پس چاہیے کہ گزرے وہ اگر  
میرے کپڑے اور جو کچھ میرے پاس ہے اُس کو لینا چاہے یا  
مجھے محنت مزدوری کرنے کا حکم دے پس وہ کہ گزرے تجھ میں  
تو نہ سچائی ہے اور نہ توحید اور نہ ایمان میں تجھے لے کر کیا کروں  
کیا تجھے دیوار میں جو خرابی ہے اُس میں لگاؤں تو تو بیکار لکڑی ہے  
جو بجز آگ کے کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

اے قوم دنیا جا رہا ہے اور عمریں فنا  
ہو رہی ہیں اور آخرت تم سے قریب ہے اور تمہیں مطلق اس  
کا غم اور فکر نہیں تمہاری توکل فکرا اور تمام مقصد دنیا  
اور جمع کرنا ہے تم اللہ عزوجل کی نعمتوں کے دشمن ہو۔  
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اُس کو تم  
ظاہر کرتے ہو اور اگر اُس کی طرف سے تم کو بھلائی اور اچھائی پہنچتی ہے تو  
تم اُس کو چھپاتے ہو۔ جب تم اللہ کی نعمت کو

عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ تَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا سَلَبَهَا مِنْكُمْ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُنْعِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  
عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا الْقَوْمُ  
جَعَلُوا لَهُمْ هَمًّا وَاحِدًا أَخْرَجُوا الْأَشْيَاءَ  
عَنْ قُلُوبِهِمْ وَأَسْكَنُوا هَذَا شَيْئًا وَاحِدًا  
لَا كَالْأَشْيَاءِ أَخْلَصُوا عِبَادَتَهُمْ مِنْ  
الرِّيَاءِ وَالتَّفَاقُ وَالسُّمْعَةِ حَقَّقُوا  
الْعِبَادِيَّةَ لِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتُمْ  
عَبِيدُ الْخَلْقِ عِبِيدُ الرِّيَاءِ وَالتَّفَاقِ  
عَبِيدُ الْخَلْقِ وَالْأَهْوِيَةِ وَالْحُظُوظِ  
وَالْمَحْنُودِ وَالشَّوْمِ مَا فِيكُمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ لَهُ  
الْعِبَادِيَّةُ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
أَحَادُ أَفْرَادٍ هَذَا يَعْبُدُ الدُّنْيَا وَ  
يُحِبُّ دَوَائِمَهَا وَيَخَافُ زَوَالَهَا وَ  
هَذَا يَعْبُدُ الْخَلْقَ يَخَافُ مِنْهُمْ وَ  
يَرْجُوهُمْ هَذَا يَعْبُدُ الْجَنَّةَ يَرْجُو  
نَعِيمَهَا وَلَا يَرْجُو خَالِقَهَا وَ هَذَا  
يَعْبُدُ الْجَنَّةَ وَ هَذَا يَعْبُدُ النَّارَ يَخَافُ  
مِنْهَا وَ يَخَافُ مِنْ خَالِقِهَا مَا الْخَلْقُ  
وَمَا الْجَنَّةُ وَمَا النَّارُ وَمَنْ سِوَاهُ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا  
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّقَهُ  
الْعَالَمُونَ الْعَالَمُونَ بِهِ عَبْدٌ لَهُ لَا  
لِغَيْرِهِ أَعْطُوا الرُّبُوبِيَّةَ وَالْعِبَادِيَّةَ

چھپاؤ گے اور اُس پر اللہ عزوجل کا شکر نہ کرو گے تو وہ اُس  
نعمت کو تم سے چھین لے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے  
مروی ہے۔ یہ تحقیق اللہ حبیب اپنے بندہ پر انعام کرے  
تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بندہ پر اُس نعمت کا  
اثر دیکھے اُس پر نعمت ظاہر ہو۔ اویار اللہ نے اپنا ایک  
ہی مقصد بنا لیا ہے تمام چیزوں کو اپنے قلوب کمال کران  
میں ایک ہی چیز کو آباد کر لیا ہے نہ اور چیزوں کی طرح انہوں  
نے اپنی عبادتوں کو ریا اور نفاق اور سنانے سے خالص کر لیا  
ہے۔ اپنی بندگی اپنے رب عزوجل کے لیے متقی و ثابت کر لی  
ہے اور تم مخلوق کے بندہ بنے ہوئے ہو تم ریا اور نفاق اور  
دکھاوے سنانے کے بندہ ہو۔ خلق اور خواہشوں اور حظوظ  
نفسانیہ اور حمد و ثناء کے غلام ہو تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت  
عبادت خدا کے لیے ہو الا ماشاء اللہ چند ہی افراد اس مستثنیٰ ہیں  
تم میں سے کوئی دنیا کی عبادت کرتا اور اس کی ہمیشگی چاہتا ہے  
اور اس کے زوال سے ڈرتا ہے اور کوئی مخلوق کی عبادت کرتا اور  
اُن سے ڈرتا ہے اور اُن سے امیدواری کرتا ہے اور کوئی  
جنت کی عبادت کرتا اور جنت کی نعمتوں کی امیدواری کرتا ہے  
اور جنت کے پیدا کرنے والے سے امیدواری نہیں کرتا اور کوئی  
دوزخ کی عبادت کرتا اور اس سے ڈرتا ہے اور دوزخ کے پیدا  
کرنے والے سے نہیں ڈرتا خلق اور دوزخ و جنت اور ماسوی اللہ  
کیا قدر و مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ما امر ولا الایہ  
اور میں حکم دیئے گئے وہ مگر اللہ کی عبادت کے واسطے اُس کے لیے دین  
کو خالص بنانے والے اور تمام دینوں سے دین حق کی طرف مائل ہونے  
والے جو لوگ عارف باللہ عالم باعل ہیں وہ اسی کی عبادت  
کرتے ہیں نہ اُس کے غیر کے لیے۔ انہوں نے عبودیت و

ربوبیت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے یہ تعمیل حکم اُس کی محبت میں اُس کی عبادت کی نہ کسی دوسری غرض سے اور انہوں نے اُسی کا ارادہ کیا نہ اُس کے بغیر کا اور ماسوی اللہ کو چھوڑ دیا۔ تم اسے اہل دنیا بلا روح کی تصویریں ہو تم ظاہر ہو اور اولیا اللہ باطن تم الفاظ ہو اور اولیا اللہ معنی تم ظاہر ہو اور وہ مخفی ہو اولیا اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لشکر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بچا ہوا کھانا پانی انہیں اور یا اللہ کے لیے ہے وہی اسے استعمال کرتے ہیں ان کے علوم پر یہ عمل کرتے ہیں پس انبیاء کرام کا اُن کو وارث ہونا صحیح و درست ہے یہی اولیا انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عالم انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث ہیں جب ان علمائے علوم انبیاء علیہم السلام پر عمل کیا یہ اُن کے خلیفہ اور وارث اور قائم مقام جانشین بن گئے۔

مجھ پر انفسوس یہ میرے محض علم پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا جیسے کہ بغیر گواہوں کے دعویٰ نفع نہیں دیتا ایسے ہی علم بغیر عمل کے نفع نہیں پہنچاتا حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا علم عمل کو پکا رہتا ہے پس اگر عمل اُس کو جواب دیتا ہے علم ٹھہر جاتا ہے ورنہ علم چلا جاتا ہے اُس کی برکت جاتی رہتی ہے اور محض پڑھنا پڑھنا باقی رہ جاتا ہے۔ اُس کا پوست باقی رہ جاتا ہے اور مغز علم چلا جاتا ہے۔ اے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم تم میں کا ایک عبارت و فصاحت و بلاغت کے ساتھ شعر عمدہ بناتا ہے مگر عمل و اخلاص سے خالی ہوتا ہے اگر تیرا قلب ہند ہوا جاتا تو یقیناً تیرے تمام اعضاء ہند بن جاتے

حَقَّهَا عَبْدًا وَهُوَ امْتِنَالٌ آمِرُهُ وَمَحَبَّتُهُ لَهُ لَا لِمَعْنَىٰ آخَرٍ وَعَنَوَابِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَتَرَكُوا مَا سِوَاهُ أَنْتُمْ صَوْرٌ بِلَا أَمْرٍ وَارِجٌ أَنْتُمْ ظَاهِرٌ وَالْقَوْمُ بَاطِنٌ أَنْتُمْ مَبَانِي وَالْقَوْمُ مَعَانِي أَنْتُمْ جَهْرٌ وَهُمْ سِرٌّ الْقَوْمُ رِجَالُهُ الْأَنْبِيَاءُ عَنْ آيَمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ وَفُتُوَاهِمُ وَوَسَائِلِهِمْ بِقَائِيَا طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ لَهُمْ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَهُمْ فَصَحَّحْتَ الْوَرَاثَةَ لَهُمْ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا عَمِلُوا يَعْلَمُوهُمْ كَانُوا خُلَفَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَوُثَرَاءَهُمْ وَكُنُوا بِهِمْ۔

وَيْلَكَ لَا تَرَجِي بِمَحْضِ الْعِلْمِ فَحَسِبْ كَمَا لَا تَنْفَعُ دَعْوَىٰ يَلَا يَكْنِي لَا يَنْفَعُ عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَهْتَفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ إِلَّا ارْتَحَلَ تَرْتَحِلُ بَرَكَتُهُ وَبَقِيَ وَرَاسَتُهُ وَبَقِيَ قُشُورُهُ وَيَذْهَبُ لُبُّهُ يَا تَارِكَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ أَحَدُكُمْ يَحْدِثُ الشَّعْرَ بِعِبَارَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَلَا إِخْلَاصٌ لَوْ تَهَدَّبَ قَلْبُكَ لَتَهَدَّ بَتْ جَوَارِحُكَ

کیوں کہ قلب اعضا کا بادشاہ ہے۔ پس جب بادشاہ منہ بن جاتا ہے رعیت بھی منہ بن جاتی ہے۔ علم پوست ہے اور عمل مغز پوست کی حفاظت مغز کے لیے کی جاتی ہے اور مغز کی حفاظت روغن نکالنے کے لیے پس جب پوست میں مغز ہی نہ ہو بریکار ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اور جب مغز میں روغن ہی نہ ہو اس کا کیا کیا جائے۔ علم تو چلا گیا کیوں کہ جب عمل ہی چلا گیا پس وہ علم کو بھی لے گیا۔ ایسے علم کا یاد کرنا پڑھنا پڑھانا جس پر عمل نہ کیا ہو کیا فائدہ دے گا۔

اے عالم! اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے پس تو اپنے علم پر عمل کر اور آدمیوں کو علم سکھا اور اے امیر! اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ فقیروں کو دے، ان کی غمخواری کر۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اللہ کے عیال ہیں۔ اور اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ پاک ذات ہے وہ جس نے بعض آدمیوں کو بعض آدمیوں کا حاجت مند بنا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں۔ اے غنی! تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ میں کچھ دینا نہ پڑے۔ میں تجھ سے تیرے نفع کے لیے لیتا ہوں۔ غنقریب میری طرف اللہ عزوجل کی جانب سے دولت آئے گی اور وہ مجھ کو تم سے بے پروا بنانے کی اور تم کو میرا حاجت مند بنائے گی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب فقیروں کی بے صبری دیکھا کرتے تھے تو یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ! ہم کو دنیا میں وسعت دے دے اور اس میں ہمیں زہد عطا فرمانا اور اس کو ہم سے نہ کہہ اور ہم کو اس کی رغبت نہ دے ورنہ ہم اس کی طلب میں ہلاک ہو جائیں گے

لَا إِلَهَ إِلَّا مَلِكُ الْجَوَارِحِ فَإِذَا تَهَدَّبَ الْمَلِكُ تَهَدَّبَتِ الرَّعِيَّةُ يَعْلَمُ قَشْرُ وَالْعَمَلُ لُبُّ الشَّيْءِ يَحْفَظُ الْقَشْرُ حَتَّى يُحْفَظَ اللَّبُّ وَإِنَّمَا يُحْفَظُ اللَّبُّ حَتَّى يُسْتَحَرَبَ مِنْهُ الدَّهْنُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَشْرِ لُبٌّ مَتَى يُصْنَعُ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّبِّ دُهْنٌ فَمَتَى يُصْنَعُ بِهِ الْعِلْمُ قَدْ ذَهَبَ لَا إِلَهَ إِذَا ذَهَبَ الْعَمَلُ بِهِ فَقَدْ ذَهَبَ آيَشُ يَنْفَعُكَ حِفْظُهُ وَدِرَاسَتُهُ بِلَا عَمَلٍ يَا عَالِمُ إِنْ أَرَدْتَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاعْمَلْ بِعِلْمِكَ وَعِلْمِ النَّاسِ وَيَا غَنِيَّ إِنْ أَرَدْتَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَارِسَ الْفَقْرِ آءَ لَيْشَىءٍ مِنْ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّاسُ عِيَالُ اللَّهِ وَآحِبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَحْوَجَ الْبَعْضَ إِلَى الْبَعْضِ لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمٌ يَا غَنِيَّ تَهَرَّبْ مِنِّي أَنَا أَخْذُ مِنْكَ لَكَ سَيِّئَاتِي الْخَيْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعِينِي عَنْكُمْ وَيَحْوِجُكُمْ إِلَيَّ كَانَ إِبْرَاهِيمُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى قَلَّةَ صَبْرِ الْفَقِيرِ يَقُولُ

اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَزَهِّدْنَا فِيهَا وَلَا تَزِرْ وَهْمَهَا وَكُرْ غِنَانَا فِيهَا وَزَهِّدْكَ بِطَلَبِهَا.

اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِنَا فِي أَقْصِيَّتِكَ وَأَقْدَارِكَ  
اے اللہ ہم پر اپنے احکام قضاوت میں مہربانی فرما۔ آمین

## تیسویں مجلس

## الْمَجْلِسُ الْمَوْفِيُّ لِلثَّلَاثِينَ

### اقرارِ نعمت الہی کے بیان میں اور اس کے فوائد

۱۴ جمادی الآخری ۱۲۵۵ھ ہجری کو صبح کے وقت

خانقاہ شریف میں فرمایا :

اس بندہ کے لیے مبارکی ہے جس نے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا اقرار کیا اور ان سب کو اللہ عزوجل کی طرف منسوب کیا اور اپنے نفس کو اور سب سببوں اور اپنی طاقت و قوت کو بیکار سمجھا۔ عقلمند وہی ہے جو خدا کے سامنے کسی عمل کو شمار و قطار میں نہ لائے (بیچ بچتا ہے) اور کسی حالت میں خدا سے بدلہ نہیں چاہے۔

تجھ پر افسوس کہ تو بغیر جانے ہوئے اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے اور بغیر علم زاہد بنتا ہے اور بغیر علم دنیا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حجاب در حجاب اور غصہ در غصہ ہے تو بھلائی و برائی میں تمیز نہیں کرتا اور نہ نفع و نقصان و دونوں چیزوں میں جدائی و تفرقہ کرتا ہے۔ نہ یہ پہچانتا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ یہ سب خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ تو حکم الہی سے جاہل ہے اور تو نے مشائخ کرام کی خدمت کو چھوڑ دیا ہے جو کہ مشائخ علم اور مشائخ عمل ہیں وہی تجھ کو اللہ کا راستہ دکھا سکتے ہیں تیرے رہنما بن سکتے ہیں۔ جو کوئی اللہ تک پہنچا علم کے ذریعہ ہی سے پہنچا ہے۔ دنیا میں بے رغبتی اور اس سے روگردانی جب قلب و جسم سے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُكْرَةً بِأَبَرِّ بَابٍ سَادِسَ عَشَرَ جَمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمِيسَاءَ يَاطُوبُنِي لِمَنْ اعْتَرَفَ لِلَّهِ عَمَّا وَجَلَ بِنِعْمِهِ وَاصْنَفَ الْكُلَّ إِلَيْهِ وَعَمَى نَفْسَهُ وَأَسْبَابَهُ وَحَوْلَهُ وَقُوَّتَهُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَا يَحْسِبُ عَلَى اللَّهِ عَمَّا وَجَلَ عَمَلًا وَلَا يَطْلُبُ مِنْهُ جَزَاءً فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

وَيْلَكَ أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ عَمَّا وَجَلَ بِنِعْمِهِ وَتَرْهَدُ بِنِعْمِهِ عَلِيمٌ وَتَأْخُذُ الدُّنْيَا بِنِعْمِهِ ذَلِكَ حِجَابٌ فِي حِجَابٍ مَقَّتٌ فِي مَقَّتٍ لَا تُبَيِّرُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ مَا هُوَ لَكَ وَمَا هُوَ عَلَيْكَ مَا تَعْرِفُ صَدِيقَكَ مِنْ عَدُوِّكَ كُلُّ ذَلِكَ لِيَجْهَلَكَ بِحُكْمِ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَ وَتَرْكُوكَ لِيُخْدَمَكَ الشَّيْخُ شَيْخُ الْعَمَلِ وَشَيْخُ الْعِلْمِ فَيُيَدُّ لَكَ عَلَى الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ الْقَوْلُ أَوْ لَا وَالْعَمَلُ ثَانِيًا وَيَبْتَغِي تَصِلُ إِلَى الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ وَمَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالتَّوَهُدِ فِي الدُّنْيَا وَالْإِعْمَارِ مِنْهَا بِالْقَلْبِ

وَالْقَالِبِ الْمَتَرَهْدُ يُخْرِجُ الدُّنْيَا مِنْ يَدِهِ  
وَالزَّاهِدُ الْمُتَحَقِّقُ فِي ذَهْدِهِ يُخْرِجُهَا مِنْ  
قَلْبِهِ ذَهْدًا فِي الدُّنْيَا يَقْلُوبُهَا فَنَصَارَ  
الرُّهْدُ طَبَعًا لَهُمْ خَالَطَ طَوَائِفَهُمْ وَ  
بَوَاطِنَهُمْ انْطَفَتْ نَارُهُ طَبَاعِهِمْ انْكَسَرَتْ  
أَهْوِيَّتُهُمْ اِطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُمْ وَاسْتَحَالَ  
شَرُّهَا.

يَا غُلَامُ هَذَا الرُّهْدُ لَيْسَ هُوَ صَنَعَةٌ  
تَعْمَلُهَا لَيْسَ هُوَ شَيْئًا تَأْخُذُكَ بِبَيْدِكَ  
تَرْمِيهِ بَلْ هُوَ خُطَوَاتٌ أَوَّلُهَا التَّنَظُّرُ  
فِي وَجْهِ الدُّنْيَا فَتَرَاهَا كَمَا هِيَ عَلَى  
صُورَتِهَا عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالرُّسُلِ وَعِنْدَ الْأَوَّلِيَاءِ وَالْآبِدَالِ  
الْبَدِيْنِ لَمْ يَخْلُ مِنْهُمْ ذِمَانٌ إِنَّهَا  
نُصِبَتْ رُؤْيُكَ لَهَا بِإِتِّبَاعٍ مَنْ تَقَدَّمَ  
فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إِذَا اتَّبَعْتُمْ رَأَيْتَ  
مَا آوَا وَإِذَا كُنْتَ عَلَى أَثَرِ الْقَوْمِ  
قَوْلًا وَفِعْلًا خَلَوَةً وَجَلَوَةً عِلْمًا وَ  
عَمَلًا صَوْرَةً وَمَعْنَى تَصَوُّمٍ كَصِيَامِهِمْ  
وَتَصَلَّى كَصَلَاتِهِمْ وَتَأْخُذُ كَأَخْذِهِمْ  
وَتَتْرَكَ كَتَرْكِهِمْ وَتَجِبُّهُمْ فَجَحِيذِيذٍ  
يُعْطِيكَ اللَّهُ تَوَرًّا تَرَى بِهِ نَفْسَكَ  
وَعَيْرَكَ يَتَبَيَّنُ لَكَ عِيُوبُ الْخَلْقِ  
فَتَرْهَدُ فِي نَفْسِكَ وَفِي الْخَلْقِ  
أَجْمَعٍ فَإِذَا صَحَّ لَكَ ذَلِكَ جَاءَتْ

کر لی تو اصل الی اللہ ہوا۔ تب تکلف زہد بننے والا دنیا کو اپنے  
ہاتھ سے نکالتا ہے اور سچا زہد دنیا کو اپنے قلب سے نکال  
دیتا ہے۔ اولیاء کرام نے دنیا سے قلوب کے ساتھ تہہ رتی  
کی۔ پس زہدان کی طبیعت بن گیا۔ ان کے ظاہر و باطن میں مخلوط  
ہو گیا۔ ان کی طبیعت کا جوش بجھ گیا، ان کی خواہش ٹوٹ  
گئیں۔ ان کے نفس مطمئن ہو گئے اور ان کی شرابی حالت  
سے بدل گئی۔

اے غلام! یہ زہد کوئی کاریگری عیس ہے جس کو تو خود  
بنالے۔ نہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہے کہ جس کو تو اپنے ہاتھ میں  
لے اور پھینک دے بلکہ وہ قدم ڈالنا اور دشوار گزار راہ ہے  
اول اس کا دنیا کے چہرہ پر نظر ڈالنا ہے کہ تو اس کو اس  
دنیا کی اصلی حالت پر جو کہ تجھ سے پہلے والوں، انبیاء و رسل  
اور اولیاء و ابدال کے نزدیک جن سے کوئی زمانہ خالی نہیں  
ہوتا دیکھ کے۔ تجھ کو ایسا دیکھنا گذشتہ بزرگوں کے  
افعال و اقوال کی پیروی سے حاصل ہوگا۔ جب تو ان کے  
سب اقوال و افعال میں پیروی کرے گا تو تو بھی وہی دیکھ  
لے گا جو انہوں نے دیکھا تھا اور جب تو قول و فعل خلوت  
و جلوت علم و عمل، صورت و معنی میں ان کے قدم بہت قدم  
چلے گا ان جیسے روزے رکھے گا اور ان کی سی نماز پڑھے  
گا، ان کا سالینا لے گا اور ان کا سا چھوڑنا چھوڑے گا۔  
اور تو ان کو دوست رکھے گا پس اس وقت تجھ کو اللہ عز و جل  
ایسا نور عطا فرمائے گا جسے تو اپنے غیر کو صحیح طور پر دیکھنے  
لگے گا۔ تجھے اپنے اور مخلوق کے عیب ظاہر ہو جائیں گے  
پس تو اپنے نفس اور مخلوق سب سے لاپرواہ ہو جائے گا  
پھر جب تیری ایسی حالت درست ہو جائے گی، تیرے

أَنوَارُ الْقُرْبِ إِلَى قَلْبِكَ صَدَرَتْ مُؤَمِّنًا  
مُؤَمِّنًا عَارِفًا عَالِمًا فَتَرَى الْأَشْيَاءَ  
عَلَى صُورِهَا وَمَعَانِيهَا تَرَى الدُّنْيَا  
كَمَا رَأَاهَا مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الزَّاهِدِينَ  
الْمُعْرِضِينَ تَرَاهَا فِي صُورَةِ عَجُوزٍ  
شَبَّهَاءَ قَبِيحَةٍ الْمُنْظَرِ فِيهِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ  
الْقَوْمِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَعِنْدَ الْمُلُوكِ  
كَالْعُرُوسِ الْمَجْلِيَّةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ  
هِيَ عِنْدَ الْقَوْمِ حَقِيرَةٌ ذَلِيلَةٌ

وَيَخْرِقُونَ نِيَابَهَا وَيَحْبِشُونَ  
وَجْهَهَا وَيَأْخُذُونَ أَفْسَاسَهُمْ مِنْهَا قَهْرًا  
وَجَبْرًا عَلَى رَغْمِ آثِمِهَا وَهُمْ رَفِئُ  
صَحْبَةِ الْآخِرَةِ

يَا غُلَامُ إِذَا صَحَّ لَكَ الزُّهْدُ فِي  
الدُّنْيَا فَانْزُهِدْ فِي اخْتِيَارِكَ وَفِي الْخَلْقِ  
فَلَا تَخَافْهُمْ وَلَا تَرْجُوهُمْ وَفِي جَمِيعِ  
مَا تَأْمُرُكَ بِهِ نَفْسُكَ فَلَا تَقْبَلْ مِنْهَا إِلَّا  
بَعْدَ مَجِيئِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَالِبِ  
لَكَ مِنْ حَيْثُ قَلْبُكَ بِطَرِيقِ الْإِلَهَامِ  
أَوْ الْمَنَامِ نَافِرًا مُعْرِضًا عَنْ جَمِيعِ  
الْمَخْلُوقَاتِ وَإِنْ سَكَنْتَ جَوَارِحَكَ  
فَلَا عِبْرَةَ لَا يَصْرُكَ ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لَسُكُونِ  
الْقَلْبِ هُوَ الدَّاهِيَةُ الْعُظْمَى لَا سَكُونُ  
لَكَ حَتَّى تَمُوتَ نَفْسُكَ وَطَبْعُكَ وَهَوَاكَ  
وَمَا سِوَى مَوْلَاكَ فَحِينَئِذٍ تَحْيَا

قلب کی طرف قرب الہی کے نور متوجہ ہو جائیں گے اور توجہ  
ایماندار اور یقین والا عارف عارف بن جائے گا اور تمام چیزوں  
کو تو ان کی صورتوں اور حقیقتوں پر دیکھنے لگے گا۔ تو دنیا کو دیکھنے  
ہی دیکھے گا جیسے کہ اس کو تجھ سے پہلے زاہدوں،  
دنیا سے اعراض کرنے والوں نے دیکھا تھا۔ وہ دنیا تجھ کو  
بدیہیت بڑھی عورت شوم کی صورت نظر آئے گی۔ ذیبا  
گزشتہ بزرگوں کے نزدیک اسی صورت و صفت پر تھی اور  
بادشاہوں کے نزدیک مثل آراستہ دامن کے اچھی صورت  
میں۔ دنیا اہل اللہ کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے۔ وہ دنیا کے  
کپڑوں کو بھاڑ ڈالتے ہیں اور اس کے چہرے کو نوچ کھسٹ  
ڈالتے ہیں وہ اپنا مقسم حصہ دنیا سے قہر و جبراً اس کو  
ذلیل سمجھ کر خلاف مرضی لے لیتے ہیں اور آخرت کے  
کاموں میں لگے رہتے ہیں۔

اے غلام! جب تیرا ذہنی زہد درست ہو جائے گا  
پس اس وقت تو اپنی پسندیدگی اور مخلوق میں زہد کر کے  
نہ ان سے خوف کرے گا اور نہ امید رکھے گا اور جس چیز کا  
نفس تجھ کو حکم کرے گا تو اس کو بغیر آنے حکم الہی کے قبول  
نہ کرے گا اور اکثر یہ حالت قلبی حیثیت سے بطریق الہام  
یا خواب کے جب ہوگی جب تو تمام خلق سے نفرت و  
روگردانی کرنے والا ہوگا۔ اور اگر تیرے دوسرے اعضا  
سوا قلب کے قرار پکڑیں گے تو اس کا اعتبار نہیں۔ تجھ کو  
یہ امر نقصان نہ دے گا۔ اصل اعتبار تو قلب کے قرار پکڑنے  
کا ہے۔ یہ تو بڑی سخت مصیبت ہے تجھے قرار نہیں آ  
سکتا جب تک کہ تیرا نفس و طبیعت اور خواہش اور ماسوی  
اللہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد اس حالت میں تو قرب الہی

سے زندہ ہو جائے گا۔ اول موت ہے پھر زندہ ہونا، اٹھنا، پھر جب وہ چاہے گا تجھے اپنے لیے زندہ کرے گا اور خلق کی طرف تجھ کو لوٹا دے گا تاکہ تو ان کی مصلحتوں میں نظر کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف لوٹا لے اس وقت تجھے دنیا و آخرت کی طرف توجہ آجائے گی تاکہ تو ان دونوں سے اپنا مقصود لے سکے۔ تجھے خلق کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت آجائے گی پس تو اس قوت کے ذریعہ سے ان کو مگر اسی سے پھیر دے گا اور امر الہی کو ان کے بائے میں بجالائے گا اور اگر یہ منظور الہی نہ ہو پس تیرے لیے اس کے قرب میں کفایت ہوگی اور غیر اللہ سے بے نیازی جب کہ تجھے خالق حاصل ہوگی جو کہ تمام اشیاء کا بنانے والا اور ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور ہر چیز سے پہلے موجود ہونے والا اور ہر چیز کے بعد رہنے والا ہے۔ تو خلق کا کیا کرے گا۔ خالق تیرے لیے کافی ہے تیرے گناہ بارش کی طرح بکثرت ہیں۔ پس تیری تو بہ بھی ہر خطہ گناہوں کے مقابلہ میں ہونی چاہیے۔

تجھ پر انسو کس ہے۔ تو مغرور، نہایت حریص و شکریہ سراپا ہوں ہے اور محض عبارت۔ تو پرانی بوسیدہ قبروں کی طرف دیکھ اور اہل قبور سے ایمان کی زبان سے بات چیت کر! پس تحقیق وہ تجھے اپنے حالات سے خبر دیں گے۔

اے غلام! تو حق عزوجل اور اولیاء اللہ کی ارادت کا دعویٰ کرتا ہے! محض دعویٰ بے فائدہ ہے ویسا ہی میں تجھے چھوڑ دوں اور کسوٹی پر نہ کسوں اور تیرے اوپر غیرت نہ کروں۔ میں تو تمہارے اوپر بہ اذن الہی محتسب ہوں۔ اُن

بِقُرْبِهِ مَوْتُ ثُمَّ نَشَرُّ ثُمَّ إِذَا شَاءَ  
أَشْرَكَ لَهُ ذَكَ إِلَى الْخَلْقِ لِنَنْظُرَ  
فِي مَصَالِحِهِمْ وَتَرُدَّهُمْ إِلَى بَابِهِ  
يَجِيءُ لَكَ الْمَيْلُ إِلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
لِنَتَاوَلَ أَهْشَامَكَ مِنْهَا تَجِيءُ لَكَ  
الْقُوَّةُ عَلَى مَقَاسَةِ الْخَلْقِ فَتَرُدَّهُمْ  
مِنْ صِلَائِهِمْ وَتَمْتَلِئُ أَمْرَهُ فِيهِمْ  
إِنْ لَمْ تَشَأْ ذَلِكَ فَفِي قُرْبِهِ لَكَ كُنَايَةٌ  
وَمَنْدُوحَةٌ عَنْ غَيْرِهِ مَا تَصْنَعُ بِالْخَلْقِ  
بَعْدَ حُصُولِ الْخَالِقِ الْمَكُونِ لِلْأَشْيَاءِ  
قَبْلَ وُجُودِهَا هُوَ الْكَائِنُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ  
وَالْمَكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ  
شَيْءٍ ذُنُوبُكُمْ كَالْأَمْطَارِ فَلَتَكُنْ  
تَوْبَتُكُمْ كُلَّ لَحْظَةٍ فِي  
مُقَابَلَتِهَا۔

وَيَحْكُ أَنْتَ بَطَرُ أَنْتَ أَشَرُّ  
أَنْتَ شَبَقُ أَنْتَ هَوَى أَنْتَ عِبَارَةٌ  
أَنْظُرْ إِلَى الْقُبُورِ الدَّارِ سَةِ وَخَاطِبِ  
أَهْلِهَا بِلِسَانِ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُمْ يُجِيبُونَكَ  
عَنْ أَحْوَالِهِمْ۔

يَا غُلَامُ تَدَّعِي إِزَادَةَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَإِزَادَةَ أَوْلِيَائِهِ وَ  
أَدْعَاكَ لَا أَحْكَمَكَ لَا أَعِيْزُ عَيْدَكَ  
أَنَا مُحْتَسِبٌ عَلَيْكُمْ بِإِذْنِ الْحَقِّ

منافقوں کی جو کہ اپنے اقوال و افعال میں جھوٹے ہیں۔ گردن کاٹتا ہوں میں نے بارہا بہت مشائخ پر اقتساب کیا ہے یہاں تک کہ میرے لیے اقتساب کا مرتبہ درست ہو گیا اے وہ زمین والو! جنہوں نے بغیر نمک کے اپنے اعمال کا آٹا گوندھا ہے اُو اس کے لیے نمک لے لو اے نمک کے خریدارو! بڑھو۔ اے منافقو! تمہارا گندھا ہوا آٹا بغیر نمک کے بلا خیر ہے۔ وہ علم کے خیر اور اخلاص کے نمک کا محتاج ہے۔ عمل کی علم و اخلاص سے اصلاح کر لو۔

اے منافق! تو نفاق سے گوندھا گیا ہے۔ غمگین تیرا نفاق تجھ پر آگ بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ تو اپنے قلب کو نفاق سے خالص کر اس سے وہ یقیناً خلاصی پائے گا جب کہ قلب مخلص ہو جائے گا تو تمام اعضا بھی مخلص بن جائیں گے اور خلاصی پائیں گے۔ قلب تمام دوسرے اعضا کا نگہبان و چرواہا ہے پس جب قلب بیدھا ہو جائے گا تو تمام اعضا سیدھے ہو جائیں گے۔ جب مرد مومن کا قلب اور اعضا درست و سیدھے ہو جائیں گے تو اس کا ہر معاملہ کامل ہو جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں اور شہر والوں کا محافظ و چرواہا بن جائے گا اس کا حال مطابق اندازہ اس کی قوت ایمانی و قرب الہی کے بلند ہو جائے گا۔

اے قوم! تم اپنا معاملہ و برتاؤ اللہ عزوجل کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کرو اور حق عزوجل سے ڈرتے رہو اس کے حکم پر عمل کرو۔ اس نے تحقیق تم کو اپنے حکم پر چلنے عمل کرنے کی تکلیف دی ہے۔ نہ کہ اس علم میں مشغول ہونے کی

عَزَّ وَجَلَّ أَقْطَعُ أَقْفِيَةَ الْمُنَافِقِينَ  
الْكُذَّابِينَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ  
أَفْعَالِهِمْ فَدَاخَتْ سَبْتُ عَلَى  
الشُّيُوعِ وَمَرَامًا كَثِيرَةً حَتَّى  
صَحَّتْ إِلَى الْحَسْبَةِ يَا أَهْلَ  
الْأَرْضِ إِعْجَنُوا أَعْمَالَكُمْ  
بِلَا مِلْحٍ تَعَالَوْا خُذُوا لَهُ  
مِلْحًا يَا شَارِي الْمِلْحِ  
تَقْدَامُ

يَا مُنَافِقِينَ عَجِنْتُمْ بِلَا مِلْحٍ فَطِيرُ  
هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى خَيْرِ الْعِلْمِ وَ مِلْحِ  
الْإِخْلَاصِ يَا مُنَافِقُ أَنْتَ مَعْجُونٌ بِالنِّفَاقِ  
عَنْ قَرِيبٍ يَنْقَلِبُ عَلَيْكَ نِفَاقُكَ نَامِرًا  
أَخْلَصَ قَلْبَكَ مِنَ النِّفَاقِ وَ فَتَا  
تَخْلَصَ إِذَا أَخْلَصَ الْقَلْبُ أَخْلَصَتْ  
الْجَوَارِحُ وَ تَخْلَصَتْ الْقُلُوبُ مَرَاغِي  
الْجَوَارِحِ فَإِذَا اسْتَقَامَ اسْتَقَامَتْ إِذَا  
اسْتَقَامَ الْقَلْبُ وَ الْجَوَارِحُ كُلُّ أَمْرٍ  
الْمُؤْمِنِ وَ صَامِرًا رَاعِيًا عَلَى أَهْلِهِ وَ  
خَيْرَانِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ يَرْفَعُ حَالَهُ عَلَى قَدْرِ  
قُوَّةِ إِيْمَانِهِ وَ قُرْبِهِ مِنْ مَوْلَاهُ

يَا قَوْمُ أَحْسِنُوا الْعِشْرَةَ مَرَّةً  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَحْذَرُوا مِنْهُ  
اعْمَلُوا بِحُكْمِهِ فَإِنَّهُ كَلَفَكُمْ  
الْعَمَلَ بِحُكْمِهِ لَا الْإِسْتِغَالَ بِالْعِلْمِ

السَّابِقُ فَيَكْمُرُ بِهَذَا الْحِكْمِ  
وَأَقْصَى حَقِّهِ فَإِنَّكَ إِذَا عَمِلْتَ  
بِهِ أَخَذَ الْعَمَلُ بِبَيْدِكَ وَأَدْخَلَكَ  
عَلَى مَنْ عَمِلْتَ لَهُ فَتَسْتَهْدِيهِ مِنْهُ  
عِلْمًا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُهُ فَتَكُونُ  
مَعَهُ يَعْلَمُهُ وَمَعَ خَلْقِهِ يَحْكُمُهُ  
أَنْتَ أَوَّلُ مَا عَمِلْتَ بِهِ تَطْلُبُ  
الثَّانِي إِذَا اسْتَقَرَّتْ أَمْرُكَ  
فِي الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ أَطْلُبِ  
الثَّانِي.

يَا عِلْمُ مَا لَقِيتَ كَيْفَ تَلَقَى  
الْأُسْتَاذَ ارْجِعْ إِلَى وَرَائِكَ وَكُنْ  
عَاقِلًا حَصِّلِ الْعِلْمَ ثُمَّ الْعَمَلَ وَ  
اخْلُصْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ تَقَفَّهُ ثُمَّ اعْتَزَلَ الْمُؤْمِنُ  
مَنْ يَتَعَلَّمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتَزِلُ  
عَنِ الْخَلْقِ وَيَعْلُو بِعِبَادَةِ رَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ عَمَّا عَنِ الْخَلْقِ فَيُبْعِضُهُمْ  
وَعَمَّا عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَتَأْتِيهِ وَ  
طَلَبُهُ وَخَدَمَتُهُ يَتَعَهُ الْخَلْقُ  
فَهَرَبَ وَطَلَبَ غَيْرَهُمْ زَهَدَهُمْ  
وَسَارَعَ فِي غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ  
لَا ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ  
فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنْ جَرَى عَلَى  
أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ

جو کہ تمہاری نسبت پہلے ازل میں ہو چکا ہے تو اللہ کے حکم  
پر عمل کرو اور اس کا پورا حق ادا کرو۔ یہ تحقیق جب تو اس حکم الہی پر  
عمل کر لے گا پس وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ کو اس کے پاس  
پہنچا دے گا جس کے واسطے تو نے عمل کیا تھا پس تو وہاں وہ  
علم حاصل کر لے گا جو کہ اس سے قبل تجھے حاصل نہ تھا اور تو  
خدا کی معیت میں اس کے علم کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ طاعت  
اس کے حکم کے رہنے لگے گا۔ تو نے اول پر عمل ہی نہیں کیا  
دوسرے کی طلب کرنے لگا۔ جب تیرے قدم اول یعنی  
علم ظاہر میں، جم جائیں۔ اس وقت تو دوسرے یعنی علم باطن  
ذات و صفات الہی کو طلب کر۔

اے غلام! تو نے یہ نہیں جانا کہ استاذ سے کیونکر ملاقات  
کرتے ہیں پس تو اس سے کیسے ملے گا۔ جا اپنے پیچھے  
لوٹ اور عاقل بن، علم حاصل کر پھر عمل کرو اور مخلص بن۔ حضور  
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے فقہ حاصل کر  
فقیر بن پھر کمال پکڑ۔ مسلمان آدمی اول ان چیزوں کو سیکھتا ہے  
جس کا سیکھنا اس پر فرض ہوتا ہے پھر وہ مخلوق سے کمال  
کرتا ہے اور اپنے رب عزوجل کی عبادت میں غلوت  
گزیں ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت پر پہنچ کر وہ خلق کو پہچان کر  
ان سے عداوت کرنے لگا اور حق کو پہچان کر اس کو اپنا  
محبوب بنا لیا اور اس کا طالب بن کر اس کی خدمت گزاری  
کرنے لگا۔ خلقت اس کے پیچھے بڑی دہ بھاگا اور ان کے  
غیر کو طلب کیا اور ان سے بے پروا بنا اور ان کے غیر میں  
رغبت کی، یہ جان لیا کہ مخلوق کے ہاتھوں میں نقصان نفع اور  
بھلائی بُرائی سے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ان چیزوں میں سے  
کوئی چیز مخلوق کے ہاتھوں پر جاری بھی ہو جائے پس وہ

اللہ عزوجل کی جانب ہی سے ہے نہ کہ اس مخلوق سے پس اس نے سمجھ لیا کہ مخلوق کی نزدیکی سے دوری بہتر ہے اصل خدا کی طرف لوٹ آیا اور فرع کو چھوڑ دیا۔ مخلوق کو یہ جان لیا کہ فرع بہت ہے اور اصل ایک۔ پس اسی اصل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس نے فکر کے آئینہ میں دیکھا پس معلوم کر لیا کہ بہت سے دروازوں پر کھڑے ہونے سے ایک ہی دروازہ پر کھڑا ہونا بہتر ہے۔ پس ایک دروازہ پر کھڑا ہو گیا اور اسی کا ہو رہا۔ ایمان دار یقین رکھنے والا، اخلاص والا عاقل ہے اس کو تمام عقول کی عقل عطا کی گئی ہے اور اسی واسطے وہ آدمیوں سے بھاگا اور ان سے ایک کمنٹرا ہو رہا۔

مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مِنْهُمْ قَرَأَى اَنَّ الْبَعْدَ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الْقُرْبِ رَاجِعًا اِلَى الْاَصْلِ وَتَرَكَ الْفَرَعَ عَلِمَ اَنَّ الْفَرَاعَ كَثِيْرًا وَّالْاَصْلَ وَاَحَدًا فَتَمَسَّكَ بِهِ لِنَظَرٍ فِيْ مِرَاةِ الْفِكْرِ قَرَأَى اَنَّ الْوُقُوْفَ عَلٰى بَابٍ وَّاَحَدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْوُقُوْفِ عَلٰى اَبْوَابٍ كَثِيْرَةٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ الْمُؤْمِنُ الْمُوَقِنُ الْمَخْلِيْصُ عَاوِلٌ وَتَدُّ مُعْطٰى عَقْلٍ الْعُقُوْلُ وَلِهٰذَا هَرَبَ مِنْ النَّاسِ وَاَخَذَ عَنْهُمْ جَانِبًا.

## اکیسویں مجلس

## الْمَجْلِسُ الْحَادِي وَالْثَلَاثُونَ

اس بیان میں کہ اللہ کے واسطے کسی سے غصہ کرنا اچھا ہے اور غیر اللہ کے واسطے بُرا

۱۸ جمادی الآخر ۵۲۵ھ ہجری کو شام کے

وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا غیظ و غضب جب اللہ

عزوجل کے واسطے ہو پس وہ اچھا و پسندیدہ ہے ، اور

جب غیر اللہ کے واسطے ہو تو غیظ و غضب بُرا ہے مگر

اللہ کے واسطے غصہ میں آتا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لیے

وہ دین الہی کی مدد کے لیے بھڑکتا غصہ کرتا ہے نہ نفس کی

مدد کے لیے بھڑکتا ہے اس کو جب غصہ آتا ہے جب

اللہ کی مددوں سے کسی حد کی خلاف ورزی ہوتی ہے مثل

وَقَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِي الْمَدْرَسَةِ عَشِيَّةَ ثَلَاثِينَ عَشْرًا

بِحَادِي الْاُخْرَى سَنَةِ ثَمْسٍ وَارْبَعِيْنَ وَخَمْسِ مِائَةٍ .

بَعْدَ كَلَامِهِ الْغَضَبُ اِذَا كَانَ بِاللّٰهِ

عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَاِذَا كَانَ لِغَيْرِهِ

فَهُوَ مَذْمُوْمٌ الْمُؤْمِنُ يَحْتَدُّ بِاللّٰهِ

عَزَّ وَجَلَّ لَا لِنَفْسِهِ يَحْتَدُّ نَصْرَةً

لِنَفْسِهِ لَا نَصْرَةً لِنَفْسِهِ

يَغْضَبُ اِذَا خَرِقَ حَدُّهُ مِنْ

حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا

يَغْضَبُ إِلَهُهُ إِذَا أَخَذُوا صَيِّدَهُ  
فَلَا جَرَمَ يَغْضَبُ إِلَهُهُ عَمَّا وَجَلَ  
لِغَضَبِهِ وَيَرْضَى لِرِضَاةٍ لَا تُطْهِرُ  
الْغَضَبُ إِلَهُهُ عَمَّا وَجَلَ وَهُوَ لِنَفْسِكَ  
فَتَكُونُ مُنَافِقًا وَأَشْبَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ  
مَا كَانَ إِلَهُهُ عَمَّا وَجَلَ يُتَحَرَّى وَيَبْقَى وَ  
يُزَادُ وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِ يَتَغَيَّرُ وَ  
يُزُولُ فَإِذَا فَعَلْتَ فِعْلًا فَارَلْ نَفْسَكَ  
وَهَوَاكَ وَشَيْطَانَكَ مِنْهُ وَلَا تَفْعَلْهُ  
إِلَّا بِإِذْنِ عَمَّا وَجَلَ وَامْتِنَالًا لِأَمْرِهِ  
لَا تَفْعَلْ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِهِ مِنْ عَمَّا  
وَجَلَ وَجَلَ إِمَّا بِوَاسِطَةِ الشَّرْعِ أَوْ  
بِإِذْنِهِ مِنْ إِلَهُ عَمَّا وَجَلَ لِقَلْبِكَ مَعَ  
مُوافَقَةِ الشَّرْعِ إِنْ هَدَى فَيْدُكَ وَفِي  
الْخَلْقِ وَفِي الدُّنْيَا إِذْ هَدَى مِنْ يُونُسَ وَ  
يُرِيحُكَ مِنَ الْخَلْقِ وَارْغَبْ فِي الْأَنْسِ بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَ  
وَالرَّاحَةِ بِقُرْبِهِ لَا أَنْسَ إِلَّا الْأَنْسُ  
بِهِ وَلَا رَاحَةً إِلَّا مَعَهُ بَعْدَ الصَّفَاءِ  
مِنْ كُذُومَاتِ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ وَ  
وُجُودِكَ كُنْ مَعَ الْقَوْمِ فَتَتَأَيَّدُ  
بِتَأَيُّدِهِمْ وَتَبْصُرَ بِبَصَرِهِمْ وَ  
يُبَاهِي بِكَ كَمَا يُبَاهِي بِهِمْ  
يُبَاهِي بِكَ إِلَيْكَ يَتَبَيَّنُ بِقِيَّتِهِ  
السَّابِلِينَ كَلِمَةً قَلْبِكَ مِنْ سِوَاهُ  
فَاتَّكَ تَرَى بِهِ مَا سِوَاهُ

چھتے کے کہ وہ جب غصہ کرتا ہے جب اس کے شرکار کو دوسرے  
لے لیتے ہیں۔ پس یقیناً اس مرد خدا کے غضب سے اللہ تعالیٰ  
غضب میں آتا ہے اور اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ  
غضب اور امر جو تیرے نفس کے لیے ہو اس کو اللہ کے واسطے  
ظاہر نہ کر۔ پس تو ایسا کرنے سے منافی ہو جائے گا اور یہ امر  
پورا نہ ہوگا اس لیے کہ جو امر اللہ عزوجل کے لیے ہوتا ہے پورا  
ہوا کرتا ہے اور باقی رہتا ہے اور زیادتی قبول کرتا ہے اور  
جو کہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اور زائل ہو  
جاتا ہے پس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اس وقت اپنے  
نفس اور خواہش اور شیطان کو اس سے دور کر دیا کر اور نہ کہ اس  
کو مگر اللہ عزوجل کے واسطے اور واسطے بجا آوری امر الہی کے  
تو کوئی کام اللہ عزوجل کی طرف سے بغیر یقینی حکم کے نہ کیا کر  
وہ یقینی حکم یا بواسطہ شرع کے ہوگا یا بذریعہ الہام کے جو تیرے  
قلب کو منجانب الہی ہوگا اور موافق شرع ہوگا تو اپنے بارہ اور  
تمام خلق و دنیا کے بارے میں نہ بہ اختیار کر تو اس ذات میں  
نہ کہ جو کہ تجھ کو انس دے اور خلق سے راحت بخشنے اور اللہ  
عزوجل کے ساتھ انس پکڑے اور اس کے قرب کی راحت  
میں رغبت پکڑے کیوں کہ مردان حق کو بغیر اس کے انس نہیں اور  
نہ بغیر اس کی محبت کے راحت و آرام تو بعد اس کے کہ اپنے  
نفس و خواہشات و وجود کی کدورتوں سے صفائی کرے تو اولیاً  
اللہ کے ساتھ قیام کر پس تو ان کی تائید سے مدد لے گا اور ان  
کی آنکھ سے دیکھنے لگے گا اور جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے  
ویسا ہی تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا۔ بادشاہ اپنی دوسری رعایا سے  
متاثر بنا کر تیرے ساتھ فخر کرے گا تو اپنے قلب کو ماسوی  
اللہ سے پاک کرے۔ پس بہ تحقیق تو اس سے اس کے ماسوا

فِي الْجَمَلَةِ تَرَاهُ ثُمَّ تَرَى بِهِ أَعْمَالَهُ  
فِي خَلْقِهِ كَمَا لَا يَحِلُّ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى  
الْمُلُوكِ مَعَ نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ لَمْ  
تَدْخُلْ عَلَى مَالِكِ الْمُلُوكِ الَّذِي هُوَ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ نَجَاسَةٍ بَاطِنَةٍ  
أَنْتَ خَاطِبُهُ مُلَانٌ دُرِّيٌّ أَيْشٌ  
يَعْمَلُ بِكَ أَقْدَبُ مَا فِيكَ وَتَطَهَّرُ  
وَبَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الدَّخُولُ عَلَى  
الْمُلُوكِ فِي قَلْبِكَ مَعَاصِي وَخَوْفٌ  
مِنَ الْخَلْقِ وَرَجَاءٌ لَهُمْ وَحُبُّ  
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَكُلُّ هَذَا مِنْ  
نَجَاسَةِ الْقُلُوبِ لَا كَلَامَ حَتَّى تَمُوتَ  
نَفْسُكَ وَتُحْمَلَ عَلَى نَعِيشٍ صَدْرَكَ  
حِينَئِذٍ لَا تَبَالِي يَا قِيَالِكَ عَلَى الْخَلْقِ  
أَمَّا مَا دَامَ عِنْدَكَ وَجُودٌ لَهُمْ وَ  
أَنْتَ تَرَاهُمْ فَلَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَيْهِمْ  
حَتَّى يَقْبَلُوها لَا كَلَامَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَكَ  
دَهْشَةٌ بِقُرْبِهِ فَيَكُونُ عِنْدَكَ شُغْلٌ  
مَنْهُمْ وَمَنْ تَقْبِلُهُمْ يَدَكَ وَمِنْ عَطَائِهِمْ  
وَمَنْعِهِمْ وَحَمْدِهِمْ وَذَمِّهِمْ إِذَا صَحَّتِ  
التَّوْبَةُ صَرَّحَ الْإِيْمَانُ وَارْدَادٌ عِنْدَ  
أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ  
يَزِيدُ بِالنَّطَاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ هَذَا فِي  
حَقِّ الْعَوَامِّ وَأَمَّا الْخَوَاصُّ فَيَزِيدُ إِيْمَانُهُمْ  
بِحُرُوفِ الْخَلْقِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَيَنْقُصُ

کوئی الجملہ دیکھنے لگے گا۔ اولاً تو اس کا مشاہدہ کرے گا۔ پھر  
اس کے افعال کا جو کہ اس کی خلق میں جاری ہوتے ہیں جیسا  
کہ تیرے لیے نجاست ظاہری کے ساتھ دنیوی بادشاہوں  
پر داخل ہونا حلال نہیں ہوتا ویسا ہی مالک الملوک کے روبرو  
جو کہ حق عزوجل ہے نجاست باطنی کے ساتھ داخل ہونا منع  
ہے۔ تو پچھٹ کا بھرا ہوا مٹکا ہے وہ تجھے لے کر کیا کرے  
جو کہ تیرے اندر ہے اس کو پلٹ دے اور پاکیزگی حاصل کر  
لے۔ اس کے بعد تیرا داخلہ بادشاہوں کے پاس ہو سکے گا۔  
تیرے قلب میں گناہ ہیں اور مخلوق سے خوف اور انہیں سے  
امیدواری اور دنیا و ما فیہا کی محبت۔ اور یہ تمام باتیں قلوب کی  
نجاستوں سے ہیں۔ تجھ کو وعظ کنایات کرنا جائز نہیں یہاں  
تک کہ تیرا قلب مر جائے اور وہ تیری سچائی کی نش پر اٹھایا جائے  
اس وقت مخلوق پر متوجہ ہونے میں تجھے کچھ حرج نہ ہوگا لیکن  
جب تک تیرے نزدیک مخلوق کا وجود ہے اور تیری نظر  
ان پر جاتی ہے پس تو اپنے ہاتھ کو ان کی طرف نہ بڑھاتا کہ  
وہ اس کو بوسہ دیں۔ اس وقت تک کہ تجھے قرب الہی سے  
مدہوشی حاصل ہو جائے خاموش رہ پس اس وقت تجھ کو مخلوق  
سے بے خبری ہوگی اور ان سے ہاتھ چوموانے اور ان کے  
دینے اور منع کر دینے سے اور ان کی تعریف و برائی سے  
روگردانی ہوگی۔ جب تو یہ صحیح ہو جاتی ہے ایمان صحیح ہوتا ہے  
اور ترقی قبول کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ مذہب  
ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے طاعت سے زیادہ  
ہوتا ہے اور معصیت سے کم۔ یہ عوام کے حق میں ہے اور  
لیکن خواص پس ان کا ایمان خلق کے قلوب سے نکل جانے  
سے بڑھتا ہے اور قلب میں مخلوق کے داخل ہو جانے

يُدْخُلُوهُمْ إِلَيْهَا يَزِيدُ سَكُونَهُمْ إِلَى  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُنْقُصُ سَكُونَهُمْ إِلَى  
غَيْرِهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَيَهْتَفُونَ  
وَالْيَهُ يَسْتَنِدُونَ وَمِنْهُ يَخَافُونَ وَ  
لَهُ يَرْجُونَ لَهُ يُوحِدُونَ وَعَلَيْهِ  
تَعِمُّدُونَ فَلَا يُشْرِكُونَ وَعَلَى ذَلِكَ  
يُثَبِّتُونَ تَوْحِيدَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ  
لِلْخَلْقِ فِي ظَوَاهِرِهِمْ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهِمْ  
لَا يَجْهَلُونَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهِمْ  
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  
عَلَيْكَ يَا صَمْتٌ وَالْجَاهِلُ عَنْ جَهْلِ  
الْجَاهِلِ وَتَوَمَّنْ أَنْ يُلَاقِيَهُمْ وَتَقُوسِهِمْ  
وَأَهْوِيَّتِهِمْ أَمَّا إِذَا ارْتَكَبُوا مَعْصِيَةَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا صَمْتَ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ  
يَمَيِّزُ الْكَلَامَ عِبَادَةً وَتَرْكُهُ مَعْصِيَةً إِذَا  
قَدَّرْتَ عَلَى الْإِمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ  
عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَا تَقْصُرْ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَابُ تَحْيِيرٍ  
قَدْ فُتِحَ فِي وَجْهِكَ فَبَادِرْ بِالْدُّخُولِ  
فِيهِ كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
يَأْكُلُ مِنْ حَشَائِشِ الصَّحَرَاءِ وَ  
يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْعُدَاةِ إِنْ وَبَاوَى  
إِلَى الْكُهُوفِ وَالْخَرَابِ إِذَا نَامَ  
تَوَسَّدَ بِصَخْرَةٍ أَوْ بِدِرَاعِهِ  
الْمُؤْمِنُ يَفْعَلُ هَكَذَا وَ  
يَعْرِمُ أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سکون کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور غیر اللہ کی طرف سکون کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ خواص اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی کی طرف نسبت و بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے دُرتے ہیں اسی کے واسطے امید واری کرتے ہیں اور اس کو یگانہ سمجھتے ہیں اور اسی پر اعتماد رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کی توحیدان کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے ظاہر سے غفلت کی مدارات کرتے ہیں جب ان کے ساتھ جہالت برقی جاتی ہے۔ وہ جہالت کا بڑا دُور نہیں کرتے۔ اللہ عزوجل نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الرِّبِّيُّ اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہتے ہیں۔ تیرے اور پر خاموشی اور جاہل کی جہالت اور ان کی طبیعتوں اور نفوس اور ان کی خواہشوں کے غلبہ و جوش سے بردباری لازم ہے لیکن جب مصیبت الہی اختیار کریں تو سکوت جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایسی صورت میں کلام عبادت ہو جاتا ہے اور ترک کلام مصیبت جب تجھے امر بالمعروف (یعنی اچھے کام کے حکم دینے) اور نہی عن المنکر (یعنی بُرے کام سے روکنے) پر قدرت ہو تو اس سے کوتاہی نہ کر کیوں کہ وہ بھلائی کا دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھول دیا گیا ہے تو اس کے اندر داخل ہونے میں جلدی کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھیا کرتے تھے اور تالابوں کا پانی پیا کرتے تھے اور غاروں اور ویرانہ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ جب سوتے تھے پتھر یا اپنے ہاتھ کا ٹیکہ بنایا کرتے تھے۔ ایمان دار ایسا ہی کرتا ہے اور اپنے رب عزوجل سے اسی حالت و قدم پر ملنے کا

عَلَى هَذَا الْقَدَمِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَقْسَامٌ  
فِي الدُّنْيَا فَبِهَا تَجِبُهَا فَيَتَكَبَّرُ بِهَا  
ظَاهِرُهُ وَكَسْوَتُهَا بِنَفْسِهِ وَقَلْبُهُ  
مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَدَمِ الْأَوَّلِ لَمْ  
يَتَغَيَّرْ لَئِنْ الرُّهْدَ إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ  
لَا يَغَيَّرُهُ مَجِيءُ الدُّنْيَا وَتَنَاولُ الْأَقْسَامِ  
الْمُؤْمِنُ لَوْ كَانَ بِحِثِّ الدُّنْيَا وَآهْهَا  
وَشَهْوَاتِهَا وَلَكِنْ لَهَا مَا كَانَ يَصْبِرُ عَنْهَا  
لِحَظَّةٍ مَشْغُولًا بِهَا فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ  
وَمَا كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَتَنَسَّكُ وَلَا يَدْكُرُ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُطِيعُهُ فَبَصَرُهُ اللَّهُ  
يُعْيِيبُ نَفْسَهُ فَتَابَ مِنْهَا وَنَدِمَ عَلَيْهَا  
عَلَى مَا قَرَّطَ مِنْهُ فِي أَيَّامِهِ الْخَالِيَةِ  
وَبَصَرُهُ يُعْيِيبُ الدُّنْيَا بِطَرِيقِ الْكِتَابِ  
وَالسُّنَنِ وَالشُّيُورِ فَجَاءَهُ الرُّهْدُ  
فِيهَا فَكَلِمًا نَظَرَ إِلَى عَيْبِ أَبْصَرُ عَيْبًا  
أَخْرَفَ عَلَيْهِمُ أَنَّهَا قَانِيَةٌ عَنْهَا إِلَى أَمَدٍ  
قَرِيبٍ لَعِينُهَا نَزَائِلُ وَحُسْنُهَا مُتَغَيَّرٌ  
أَخْلَقَهَا شَرَسَةً يَدَهَا ذَا بَعْدَ كَلَامِهَا  
سَمُومٌ ذَوَاتُهُ مِطْلَاقَةٌ كَيْسَ لَهَا  
مَرْجُومٌ وَلَا أَصْلٌ وَلَا عَهْدُ الْقِيَامِ  
فِيهَا كَالْيَمْنَاءِ عَلَى الْمَاءِ فَلَا  
يَأْخُذُهَا قَرَارًا لِقَلْبِهِ وَلَا  
دَارًا لَهُ ثُمَّ يَتَرَفَّى حَدَجَةً وَ  
يَقْوَى تَمَكُّنُهُ فَيَعْرِفُ الْحَقَّ

عزم و قصد رکھتا ہے اور دنیا سے اس کی قسمت میں کچھ ہوتا ہے  
پس وہ خود بخود اس کے پاس آجاتا ہے اور وہ اس میں اپنے  
ظاہر سے ملتبس ہوتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے لیے  
اپنے لیتا ہے اور اس کا قلب اللہ عزوجل کے ساتھ اول قدم  
پر مستقر رہتا ہے اس میں کچھ تغیر پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ جب زندہ  
کسی دل میں جگہ کر لیتا ہے تب اس کو دنیا کا آنا اور اپنے مقسم  
کا حاصل کرنا بدل نہیں سکتا ہے مومن اگر دنیا اور اہل دنیا اور دنیا  
کی خواہشوں اور لذتوں کو محبوب سمجھنا ایک لمحہ کے لیے بھی اس  
سے صبر نہ کر سکتا۔ اسی میں رات دن مشغول رہتا اور عبادت کر  
سکتا اور نہ ریاضت اور نہ اللہ عزوجل کو یاد کرتا اور نہ اس کی اطاعت  
اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے عیب اس کو دکھائے پس  
اس مومن نے ان عیبوں سے توبہ کر لی اور جو کچھ گزشتہ زمانہ  
میں اس سے تصور واری ہوئی تھی اس پر نام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ  
نے اس کو دنیا کے عیبوں پر بطریق کتاب اور حدیث اور  
بذریعہ مشائخ کے مطلع کر دیا پس اس کو دنیا و مافیہا سے بے  
رغبتی حاصل ہو گئی پس جب اس نے ایک عیب پر نظر ڈالی دوسرے  
عیبوں کو معلوم کر لیا اور یہ جان لیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے  
اور عمر عنقریب گزرنے والی ہے۔ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے  
والی اور اس کی رونق بدلنے والی اور اس کے اخلاق بُرے  
ہیں۔ دنیا کا ہاتھ ذبح کرنے والا اور اس کا کلام زہر فہ مزہ  
چکھنے والی پھر چھوڑ دینے والی ہے دنیا کا کوئی ٹھکانا اور  
جہز اور عہد نہیں۔ اس میں قیام ایسا ہے جیسے پانی پر عمارت  
بنانا۔ لہذا مسلمان دنیا کو نہ اپنے قلب کا قرار دیکھتا ہے  
اور نہ گھر زائل بعد وہ مومن ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور  
اس کی مضبوطی قوت پکڑتی ہے پس وہ اپنے حق عزوجل

عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَأْخُذُ الْآخِرَةَ أَيْضًا  
 قَدْ أَرَأَى لِقَابِهِ بَلْ يَتَّخِذُ قُرْبَهُ مِنْ  
 مَوْلَاهُ قَرَارًا لَهُ فِي دُنْيَاهُ وَأَخْرَجَهُ  
 يَبْنِي لِسِرِّهِ وَقَلْبِهِ دَارًا هَتَاكَ  
 فَحِينَئِذٍ لَا تَصُورُهُ عِمَادَةُ الدُّنْيَا  
 وَلَوْ بَنَى الْغَائِمِينَ الدُّوْرَ لَا تَنَالُهُ يَبْنِي  
 لِعَافِيَةٍ لَا لَهُ يَمْتَثِلُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّو  
 جَلَّ فِي ذَلِكَ وَيُؤَافِقُ قَضَاءَهُ وَقَدَرَهُ  
 يُقِيمُهُ فِي خِدْمَةِ الْخَلْقِ وَإِصْلَاحِ  
 الرَّاحَةِ إِلَيْهِمْ يُؤَافِقُ الصِّبَا  
 بِالظَّلَامِ فِي الطَّبِيخِ وَالْخَيْرِ وَلَا يَأْكُلُ  
 مِنْ ذَلِكَ ذَرَّةً يَصِيرُ لَهُ طَعَامٌ يَخْصُهُ  
 لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَيَكُونُ مُفْطَرًا  
 عِنْدَ طَعَامِهِ صَائِمًا مَجْمُوعًا عِنْدَ  
 طَعَامِ غَيْرِهِ الرَّاهِدُ صَائِمٌ عَنِ الطَّعَامِ  
 وَالشَّرَابِ وَالْعَارِفُ صَائِمٌ عَنْ غَيْرِ  
 مَعْرُوفِهِ فَهُوَ مَحْمُومٌ لَا يَأْكُلُ مِنْ  
 غَيْرِ يَدِ طَبِيخِهِ ذَائِعُهُ الْبَعْدُ وَ  
 ذَوَاؤُهُ الْقُرْبُ صَوْمُ الرَّاهِدِ  
 نَهَارًا وَصَوْمُ الْعَارِفِ نَهَارًا وَ  
 لَيْلًا لَا يَفْطَرُ لَصَوْمِهِ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ  
 عَزَّوَجَلَّ الْعَارِفُ صَائِمٌ الدَّهْرِ  
 ذَائِعُهُ الْحَتَّى صَائِمٌ الدَّهْرِ بِقَلْبِهِ  
 مَحْمُومٌ بِسِرِّهِ قَدْ عَلِمَ  
 أَنَّ شَفَاءَهُ لَا يَفْلَتُ عَنْ رَحْمَتِهِ وَ

کو پہچان لیتا ہے پس وہ آخرت کو بھی اپنے قلب کا قرار  
 دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں صرف خدا کے قرب  
 کو اپنے لیے ٹھہرا کر دیتا ہے اور وہیں اپنے باطن و قلب  
 کے لیے گھر بنا لیتا ہے۔ اس وقت اس کو دنیا کی عمارت  
 اگرچہ وہ ہزار گھر بھی بنائے کچھ نقصان رساں نہیں کیوں کہ وہ  
 اس کو اپنے غیر کے لیے بناتا ہے نہ خود اپنے واسطے  
 اور وہ اس میں حکم الہی کو بجا لاتا ہے اور تقصیر و قدر کی موافقت  
 کرتا ہے اس کی عمارت بنا کر خدمت خلق اور ان کو راحت  
 پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کھانا پکانے اور روٹی  
 لگانے میں دن کو رات سے ملا دیتا ہے۔ دوسروں کو  
 کھلا دیتا ہے اور خود اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔  
 اس کا طعام تو مخصوص ہے جس میں اس کا کوئی غیر شریک  
 نہیں ہوتا۔ پس وہ اپنی خوراک آٹے کے وقت انطار کرتا ہے  
 اور تمام وقت جو کہ غیروں کے کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ  
 روزہ دار رہتا ہے۔ زاہد کھانے اور پینے سے روزہ دار  
 ہوتا ہے اور عارف غیر معروف سے اپنے محبوب کے  
 سوا سبے صائم رہتا ہے۔ وہ تو مبتلائے بخار ایسا مریض  
 ہے جو طبیب کے ہاتھ کے سوا دوسرے ہاتھ سے کھاتا  
 ہی نہیں۔ دوسری محبوب کے اس کی بیماری ہے اور قرب اس  
 کی دوا۔ زاہد کا روزہ دل میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ  
 دل و رات۔ اس کے روزہ کا انطار بغیر اللہ کی ملاقات کے  
 ہوتا ہی نہیں۔ عارف عمر بھر کا روزہ دار اور ہمیشہ تپ زور  
 رہتا ہے۔ اپنے قلب سے ہمیشہ روزہ دار ہے اور  
 اپنے باطن سے سراسر مبتلائے بخار۔ اس نے یقین جان  
 لیا ہے کہ اس کی شفا رب عزوجل کی ملاقات اور اس کے

قُرْبِهِ مِنْهُ

يَا غُلَامُ إِنِ ارَدْتِ الْفَلَاحَ فَاخْرِجِ  
الْخَلْقَ مِنْ قَلْبِكَ لَا تَخَفُفْهُمُ وَلَا تَرْجُمْهُمُ  
وَلَا تَسْتَأْنِسْ بِهِمْ وَلَا تَكْسُنْ إِلَيْهِمْ هَرُولًا  
عَنِ الْكُلِّ وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ كَانَتْهُمْ مِثْنَاتُكَ  
جِيفَةً فَإِذَا صَحَّ لَكَ هَذَا فَقَدْ صَحَّتْ لَكَ  
الظَّمَايُنُ إِنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
الْإِنِّ عَاجُ عِنْدَ ذِكْرِ غَيْرِهِ

قرب میں ہے۔

اے غلام! اگر تو اپنی نجات و بہتری چاہتا ہے پس تو  
اپنے قلب سے مخلوق کو نکال ڈال نہ ان سے ڈر اور نہ ان کا  
امید و اربن اور نہ ان سے انس پکڑ اور نہ ان کا امید و اربن کر  
سکون لے۔ کل سے بھاگ اور دور ہو جا اور کل مخلوق کو جو کہ  
اس راستہ سے دور ہیں یہ سمجھ لے کہ مردار ہیں۔ جب  
تیرے لیے یہ حالت درست ہو جائے گی تو اللہ کی یاد کے  
وقت اطمینان اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیری بے قراری  
و نفرت درست و صحیح ہو جائے گی۔

## الْمَجْلِسُ الثَّانِي وَالْثَلَاثُونَ

## بتیسویں مجلس

أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر کرنے کے بیان میں

۲۱ جمادی الآخرہ ۵۲۵ھ ہجری کو جمعہ  
کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ  
میں ارشاد فرمایا :

اولاً کچھ ارشاد فرمایا گیا بعد ازیں یہ کہا۔ ابراہیمؑ کو بجالا اور  
نہی سے باز رہ اور ان آفتوں پر صبر کرے اور نوافل کے  
ذریعہ سے قرب الہی حاصل کر۔ نیز انہام بیدار اور کار گزار رکھ  
دیا جائے گا تو توفیق خیر کا رب عز و جل سے اپنے اجتہاد  
و کوشش اور گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ خواہاں بن  
تکلیف اٹھا حضورؐ کی عمل کا دروازہ ہے اور وہی تجھ کو مائل  
بنانے والا ہے۔ اسی سے سوال کر اور اس کے سامنے  
ذلیل رہ یہاں تک کہ وہ تیرے واسطے اطاعت کے سبب

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَكْرَةً  
فِي الْمَدْرَسَةِ حَادِي وَعِشْرِينَ جَمَادِي  
الْآخِرَةِ سَنَةِ خَمِيسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
بَعْدَ كَلَامِ آدِ الْأَمْرِ وَأَنْتَ عَنِ النَّهْيِ  
وَأَصْبِرْ عَلَى هَذِهِ الْأَفَاتِ وَتَقَرَّبْ  
بِالتَّوَّافِلِ وَقَدْ سُمِّيتَ مُسْتَيْقِظًا عَامِلًا  
أُطْلِبُ التَّوْفِيقَ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
مَعَ اجْتِهَادِكَ وَتَرْكِكَ تَكَلُّفِ  
الْحُضُورِ بِبَابِ الْعَمَلِ وَهُوَ  
الْمُسْتَعْمِلُ لَكَ سَلَهُ تَدُلُّ بَيْنَ  
يَدَيْهِ حَتَّى يُهَيِّئَ لَكَ أَسْبَابَ

الطَّاعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَكَ لِأَمْرٍ هَيَّاكَ  
لَهُ فَتَدَا مَرَكٌ بِالنَّسَارَةِ مِنْ  
حَيْثُكَ وَيُوجِبُهُ إِلَيْكَ التَّوْفِيقُ مِنْ  
حَيْثُ يَهْدِيهِ إِلَّا مُوَظَّاهِرٌ وَالتَّوْفِيقُ بَاطِنٌ  
الْقَهْطُ عَنِ الْمَعَاصِي ظَاهِرٌ وَالْحَمِيَّةُ  
عَنْهَا بَاطِنُهُ بِتَوْفِيقِهِ تَتَمَسَّكُ وَ  
بِحَمِيَّتِهِ وَعِصْمَتِهِ تَتْرُكُ وَيَقْوِيهِ  
تَصْبِيرٌ أُخْضِرُوا عِنْدِي بِعَقْلٍ وَ  
ثَبَاتٍ وَنَبِيَّةٍ وَعَزِيمَةٍ وَإِذَا حَتَّ  
الشَّهْمَةَ لِي وَحُسْنِ الظَّنِّ فِيَّ وَفَدَّ  
نَفْعَكُمْ مَا أَقُولُ وَفِيهِمْ مَعَانِيهِ  
يَأْمُرُهُمَا لِي عَدَايَتَيْنِ لَكَ كُلُّ مَا  
أَنَا فِيهِ لَا تَزْأَجِدُنِي فِيهَا أَنَا عَلَيْهِ  
قَلْبِكَ يَتَقَهَّرُ وَتَغْلِبُ الدُّنْيَا  
عَلَى دَانِيٍّ وَآتَقَالَ الْآخِرَةَ عَلَى  
قَلْبِي وَآتَقَالَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  
سِرِّي فَهَلْ لِي مِنْ مُعَاوِنٍ مِنْ  
يَجْسِرُ يَتَقَدَّمُ إِلَيَّ وَيَخَاطِرُ بِرَأْسِهِ  
يَحْمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَحْتَابُهُ  
إِلَى مُعَاوَنَةٍ أَحَدٍ سِوَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كَوْنُوا عُقَلَاءَ وَاحْسِنُوا  
الْأَدَبَ مَعَ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ بَزَاءُ الْعَشَائِرِ  
شَحْنُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ بِهِمْ تَحْفَظُ  
الْأَرْضُ وَالْأَيُّشُ  
يَحْفَظُ بِرِيَائِكُمْ وَنِفَاقِكُمْ وَ

میا کرے۔ تحقیق جب وہ تجھ سے کوئی کام کرانا چاہے گا  
تو وہ اس کو تیرے لیے میا کرے گا اس نے تجھ کو تیری حیثیت  
سے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ تیری طرف اپنی جانب  
سے توفیق کو متوجہ کر دے گا۔ امر ظاہر ہے اور توفیق باطن  
گناہوں سے باز رہنا منع کرنا ظاہر ہے اور ان سے پرہیز  
کرنا باطن۔ توفیق الہی سے تو احکام کو بجالاتا ہے اور اس کی  
حفاظت و نگہداشت سے تو گناہوں کو چھوڑتا ہے اور  
اس کی قوت و مدد سے تو صبر اختیار کرتا ہے۔ تم میرے  
پاس عقل و ثنابت قدمی اور نیت اور پختہ ارادہ سے اور مجھ  
پر نیت لگانے سے دوری کر کے اور مجھ میں نیک گمان  
لے کر حاضری دو۔ اس وقت میرا کلام تم کو نفع دے گا اور تم  
اس کے معنی سمجھو گے۔ اے مجھ پر نیت لگانے والے  
کل روز قیامت میری تمام حالت جس پر میں ہوں تجھ پر ظاہر  
ہو جائے گی تو مجھے میرے حال پر مزارحمت و جھگڑا نہ کر  
تیرا قلب مقنور ہو جائے گا اور وہ غالب ہوگا۔ دنیا کے  
بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے بوجھ میرے قلب  
پر اور حق عز و جل کے بوجھ (یعنی معرفت و قرب) میرے  
باطن پر کوئی ہے جو میرا مددگار بنے۔ جرأت و بہادری کر کے  
میرے آگے بڑھے اور اپنے سر کو خطرہ میں ڈالے۔ میں  
اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں کہ میں سوائے حق عز و جل کے  
کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ تم عاقل بنو اور اولیا اللہ  
کے ساتھ اچھی طرح ادب سے پیش آؤ کیوں کہ قبیلوں میں  
سے منتخب و برگزیدہ شہر و اور بندوں کے محتسب جانچ  
پڑتال کرنے والے ہیں۔ انہیں کی وجہ سے زمین کی حفاظت  
کی جاتی ہے ورنہ کون ہے جو کہ تمہارے ریا اور نفاق

بَشُرُكُمْ۔

اور شرک کی حفاظت کرے۔

اے منافقو! اے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنو! اے دوزخ کا ایندھن بننے والو! سوچو۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور ان سب پر توبہ ڈال۔ مجھ کو اور ان کو بیدار کر دے مجھ پر اور ان سب پر رحم فرما۔ ہمارے قلوب اور اعضاء کو اپنے لیے فارغ بنا اور اگر مشغولیت کے سوا علاج نہ ہو پس اعضاء کو امور دنیا میں بال بچوں کے لیے اور نفس کو آخرت کے لیے اور قلب و باطن کو اپنے لیے فارغ بنا۔ آمین اے غلام! تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا حالانکہ بغیر کیے چارہ نہیں۔ تجھ سے تنہا کچھ نہ ہو سکے گا حالانکہ تیرے لیے حضوری نہایت ضروری ہے تو عمل کے دروازہ پر ثابت قدم رہ کھڑا رہ تاکہ مالک تجھے عمارت کے کام میں لگائے تیری اور توفیق کی مثال یوں ہے کہ تومز دور ہے اور توفیق کام لینے والی اور صاحب عمل اللہ عزوجل۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی اطاعت کا جلدی اور تیزی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اور یہی توفیق ہے (تو اسے پورا کر)

تیرے اوپر افسوس کہ تو نے اپنے نفس کو غفلت سے غفلت اور ان سے امیدواری پر متعبد کر رکھا ہے تو ان قیدوں کو نفس کے پیروں سے نکال دے۔ وہ پیر اپنے رب کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نفس خدا کی حضوری میں مطمئن ہو جائیگا تو دنیا اور اس کی خواہشوں اور دنیا کی عورتوں اور ہر اس چیز سے جو دنیا میں ہے اپنے نفس کو فارغ بنالے۔ زاہد ہو جا۔ پس اگر سابقہ الہی میں تیرے مقدم میں ان چیزوں میں سے کچھ مقدر ہو گیا ہے۔ پس وہ یقیناً تیری طرف بغیر تیرے دیکھے امر و طلب کے آجائے گا اور تو اللہ عزوجل کے حضور میں زاہد نام پائے گا اور

يَا مُنَافِقِينَ يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ عَدُوَّ وَجَلَّ  
وَرَسُولِهِ يَا حَاطِبَ النَّبَاِ اللَّهُمَّ تَبَّ  
عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَيْقِظْنِي وَأَيِّقِظْهُمْ  
وَارْحَمْنِي وَارْحَمْهُمْ فَزَرَعُ قُلُوبَنَا وَ  
جَوَارِحَنَا لَكَ وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْجَوَارِحُ  
لِلْعِيَالِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالنَّفْسُ لِلْآخِرَةِ  
وَالْقَلْبُ وَالْمِزْلُكَ. آمِينَ.

يَا غُلَامُ لَا يَجِيءُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلَا  
بُدَّ مِنْكَ وَحَدِّكَ لَا يَجِيءُ مِنْكَ  
شَيْءٌ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِكَ أُثْبِتْ بَابَ  
الْعَمَلِ حَتَّى يَسْتَعْمَلَكَ لِلْبِنَاءِ أَنْتَ وَ  
التَّوْفِيقُ هَكَذَا أَنْتَ زُوكَارِيٌّ وَالتَّوْفِيقُ  
مُسْتَعْمَلٌ وَصَاحِبُ الْعَمَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ قُلْ أَمْرُكَ يَا مُسَارِعَةً إِلَى طَاعَتِهِ  
وَهُوَ مِنْهُ التَّوْفِيقُ.

وَيُحَكِّكَ قَدْ قَيَّدَتْ نَفْسَكَ  
بِالْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ لَهُمْ  
أَزَلْ هَذِهِ الْقِيُودَ مِنْ رَجْلَيْهَا وَقَدْ  
قَامَتْ إِلَى خِدْمَةِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ  
وَصَارَتْ مُطْمَئِنَّةً بَيْنَ يَدَيْهِ  
زُهْدُهَا فِي الدُّنْيَا وَشَهْوَاهَا وَنِسَائِهَا  
وَجَمِيعِ مَا فِيهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا فِي السَّالِفَةِ شَيْءٌ  
مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ يَجِيءُ إِلَيْهَا بِمَا أَمَرَكَ وَلَا  
طَلَبَكَ وَتُسَمَّى عِنْدَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ زَاهِدَةً.

وہ تیری طرف نظر کرامت سے دیکھنے لگے گا اور جو کچھ مقوم ہو چکا ہے وہ ہرگز فوت نہ ہوگا۔ تو جب تک اپنی قوت و طاقت اور اپنے مقبوضہ اشیاء پر بھروسہ کرنے والا ہے گا جب تک حیب میں کچھ ہے گا۔ اس وقت تک غیب سے کچھ نہ آئے گا۔ الٰہی ہم اباب پر بھروسہ کرنے اور ہوا و ہوس و عاداتوں کے ساتھ کھڑے رہنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تمام حالتوں کی بُرائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب ہمارے تو ہم کو دنیا و آخرت میں نہ کوئی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین

وَيَنْظُرُ إِلَيْكَ بَعَيْنِ الْكَرَامَةِ وَالْقَسَمِ لَا يَهْوَتْ مَا دُمْتُ مُتَكِلًا عَلَى حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ مَا فِي يَدَيْكَ لَا يَجِيئُكَ مِنَ الْغَيْبِ شَيْءٌ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا دَامَ فِي الْغَيْبِ شَيْءٌ لَا يَجِيءُ مِنَ الْغَيْبِ شَيْءٌ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِسْكَالِ عَلَى الْأَسْبَابِ وَالْأَوْفُوقِ مَعَ الْهُوسِ وَالْأَهْوِيَةِ وَالْعَادَاتِ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

## بیتیسویں مجلس

## المجلس الثالث والثلاثون

اس بیان میں کہ اولیاء اللہ کا دیکھنے والا خدا کا دیکھنے والا ہوتا ہے

۲۳ جمادی الآخرہ ۵۴۵ھ کو اتوار کے دن صبح کے وقت خانقاہ شریفین میں ارشاد فرمایا :

جس کسی نے اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا پس یہ تحقیق اس نے اللہ کو دیکھ لیا جس نے اللہ عزوجل کو اپنے قلب سے دیکھ لیا وہ اپنے باطن سے اس کی حضوری میں داخل ہو گیا۔ ہمارا رب عزوجل ایک موجود شے ہے دیکھا جا سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ عنقریب تم اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے کہ تم سورج و چاند کو دیکھتے ہو از وہام اس کے دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ آج بھی دیکھا جاتا ہے اور کل بھی دیکھا جاتا ہے اور کل بروز قیامت وہ سر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْاِحْدَى بَكَرًا فِي الْبَابِ ثَالِثَ عَشْرِينَ مِنْ جَمَادَى الْاُخْرَةِ سَنَةِ خَمِيسٍ وَ اَرْبَعِينَ وَخَمِيسَ مِائَةٍ مَنْ رَأَى مُحِبًّا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَأَى مَنْ رَأَى اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْلِبُهُ دَخَلَ عَلَيْهِ بِسِرِّهِ بَسْرَةً بَسْرَةً وَ جَلَّ شَيْءٌ مَوْجُودٌ مَرِيءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَنْصَامُونَ فِي دُورَيْتِهِ يُرَى الْيَوْمَ وَعَدَّ يُرَى الْيَوْمَ بِأَعْيُنِ الْقُلُوبِ وَعَدَّ بِأَعْيُنِ

الرُّؤُوسَ كَيْسَ كَيْثِلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْمُحِبُّونَ لَهُ رَضُوا  
بِهِ دُونَ غَيْرِهِ اسْتَعَانُوا بِهِ وَ  
انْتَصَرُوا عَمَّنْ سِوَاهُ صَارَتْ مِرَارَةً  
الْفَقْرُ عِنْدَهُمْ حَلَاوَةً الْفَقْرُ مِنَ  
الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ وَالرِّضَا بِهِ عِنْدَهُمْ  
وَالشُّعْمُ بِهِ عِنْدَهُمْ عِنَاهُمْ فِي  
فَقْرِهِمْ نَعِيمُهُمْ فِي اسْقَاهِهِمُ انْسَاءَهُمْ  
فِي وَحْشَتِهِمْ وَقَرَّبَهُمْ فِي بُعْدِهِمْ  
رَاحَتَهُمْ فِي تَعْيِيمِهِمْ طُوبَى لَكُمْ يَا صَبَّارُ  
يَا أَصْصِينَ يَا فَايِنِينَ عَنْ تَفَوُّسِهِمْ  
وَأَهْوِيَتِهِمْ

يَا قَوْمُ وَافِقُوا وَادْخُلُوا بِأَفْعَالِهِ  
فِيكُمْ وَفِي غَيْرِكُمْ لَا تَتَعَالَمُوا وَتَتَعَقَّلُوا  
عَلَى مَنْ هُوَ أَعْقَلُ مِنْكُمْ فَسَالِ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ هُ قِفُوا أَبْيَنَ يَدَيْهِ عَلَى أَقْدَامِ  
الْإِفْلَاسِ مِنْ عُقُوبِكُمْ وَعَلُومِكُمْ لِنَبَاؤِ  
عِلْمِهِ تَحَيَّرُوا وَلَا تَتَخَيَّرُوا فَبِهِ تَحَيَّرُوا فَبِهِ  
يَأْتِيَكُمْ الْعِلْمُ بِهِ الذَّخِيرُ أَوْ لَا تَحْزَنُ  
الْعِلْمُ ثَانِيًا ثُمَّ الْوُصُولُ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ ثَالِثًا  
الْقَصْدُ ثُمَّ الْوُصُولُ إِلَى الْمَقْصُودِ الرَّاسِ أَدَاةٌ  
ثُمَّ حُصُولُ الْمُرَادِ اسْمَعُوا وَاعْمَلُوا فَإِنِّي أَفْتِلُ  
فِي حَبَالِكُمْ أَفْتِلُ حَبَالَكُمْ الرِّحْوَةَ وَاصِلُ  
الْمُقْطَعِ مِنْهَا كَيْسَ لِي هُمْ إِلَّا هَمُّكُمْ

کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کی مانند و شاہ کوئی شے  
نہیں ہے۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے محبوب بننے  
والے اس سے راضی ہیں نہ اس کے غیر سے وہ اسی سے مدد  
چاہتے ہیں اور انہوں نے ماسوی اللہ سے کوتاہ نظری کر لی ہے  
فقر کا کڑوا پن ان کے نزدیک میٹھا ہے۔ دنیا کا فقر اور اس  
پر رضامندی اور اس کو نعمت سمجھنا ان کے نزدیک موجود ہے  
ان کی تو نگری ان کے فقر میں ہے اور ان کی نعمت و لذت  
ان کی بیماریوں میں اور ان کا انس ان کی وحشت میں اور ان کا  
قرب ان سے دوری میں اور ان کی راحت ان کی تکلیف و  
مشقت میں۔ اے بلاؤں پر صبر کرنے والو! اے راضی بننا  
پسنے والو! اے اپنے نفسوں اور خواہشوں سے فنا ہوجانے  
والو تمہیں مبارک اور خوشخبری ہے۔

اے قوم! تقدیر کے ساتھ موافقت کرو اور جو کچھ افعال  
الہی تمہارے اور دوسروں کے بارے میں ہوا ان پر راضی رہو  
جو ذات کہ تم سب سے زیادہ عاقل ہے تم اس پر اپنا علم و عقل  
نہ بگھا رو۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے: اور اللہ جانتا ہے  
اور تم نہیں جانتے ہو الایہ تم اس کے روبرو افلاس کے قدموں  
پر اپنے عقل و علم سے مفلس بن کر جا کھڑے ہو۔ تمہی دست  
بن جاؤ تا کہ تم اس کے علم کو حاصل کر لو! تم متحیر بن جاؤ اور خود  
پسند نہ ہو اور اس میں متحیر ہو یہاں تک کہ تم کو اس کا علم  
ہو جائے۔ اول حیرت ہے پھر دوبارہ علم۔ پھر دوبارہ غلوا  
الہی کی طرف پہنچنا اول ارادہ ہے۔ پھر مراد کا حاصل ہونا۔ تم  
سنو اور عمل کرو۔ پس تحقیق میں تمہاری رسیاں بٹا ہوں تمہاری  
دھیلی رسیوں میں بل دیتا ہوں اور جو رسیاں تمہاری ٹوٹ  
گئی ہیں ان کو جوڑتا ہوں۔ مجھے تمہارے سوا کوئی فکر نہیں۔

نہ تمہارے غم کے سوا دوسرا غم۔ میں تو ایک پرند کی مثال ہوں  
جہاں کہیں گروں گا دانہ چمک لوں گا۔ مجھے تو اے پھینک دے  
گئے پتھر! اے اپا سجا، نفس و خواہشوں کے پابند و صرف  
تمہاری ہی فکر ہے۔ اے اللہ مجھ پر اور ان پر رحم فرما

## چونتیسویں مجلس

۲ رجب المرجب ۱۲۵۵ھ ہجری المقدس  
کو منگل کے دن صبح کے وقت خاتقاہ شریف  
میں ارشاد فرمایا :

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بعد کچھ تقریر کے  
ارشاد فرمایا اولیاء اللہ مردان خدا کا مشعلہ خرچ کرنا اور مخلوق  
کے لیے راحت پہنچانا ہے۔ وہ لوٹنے والے، بختے  
والے ہیں۔ خدا کے فضل و رحمت سے ان کو جو کچھ ملتا ہے  
اسے وہ لوٹ لیتے ہیں اور اس کو فقیروں اور مسکینوں پر جو کہ  
تنگدست ہوتے ہیں بہرہ کر دیتے ہیں۔ قرضداروں کے قرضوں  
کو جس کی ادا سے وہ خود عاجز ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ ادا کر  
دیتے ہیں۔ وہ بھی بادشاہ ہیں لیکن نہ دنیا کے سے بادشاہ  
کیوں کہ بادشاہان دنیا لوٹتے ہیں اور قوم کو دیتے نہیں اس کو  
لٹاتا نہیں۔ اولیاء اللہ موجود شے کو خرچ کر دیتے ہیں اور مفقود  
شے کے حاصل ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ جو کچھ لیتے  
ہیں حق عزوجل کے ہاتھ سے لیتے ہیں نہ کہ مخلوق کے ہاتھوں سے  
ان کے اعصار کی کماٹی خلق اللہ کے لیے ہوتی ہے اور قلب  
کی کسب و کماٹی اپنی ذات کے لیے وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں  
اللہ عزوجل کے لیے خرچ کرتے ہیں نہ کہ خواہش اور اعراض

لَيْسَ لِي عَمَّ إِلَّا عَمُّكُمْ إِنِّي طَائِرٌ أَيْنَمَا سَقَطْتُ  
لَقَطْتُ النَّشَانَ فَيْكُمْ يَا أَحْجَارَ أَمْرُمِيَّةَ يَوْمَ مَقْعِدَيْنِ  
مُتَقِلَيْنِ يَوْمَ مَقْعِدَيْنِ يَا نَفُوسَ يَوْمَ مَقْعِدَيْنِ يَا لَهْوِيَّةِ  
اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمِهِمْ .

## المجلس الرابع والثلاثون

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَعْدَ كَلَامٍ الْقَوْمُ شَغْلُهُمُ الْمَذَلُ  
وَأَيْجَادُ الرَّاحَةِ لِلْخَلْقِ تَهَابُونَ وَ  
هَابُونَ يَنْهَبُونَ مِنْ دَضِلِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَرَحْمَتِهِ وَيَهْبُونَ لِلْمُقَرَّرِ  
وَالْمَسَاكِينِ الْمُصْطَبِ عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ  
الدُّيُونَ عَنِ الْمَدِينِينَ الْعَاجِزِينَ عَنِ  
قَضَائِهِ هُمُ الْمُلُوكُ لَا مُلُوكَ الدُّنْيَا  
فِي أَنْفُسِهِمْ يَنْهَبُونَ وَلَا يَهْبُونَ الْقَوْمُ  
يُؤْذِرُونَ بِالْمَوْجُودِ وَيَنْتَظِرُونَ مِنَ  
الْمُفْقُودِ يَأْخُذُونَ مِنْ يَدِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا مِنْ أَيْدِي  
الْخَلْقِ اكْتِسَابُ جَوَارِحِهِمْ  
لِلْخَلْقِ وَاكْتِسَابُ قُلُوبِهِمْ  
لَهُمْ يُنْفِقُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا لِلْهَوَى وَاعْتِرَاضِ الشَّهْوَى

لَا لِلْحَمْدِ وَالْقَنَاءِ دَعَا عَنْكَ التَّكْبَرُ عَلَى  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الْخَلْقِ فَإِنَّهُ مِنْ  
 صِفَاتِ الْجَبَّارَةِ الَّذِينَ يَكْبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي نَارِ الْجَحِيمِ  
 إِذَا غَضِبْتَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ  
 تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَمْ  
 تَجِبْهُ بِقِيَامِكَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ  
 تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ إِذَا ظَلَمْتَ أَحَدًا مِنْ  
 خَلْقِهِ فَقَدْ تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ نَبِّ إِلَيْهِ  
 وَاخْلُصْ فِي تَوْبَتِكَ قَبْلَ أَنْ يُهْلِكَكَ  
 بِأَضْعَفِ خَلْقِهِ كَمَا أَهْلَكَ  
 نَهْرُودَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُلُوكِ لَمَّا  
 تَكَبَّرُوا عَلَيْهِ أَذَلَّهُمْ بَعْدَ الْعِزِّ  
 أَفْقَرَهُمْ بَعْدَ الْغِنَى عَدَّ بِهِمْ بَعْدَ  
 الْحَيَاةِ كُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ  
 الشِّرْكَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ الظَّاهِرُ  
 عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ وَالْبَاطِنُ الْإِتِّكَالُ  
 عَلَى الْخَلْقِ وَمُرَاؤِيَّتُهُمْ فِي الصُّبْرِ  
 وَالتَّقَرُّعِ وَفِي النَّاسِ مَنْ تَكُونُ  
 الدُّنْيَا يَمِيدَهُ وَلَا يُحِبُّهَا يَمْلِكُهَا  
 وَلَا تَمْلِكُهَا يُحِبُّهَا وَلَا يُحِبُّهَا  
 تَعُدُّوا خَلْقَهُ وَلَا يَعُدُّوْا  
 خَلْقَهَا يَسْتَحْدِثُهَا وَلَا  
 يَسْتَحْدِثُهَا يُفَرِّقُهَا وَلَا تُفَرِّقُهَا  
 قَدْ صَدَحَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

نفسانی اور حمد و ثنا کے لیے تو حق عزوجل پر غرور کرنا چھوڑ دے  
 کہوں کہ غرور ان منکروں کی صفوں میں سے ہے جن کو اللہ عز  
 وجل دوزخ کی آگ میں منہ کے بل اٹھا کر ڈال دے گا جب  
 کہ تو نے حق عزوجل کو غصہ میں کہا (اس کی مخالفت اختیار کی)  
 پس بہ تحقیق تو نے اس پر تکبر کیا۔ جب مؤذن نے اذان دی  
 اور تواذان پر نماز کے لیے نہ کھڑا ہوا پس تحقیق تو نے اللہ  
 پر تکبر کیا اور جب تو نے کسی پر مخلوق الہی میں سے ظلم  
 کیا پس تحقیق تو نے اللہ پر تکبر کیا۔ تو تو یہ کہ اور تو بہر اخلاص کہ  
 اس سے پہلے کہ خدا نے تعالیٰ تجھ کو مثل غرور وغیرہ بادشاہوں  
 کے جب کہ انہوں نے خدا پر تکبر کیا تھا ضعیف و عاجز مخلوق  
 کے ذریعہ سے ہلاک کر دے تو بہر اخلاص کر لے۔ جب  
 انہوں نے غرور کیا اللہ عزوجل نے ان کو عزت دینے کے  
 بعد ذلیل کر دیا۔ امارت کے بعد انہیں فقیر بنا دیا نعمت دینے  
 کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ زندگی کے بعد انہیں  
 موت دے دی تو شرک ظاہری و باطنی کے چھوڑ دینے والوں  
 پر ہنیز گاروں میں سے ہو جا۔ بتوں کی پرستش ظاہری شرک ہے  
 اور مخلوق پر اعتماد کرنا اور ان کو ضرر رساں اور نفع رساں سمجھنا  
 شرک باطنی ہے۔ شاذ و نادر دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے  
 ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے اور وہ اس کی محبت نہیں کرتے وہ  
 دنیا کے مالک ہوتے ہیں اور دنیا اس کی مالک نہیں ہوتی  
 دنیا اس کی محبت کرتی ہے اور وہ اس کی محبت نہیں کرتے  
 دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ اس کے پیچھے نہیں  
 دوڑتے۔ وہ دنیا کو خدمت گار بناتے ہیں اور دنیا ان کو  
 گار نہیں بناتی وہ اس سے جدائی کرتے ہیں اور دنیا ان سے  
 جدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے قلب کو اللہ عزوجل کیلئے

درست کر یا ہے اور دنیا اُن کے فاسد کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ وہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں اور دنیا اُن میں تصرف نہیں کر سکتی اور اسی واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے نیکو کار مرد کے لیے نیک مال اچھا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا۔ دنیا اُسی کے لیے بہتر ہے جو کہ اُس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہے اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے اور ایسے اُس کی تقسیم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہو۔ تم دنیا کو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے اپنے ہاتھوں میں لو اور اُس کو اپنے قلب سے نکال دو ایسی حالت میں یقیناً دنیا تم کو ضرر نہ پہنچا سکے گی اور نہ اُس کی نعمت و زینت تم کو دھوکہ دے سکے گی پس عنقریب دنیا سے تم بھی چلے جاؤ گے اور وہ بھی تمہارے بعد فنا ہو جائے گی۔

اے غلام اپنی رائے پر بھروسہ کر کے مجھ سے بے پروا نہ بن کیوں کہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا اور ذلیل ہوا اور لغزش کھائی۔ جب تو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے بے پروا ہو جائے گا تو تو ہدایت و حمایت سے محروم ہو جائے گا کیوں کہ تو نے ہدایت کو طلب ہی نہ کیا اور نہ تو اُس کے سبب میں داخل ہوا۔ تو کہتا ہے کہ میں عالموں کے علم سے بے پروا ہوں حالانکہ تو علم کا مدعی ہے یہ تو بتا عمل کہاں ہے اور اُس کا اثر اور سچائی کہاں ہے۔ تیرا دعویٰ علم کا صحیح ہونا۔ عمل اور اخلاص اور مصیبت پر صبر کرنے

عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعْتَدِرُ الدُّنْيَا تُفْسِدُهَا فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا وَلَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ وَ لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَالَ لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِمَنْ قَالَ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَنَّهُ يُفَرِّقُهَا بِيَدَيْهِ فِي وُجُوهِ الْكَبَرِ وَالصَّلَاحِ حُدُّوا الدُّنْيَا فِي أَيْدِيكُمْ لِمَصَالِحِ عِيَالِ الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَّ وَأَخْرِجُوهَا مِنْ قُلُوبِكُمْ فَلَا جَرَمَ لَا تَتَصَرَّفُكُمْ لَا يَغُرَّكُمْ نِعِيمُهَا وَزِينَتُهَا فَنَعْقَرِيْبٍ تَذْهَبُونَ وَ تَذْهَبُ بَعْدَكُمْ۔

يَا غُلَامُ لَا تَسْتَعْنِ عَنِّي بِرَأْيِكَ فَإِنَّكَ تَضِلُّ مَنِ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ وَ ذَلَّ وَ ضَلَّ إِذَا اسْتَعْنَيْتَ بِرَأْيِكَ حُرِمْتَ الْهُدَايَةَ وَالْحِمَايَةَ لِأَنَّكَ مَا طَبَقْتَهَا وَلَا دَخَلْتَ فِي سَبِيلِهَا نَقُولُ أَنَا مُسْتَعْنٍ عَنْ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَتَدْعِي الْعِلْمَ فَإِنَّ الْعَمَلَ وَمَا تَأْثِيرُ هَذِهِ الدَّعْوَى مَا مَصْدَقُهَا إِنَّمَا تَتَّبِعِينَ صِحَّةَ دَعْوَاكَ لِلْعِلْمِ بِالْعَمَلِ وَالْإِحْلَاصِ وَالصَّبْرِ عَنِ الْبَلَاءِ

وَأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ وَلَا تَجْزَعَ وَلَا تَشْكُوا  
إِلَى الْخَلْقِ أَنْتَ أَعْلَى كَيْفَ تَدْعِي الْبَصَرَ  
أَنْتَ سَقِيمُ الْفَهْمِ كَيْفَ تَدْعِي الْفَهْمَ  
نُبِّإِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَعْوَاكَ  
الْكَاذِبَةِ وَعَلَيْكَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ  
تُعْرِضُ عَنِ الْكُلِّ وَتَطْلُبُ خَالِقَ  
الْكُلِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ انْكَسَرَّ وَ  
انْجَبَرَ وَهَلَكَ أَوْ مَلَكَ عَلَيْكَ  
يُخَوِّصُكَ نَفْسِكَ إِلَى أَنْ تَطْمَئِنَّ  
وَتَعْرِفَ مَا بَيْنَهَا عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ  
الْتَفَتْ إِلَى غَيْرِكَ عَلَيْكَ بِجَادَةٍ  
مُرَادِهِ أَطْلُبْ صُحْبَتَهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى وَ  
التَّجَرُّدِ وَالتَّفَرُّدِ عَنْ سِوَاهُ  
عَلَيْكَ يَا لَمَحُوْ أَبَدًا لَا تُشْبِهْ  
نَفْسَكَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي الْإِدْوَامِ  
وَالْتَوَاهِي فَإِنَّهُ هُوَ أَشْبَهَكَ فِيهَا  
يَا رَجَاؤَ وَيَا نِسَاءً قَدْ أَفْنَدَ  
مِنْكُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ ذَرْبٌ مِنْ  
الْإِخْلَاصِ ذَرْبٌ مِنَ التَّقْوَى ذَرْبٌ  
مِّنَ الصَّبْرِ وَ الشُّكْرِ إِنِّي أَسْأَلُكُمْ

مَقَالِيْسَ -

سے ظاہر ہوگا اور اس سے کتیری حالت میں کبھی تغیر نہ  
آئے اور تو بائے واسطے نہ کرے اور مصیبت پر خلق  
سے شک کی نہ بنے۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا دعوے کس طرح  
کرتا ہے۔ تو کم عقل و کم فہم ہو کر عقل و فہم کا کیسے دعویٰ  
کرتا ہے۔ تو اپنے جھوٹے دعویٰ سے خدا کی طرف  
سے توبہ کر رجوع لا اور اس کے سوا سب کو چھوڑ  
دے۔ تمام مخلوق سے اعراض کر اور کل کے خالق  
کو طلب کر تجھے کیا کوئی ٹوٹے یا جڑے اور کوئی  
ہلاک ہو یا مالک بنے تیری بلا سے تو صرف اپنے  
نفس کی خبر لے یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے اور  
رب عزوجل کی معرفت حاصل کرے اس وقت تو  
غیر کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے مقصود کے راستہ پر  
چل خدا کو ڈھونڈ اسی کی صحبت دنیا و آخرت میں طلب  
کر تقویٰ اور ماسوی اللہ سے یکسوئی و نہائی کو اختیار  
کر تو ہمیشہ کے لیے محو ہو جا۔ تو اپنے نفس کو ادا مرو  
نواہی (احکام شرعی) کے سوا کسی چیز میں  
موجود نہ سمجھ محویت میں رہ۔ کیوں کہ خدا نے  
تعالیٰ نے تجھے اسی لیے قائم کیا ہے اے مردو!  
اور اے عورتو! تم میں سے وہی نجات پائے گا  
جس کے پاس ایک ذرہ اخلاص کا ایک اور ذرہ  
تقویٰ کا اور صبر و شکر کا ہوگا میں تو تم کو مفلس و محتاج  
دیکھتا ہوں۔



## پینتیسویں مجلس

## المجلس الخامس والثلاثون

غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے روز  
بوقت صبح ۵ رجب ۸۲۵ھ کو مدرسہ قادریہ  
میں فرمایا۔

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكْرَةَ الْجُمُعَةِ  
بِالْمَدْرَسَةِ خَامِسَ رَجَبِ سَنَةِ ثَمَنِينَ  
وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

اے غور کرنے والو! تم پر افسوس ہے  
تمہاری عبادتیں زمین میں داخل نہیں ہوتی ہیں بلکہ آسمان پر  
چڑھتی ہیں۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے اِلَیْهِصْعَدُ الْاَبْرَارِ پاک  
کلمہ اور عمل صالح خدا ہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہمارا رب عزوجل  
عرش پرستوی اور ملک پر حاوی ہے اور اس کا علم چیزوں  
کو احاطہ کرنے والا ہے وہ بغیر خاک کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا  
ہے سات آیتیں قرآن مجید میں اس مضمون کی ہیں تیری جہالت  
اور عنوت کی وجہ سے مجھ کو حق کے محو کرنے کی طاقت و  
قدرت نہیں ہے میں اُن کو مٹا نہیں سکتا۔ تو اپنی تلوار سے  
مجھے ڈراتا ہے میں نہیں ڈرتا تو مجھ کو اپنے مال کی رغبت یہاں ہے  
رغبت کرتے الٰہائیں ہوں میں تو صرف اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں اور غیر اللہ کا  
خوف نہیں کرتا خدائی امید رکھتا ہوں اور اُس کے غیر کی عبادت نہیں کرتا اسی  
کے لیے عمل کرتا ہوں اور غیر اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا میرا رزق اسی کے  
پاس اور اسی کے قبضہ میں ہے ہر شے اسی کی ہے بندہ اور جس چیز کا وہ بندہ الٰہ  
سب مولیٰ ہی کہے۔ اور ذکر فرمایا کہ میرا ہاتھ پر پانچ سو آدمی ایمان لائے اور میں ہزار  
زیادہ نے میرے ہاتھ پر توبہ کی پھر فرمایا یہ سب کچھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
کی برکتوں کی وجہ سے۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے وہ  
اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ سچ اس رسول کے جس کو وہ  
ن رسول غیب جانتے ہیں اور علم غیب کی دو قسمیں ہیں حقیقی و اضافی حقیقی غیب خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے ۱۲۔

وَيَحْكُمُ بِأَمْرِ كَبِيرٍ عِبَادَ انْكُمْ لَا  
تَدْخُلُ الْاَرْضَ اِلَّا مَضِ اِنَّمَا يَصْعَدُ الْكَلِمُ  
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ رَبُّنَا  
عَنَّا وَجَلَّ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَلَى الْمَلَكِ  
اِحْتَوَى وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِالْاَشْيَاءِ مُبْدِئُ  
سَبْعِ اَيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَعْنَى  
لَا يُبَيِّنُ لِي مَحْوَهَا لِاجْلِ جَهْلِكَ وَ  
رَعُوْنَتِكَ تَفَرُّعِي بِسَنِيْفِكَ مَا اَفْزَعُ  
تَرْغِبِي فِي مَالِكَ مَا ارْغَبُ اِنَّمَا اَخَافُ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا اَخَافُ غَيْرَهُ اَرْجُوهُ  
وَلَا اَرْجُو غَيْرَهُ اَعْبُدُهُ وَلَا اَعْبُدُ  
غَيْرَهُ اَعْمَلُ لَهُ وَلَا اَعْمَلُ لِغَيْرِهِ رِزْقِي  
عِنْدَهُ وَبَيِّدُهُ كُلُّ لَه الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ  
لِمَوْلَاةً وَذَكَرَ اَنَّهُ اسْكَمَ عَلَى يَدِهِ قَدَمَ  
خَمْسِ مِائَةِ نَفْسٍ وَتَابَ اَلْثَمَنُ عَشْرِينَ  
اَلْعَا وَقَالَ هَذَا مِنْ بَرَكَاتِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمُ الْغَيْبِ  
فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَن ارْتَضٰ  
ن رسول غیب جانتے ہیں اور علم غیب کی دو قسمیں ہیں حقیقی و اضافی حقیقی غیب خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے ۱۲۔

منتخب فرمائے اُس کو علم غیب دیتا ہے غیب تحقیقی اسی کے پاس ہے پس تو اللہ سے قرب حاصل کر تا کہ تو اللہ کو بھی دیکھے اور اُن چیزوں کو بھی جو اُس کے پاس ہیں اور اپنے اہل و مال اور اپنے شہر اور جوہر اور اولاد سے علیحدہ ہو جا اُن کو اپنے قلب سے نکال دے۔ سب کو چھوڑ دے اور رب تعالیٰ کے دروازہ پر پہنچ جا۔ پس تو اُس کے غلاموں اور سلطنت اور ملک طرف مشغول نہ ہو اگر وہ تیرے سامنے از خود طوق لائیں پس تو اُس کو نہ کھا۔ اگر وہ تجھے کسی حجرہ میں ٹھہرائیں پس تو اُس میں نہ ٹھہر۔ اگر وہ نیر انکاح کرنا چاہیں پس تو نکاح نہ کر تو ان میں سے کسی شے کو قبول نہ کر جب تک کہ تو اپنے سفر کے کپڑوں اور جوتیوں اور غبار سفر اور اپنے پریشان بالوں کے ساتھ خدا سے ملاقات نہ کر لے کسی طرف توجہ نہ کر اس حالت پر خدا تعالیٰ ہی تیری حالت بدلنے والا بھلانے والا سیلاب کرنے والا نیری وحشت کا مونس تجھے خوش کر دینے والا تیری نیکان کو رحمت سے بدلنے والا تیرے خوف کو امن سے بدلنے والا ہو جائے گا اس کا قرب تیرے لیے عطا اور اُس کا دیدار تیرا کھانا اور پینا اور تیرا لباس بن جائے گا ظلی سے دوستی رکھنے کے معنی یہ ہیں ان سے ڈرنا۔ اُن سے امیدواری کرنا اور اُن کی طرف جھکانا اور اُن پر بھروسہ کرنا مخلوق سے دوستی رکھنے کا یہی مطلب ہے جس کی ممانعت ہے۔

مِنْ رَّسُولٍ الْغَيْبِ عِنْدَهُ فَاقْرُبْ مِنْهُ حَتَّى تَرَاهُ وَتَرَى مَا عِنْدَهُ دَعَا أَهْلَكَ وَمَالَكَ وَبَيْدَكَ وَذَوْجَكَ وَأَوْلَادَكَ وَأَخُودَ عَنْهُمْ بِقَلْبِكَ وَدَعَا الْكُلَّ وَسَوَّ إِلَى بَابِهِ إِذَا وَصَلْتَ إِلَى بَابِهِ فَلَا تَشْتَغَلْ بِعِلْمَائِهِ وَسُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ إِنْ قَدَّمُوا لَكَ طَبَقًا فَلَا تَأْكُلْ إِنْ أَسْكَنُوكَ فِي حُجْرَةٍ فَلَا تَسْكُنْ إِنْ ذَوَّجُوكَ فَلَا تَتَزَوَّجْ لَا تَقْبَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَلْقَاهُ كَمَا أَنْتَ بِثِيَابِكَ وَنَعْلِكَ وَعُجْبَائِكَ سَفَرِكَ وَشَعْنِكَ فَيَكُونُ هُوَ الْمُغَيِّرُ عَلَيْكَ الْمُطْعِمُ الْمُسْقِي الْمُوْنِسَ لَوْحَشَتِكَ الْمُقَرِّمَ لَكَ الْمَرِيحَ لِيَتَعَبِكَ الْمُؤْمِنُ لِيَخُوفِكَ يَكُونُ بِقُرْبِهِ لَكَ عِزَّاكَ وَبِرُؤُوسِهِ لَكَ طَعَامُكَ وَشَرَّابُكَ وَلِبَاسُكَ مَا مَعْنَى تَوَلَّى الْخَلْقَ هُوَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ لَهُمْ وَالسُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَالثِّقَةُ بِهِمْ هَذَا مَعْنَى تَوَلَّى الْخَلْقَ

## چھتیسویں مجلس

## المجلس السادس والثلاثون

منگل کے دن شام کے وقت دوسری حب

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عَشِيرَةٍ فِي

۵۴۵۔ جو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

اولاً کچھ کلام کیا پھر فرمایا گیا یہ دنیا بازار ہے۔ ایک ساعت کے بعد اس میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ رات کے آتے ہی سب بازار ولے اس سے چلے جائیں گے اس بات کی کوشش کرو کہ اس بازار میں تم ایسی خرید و فروخت کرو جو تمہیں آخرت کے بازار میں نفع دے عاقبت کا خیال رکھو۔ کیوں کہ پرکھنے والا خدا کے تعالیٰ ہے جو کہ بصیر ہے۔ آخرت کے بازار میں چلنے والا سکہ اللہ عزوجل کی توحید اور عملوں میں اخلاص ہے اور وہ تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اسے غلام عادل بن اور جلد بازی نہ کر کیوں کہ تیری جملت سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا مغرب کا وقت صبح کے وقت نہیں آجاسا پس تو صبر کیوں نہیں کرتا اور کسی کام میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آجائے اور تو وقت پر نماز پڑھے اور جو تیرا ارادہ ہے تو اس کو پالے۔ عادل بن اور حق عزوجل اور اس کے خلق کے ساتھ ادب کیجئے تو خلق پر ظلم کرتا ہے ان سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے وکیل کی بات اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو وکالت کا پورا ذمہ ملے پس اس کے بعد تو عطا و بخش دیکھے گا۔ قبل سند تجھے ایک ذرہ بھی نہ دیا جائے گا۔ وہ یعنی مخلوق تجھے ایک ذرہ اور نہ کوئی عقلی اور نہ دریا اور نہ قطرہ کچھ بھی بغیر اذن الہی اور بغیر امان الہی اور بغیر اس کے کہ وہ ان کے دلوں میں الہام کرے نہ دیں گے تو عادل بند ہی عقل ہے تو اللہ کے روبرو اپنی جگہ پر جا رہے کیونکہ رزق تو اللہ کے نزدیک مقسوم ہے اور اسی کے قبضہ میں ہے۔

نچھ پرافسوس کل بروز قیامت تو خدا سے کس منہ سے ملے گا۔

الْمَدْرَسَةُ ثَانِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ تَحْمِيسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِينَ  
بَعْدَ كَلَامٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سُوقٌ بَعْدَ  
سَاعَةٍ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ عِنْدَ حَيْزِ اللَّيْلِ  
يَذْهَبُ أَهْلُهُ مِنْهُ اجْتَهِدُوا أَنْتُمْ لَا  
تَبِيعُونَ وَلَا تَشْتَرُونَ فِي هَذَا السُّوقِ  
إِلَّا مَا يَنْفَعُكُمْ عِنْدَ فِي سُوقِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ  
التَّوَقُّدَ بَصِيرَةٌ تَوْحِيدُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
الْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ لَهُ هُوَ الْمُنَافِقُ هُنَاكَ  
وَهُوَ قَلِيلٌ عِنْدَكُمْ يَا غُلَامُ كُنْ عَاقِلًا  
وَلَا تَسْتَعْجِلْ فَإِنَّهُ مَا يَفْعَلُ بِبَيْدِكَ  
شَيْءٌ بَعْجَلَتِكَ لَا تَحِيْ وَوَقْتُ الْعُرُوبِ  
وَوَقْتُ الصُّبْحِ فَهَلَا صَبَرْتَ وَتَشَاغَلْتَ  
حَتَّى تَحِيْ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ وَتَتَالَ مَا  
تُرِيدُ كُنْ عَاقِلًا وَتَأَذَّبْ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَخَلْقِهِ تَطْلِعُ الْخَلْقَ وَتَطْلُبُ  
مِنْهُمْ مَا لَيْسَ لَكَ عِنْدَهُمْ لَا كَلَامَ حَتَّى  
يَأْتِيَ التَّوَقُّعُ إِلَى الْوَكِيلِ فَحِينَئِذٍ تَرَى  
الْعَطَاءَ قَبْلَ التَّوَقُّعِ لَا تُعْطَى ذَرَّةً  
لَا يُعْطُونَكَ ذَرَّةً وَبِنِهَاةٍ لَا تَنْجُوا وَلَا قَطْرَةً إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَوَقُّعِهِ وَإِلَهَامِهِ  
لِعُلُوبِهِمْ كُنْ عَاقِلًا هَذَا هُوَ الْعَقْلُ اثْبَتْ  
مَكَانَكَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
فَإِنَّ الرِّمَقَ مَقْسُومٌ عِنْدَهُ وَ  
بَيْدُهُ

وَيَحْكُ بِأَيْ وَجْهِهِ تَلْقَاهُ عِنْدًا

• حالانکہ تو اس سے دنیا میں جھگڑتا ہے اس سے روگردانی کرنے والا اس کی مخلوق پر توجہ کرنے والا اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اپنی حاجتوں کو تو مخلوق پر پیش کرتا ہے اور ان پر مصیبتوں میں مخلوق کی طرف حاجت لے جاتا اکثر سوال کے لیے عذاب ہے کیوں کہ وہ سوال کی طرف نہیں نکالے گئے مگر بسبب اپنے گناہوں کے اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کے حق میں سوال مکروہ نہ ہو جب تو ایسی حالت میں سائل بنا کر تو مبتلا عذاب ہے تو تو محروم رہے گا اور وہ اپنی عطا کو تجھ سے روک لے گا۔

اے غلام میرے نزدیک یہ اولیٰ ہے کہ تو اپنے ضعف کی حالت میں کسی سے کچھ طلب نہ کرے اور نہ تیرے پاس کچھ ہو۔ نہ تو کسی کو پہچانے اور نہ تجھے کوئی پہچانے نہ تو کسی کو دیکھے اور نہ تجھے کوئی دیکھے اور اگر تجھ میں قدرت ہو کہ تو دوسروں کو دے سکے اور خود نہ لے پس کر گزر۔ اور دوسروں کی خدمت کر کے اور دوسروں سے خدمت طلب نہ کرے پس ایسا کر اویار اللہ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ عمل کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنے عجایب دکھائے ان کو اپنا لطف اور ان کو دوست رکھنا ملاحظہ کرادیا۔

اے غلام جب تیرے پاس اسلام نہ ہو گا پس تیرے پاس ایمان بھی نہ ہو گا اور جب ایمان نہ ہو گا۔ پس تیرے پاس ایقان بھی نہ ہو گا

اور جب تجھے ایقان نہ ہو گا پس تجھے معرفت الہی اور خدا کا علم بھی حاصل نہ ہو گا یہ سب امور درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں ان کے درجہ اور طبقہ ہیں۔ جب تیرا ایمان

وَأَنْتَ تَنَازَعُهُ فِي الدُّنْيَا مُعْرِضٌ عَنْهُ مُقْبِلٌ عَلَى خَلْقِهِ مُشْرِكٌ بِهِ تُنْزِلُ حَوَائِجَكَ بِهِمْ وَتَتَكَلَّمُ فِي الْهَيْمَاتِ عَلَيْهِمُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلْقِ عَقُوبَةٌ لَا كَثْرَ السَّائِلِينَ فَإِنَّهُمْ مَا خَرَجُوا إِلَى السُّؤَالِ إِلَّا يَذْكُوبُهُمْ وَالْأَقْلُ مِنْهُمْ يَكُونُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ فِي حَقِّهِمْ إِذَا سَأَلْتَ وَأَنْتَ مُعَارِفٌ تَكُونُ مَحْرُومًا يَمْنَعُكَ الْعَطَاءُ يَا غُلَامُ الْأَوَّلَى عِنْدِي فِي حَالِ ضَعْفِكَ أَنْ لَا تَطْلُبَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا وَأَنْ لَا يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ لَا تَعْرِفُ وَلَا تَعْرِفُ لَا تَرَى وَلَا تَرَى وَإِنْ قَدَّرْتَ أَنْ تُعْطِيَ وَلَا تَأْخُذَ فَاَفْعَلْ وَتَتَخَذِمْ وَلَا تَطْلُبِ الْخِدْمَةَ مِنْ غَيْرِكَ فَاَفْعَلْ الْقَوْمُ عَمِلُوا لَهُ وَمَعَهُ فَأَسْرَاهُمْ عَجَائِبُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَرَاهُمْ لُطْفَهُ بِهِمْ وَتَوَلَّيَهُ لَهُمْ

يَا غُلَامُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ إِسْلَامٌ فَمَا يَكُونُ لَكَ إِيمَانٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ إِيمَانٌ فَلَا يَكُونُ لَكَ إِيقَانٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ إِيقَانٌ فَمَا يَكُونُ لَكَ مَعْرِفَةٌ لَهُ وَعِلْمٌ بِهِ هَذِهِ دَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ إِذَا صَحَّ لَكَ

إِلَّا سَلَامٌ صَدَقَ لَكَ الْإِسْتِسْلَامُ كُنْ  
مُسْلِمًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَبِينِهِ  
أَحْوَالِكَ مَعَ حِفْظِ حُدُودِ الشَّرْعِ  
وَالْمِلَاذِمَةِ لَهُ سَلِمَ لَهُ فِي حَقِّكَ  
نَفْسُكَ وَغَيْرُكَ أَحْسَنَ الْأَدَبِ  
مَعَهُ وَمَعَ خَلْقِهِ لَا تَظْلِمُ نَفْسُكَ  
وَلَا غَيْرُكَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الظُّلْمُ يُظْلِمُ  
الْقَلْبَ وَيُسَوِّدُ الْوَجْهَ وَالصَّحَائِفَ  
لَا تَظْلِمُ وَلَا تُعَاوَنُ ظَالِمًا فَإِنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَالَ  
يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آيْنَ  
الظُّلْمَةِ آيْنَ أَعْوَانُ الظُّلْمَةِ آيْنَ  
مَنْ يَرَى لَهُمْ قَلَمًا آيْنَ مَنْ لَاقَ  
لَهُمْ دَوَاةً أَجْمَعُوهُمْ وَاجْعَلُوهُمْ  
فِي تَابُوتٍ مِّنْ تَابِرِ أَهْبَابٍ مِنَ الْخَلْقِ -  
وَاجْهَدْ أَنْ لَا تَكُونَ مَظْلُومًا وَلَا  
ظَالِمًا وَإِنْ قَدَرْتَ فَكُنْ مَظْلُومًا  
وَلَا تَكُنْ ظَالِمًا مَقْهُومًا وَلَا قَاهِرًا  
نُصْرَةُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَظْلُومِ وَلَا  
يَسِيْمًا إِذَا لَمْ يَجِدْ نَاصِرًا مِنَ الْخَلْقِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَتَلَ إِذَا ظَلِمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ  
نَاصِرًا غَيْرَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ  
يَقُولُ لَا نُصْرَةَ لَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

اسلام درست ہو جائے گا تو تیری فرماں برداری خد کے  
لیے درست ہو جائے گی جو کہ امت اسلام ہے تو اپنی تمام حالتوں  
میں حدود شرعیہ کی محافظت اور اسی کی پابندی کے ساتھ  
اپنے آپ کو خدا کے سپرد و حوالہ کر دینے والا ہو تو اپنا اور غیروں کا  
معاملہ اسی کو سوپ دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ  
حسن ادب کر اپنے نفس اور اپنے غیر پر ظلم نہ کریں کہ ظلم دنیا و  
آخرت میں اندھیروں کا مجموعہ ہے ظلم قلب کو تاریک کر دیتا  
ہے اور چہرہ اور صحیفوں کو سیاہ بنا دیتا ہے تو نہ خود ظلم کرو نہ  
کسی ظالم کی مدد کرو اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
ہے۔ قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا کہاں  
ہیں ظالم کہاں ہیں ظالموں کے مددگار۔

کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کے لیے  
قلم بنایا تھا کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں صوت  
ڈالا تھا ان سب کو جمع کرو اور ان سب کو آگ کے تابوت  
میں ڈال دے تو خلق سے بھاگ کر رات اختیار کر اور اس بات  
کی کوشش کر کہ تو نہ مظلوم ہو اور نہ ظالم اور اگر  
تجربہ سے ہو سکے تو مظلوم بن دو دوسرے ظلم کریں  
اُس پر صبر کرتا رہا اور ظالم نہ بن مقہور ہو اور  
قاہر نہ بن۔ مظلوم کے لیے حق عز و جل کی مدد ہے  
خصوصاً جب کہ اُس کا کوئی مخلوق میں سے مددگار نہ  
ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ  
نے فرمایا ہے جب اُس آدمی پر ظلم کیا جاوے جو کہ  
خدا کے سوا اپنا کوئی اور مددگار نہیں پاتا پس تحقیق  
اُس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مظلوم بندہ میں  
تیری ضرورت مدد کروں گا اگرچہ بعد کچھ عرصہ کے ہو۔

صبر مرد اور بلندی اور عزت حاصل کرنے کا سبب ہے۔

اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے ساتھ صبر کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے پرہیزگاری اور کفایت اور ہر شے سے فراغت اور تیرے ساتھ مشغول ہونا اور اُن پر دوا کا جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہیں اٹھ جانا طلب کرتے ہیں۔ اے بند و تمہارے اور خدا کے درمیان جو واسطے ہیں تم اُن کو اٹھا دو کیوں کہ اُن واسطے کے ساتھ ٹھہرنا ہوس ہی ہوس ہے۔ بادشاہت اور حکومت اور غنائی میری و منرت اللہ عزوجل کے واسطے ہی ہے۔

اے منافق تو کب تک ریاکاری کرے گا اور نفاق بڑھے گا جس کے واسطے تو منافق بنتا ہے اُس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا تجھ پر افسوس کیا تو خدا سے تعالیٰ سے نہیں شرماتا اور اُس کے ملنے پر ایمان نہیں لاتا جو کہ عنقریب ہونے والی بات ہے تو ظاہر میں اُس کے لیے عمل کر رہا ہے اور باطن میں اُس کے غیر کے لیے تو اُس کو دھوکہ دیتا ہے اور تو اُس سے اُس کے علم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے عمل ہے باز آ اور اپنے عمل کی تلافی کر لے اور اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کر لے اس بات کی کوشش کر کہ بغیر نیت صالح کے جو حق تعالیٰ کے لیے ہو تو نہ ایک لقمہ کھائے اور نہ ایک قدم چلے اور نہ کسی قسم کا کوئی عمل کرے جب تو ایسا کرنے لگے گا پس تو جو بھی عمل کرے گا خدا ہی کے واسطے ہو گا کہ اُس کے غیر کے لیے۔ تجھ سے کلفت قطعاً نازل ہو جائے گی اور یر نیت صالح تیری نیت بن جائے گی جب کسی بندہ کی عبوریت اپنے رب عزوجل کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو وہ بندہ کسی چیز میں بھی کلفت کی طرف حاجت مند

الصَّبْرُ سَبَبٌ لِلنُّصْرَةِ وَالرَّفْعَةِ وَالْعِزَّةِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الصَّبْرَ مَعَكَ وَنَسْأَلُكَ التَّقْوَى وَالْكَفَايَةَ وَالْفَرَاعَ مِنَ الْكُلِّ وَالْإِشْتِغَالَ بِكَ وَدَفْعَ الْحُجُبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ارْتَفَعُوا الْوَسَائِطَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ فَإِنَّ وَفَوْقَكُمْ مَعَهَا هَوَسٌ لَا مَلَكَ وَلَا سُلْطَانَ وَلَا غِنَى وَلَا عِزًّا إِلَّا لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ.

يَا مُنَافِقُ إِلَى مَتَى تُرَائِي وَتُنَافِقُ أَيْشَ يَقَعُ بِيَدِكَ مِمَّنْ تُنَافِقُ لِجَلِيلِهِ وَبِكَ أَمَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ عِزًّا وَجَلَّ وَصَاتُ مَنْ يُلْقَاكُمْ عَنْ قَرِيبٍ تَعْمَلُ عَمَلًا لَهُ وَبَاطِنُهُ لِغَيْرِهِ نَحَادِثُهُ وَتَسْتَجِدِّي بِحِلْمِهِ بِكَ إِرْجَعْ وَتَذَارَكَ أَمْرُكَ وَأَصْلَحْ نِيَّتَكَ لَهُ أَجْهَدَ أَنْ لَا تَأْكُلَ لِقْمَةً وَلَا تَمْشِيَ خُطْوَةً وَلَا تَعْمَلَ شَيْئًا فِي الْجُمْلَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ تَصْلُحُ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا صَحَّ لَكَ هَذَا فَكُلْ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ يَكُونُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ تَزَوَّلْ عَنْكَ الْكُلْفَةُ وَتَصْبِرْ هَذِهِ النِّيَّةُ طَبْعًا لِلْعَبْدِ إِذَا صَحَّتْ عَبْدٌ دَلِيلُهُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْلُفٍ

فِي شَيْءٍ لَّا تَوَلَّاهُ وَإِذَا تَوَلَّاهُ أَغْنَاهُ  
وَحَبَّيْنَاهُ عَنِ الْخَلْقِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ  
فَالْتَعَبَ مَا دُمْتَ مُرِيدًا قَاصِدًا  
سَائِرًا إِذَا وَصَلْتَ وَانْقَطَعَتْ مَسَافَةٌ  
سَمِعَكَ فَصُرْتَ فِي بَيْتِ قُرْبٍ رَيْكَ  
عَزَّ وَجَلَّ ذَالِ التَّكَلُّفِ فَيَنْبُتُ الْإِنْسُ  
بِهِ فِي قُلُوبِكَ وَيَزِدُّ إِدْحَاقِي يَا خُذْ  
بِحَوَائِجِهِ يَكُونُ أَوْ لَا صَغِيرًا ثُمَّ يَكْبُرُ  
فَإِذَا اكْبُرَ اِمْتَلَأَ الْقَلْبُ بِاللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ فَلَا يَبْقَى لغيرِهِ طَرِيقٌ إِلَيْهِ  
وَلَا ذَاوِيَّةٌ فِيهِ إِنْ أَرَدْتَ الْوُصُولَ  
إِلَى هَذَا فَكُنْ مَعَ امْتِنَالِ أَمْرِهِ وَالْإِنْتِهَاءِ  
عَنْ تَهْمِهِ وَالتَّسْلِيلِ إِلَيْهِ فِي الْخَيْرِ  
وَالشَّرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْعِزِّ وَالدَّلَالَةِ عِنْدَ  
يُكُونُ الْأَعْرَاضُ وَكُسْرُهَا فِي أُمُورِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَعْمَلُ لَهُ وَلَا تُطَالِبُ  
بِدَّرَجَةٍ مِنَ الْأَجْرِ تَعْمَلُ وَيَكُونُ  
قَصْدُكَ رِضَا الْمُسْتَعْمِلِ وَتَرْبِيَهُ  
فَالْأَجْرُ تَكُونُ رِضَاهُ عِنْدَكَ وَ  
قُرْبِكَ مِنْهُ دُنْيَا وَآخِرَةً فِي الدُّنْيَا  
لِقَلْبِكَ وَفِي الْآخِرَةِ لِقَالِكَ إِعْمَلْ وَلَا  
تُنَافِسْ لَا عَلَى دَرَجَةٍ وَلَا عَلَى بَدْرَةٍ  
لَا تَنْظُرْ إِلَى عَمَلِكَ بَلْ تَكُونُ جَوَاحِدَكَ  
تَتَحَرَّكَ بِالْعَمَلِ وَقَلْبِكَ مَعَ الْمُسْتَعْمِلِ  
فَإِذَا اسْتَمَّ لَكَ هَذَا صَارَ لِقَلْبِكَ عِيُونٌ

نہیں ہوتا کیوں کہ خدا اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی  
کار سازی فرماتا ہے۔ اور جب خدا اس کا دوست بن جاتا ہے  
تو اس بندہ کو وہ غنی کر دیتا ہے اور مخلوق سے محبوب کر دیتا  
ہے پس وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ تعب و مشقت  
اسی وقت تک ہے جب تک کہ تو مرید قاصد اور سالک ہے  
لیکن جب تو اس کی طرف پہنچ جائے گا اور تیرے سفر کی مسافت  
منقطع ہو جائے گی اور تو قرب الہی کی منزل پائے گا اس میں  
رہنے لگے گا تو اس وقت تیرا تکلف دور ہو جائے گا اور اس  
کا اس تیرے قلب میں جگہ پھر لے گا اور وہ اس روز بروز بڑھتا  
رہے گا یہاں تک کہ وہ تیرے قلب تک تمام طرفوں کو گھیر لے گا۔  
اولاً یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے پس جب بڑا ہو جاتا ہے تو قلب اللہ  
عزوجل کے قرب بھر جاتا ہے اس میں غیر کا راستہ ہی نہیں رہتا اور نہ غیر  
کی گنجائش اگر تو اس طرف پہنچنا چاہتا ہے تو تو خدا کے احکام کی تعمیل  
کرے اور اس کے منوعات سے باز رہنے اور بھلائی و برائی اور  
- امیری و فقر کی عزت و ذلت اور قلیل و کثیر اغراض کے دنیا و آخرت  
میں پورا ہونے میں اور نہ ہونے میں اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کرنے  
وہ جو چاہے کرے تو تسلیم سمجھ کا ہو کہ تیرا عمل اس کے لیے ہو اور  
اس پر ایک ذرہ برابر بدل طلب نہ کر عمل کیے جا اور اس سے تیرا مقصود  
کام لینے والے کی رضامندی اور نزدیکی ہو پس اللہ کی رضامندی اور قرب  
الہی تیرے قلب کے لیے اور آخرت میں تیرے قابل کیے ہو گا مل کر اور نہ اور  
تھیلی کی رغبت نہ کر اپنے عمل کی طرف نظر نہ ڈال بلکہ ایسا ہو کہ تیرے  
اعضاء عمل کی وجہ سے حرکت کریں اور تیرا دل کام لینے والے کے  
ساتھ متوجہ ہو۔ جب تو اس مرتبہ پر پہنچ جائے  
گا تو تیرے قلب کے واسطے بہت سی  
انکھیں ہو جائیں گی جن سے تو دیکھے گا

تَنْظُرُ بِهَا صَارَ السَّعْيُ صُورَةً وَالْغَائِبُ  
حَاضِرًا وَالْخَبَرُ مُعَايَنَةً الْعَبْدُ إِذَا  
صَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ مَعَهُ فِي جَمِيعِ  
الْأَحْوَالِ بُغْيَرَةٌ وَيُبَدِّلُهُ وَيَقْدِلُهُ مِنْ  
حَالٍ إِلَى حَالٍ يَصِيرُ كُلُّهُ إِيْمَانًا وَ  
إِيْقَانًا وَمَعْرِفَةً وَ قُرْبًا وَمُشَاهَدَةً  
يَصِيرُ تَهَارًا بِلَا لَيْلٍ ضِيَاءًا بِلَا ظَلَامٍ  
صَفَاءًا بِلَا كَدٍّ بِقَلْبًا بِلَا نَفْسٍ وَسَدًّا  
بِلَا قَلْبٍ فَنَاءً بِلَا وُجُودٍ غَيْبَةً بِلَا حُضُورٍ  
يَصِيرُ غَائِبًا عَنْهُمْ وَعِنْدَهُ كُلُّ هَذَا  
أَسَاسُهُ الْإِنْسُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا كَلَامَ  
حَتَّى يَكْتُمَ هَذَا الْإِنْسُ بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ  
أَحْطَ عَنِ الْخَلْقِ خُطْوَةً لَا ضَرَّهُمْ وَلَا  
نَفْعَهُمْ فَقَدْ خَبَرْتَهُمْ وَأَحْطَ عَنِ النَّفْسِ  
خُطْوَةً وَلَا تَوَّافَقَهَا وَعَادَهَا فِي رِضَا  
رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ خَبَرْتَهَا فَالْخَلْقُ  
وَالنَّفْسُ بِحُرَانِ نَارٍ وَإِدْيَانِ  
مُهِلِكَانِ إِعْزَمُ وَجَزُّ هَذَا الْمَهْلِكِ  
وَقَدْ وَقَعَتْ فِي الْمُلْكِ الْأَوَّلِ دَاءٌ  
وَالثَّانِي دَاءٌ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ  
الدَّاءَ وَالْدَّاءَ وَالْأَمْرَاضُ كُلُّهَا  
لَهَا أَدْوِيَةٌ عِنْدَهُ وَبَيِّدُهُ لَا يَمْلِكُهَا  
أَحَدٌ سِوَاهُ إِذَا صَبَرَتْ عَلَى الْوَحْدَةِ  
جَاءَكَ الْإِنْسُ بِالْوَاحِدِ إِذَا صَبَرَتْ  
عَلَى الْفَقْرِ جَاءَكَ الْغَنَى أَنْزَلَ الدُّنْيَا

معنی صورت اور طلب ماضی اور خبر معائنہ بن جائے گی۔ وہ  
جب اللہ کے لیے صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اس کا ہو جاتا  
ہے تو اللہ تعالیٰ تمام حالتوں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے  
اس کو خدا تغیر و تبدل کرتا ہے اور اس کو ایک حالت  
دوسرے حال کی طرف نقل کرتا رہتا ہے وہ ستر پاتا ہے  
اور ایمان اور ستر پاتا ایمان و معرفت اور قرب و مشاہدہ  
بن جاتا ہے وہ دن بغیر رات کے روشنی بغیر تاریکی کے صفائی  
بلا میلہ اپنے کے قلب بغیر نفس کے اور باطن بغیر قلب کے بغیر  
وجود کے غیبت بغیر حضور کے بن جاتا ہے۔ وہ مخلوق اور  
اپنے نفس سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس سب کی بنیاد اللہ عزوجل  
کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے جب تک کہ ایسا اس تیرے اور خدا  
کے درمیان میں حاصل نہ ہو کلام نہ کر مخلوق سے ایک قدم لگے  
بڑھان کا نقصان و نفع کوئی چیز نہیں ہے تو مخلوق کو جانچی چکا  
ہے اور نفس سے ایک قدم پیسے ہٹ آگے بڑھ اور اس کی  
موافقت نہ کر بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے نفس سے دشمنی کر تو  
تو نفس کو آزمایا جائے خلق و نفس دو آگ کے سمندر اور دو ہلاکت کے جنگل ہیں  
تو قصد مصم کر اور اس جائے ہلاکت سے جلد عبور کر جایا کرنے سے بچتے  
بادشاہت مل جائے گی اول (یعنی مخلوق و نفس کے ساتھ ابتلا)  
بیماری اور دوسرا یعنی آن کو ترک کر کے خلا سے ملنا دوا ہے۔  
اللہ عزوجل نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی برپا کی  
کے لیے اللہ کے نزدیک اور اس کے قبضہ میں دوا ہے  
جس کا اس کے سوا کوئی مالک نہیں جب تو وحدت پر  
جمار ہے گا تو تجھ کو واحد حقیقی کے ساتھ اس  
حاصل ہو جائے گا۔ جب تو فقر پر صبر کرے گا۔  
تجھ کو غنا حاصل ہو جائے گی اور اگر دنیا کو چھوڑ

پھر آخرت کو طلب کر بھروسہ آخرت کو چھوڑا اور  
قرب مولیٰ طلب کر غفلت کو چھوڑ پھر غافل کی  
طرف لوٹ۔

تجھ پر افسوس سوچتا نہیں خلق اور خالق دینا و آخرت  
دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں رات اور دن  
سیاہی و پیدیدی دونوں ایک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جمع  
ہی نہیں ہو سکتے نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ یہ درست ہو سکتا  
اور نہ اس کا کچھ ماحصل ہے یا تو خلق کو اختیار کر لے اور یا خالق  
کو اور یا دنیا کو لے لے اور یا آخرت کو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ  
خلق تیرے ظاہر میں ہو اور خالق تیرے باطن میں دنیا تیرے  
ہاتھ میں ہو اور آخرت تیرے قلب میں لیکن دونوں تیرے  
قلب میں جمع ہو جائیں پس یہ غیر ممکن ہے تو اپنے نفس کے لیے  
دونوں میں سے جس کو چاہے دیکھ کر پسند کر لے۔ اگر دنیا مطلوب  
ہے قلب آخرت کو نکال دے اور اگر آخرت مطلوب ہے تو  
قلب دنیا کو نکال ڈال اور اگر مولیٰ تعالیٰ تیرا مقصود ہے پس  
تو دنیا و آخرت کو ماسوائے اللہ سب کو اپنے قلب سے  
نکال دے کیونکہ جب تک تیرے قلب میں ایک ذرہ بھی ماسوائے  
کا ہو گا تو اپنے پاس قرب الہی کو نہ دیکھ سکے گا۔ نہ اس  
کے ساتھ تجھے انس ثابت ہو گا اور نہ اس کی طرف  
تجھے کون مل سکے گا اور جب تک تیرے قلب  
میں ذرہ دینا سے ہو گا تو آخرت کو نہ دیکھ سکے گا اور  
جب تک تیرے قلب میں ایک ذرہ آخرت سے ہو  
گا تو قرب الہی حاصل نہ کر سکے گا۔ تو عاتل بن خلد کے  
دروازہ پر بغیر سچائی کے قدموں کے تو نہیں پہنچ سکتا ہے کیوں کہ  
پہر کھنے والا دانا و خمیر ہے۔

ثُمَّ أَطْلُبُ الْآخِرَةَ ثُمَّ أَتْرُكُ الْآخِرَةَ وَأَطْلُبُ الْفَرْدَ  
مِنَ الْمَوْتَى أَتْرُكُ الْخَلْقَ ثُمَّ أَرْجِعُ  
إِلَى الْخَالِقِ۔

وَبِحَاكِ خُلُقٍ وَخَالِقٍ لَا يَجْتَمِعَانِ هَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ  
لَيْلٌ وَنَهَارٌ وَسَوَادٌ وَبَيَاضٌ لَا يَجْتَمِعَانِ  
لَا يُتَصَوَّرُ لَا يَصِفُ لَا يَجِيءُ مِنْهُ شَيْءٌ  
إِنَّمَا الْخَلْقُ وَإِنَّمَا الْخَالِقُ إِنَّمَا الدُّنْيَا  
وَإِنَّمَا الْآخِرَةُ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ  
الْخَلْقُ فِي ظَاهِرِكَ وَالْخَالِقُ فِي بَاطِنِكَ  
وَالدُّنْيَا فِي يَدِكَ وَالْآخِرَةُ فِي قَلْبِكَ  
أَمَّا فِي الْقَلْبِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَنْ تُظَرَّ  
لِنَفْسِكَ وَاخْتَرَلَهَا فَإِنْ أَرَدْتَ الدُّنْيَا  
فَأَخْرِجِ الْآخِرَةَ مِنْ قَلْبِكَ وَإِنْ أَرَدْتَ  
الْآخِرَةَ فَأَخْرِجِ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ وَ  
أَرَدْتَ الْمَوْتَى فَأَخْرِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ  
وَمَا سِوَاهُ مِنْ قَلْبِكَ لِأَنَّ مَا دَامَ فِي  
قَلْبِكَ ذَرَّةٌ مِمَّا سِوَى الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَّ  
لَا تَرَى قُرْبَهُ عِنْدَكَ وَلَا تَحَقِّقُ لَكَ  
الْأَنَسَ هُوَ السُّكُونُ إِلَيْهِ مَا دَامَ فِي  
قَلْبِكَ ذَرَّةٌ مِّنَ الدُّنْيَا لَا تَرَى الْآخِرَةَ  
بَيْنَ يَدَيْكَ وَمَا دَامَ فِي قَلْبِكَ ذَرَّةٌ  
مِّنَ الْآخِرَةِ لَا تَرَى بِقُرْبِ الْحَقِّ  
عَمَّ وَجَلَّ لَكَ كُنْ عَاقِلًا لَا تَأْتِيَ إِلَى بَابِهِ  
إِلَّا بِأَقْدَامِ الصِّدْقِ فَإِنَّ التَّائِبَ التَّائِبَ  
بَصِيرٌ۔

تجھ پر افسوس ہے تو نے خلق سے پردہ کر لیا ہے خالق  
سے پردہ نہیں کیا۔ تجھے خلق سے پردہ کیا فائدہ دے گا عنقریب  
تو خلق کے نزدیک رسوا ہو جائے گا اور تیرے اسباب  
معیشت تیری جیب اور گھر سے لیے جائیں گے لے رہے  
نیشہ کے ٹکڑے کو اپنے کھانے کے برتن میں چھوڑ دینے  
والے کھانے کے وقت تجھے خبر پڑ جائے گی اسے زہر  
کے کھانے والے عنقریب تجھے زہر کا فعل ظاہر ہو جائے  
گا کہ وہ تیرے جسم میں کیا اثر کرے گا حرام کا کھانا تیرے  
دین کے جسم کے لیے زہر ہے نعمت پر تیرا شکر کا چھوڑ دینا  
تیرے دین کے لیے زہر ہے ترک شکر پر عنقریب حتیٰ عزوجل  
تجھے محتاجی اور خلق سے سوال کرنے اور ان کے دلوں سے  
تیرے واسطے نرمی و مہربانی کے اٹھالینے کے ساتھ نرا  
دے گا اور اسے اپنے علم پر عمل کے چھوڑنے والے عنقریب  
تجھ کو عظم جھٹلا دے گا۔ اور اس کی برکت تیرے قلب سے جاتی ہے  
گی۔ اسے جاہلوں اگر تم خدا کو پہچانتے تو تم اس کی جزا و سزا  
کو جان لیتے تم اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے اور برا  
برتاؤ کرو اور بے فائدہ کلام کو کم کرو بعض صالحین سے مروی ہے  
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جوان کو گواہی کرتے ہوئے دیکھا پس میں  
اُس سے کہتا ہوں کہ یہ کیا اچھا ہو تا اگر تو محنت و مزدوری کرتا پس مجھ سے  
کی بڑائی کی گویا چھ مہینہ تک تیرا نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔

اے غلام کلام باتوں میں مشغول ہے جو بیکار باتوں میں نہیں تپانے  
نفس کو اپنے قلب کے کمال ڈال تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی کیونکہ یہی  
نفس ایسی کدورت ہے جو دوسرے کو مکدر بنانے والی ہے اس کے  
نکلنے کے بعد صفائی آجائے گی تو اپنی حالت کو بدل ڈال  
تحقیق تو بدل دیا جائے گا۔ ارشاد الہی ہے

وَيَحْكَمْ تَسْتَرْتُ عَنِ الْخَلْقِ لَا  
عَنِ الْخَالِقِ كَيْفَ تَسْتَرُّ عَنْ قَرِيبٍ  
تُسْتَهْكَ عِنْدَ الْخَلْقِ وَتَأْخُذُ الْعَمَلَةَ  
مِنْ جَيْبِكَ وَبَيْنِكَ يَا تَارِكَ الرَّجَاهِ  
الْمُكْسِرِ عِنْدَ أَكْلِكَ فِي قَيْئَتِكَ يُبَيِّنُ لَكَ  
الْحَبْرُ يَا أَكِلَ السَّوِّ عَنْ قَرِيبٍ يَبَيِّنُ  
فِعْلُهُ فِي جَسَدِكَ أَكُلَ الْحَدَامِ  
سَمَّ لِحَسَدٍ دِيْنِكَ تَرَكُ الشُّكْرَ عَلَى  
التَّعَمُّ سَمَّ لِدِيْنِكَ عَنْ قَرِيبٍ يُعَافِيكَ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِالْفَقْرِ وَالسُّؤَالِ  
لِلْخَلْقِ وَرَفَعِ الرَّحْمَةَ فِي قُلُوبِهِمْ لَكَ  
وَأَنْتَ يَا تَارِكَ الْعَمَلِ يَعْلِمُهُ عَنْ  
قَرِيبٍ يُنْسِيكَ الْعِلْمَ وَيَذْهَبُ  
بِرَكَتِهِ مِنْ قَلْبِكَ يَا جَاهِلًا لَوَعْرَ فَمَوْهٍ  
عَمَّا قَدْ عَقُوبَاتِهِ أَحْسِنُوا الْأَدَبَ مَعَهُ  
وَمَعَ خَلْقِهِ قَلِّلُوا مِنَ الْكَلَامِ فِيْمَا لَا  
يُعْنِيكَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ قَالَ  
رَأَيْتُ شَابًّا يُكْدِي فَقُلْتُ لَهُ لَوْ عَلِمْتَ  
كَأَنَّ أَحَبَّ إِلَيْكَ فَعَوْقَبْتَ بِأَنْ حُرِمْتَ  
قِيَامَ اللَّيْلِ سَيِّئَةً أَشْهَرًا

يَا غُلَامُ فِيمَا يُعْنِيكَ شُغْلُ عَمَّا  
لَا يُعْنِيكَ أَحْرَبَ نَفْسِكَ مِنْ قَلْبِكَ وَ  
قَدْ جَاءَكَ الْخَيْرُ فَاتَّهَاهِيَ الْكَدَرُ لَا  
الْمُكْدَرُ بَعْدَ خُرُوجِهَا يَجِيءُ الصَّفَاءُ  
غَيْرَ وَقَدْ غَيَّرْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ



میں بھٹی اور سکڑ جانے کی کمال کاماک ہوں۔  
 اسے منافق تو کیا ہے، بودہ گوئی کر رہا ہے تیری پیروی نہ کرے  
 بے معنی ہے تو کب تک (اما میں) کہتا رہے گا تو ہے کون  
 تجھ پر افسوس ہے تیری نظر تو غیر خدا پر ہے اور تو  
 کہتا ہے یہی کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں تو غیر خدا سے اس پکھلنا  
 ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا سے اس کو تا ہوں اور تو اپنے  
 نفس کو راضی برضا رہنے والا بتاتا ہے حالانکہ وہ جھگڑا رہے  
 تو اپنے نفس کو صابر بتاتا ہے حالانکہ ایک مچھر تجھ کو مضطرب دیتا  
 اور ناشکر اباد دیتا ہے تو اس رقت تک کلام نہ کویتا و قنیک تیرا  
 گوشت مصائب و تکالیف کی کثرت سے مردہ نہ ہو جائے کہ  
 آفتوں کی قینچیاں اس کو کاٹ ہی نہ سکیں۔ ایسی حالت میں تو  
 سزا پا غلوت بن جائے گا تیرا قلب دنیا و آخرت دونوں سے  
 خالی ہو جائے گا تو ان کی نسبت اور ان کی چیزوں کی نسبت  
 جو ان دونوں دنیا و آخرت میں ہیں معدوم ہو جائے گا اور  
 احکام کی بجا آوری اور ممنوعات سے باز رہنے میں موجود  
 ہو گا۔ خدا کا فعل تجھ کو موجود کر دے گا اور تجھے حرکت  
 و سکون میں لائے گا۔ اور تو اس کی معیت میں اپنے  
 سے غائب رہے گا۔ جب تک تیرے لیے کوئی  
 مرتبہ ثابت نہیں ہو گا حتیٰ عزوجل بندہ سے اس کی  
 صورت ظاہری کو طلب نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا مطلوب  
 تو حقیقت ہے حقیقت توحید الہی اور اخلاص اور دنیا و  
 آخرت کی محبت کا قلب سے نائل کر دینا اور تمام چیزوں  
 سے یکسو ہو جانے کا نام ہے۔ جب کسی بندہ کو کامل طور سے  
 یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کو اللہ اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے  
 اس کو نزدیک کرے گا اور غیروں پر اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔

الْكُورَةِ وَذَارِ الصَّرْبِ  
 يَا مُنَافِقُ آيَشْ تَهْدِي هَذَا يَأْنِكَ  
 فَارْهَعْ كَمْ تَقُولُ أَنَا وَمَنْ أَنْتَ  
 فَيْلِكَ تَرَى غَيْرَهُ وَتَقُولُ أَنَا أَرَاهُ وَتَأْسُ  
 بِغَيْرِهِ تَقُولُ أَنَا الْإِنْسُ بِهِ تَسْمِي نَفْسَكَ رَاضِيَةً بِذَلِكَ  
 مَعَايِضَةً تَسْمِيَهُمَا صَابِرَةً وَ  
 بَقِيَّةً تُزَعِّجُكَ وَتَكْفُرُكَ لَا  
 كَلَامَ حَتَّى يَصِيرَ لَحْمُكَ مَيْتًا  
 بِكَثْرَةِ الْأَلَامِ وَالْأَفَاتِ فِيهِ فَلَا  
 تَوَلِيْمَهُ مَقَارِيضُ الْأَفَاتِ فَتَصِيرُ  
 كُلُّكَ خَلْوَةً بِهِ يَخْلُوا قَلْبُكَ  
 عَنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَتَكُونُ فِي  
 عَدَمٍ يَا لِمَنَافَةِ إِلَيْهِمَا وَإِلَى مَا  
 فِيهِمَا وَوُجُودِكَ عِنْدَ امْتِثَالِ  
 الْأَمْرِ وَالْإِنْتِهَاءِ عَنِ النَّهْيِ فَإِنَّ فِعْلَهُ  
 يُوجِدُكَ وَفِعْلُهُ يُحَرِّكُكَ وَيُسْكِنُكَ  
 وَأَنْتَ فِي غَيْبَةٍ مَعَهُ لَا تَثْبُتُ  
 لَكَ مَقَامٌ حَتَّى يَصِيرَ لَكَ هَذَا الْمَقَامُ  
 الْحَقُّ عَمَّا وَجَلَّ لَا يَطْلُبُ مِنَ الْعَبْدِ  
 صُورَتَهُ إِنَّمَا يَطْلُبُ مَعْنَاهُ وَهُوَ  
 تَوْحِيدُهُ وَإِخْلَاصُهُ وَإِتْرَاقُهُ  
 حُبُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ  
 وَأَنْ تَصِيرَ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ فِي  
 مَعْزِلٍ عَنْهُ فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَا  
 أَحَبَّهُ وَقَرَّبَهُ وَرَفَعَهُ عَلَى غَيْرِهِ

يَا وَاحِدًا وَحِدُنَا لَكَ خَلِصْنَا  
مِنَ الْخَلْقِ وَاسْتَخْلِصْنَا لَكَ صَدَقَةً  
دَعَاوِينَا بِبَيْتِكَ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ  
طَيِّبٌ مَوْلَانَا وَيَسِّرُ أُمُورَنَا  
اجْعَلْ أُنْسَنَا بِكَ وَحَشَنَامُنْ  
سَوَالِكَ اجْعَلْ هُمُومَنَا هَمًّا  
وَاحِدًا وَهُوَ الْهَمُّ بِكَ وَالْقُرْبُ  
مِنْكَ دُنْيَانَا وَالْأُخْرَانَا۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ۔

## سینتیسویں مجلس

## المجلس السابع والثلاثون

### بیماروں کی عیادت و شرکت جنازہ کے بیان میں

جمعہ کے دن صبح کے وقت پانچویں رجب ۱۲۵۵ھ  
کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :  
حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے  
کہ آپ نے ارشاد فرمایا بیماروں کی عیادت  
کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو ایسا کرنا  
تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد سے یہ قصد کیا کہ تم آخرت  
کو یاد کیا کرو اور تم آخرت کی یاد سے  
بھاگتے اور دنیا کو دوست رکھتے ہو عنقریب

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدْرَسَةِ  
رَجَبَ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ عُوذُوا لِمَوْلَانِي وَشَيْبَعُوا  
الْجَنَائِزَ فَإِنَّهُ يُدَاكِرُكُمْ الْآخِرَةَ  
قَصَدَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنْ تُذَكِّرُوا  
الْآخِرَةَ وَأَنْتُمْ تَهْمِلُونَ مِنْ  
ذِكْرِهَا وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ عَنْ

قَرِيبٌ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا بَلَا أَهْرَمُ  
يُؤْخَذُ مِنْ أَيْدِيكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ  
فَرِحُونَ بِهِ تَجِيئُكُمْ الْبَغْضَةُ يُحِبُّكُمْ  
الْشُّرَحَةُ بَدَلُ الْفَرَحَةِ -

يَا عَافِلُ يَا هَبِجْ أَنْتَبَهُ مَا  
خُلِقْتَ لِلدُّنْيَا وَإِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ  
يَا عَافِلًا عَمَّا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَقَدْ  
جَعَلْتَ هَمَّكَ لِلشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ  
وَجَمَعَ الدُّنْيَا فَوْقَ الدُّنْيَا وَ  
اشْغَلْتَ جَوَارِحَكَ بِاللَّيْبِ إِنَّ  
ذِكْرَكَ مُذَكِّرُ الْآخِرَةِ وَالْمَوْتِ  
تَقُولُ نَغَضْتُ عَلَى عَيْشِي وَتَلَوْتُ  
بِرَأْسِكَ هَكَذَا وَهَكَذَا قَدْ جَاءَكَ  
نَذِيرُ الْمَوْتِ وَهُوَ الشَّيْبُ فِي  
شَعْرِكَ وَأَنْتَ تَقْصُرُهُ أَوْ تَغَيِّرُهُ  
بِالسَّوَادِ إِذَا جَاءَ أَجَلَكَ آيَشُ  
تَعْمَلُ إِذَا جَاءَكَ مَلِكُ الْمَوْتِ وَ  
مَعَهُ أَعْوَانُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَرُدُّهُ  
إِذَا الْقُطْعَ رُمُقَكَ وَانْقَضَتْ مُدَّتُكَ  
بِأَيِّ حِيلَةٍ تَحْتَالُ دَعُ عَنْكَ هَذَا  
الْهُوسَ الدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا  
عَمِلْتَ فِيهَا أُعْطِيتَ الْآخِرَةَ وَإِنْ  
لَمْ تَعْمَلْ فَلَمَّا تُعْطَى هِيَ دَارُ الْأَعْمَالِ  
وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَفَاتِ هِيَ دَارُ النَّعْبِ  
وَالْآخِرَةُ دَارُ الرَّاحَةِ الْمُؤْمِنُ

تمہارے اردو دنیا کے درمیان بغیر تمہارے اختیار کے اڑنا  
وہی جائے گی تمہارے انھوں سے وہ چیزیں جن کی دہر تم خوش  
ہوتے ہوئے لی جائیں گی۔ جن چیزیں کو تم ناپسند و مکروہ سمجھتے ہو وہ  
تمہارے پاس آجائیں گی اور خوشی کے بدل میں تمہیں رنج لاحق ہوگا۔

اے غافل اے نادان ہو شیار ہو جا تو دنیا  
کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ تو آخرت کے  
لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اے ضروریات سے غافل  
تو نے تو اپنا مقصد شہوتوں اور لذتوں اور دنیا  
کے اوپر دنیا جمع کرنے کو بنا لیا ہے اور اپنے  
اعضاء کو کھیل کود میں مشغول کر دیا ہے۔ اگر کوئی  
واعظ تجھے آخرت و موت کی یاد دلاتا ہے تو تو کہہ  
دیتا ہے کہ اسے واعظ تو نے تیرے اوپر میرے عیش کو  
خراب کر دیا اور اپنے سر کو ایسے ایسے ہلاتا ہے۔

تیرے پاس موت کا ڈر آنے والا جو تیرے بالوں کی  
پسیدی ہے اچکے اور تو ان سپید بالوں کو  
ترشوا دیتا ہے یا سیاہی سے غضاب کر کے بدل دیتا  
ہے جب تجھے موت آجائے گی تو تو کیا کرے گا جب  
تیرے پاس ملک الموت اپنے مددگاروں کے ساتھ آئیں گے  
کون سی چیز سے تو ان کو واپس کرے گا جب تیرا رزق  
منقطع ہو جائے گا اور تیری مدت تمام ہو جائے گی کون سی  
جیل بازی کر سکے گا۔ تو اس ہوس کو چھوڑ دے دنیا کی  
بنیاد عمل پر ہے جب تو اس میں عمل کرے گا تجھ کو  
آخرت عطا فرمائی جائے گی اور اگر عمل نہ کرے گا  
پس تجھے کچھ نہ دیا جائے گا۔ دنیا عمل کا گھر ہے اور آخرتوں  
پر صبر کرنا مشقت کا گھر اور آخرت راحت کا گھر ہے۔

سچا مسلمان اپنے نفس کو دنیا میں شقت میں ڈال دیتا ہے۔ پس ضرور اُسے راحت ملے گی اور لیکن تو اسے بواہوس راحت جلد طلب کرتا ہے اور تو بر میں تاخیر کرتا ہے اور دنوں مہینوں اور برسوں میں آج کل کرتا چلا جاتا ہے حالانکہ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے عنقریب تو نادام ہو گا بیشیانی اٹھائے گا کہ نصیحت کیوں نہ قبول کی تھی اور آگاہ و خبہ دار کیوں نہ ہوا تھا۔ اور تجھے بچا راستہ بتایا گیا تھا پس تو نے اُسے سمجھ نہ جانا تھا۔ تجھ پر افسوس تیری زندگی کی چھت کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں اے مغرور تیری زندگی کی دیواریں گر رہی ہیں۔ یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویران ہو جائے گا تو اُس سے دوسرے گھر کی طرف تحویل کرے گا تو تو دار آخرت کو طلب کر اور اُس کی طرف اپنے سامان روانہ کر یہ سامان عمل صالح ہے دنیا میں عمل صالح کر تو اپنے مال کو آخرت کی طرف اپنے سے پہلے بھیج دے تاکہ اُس کی طرف پہنچنے پر تو اُس کو پالے۔ اے دنیا پر مغرور ہونے والے اے ناچیز چیزوں میں مشغول ہونے والے۔ اے وہ شخص جس نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے اور خادمہ کے ساتھ مشغول ہے۔

تجھ پر افسوس ہے آخرت اُس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیوں کہ آخرت دنیا کو جو کہ خادمہ کی مانند ہے پسند نہیں کرتی ہے تو دنیا کو اپنے قلب سے نکال دے پھر دیکھ کہ تجھے آخرت کیسے ملتی ہے تیری طرف کیسے آتی ہے اور کیسے تیرے قلب پر غلبہ کرتی ہے پس جب تیری حالت ایسی ہو جائے گی تجھے قرب الہی آواز دے گا۔ پس اُس وقت تو آخرت کو چھوڑ دینا اور مولیٰ کو طلب کرنا و میں پر تیرے قلب کی نندہی اور

يُتَوَّبُ نَفْسَهُ فِيهَا فَلَا جَرَمَ كَيْسَرِيَّحَ  
وَأَمَّا أَنْتَ تَعَجَّلْتَ بِالزَّاحَةِ وَ  
تُمَاطِلُ بِالتَّوْبَةِ وَتُسَوِّفُ يَوْمًا بَعْدَ  
يَوْمٍ وَشَهْرًا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَنَةً بَعْدَ  
سَنَةٍ وَقَدْ انْقَضَى أَجَلَكَ عَنْ  
قَرِيبٍ تَتَدَمَّرُ كَيْفَ مَا قِيلَتْ النَّصِيحَةُ  
وَكَيْفَ مَا انْتَبَهَتْ وَصَدَقَتْ فَمَا  
صَدَقَتْ وَبِحَاكٍ جَذَعُ سَقْفِ حَيَاتِكَ  
قَدْ انْكَسَرَ آيَتُهَا الْمَغْرُورُ حَيْطَانُ  
حَيَاتِكَ تَتَوَاقَعُ هَذِهِ التَّدَارُ الْيَقِي  
أَنْتَ بِهَا تَحْرَبُ تَحْوِلُ مِنْهَا إِلَى  
الْأُخْرَى أَطْلُبُ دَارَ الْآخِرَةِ وَانْقُلْ  
رِحْلَكَ إِلَيْهَا مَا هَذِهِ الرِّحْلُ هِيَ  
الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ قَدْ مَ مَالَكَ إِلَى  
الْآخِرَةِ حَتَّى تَجِدَهُ وَفَتَّ وَصُولِكَ  
إِلَيْهِ يَا مَغْرُورًا يَا لِدُنْيَا مُشْتَغِلًا  
بِلَا شَيْءٍ يَا مَنْ تَرَكَ السِّرِّيَّةَ وَاسْتَعْلَى  
بِالْخَدَامَةِ.

وَبِحَاكٍ الْآخِرَى لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا  
لَا تَهْمَا لَا تَرْضَاهَا خَادِمَةٌ آخِرُ جَهَا  
مِنْ قَلْبِكَ وَقَدْ رَأَيْتَ الْآخِرَةَ كَيْفَ  
تَبْجِي وَتَسْتَوِي عَلَى قَلْبِكَ فَإِذَا انْتَهَرَ  
لَكَ هَذَا نَادَاكَ الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ فَحِينَئِذٍ خَلَّ الْآخِرَى وَأَطْلُبْهُ  
فَهَذَا لَكَ تَكْمِلُ صِحَّةَ الْقَلْبِ وَ

وَصَفَاءُ السِّرِّ

يَا غَلَامُ إِذَا صَحَّ قَلْبُكَ شَهِدَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ يُقِيمُ  
لَكَ مَدِينًا يَدْرَجِي وَيَشْهَدُ هُوَ لَكَ فَمَا  
تَحْتَاجُ أَنْ تَشْهَدَ بِصِحَّتِهِ لِنَفْسِكَ  
فَإِذَا أَتَمَّ لَكَ هَذَا تَصِيرُ جَبَلًا لَا تَزِيلُهُ  
الرِّيَاحُ وَلَا تَنْقُصُهُ الرِّمَاحُ وَلَا تَوُشِّرُ  
فِيكَ دُويَّةُ الْخَلْقِ وَتُخَالِطُهُمْ وَلَا  
تَتَحَدَّشُ خَدَشَةً فِي قَلْبِكَ وَلَا يَكْثُرُ  
صَفَاءُ سِرِّكَ

يَا قَوْمُ خَلُّوا مَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا  
يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الْخَلْقِ وَقَبُولِهِمْ لَهُ  
فَهُوَ عَبْدُ ابْنِ عَدُوٍّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
كَافِرٌ بِهِ وَبِعَمَلِهِ مَحْجُوبٌ مَقُوتٌ  
مَلْعُونٌ الْخَلْقُ يَسْلُبُونَ الْقَلْبَ وَ  
الْخَيْرَ وَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَشْرُكَ بِهِمْ  
نَاسِيًا لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيدُ وَنَكَ  
لَهُمْ لَا لَكَ وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيدُكَ  
لَكَ لَا لَهُ فَاظْلُبْ مَنْ يُرِيدُكَ لَكَ  
وَأَسْتَغْلِ بِهِ فَإِنَّ الْإِسْتِغَالَ بِهِ أَوْلَى  
مِمَّنْ يُرِيدُكَ لَهُ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ  
لَكَ مِنَ الظَّلْبِ فَاطْلُبْ مِنْهُ لَا مِنْ  
خَلْقِهِ فَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ  
خَلْقِهِ اسْتَغْنَتْ بِهِ إِلَيْهِ هُوَ الْغَنِيُّ

باطن کی صفائی کامل ہو جائے گی۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا۔

اے غلام جب تیرا قلب تندرست ہو جائے گا اُس  
وقت اللہ عزوجل اور فرشتہ اور صاحب علم قلب کی  
صحّت کے گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے  
ایک دعوٰی کرنے والے کو قائم کر دے گا۔ وہ دعوٰی کرے گا اور  
خود تیری گواہی دے گا۔ پس تجھے اپنے نفس کے لیے کسی گواہ کی  
ضرورت نہ ہوگی جب یہ کمال تجھے مل جائے گا اُس وقت تو  
ایسا پہاڑ ہو جائے گا جس کو ہوائیں زائل نہ کر سکیں گی اور نہ اس کو نیرے توڑ  
سکیں گے نہ تجھ میں خلقت کا دیکھنا اور ان کا مل جول نہ کرے گا اور نہ کوئی  
خدا تیرے قلب میں گزرے گا اور نہ کوئی تیرے باطن کی صفائی کو مکدر کر سکے گا۔

اے قوم تم اُس شخص کو چھوڑ دو جو کائنات کے لیے اور اُن  
میں مقبولیت کے لیے عمل کرتا ہے۔ وہ تو اللہ عزوجل کا دشمن اور  
بھگا ہوا غلام ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور اُس کی  
نعمت کا ناشکر ہے۔ محبوب مردود و ملعون ہے مخلوق تیرے قلب  
اور خیر اور دین سب کو چھین لے گی تجھ کو اپنے ساتھ شُرک کرنے والا  
اور خدا کو بھول جانے والا بنائے گی تو اُن کو شریک خدا سمجھنے لگے گا  
وہ تجھ کو اپنے نفع کے لیے چاہتے ہیں۔ نہ کہ تیرے نفع کے لیے۔ اور حق  
عزوجل تجھ کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ تجھ کو تیرے نفع کے لیے چاہتا ہے  
پس تو ایسے کو طلب کر اختیار تیرے لیے خواہاں ہو۔ اور اسی کے  
ساتھ مشغول ہو جا اُس کے ساتھ تیرا مشغول ہونا اُن سے  
بہتر ہے جو تجھ کو اپنے لیے چاہنے والے ہیں۔ اگر قرب الہی  
کے سوا تجھ کو کسی چیز کی طلب ضروری ہے۔ پس اُس کو  
حق عزوجل ہی سے طلب کرو نہ کہ اُس کی مخلوق سے کیونکہ اللہ کے  
کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدتر وہ ہے جو دنیا کو مخلوق سے  
طلب کرتا ہے اُس کے دربار میں اُسی سے فریاد چاہ وہی غنی ہے۔

وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءٌ لَا يَمْلِكُونَ  
لِأَنْفُسِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ ضَرًّا وَلَا  
نَفْعًا أَطْلَبُهُ دَوْمَةً فَإِنَّهُ يُرِيدُكَ  
فِي الْبَدَايَةِ تَكُونُ مُرِيدًا وَهُوَ  
الْمُرَادُ وَفِي الْتَهَايَةِ تَكُونُ مَرَادًا  
وَهُوَ الْمُرِيدُ الصَّغِيرُ فِي حَالِ صَغَرِهِ  
يَطْلُبُ أُمَّهُ فَإِذَا كَبُرَ تَطْلُبُهُ أُمَّهُ  
إِذَا عَلِمَ صِدْقَ إِرَادَتِكَ لَهُ إِرَادَكَ  
إِذَا عَلِمَ صِدْقَ مَحَبَّتِكَ لَهُ أَحَبَّكَ  
وَدَلَّ قَلْبِكَ وَقَرَّبَكَ مِنْهُ كَيْفَ  
تُقْلِحُ وَقَدْ تَرَكْتَ يَدَ نَفْسِكَ وَ  
هَوَاكَ وَطَبْعَكَ وَشَيْطَانِكَ عَلَى  
عَيْنَيْ قَلْبِكَ نَحْجَ هَذِهِ الْأَيْدِي  
وَقَدْ رَأَيْتَ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ نَحْجَ  
نَفْسِكَ بِمَجَاهِدَتِكَ لَهَا وَمُخَالَفَتِكَ  
نَحْجَ يَدَ هَوَاكَ وَطَبْعِكَ وَشَيْطَانِكَ  
فَإِنَّكَ تَجِدُهُ نَحْجَ هَذِهِ الْأَيْدِي وَ  
قَدْ ارْتَفَعَتِ الْحُجُبُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ  
رَبِّكَ عَمَّا وَجَلَّ فَتَنْظُرُ بِهِ مَا سِوَاهُ  
تَرَى نَفْسَكَ وَتَرَى غَيْرَكَ تَرَى  
عُيُوبَكَ فَتَجْتَنِبُهَا وَتَرَى عُيُوبَ  
غَيْرِكَ فَتَتَهَرَّبُ مِنْهَا فَإِذَا لَسْتَ لَكَ  
هَذَا قَرَّبَكَ وَأَعْطَاكَ مَا لَا عَيْنٌ  
رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ  
عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ يُحَدِّدُ سَمْعَ قَلْبِكَ

اور مخلوق تمام کی تمام محتاج مخلوق اپنے اور غیر کو نقصان و نفع  
پر پہنچانے میں بغیر حکم الہی کچھ مالک نہیں تو خدا کو طلب کر اور  
اس سے دوستی کر پس تحقیق وہ تجھے چاہنے لگے گا۔ ابتدا میں تو  
چاہنے والا ہو گا اور وہ چاہیگا اور انتہا میں تو چاہا ہو گا اور وہ چاہنے والا ہو گا  
بچپن کی حالت میں اپنی ماں کو طلب کرتا ہے پس جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں اک  
کی طالب بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے تیرے  
ارادہ کی سچائی کو جان لے گا وہ تجھے چاہنے لگے گا وہ اپنے لیے  
تیری محبت کی سچائی معلوم کرے گا تو وہ تجھے اپنا دوست بنا  
لے گا اور تیرے قلب کی رہنمائی کرے گا اور تجھے اپنے  
سے قریب کرے گا۔ تو ایسی حالت میں جب کہ تو اپنے نفس  
اور خواہش اور طبیعت اور اپنے شیطان کے ہاتھ کو طلب کی  
دونوں آنکھوں پر چھوڑ دے گا۔ کیسے فلاح و نجات پائے گا قلب  
کی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو علیحدہ ہٹا لے بیشک تجھے تمام چیزوں  
کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو سب چیزوں کو اصلی حالت پر دیکھنے  
لگے گا۔ نفس کو ریاضت میں ڈال کر اداس کی مخالفت کرے علیحدہ کرانی  
خواہش اور طبیعت اور شیطان کے ہاتھ کو طلب سے دور  
کرے پس بہ تحقیق تو خدا کو پالے گا تو ان ہاتھوں کو طلب سے  
علیحدہ کرے وہ پردہ جو تیرے اور رب تعالیٰ کے درمیان  
میں حائل ہیں دور ہو جائیں گے۔ پس تو اس سے ماسوی اللہ کو  
دیکھنے لگے گا۔ اپنے نفس کو بھی دیکھے گا۔ اور اپنے  
غیر کو بھی دیکھنے لگے گا۔ تو اپنے عیبوں کو دیکھ کر ان سے  
بچنے لگے گا اور غیب کے عیب دیکھ کر ان سے بھاگے گا۔  
جب تجھے یہ کمال کامل طور سے حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ  
تجھ کو اپنا مقرب بنالے گا اور وہ تجھ کو ایسے عطیہ  
دے گا جو نہ کبھی تیری آنکھ نے دیکھے اور نہ کانوں نے

وَسَرِّكَ وَبَصَرِهِمَا وَيُصَوِّجُهُمَا وَ  
يَكْسُوهُمَا وَيَخْلَعُ عَلَيْهِمَا خَلْعَ كَرَامَتِهِ  
يُؤَلِّيكَ بَوْلَانِيَّتِهِ وَيُعِينُكَ وَيُسَلِّطُكَ  
وَيُمَلِّكُكَ وَفِي سَائِرِ خَلْقِهِ يَشْرَحُكَ  
يَجْعَلُكَ حَارِسَ قَلْبِكَ وَيَخْدُمُ لَكَ  
مَلَائِكَتَهُ وَيُرِيكَ أَرْوَاحَ أَنْبِيَائِهِ  
وَرُسُلِهِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مِنَ  
الْخَلْقِ خَافِيَةٌ.

يَا غُلَامُ أُطْلُبْ هَذَا الْمَقَامَ وَ  
تَمَنَّاكَ وَاجْعَلْهُ هَمَّكَ وَدَعِ الْإِسْتِغَالَ  
بِطَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَا تَشْبَعُ وَمَا سِوَى الْحَقِّ لَا يَشْبَعُ  
فَاسْتَعِزْ بِهِ فَإِنَّهُ يُشْبِعُكَ إِذَا  
حَصَلَ لَكَ حَصْلُ الْغِنَى دُنْيَا وَآخِرَةً  
يَا غَا فَلَآ أَرَدُ مَنْ يُعْبِتُكَ إِشْتَقُّ إِلَى  
مَنْ يَكْشَتَانِي إِلَيْكَ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ  
عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَقَوْلَهُ  
فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ وَإِنِّي إِلَى لِقَائِكَ  
لَا شَوْقُ فَدَخَلَكَ يَعْبادَتِهِ فَلَا  
تَلْعَبُ أَرَادَكَ لِصُحْبَتِهِ فَلَا تَشْغَلْ  
بِغَيْرِهِ لَا تَحِبْ مَعَهُ فِي مَحَبَّتِهِ أَحَدًا  
إِنْ أَحْبَبْتَ غَيْرَهُ حُبَّ رَافَةِ وَرَحْمَةٍ  
وَلَطْفٍ يَجُوزُ حُبَّ النُّفُوسِ يَجُوزُ  
أَمَّا حُبُّ الْقُلُوبِ فَلَا يَجُوزُ حُبُّ  
السِّرِّ لَا يَجُوزُ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
لَمَّا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الْجَنَّةِ وَآحَبَ

سُنَّے اور نہ جو کسی بشر کے قلب پر گزرتے تیرے قلب دسر کے کان اور  
آنکھوں کو تیرے گزرتے گا اور اُن کو صبح کرے گا اور اُن کو کرامت کے  
ظلعوں سے آراستہ کرے گا اور اپنی ولایت سے تجھ کو حاکم و مالک  
بنائے گا اور اپنی تمام مخلوق میں تیرے مال کو ظاہر کرے گا تجھ کو  
اپنے قرب کا محافظ و نگہبان بنادے گا اور اُس کے فرشتے تیری  
خدمت کریں گے اور وہ تجھ کو اپنے انبیاء و مرسلین کی رحمتیں دکھائے گا  
پس تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے گی۔

اے غلام اس مقام کو طلب کر اور اُس کا متمنی بن اور اسی کو اپنا  
مقصد بنا اور دنیا طلبی کے شغل کو چھوڑ دے کیوں کہ وہ تیرے پیٹ  
کو اگھا مانہ کرے گی تجھے اُس سے کبھی سیری نہ ہوگی اور نہ خدا کے سوا کوئی  
دوسری چیز تجھے اگھا مانہ کرے گی پس تو خدا کے ساتھ مشغول ہو وہی تیرا  
پیٹ بھرے گا جب تجھ کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا دنیا و آخرت میں  
تجھے غنا و بے نیازی حاصل ہو جائے گی اے غافل اُس کو چاہ جو تجھ  
کو چاہتا ہے اسی کو طلب کر جو تجھ سے طلب کرتا ہے اسی کو دوست رکھ  
جو تجھے دوست رکھتا ہے اسی کا اشتیاق کر جو تیری طرف مشتاق ہے  
کیا تو نے اللہ عز و جل کا قول نہیں سنا اللہ اُن کو دوست رکھتا ہے  
وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور کیا اُس کا قول حدیث قدسی میں نہیں  
سنا کہ تحقیق میں اُن کی ملاقات کا زیادہ مشتاق ہوں۔ اس نے تجھے  
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پس تو کھیل کود میں مشغول  
نہ ہو اس نے تجھے اپنی مصاحبت کے لیے بنایا ہے پس تو اس کے  
غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو تو اُس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر اگر تو  
کمی غیر کی محبت بطور رافت و رحمت و لطف کے رکھے تو محبت نفس  
جائز ہے مگر غیر اللہ سے محبت قلب و باطن جائز نہیں قلب و باطن  
میں اس کی محبت ہو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں مشغول ہوئے اور

الْعَمَامَ فِيهَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ  
 أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِطَرِيقٍ أَكْلَ تِلْكَ الثَّمَرَةِ  
 مَا لَ قَلْبُهُ إِلَى حَوَاءَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَ  
 بَيْنَهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةً ثَلَاثَ  
 مِائَةِ سَنَةٍ هُوَ بِسَرْدِيَّابٍ وَ هِيَ  
 بِجَدَّةٍ يَعْقُوبَ لَمَّا سَكَنَ إِلَى وَلَدِهِ  
 لَمَّا سَكَنَ إِلَى وَلَدِهِ يُوسُفَ عَلَيْهِمَا  
 السَّلَامُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ  
 بَيْنَهُ وَنَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَمَّا مَالَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَوَّعَ مِيلَ جَرَى عَلَيْهَا  
 مَا جَرَى مِنَ الْقَذْفِ وَ الْبُهْتَانِ وَ  
 بَقِيَ أَيَّامًا لَا يُبْصِرُهَا فَاشْتَغَلَ  
 يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَغْيِرُهُ لَا تَسْتَأْنِسُ  
 يَغْيِرُهُ اجْعَلِ الْخَلْقَ خَارِجَ قَلْبِكَ  
 تَا حِيَّةٍ مِنْهُ فَرَعْنَهُ لَهُ يَا بَطَّالُ  
 يَا كَسْلَانُ يَا قَلِيلَ الشُّبُولِ إِنْ قَبِلْتُ  
 مِثِّي وَعَمِلْتُ بِمَا أَقُولُ فَلْيَنْفُسِكَ  
 تَعْمَلُ وَ أَنْ لَمْ تَعْمَلْ فَعَلَى نَفْسِكَ  
 الْبَقِيَّةُ وَ الْحِزْمَانُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ هُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ أَحْسَنْتُمْ  
 أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ  
 فَلَهَا هِيَ تَكْفِي عَنَّا ثَوَابَ الْأَعْمَالِ  
 فِي الْجَنَّةِ وَ عِقَابَ الْأَعْمَالِ فِي

جنت میں قیام پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور جنت کے  
 درمیان میں جدائی کر دی اور جنت سے بذریعہ کھالینے اس  
 پھل کے باہر نکال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا قلب حوا علیہا السلام  
 کی طرف مائل ہوا تو ان دونوں کے درمیان تین سو سال کی مسافت  
 کا فاصلہ ڈال دیا حضرت آدم سرسندیب میں اور حضرت حوا جدہ  
 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل حبیب اپنے صاحبزادہ حضرت  
 یوسف علیہ السلام کی طرف جا کر ٹھہرا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے  
 لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی چاہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جیکہ کسی  
 قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے تو ان پر تہمت و  
 بہتان جو کچھ لگا لگا جو کچھ قصہ پیش آیا اور حضور ایک عرصہ تک  
 انہیں نہ دیکھ سکے پس نوات مخاطب خدا کے ساتھ مشغول ہو  
 غیر اللہ سے قطع تعلق کر کے کسی کے ساتھ سوا خدا کے انس نہ  
 کر مخلوق کو قلب سے نکال دے۔ ایک گوشہ  
 قلب کا اُس کے لیے خالی کر۔ اسے جھوٹے اسے  
 کابل اسے قول کے کم قبول کرنے والے اگر تو میری بات کو  
 قبول کرے گا اور میرے کہنے پر عمل کرے گا تو تیرا عمل  
 تیرے نفس کے فائدہ کے لیے ہو گا اور اگر تو اس پر عمل نہ  
 کرے گا تو تیرے نفس کا ہی نقصان ہے اور اس پر عذاب  
 محرومی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نفس کے لیے ہی ہے  
 جو کچھ وہ بھلا عمل کرے اور اسی پر وبال جو وہ بُرا  
 عمل کرے نیز ارشاد فرمایا اگر تم نے اچھے عمل  
 کئے تو اپنے ہی نفس کے لیے اور اگر بُرے  
 عمل کیے تو اپنے ہی نفس کے لیے۔ نفس ہی جو کل بروز  
 قیامت جنتوں میں نیک عملوں  
 کے ثواب اور دوزخ میں برے عملوں کے

فِي الْيَتِيمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَطْعِمُوا طَعَامَكُمْ  
الْأَتَقِيَاءَ وَاعْطُوا اخِرَقَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ  
إِذَا أَطْعَمْتَ طَعَامَكَ لِلْمُتَّقِي وَسَاعَدْتَهُ  
فِي أَمْرٍ دُنْيَا هُ كُنْتَ شَرِيكَهُ فِيمَا يَعْمَلُ  
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ لَا تَكْ  
عَا وَنَتَهُ فِي قَصْدِهِ وَرَفَعْتَ عَنْهُ  
أَثْقَالَهُ وَاسْرَعْتَ خَطَاهُ إِلَى رَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا أَطْعَمْتَ طَعَامَكَ  
لِلْمُنَافِقِ مُرَاءٍ عَاصٍ وَسَاعَدْتَهُ فِي  
أَمُورٍ دُنْيَا هُ كُنْتَ شَرِيكَهُ فِيمَا يَعْمَلُ  
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُقُوبَتِهِ شَيْءٌ لَا تَكْ  
أَعْنَتَهُ عَلَى مَعْصِيَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
فَيَرْجِعُ شَرَّهُ إِلَيْكَ يَا جَاهِلًا تَعْلَمُ  
الْعِلْمَ فَلَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ بِلَا عِلْمٍ  
وَلَا خَيْرَ فِي إِيقَانٍ بِلَا عِلْمٍ تَعْلَمُ وَ  
اعْمَلْ فَإِنَّكَ تُفْلِحُ دُنْيَا وَآخِرَى إِذَا  
لَمْ يَكُنْ لَكَ صَبْرٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ  
وَالْعَمَلِ بِهِ كَيْفَ تُفْلِحُ الْعِلْمُ إِذَا  
أَعْطَيْتَهُ كَلَّكَ أَعْطَاكَ بَعْضُهُ قَبِيلُ  
بَعْضِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
بِمَ بِلَتْ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي مَعَكَ  
فَقَالَ رَبَّا كَوْمَاةَ الْعُرَابِ وَيَصْبِرُ  
الْجِمَارُ وَيَحْزَنُ الْخَيْزُورُ وَيَتَمَلَّقُ  
الْكَلْبُ كُنْتُ أَبْكُرُ عَلَى أَبْوَابِ الْعُلَمَاءِ

عذاب بھگتے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے  
مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنا کھانا متقی پرہیزگاروں  
کو کھلاؤ اور اپنا کپڑا مسلمانوں کو دیا کر جب تو اپنا  
کھانا متقی کو کھلائے گا اور امور دنیوی میں تو اس  
کی مدد کرے گا تو تو اس کے عمل میں شریک ہو  
جائے گا اور اس کے اجر میں سے کچھ کم نہ کی جائے  
گا کیونکہ تو نے اس کے مقصود میں اس کی مدد کی اور  
اس کے دنیوی بوجھ کو اس سے اٹھایا اور اس  
کے قدم جلد رب عزوجل کی طرف چلائے اور  
جب تو اپنا کھانا کسی منافق تریا کار گناہ گار کو کھلا دے  
گا اور امور دنیوی میں تو اس کی مدد کرے گا تو تو اس کا  
شریک عمل ہو جائے گا اور اس کے عذاب میں سے  
کچھ کمی نہ ہوگی کیونکہ تو نے اس کی معصیت الہی  
میں مدد کی پس اس کی برائی تیری طرف لوٹے گی  
اے جاہل علم سیکھ عبادت میں بغیر علم کے خیر نہیں  
ہے اور نہ بغیر علم ایقان میں خیر و خوبی۔ علم سیکھ  
اور عمل کر ایسا کرنے سے بر تحقیق تو دنیا و آخرت میں  
فلاح پائے گا اگر علم کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے  
پر تو صبر نہ کرے گا تو فلاح و نجات کیسے پائے گا جب  
تو اپنے آپ کو سزا پائے علم کے حوالے کر دے گا تو علم  
تجھے اپنا بعض حصہ حوالہ کر دے گا۔ بعض علماء کرام  
رحمۃ اللہ علیہم سے دریافت کیا گیا کہ جو عالم آپ کو حاصل ہے  
وہ کیوں کر ملا جواب دیا کہ کونے کے علی الصباح اٹھنے اور  
گھر سے صبر اور سحر کی حریم اور کتنے کی چالوسی سے سبق حاصل  
کرتے ہیں علماء کرام کے دروازوں پر سیرے ویسے ہی پیک جاتا تھا

جس طرح سویرے اول وقت کو پرواز کرتا ہے اور ان کے ڈالے ہوئے بوجھوں پر ویسے ہی صبر کرتا تھا جیسا اگر گدہ بوجھ اٹھانے پر صبر کرتا ہے اور طلب علم پر ویسے ہی حرص کرتا تھا جیسے سو اپنے کھانے کی چیز پر حرص ہے اور استادوں کی آستانہ بوسی و سیبی ہی کرتا تھا جیسے کہ کتا کھانے کے لیے اپنے مالک کے دروازہ پر چا پوسی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو کھانا کھلا دیتا ہے اسے طالب علم اگر تو علم سیکھنا فلاح و نجات چاہتا ہے تو اس عالم کے مقولہ کو سن اور اس پر عمل کر علم زندگی ہے اور حیات موت جو عالم کو اپنے علم پر عامل اور عمل میں مخلص اور ملٹی تعلیم پر سابر ہو اس کے لیے موت نہیں ہے کیونکہ جب وہ رہتا ہے اپنے رب عز و جل سے جانتا ہے اس کی دائمی زندگی خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔

اے اللہ ہم کو علم اور اس میں اخلاص نصیب کر۔

## اُرتیسویں مجلس

## المجلس الثامن والثلاثون

### شیطانِ حملوں کے روکنے کے بیان میں

۵۴۵ھ کو اتوار کے دن صبح کے وقت خاتہ شریف میں ارشاد فرمایا:

حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر شیعہ طائفوں کو دہلیا کر دو کیونکہ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَكَرَةَ الْأَحَدِ فِي الرَّبَاطِ سَابِعِ رَجَبِ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْنُوا شَيْئًا طَيِّبَكُمْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ

شیطان اس کلمہ طیبہ سے ویسا ہی دُلا و حقیر ہو جاتا ہے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو اس پر بیکثرت سوار کرنے اور زیادہ بوجھ لادنے سے دُلا کر دیتا ہے۔

اے قوم صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اپنے شیطانوں کو دُلا نہ کرو بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ کہہ کر شیطانوں کو لاغر بناؤ توحید الہی انس و جن کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے کیوں کہ توحید شیطانوں کے لیے آگ اور اہل توحید کے لیے نور ہے۔ تو ایسی حالت میں نبی کے قلب میں بہ کثرت معبود وجود ہیں کیسے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس پر تیرا اعتماد و وثوق ہو وہ تیرا رب ہے تجھ کو زبانی توحید و شرک قلبی کے ساتھ نفع نہ دے گی۔ دل کی نجاست کے ساتھ جسم کی طہارت تجھ کو نفع نہ دے گی موحدا اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے۔ اور مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے اخلاص اقوال و افعال کا مغز و اصل ہے کیونکہ جب اقوال و افعال اخلاص سے خالی ہوں گے تو وہ بلامغز چھلکا رہ جائیں گے چھلکا صرف آگ کی صلاحیت رکھتا ہے جلانے کے قابل ہوتا ہے اسے مخاطب تو میرے کلام کو سن اور اس پر عمل کر تحقیق یہ عمل تیری طبیعت کی آگ کو بجھاؤ گا اور تیرے نفس کی شورت کو توڑ دے گا ایسی جگہ حاضر نہ ہو جہاں تیری طبیعت کی آگ بجھنے کے پس وہ آگ تیرے دین و ایمان کے گھر کو ویران کر دے گی طبیعت اور خواہش اور شیطان جبرطک جائیں گے۔ پس وہ تیرے دین و ایمان کو اور ایمان کو لے جائیں گے تو ان منافقوں بناوٹ کرنے والوں

الشَّيْطَانُ يُضْنِي بِهَا كَمَا يُضْنِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ بِكَثْرَةِ رُكُوبِهِ وَ شَيْلِ أَحْمَالِهِ عَلَيْهِ۔

يَا قَوْمُ أَضْنُوا شَيْئًا طَيِّبًا كُمْ بِالْإِحْلَاصِ فِي قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُمَجِّدُ اللَّفْظُ التَّوْحِيدُ يُحْرِقُ شَيْئًا طَيِّبًا إِلَّا نَسْ وَ الْجِنَّ لَا تَأْتِي لِلشَّيْءِ طَيِّبٍ وَ نُورٌ مِنَ الْمُؤَحِّدِينَ كَيْفَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ فِي قَلْبِكَ كَمَالٌ كُلُّ شَيْءٍ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَ تَتَوَكَّلُ بِهِ دُونَ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ لَا يَنْفَعُكَ تَوْحِيدُ اللِّسَانِ مَعَ شُرْكَ الْقَلْبِ لَا يَنْفَعُكَ طَهَارَةُ الْقَالِبِ مَعَ نَجَاسَةِ الْقَلْبِ الْمُؤَحِّدُ يُضْنِي شَيْطَانَهُ وَ الْمُشْرِكُ يُضْنِيهِ شَيْطَانُهُ الْإِحْلَاصُ لُبُّ الْأَقْوَالِ وَ الْأَفْعَالِ لَا تَهَارِدْ أَخَذْتَ مِنْهُ كَانَتْ قَشْرًا يَلَايْتُ وَ الْقَشْرُ لَا يَصِلُهُ إِلَّا لِلنَّارِ اسْمَعْ كَلَامِي وَ اعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يُجَبِّدُ نَارَ طَبْعِكَ وَ يَكْسِرُ شَوْكَتَ نَفْسِكَ لَا تَحْضُرْ مَوْضِعًا تَشُورُ فِيهِ نَارَ طَبْعِكَ فَتُخَرِّبُ بَيْتَ دِينِكَ وَ إِيْمَانِكَ يَتَوَرَّ الطَّعْمُ وَ الْهَوَى وَ الشَّيْطَانُ فَيَذْهَبُ بِدِينِكَ وَ إِيْمَانِكَ وَ إِيْقَانِكَ لَا تَسْمَعُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ

الْمُتَصَنِّعِينَ الْمُزْخَرِفِينَ  
فَإِنَّ الطَّبْعَ يَسْكُنُ إِلَى طَعَامٍ مُزْخَرَفٍ  
مُصَنَّعٍ هَوَسَ كَعَجِينَ فَطِيرٍ بِلَا  
قُلُوحٍ يُؤْذِي بَطْنَ أَكْلِهِ وَيَهْدِمُ بَنِيَّتَهُ  
أَلْعَلُّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَتَوَاهِ الرِّجَالِ لَا  
مِنَ الصُّحُفِ مَنْ هُوَ لَاءِ الرِّجَالِ  
يَجَالُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَّقُونَ  
النَّارِ كُونَ التَّوَارِثُونَ الْعَايِرُونَ  
الْعَايِلُونَ الْمُخْلِصُونَ مَا هُوَ غَيْرُ  
التَّقْوَى هَوَسٌ وَبَاطِلٌ الْوَلَايَةُ  
لِلْمُتَّقِينَ دُنْيَا وَآخِرَةً الْأَسَاسُ وَ  
الْبِنَاءُ لَهُمْ دُنْيَا وَآخِرَةً اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ إِنَّمَا يَحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ  
الْمُحْسِنِينَ الصَّابِرِينَ لَوْ كَانَ لَكَ  
خَاطِرٌ صَحِيحٌ عَرَفْتَهُمْ وَأَحْبَبْتَهُمْ  
وَصَحِبْتَهُمْ إِنَّمَا يَصِغُ الْخَاطِرُ إِذَا  
تَنَوَّى الْقَلْبُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا تَسْكُنُ إِلَى خَاطِرِكَ حَتَّى تَصِغَ  
الْمَعْرِفَةُ وَيَتَبَيَّنَ لَكَ مِنْهُ الْخَيْرُ  
وَالصِّحَّةُ غَضُّ بَصَرِكَ عَنِ الْحَايِمِ  
وَأَمْسِكَ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ  
عَوِّدْ نَفْسَكَ أَكْلَ الْحَلَائِلِ وَاحْفَظْ  
بَاطِنَكَ بِالْمُرَاقَبَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
ظَاهِرَكَ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَقَدْ صَامَ  
لَكَ خَاطِرٌ صَحِيحٌ مُصِيبٌ وَتَصِغُ

لمع سازدن کے کلام کو نہ سن طبیعت کا میلان ایسے کھانے  
کی طرف جو کہ لمع کیا ہوا بناوٹی سرتاپا ہوس ہو بہت ہوتا  
ہے اس کی مثال بے نمک خمیر کی روٹی کی سی ہے کہ وہ اپنے کھانے والے  
کے پیٹ کو تکلیف دیتی ہے اور اس کی بنیاد کو گرا دیتی ہے علم کتابوں کا حاصل نہیں کیا  
جاتا ہے بلکہ مردان خدا اہل علم کے موصوفوں سے لیا جاتا  
ہے یہ اہل علم مردان حق متقی تمارک دنیا وارث انبیا  
عارف عامل اہل اخلاص ہیں ماسواء تقویٰ کے  
جو چیز ہے ہوس باطل ہے ولایت دنیا و آخرت  
میں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے بنیاد اور عمارت  
دونوں جہاں میں انہیں کا حصہ ہے اللہ عز و جل  
اپنے بندوں میں سے متقی موحّدین صابریں کو ہی  
دوست رکھتا ہے اگر تیری خاطر و طبیعت درست  
ہوتی تو تو مردان حق کو پہچانتا اور ان کو دوست رکھتا  
اور ان کی مصاحبت اختیار کرتا خاطر و طبیعت  
اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب قلب  
معرفت الہی سے منور ہو جب تک کہ معرفت  
الہی درست نہ ہو جائے اور اس سے  
خیر و صحت ظاہر نہ ہو اس وقت تک  
مطمئن خاطر نہ ہو مآرم سے آنکھ میچی کر اور  
اپنے نفس کو خواہشات سے روک اور  
حلال کھانے کی عادت ڈال اور اپنے باطن کی  
مراقبہ الہی سے اور اپنے ظاہر کی اتباع سنت  
کے ساتھ حفاظت کر ایسی حالت میں تجھ  
کو صحت فاعل اور صاحب الراء حاصل ہو  
جائے گی اور تیرے لیے معرفت الہی

لَكَ الْمَعْرِفَةُ يَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَنْهَى  
 أَسْرَابِي الْعُقُولَ وَالْقُلُوبَ أَمَّا الثَّقُوسُ  
 وَالطَّبَاعُ وَالْعَادَاتُ فَلَا وَلَا كَرَامَةَ -  
 يَا غُلَامُ تَعْلَمِ الْعِلْمَ وَأَخْلِصْ  
 حَتَّى تَخْلُصَ مِنْ شَبَكَةِ النِّفَاقِ وَ  
 قَيْدِهِ أُطْلِبِ الْعِلْمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 لَا يَخْلُقُهُ وَلَا يَدُنْيَاهُ عِلْمًا  
 طَلَبِكَ الْعِلْمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَوْفَكَ  
 وَجَلَّتْ مِنْهُ عِنْدَ مَجِيئِ الْأَمْرِ  
 النَّهْيِ تُرَاقِبُهُ وَتَذِلُّ لَهُ فِي نَفْسِكَ  
 وَتَتَوَاضَعُ لِلْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ  
 إِلَيْهِمْ لَا طُمْعًا فِيْهِمَا أَيْدِيَهُمْ وَ  
 تَصَادِقُ فِي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتُعَادِي  
 فِيهِ لِأَنَّ الصَّدَاقَةَ فِي غَيْرِ اللّٰهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ عَدَاوَةٌ الشُّبُهَاتِ فِي غَيْرِهِ  
 ذَوَالُ الْعَطَاءِ فِي غَيْرِهِ حِزْمَانُ  
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 الْإِيْمَانُ بِضَفَتَيْنِ بَضْفٌ صَبْرٌ وَبَضْفٌ  
 شُكْرٌ إِذَا لَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْقِيَمِ وَلَمْ  
 تَشْكُرْ عَلَى النِّعَمِ فَلَسْتَ بِمُؤْمِنٍ  
 حَقِيقَةٍ إِلَّا سَلَامٌ إِلَّا سِتْسَلَامٌ -

اَللّٰهُمَّ اَحْيِ قُلُوْبَنَا بِالتَّوَكُّلِ  
 عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَكَ بِالذِّكْرِ لَكَ  
 بِالْمُؤَافَقَةِ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ لَكَ كُو  
 لَا رَجَالٌ فِي قُلُوْبِهِمْ هَذِهِ الْحَيَاةُ

حاصل ہوگی جزائیں نصیحت کر میں تو عقل و قلوب کی  
 تربیت کرتا ہوں لیکن نفسوں اور طبیعتوں اور  
 عادتوں سے مجھے علاقہ نہیں اور زبان میں کوئی خوبی ہے۔  
 اسے غلام علم سیکھ اور اخلاص کرتا کہ تو نفاق  
 کے جال و قید سے چھوٹ جائے تو علم کو صرف  
 اللہ عز و جل کے واسطے سیکھ نہ کہ مخلوق الہی اور  
 دنیا کے لیے۔ اللہ کے واسطے تیرے طلب علم  
 کی علامت امر و نہی کے آنے کے وقت تیرا اللہ  
 سے ڈرنا اور خوفناک ہونا ہے اللہ تنہا کا دھیان  
 رکھ اور اپنے نفس کو اس کے واسطے ذلیل کر اور  
 مخلوق کے روبرو بغیر اس کے تو اس کی طرف ماحتمد  
 ہو اور ان کے مال کی طمع کرے تو اضع کر اور اللہ ہی  
 کے واسطے دوستی کر اور اسی کی راہ میں دشمنی کر کیوں کہ  
 غیر اللہ کے لیے دوستی عداوت ہے غیر اللہ کے  
 ساتھ ثابت قدمی زوال ہے اور غیر اللہ کے لیے  
 دنیا محرومی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان  
 کے دو حصہ ہیں ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر  
 میں جب تو مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر نہ کرے  
 گا پس تو حقیقتہً مومن نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت  
 فرمانبرداری اور سر جھکا دینا ہے۔

اے اللہ ہمارے قلوب میں اپنے اوپر  
 توکل اور اپنی طاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت  
 اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر دے اگر  
 ایسے مردان خدا جن کے قلوب میں ایسی زندگی ہے

روئے زمین میں پھیلے ہوئے نہ ہوتے تو یقیناً تم سب ہلاک ہو جاتے۔ کیوں کہ حق عزوجل اپنے عذاب کو اہل زمین سے انہیں کی دعاؤں سے پلٹ دیتا ہے ظاہری صورت نبوت کی اٹھ گئی ہے اور اس کے معنی قیامت تک باقی ہیں ورنہ کیوں کمر اور کس طرح زمین باقی رہتی زمین میں چالیس ابدال ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنی میں سے معنی پائے جاتے ہیں اُن کا دل ایسا ہے جیسے ایک بنی کا۔ بعض ان ہیں سے اللہ اور اس کے رسولوں کے زمین میں خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو نیابت میں استادوں کا قائم مقام بنا دیا ہے اور اسی واسطے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں وہ حفاظت اور عمل اور قول و فعل میں انبیاء کے سچے وارث ہیں کیونکہ قول و فعل کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا اور محض دعوے نیر گواہوں کے کچھ قدر مرتبہ نہیں رکھتا۔

هُمْ مَعْدُودُونَ فِي الْأَرْضِ لَهَكْتُمْ لَأَنَّ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ يَصْرِفُ عَذَابَهُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِدُعَائِهِمْ صُودَةُ الثَّبُوتِ ارْتَفَعَتْ وَمَعْنَاهَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِلَّا فَعَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ كَانَ يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَدْعُونَ أَبَدًا مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ مَعْنَىٰ مِنْ مَعْنَى الثَّبُوتِ قَلْبُهُ كَقَلْبِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْهُمْ خُلَفَاءُ اللَّهِ وَرُسُلُهُ فِي الْأَرْضِ أَقَامَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّبِيَّةِ عَنِ الْأُسْتَاذِينَ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ وَرَثَةُ حِفْظًا وَعَمَلًا وَقَوْلًا وَفِعْلًا لِأَنَّ الْقَوْلَ بِلا فِعْلٍ لَا يَسَاوِي شَيْئًا وَالسَّعْيُ الْمُجْتَزَّةُ بِلا بَيِّنَةٍ لَا تُسَاوِي شَيْئًا يَا غُلَامُ إِنِّي أُنَزِّلُكَ مُلَازِمَةً الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَمَلِ بِهِمَا وَالْإِحْلَاصِ فِي الْعَمَلِ إِنِّي أُمَرِي عُلَمَاءَ كُمْ جُحَاقًا زُهَادَ كُمْ طَالِبِي الدُّنْيَا وَمَا غِيبِينَ فِيهَا مُتَوَكِّلِينَ عَلَى الْخَلْقِ نَاسِينَ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الثِّقَةَ بِغَيْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبُ اللَّعْنَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَانَتْ ثِقَتُهُ

اسے غلام اپنے گواہوں قرآن و سنت کی پابندی اور ان دونوں پر عمل اور عمل میں اخلاص کو لازم پکڑیں تمہارے علماء کو جاہل تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طلب گار اور دنیا میں رغبت کرنے والا۔ خلق پر بھروسہ کرنے والا حق عزوجل کو بھول جانے والا پاتا ہوں عیز اللہ پر اعتماد و لعنت کا سبب ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا بھروسہ اپنے جلیبی مخلوق پر ہو وہ

بِمَخْلُوقٍ مِّثْلِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ مَنْ تَعَزَّزَ بِمَخْلُوقٍ فَقَدْ  
ذَلَّ

ملعون ہے نیز ارشاد فرمایا جس نے مخلوق کے  
ذریعے عزت چاہی پس بر تحقیق وہ ذلیل  
ہوا۔

وَيَحَاكَ إِذَا أَخْرَجْتَ مِنَ الْغَلَنِ  
صِرْتَ مَعَ الْخَالِقِ يُعَرِّفُكَ مَا لَكَ وَمَا  
عَلَيْكَ تُمَيِّزُ بَيْنَ مَا لَكَ وَبَيْنَ مَا  
لِغَيْرِكَ عَلَيْكَ بِالنُّبَاتِ وَالْدَّوَامِ  
عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ قَطْعِ  
الْأَسْبَابِ مِنْ قَلْبِكَ وَقَدْ رَأَيْتَ  
الْخَيْرَ عَاجِلًا وَ أَجَلًا هَذَا شَيْءٌ لَا  
يَبْتَدُءُ الْخَلْقُ وَالرِّيَاءُ فِي قَلْبِكَ  
وَالْأُخْرَى وَمَا سَوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي قَلْبِكَ وَلَا مَقْدَارَ ذَمٍّ أَوْ ثَمٍّ مِنْ ذَلِكَ  
إِذَا لَمْ تَصْبِرْ لَا دِينَ لَكَ لَا سَأْسَ  
لِإِيْمَانِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيْمَانِ كَالرَّأْسِ  
مِنَ الْجَسَدِ مَعْنَى الصَّبْرِ أَتَكَ لَا  
تَشْكُوا إِلَى أَحَدٍ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ  
وَلَا تَكْرَهُ وَجُودَ الْبَلِيَّةِ وَلَا تُحِبُّ  
ذَوَالَهَا الْعَبْدُ إِذَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ فِي حَالِ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ وَصَبَرَ  
مَعَهُ عَلَى مُرَادِهِ وَ لَمْ يَسْتَنْكِفْ مِنَ  
الصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ وَوَاصَلَ الصَّنِيَاءَ  
بِالظُّلَامِ بِالْعِبَادَةِ وَالْكَسْبِ يَنْظُرُ  
إِلَيْهِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ يُعْنِيهِ وَ يُغْنِي

تجھ پر افسوس ہے جب تو خلق سے جدا  
ہو جائے گا خالق کے ساتھ ہو جائے گا تجھے  
نفع و نقصان کی چیزوں کو معلوم کرادے گا اس  
وقت تو اس چیز میں جو تیرے لیے ہے اور اس  
چیز میں جو تیرے غیر کے لیے ہے تمیز کرنے لگے گا  
تو اللہ کے دروازہ پر ثابت قدمی اور دوام اور دل  
سے قطع اسباب کو لازم پکڑے دنیا و آخرت کی  
بھلائی کو دیکھ لے گا یہ مرتبہ تیرے لیے بغیر اس کے  
حاصل نہ ہو گا کہ تو خلق اور ریاکاری اور آخرت اور  
ماسوسے اللہ کو اپنے قلب سے نہ نکال دے اور ان  
چیزوں میں سے تیرے دل میں ذرہ برابر موجود نہ ہو  
جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا نہ تجھے دین  
ہو گا نہ اصل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد  
فرمایا ہے صبر کو ایمان سے وہ علاقہ ہے جو سر کو جسم  
سے صبر کے معنی ہیں کہ تو کسی سے گم و شکوہ نہ کرے  
اور نہ کسی سبب سے علاقہ رکھے اور نہ بلاؤں کے  
آنے کو ناپسند کرے اور نہ ان کے زوال کو  
دوست رکھے جب بندہ اپنی حالت فقر و فاقہ میں  
اللہ کے واسطے تواضع کرتا ہے۔ اور اپنی مراد  
پر اسی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور کسی مباح پیشہ سے عار و انکار  
نہیں کرتا اور دن کو عبادت و کسب طلال میں رات کے ساتھ ملا دیتا  
تو اللہ اس بندہ کی طرف نظر رحمت دیکھتا ہے اور اس کو مصیبت و سختی سے پرہیز کر دیتا ہے

عِيَالَهُ مِنْ جَهَنَّمَ لَمْ تَكُنْ فِي حِسَابِهِ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ  
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ هَ أَنْتَ كَالْحَاجِمِ  
تُخْرِجُ الدَّاعَ مِنْ غَيْرِكَ وَفِيكَ دَاءٌ  
مَجْضُ مَا تُخْرِجُهُ إِنِّي أَرَاكَ تَزْدَادُ  
عِلْمًا ظَاهِرًا وَقَهْلًا بَاطِنًا مَكْتُوبٌ  
فِي التَّوْحِيدِ مَنْ ارْتَدَّادَ عِلْمًا فَلْيَزِدْ  
وَجَعَلْنَا مَا هَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الْخَوْفُ مِنَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالذُّلُّ لَهُ وَلِوَعْبَادِهِ  
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ عِلْمٌ تَعْلَمُ إِذَا لَمْ  
يَكُنْ لَكَ عِلْمٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا إِخْلَاصٌ  
وَلَا آدَبٌ وَلَا حُسْنُ خَلْقٍ بِالشُّيُوعِ  
تَنَكَّفَ يَجِيءُ مِنْكَ شَيْءٌ قَدْ جَعَلْتَ  
هَمَّكَ الدُّنْيَا وَحَطَّاهَا عَنْ قَرِيبٍ  
يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا أَنْتَ مِنَ الْقَوْمِ  
الَّذِينَ هَمُّهُمْ هَمٌّ وَاحِدٌ يُرَاقِبُونَ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَوَائِبِهِمْ كَمَا  
يُرَاقِبُونَهُ فِي ظَوَاهِرِهِمْ يُهَيِّبُونَ  
الْقَلْبَ كَمَا يَهَيِّبُونَ الْجَوَارِحَ حَتَّى  
إِذَا اتَّخَذُوا هَذَا أَكْفَاهُمْ هَمُّ  
الشَّهَوَاتِ بِأَسْرِهَا فَلَا يَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ  
إِلَّا شَهْوَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ طَلِبُ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْقُرْبُ مِنْهُ وَمَحَبَّتُهُ  
فَحَسْبُ حِكْمَى أَنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ

اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس طرح سے غنی کر دیتا  
ہے کہ جو اس کے حساب میں بھی نہیں آتا ہے اللہ عزوجل  
نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ اس  
کے لیے کثرت سے کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی  
دیتا ہے کہ بندہ کو گمان بھی نہیں ہوتا تیری مثل مانند کچھ  
لگانے والے کی ہے کہ تو دوسری بیماری کو نکالتا ہے اور  
تیرے اندر جو خالص بیماری موجود ہے اس کو نہیں نکالتا  
بر تحقیق میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو ظاہر علم کو اور باطنی جہل  
کو بڑھا رہا ہے۔ تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا علم بڑھے  
اس کا درد بھی بڑھنا چاہیے یہ درد کیا ہے خدا کا خوف اس  
اور اس کے بندوں کے واسطے عاجزی کرنا اگر تو عالم نہیں  
ہے علم سیکھ جب تجھے علم و عمل اخلاص و ادب اور مشائخ کے  
ساتھ حسن ظن نہ ہو پس تجھے کوئی شے کیسے حاصل ہو سکتی  
ہے تو نے تو اپنا مقصد صرف دنیا و متاع دنیا کو بنا رکھا  
ہے۔ تجھ میں اور ان میں عنقریب کیا نسبت جن کا مقصد  
صرف ایک ہی ہے جو اپنے باطن میں اللہ کا مراقبہ اسی طور  
سے کرتے ہیں جیسے کہ مراقبہ الہی ان کا ظاہر میں ہوتا ہے  
وہ جس طرح اعضا ظاہری کی تہذیب کرتے ہیں ویسے  
ہی قلب کی تہذیب کرتے ہیں اس کو مہذب بناتے  
ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس مرتبہ میں کامل ہو جاتے  
ہیں تو جملہ خواہشات کے غم سے ان کو کفایت ہو  
جاتی ہے اور ان کے دلوں میں سوا ایک خواہش  
کے کہ وہ طلب و قرب و محبت الہی ہے کوئی  
خواہش باقی نہیں رہتی۔ اسی میں ان کے لیے کفایت  
ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل

کسی مصیبت و سختی میں مبتلا ہوئے اور اس حالت میں اپنے  
انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی طرف جمع ہو کر آئے اور کہنے  
لگے ہمیں ایسے امر سے خبردار کیجئے جس سے حق عزوجل راضی  
ہو جائے تاکہ ہم حق تعالیٰ کی تابعداری کریں اور وہ ہمارے  
لیے اس سختی کے دفع ہو جانے کا سبب بن جاوے۔ اُن  
نبی علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے اس معاملہ میں سوال کیا پس  
اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بنی اسرائیل سے  
کہہ دیں کہ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو پس مسکینوں کو راضی کو  
اگر تم ان کو راضی کر لو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور اگر  
تم نے ان کو ناراض کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔  
اے غافلو! سنو تم تو ہمیشہ مسکینوں کو ناراض کرتے رہتے ہو  
اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو ایسی حالت میں اللہ کی خوشنودی  
تمہارے ہاتھ نہ آئے گی بلکہ تم اس کی ناراضی میں پہلو بدلتے  
رہو گے تم میری سخت کلامی پر ثابت قدم رہو نجات حاصل  
کر لو گے۔ ثبات بمنزل نبات ہے میں مشائخ کے  
کلام اور ان کی سختی و درشتی سے کبھی نہ بھاگتا تھا بلکہ گونگا  
اور اندھا بنارہتا تھا۔ ان کی طرف سے مجھ پر آفتیں  
ٹوٹتی تھیں اور میں ساکت رہتا تھا۔ تو تو ان کے کلام  
پر بھی صبر نہ کرتا اور چاہتا یہ ہے کہ فلاح مل جائے۔ یہ ہرگز  
ہونے والا نہیں اور اس میں کوئی کرامت نہیں جب  
تک تو اپنے نفع و نقصان کے معاملات میں تدبیر کی  
موافقت نہ کرے گا اور جب تک اپنے حصہ و نصیب میں  
ہمتوں کو زائل کر کے مشائخ کی صحبت اور ان کا اتباع و موافقت میں  
حالات میں نہ کرے گا تجھے فلاح ملے گی۔ ایسا کرنے ہی سے دونوں  
جہاں کی فلاح مل سکتی ہے جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو

أَصَابَتْهُمْ شِدَّةٌ فَأَجْتَمَعُوا إِلَى نَبِيِّ  
مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ أَخْبِرْنَا  
بِمَا يَرْضَىٰ الْحَقُّ عَنَّا وَجَلَّ حَقُّ تَبِعَةٍ  
يَكُونُ سَبَبًا لِدَفْعِ هَذِهِ الشَّدَةِ عَنَّا  
فَسَالَ الْحَقُّ عَنَّا وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ  
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ قُلْ لَهُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ  
رِضَائِي فَأَرْضُوا الْمَسَاكِينَ فَكَانَ  
أَرْضِيئُهُمْ رَضِيئًا وَرَأَتْ  
سَخَطُئُهُمْ سَخَطًا اسْمَعُوا  
يَا عَقْلَ أَنْتُمْ مَا تَزَالُونَ تُسَخِطُونَ  
الْمَسَاكِينَ وَتُرِيدُونَ رِضَا اللَّهِ عَنَّا  
وَجَلَّ مَا يَقَعُ بِأَيْدِيكُمْ رِضَاً بَلْ  
أَنْتُمْ مُتَقَلِّبُونَ فِي سَخَطِهِ أَثْبَتُوا  
عَلَى خُشُوعِهِ كَلَامِي وَقَدْ أَفْلَحْتُمْ  
الشُّبَابُ بَنَاتٌ مَا كُنْتُ أَهْرَبُ مِنْ  
كَلَامِ الشُّيُوخِ وَفَضَا ظَنِيهِ وَخُشُونِيهِ  
بَلْ كُنْتُ أَحْرَسَ أَعْلَى الْأَقَاتِ تَنْزِيلُ  
عَلَيَّ مِنْهُمْ وَأَنَا سَاكِتٌ وَأَنْتَ لَا  
تَصْبِرُ عَلَى كَلَامِهِمْ وَتُرِيدُ تَفْلِحُ  
لَا وَكَرَامَةً لَا تُفْلِحُ حَتَّى تَوَافِقَ  
الْقَدَرَ لَكَ وَعَلَيْكَ وَتَصْحَبَ الشُّيُوخَ  
مَعَ إِمْرَالَةِ التَّهْمِ فِي حَظِّكَ وَنَمِيئِكَ  
وَتَتَّبِعُهُمْ وَتَوَافِقَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ  
وَقَدْ جَاءَكَ دُنْيَا وَآخِرَةٌ رَافِعُهُمَا  
مَا أَقُولُ وَاعْمَلُوا بِهِ أَلْفَهُمْ يَلَا

عَمِلَ لَا يُسَاوِي شَيْئًا الْعَمَلُ بِلَا اخْلَاصٍ  
 طَمَعٌ فَارِعَ الطَّمَعُ كُلَّ حُرُوفِهِ فَارِعَةً  
 مَجُوفَةً لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ الْعَوَامُ كَمَا  
 يَعْرِفُونَ بِهِمْ جَتَكَ الصَّيْرِ فِي يَعْرِتِ  
 بِهِمْ جَتَكَ شَمَّ يَعْلِمُ الْعَوَامُ حَتَّى  
 يُحْدَرُوكَ كَوْصَبَتْ مَعَ اللَّهِ عَذْرَا  
 جَلَّ كَرَأَيْتَ عَجَائِبَ مِنْ لُطْفِهِ يُوسَعُ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا صَبَرَ عَلَى الْآخِذِ وَ  
 الْعَبُودِيَّةِ وَالسَّجْنِ وَالذِّلِّ وَدَافَقَ  
 فِعْلَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَحَّتْ تَجَابُتُهُ  
 وَصَامَ مِدَّكَ نَقَلَ مِنَ الذِّلِّ إِلَى الْعِزِّ  
 مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ فَهَكَذَا أَنْتَ  
 إِذَا اتَّبَعْتَ الشَّرْعَ وَصَبَرْتَ مَعَ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَخِفْتَ مِنْهُ وَمَرَجَوْتَهُ  
 وَخَالَفْتَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ وَشَيْطَانَكَ  
 نَقَلْتَ مِنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ فِيهِ إِلَى  
 غَيْرِهِ تُنْقَلُ مِمَّا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ  
 إِجْهَدْ وَاجْتَهِدْ فَإِنَّكَ بِكَ لَا تَجْهَدُ  
 وَلَا بُدَّ مِنْكَ إِجْتَهِدْ وَقَدْ جَاءَكَ  
 الْخَيْرُ مِنْ طَلَبٍ وَجَدَّ وَجَدَّ إِجْهَدْ  
 فِي أَكْلِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ يَنْوِرُ قَلْبَكَ  
 وَيُخْرِجُهُ مِنْ ظُلُمَاتِهِ أَنْفَعُ الْعَقْلِ  
 مَا عَزَّ فَكَ رِعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 أَقَامَكَ فِي شُكْرِهَا وَأَعَانَكَ عَلَى  
 الْإِعْتِرَافِ بِهَا وَيَقْدِرُهَا.

کسی بات کا سمجھنا کچھ قدر نہیں رکھتا۔ عمل بغیر اخلاص کے  
 خالی لالچ ہے۔ طمع کے کل حرف خالی کھوکھے ہیں ان میں  
 کوئی نقطہ نہیں عام لوگ تیری کھوٹ کو نہیں پہچان سکتے لیکن  
 صراف تیری کھوٹ کو پہچان کر عوام کو مطلع کر دے گی یہاں  
 تک کہ عوام تجھ سے پرہیز کرنے لگیں گے۔ اگر تو اللہ عزوجل  
 کی معیت میں صبر کرے گا اس کے عجیب عجیب لطف مائل  
 کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری  
 اور غلامی اور قید خانہ اور ذلت پر صبر کیا اور اپنے رب عزوجل  
 کے فعل کی موافقت کی نجات و شرافت صحیح رہی اور  
 بادشاہ بن گئے ذلت سے عزت کی طرف۔ موت سے زندگی  
 کی طرف نقل کیے گئے۔ پس اسی طرح جب تو شرع متقدس  
 کا اتباع کرے گا اور اللہ عزوجل کے ساتھ صبر کرے  
 گا اور اسی سے ڈرے گا اور امید واری کرے گا  
 اور اپنے نفس و خواہش و شیطان کی مخالفت کرے  
 گا تو تو اپنی موجودہ حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل  
 کر دیا جائے گا مکروہات سے ایسی حالت کی طرف  
 منتقل کر دیا جائے گا جسے تو پسند کرتا ہے۔ کوشش وہی کرنے  
 سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور تیرے لیے ضرورت ہے  
 کوشش کر تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی جو کوئی طالب  
 ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے پالیتا ہے۔ حلال غذا کھانے  
 کی کوشش کر تحقیق وہ تیرے قلب کو منور کر دے گی اور  
 دل کو اس کی تاریکیوں سے نکال دے گی۔ جو عقل خدا کی  
 نعمتوں کی شناخت کرے اور مقام شکر میں تجھے کھڑا کرے  
 اور نعمتوں کے اقرار اور ان کے مقدار کے اقرار پر تیری مدد کرے  
 وہ بہت نافع عقل ہے۔

اے غلام جو شخص عین یقین سے یہ امر جان لیتا ہے کہ اللہ عزوجل نے تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے اور اس سے فارغ ہو چکا ہے وہ اللہ سے حیا کر کے کچھ اس سے طلب نہیں کرتا۔ ذکر الہی اس کو مطالبہ سے باز رکھتا ہے۔ ذرہ اپنے مقسوم کو جلد مل جانے کے لیے سوال کرتا ہے اور نہ اس امر کا اس کو غیر مقسوم حصہ مل جائے اس کا طریقہ گم نامی اور سکون اور حسن ادب اور اعتراض کا چھوڑ دینا ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق سے کمی و بیشی کا لگژنہ نہیں کرتا ہے۔ قلباً مخلوق سے گداگری دلیسی ہے جیسے زبان سے ان سے گداگری کرنا۔ میسر نزدیک حقیقتہً ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔

تجھ پر انہوں نے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو غیر اللہ سے طلب کرتا ہے حالانکہ وہ نسبت غیر کے تجھ سے بہت قریب ہے۔ تو مخلوق سے وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی تجھے مطلقاً حاجت نہیں۔ تیرے پاس چھپا ہوا خزانہ موجود ہے اور پھر بھی تو ایک داد اور ایک ذرہ کے لیے فیروں سے مزاحمت کرتا ہے جب تجھے موت آئے گی رسوا ہو نا پڑے گا۔ تیرے دیے چھپے عیب ظاہر ہو جائیں گے اور تجھے چاروں طرف لعنت گھیرے گی۔ اگر تو قائل ہوتا تو ایک ذرہ ایمان سے ضرور حاصل کر لیتا اور اس کے ذریعہ سے خدا سے مل جاتا اور نیکیوں کی مصاحبت میں رہتا اور ان کے اقوال و افعال سے ادب سیکھتا۔ یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور تیرے ایمان کی بنیاد مضبوط ہو جاتی۔

يَا غُلَامُ مَنْ عَرَفَ بَعَيْنِ الْيَقِينِ  
أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ  
وَفَرَعُ مِنْهَا لَا يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا حَيًّا  
مِنْهُ يَشْتَعِلُ بِذِكْرِهِ عَنْ مَطَالِبَتِهِ  
لَا يَسْأَلُهُ تَعْجِيلُ قَسَمِهِ وَلَا أَنَّ  
يُعْطِيَهُ قَسَمَ غَيْرِهِ ذَابَهُ الْحُمُولُ  
وَالسُّكُوتُ وَحُسْنُ الْأَدَبِ وَتَرْكُ  
الْإِعْتِرَاضِ لَا يَشْكُوا إِلَى الْخَلْقِ فِي  
قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ الْكَدِيَّةُ مِنَ الْخَلْقِ  
بِالْقَلْبِ كَالْكَدِيَّةِ مِنْهُمْ بِاللِّسَانِ  
عِنْدِي لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ  
الْحَقِيقَةُ.

وَيْلَكَ مَا تَسْتَحْيِ تَطْلُبُ مِنْ  
غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَقْرَبُ  
إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِهِ تَطْلُبُ مِنَ الْخَلْقِ  
مَا لَا حَاجَةَ إِلَيْكَ إِلَيْهِ مَعَكَ كُنُزٌ  
مَكْنُونٌ وَأَنْتَ تَزْأَحِمُ الْفُقَرَاءَ عَلَى  
حَبَّةٍ وَذَرَّةٍ إِذَا مَتَّ افْتَضَحَتْ  
تَظْهَرُ مَخَابِيئُكَ وَكُمَاتُكَ وَتَأْخُذُكَ  
اللَّعْنَةُ مِنَ جَوَانِبِكَ كَوُكُنْتَ عَاقِلًا  
اِكْتَسَبْتَ ذَرَّةً مِنَ الْإِيمَانِ تَلَقَّى اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ بِهَا وَلَكُنْتَ تَصْحَبُ  
الصَّالِحِينَ وَتَتَأَذَّبُ بِهِمْ بِأَقْوَالِهِمْ  
وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى إِذَا تَرَعَرَعَ إِيْمَانُكَ  
وَبَنَاءُ إِيقَانِكَ اسْتَحْلَصَكَ اللَّهُ -

تو تجھ کو اللہ عزوجل اپنے لیے خالص کر لیتا اور خود تیرے  
ادب اور تیرے امر و نہی کا تیرے قلب کی حیثیت سے  
متولی و والی بن جاتا۔ اسے ریاکاری کے بت کے پجاری  
تو حق تعالیٰ کے قرب کی دنیا و آخرت میں بوجہی نہ سونٹکے  
گا۔ اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے ان پر اپنے  
قلب متوجہ ہونے والے تو مخلوق سے اپنا منہ پھیرے  
تجھے ان سے نقصان ہے اور نہ نفع اور نہ دنیا اور نہ منع کرنا تو اللہ  
کی توحید کا اس حالت میں کہ تیرے قلب میں شرک پٹا ہوا ہے دعو  
نہ کر اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ اٹے گا ایسا دعویٰ بے سود ہے

عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَتَوَلَّى أَدَبَكَ وَآمَرَكَ وَ  
نَهَيْكَ مِنْ حَيْثُ قَلْبِكَ يَا عَابِدَ صَنِيعِ  
الرِّيَاءِ مَا تَشَهُ قُرْبَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ يَا مُشْرِكَ يَا لَخْلُقِ  
مُقْبِلًا عَلَيْهِمْ بِقَلْبِهِ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
فَلَيْسَ مِنْهُمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَلَا عَطَاءٌ  
وَلَا مَنَعٌ لَا تَدْعُ تَوْحِيدَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ مَعَ الشِّرْكِ الْمَلَانِيحِ لِقَلْبِكَ  
فَمَا يَقَعُ بِيَدِكَ مِنْهُ شَيْءٌ

## انتالیسویں مجلس


## المجلس التاسع والثلاثون

اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کے حوالہ کر دینے کے بیان میں

۱۲ رجب ۱۰۴۵ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت  
خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا:  
اگر تو دنیا و آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو اپنے  
کو سزا پانا خدا کے حوالے کر دے۔ پس اس حالت میں تو امیر ابو  
جائے گا۔ اور اپنے نفس اور غیروں پر حاکم میں تجھے نصیحت کرتا ہوں  
تو میری نصیحت کو قبول کر میں تجھ سے سچ کہتا ہوں پس تو میری  
تصدیق کر۔ جب تو جھوٹ بولے گا اور دوسروں کو جھٹلائے  
گا تو تو جھوٹا بتایا جائے گا اور تجھ کو جھٹلایا جائے گا اور جب تو  
سچ بولے گا اور دوسروں کو سچا بتائے گا تو تجھ سے سچ بولا جائے گا  
اور تیری تصدیق کی جائے گی تو بدیا کرے گا دیسا ہی بھرے گا تو  
اپنے دین کے مرض کی مجھ سے دوائے اور اس کا استعمال کر

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرْقَةُ الْجُمُعَةِ فِي الرِّبَاطِ ثَانِيًا  
عَشَرَ رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ ثَمْنٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِائَةٍ  
إِنْ أَرَدْتَ الْمُلْكَ دُنْيَا وَآخِرَةَ  
فَاَجْعَلْ كُلَّكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَصِدِّقْ أَمِيرًا  
وَرِئِيسًا عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى غَيْرِكَ إِنِّي  
قَدْ نَصَحْتُكَ فَاقْبَلْ نَصِيحِي وَتَدَّ  
صِدْقُكَ فَصِدِّقْنِي إِذَا كَذَبْتُ وَ  
كَذَبْتُ كَذِبْتُ وَكَذَبَ لَكَ وَإِذَا  
صَدَّقْتُ وَصَدَّقْتَ صَدِّقْتُ وَ  
صَدَّقَ لَكَ كَمَا تَدِينُ تَدَّ أَنْ حُدْمَتِي  
دَوَاءً لِمَرَضِ دِينِكَ وَاسْتَعْمِلْهُ وَ

قَدْ جَاءَتْهُ الْعَافِيَةُ مَنْ تَقَدَّمَ  
كَانُوا يَطُوفُونَ الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ  
فِي طَلَبِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
الَّذِينَ هُمْ أَطْبَاءُ الْقُلُوبِ وَالِدِّينِ  
فَإِذَا حَصَلَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ  
طَلَبُوا مِنْهُ دَوَاءً لِأَذْيَانِهِمْ وَ  
أَنْتُمْ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيْكُمْ الْفُقَهَاءُ  
وَالْعُلَمَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ هُمْ  
الْمُؤَدَّبُونَ وَالْمُعَلَّمُونَ فَلَا جَرَمَ  
لَا يَقَعُ بِأَيْدِيكُمْ الدَّوَاءُ أَيْشَ يَنْفَعُ  
عِلْمِي وَطِبِّي مَعَكَ فَكُلُّ يَوْمٍ أَبِي  
لَكَ أَسَاسًا وَأَنْتَ تَنْقُصُهُ أَصِفُ  
لَكَ دَوَاءً وَلَا تَسْتَعْمِلُهُ أَقُولُ لَكَ  
لَا تَأْكُلْ هَذِهِ اللَّقْمَةَ فِيهَا سَمٌّ كُلُّ  
هَذِهِ فِيهَا دَوَاءٌ فَتَخَالِفْنِي وَتَأْكُلُ  
الَّتِي فِيهَا السَّمُّ عَنْ قَرِيبٍ يَظْهَرُ ذَلِكَ  
فِي بُنْيَةِ دِينِكَ وَإِيمَانِكَ إِنْ  
أَنْصَحَكَ وَلَا أَفْرَعُ مِنْ سَيْفِكَ  
وَلَا أُرِيدُ ذَهَبَكَ مَنْ يَكُونُ مَعَ  
اللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ لَا يَفْرَعُ مِنْ أَحَدٍ  
فِي الْجُمْلَةِ لَا مِنْ جِنٍّ وَلَا مِنْ إِنْسٍ  
وَلَا مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَسِبَاعِهَا  
وَهَوَاقِفِهَا وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ  
بِأَسْرِهَا لَا تَزِدْهُمَا بِالشُّيُوخِ الْعَمَلِ  
بِأَعْلَمِ أَنْتُمْ جُهَالٌ بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ

تجھے صحت و ندرستی حاصل ہو جائے گی اگلے لوگ اولیاء اللہ  
اور صالحین کی طلب میں جو کہ دلوں اور دین کے  
طبیب تھے شرق و غرب میں گھوما کرتے تھے  
پس جب ان میں سے کوئی ایک ان کو مل جاتا  
تھا اس سے اپنے دینوں کی دوا طلب کرتے تھے  
اور تم آج ایسے ہو کہ تمہارے نزدیک سب زیادہ آج  
مبغوض فقیہ اور عالم اور اولیاء اللہ جو کہ ارب  
لکھانے والے اور تعلیم دینے والے ہیں۔ ہیں۔  
پس یقیناً اس حال میں تمہارے ہاتھ دوانہ آئے گی۔  
میرا علم اور میری طب تم کو کیا نفع دے گی۔ ہر دن میں  
تمہارے لیے ایک بنیاد قائم کرتا ہوں اور تو اس کو گنا  
دیتا ہے برابر تیرے لیے دوا بتاتا ہوں اور تو  اس کا استعمال نہیں کرتا تجھ سے کتنا ہوں کہ تو یہ لقمہ نہ  
کھا اس میں زہر ہے وہ لقمہ کھا اس میں دوا ہے  
لیکن تو میری مخالفت کرتا اور وہی لقمہ کھاتا ہے۔  
جو کہ زہر آلود ہے۔ عنقریب اس کا اثر تیرے دین  
و ایمان کی عمارت میں ظاہر ہو گا یہ تحقیق میں تجھے  
نصیحت کرتا ہوں اور نہ تیری تلوار سے ڈرتا ہوں  
اور نہ تیرے سونے کا خواہش مند ہوں جو کوئی  
اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہو تاکہ وہ فی الجملہ کسی  
سے نہیں ڈرتا نہ جن سے نہ انسانوں سے اور  
نہ زمین کے کیرے مکوڑوں اور اس کے  
درندوں اور زہریلے جانوروں سے اور نہ تمام  
مخلوقات میں سے کسی چیز سے۔ تم ان مشائخ کو جو کہ عالم  
باعتل ہیں حقیر نہ سمجھو۔ تم اللہ عز و جل اور اس کے

وَرُسُلِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْوَاقِعِينَ مَعَهُ الرَّاغِبِينَ بِأَفْعَالِهِ  
كُلُّ السَّلَامَةِ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ  
وَقَصْرِ الْأَمَلِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا  
فَإِذَا آدَايْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ضَعْفًا  
فَدُونَكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ  
قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حِكَايَةُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَقَرَّبَ  
الْمُتَقَرَّبُونَ إِلَيَّ بِأَفْضَلِ مَنْ آدَا مَا  
افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي  
يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ  
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا  
وَيَدًا وَمَوْيِدًا فَبِئْسَ لِي سَمْعٌ وَبِئْسَ  
لِي بَصَرٌ وَبِئْسَ لِي يَدٌ يَبْطِشُ بِبَصَرِ جَمِيعِ أَفْعَالِهِ  
يَا اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ يَخْرُجُ مِنْ حَوْلِهِ وَ  
هُوَتِيهِ وَمَوْيِدَتِهِ نَفْسُهُ وَغَيْرُهُ  
تَصِيرُ حَرَكَاتُهُ وَحَوْلُهُ وَقُوَّتُهُ يَا اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ لَا بِهِ وَلَا بِسَائِرِ الْخَلْقِ  
يَعِزُّ نَفْسَهُ وَدُنْيَاَهُ وَآخِرَاهُ كُلَّهُ  
طَاعَةً فَلَا جَرَمَ تَقَرُّبُهُ طَاعَتُهُ  
تَكُونُ سَبَبًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَهُ بِالطَّاعَةِ يُحِبُّ وَيُقَرِّبُ وَ  
بِالْمَعْصِيَةِ يُبْغِضُ وَيُبْعِدُ بِالطَّاعَةِ  
يَحْصُلُ الْإِنْسُ وَبِالْمَعْصِيَةِ تَحْصُلُ  
ف: اولیاء اللہ کے قرب و مراتب کا بیان مرتبہ کن فیكون پر فائز ہونا۔

رسولوں علیہم السلام اور اس کے نیک بندوں سے جو کمیت الہی  
میں رہنے والے ہیں اور اس کے افعال سے راضی ہیں رحمۃ اللہ  
علیہم جاہل ہو پوری سلامتی قضا الہی پر رہنے اور از رو کو تہا کرنے  
اور دنیا سے بے رغبتی کرنے میں ہے جب تم دربارہ ان امور  
کے اپنے نفسوں میں کمزوری پاؤ پس تم موت کی یاد اور از رو کی کتابی  
کو لازم پکڑو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات میں  
اللہ عزوجل سے حکایت ہے کہ میرے قرب حاصل کرنے والوں نے  
اداء فی النقص سے بڑھ کر اور کسی چیز کے وسیلے سے میرا قرب حاصل  
نہیں کیا میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ مجھ سے قریب ہوتا  
رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔  
پس جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ  
اور کان اورید اور مددگار بن جاتا ہوں پس وہ مجھ سے سنتا ہے  
اور مجھ سے دیکھتا ہے۔ اور مجھ سے پھر کتاب ہے وہ اپنے تمام  
افعال کو حق تعالیٰ ہی سے دیکھتا سمجھتا ہے اور اسی کی مدد سے  
اپنی طاقت و قوت اور اپنی ذات اور غیر کے دیکھنے سے باہر  
آ جاتا ہے اس کی تمام حرکتیں اور قوت و طاقت و زور عزوجل  
سے ہی ہوتا ہے نہ کہ اس کے نفس اور تمام مخلوق سے۔ وہ  
اپنے نفس اور دنیا و آخرت ہر ایک سے کھینچ لیتا ہے جو جاتا ہے  
سزا پا طاعت بن جاتا ہے اور یقیناً اس سے نزدیک ہو جاتا ہے  
اس کی طاعت محبت الہی کا اس کے لیے سبب بن جاتی ہے طاعت  
کے سبب سے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور قرب  
عطا کرتا ہے۔ اور معصیت کی وجہ سے اس کو مبغض بنا لیتا ہے  
اور رحمت دور کر دیتا ہے طاعت کے سبب سے اس بندے  
کو انس حاصل ہوتا ہے اور معصیت کے سبب وحشت حاصل ہوتی ہے  
ف: اولیاء اللہ کے قرب و مراتب کا بیان مرتبہ کن فیكون پر فائز ہونا۔

الْوَحْشَةُ لِأَنَّ مَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ  
يَمْنَابَعَةِ الشَّرِّعِ يَحْصُلُ الْخَيْرُ وَ  
يَمْنَابَعَتِهِ يَحْصُلُ الشَّرُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ  
الشَّرُّ دَفِيقَهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ فَهُوَ  
هَذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْهَالِكِينَ إِعْمَلْ وَاجْتَرِدْ  
وَلَا تَتَّكِلْ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنَّ النَّارَ  
لِلْعَمَلِ طَامِعٌ وَالْمَتَّكِلِ عَلَى الْعَمَلِ  
مُعْجِبٌ مَعْرُودٌ قَوْمٌ قِيَامٌ بَيْنَ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَوْمٌ قِيَامٌ بَيْنَ  
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَوْمٌ بَيْنَ الْخَلْقِ  
وَالْخَالِقِ إِنْ كُنْتَ زَاهِدًا فَإِنَّكَ  
قَائِمٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ  
كُنْتَ حَائِفًا فَإِنَّكَ قَائِمٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ  
وَالنَّارِ وَإِنْ كُنْتَ عَادِيًا فَإِنَّكَ  
قَائِمٌ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ تَنْظُرُ  
إِلَى الْخَلْقِ تَنَاسَلُ إِلَى الْخَالِقِ أُخْرِجُ  
تُبْلَغُ الْقَوْمَ وَتُعَرِّفُهُمْ أَحْوَالَ  
الْآخِرَةِ وَحَسَابَتِهَا وَجَمِيعَ مَا فِيهَا  
لَا بَلَّ تُخْبِرُ بِمَا قَدْ شَاهَدْتَ وَرَأَيْتَ  
لَيْسَ الْخَبِيرُ كَالْمُعَايَنَةِ الْقَوْمُ  
مُنْتَظَرُونَ لِقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقْتُونَهُ  
فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِمْ لَا يَخَافُونَ مِنَ  
الْمَوْتِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلِقَاءِ حُبُّوهُمْ  
فَارِقٌ قَبْلَ أَنْ تَفَارِقَ وَدَعَا قَبْلَ  
أَنْ تَوَدَّعَ أَهْجُرَ قَبْلَ أَنْ يَهْجُرَكَ

کیونکہ جو نگاہ کار بد کار ہو تا ہے وہ وحشت میں پڑ جاتا ہے  
شرع مقدس کی متابعت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے اور  
اس کی مخالفت سے برائی جس کسی شخص کی تمام حالتوں میں  
شرع مقدس رفیق نہ ہو پس وہ منجملہ ہلاک ہونے والوں کے ایک  
ہلاک ہونے والا ہے۔ عمل کر اور سعی کر اور عمل پر مجبور نہ کر۔  
کیوں کہ عمل کا چھوڑنے والا محض لالچی ہے اور عمل پر مجبور  
کرنے والا خود پسند و مغرور۔ ایک جماعت وہ ہے جو کہ  
درمیان دنیا و آخرت کے قائم ہے اور ایک قوم وہ جو درمیان  
جنت و دوزخ کے قائم ہے اور ایک قوم وہ جو کہ درمیان مخلوق  
و خالق کے قائم ہے۔ اگر تو زاہد ہے پس تو درمیان دنیا و آخرت  
کے قائم ہے۔ اور اگر تو عادی ہے پس تو درمیان  
جنت و دوزخ کے قائم ہے۔ اور اگر تو عارف  
ہے پس تو درمیان مخلوق و خالق کے قائم ہے۔  
کبھی تو مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ اور کبھی خالق  
کی طرف۔ تو قوم کو تبلیغ کرتا ہے اور ان کو  
آخرت کے حالات اور حسابات اور تمام وہ  
احوال جو کہ آخرت میں ہونے والے ہیں۔  
بلکہ وہ تمام ان امور کی جس کا تو نے مشاہدہ کیا اور دیکھا ان  
کی خبر دے دیتا ہے خبر مثل معائنہ کے نہیں ہے اہل اللہ لقاء  
الہی کے منتظر رہتے ہیں تمام حالات میں اس کے متمنی  
رہتے ہیں موت سے خوف نہیں کرتے کیونکہ موت تو ان  
کے محبوب کی ملاقات کا سبب ہے۔ اس سے قبل کہ  
دنیا تجھ سے مفارقت کرے تو دنیا سے جدا ہو جا اور اس  
سے قبل تو اس کو رخصت کر کہ وہ تجھے رخصت کرے اور  
اس سے قبل تو اس کو چھوڑ کر کہ وہ تجھے چھوڑ دے

تیرے اہل و عیال اور تمام خلق تجھے کچھ نفع نہ دیں گے جب کہ تو قبر میں داخل ہوگا تو مباح شے کے لینے سے جو کہ خواہش نفسانی کی وجہ سے ہو تو برک۔

اسے قوم تم تمام حالت میں تقویٰ کے کو اختیار کرو۔ تقویٰ دین کا لباس ہے تم مجھ سے اپنے دین کا لباس مانگو میری پیروی کرو بحقیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ہوں کھانے پینے نکاح اور تمام حالات و اشارات میں میں انہیں کاپیوں ہوں۔ میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ مجھ سے پورا کرے بحقیق میں اسی طریقہ پر ہوں خدا کو تعریف اور اس کا شکر ہے کہ تمہاری تعریف اور برائی اور تمہارے دینے اور نہ دینے اور تمہاری بھلائی و برائی اور تمہارا قتال و ادبار کی کچھ فکری نہیں کرتا تو تو جاہل ہے اور جاہل کی کچھ پروا نہیں کی جاتی ہے تو جب جہالت کی حالت میں خدا کی عبادت کرے گا تیری عبادت رد کر دی جائے گی۔ کیونکہ وہ ایسی عبادت ہے جو جہالت سے ملی ہوئی ہے اور جہالت سزا پانہا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جہالت جہالت خدا کی عبادت کرتا ہے اس کا فساد برنیت اس کی اصلاح کے زیادہ ہوتا ہے جب تک تو کتاب و سنت کا اتباع نہ کرے گا تجھے فلاح نہ ملے گی بعض صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے بحقیق انہوں نے فرمایا جس کا کوئی پیرو نہیں ہوتا پس اس کا پیرو شیطان ہے۔

أَهْلَكَ وَسَاءَ عِزُّ الْخَلْقِ مَا يَنْفَعُونَكَ إِذَا دَخَلْتَ فِي الْقَبْرِ تُبِّ مِنْ تَنَاولِ الْمُبَاحِ بِشَهْوَةٍ

يَا قَوْمُ تَوَدَّعُوا فِي جَبِيْعِ أَحْوَالِكُمْ  
الْوَمْعُ كِسْوَةُ الدِّينِ أُطْلَبُوا مِنِّي  
كِسْوَةُ لَا دِيَانَكُمْ أَتَبْعُونِي فَإِنِّي عَلَى  
جَادَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَا تَابِعٌ لَهُ فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ  
وَأَحْوَالِهِ وَمَا كَانَ يَشِيرُ إِلَيْهِ لَا  
أَنَالَ كَذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ بِمَرَادِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ مِنِّي فَإِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَلَا  
أَفَكِّرُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَفَكِّرُ  
بِحَمْدِكَ وَلَا ذِمَّتِكَ بِعَطَائِكَ وَمَنْعِكَ  
بِخَيْرِكَ وَشَرِّكَ يَا قَبَائِكَ وَإِذْبَارِكَ  
أَنْتَ جَاهِلٌ لَا يُبَالِي بِهِ إِذَا أَفْلَحْتَ  
وَعَبَدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنْتَ  
عِبَادَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَا تَهْمَا  
عِبَادَةً مَقْرُونَةً بِالْجَهْلِ وَالْجَهْلُ  
كَلْبٌ مُفْسِدٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ عَلَى جَهْلٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ  
أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ لَا فَلَاحَ لَكَ حَتَّى  
تَتَّبِعَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَنْ بَعْضِهِمْ  
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ  
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَإِلَيْسَ شَيْخُهُ

اتَّبِعِ الشُّيُوخَ الْعُلَمَاءَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  
الْعَامِلِينَ بِهَا وَ أَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِمْ وَ  
تَعَلَّمْ مِنْهُمْ وَ أَحْسِنِ الْأَدَبَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَالْعِشْرَةَ مَعَهُمْ وَ قَدْ أَفْلَحْتَ إِذَا لَمْ  
تَتَّبِعِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلَا الشُّيُوخَ  
الْعَارِفِينَ بِهِمَا فَلَا تُفْلِحُ أَبَدًا أَمَا  
سَمِعْتَ مَنْ اسْتَعْتَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ  
هَذَبٌ نَفْسَكَ بِصُحْبَةٍ مَنْ هُوَ  
أَعْلَمُ مِنْكَ اشْتَغِلْ بِاصْلَاحِهَا ثُمَّ  
انْتَقِلْ إِلَى غَيْرِهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ  
بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ لَا صَدَقَةٌ وَ  
ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ۔

تو ایسے مشائخ کی پیروی کرو جو کہ کتاب و سنت کے عالم اور ان پر  
عمل کرنے والے ہیں اور ان کے بارہ میں حسن ظن کرو اور ان سے  
علم سیکھو اور ان کے رد و روایت پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھے  
طریقے سے معاشرت کرو فلاح پائے گا۔ اور جب تو کتاب و سنت اور  
مشائخ عارفین کتاب و سنت کی پیروی نہ کرے گا تجھے کبھی فلاح نہ  
ملے گی۔ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ جس نے اپنی رائے پر استغنا کیا۔ وہ  
گمراہ ہوا تو اپنے نفس کی ایسوں کی صحبت میں رہ کر جو تجھ سے زیادہ  
علم والے ہوں اصلاح و تہذیب کر اور ان نفس کی اصلاح میں مشغول  
ہو پھر غیر کی طرف چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد  
فرمایا ہے اپنے نفس کی اولاً اصلاح کر پھر اپنے اہل و عیال  
کی۔ نیز ارشاد فرمایا ہے غیر کو صدقہ دینے میں ثواب نہیں جب کہ  
تیرے قربت و ارحم محتاج ہوں۔

## المجلس الموفقى للإربعين

## چالیسویں مجلس

### تفقه فی الدین کے بیان میں

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بُكْرَةً فِي الْبَاطِ  
رَابِعَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةِ ثَمَاسَ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا  
فَقَهَّهَ فِي الدِّينِ وَبَصَّرَهُ بِمُؤَيِّبِ نَفْسِهِ  
الْفَقْهُ فِي الدِّينِ سَبَبٌ لِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ مِنْ عَرَفِ رَبِّهِ  
عَرَفَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمِ تَصَحُّ لَه

۱۴ رجب ۵۲۵ھ کو اتوار کے دن صبح کے وقت  
خانقاہ شریفین میں ارشاد فرمایا :  
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اپنے ارشاد فرمایا  
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے  
تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور اس کے عیوب ذاتی  
اس کو معلوم کرا دیتا ہے دین کی سمجھ معرفت نفس کا سبب جو کوئی اپنے  
رب عزوجل کو پہچان لیتا ہے وہ تمام چیزوں کو پہچان لیتا ہے خدا کے لیے اس کی بندگی

الْعُبُودِيَّةُ وَالْعِثَّةُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ غَيْرُهُ  
لَا فَلَاحَ لَكَ لَا نَجَاةَ لَكَ حَتَّى تُشْرَكَ  
عَلَى غَيْرِهِ تُوْشِرُ دِيْنَكَ عَلَى شَهَوَاتِكَ  
وَإِخْرَاقِكَ عَلَى دُنْيَاكَ وَخَالِقِكَ عَلَى  
خَلْقِكَ هَلَاكُكَ فِي تَقْدِيرِ شَهَوَاتِكَ  
عَلَى دِيْنِكَ وَدُنْيَاكَ عَلَى إِخْرَاقِكَ وَ  
الْخَلْقِ عَلَى خَالِقِكَ أَعْمَلُ بِهَذَا وَقَدْ  
كَفَاكَ أَنْتَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْخَالِقِ عَزَّ  
وَجَلَّ لَا إِبَابَةَ لَكَ إِلَّا جَابَةُ أَنْتَ  
تَكُونُ بَعْدَ الْإِسْتِجَابَةِ إِذَا أَجَبْتَهُ  
بِالْعَمَلِ أَجَابَكَ فِي وَفَّتْ سُؤْلَكَ لَهُ  
وُجُودُ الزَّمْعِ إِثْمًا يَكُونُ بَعْدَ الزَّرَاعَةِ  
إِذَا رَمَعُ حَتَّى تَحْصُدَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مَرْمَةٌ عَمَّا  
الْآخِرَةِ إِذَا رَمَعُ هَذِهِ الزَّرَاعَةَ بِالْقَلْبِ  
وَالْبَذْرُ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْجِدَارُ ثَمَرُ  
لَهَا وَجَدْبُ الْمَاءِ إِلَيْهَا وَسَقْيُهَا  
بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَ هَذَا  
الْقَلْبُ فِيهِ لِينٌ وَرَافَةٌ وَرَحْمَةٌ  
نَبَتْ فِيهِ وَإِذَا كَانَ قَاسِيًا قَطُلًا  
غَلِيظًا كَانَتْ أَرْضُهُ سَبِيحَةً وَالسَّبِيحُ  
لَا يَنْبُتُ الزَّمْعُ إِذَا زَرَعْتَ عَلَى  
رَأْسِ جَبَلٍ لَا يَنْبُتُ فِيهِ قَهْلُو إِلَى  
الْهَلَاكِ أَفْشَرُ تَعْلَمُ هَذِهِ الزَّرَاعَةَ  
مِنَ الزَّرَائِعِ لَهَا لَا تَنْفَرُ دِيْنًا قَالَ

اور غیر اللہ کی بندگی سے آزادی درست و صحیح ہو جاتی ہے  
جب تک تو اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر اور اپنے دین کو اپنی  
خواہشوں پر اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر اور اپنے خالق  
کو اس کے مخلوق پر ترجیح نہ دے گا۔ تجھے فلاح نہ ملے گی۔  
اپنی خواہشوں کو اپنے دین پر اور اپنی آخرت پر اور مخلوق  
کو اپنے خالق پر مقدم کرنے میں تیری ہلاکت ہے تو اس  
پر عمل کر بے شک خدا تعالیٰ تجھ کو ہر امر میں کفایت  
کرے گا تو تو خالق عزوجل سے محبوب ہے تیری دعا  
کو قبولیت نہیں۔ قبولیت تو بعد تعمیل حکم ہو جاتی ہے  
جب تو مطابق حکم الہی عمل کرے گا تو وہ تیرے  
سوال کے وقت تیرے سوال کو قبول کرے گا۔  
کھیتی کا وجود بعد کھیتی کرنے کے ہوتا ہے۔  
کھیتی کرنا کہ تجھے کھیت کا ٹنا نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا  
آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہ کھیتی کر۔ اس کھیتی کے لیے  
زمین قلب ہے اور بیج ایمان ہے اور اس کی کھجانی  
اور پانی دنیا اور اس کھیت کا سیراب کرنا ساتھ  
اعمال صالحہ کے ہے جب اس قلب میں نرمی  
اور رافت و رحمت ہوگی تو اس میں کھیتی اگے گی اور جب  
وہ قلب سخت اور بد خلعت ہوگا تو اس کی زمین کھارو  
شور ہوگی۔ اور کھار زمین کھیتی کو نہیں اگاتی ہے جب تو  
کھیت کو ایسے پہاڑ کی چوٹی پر بروے گا جہاں کھیتی نہیں  
اگتی پس وہ بربادی کی طرف قریب تر ہوگا۔ تو  
یہ کھیتی کرنا اس کے کاشتکاروں سے سیکھ تنہا  
اپنی رائے سے کام نہ لے۔ نبی صلی اللہ

الَّذِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اسْتَعِينُوا عَلَى كُلِّ صَنِيعٍ بِصَالِحِ  
أَهْلِهَا أَنْتَ مَشْغُولٌ بِزَمْرِعِ الدُّنْيَا  
لَا بَزْمَرِ الْآخِرَةِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ طَالِبَ  
الدُّنْيَا لَا يُفْلِحُ مَعَ الْآخِرَةِ لَا يَرَى الْحَقَّ  
عَمَّا وَجَلَ إِنْ أَرَدْتَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْكَ  
بِتَرْكِ الدُّنْيَا وَإِنْ أَرَدْتَ الْحَقَّ  
عَمَّا وَجَلَ فَعَلَيْكَ بِتَرْكِ الْحُطُوطِ وَالْخَلْقِ

طَوْعًا وَكَرْهًا لِإِنَّ الْأَصْلَ مَعَكَ  
وَكُلُّ الْقُرْءِ تَبَعٌ لِهَذَا الْأَصْلِ كُنْ  
عَاقِلًا لَا إِيْمَانَ لَكَ لَا عَقْلَ لَكَ لَا  
تَبْيِيزَ لَكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَعَ الْخَلْقِ مُتَرَكِّ  
بِهِمَ أَنْتَ هَا إِلَيْكَ إِنْ لَمْ تَتَّبِ تَنْتَهَ عَنْ  
طَرِيقِ الْقَوْمِ تَنْتَهَ عَنْ بَابِهِمْ لَا  
تُزَاجِمُهُمْ بِاِكْتِافِ بَيْنِيكَ دُونَ  
عَلَيْكَ لَا تُزَاجِمُهُمْ بِنِقَاطِكَ وَدَعَاؤِكَ  
وَهَوَسِكَ إِنَّمَا تُزَاجِمُ الْقَوْمَ بِالْقُلُوبِ  
الْأَسْرَارِ بِاِكْتِافِ الشَّوْكِلِ وَاصْبِرْ  
لِلْأَفَاتِ وَالرِّضَا بِالْأَقْسَامِ

يَا غُلَامُ كُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ وَالْأَفَاتُ تَنْزِلُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ  
قَائِمٌ عَلَى قَدَمِ مَحَبَّتِهِ لَا تَتَغَيَّرُ

علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہر پیشہ میں اس کے  
صالح لوگوں سے جو کہ ماہر ہوں مدد لیا کرو۔ تو دنیا  
کی کھیتی میں مشغول ہے۔ نہ کہ آخرت کی کھیتی کیا تجھے  
اس کا علم نہیں ہے کہ دنیا کا طلب گار فلاح نہیں پاتا  
ہے۔ طلب آخرت کے ساتھ حق عزوجل کی رویت  
نہیں ہو سکتی اگر تیرا ارادہ آخرت کا ہے پس تو ترک دنیا  
کو لازم پکڑو اور اگر تو خدا کو چاہتا ہے تو تو خطوط  
دنیا اور مخلوق کو خوشی اور ناخوشی سے چھوڑ دے۔  
کیونکہ اصل تیرے ساتھ ہے اور ہر فرع اس اصل کی  
تابع ہے۔ تو مائل بن جانے تیرے پاس ایمان ہے  
نہ عقل اور تمیز تو تو مخلوق کے ساتھ قائم ہے اور اس  
کے سبب سے شرک کرتے والہ۔ اگر تو توبہ کرے  
گا ہلاک ہو جائے گا۔ توبہ نہ کرنے کی صورت میں  
تو مردان خدا کے راستے سے الگ ہٹ ان  
کے دروازہ سے دور ہو۔ اپنے بدن کے موندھوں  
کو ہلا کر قلب کو چھوڑ کر ان کی صف میں نہ گھس  
اپنے نفاق اور جھوٹے دعووں اور خواہشوں  
کے ساتھ ان میں شامل نہ ہو۔ تو ان میں  
قلب اور باطن کے ذریعہ سے توکل کے  
کاندھوں پر سوار ہو کر اور اُفتوں پر صبر کر  
کے اور مقسوم پر راضی ہو کر شامل ہو  
سکتا ہے۔ اے غلام حق عزوجل کے روبرو  
تو ایسا بن جا کہ آنکھیں تیرے اوپر اترتی  
رہیں اور تو اپنی محبت کے قدم پر ویسے  
ہی قائم رہے تجھ میں کچھ تغیر پیدا نہ ہو۔

تجھ کو ہوائیں اور بارشیں تیری جگہ سے نہ ہٹا سکیں  
اور نہ نیزے تجھے زخمی کر سکیں تو ظاہراً اور باطناً  
ثابت رہے اور ایسے مقام پر قائم جہاں نہ خلق  
ہو۔ اور نہ دنیا اور نہ آخرت اور نہ وہاں حقوق ہوں  
نہ مخلوق نہ کچھ چون و چرا ہو نہ ماسوی اللہ۔ وہاں تجھ  
کو نہ مخلوق کی دیکھ بھال مگر کر کے اور نہ اہل و  
عیال کی فکر معاش اور نہ کمی بیشی سے تیرے دل میں  
تغیر پیدا ہو نہ بہ سبب برائی اور جہالت کے اور  
نہ کسی کی توجہ اور عدم توجہی سے تیری معیت خدا  
کے ساتھ اس حیثیت سے ہو جو کہ نہ انسان کی سمجھ  
میں آئے نہ جن و فرشتہ کے اور نہ تمام مخلوق کی عقلوں  
میں۔ بلکہ سب کی عقلوں سے ماورا ہو۔ بعض بزرگوں  
نے کیا ہی اچھا کہا ہے اگر تو اپنے طلب و قصد میں  
سچا ہے تو بہتر ورنہ ہمارے ساتھ نہ ہو میرا خلاص  
تمام ان چیزوں کی جو میں نے بیان کیں بنیاد ہیں تو  
مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے نفاق برتوں  
اور نرم گفتگو کروں تو اپنے نفس میں خوش ہوتا  
ہے اور اتراتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ تو کچھ نہیں  
نہیں تجھے کچھ عزت نہیں۔ میں آگ ہوں۔ اور آگ پر  
سمندل ہی ٹھہر سکتا ہے جو کہ آگ میں رہتا ہے اور وہی  
انڈے بجے دیتا ہے اور اسی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو  
اس بات کی کوشش کر کہ تو مصیبتوں اور مجاہدوں اور  
سختیوں کی آگ میں سمندل بن جا اور قضاء قدر کے گرزوں کے  
نیچے صابر بن۔ تاکہ تو میری ہم نشینی اور میرے کام کے سنے  
اور اس کی سختی و دشواری اور اس پر ظاہراً و باطناً اور علانیاً و خفیہ طور پر

لَا تُزِيلُكَ الرِّيحُ وَالْأَمْطَارُ وَلَا  
تُخْرِقُكَ الرِّمَاحُ تَكُونُ ثَابِتًا ظَاهِرًا  
وَبَاطِنًا قَاتِلًا فِي مَقَامٍ لَا خَلْقَ فِيهِ  
لَا دُنْيَا فِيهِ وَلَا آخِرَةَ فِيهِ لَا حُقُوقَ  
فِيهِ لَا حُطُوطَ فِيهِ لَا لِمَ فِيهِ لَا كَيْفَ  
فِيهِ لَا مَاسِي سِوَى الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ فِيهِ  
لَا تُكْدِرُكَ دُؤْيَةُ الْخَلْقِ وَ مَوْتُهُ  
الْعَبَالِ وَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثَرَةِ  
لَا بِالذَّمِّ وَلَا بِالْحَمْدِ لَا بِالْإِقْبَالِ  
وَلَا بِالْإِدْبَارِ تَكُونُ مَعَهُ مِنْ وَرَاءِ  
مَعْقُولِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ  
الْخَلْقِ فِي الْجُمْلَةِ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ  
بَعْضُهُمْ إِنَّ كُنْتَ تَصْدُقُ ذَاكَ فَلَا  
تَتَّبِعْنَا الصَّبِيرَ وَالْإِخْلَاصَ أَسَاسُ  
لِمَا قَدْ شَرَحْتُ لَكَ تُرِيدُنِي أَنَا فَعَلْتُ  
وَأَلَيْسَ لَكَ فِي الْكَلَامِ تَفَرُّحٌ نَفْسِكَ وَ  
تَعْجِبٌ وَ تَطَنٌ أَتَهَا عَلَى شَيْءٍ لَا وَلَا  
كَرَامَةٌ لَهَا أَنَا أَنَا وَلَا يَعْجُبُ عَلَى  
النَّارِ إِلَّا السَّمْدَلُ الَّذِي يَبْيَضُ وَ  
يَفْرَحُ وَيَقُومُ وَيَقْعُدُ فِي النَّارِ اجْتَهِدْ  
أَنْ تَكُونَ سَمْدَلًا فِي نَارِ الْآفَاتِ وَ  
الْمَجَاهِدَاتِ وَالْمُكَابِدَاتِ وَالصَّبْرِ  
عَلَى مَطَارِقِ الْآفَاقِيَّةِ وَالْأَقْدَارِ حَتَّى  
تَصِيرَ عَلَى مُصَاحَبَتِي وَسَمَائِعِ كَلَامِي  
وَحُشُونَتِي وَالْعَدَلِ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فِي خَلْقِكَ أَوَّلًا وَفِي  
جَلْوَتِكَ ثَانِيًا وَفِي جُودِكَ ثَالِثًا فَإِنْ  
صَحَّ لَكَ هَذَا أَجَاءَكَ الْفَلَاحُ دُنْيَا وَ  
آخِرَةً بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
تَعْدِيرِهِ أَنَا لَا أَحْبَابِي أَحَدًا مِّنَ الْخَلْقِ  
فِي شَيْءٍ هُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ حَقِّهِ  
لَا أَلْتَفِتُ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ  
بِلَا أَمْرِهِ بَلْ أَتَقَوَّى بِهِ فِي اسْتِيفَاءِ  
حَقِّهِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا أَضْعَفُ وَأُقْوِي  
مَعَ نَفْسِي وَأُفْقِّهَا فِيهِمْ عَنْ بَعْضِهِمْ  
رَحْمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَافِقِ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تُؤَافِقِ الْخَلْقَ  
فِي اللَّهِ إِنْ كَسَرَ مِنْ أَنْ كَسَرَ وَانْجَبَرَ مِنْ  
النَّجْبِ كَيْفَ أَبَالِي وَأَنْتَ عَاكِسٌ لِلَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَرِيدٌ بِأَوَامِرِهِ وَ  
تَوَاهِيهِ مُتَابِعٌ لَهُ فِي أَقْضِيَّتِهِ وَ  
أَفْعَالِهِ مَعَادِلُهُ فِي كَيْلِكَ وَ  
نَهَائِكَ فَأَنْتَ مَقْشُورُهُ وَمَلْعُونُهُ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ  
إِذَا أُطِيعَتْ رِضِيَّتُ وَإِذَا رَضِيْتُ  
بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبِرْكَتِي نِهَآيَةٌ وَإِذَا  
غَضِبْتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ  
وَتَبَلُّغُ لَعْنَتِي إِلَى الْوَلَدِ السَّابِعِ هَذَا  
زَمَانٌ بَيْعُ الدِّينِ بِالْقَيْنِ زَمَانٌ  
طُولُ الْأَمَلِ وَقُتُورَةُ الْحُجُورِ أَجْهَدُ

عمل کرنے پر مہر کر سکے۔ اولاً اپنی خلوت و تنہائی میں۔ ثانیاً  
اپنی جلوت میں۔ ارشاد ٹاٹا اپنے وجود میں۔ پس اگر اس طور پر تیری  
حالت درست ہو جائے گی تو تجھے دیندہ آخرت کی فلاح مل  
جائے گی۔ جو کہ بیشیت و تقدیر الہی ہوگی۔ میں اس چیز میں جو کہ  
اللہ کے واسطے ہوا اور اس میں کوئی حق اللہ برتر کا ہو کسی کی رویت  
ہمیں کرتا۔ میں مخلوق میں سے کسی کی طرف بغیر امر الہی کے توجہ  
نہیں کرتا، ہوں بلکہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حق کے حاصل کرنے  
میں اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرتا ہوں اور کسی طرح کی کمزوری  
نہیں پاتا۔ میں اپنے نفس کے ساتھ قوی ہوں اور خلق کے معاملے  
میں نفس کی موافقت کرتا ہوں۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ  
بر تحقیق انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کے متعلق اللہ عزوجل کی موافقت  
کر اور اللہ تعالیٰ کے متعلق خلق کی موافقت نہ کر خدا کے ہی ساتھ  
موافق بنادہ جو ٹوٹے وہ ٹوٹ جائے اور جو جڑا رہے وہ جڑا رہے  
میں تیری پروا کیسے کروں تو تو خدا کا گناہ گار اور اس کے ادا و نواہی  
کو حقیر سمجھنے والا اور اس کی تضاد قدرت میں اس سے جھگڑنے والا اور  
اپنے رات دن میں اس سے دشمنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ  
کے غضب و لعنت میں ہے اللہ عزوجل نے اپنے بعض  
کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب میری اطاعت کی جاتی ہے  
تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوں برکت دے  
دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور  
جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصہ میں آجاتا ہوں  
اور جب میں غصہ میں آجاتا ہوں تو اپنی رحمت سے دور کر  
دیتا ہوں اور میری لعنت ساتویں پشت تک پہنچتی ہے  
یہ زمانہ دین کو انجمیر کے بدلے نیچے گا اور آرزوؤں کے  
طویل کرنے اور حرص کے قوی کرنے کا ہے۔ تو ان

أَنْ لَا تَكُونَ مِمَّنْ قَالَ فِيهِمْ وَقَدْ مَنَّا  
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً  
مَّنْثُورًا كُلُّ عَمَلٍ يُدْرَأُ بِهِ غَيْرُ حِجَابٍ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ هَبَاءٌ مَّنْثُورٌ -

وَيُحَلِّكُ أَنْ خَفِيَ أَمْرُكَ عَلَى  
الْعَوَامِّ فَمَا يَخْفَى عَلَى الْخَوَاصِّ الشَّوَادِي  
يَخْفَى عَلَيْهِ بَهْرُكَ الظَّنِّ فِي كَلَامِ  
الْجَاهِلِ يَخْفَى عَلَيْهِ الْعَالِمُ لَا أَعْمَلُ  
وَأَخْلِصُ فِي عَمَلِكَ وَاشْتَغَلُ بِاللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَدَعِ الْإِشْتَغَالَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ  
غَيْرُكَ وَمَا لَا يَعْنِيكَ فَلَا تَشْتَغَلْ بِهِ  
عَلَيْكَ بِخَوَاصِّهِ تَفْسِيكَ حَتَّى تَقْمَرَهَا  
وَتَذَلَّهَا وَتَسْتَأْسِرَهَا وَتَجْعَلَهَا  
مَطِيْعَكَ فَتَقْطَعُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى  
تَصِلَ إِلَى الْآخِرَةِ تَقْطَعُ بِهَا الْخَلْقَ  
حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى  
إِذَا اسْتَمَرَّ لَكَ وَقَوِيَتْ أَدَدُ قُوَّتِكَ غَيْرُكَ  
وَمِنَ الدُّنْيَا أَخْرَجْتَهُ وَإِلَى الْمَوْلَى  
فَتَدْمُنُهُ وَلَهُمُ الْحُكْمُ لَقِئْتَهُ عَلَيْكَ  
بِمِصْدَقِ الْحَدِيثِ لَا تَتَأَوَّلْ فَإِنَّ الْمُتَأَوَّلَ  
عَادُوٌّ لَا تَخَفِ الْخَلْقَ وَلَا تَرْجُحْهُمْ فَإِنَّ  
ذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ الْإِيمَانِ عَلَى هِمَّتِكَ  
وَقَدْ عَكُوتَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيكَ  
عَلَى قَدَرِ هِمَّتِكَ وَصِدْقِكَ وَإِخْلَاصِكَ  
اجْتِهَدْ وَتَعَرَّضْ وَاطْلُبْ فَإِنَّ يَدَكَ لَا

لوگوں میں سے مت ہو جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔  
وَقَدْ مَنَّا إِلَیْهِ اور ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ  
انہوں نے کیے تھے پس ہم نے ان کے عملوں کو اڑے ہوئے غبار  
کی مانند بنا دیا یہ وہ عمل جس سے غیر اللہ کا اللہ کیا جائے پس وہ مثل اڑے ہوئے غبار کے ہے  
تجھ پر افسوس اگر تیرا معاملہ عام لوگوں پر پرورشیدہ بھی  
رہے گا پس وہ خواص پر پرورشیدہ نہیں رہ سکتا دیہاتی پر  
تیرا کھوٹا پن چھپ سکتا ہے لیکن صرف پر پرورشیدہ نہیں  
رہ سکتا جاہل سے تیرا حال چھپ سکتا ہے عالم سے  
نہیں تو عمل کر اور اپنے عمل میں اخلاص کر اور اللہ کے  
ساتھ مشغول ہو جا بیکار و لایینی چیزوں سے مشغول چھوڑے  
تیرا غیر بیکار و لایینی ہے پس تو اس کے ساتھ مشغول نہ ہو تو  
اپنے خاص نفس کی اصلاح لازم پکڑ تاکہ تو اس پر غالب  
آجائے اور اس کو ذلیل و تہید کر کے اس کو اپنی سواری بنالے  
پس تو اس پر سوار ہو کر دنیا کے میدانوں کو قطع کر کے آخرت  
کی طرف پہنچ جائے خلق سے قطع تعلق کر لے یہاں تک کہ تو  
حق کی طرف پہنچ جائے جب تو اس حالت پر پہنچ جائے  
گا اور قوت حاصل کرے گا تو دوسروں کو بھی اپنے پیچھے بٹھائے گا  
اور اس کو دنیا سے علیحدہ کر کے مولى تعالیٰ کی طرف پیش کر  
دے گا اور حکمت کے بقول سے اس کو توالہ دے سکے گا تو سچی بات  
کو لازم پکڑ تاویل نہ کر بہ تحقیق تاویل کرنے والا دھوکہ باز، ہوتا ہے  
تو نہ خلق سے ڈر اور نہ ان کا امید واریں کیوں کہ یہ ضعف ایمان کی  
علامت ہے تو اپنی ہمت بلند کر تجھے رفعت و بلندی مل جائے گی  
اللہ عزوجل تجھ کو مطابق تیری ہمت اور تیری سچائی و اخلاص کے  
عطیہ دے گا عطا فرمائے گا کوشش کر رہے ہو اور طلب کر  
تجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے

يَجْعَلُ شَيْءٌ وَلَا بَدَأَ مِنْكَ تَكَلَّفَ فِي  
تَحْصِيلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَمَا تَكَلَّفَ  
فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ الشَّيْطَانُ يَلْعَبُ  
بِعَوَارِثِ النَّاسِ كَمَا يَلْعَبُ الْفَارِسُ  
بِكُرْتِهِ يَدِيرُ أَحَدُهُمْ فِيمَا يَشَاءُ  
كَمَا يَدِيرُ أَحَدُكُمْ دَابَّةً فِيمَا يَشَاءُ  
يَضْرِبُ أَقْفِيَةً فَلَوْ بِهِمْ وَكَيْسَخِدُهُمْ  
كَيْفَ أَرَادَ يَحْطُمُهُمْ مِنَ الصَّوَامِعِ وَ  
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْحَارِيِبِ وَيُوقِفُهُمْ  
فِي خُدَمَتِهِ وَالنَّعْسُ تُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ  
وَتَهَيَّجَ لَهُ أَسْبَابُهُ.

يَا غُلَامُ اضْرِبْ نَفْسَكَ بِسَوْطِ  
الْجُوعِ وَالْمَنَمِ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ  
وَالشُّرْهَاتِ وَاضْرِبْ قَلْبَكَ بِسَوْطِ  
الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ اجْعَلِ الْإِسْتِغْفَارَ  
دَابَّ نَفْسِكَ وَقَلْبِكَ وَسِرِّكَ فَإِنَّ  
لِكُلِّ مِنْهُمْ ذَنْبًا يَخْصُهُ إِلَهُهُمْ  
بِالْمَوَافَقَةِ وَالْمُتَابَعَةِ لَهُ فِي جَمِيعِ  
الْأَحْوَالِ يَا قَلِيلَ الدَّرَاجَةِ إِذَا كَانَ  
الْقَدَرُ لَا يُمْكِنُكَ دُكُّ لَا تَغْيِيرُهُ  
وَمَحْوُهُ وَمُخَالَفَتُهُ فَلَا تَرُدُّ غَيْرَ  
مَا يُرِيدُ إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ شَيْئًا لَا يَتَمَرَّدُ  
فَلَا تَتَعَبْ نَفْسَكَ وَقَلْبَكَ فِيهِ سَلِّمْ  
الْكُلَّ إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَتَعَلَّقُ بِذَيْلِ  
رَحْمَتِهِ بِبَيْدِ تَوْبِكَ إِلَيْهِ فَإِذَا دُمْتَ

اعمال صالحہ کے حاصل کرنے میں ویسا ہی تکلف کر جیسا کہ رزق  
کے حاصل کرنے میں تکلف کرتا ہے شیطان عوام الناس کے  
ساتھ ویسا ہی کھیلتا ہے جیسا کہ سوار اپنی گیند سے جس طرح تم میں  
سے ہر ایک اپنے ارادہ کے مطابق اپنے گھوڑے کو گھوما رہا ہے  
ویسے ہی شیطان تم میں سے ہر ایک کو جیسا چاہتا ہے گھوما رہا ہے  
انسانوں کے دلوں کے گدھے پر حملہ کرتا ہے اور جس طور سے  
چاہتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے مخلوقوں سے ان کو نیچے اتارتا  
ہے اور محرابوں سے باہر نکالتا ہے اور ان کو اپنی خدمت میں لاکر  
کھڑا کر لیتا ہے اس امر میں نفس شیطان کا مددگار بن جاتا  
ہے اور اس کے سبب ہتیا کر دیتا ہے

اے غلام تو اپنے نفس کو بھوک اور غم و ہشاش اور  
لذات اور فضولیات کے روکنے کے چابک سزا دے اور  
اپنے قلب کو خوف اور مراقبہ کے چابک سے سیٹا استغفار کو اپنے  
نفس اور قلب اور باطن کی عادت قرار دے۔ کیوں کہ ان میں  
سے ہر ایک کے لیے مخصوص گناہ ہے ان پر ہر حالت  
میں موافقت و متابعت الہی کو لازم کر دے۔ اے  
نادان جب کہ تقدیر کا رد کرنا بدلتا اور اس کا مٹا ڈالتا  
اور اس کی مخالفت کرنا تیرے امکان میں نہیں ہے پس تو  
اس کے خلاف ارادہ نہ کر جب تقدیر کا چاہا ہی ہوتا ہے  
پس تو ارادہ ہی نہ کر جب تو کسی چیز نہ کا ارادہ کرتا ہے  
اور پورا نہیں ہوتا پس تو اس میں اپنے نفس و قلب کو  
مشقت میں کیوں ڈالتا ہے تو سب کچھ اپنے رب  
عز و جل کی طرف سونپ دے اور اس کی طرف اپنے  
توبہ کے ہاتھ سے اس کے دامن رحمت کو پکڑ لے پس جب تیرا

عَلَىٰ هَٰذَا تَزُولُ الدُّنْيَا مِنْ عَيْنِ قَلْبِكَ  
وَرَأْسِكَ وَتَهْوُونَ عَلَيْكَ مَصَابِيهَا وَ  
تَرْكُ شَهْوَاتِهَا وَكَذَابِهَا وَلَا تَشْكُرُوا  
مِنْ قَرَصَاتِهَا وَلَسَعَاتِهَا تَصِيرُ نَفْسُكَ  
فِي أَلَمِ الْبَلَاءِ كَالسَّيَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
عَنْهَا وَوَجْهَ فِرْعَوْنَ لَمَّا تَحَقَّقَ أَنَّهَا  
مَوْمِنَةٌ يَا اللَّهُ عَمَّ وَجَلَّ أَمْرُهَا  
فَضْرَبَ فِي يَدَيْهَا وَرَجَلَيْهَا أَوْتَادًا  
مِنْ حَدِيدٍ وَجَعَلَ يُعَاقِبُهَا بِالسَّيَاطِ  
دَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَرَأَتْ  
أَبْوَابَ الْجَنَّةِ مُفْتَحَةً وَالْمَلَائِكَةَ  
تَبْنِي فِيهَا بَيْتًا وَجَاءَهَا مَلَكُ الْمَوْتِ  
لِيَقْبِضَ دُوحَهَا فَقَالَ لَهَا هَٰذَا لَبِيتُ  
لَكَ فَضَحِكْتَ وَذَهَبَ عَنْهَا أَلَمُ الْعُقُوبَةِ  
وَقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي  
الْجَنَّةِ ۖ فَهَٰكَذَا تَصِيرُ أَنْتَ لَا تَنَظُرُ  
بِعَيْنِ قَلْبِكَ وَبِعَيْنِكَ إِلَى مَا  
نَحْنُ فَتَصِيرُ عَلَى مَا هَلْهُنَا مِنَ الْبَلَاءِ  
وَالْأَفَاتِ وَتَخْرُجُ مِنْ حَوْلِكَ وَ  
قُوَّتِكَ وَلَا تَأْخُذُ وَلَا تُعْطِي وَلَا  
تَتَحَرَّكُ وَلَا تَسْكُنُ إِلَّا بِحَوْلِ اللَّهِ  
وَقُوَّتِهِ تَفْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ تَسْلَمُ  
أَمْرَكَ إِلَيْهِ تُوَافِقُهُ فِيكَ وَفِي الْخَلْقِ  
فَلَا تَلْزِمُهُ تَدْبِيرُهُ وَلَا تَحْكُمُ  
مَعَهُ حُكْمَهُ وَلَا تَخْشَاهُ مَعَ اخْتِيَارِهِ

حالت پر ہمیشگی کرے گا تو دنیا تیرے قلب و سر کی آٹھ سے دور  
ہو جائے گی اور اس کی خواہشوں اور لذتوں کا چھوڑنا تجھے آسان  
ہو جائے گا اور اس کے ڈس لینے اور ڈنک مارنے کی شکایت  
نہ کرے گا اور تیرا نفس بلا کی تکلیفوں میں مثل حضرت اسید  
زبور فرعون علیہ السلام کے صابر ہو جائے جب فرعون کو  
اپنی زور و اسیر کا مسلمان ہونا متحقق ہو گیا تو اس نے ان کو  
تکلیف پہنچانے کا حکم دیا ان کے دونوں ہاتھ پیروں میں  
لوہے کی میخیں ٹھونک دیں اور کوڑوں سے سزا دینا شروع  
کی اسید نے یہ حال دیکھ کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پس  
جنت کے دروازہ کھولے ہوئے دیکھے اور فرشتوں کو دیکھا کہ جنت  
میں گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ان کے پاس ملک الموت روح قبض  
کرنے کے لیے آئے اور ان سے کہا یہ گھر تمہارا ہی ہے  
یہ کہ حضرت اسید ہنسیں اور ان سے سزا کی تکلیف دور  
ہو گئی اور کہنے لگیں اے رب میرے لیے جنت میں  
اپنے پاس گھر بنا دے۔ پس اسی طور سے بد بھرتوں  
بھی ایسا ہو جائے گا۔ کیونکہ تو اس جگہ کی نعمتوں کو اپنے  
قلب و یقین کی کونکھ سے دیکھنے لگے گا پس یہاں کی  
آفتوں اور بلاؤں پر صبر کرے گا اور تو اپنی طاقت و قوت  
سے باہر نکل جائے گا اور تیرا لینا دینا اور تیری حرکت  
و سکون سب اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت سے ہو گا  
تو اس کے زور و رونا ہو جائے گا اپنے سب امراں کی  
طرف سوئپ دے گا اور اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق  
اس کی موافقت کرے گا پس نہ تو اس کی تدبیر کے ساتھ  
اپنی تدبیر کو داخل کر دے گا اور نہ اس کے حکم کو ساتھ اپنا  
حکم چلائے گا اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو کچھ بچے گا

مَنْ عَرَفَ هَذَا الْحَالَ لَا يَطْلُبُ غَيْرَهُ  
لَا يَكُونُ لَهُ أُمْنِيَّةٌ سِوَا كَيْفَ لَا  
يَتِمَّتِ الْعَاقِلُ هَذَا الْحَالَ وَصَحْبَةُ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَمَّرُ إِلَّا بِهِ.

## المجلس الحادى والربعون

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:

بَعْدَ كَلَامِ إِعْلَمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ  
كُلَّهَا مُحَرَّكَةٌ بِتَحْرِيكِهِ وَمَسْكُونَةٌ  
بِتَسْكِينِهِ إِذَا اثْبَتَ هَذَا لَهُ اسْتِرَاحَ  
مِنْ تَقْتِلِ الشُّرُكِ بِالْخَلْقِ وَاسْتِرَاحَ  
الْخَلْقُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ  
وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَدِيهِ إِنَّمَا  
يُطَالِبُهُمْ بِمَا طَالِبُهُمْ بِهِ الشَّرْعُ  
وَنَحْسَبُ يُطَالِبُهُمْ شَرْعًا وَيَعْذُرُهُمْ  
عَدَمًا جَمْعًا بَيْنَ الْحُكْمِ وَالْعِلْمِ دُورِيَّةٌ  
فَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ عَقِيدَةً  
لَا يَنْقُصُ بِهَا الْحُكْمُ هُوَ الْمُقَدَّرُ وَهُوَ  
الْمَطَالِبُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ  
يُسْأَلُونَ هَذَا مُعْتَقَدٌ كُلِّ مُسْلِمٍ  
مُسَوِّقٍ مُوَحَّدٍ رَاجِعٍ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ مُوَافِقٍ لَهُ فِي أَقْضِيَّتِهِ وَأَقْدَارِهِ

جو اس حالت کو پہچان لے گا وہ غیر اللہ کو طلب نہ کرے  
گناہ اس کی ماسوی اللہ کی آرزو کرے گا عقلمند اس حال کی  
تمنا کیسے نہ کرے حالانکہ حق عزوجل کی مصائبت بغیر اس  
کے پوری نہیں ہوتی

## اکتالیسویں مجلس

بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ یہ جان لیتا ہے تمام  
چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے حرکت و سکون دینے سے حرکت  
و سکون کرتی ہیں اور جب بندہ کو یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ  
جاتا ہے تو وہ شرک کی گرانی سے جو کہ اس مخلوق کی  
وجہ سے ہوئی تھی راحت پالیتا ہے اور غلطی اس سے  
راحت پالیتی ہے کیوں کہ وہ ان پر نہ عیب لگاتا ہے اور نہ  
ان پر اپنی ذات کے متعلق کوئی مطالبہ کرتا ہے اس کا مطالبہ تو مخلوق  
سے محض مطالبہ شرعی ہوتا ہے جس کا کہ شرع نے اس کو  
حکم دیا ہے۔ اور پس وہ شرع کی رو سے ان سے مطالبہ کرتا  
ہے اور علم کے اعتبار سے انہیں معذور سمجھتا ہے تاکہ  
حکم و علم کے درمیان میں جمع کر دے مخلوق کے بار میں  
فعل خداوندی پر نظر کرنا ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے  
حکم نہیں ٹوٹتا۔ وہ تقدیروں کا مقدر کرنے والا وہی مطالبہ کرنے  
والا ہے جو کچھ کرے اس سے سوال نہیں اور وہ وہی سوال کرنے  
والی ہر مسلمان ایمان دار اقیان و اسے موحّد کا جو کہ  
اللہ عزوجل سے راضی اور اس کے قضاء قدر و کار بخیر میں

وَصُنْعِهِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ هُوَ غَنِيٌّ عَنْ  
تَفْسِيكَ وَصَبْرِكَ وَالْكَرْبُ يَنْظُرُ كَيْفَ  
تَعْمَلُ فِي دَعْوَاكَ هَلْ تَصْدُقُ أَوْ تَكْذِبُ  
الْمُحِبُّ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُسَلِّمُ الْكَلَّ إِلَى  
مَحْبُوبِهِ مَحَبَّةً وَتَمَلُّكَ لَا يَجْتَمِعَانِ  
الْمُحِبُّ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الصَّادِقُ فِي  
مَحَبَّتِهِ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ  
وَعَاقِبَتَهُ وَيَتْرُكُ اخْتِيَارَهُ فِيهِ وَ  
فِي غَيْرِهِ لَا يَتَّهِمُهُ فِي قَصْرِ فِيهِ كَمَا  
يَسْتَعْجِلُهُ لَا يَبْخُلُهُ يَخْلُو عِنْدَهُ  
كُلُّ مَا يَصْدُرُ إِلَيْهِ مِنْهُ تَنْسَدُ  
جِهَاتُهُ لَا يَبْقَى لَهُ إِلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ  
يَا مَنْ يَدْعُو مَحَبَّةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا تَكْمُلُ لَكَ مَحَبَّتُكَ إِلَّا هَٰذَا حَتَّى  
تَنْسَدَ الْجِهَاتُ فِي حَقِّكَ لَا يَبْقَى لَكَ  
إِلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مَحْبُوبُكَ يُخْرِجُ  
الْخَلْقَ مِنْ قَلْبِكَ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى  
الْثَرَى فَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ  
تَسْتَوْحِشُ مِنْكَ وَتَسْتَأْنِسُ بِهَا  
تَصِيرُ كَمَجْنُونٍ لَيْلَى لَمَّا تَسَكَّنَتْ مِنْهُ  
الْمَحَبَّةُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ الْخَلْقِ وَ  
رَضِيَ بِالْوَحْدَةِ وَخَالَطَ الْوَحْشَ  
خَرَجَ مِنَ الْعُمَرَانِ وَرَضِيَ بِالْخَرَابِ  
خَرَجَ مِنْ مَدَارِجِ الْخَلْقِ وَذَقَّ قِيَمَهُ  
صَامًا كَلَامُهُمْ وَسُكُونُهُمْ عِنْدَهُ

اپنے اور غیر کے معاملہ میں اس کی موافقت کرنے والا ہے  
کا ہی عقیدہ ہے وہ تیرے نفس و صبر سے بے پروا ہے  
لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرے عمل کیسے ہیں کیا تو اپنے دعوئی  
میں سچا ہے یا جھوٹا۔ سچا محبوب و عاشق کسی چیز کا مالک نہیں  
ہوتا وہ تو ہر چیز کو اپنے محبوب و مشوق کے حوالہ کر دیتا ہے  
محبت و ملکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کا سچا محبوب  
صادق المحبت اپنے نفس و مال اور اپنے انجام کو اسی کی طرف  
پسگرد کرتا ہے اور وہ اپنے اور غیر کے بارے میں اپنے  
اختیار کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے محبوب کو اس کے تصرفات  
میں تہمت نہیں لگاتا ہے نہ اس کی محبت چاہتا ہے اور نہ اس  
کو بخیل بتاتا ہے بلکہ جو چیز بھی اس کے محبوب کے صادر ہوتی  
ہے وہ اس کو محبوب و شیریں سمجھتا ہے اس کی تمام جہتیں  
مسدود ہو جاتی ہیں اسی کے لیے صرف ایک جہت محبوب  
ہی باقی رہ جاتی ہے اسے محبت الہی کے دعوے دار  
تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگی جب تک کہ تیرے  
حق میں تمام جہتیں بند نہ ہو جائیں گی اور صرف ایک جہت تیرے  
محبوب کی باقی رہے گی اس حالت میں تیرا محبوب تمام مخلوق  
کو عرش سے لے کر زمین تک تیرے طلب سے نکال دے گا پس نہ  
تجھے دنیا کی محبت رہے گی اور نہ آخرت کی تو اپنے سے  
وحشت کرے گا اور خدا اتنا لے سے انس تو لیلے کے  
عاشق مجنوں کی طرح ہو جائے گا جب مجنوں کے دل  
میں لیلے کی محبت جاگزیں ہو گئی تو وہ مخلوق سے علیحدہ  
ہو گیا اور گوشہ نشینی پسند کی اور وحشی جانوروں میں  
جا ملا۔ آبادی سے باہر نکل گیا اور ویرانہ کو پسند  
کیا۔ مخلوق کی تعریف و مذمت سے علیحدہ ہو گیا

وَاحِدًا رِضَاهُمْ عَنَّهُ وَ سَخَطُهُمْ  
عِنْدَهُ وَاحِدًا قِيلَ لَهُ بَعْضُ الْأَيَّامِ  
مَنْ أَنْتَ قَالَ لَيْلَى وَ قِيلَ لَهُ أَيْضًا  
مِنْ آيِنَ جِئْتَ قَالَ لَيْلَى قِيلَ لَهُ إِلَى  
أَيِّنَ تَمُرُّ قَالَ لَيْلَى عَمَّا سَوَاهَا  
وَ ظَهَرَ شَيْءٌ عَنْ سَمَاعٍ غَيْرِ كَلَامِهَا لَمْ  
يَرْجِعْ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْسَنَ  
مَا قَالَ بَعْضُهُمْ

وَإِذَا تَسَاعَدَتِ النَّفُوسُ عَلَى الْهَوَى  
فَالْخَلْقُ يَضْرِبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ  
هَذَا الْقَلْبُ إِذَا عَرَفَ الْخَلْقَ عَرَّ وَجَلَّ  
وَ أَحَبَّهُ وَ قَرَّبَ مِنْهُ يَسْتَوْحِشُ مِنَ  
الْخَلْقِ وَ السَّكُونِ إِلَيْهِمْ

يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْعُمَرَاءِ وَ  
يَهَيِّمُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الْخَرَابِ لَا  
يُقَيِّدُهُ شَيْءٌ سِوَى أَمْرِ الشَّرِّعِ يَقَيِّدُهُ  
فِي الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْفِعْلِ يَقَيِّدُهُ إِلَى  
وَقْتُ مَرَجِيءِ الْقَدَرِ اللَّهُمَّ لَا تَدْعَنَا  
مِنْ يَدِ رَحْمَتِكَ فَتَغْرَقَ فِي بَحْرِ  
الدُّنْيَا وَ بَحْرِ الْوُجُودِ يَا مَانِعَ الْكَرَمِ  
وَ الْأَرْأَعِ وَ السَّابِقَةِ أَذِيكُنَا

يَا غَلَامُ مَنْ لَا يَعْمَلُ بِمَا أَقُولُ  
لَا يَفْهَمُ مَا أَقُولُ فَإِذَا عَيْلَ فِيهِمْ  
إِذَا لَمْ نَحْسِنِ الظَّنَّ بِكَ وَ لَا تَوْفَى

اس کے نزدیک مخلوق کلام و سکوت اور ان کی رضامندی اور  
غصہ یکساں ہو گیا۔ بعض دنوں میں اس سے دریافت کیا گیا  
تو کون ہے جواب دیا ییلے پھر پوچھا گیا تو کہاں سے آیا  
کہا ییلے پھر سوال کیا گیا کہاں جائے گا جواب دیا ییلے وہ ییلے  
کے اسوا سے اندھا اور اس کے نیز کے کلام سے بہرہ ہو  
گیا کسی ناصح اور ملامت کرنے والے کی نصیحت و ملامت  
سے ییلے سے نہ پھر کسی شاعر نے کیا اچھا کلام کہا ہے اور  
جب نفوس پر محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو گویا خلق کی

نصیحت ایسی معلوم ہوتی جیسے سرد لوہے پر چوڑا مارنا  
محبت جب کہ ریح جاتی ہے دل میں بڑا ملامت کب اثر  
کرتی ہے دل میں باری قلب جب حق عزوجل کو پہچان لیتا  
ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کا مقرب  
ہو جاتا ہے تو خلق اور ان کے پاس ٹھہرنے سے وحشت  
کرنے لگتا ہے اس کو آبادی سے وحشت ہو جاتی ہے  
اور پریشان حیران ہو کر منہ اٹھا کر ویرانہ کی طرف  
چلا جاتا ہے بجز شرع کے اسے کوئی چیز مقید  
نہیں کرتی شرع اس کو امر و نہی اور دیگر افعال میں نردل  
امر و تقدری تک مقید کر لیتی ہے اسے اللہ ہم کو اپنی رحمت  
کے ہاتھ سے چھوڑ نہ دینا ورنہ ہم دنیا اور وجود کے دریا میں  
غرق ہو جائیں گے۔ اسے کہیم اور عقل اور تقدیر کے  
بخشنے والے ہماری مدد فرما۔

اسے غلام جو میرے قول پر عمل نہ کرے گا میرے قول کو نہ  
سمجھے گا جب عمل کرے گا تب ہی سمجھے گا۔ جب میرے ساتھ  
اس کا نیک گمان نہ ہو گا اور وہ میرے قول کی تصدیق

بِمَا أَقُولُ وَلَا تَعْمَلُ بِهِ كَيْفَ تَقْلَمُ  
 أَنْتَ جَائِعٌ تَقِفُ بِحَدِّ أَيْ وَلَا تَأْكُلُ  
 مِنْ طَعَامِي كَيْفَ تَشْبَعُ عَنْ أَيْ هَرِيرَةً  
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ سَمُوتَ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 يَقُولُ مَنْ مَرِضَ كَبَلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ  
 رَاضٍ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَابِرٌ عَلَى  
 مَا نَزَلَ بِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ  
 وَلَدَتْهُ أُمُّهُ بِكَ لَا يَجِيءُ شَيْءٌ وَلَا  
 بَدَلٌ مِنْكَ كَانَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
 عَنْهُ يَقُولُ لِلصَّحَابَةِ قُومُوا نَوْمُ مِنْ  
 سَاعَةٍ إِلَى قُومُوا ذُقُوا سَاعَةً  
 قُومُوا ادْخُلُوا الْبَابَ سَاعَةً رَفَقًا  
 بِهِمْ كَانَ يُشِيرُ إِلَى الْإِطْلَافِ عَلَى أَشْيَاءَ  
 غَامِضَةٍ يُشِيرُ إِلَى النَّظَرِ بَعَيْنِ الْيَقِينِ  
 لَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا وَلَا كُلُّ مُؤْمِنٍ  
 مُؤَقَّتًا وَلِهَذَا قَتَلَ الصَّحَابَةُ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُعَاذًا يَقُولُ لَنَا  
 تَعَالَوْا نَوْمُ مِنْ سَاعَةٍ أَسْنَا مُؤْمِنِينَ  
 فَقَالَ دَعُوا مُعَاذًا أَوْ شَانَهُ يَأْعَبِدُ  
 نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَطَبْعَهُ وَشَيْطَانَهُ  
 وَدُنْيَاهُ لَا قَدْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ  
 عِنْدَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَنْ يُعْبَدُ  
 الدُّنْيَا -

نہ کرے گا اور اس پر عمل نہ کرے گا تو میرے کلام کو کیسے سمجھے  
 گا تو بھوک کی حالت میں میرے رو برو کھڑا ہوا ہے مگر کچھ کھانا  
 نہیں کھاتا پھر تیرا پیٹ کیسے بھرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  
 سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
 سنا جو ایک رات ایسی حالت میں بیمار رہا کہ وہ اللہ عزوجل  
 سے راضی اور اس کی اتاری ہوئی ہمارے صابر تھا تو وہ اپنے  
 گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن  
 پاک تھا جب کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تجھ سے کچھ  
 نہیں ہوتا حالانکہ تیرے لیے ضرورت ہے معاذ رضی اللہ عنہ  
 صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر ٹھہرے رات کو  
 ایمان تازہ کریں یعنی ٹھہر جاؤ ایک ساعت ڈالو پھر پٹھیں ٹھہر  
 جاؤ ایک ساعت کے لیے بابِ قرب میں داخل ہو جاؤ یہ  
 فرمانا بریناءِ خیر خواہی ہوتا تھا دقیق باتوں کے اور خبردار  
 کرنے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور یقین کی آٹھ سے  
 دیکھنے کی طرف ایمان فرماتے تھے ہر مسلمان مومن اور ہر مومن اہل  
 یقین نہیں ہوتا ہے اور اسی واسطے جب کہ صحابہ نے حضور  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ تحقیق حضرت معاذ ہم سے کہتے  
 ہیں کہ ایک ساعت ٹھہرو ایمان لائیں کیا ہم ایمان والے  
 نہیں ہیں پس ارشاد نبوی ہوا تم معاذ کو اس کی حالت پر  
 چھوڑ دو اسے اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت و  
 شیطان و دنیا کے بندے اللہ اور اس کے نیک بندوں  
 کے نزدیک تیری کچھ قدر و منزلت نہیں ہے جو کہ آخرت  
 کے لیے عبادت کرتا ہے میں اس کی طرف ہی متوجہ نہیں  
 ہوتا چہ جائیکہ وہ شخص جو دنیا کے لیے عابد ہے۔

وَيَحْكُمُ أَيُّشَ تَعْمَلُ بِقَلْقَلَةِ اللِّسَانِ  
بِلَا عَمَلٍ أَنْتَ تَكْذِبُ وَعِنْدَكَ أَتَّكَ  
تَصَدُّقُ تُشْرِكُ وَعِنْدَكَ أَتَّكَ تَوَحُّدُ  
تَبْطُلُ وَتَعْتَقِدُ الصَّحَّةَ مَعَكَ بِالْفُتُوحِ  
وَتَعْتَقِدُ أَنَّ جَوْهَرَ شُغْلِي مَعَكَ أَنْ  
أَمْنَكَ مِنَ الْكُذْبِ وَأَمْرَكَ بِالصِّدْقِ  
وَيَبْدِي ثَلَاثَ مَحَاكِتٍ أَعْرِفُ بِهَا  
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَقَلْبِي الْمَحْكُومَ الْخَيْرُ  
يَتَبَيَّنُ فِيهِ الْأَشْبَاحُ لَا يَبْلُغُ الْقَلْبُ  
إِلَى هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَهُ  
الْعَمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْعَمَلُ  
بِالْعِلْمِ تَأْجِرُ الْعِلْمَ الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ نُودُ  
الْعِلْمِ صَفَاءُ الصَّفَاءِ جَوْهَرُ الْجَوْهَرِ  
لُبُّ اللَّبِّ أَعْمَلُ بِالْعِلْمِ يُصَحِّحُ الْقَلْبَ  
وَيُطَهِّرُهُ فَإِذَا صَحَّ الْقَلْبُ صَحَّتِ  
الْجَوَارِحُ إِذَا طَهَّرَ الْقَلْبَ طَهَّرَتِ  
الْجَوَارِحُ إِذَا أَخْلَعَ عَلَيْهِ خُلِعَ عَلَى  
الْحَدَّةِ إِذَا صَلَحَتِ الْمَضْعَةُ صَلَحَتِ  
الْبُنْيَةُ صِحَّةُ الْقَلْبِ مِنْ صِحَّةِ السِّرِّ  
الَّذِي بَيْنَ الْأَدَمِيِّ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَرَّوْ  
جَلَّ السِّرُّ طَائِرٌ وَالْقَلْبُ قَفْصُهُ وَ  
الْقَلْبُ طَائِرٌ وَالْبُنْيَةُ قَفْصُهُ وَ  
الْبُنْيَةُ طَائِرٌ وَالْقَلْبُ قَفْصُهَا وَهُوَ  
قَفْصُ الْخَلْقِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ  
الدُّخُولِ إِلَيْهِ

تجھ پر افسوس ہے تو بغیر عمل کیے محض زبان زوری سے کیا  
حاصل کرے گا تو جھوٹ تو بولتا ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو سچا  
ہے تو شرک کرتا ہے اور اپنے نزدیک تو اس کو توحید سمجھتا  
ہے تو باطل پر ہے اور اس کی صحت کا اعتقاد رکھتا ہے  
تیرے پاس کھوٹ ہے اور تیرے اعتقاد میں وہ جو ہر  
میرا مشغلہ نیرے ساتھ اسی ہے کہ میں تجھے جھوٹ سے  
رکوں اور سچ کا حکم دوں اور میرے ہاتھ میں تین کسوطیاں  
ہیں جن سے میں قرآن و حدیث اور اپنے قلب کی شناخت  
کرتا ہوں اخیر کسوٹی میں تمام شکلیں ظاہر و منکشف ہو جاتی ہیں  
قلب اس مرتبہ پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ  
کتاب و سنت پر حقیقہً عامل نہ بن جائے علم پر عمل علم کا تاج  
ہے۔ علم کا نور صفائی باطن کی صفائی ہے جو ہر کا جو ہر  
مغز کا مغز ہے علم پر عمل قلب کو درست کر دیتا ہے۔  
اور پاک بنا دیتا ہے پس جب قلب صحیح ہو جاتا ہے  
تمام اعضا صحیح ہو جاتے ہیں جب قلب پاک ہو جاتا ہے  
تمام اعضا پاک ہو جاتے ہیں جب قلب پر خلعت  
پہنایا جاتا ہے۔

جسم کو خلعت پہنایا جاتا ہے جب مضغہ گوشت صالح ہو جاتا ہے  
تمام بدن صالح ہو جاتا ہے قلب کی صحت و درستی اور مردانہ  
کی درستی کا باعث بن جاتی ہے کہ درمیان آدمی اور اس  
کے رب کے ہے ہر ایک پرند ہے اور قلب اس کا  
پنجرہ قلب ایک پرند ہے اور جسم اس کا پنجرہ۔ اور جسم  
ایک پرند ہے اور قلب اس کا پنجرہ اور قبر مملوک کا ایک  
ایسا پنجرہ ہے جس میں بغیر داخل ہوئے چارہ نہیں۔

## بیالیسویں مجلس

## الْمَجْلِسُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

وعظ، تقویٰ، توکل اور وثوق الی اللہ کے بیان میں

۱۹ رجب ۱۲۵۵ھ کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں  
ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق  
آپ نے فرمایا جو اس بات کو دوست رکھے کہ وہ سب آدمیوں  
سے زیادہ مکرم ہو پس اس کو اللہ عزوجل سے تقویٰ اختیار کرنا  
چاہیے اور جو کوئی اس بات کو دوست رکھے کہ وہ سب  
آدمیوں سے زیادہ قوی تر ہو جائے پس اس کو اللہ عزوجل پر  
بھروسہ کرنا چاہیے اور جو کوئی اس بات کو دوست رکھے کہ وہ  
سب آدمیوں سے زیادہ غنی ہو جائے پس وہ اپنی مقبوضہ چیزوں  
کی نسبت ان چیزوں پر جو خدا کے قبضہ میں ہیں زیادہ تر بھروسہ  
کرنے والا ہونا چاہیے جو کوئی دنیا و آخرت کی کرامت و  
بزرگی چاہے پس اس کو اللہ عزوجل سے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے  
کیونکہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق تم میں سے اللہ کے  
نزدیک زیادہ کرامت والا وہ ہے جو کہ خدا کے نزدیک سب  
زیادہ تقویٰ والا ہے کرامت اللہ کے تقوالے میں ہے اور ذلت و روائی  
خدا کی معصیت میں اور جو کوئی دین الہی میں قوت چاہے پس اس کو  
چاہیے کہ وہ خدا پر بھروسہ توکل کرے کیونکہ توکل قلب کو دوست رکھنا  
ہے اور قوی و مہذب بنا دیتا ہے اور اسے عجائبات کا مشاہدہ کراتا ہے اور  
اپنے درم و دنیا اور اسباب پر بھروسہ نہ کرے کیونکہ ایسا کہ ناخجہ کو عاجز و ضعیف  
بنادیکھا اور اللہ عزوجل پر بھروسہ کر پس تحقیق و تحقیق قوی کرے گا اور نیرنگی مدد دے گا

وَقَالَ رَبِّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُكْرَةً فِي الْمُدْرَسَةِ ثَلَاثَةَ  
عَشَرَ رَجَبَ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّكَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ  
النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ  
أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ  
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَعْنَى النَّاسِ  
فَلْيَكُنْ وَائْتَعَا بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ  
عَلَى مَا فِي يَدِهِ مَنْ أَحَبَّ الْكِرَامَةَ  
وَالْغِنَى وَالْآخِرَةَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
رَأَيْتُهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ هُ الْكِرَامَةُ فِي تَقْوَاهُ  
وَالْمُكَانَةُ فِي مَعْصِيَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ  
الْقُوَّةَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ يَهْدِي  
الْقَلْبَ وَيَقْوِيهِ وَيَهْدِي بِهِ  
وَيُرِيهِ الْعَجَائِبَ لَا تَشْكَلُ عَلَى دَرْهِيكَ  
وَلَا دِينَارَكَ وَآسْبَابَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ  
يُعْجِزُكَ وَيُضْعِفُكَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَقْوِيكَ وَيُعِينُكَ

اور تجھ پر لطف کرے گا اور جہاں سے گناہ بھی نہیں تیرے لیے  
فتح باب فرمائے گا تیرے قلب کو مضبوط کرنے کا تو دنیا کے آنے  
جانے مخلوق کی توجہ اور بے رخی کی کچھ پروا نہ کرے گا۔ اور جب تو اپنے  
مال و جاہ اور اہل و اسباب پر بھروسہ کرنے لگے گا پس بلا شک تو  
غضب الہی اور ان چیزوں کے زوال کا نشانہ بن جائے گا کیونکہ  
اللہ تعالیٰ نہایت غیرت والا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کرے  
گا کہ وہ تیرے قلب میں غیر اللہ کو دیکھے اور جو شخص دنیا و آخرت  
دونوں میں امیر بننا چاہے پس اس کو اللہ عزوجل سے ڈرنا چاہیے  
غیر اللہ سے اور اسے اللہ کے دروازہ پر کھڑا ہونا چاہیے اور  
اس بات سے جیسا کہ وہ غیر اللہ کے دروازہ پر جائے اور اپنی دولت  
آنکھوں کو غیر اللہ کی طرف نظر ڈالنے سے بند کرنا چاہیے  
میری مراد ان آنکھوں سے قلب کی آنکھیں ہیں نہ کہ بدن  
کی آنکھیں تو اپنے مقبوضہ اشیاء پر کیوں کر بھروسہ  
کرتا ہے مالائم وہ معرض زوال میں ہیں اور خدا پر  
بھروسہ کو چھوڑتا ہے مالائم اُسے کبھی زوال نہ ہو گا۔  
تیرا جمل خدا کے ساتھ تجھے غیر اللہ پر بھروسہ کرنے  
پر برا بیگنہ کر رہا ہے خدا پر تیرا پورا بھروسہ کامل  
تو نہ کر ہی ہے اور تیرا بھروسہ اس کے غیر پر تمام تر  
محتاجی اسے تقویٰ و پرہیزگاری کے چھوڑنے والے  
تو دونوں جہاں میں بزرگی و کرامت سے محروم کر دیا۔  
گیا اور اسے خلق و اسباب پر بھروسہ کرنے والے تو دونوں  
جہاں میں حق تعالیٰ کی قوت و بھروسہ سے محروم  
کر دیا گیا اور اسے اپنی مقبوضہ چیزوں پر بھروسہ  
کرنے والے تو دونوں جہاں میں حق تعالیٰ  
کے ساتھ تو نہ کر ہی سے محروم کر دیا گیا۔

وَيَلْطِفُ بِكَ وَيَقْتَرِبُ لَكَ مِنْ حَيْثُ  
لَا تَحْتَسِبُ يَقْوَىٰ قَلْبِكَ وَلَا تَنْبَإِي  
يَبْجِيءُ الدُّنْيَا وَذَهَابَهَا يَا قَبَالَ الْحَقِّ  
وَإِذَا بَايَرَهُمْ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ أَصْوَى  
النَّاسِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ عَلَىٰ مَالِكَ وَ  
جَاهِكَ وَأَهْلِكَ وَأَسْبَابِكَ فَتَدُ  
تَعَرَّضْتَ لِمَقْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
لِزَوَالِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّهُ عَيُّوهُ  
لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ فِي قَلْبِكَ غَيْرَهُ وَ  
مَنْ أَحَبَّ الْغِنَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِهِ وَلْيَقِفْ  
عَلَىٰ بَايِهِ وَيَسْتَعِجْ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَ بَابَ  
غَيْرِهِ وَيُعْصِ عَيْنِيهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ  
غَيْرِهِ أَعْيَىٰ عَيْنِي الْقَلْبَ لَا عَيْنِي  
الْقَالِبَ كَيْفَ تَشَقُّ بِمَا فِي يَدَيْكَ وَ  
هُوَ مُعْرِضٌ لِلزَّوَالِ وَتَتَرُكُ الشَّقَّةَ  
بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لَا يَزُولُ جَهْلَكَ  
بِهِ يَحْمِلُكَ عَلَى الشَّقَّةِ بِغَيْرِهِ تَقْتَتِكَ  
بِهِ كُلُّ الْغِنَىٰ تَقْتَتِكَ بِغَيْرِهِ كُلُّ الْفَقْرِ  
يَأْتِيكَ الْقَوَىٰ قَدْ حُرِمْتَ الْكَرَامَةَ  
دُنْيَا وَآخِرَةً وَيَا مَتَوَكِّلًا عَلَى الْخَلْقِ  
وَالْأَسْبَابِ قَدْ حُرِمْتَ الْقُوَّةَ وَ  
الشَّقَّةَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُنْيَا وَآخِرَةً  
وَيَا وَاتَّقَا بِمَا فِي يَدَيْهِ قَدْ حُرِمْتَ  
الْغِنَىٰ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُنْيَا وَآخِرَةً۔

يَا غَلَامُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مُتَّقِيًا مُتَوَكِّلًا وَاثِقًا فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ إِذَا صَحَّتْ لَكَ النَّيَّةُ فِي الصَّبْرِ فَصَبْرُكَ يُوَجِّهُ إِلَيْهِ عَمَّا وَجَلَ كَانَ جَزَاءُكَ لَكَ أَنْ يَدْخُلَ قَلْبُكَ حُبَّهُ وَقُرْبُهُ دُنْيَا وَآخِرَى الصَّبْرِ مُوَافَقَةُ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ فِي قَضَائِهِ وَقَدْ رَدَّ الَّذِي سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِمَّنْ خَلَقَهُ عَلَى مَحْوِهِ تَبَّتْ هَذَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَقِّنِ فَصَبْرٌ عَلَى مَا قَدَّمَ عَلَيْهِ اخْتِيَارًا إِلَّا اضْطِرَّ إِلَّا الصَّبْرُ فِي أَوَّلِ قَدَمٍ اضْطَرَّ وَفِي ثَانِي قَدَمٍ اخْتِيَارًا كَيْفَ تَدْعِي إِلَيْنَا وَلَا صَبْرَ لَكَ كَيْفَ تَدْعِي الْمَعْرِفَةَ وَلَا رِضًا لَكَ هَذَا أَمْرٌ لَا يَجِيءُ بِمَجَرَّدِ الدَّعْوَى لَا كَلَامٍ حَتَّى تَرَى الْبَابَ وَتَتَوَسَّكَ بِالْعَتَبَةِ وَتَصْبِرَ عَلَى دُوسِ أَقْدَامِ الْقَدَمِ وَأَقْدَامِ الصَّبْرِ وَالْفَتْحِ يَدُوسُ جَسَدَ قَلْبِكَ لَا جَسَدَ قَلْبِكَ وَأَنْتَ فِي مَكَانِكَ لَا تَبْرَحُ كَمَا تَكُ مَبْرَحُ كَمَا تَكُ جَسَدُ بِلَا وَجْهِ هَذَا الْأَمْرُ يَحْتَاجُ إِلَى سُكُونٍ بِلَا حَرَكَةٍ وَخُمُولٍ بِلَا ذِكْرِ غَيْبَةٍ عَنِ الْخَلْقِ بِلَا حُضُورٍ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ الْقَلْبُ وَالْبَاطِنُ وَالْمَعْنَى مَا أَكْثَرَ مَا أَصِفُ وَلَا

اسے غلام اگر توفیقی متوکل خدا پر بھر دوسرے رکھنے والا بننا چاہتا ہے پس تو صبر کو لازم پکڑ کیوں کہ صبر ہر بھلائی کی بنیاد ہے جب تیری نیت صبر میں درست ہو جائے گی اور تو جو جبر اللہ صبر کرے گا پس تیری اس صبر کی جزا یہ ہوگی کہ تیرے قلب میں محبت و قرب الہی دونوں جہاں دنیا و آخرت میں داخل ہو جائے گی۔ صبر اللہ عزوجل کی اس قضا و قدر کے ساتھ موافقت کرنے کا نام ہے جس کے متعلق علم الہی سابق ہو چکا ہے اور کوئی مخلوق الہی میں سے اس کے محو کرنے پر قادر نہیں۔ ایمان دار یقین کرنے والے کے نزدیک یہ امر متفق ہو گیا پس اس نے مقدرات پر با اختیار خود صبر کر لیا نہ کہ مجبوراً کیوں کہ صبر اول قدم شروع حالت میں مجبور ہی ہوتا ہے اور دوسرے قدم میں بحالت اختیار۔ تو ایمان کا بغیر صبر کے کیسے دعوائے کرتا ہے تو معرفت کا بغیر رضا الہی کے کیسے دعویٰ بن گیا ہے یہ چیز محض دعوائی ہی دعوائے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے تیرا کلام اس وقت تک معتبر نہیں کہ تو جب تک خدا کے دروازہ کو نہ دیکھ لے اور اس کے آستانہ پر نہ سر نہ رکھ دے۔ اور تقدیر کے تدبیر کے روندنے پر صابر نہ بن جائے اور مغفرت و منفعت کے قدم تیرے قلب کے جسم کو روند ڈالیں کہ تیرے بدن کی کھال کو اور نواچی جلا پر ڈھٹا رہے گویا کہ تو ایک مست و موالا ہے گویا کہ تو بغیر روح کا جسم ہے۔ یہ امر ایسے سکون کا خنجر ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو ایسی گم نامی کا محتاج ہے۔ جس کا ذکر نہ ہو اور قلب و باطن سرور معنی کی حیثیت سے ایسی غیبت کا محتاج جس میں خلق کے ساتھ مطلقاً حضور موجودگی نہ ہو میں تم سے بہت کچھ کہتا سنتا ہوں اور تم اس پر عامل نہیں ہوتے میری بتائی

تَسْتَعْمِلُونَ مَا أَكْثَرَ مَا أَطْوَلَ وَ  
 أَعْرَضَ وَ شَرَحَ وَلَا تَفْهَمُونَ مَا أَكْثَرَ  
 مَا أُعْطِيَكُمْ وَلَا تَأْخُذُونَ مَا أَكْثَرَ  
 مَا أَعْطَاكُمْ وَلَا تَتَعَطَّوْنَ مَا أَقْسَى  
 قُلُوبِكُمْ وَمَا أَجْهَلُهَا بِرَبِّهَا عَزَّ وَ  
 جَلَّ كَوْنَكُمْ تَعْرِفُونَهُ وَتُؤْمِنُونَ  
 بِلِقَائِهِ وَتَذْكُرُونَ الْمَوْتَ وَمَا  
 وَرَاءَهُ كَمَا كُنْتُمْ كَذَلِكَ أَمَا شَهِدْتُمْ  
 مَوْتَ آبَائِكُمْ وَأَقْرَبَائِكُمْ وَأَهْلَائِكُمْ  
 أَمَا شَهِدْتُمْ مَوْتَ مُلُوكِكُمْ فَهَلَّا  
 اتَّعَظْتُمْ بِهِمْ وَزَجَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ عَنْ  
 طَلَبِ الدُّنْيَا وَحَيْثُ الْبَقَاءِ فِيهَا هَلَّا  
 غَيَّرْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَبَدَّلْتُمْوهَا وَأَخْرَجْتُمْ  
 الْخُلُقَ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ  
 اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يَتَوَمَّرُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا  
 بِأَنْفُسِهِمْ تَقُولُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ وَكُمْ  
 تَعْمَلُونَ وَلَا تُخْلِصُونَ كُوفُوا عَقْلَاءَ  
 وَلَا تُسَيِّئُوا أَدَبَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ تَأَيَّدُوا وَتَحَقَّقُوا أَيْنَبُوا  
 وَتَفَكَّرُوا هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ لَا  
 يَنْفَعُكُمْ فِي الْآخِرَةِ أَنْتُمْ بَخْلَاءُ عَلَى  
 أَنْفُسِكُمْ كَوْنَكُمْ مُتَمَّ عَلَيْهِمُ الْحَصَلَةُ  
 لَهَا مَا يَنْفَعُهَا فِي الْآخِرَةِ أَنْتُمْ اسْتَغْلَمْتُمْ  
 بِهَا يَزُولُ وَقَاتِكُمْ مَا لَا يَزُولُ لَا  
 تَسْتَغْلُوا بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاجِ

دوا کا استعمال نہیں کرتے بہت کچھ لمبی چوڑی شرح کے ساتھ  
 کلام کرتا ہوں لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے بہت کچھ دینا چاہتا  
 ہوں لیکن تم نہیں لیتے تم کو بہت کچھ نصیحت کرتا ہوں لیکن تم  
 نصیحت قبول نہیں کرتے کس چیز نے تمہارے دلوں کو سخت  
 بنا دیا اور اس کو اس کے پروردگار سے جاہل بنا دیا کس قدر  
 سخت دل اور جاہل ہو اگر تم خدا کو پہچانتے ہو تو اس  
 سے ملاقات پر تمہارا ایمان ہو تا اور تم موت کو اور اس کے  
 مابعد کو جو کہ بعد موت سے یقینی طور سے ہونے والا ہے یاد  
 کرتے تو البتہ تم ایسے نہ ہوتے کیا تم نے اپنے ماں و  
 باپ اہل و عیال کی موت کا مشاہدہ نہ کیا کیا تم اپنے ماکوں  
 بادشاہوں کی موت میں حاضر نہ ہوئے پھر تم نے ان  
 سے نصیحت کیوں نہ کی اور اپنے نفسوں کو دنیا لمبی اور  
 ہمیشہ دنیا میں ٹھہرنے کی محبت سے کیوں نہ جھڑکا تم نے  
 اپنی قلوب کی حالتوں کو کیوں نہ پلٹا اور ان میں کیوں تبدیلی  
 نہ کی اور اپنے قلوب سے خلق کو کیوں باہر نہ کر دیا اللہ عزوجل نے  
 ارشاد فرمایا ہے تَحَقَّقُوا كَمَا تَقُولُونَ كَيْ تَعْلَمُوا كَيْ تَعْمَلُوا  
 کو بدل دیں تم تو کہتے ہو سگو کرتے نہیں اور بسا اوقات کرتے  
 بھی ہو لیکن تمہارا عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے عقل مند  
 بنو۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گستاخ نہ بنو ادب کے ساتھ ہو  
 مدد چاہو مستعد رہو بجا نچ کرو اور ذنابات قدم رہو اور غور سے کلام  
 لوحس حالت میں کہ تم مشغول ہو یہ تم کو آخرت میں نفع دے  
 گی تم تو اپنے نفسوں کے لیے بھی بخیل بنے ہوئے ہو اگر تم  
 اپنے نفسوں پر سخاوت کرتے تو ضرور ان کے لیے آخرت  
 کے منافع حاصل کر لیتے تم زائل ہونے والی چیزوں کے  
 ساتھ مشغول ہو اور جس کو زوال نہیں وہ تم سے فوت ہو گئی تم مال بینی

وَالْأَوْلَادَ فَعَنْ قَرِيبٍ يُحَالُ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَ جَمِيعِ ذَلِكَ لَا تَشْتَعِلُوا بِطَلَبِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالْخَلْقِ فَإِنَّهُمْ لَا  
يُعْنُونَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَلْبُكَ  
نَجَسٌ بِالشِّرْكِ شَاكٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَنْهُمْ لَمْ يَمُتْ مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ  
أَحْوَالِكَ فَلَمَّا عَلِمَ مِنْكَ ذَلِكَ بَعْضَكَ  
وَأَلْقَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّارِحِينَ  
بَعْضَكَ كَانَ بَعْضَكَ رَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْهِ  
لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا مُعْصِبٌ  
الْعَيْنَيْنِ يَقُودُهُ ابْنُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي  
ذَلِكَ فَقَالَ حَتَّى لَا أَبْصُرَ كَافِرًا يَا اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ فَنَقَى بَعْضُ الْإِيمَانِ خَرَجَ مِنْ  
بَيْتِهِ مَحْلُولُ الْعَيْنَيْنِ فَذَا فِي فَوْقَهُ  
مَعْرِشًا عَلَيْهِ مَا أَشَدَّ مَا كَانَتْ غَيْرُهُ  
يَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ تَعْبُدُ غَيْرَهُ وَتُشْرِكُ  
بِهِ كَيْفَ تَأْكُلُ نِعْمَتَهُ وَتَكْفُرُ بِهِ وَ  
أَنْتُمْ لَا تُحْسِنُونَ بِذَلِكَ بَلْ تَوَاصَلُونَ  
الْكُفْرَ وَتَقْعُدُونَ مَعَهُمْ لِأَنَّ مَا فِي  
قُلُوبِكُمْ إِيْمَانٌ وَلَا غَيْرُهُ لِلْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ عَلَيْكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ  
وَالْحَيَاءِ مِنْهُ اخْلَعُوا رِثْيَابَ الْوَقَاحَةِ  
عَلَيْهِ وَالتَّجَرُّى بَيْنَ يَدَيْهِ تَجَنَّبُوا  
حَرَامَ الدُّنْيَا وَشَبَّهَا تَهَا شَمَّ تَجَنَّبُوا  
مُبَاحَاتَهَا يَهْوَى وَشَهْوَةً لِأَنَّ تَنَاوَلَكُمْ

بچوں کے جمع کرنے میں مشغول نہ ہو پس عنقریب تمہارے  
اور ان سب کے درمیان میں آڑ ڈال دی جائے گی تم  
دنیا طلبی اور مخلوق سے عزت چاہنے میں مشغول مت ہو  
پس یہ تحقیق یہ تم کو اللہ سے کچھ بھی بے پروا نہ کر سکیں گے اور  
کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ نیز اقلب شرک سے جس ہے اور  
اللہ عزوجل کے بارے میں شک کرنے والا اس کو تہمت لگانے  
والا اس پر اپنی تمام حالتوں میں اعتراض کرنے والا ہے پس  
جب حق عزوجل نے تیری اس حالت کو جان لیا تجھے اپنا  
دشمن سمجھا اور اپنے نیک بندوں کے قلوب میں تیری عداوت  
ڈال دی۔ ایک بزرگ سے مروی ہے کہ جب وہ اپنے  
گھر سے نکلتے تھے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے تھے اُن کا  
لڑکا ان کا ہاتھ چڑے چلتا تھا ان سے اس کی وجہ دریافت  
کی گئی پس جواب دیا یہ حالت یوں پسند ہے تاکہ اللہ عزوجل  
کے ساتھ کفر کرنے والے کو نہ دیکھوں پس ایک دن وہ آنکھوں  
کھولے گھر سے باہر نکل آئے ایک کافر پر نگاہ پڑ گئی  
پس وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سبحان اللہ اللہ عزوجل  
کے واسطے ان کی کیسی غیرت تھی تو غیر خدا کی کیسی پریش  
کرتا ہے اور خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے کیسے اس کی  
نعمت کھاتا ہے اور ناشکر بنا ہوا ہے تم اسے محسوس بھی  
نہیں کرنے بلکہ تم تو کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو  
اس لیے کہ نہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور نہ اللہ عزوجل  
غیرت۔ تو توبہ واستغفار اور اللہ عزوجل سے جفا و غیرت کو لازم پکڑو۔ اس کے  
رد و روپے شرمی اور حجرات کے لباس کو اتار چھینو، دنیا کی  
حرام چیزوں اور شبہات سے بچو۔ پھر دنیا کی مباح چیزوں سے  
بھی جو کہ خواہش و شہوت کے ساتھ حاصل ہوں بچو۔ کیونکہ مباحات کا

يَا هَوَىٰ وَالشَّهْوَةَ يَشْغُلُكُمْ عَنِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الدُّنْيَا سَجُنُ الْمُؤْمِنِ كَيْفَ يَنْزِلُ الْمَسْجُونُ  
فِي سَجْنِهِ مَا يَفْرَهُ وَلَكِنْ يَشْرُهُ فِي  
وَجْهِهِ وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ يَشْرُهُ عَلَى  
ظَاهِرِهِ وَالْأَفَاتُ تَقْطَعُهُ مِنْ حَيْثُ  
بَاطِنُهُ وَخَلَوَاتِهِ وَمَعْنَاهُ وَجَرَاحَاتُهُ  
مُعَصِبَةٌ مَنْ تَحَبَّ ثِيَابَهُ يَغْطِي  
جَرَاحَاتِهِ بِقَبِيضٍ تَبْسِيْمُهُ وَلِهَذَا  
يُبَاهِي بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ  
يُؤْبَى إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ  
هُوَلاءِ شَجَاعٍ فِي دَوْلَةِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَيَسِرُّهُ مَا ذُلُّوا يَصِيرُونَ مَعَهُ  
وَيَتَجَرَّعُونَ مَرَامَةَ أَقْدَامِهِ حَتَّى  
أَحْبَبَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الصَّابِرِينَ هَ إِثْمَا يَبْتَلِيكَ لِحَبِّهِ لَكَ  
كَلِمَاتٌ امْتَثَلْتَ أَوْ امْرُءٌ وَأَنْتَ هَيْبَتٌ عَنْ  
تَوَاهِيهِ أَزْدَدْتَ حُبًّا وَكَلِمَاتٌ صَبْرَتْ عَلَى  
بَلَاءِهِ أَزْدَدَتْ قُرْبًا مِنْهُ عَنْ بَعْضِهِمْ  
نَحْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ أَبِي اللَّهِ أَنْ  
يُعَذِّبَ حَبِيبَهُ وَلَكِنْ يَبْتَلِيهِ وَيُصْبِرُهُ  
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ كَانَ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَانَ الْآخِرَةُ  
لَمْ تَزَلْ يَا طَالِبِي الدُّنْيَا يَا هُجِي الدُّنْيَا  
تَقْدَمُوا إِلَى حَتَّى أَسْمِعَكُمْ عُيُوبَهَا وَأَذَلَّكُمْ

خواہش و شہوت کے ساتھ حاصل کرنا تم کو حق عزوجل سے غافل  
بنائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا مسلمان  
کے لیے قید خانہ ہے قیدی اپنے قید خانہ میں کیونکر خوش ہو سکتا ہے  
کبھی بھی خوش نہ ہو گا لیکن خوشی صرف اس کے چہرہ پر نمایاں ہو  
گی اور غم و حزن اس کے قلب میں۔ اس کے ظاہر پر خوشی ہوگی اور  
افقین باطن اور خلوت و معنی کے اعتبار سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے  
کرتی ہوں گی۔ اس کے زخموں پر کپڑوں کے نیچے سے پٹیاں  
بندھی ہوئی ہیں وہ اپنے زخموں کو اپنی سکرابٹ کے کتر سے  
ڈھانپنے ہوئے رکھتا ہے کہ کوئی اس کے اصل حال سے واقف  
نہ ہو جائے اسی وجہ سے اس کا رب عزوجل اپنے فرشتوں پر اس کے ساتھ  
فخر فرماتا ہے۔ اس بندہ کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے  
ہیں ان میں سے ہر ایک دین الہی کی دولت کا اور اس کے اسرار  
کا بہادر ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی  
تقدیر کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے چکھتے رہتے ہیں  
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ اللہ عزوجل نے  
ارشاد فرمایا ہے اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وہ محبت  
کے جانچنے کے لیے بھی تیرا امتحان لیتا ہے جب اور جس قدر  
تو اس کے حکموں کو بجالائے گا اور اس کے منہیات سے باز  
رہے گا اس کی محبت کو بڑھائے گا اور جب جس قدر تو اس  
کی بلا پر صبر کرے گا اس کے ساتھ قرب زیادہ کرے گا بعض اولیاء اللہ  
سے مروی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عذاب دینے  
سے انکار کرتا ہے اور لیکن اس کو بلا میں مبتلا کرتا ہے اور توفیق  
صبر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے گویا دنیا ہے ہی  
نہیں اور گویا کہ آخرت ہمیشہ سے ہے اسے دنیا کے طلب گاروں نے  
دنیا کے دوست داروں کی میری طرف بڑھو تاکہ میں تم کو دنیا کے عیب ظاہر کروں

اور حق عزوجل کا راستہ دکھا دوں اور ان لوگوں کے ساتھ تم کو ملا دوں جو ذات الہی کے طلب گار ہیں تم تو سراپا ہوس بنے ہوئے ہو میرے کلام کو سنو اور عمل کرو۔ اور عمل باخلاص کرو جب تم میرے کہنے پر عمل کرو گے اور عمل ہی پر مبادا کرو گے تم اعلیٰ علیین کی طرف بلند مرتبوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے پس جب وہاں نظر ڈالو گے میرے کلام کی اصل و حقیقت کو پہچان کر میرے لیے دعا کرو گے اور جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اس کی اصل حقیقت معلوم کر لو گے۔

اے قوم تم اپنے دلوں سے میرے اوپر تہمت لگاؤ دور کر دو میں کھیل کود کرنے والا اور طالب دنیا نہیں ہوں میں تو جو کچھ بھی کہتا ہوں سچ ہی کہتا ہوں اور سچ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں میں اپنی مدت العمر صلوات کے ساتھ حسن ظن کرتا رہا اور ان کا خادم بنا رہا اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے نفع دے رہی ہے میں جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور وعظ سنا تا ہوں میں تم سے اس کی اجرت نہیں چاہتا میرے کلام و وعظ کی قیمت محض اس پر عمل کرنا ہے اور وہ خلوت و اخلاص کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی کے نمایاں شاخ ہے نفاق تو حیلوں اور سببوں کے منقطع ہو جانے کے وقت منقطع ہو جایا کرتا ہے ایمان و ایقان کی تربیت کی جاتی ہے اور وہی نشوونما پاتے ہیں نہ کہ نفس اور خواہشوں کی جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ ایمان دار ہی پر کیا جاتا ہے نہ کہ منافق پر

اے قوم تم جھوٹی ہوسوں کو قطعاً چھوڑ دو اور ذکر الہی جل مجدہ میں مشغول ہو جاؤ نفع دینے والی چیزوں کے ساتھ کلام کرو اور ضرر رسان چیزوں سے خاموشی اختیار کرو اگر کچھ کلام کرنا چاہو

عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْحَقَكُمْ بِالَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَعْمَلُوا بِهِ وَأَخْلَصُوا بِالْعَمَلِ إِذَا عَلِمْتُمْ مَا أَقُولُ وَمُتَّمَّ عَلَى الْعَمَلِ إِلَى عِلِّيِّينَ فَتَنْظُرُونَ إِلَى هُنَاكَ فَتَرَوْنَ أَصْلَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ هُنَاكَ فَتَدْعُونَ لِي وَتُسَبِّحُونَ عَلَى تَحَقُّقِ حَقِيقَةِ مَا أَشِيرُ إِلَيْهِ.

يَا قَوْمُ أَذِيلُوا التُّهْمَةَ لِي مِنْ قُلُوبِكُمْ فَلَسْتُ بِلَغَابٍ وَلَا طَالِبِ الدُّنْيَا إِنَّمَا أَقُولُ الْحَقَّ وَأَشِيرُ إِلَى الْحَقِّ مَا بَرَأْتُ فِي عَمْرِي كَلِمَةً أَحْسَنَ الظَّنِّ فِي الصَّالِحِينَ وَأَخَذَ مِنْهُمْ وَذَلِكَ الَّذِي يُنْفَعُنِي لَا أُرِيدُ مِنْكُمْ أَجْرَةً عَلَى نُصْحِي لَكُمْ وَكُلَّ أَحَدٍ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ كُلَّ أَحَدٍ الْعَمَلُ بِهِ وَهُوَ كَلَامٌ يَصِلُهُ لِلْخَلْقِ وَالْإِحْلَاصُ النَّفَاقُ يَنْقَطِعُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحِيلِ وَالْأَسْبَابُ تَرْكِبُ الْإِيمَانُ وَالْإِيْقَانُ لَا التَّغَوُّسُ وَالْأَهْوِيَّةُ يَنْفِقُ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَا عَلَى الْمُنَافِقِ.

يَا قَوْمُ دَعُوا عَنْكُمْ الْهَوَسَاتِ وَالْأَمَانِي الْبَاطِلَةَ وَاسْتَغْلُوا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمُوا بِمَا يَنْفَعُكُمْ وَاسْكُتُوا عَمَّا يَصُرُّكُمْ أَنْ أَمَرْتُ أَنْ تَتَكَلَّمُوا

فَعَكِرَ فِيمَا تَرِيدُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَحَصَلَ  
فِيهِ النَّيَّةُ الصَّالِحَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ وَلِهَذَا  
قِيلَ لِسَانُ الْجَاهِلِ آمَامَ قَلْبِهِ وَلِسَانُ  
الْعَاقِلِ الْعَالِمِ وَرَأَى قَلْبُهُ إِخْرَسَ أَنْتَ  
فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ النُّطْقَ  
فَهُوَ يُنْطِقُكَ إِذَا أَرَادَكَ لَا مِرْهَبَ لَكَ  
لَمْ صُحْبَتُهُ خَرَسَ كُلُّي فَنَإِذَا تَمَّ  
الْخَرَسُ يَجِيءُ النُّطْقُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ  
أَوْ يُدِيئُكَ ذَلِكَ إِلَى حَيْثُ الْإِتِّصَالِ  
يَا لِحَرَّةٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ  
لِسَانُهُ يَكَلُّ لِسَانُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ  
عَلَى إِلَّا عَتَرَ اِرْضَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنَ  
الْأَشْيَاءِ يَصِيرُ مَوْافِقَةً بِلَا مُنَادَعَةٍ  
يَعْبِي عَيْنِي قَلْبُهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ  
يَتَمَرَّقُ سِرًّا وَيَتَلَا شَيْءَ أَمْرَةٍ وَيَتَفَرَّقُ  
مَالُهُ وَيَخْرُجُ مِنْ وُجُودِهِ وَيَخْرُجُ مِنْ  
الْعُيُونِ وَآخِرَتِهِ يَذْهَبُ اسْمُهُ وَرَسْمُهُ  
ثُمَّ إِذَا انْشَاءً أَنْشَرَهُ يُوجِدُهُ بَعْدَ الْفَقْدِ  
يُعِيدُهُ خَلْقًا آخَرَ يُعِيدُهُ بِيَدِ الْفَنَاءِ ثُمَّ  
يُعِيدُهُ بِيَدِ الْبَقَاءِ لِيُطْلَبَ الْبَقَاءُ ثُمَّ  
يُعِيدُهُ لِيُذْعَوُ الْخَلْقُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى  
الْغِنَى الْغِنَى هُوَ الْغِنَى يَا لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

عہ اول حالت بدل جاتی ہے ثانی فی اللہ ہو کر مرتبہ بقا میں آجاتا ہے ماشا اللہ اس کا مطلب تنازع وادوا کوئی نہیں ہے وہ تو محض ایک  
باطل شرکیہ عقیدہ ہے ۱۱ اتا درمی عطر۔

تو اولاً اس میں غور و فکر کر لیا کرو اور اس میں ایک نیتی قائم کر لیا کرو زبان  
بعد کلام کیا کرو اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے قلب کے  
آگے ہے اور عاقل عالم کی زبان اس کے قلب کے پیچھے۔ تو گونا گوں جا  
پس اگر اللہ عزوجل تیرا بولنا چاہے گا پس وہ تجھے گویا کرے گا اور  
جب وہ تجھ سے کوئی کام کرنا چاہے گا تو وہ اس امر کو تیرے  
لیے ہمیا کر دے گا معیت و مصاحبت الہی میں کیونکہ گونا گوں لازم ہے  
پس جب گونا گوں پورا ہو جائے گا اس وقت اگر وہ چاہے گا اس کی طرف سے  
گویائی آجائے گی اور اگر اس کو تیرا گویا کرنا مقصود نہ ہوگا تو آخرت کے لئے تک وہ  
تجھے گونا گوں گے گا اور یہی معنی ہیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ  
جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر  
اعتراض کرنے سے ہر شے میں اس کی ظاہر و باطن کی زبان بند ہو جاتی ہے  
وہ سراپا معرفت بن جاتا ہے منازل و مقامات کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا  
ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے۔ نیز اللہ کی طرف نظر کرنے سے اس کی قلب کی  
دونوں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اس کا سر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور اس کے  
معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں اس کا مال پرانگندہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے  
وجود سے باہر ہو کر دنیا و آخرت دونوں سے باہر ہو جاتا ہے اس کا نام و  
نشان چلا جاتا ہے بعدہ جب منظور الہی ہوتا ہے پھر وہ اس کو زندہ کر دیتا  
مفقود ہو جانے کے بعد دوسرے جنم میں اس کو موجود کر دیتا ہے فنا کے ہاتھ سے  
اس کو فنا کر کے دوبارہ تھار کے ہاتھ سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تاکہ وہ طالب بقا الہی  
ہو جائے پھر اس کو مخلوق کی طرف واپس کر دیتا ہے تاکہ وہ مخلوق کو محتاجی سے  
نکال کر امیری و غنا کی طرف بلائے حقیقہ غنا حق تعالیٰ کی ذات سے متصل  
ہونے کا نام ہے اور اللہ عزوجل سے دوری اور غیر اللہ سے غنا طلب کرنا  
فقر و محتاجی ہے غنی و ترنگو وہ ہے جس کا قلب قرب الہی سے  
ایک

وَالْإِصْصَالُ بِهِ وَالْفَقْرُ هُوَ الْبُعْدُ عَنِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِغَيْرِهِ الْغِنَى  
مَنْ ظَهَرَ قَلْبُهُ بِقُرْبِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَالْفَقِيرُ مَنْ عَدَمَ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ هَذَا  
الْغِنَى فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَمَا  
فِيهَا وَمَا سِوَاهَا فِي الْجُمْلَةِ يُخْرِجُ الْأَشْيَاءَ  
مِنْ قَلْبِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا لَا تَقْتَدِرُ وَإِذَا  
الْيَسِيرُ الْمَوْجُودُ عِنْدَكُمْ إِنَّمَا جَعَلَ  
هَذَا الْيَسِيرَ الَّذِي عِنْدَكُمْ مَرَادًا  
فَتَزَوَّدُونَ بِهِ فِي طَرِيقِ الْيَسِيرِ إِلَيْهَا  
جَعَلَ لَكُمْ النِّعَمَ لِتُضَيِّقُوهَا إِلَيْهِ وَ  
تَسْتَدْتُوا بِهَا عَلَيْهِ وَجَعَلَ لَكُمْ الْعِلْمَ  
لِتَعْلَمُوا بِهِ وَتَهْتَدُوا بِأَنْبُورِهِ اللَّهُمَّ  
اهْدِ قُلُوبَنَا إِلَيْكَ وَائْتِنَا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّكَارِ

فتح یاب ہوا اور فقیر و محتاج وہ جو قرب الہی کے دروازہ  
سے دور پڑا جو کوئی اس غنا کا طالب ہو اس کو دنیا و  
آخرت اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا اور اسوی اللہ  
کا سب کا چھوڑ دینا لازم ہے وہ تمام چیزوں کو ایک  
ایک کر کے اپنے قلب سے نکال دے۔ جو قلیل  
چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اس کے پابند نہ بنو۔  
یہ موجودات جو تمہارے پاس ہیں اس کو تو اللہ نے  
تمہارے لیے زاد راہ بنا دیا ہے تاکہ تم اس کو اس  
کے راستہ کے چلنے میں اپنا ترشہ بناؤ اس نے اپنی  
نعمتیں تم کو اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان نعمتوں کو خدا کی  
طرف نسبت کرو اور ان سے وجود الہی پر استدلال  
کرو اور تمہیں علم اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم اس علم  
پر عمل کرو اور نور علم سے ہدایت لو۔ اے اللہ تعالیٰ تو  
ہمارے قلوب کو اپنا راستہ بتا دے اور ہم کو دنیا و آخرت  
میں نہ کوئی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے  
بچاؤ آمین۔

## المجلس الثالث والاربعون

## تینتا لیسویں مجلس

### فلاح و نجات حاصل کرنے کے بیان میں

اتوار کے دن ۲۱ رجب ۱۲۵۵ھ کو صبح کے وقت  
خاتماہ شریفیت میں ارشاد فرمایا :  
اے غلام جب تو فلاح و نجات کا قصد کرے پس تو  
موافقت الہی میں اپنے نفس کی مخالفت کر اور طاعت الہی

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْاِحْدَى بُكْرَةً فِي الْيَاثِ  
حَادِي عَشَرَ شَهْرَ رَجَبِ سَنَةِ ثَمْنِينَ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِ  
يَا غُلَامُ إِذَا أَرَدْتَ الْفَلَاحَ فَخَالَفْ  
نَفْسَكَ فِي مُوَافَقَةِ دِيكَ عَزَّ وَجَلَّ وَ

وَاقْفُهَا فِي طَاعَتِهِ وَخَالِقُهَا فِي مَعْصِيَتِهِ  
 نَفْسُكَ حَاجِبُكَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ حَاجِبُكَ عَنْ  
 مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا دُمْتَ مَعَ نَفْسِكَ لَا  
 تَعْرِفُ الْخَلْقَ وَمَا دُمْتَ مَعَ الْخَلْقِ  
 لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ مَا دُمْتَ  
 مَعَ الدُّنْيَا لَا تَعْرِفُ الْآخِرَةَ وَمَا  
 دُمْتَ مَعَ الْآخِرَةِ لَا تَرَى رَبَّ الْآخِرَةِ  
 مَالِكَ وَمَمْلُوكٍ لَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا لَا  
 تَجْتَمِعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَهَكَذَا لَا  
 تَجْتَمِعُ الْخَالِقُ وَالْمَخْلُوقُ النَّفْسُ  
 أَمَّا سَأَلُ بِالشُّعْرِ هَذِهِ حَبْلَتُهَا فَبَعْدُكُمْ  
 وَكَمْ حَقٌّ تَأْمُرُ بِمَا يُمِرُّ بِهِ الْقَلْبُ  
 جَاهِدْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَا تَحْبُجْ  
 لَهَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْهَمَّهَا فَجُودَهَا  
 وَتَقْوَاهَا ذَوْبُهَا بِالْمُجَاهَدَةِ فَإِنَّهَا  
 إِذَا أَبَتْ وَفَنَيْتَ اِطْمَأَنَّتْ إِلَى الْقَلْبِ  
 ثُمَّ يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ إِلَى السِّرِّ ثُمَّ  
 يَطْمَئِنُّ السِّرُّ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ  
 شَرْبُ الْجَمِيعِ مِنْ هُنَالِكَ إِذَا تَمَّ  
 تَذْوِيبُكَ لَهَا تَنَادَى مِنْ حَيْثُ قَلْبُكَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا إِنَّمَا يَجِيءُ هَذَا الْخَطَابُ مِنْ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ طَرَاهَا نَهَا مِنْ  
 الْأَكْدَارِ وَذَوْبِ بَابِ شَرِّهَا وَسَمِنَ  
 الْقَلْبُ بِذِكْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ

میں نفس کی موافقت اور معصیت الہی میں اس کی مخالفت  
 کر تیرا نفس مخلوق کے پہچاننے سے تیرا حجاب ہے  
 اور خلق معرفت الہی سے حجاب ہے پس جب تک  
 تو اپنے نفس کے ساتھ رہے گا تو مخلوق کو نہ پہچانے  
 گا۔ جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو حق عزوجل  
 کو نہ پہچانے گا۔ جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا  
 آخرت کو نہ دیکھے گا اور جب تک تو آخرت کے ساتھ  
 رہے گا تو رب آخرت کو نہ دیکھے گا۔ جیسے کہ دنیا و  
 آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے ویسے ہی مالک و مملوک  
 دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طور سے خالق و مخلوق  
 دونوں کا اجتماع غیر ممکن ہے۔ نفس برائی کا حکم دینے والا  
 ہے یہ اس کی جلی عادت ہی ہے پس بعد مدت  
 اصلاح پذیر ہو گا اس کی اصلاح اس وقت تک کرتا رہ  
 یہاں تک کہ وہ قلب کے موافق ہو جائے نفس سے تمام  
 حالتوں میں جہاد و مقابلہ کرتا رہے اور اس کو ارشاد الہی  
 فَالْهَمَّهَا فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا سے دلیل و محبت نہ سکھا۔ یعنی  
 اللہ نے ہر نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا البام کر دیا  
 ہے۔ نفس کو مجاہدہ کی آگ سے پگھلا دے پس تحقیق جب نفس  
 پگھل جائے گا اور فنا ہو جائے گا اس وقت وہ قلب کی طرف  
 قرار پکڑے گا پھر قلب باطن کی طرف اور باطن حق عزوجل کی  
 طرف مطمئن ہو کر قرار پکڑے گا پس اسی جگہ سے سب کی یرانی  
 ہو جائے گی جب تیرا اپنے نفس کو پگھلانا ختم ہو جائے گا اس  
 وقت جانب قلب تجھے آواز دے گی کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو بیشک تمہارا  
 خدا تم پر مہربان ہے یہ خطاب منجانب الہی جب آئے گا جبہ فانی گذرتوں سے  
 پاک کر لیا جائے گا اور شر کو دے اور قلب ذکر الہی اور کی مانتی مٹا دیا جائے گا

اِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا هَذَا فَلَا تَطْعَمَ فِي  
تَقَرُّبِهَا مَعَ كَدَرِهَا وَشَرِّهَا كَيْفَ  
يَحْصُلُ لَهَا الْقُرْبُ مِنَ الْمَلِكِ مَعَ  
عَدَمِ الظَّهَارَةِ مِنَ الْأَنْجَاسِ فَصَبِّرْ -  
أَمَلَهَا وَقَدْ أَطَاعَتْكَ إِلَى مَا تُرِيدُ  
مِنْهَا عِظْهَا بِمَوْعِظَةِ الرَّسُولِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُهُ إِذَا  
أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالنِّسَاءِ  
وَلَا إِذَا مَسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ  
بِالصَّبَاحِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ  
غَدًا أَنْتَ أَشْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِكَ  
وَقَدْ ضَيَّعَتْهَا فَكَيْفَ يُشْفِقُ عَلَيْهَا  
غَيْرُكَ وَيَحْفَظُهَا قُوَّةُ أَمْلِكَ وَحِرْمُكَ  
حَمَلًا لَكَ عَلَى تَضْيِيعِهَا إِبْهَادَ فِي تَقْصِيرِ  
الْأَمَلِ وَتَقْلِيلِ الْحَرَمِ وَذِكْرِ  
الْمَوْتِ وَمُرَاقَبَةِ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ  
وَالْتَدَاوِي بِالنِّفَاسِ الصِّدِّيقِينَ وَ  
كَلِمَاتِهِمْ وَالذِّكْرَ الصَّافِي مِنَ التَّكْذِبِ  
فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قُلْ لَهَا لَكَ مَا كَسَبَتْ  
وَعَلَيْكَ مَا اكْتَسَبْتَ أَحَدٌ مَا يَعْمَلُ  
مَعَكَ وَلَا يُعْطِيكَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا وَلَا  
يُدَّ مِنْ الْعَمَلِ وَالْمُجَاهِدَةِ صِدْقُكَ  
مَنْ تَهْلِكُ عَدُوُّكَ مِنْ أَعْوَالِكَ إِنْ  
أَرَاكَ عِنْدَ الْخَلْقِ لَا عِنْدَ الْخَالِقِ عَمَّا  
وَجَلَّ تَوَدَّى حَقَّ النَّفْسِ وَالْخَلْقِ وَ

اور جب تک اس کو یہ بات حاصل نہ ہو تو باوجود کدورت و  
خرابی نفس کے قرب الہی کی امید نہ رکھنا چاہیے کیوں کہ  
جب نفس نجاتوں سے پاک نہ ہوگا تو اس کو حضرت  
بادشاہ کا قرب کیوں کر حاصل ہو سکے گا تو نفس کی آرزو کو  
کو تباہ کر دے تو وہ تیری مرضی کے مطابق تیرا مطیع ہو  
جائے گا اسے مطابق نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم کے وعظ سنا آپ کا ارشاد مبارک ہے جب تو  
صبح کرے تو اپنے دل میں شام کے آنے کا خیال نہ کر  
اور جب تو شام کرے تو صبح کے آنے کی امید نہ رکھ  
کیوں کہ تو نہیں جانتا ہے کہ کل تیرا نامہ زندوں میں ہوگا۔ یا  
مردوں میں تو بہ نسبت غیروں کے اپنے نفس پر بہت  
زیادہ مہربان ہے حالانکہ تو نے اس کو خراب کر رکھا ہے پس  
اس پر تیرا غیر کیسے مہربان ہوگا اور اس کی حفاظت کیوں کر  
کرے گا تیری آرزو حرص کی قوت نے تجھ کو نفس کے ضائع  
کرنے پر ابھار رکھا ہے تو آرزو کے کو تباہ کرنے اور  
حرص کے کم کر دینے اور موت کے یاد کرنے اور مراقبہ  
الہی اور صدیقین کے انفاس و کلمات سے علاج کرنے اور  
ایسے ذکر میں جو کدورت سے صاف ہو رات دن  
کوشش کر۔ نفس سے کہہ دے کہ تیری نیک کمائی تیرے  
نفع کے لیے اور بری کمائی تیرے نقصان کے لیے  
ہے ذرا سوچ سمجھ کر عمل کر کوئی دوسرا تیرے ساتھ  
نہ عمل کرے گا اور نہ وہ تجھ کو اپنے عمل میں سے کچھ دے  
گا۔ عمل و مجاہدہ ضروری چیزیں ہیں تیرا دوست وہ ہے جو  
تجھے برائی سے روکے اور وہ تیرا دشمن ہے جو تجھے گمراہی  
بتائے میں تو تجھے مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں۔

تُسْقِطُ حَقَّ الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ تَشْكُرُ غَيْرُهُ  
 عَلَى نِعَمِهِ مَنْ أَعْطَاكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ  
 النِّعَمِ غَيْرُهُ حَتَّى تَشْكُرَهُ وَتَعْبُدَهُ إِنْ  
 كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَكَ مِنَ النِّعَمِ  
 مِنَ الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ فَأَيُّ شُكْرُهُ وَ  
 إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَلَقَكَ فَأَيُّ عِبَادَتِهِ  
 فِي أَمْتِنَالِ أَوَامِرِهِ وَإِئْتِهَاءِ عَنِ  
 تَوَاهِيهِ وَالصَّبْرِ عَلَى بَلَاءِهِ جَاهِدْ نَفْسَكَ  
 حَتَّى تَهْتَدِيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ  
 جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَقَالَ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَتُصَّرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ  
 وَيُخْرِجَكُمْ أَفْئِدًا مَكْمُومًا لَا تَرْجُحُصْ لَهَا  
 وَلَا تَطْعَمُهَا وَقَدْ أَفْلَحَتْ لَا تَتَبَسَّمُ  
 فِي وَجْهِهَا وَجَاوِبُهَا عَنْ كُلِّ أَلْفِ  
 كَلِمَةٍ كَلِمَةً إِلَى أَنْ تَهْتَدَبَ وَتُظْمِئَنَّ  
 وَتَقْنَعُ إِذَا طَلَبْتَ مِنْكَ الشَّهَوَاتِ  
 وَاللَّذَاتِ فَمَا طَلُمَا وَاحْجَرُهَا وَقُلْ  
 لَهَا مَوْعِدُكَ الْجَنَّةُ صَبِّرْهَا عَلَى  
 مَرَارَةِ الْمَنِيِّ حَتَّى يَجِيئَهَا الْعَطَاءُ  
 إِذَا صَبَّرَتْهَا وَصَبِرْتَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ مَعَهَا لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
 الصَّابِرِينَ لَا يَقْبَلُ لَهَا قَوْلًا فَإِنَّهَا لَا  
 تَأْمُرُ إِلَّا بِالنَّشْرِ إِنْ أَحْبَبَتْهَا وَخَالَعُهَا  
 فِيهِ خِلَافُهَا صَلَاحٌ لَهَا يَا مَنْ يَدْعُو  
 إِذَا دَاةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ وَاقِفٌ

نہ کہ خالق عزوجل کے نزدیک تو نفس و خلق کے حق کو ادا  
 کر رہا ہے اور خالق عزوجل کے حق کو نظر انداز کر رہا  
 ہے خدا کی نعمتوں پر تو غیر اللہ کا شکر گزار بنا ہوا ہے۔  
 تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تجھے کس نے دی ہیں کیا غیر اللہ  
 نے دی ہیں ہاں تو اس کا شکر کرے اور اس غیر کی عبادت  
 کرے اگر تو جانتا ہے کہ تمام موجودہ نعمتیں خدا کی طرف  
 سے ہیں پس تیرا شکر کہاں ہے اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ  
 اس نے تجھے پیدا کیا ہے پس تیری عبادت اس کے  
 حکموں کے بجالانے اور اس کے ممنوعات سے باز  
 رہنے میں اور اس کی بلا پر صبر کرنے میں کہاں ہے اپنے نفس  
 سے اتنا جہاد کر کہ وہ سیدھے راستہ پر آجائے اللہ عزوجل  
 نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو کہ ہمارے راستہ میں جہاد  
 کرتے ہیں البتہ ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور  
 نیز ارشاد فرمایا ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد  
 کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ تو نفس کو  
 بے کار مت چھوڑ دے اور نہ اس کا تابع دار بن تجھے نجات مل  
 جائے گی اور اس کے رد و تبسم نہ کر اور اس کی ہزار باتوں  
 میں سے ایک بات کا جواب دے یہاں تک کہ نفس مہذب  
 بن جائے جب نفس تجھے خواہشات و لذات کی خواہش کرے  
 پس ڈھیل دے اور ناخیر کر اور کہے کہ تیرے ایفاء وعدہ کا مقام جنت ہے انکار کی  
 تلخی پر تو نفس کو صابر بنایا تاکہ تجھے عطا الہی آجائے جب تو نفس کو صابر بنائے گا  
 اور وہ صبر کرنے لگے گا اللہ عزوجل ان کا ساتھی ہو جائے گا نیز بخدا کا ارشاد ہے کہ تحقیق  
 اللہ صابروں کا ساتھی ہے تو نفس کے قول کو قبول نہ کر کیونکہ وہ تویرائی ہی کا حکم دے گا اگر  
 تو نفس کو درست رکھتا ہے پس اس کی مخالفت کیا کہ نفس کی درستی اس کے  
 خلاف کرنے ہی میں ہے اسے نفس کے ساتھ ٹھہرنے والے اور معرفت الہی کے

مَعَ نَفْسِهِ كَذَبْتَ فِي دَعْوَاكَ النَّفْسُ  
وَالْحَقُّ لَا يَجْتَمِعَانِ مَنْ وَقَفَ مَعَ  
نَفْسِهِ فَإِنَّهُ الْوُقُوفُ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ مَنْ وَقَفَ مَعَ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ الْوُقُوفُ  
مَعَ الْآخِرَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَا أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ  
وَأَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَا لَهُ أَصِيبُ  
فَإِذَا أَمَرَ صَبْرُكَ تَمَرَّ صَدَاكَ جَاءَكَ  
فَنَازُكَ فَيُصِيبُ الْكُلَّ عِنْدَكَ طَيِّبًا  
يَنْقَلِبُ الْكُلُّ شُكْرًا يَصِيبُ الْبُعْدَ قُرْبًا  
يَصِيبُ الشُّرَكَ تَوْحِيدًا أَفَلَا تَرَى مِنَ  
التَّخْلِيقِ صَبْرًا وَلَا لَهْفًا لَا تَرَى أَصْدَادًا  
بَلْ تَتَّحِدُ الْأَبْوَابُ وَالْجِهَاتُ فَلَا تَرَى  
إِلَّا جِهَةً وَاحِدَةً حَالَةً لَا يَعْقِلُهَا  
كَثِيرٌ مِنَ التَّخْلِيقِ بَلْ هِيَ لِأَحَادٍ آخِرَادٍ  
مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَلْفٍ إِلَى انْقِطَاعِ النَّفْسِ  
وَاحِدًا

يَا غَلَامُ اجْهَدْ أَنْ تَمُوتَ هَهُنَا  
بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ اجْهَدْ أَنْ  
تَمُوتَ نَفْسُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ رُوحُكَ  
مِنْ بَدَنِكَ مَوْتُهَا بِالصَّبْرِ وَالْمُخَالَفَةِ  
فَعَنْ قَرِيبٍ تَحْمَدُ عَاقِبَةَ ذَلِكَ  
صَبْرُكَ يَفْنَى وَجَزَاءُكَ لَا يَفْنَى إِنِّي  
صَبَرْتُ وَرَأَيْتُ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ كَمُودَةٍ  
مُتِّ شَمَّ أَحْيَانِي شَمَّ أَمَاتَنِي وَغَبْتُ

بدی تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے نفس حق دونوں جمع  
نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں  
جو اپنے نفس کے ساتھ ٹھہر گیا اس کو اللہ عز و جل کے ساتھ  
ٹھہرنا جاتا رہے گا اور جو دنیا کے ساتھ ٹھہر اس کا آخرت  
کے ساتھ ٹھہرنا جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد  
فرمایا ہے جس نے اپنی دنیا کو دوست رکھا اس نے اپنی آخرت  
کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو دوست رکھا اس  
نے دنیا کو نقصان پہنچایا صبر اختیار کر جب تیرا صبر کامل ہوگا  
تو تیری رضا کامل ہو جائے گی فنا تجھے نصیب ہوگی پس ہر  
چیز تیرے نزدیک خوشگوار ہو جائے گی سب تیرے نزدیک  
شکر بن جائے گا دوری قرب ہو جائے گی شرک توحید بنے  
گا پس تو خلق کی طرف سے نقصان دیکھے گا نہ نفع۔ تجھے ہم منظری  
نہ آئیں گے سب دروازہ اور جہتیں متحد ہو جائے گی پس تو  
ایک جہت کے سوا کچھ نہ دیکھے گا یہ ایسی حالت ہے کہ بہت  
سے مخلوق اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ یہ حالت لاکھوں  
میں سے کسی کسی کو ہی نصیب ہو جاتی ہے۔

اے غلام تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ عز و جل  
کے سامنے یہیں مرے۔ تیری کوشش یہ ہو کہ بدن سے  
روح نکلنے کے قبل تیرا نفس مرے۔ نفس کی  
موت صبر و مخالفت سے ہو سکتی ہے۔ عنقریب  
اس کا انجام سراہا ہو جائے گا اور اس کا بدلہ  
تیرے لیے فنا ہوگا۔ میں نے بہ تحقیق صبر کیا ہے  
اور اس کا انجام بہتر دیکھا ہے۔ میں مر چکا پھر اس نے  
مجھے زندہ کیا پھر اس نے مجھے مارا اور میں غائب ہو گیا۔

ثُمَّ أَوْجَدَنِي مِنْ غَيْبَتِي هَلَكْتُ مَعَهُ  
وَمَلَكَتْ مَعَهُ جَاهَدْتُ نَفْسِي فِي تَرْكِ  
الِاخْتِيَارِ وَالْإِرَادَةِ حَتَّى حَصَلَ لِي  
ذَلِكَ فَصَارَ الْقَدَرُ يَقُودُنِي وَالْيَمْنَةُ  
تَنْصُرُنِي وَالْفِعْلُ يُحَرِّكُنِي وَالْغِيَرَةُ  
تَعُصِرُنِي وَالْإِرَادَةُ تُطِيعُنِي وَالسَّايِقَةُ  
تُقَدِّمُنِي وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُنِي -  
وَيُحَاكُ تَهْرُبُ مِنِّي وَأَنَا لَمْ تَحْتَكْ  
أَحْفُظْهَا مَكَانَكَ عِنْدِي وَإِلَّا فَانَتْ  
هَالِكٌ يَا جُوهِلُ حُبِّهِ إِلَيَّ أَوْ لَا ثُمَّ  
حُبِّهِ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا أَنَا بَابُ الْكُفَّةِ  
تَعَالَى حَتَّى أَعْلَمَكَ كَيْفَ تَحُبُّهُ أَعْلَمَكَ  
خِطَابًا تَحَاطِبُ بِهِ رَبَّ الْكُفَّةِ سَوْفَ  
تَرَوْنَ إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَقْعَدُوا يَا  
سَيَّاسُ احْتَمُوا بِي فَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ  
الْقُوَّةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَوْمُ  
يَأْمُرُونَكَ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَيَنْهَوْنَكُمْ  
عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَقَدْ سَلِمَ إِلَيْهِمُ  
التَّصَدُّقُ لَكُمْ فَهُمْ يُؤَدُّونَ الْإِمَانَةَ  
فِي ذَلِكَ اْعْمَلُوا فِي دَارِ الْحِكْمَةِ  
حَتَّى تَصِلُوا إِلَى دَارِ الْقُدْرَةِ الدُّنْيَا  
حِكْمَةً وَالْآخِرَةِ قُدْرَةً الْحِكْمَةُ  
تَحْتَاجُ إِلَى أَدْوَاتٍ وَالْأَدْوَاتُ تَحْتَاجُ  
وَالْقُدْرَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا  
فِعْلُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ لِيُمَيِّزَ دَارَ

پھر اس نے میری غیبت سے مجھے موجود کر دیا میں اس کی  
معیت میں ہلاک ہوا اور اسی کی معیت میں مالک بن گیا میں  
نے اختیار و ارادہ کے چھوڑ دینے میں نفس سے جہاد کیا  
یہاں تک کہ مجھ کو یہ طہیت الہی حاصل ہو گئی پس اب تقدیر  
الہی میرا ماتھہ تھامتھی ہے اور احسان خداوندی میری مدد  
کرتا ہے اور اس کا فعل مجھے چلاتا پھرتا ہے اور غیرت  
الہی میری حفاظت کرتی ہے اور مشیت الہی میری اطاعت  
کرتی ہے اور سابقہ قضا و قدر مجھے آگے بڑھاتا ہے اور  
اللہ عزوجل مجھے بلند کر رہا ہے۔ تجھ پر انوس تو مجھ سے  
بھاگتا ہے حالانکہ میں تیرا محافظ و کوتوال ہوں میں  
تیرے نفس کی حفاظت کرتا ہوں تیری جگہ میرے پاس  
ہے یہاں قرار لے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اسے جاہل  
بیوقوف جج کے لیے تو اداں میرے پاس آپھریت اللہ عزوجل  
کا حج کرنا میں تو کعبہ کا دروازہ ہوں میرے پاس آنا کریں  
تجھ کو حج کا طریقہ بتاؤں کہ کیسے حج کیا جاتا ہے اور  
خطاب کا طریقہ بتاؤں جس سے تو رب کعبہ سے خطاب  
کر سکے جب مطلع صاف ہو گا غبار اٹھ جائے گا۔  
تو تم حقیقت کو دیکھو گے۔ اسے سیاست دانو! میری  
حفاظت میں آ جاؤ یہ تحقیق مجھے اللہ عزوجل کی طرف سے قوت  
عطا فرمادی گئی ہے۔ اولیاء اللہ کو ہی حکم دیتے ہیں جیسا کہ حکم الہی  
میں تم کو حکم دیتا ہوں اور جس سے منع کرتا ہوں وہ بھی تم کو منع کرتے ہیں  
ان کی طرف تمہاری غیر غمائی پروردگار کی گئی ہے پس وہ اس امانت کو ادا کرتے  
رہتے ہیں۔ تم دارحکمت دنیا میں کام کیے جاؤ یہاں تک کہ دار قدرت آخرت  
کی طرف پہنچ جاؤ دنیا دارحکمت ہے اور آخرت دار قدرت و حکمت اور اروالات و اسباب  
کی جابجہد ہے اور قدرت اس کی طرف محتاج نہیں اور عزوجل انہیں یوں کیا

الْقُدْرَةِ مِنْ دَارِ الْحِكْمَةِ الْآخِرَةِ فِيهَا  
تَكُونُ بِلَا سَبَبٍ تَنْطِقُ بِهَا جَوَائِحُكُمْ  
وَتَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ مِنْ مَعَاصِي  
الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَنْكَشِفُ  
الْأَسْتَارُ وَتُظْهِرُ الْمُنْجَاتُ إِنْ نَشِئْتُمْ أَوْ  
أَبَيْتُمْ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ النَّارَ  
إِلَّا بِقَلْبٍ بَارِدٍ لِيَمْسَكَ بِكَابِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ  
مَقَرُّوا كُتِبَ لَكُمْ بِالسَّنَةِ فِكْرُكُمْ فِيهَا  
ثُمَّ تَوَبُّوا مِنَ السَّيِّئَاتِ وَاشْكُرُوا عَلَى  
الْحَسَنَاتِ أَحْصَرُوا كُتِبَ الْمَعَاصِي وَ  
أَضْرَبُوا عَلَى سُطُورِهَا بِالتَّوْبَةِ

يَا غُلَامُ قَدْ ثَبَّتَ عَلَى يَدَيَّ وَ  
صَحْبَتِي إِذَا لَمْ تَقْبَلْ مِنِّي مَا أَقُولُ  
لَكَ أَيْشَ يَنْفَعُكَ ذَلِكَ رَغِبْتَ فِي الصُّورَةِ  
دُونَ الْمَعْنَى مَنْ يُرِيدُ يَصْحَبُنِي يَقْبَلُ  
مَا أَقُولُ لَهُ وَيَعْمَلُ بِهِ يَدُورُ كَيْفَ  
دُرْتُ وَإِلَّا فَلَا يَصْحَبُنِي فَنَابَةٌ  
يُخْسِرُ أَكْثَرُ مِمَّا يَرْبِحُ أَنَا سَمَاطُ  
مُهَذَّبٌ وَمَا أَحَدٌ يَأْكُلُ مِنِّي شَيْئًا  
بَابُ مَفْتُوْحٍ لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ أَيْشَ  
أَعْمَلُ بِكُمْ كَمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تَسْمَعُونَ مِنِّي فَإِنِّي أُرِيدُكُمْ لَكُمْ  
لَا لِي إِنِّي لَا أَخَافُكُمْ وَلَا أَرْجُوكُمْ لَا  
أَخْرِقُ بَيْنَ الْخَرَابِ وَالْعُمَرَاءِ بَيْنَ  
الْبَاقِي وَالْمَيِّتِ بَيْنَ الْعَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

قدرت کو دارِ حکمت سے تمیز وید سے جدا کر دے۔ دار  
آخرت میں وجودِ اشیاء بلا سبب ہو گا۔ وہاں تمہارے اعضاء  
بولنے لگیں گے اور جو کچھ تم نے نافرمانیاں حتیٰ عز وبل کی ہیں  
اس پر قیامت کے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے  
تمام راز فاش ہو جائیں گے اور تمام پوشیدہ امور ظاہر خواہ  
تم چاہو یا انکار کرو تمہاری منیت کام نہ لے گی کوئی شخص  
مخلوق میں سے دوزخ میں بغیر قلبِ سرد کے داخل نہ ہو گا چونکہ اس  
پر دلیل قائم ہو گی کچھ عذر نہ کر سکے گا ٹھنڈے دل داخل ہو  
جائے گا تم اپنے نامہ اعمال کو فحش کی زبانوں سے پڑھو پھر  
گناہوں سے توبہ کرو اور غویوں پر شکرا ادا کرو گناہوں کے دفتروں کو  
جمع کر کے دیکھو اور ان کی سطروں پر توبہ کا قلم پھیر دو ان سطروں کو کڑکڑ  
اے غلام تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور میری صحبت  
میں رہا لیکن جب تو نے میرے قول کو نہ مانا جو کہ میں تجھ سے کہتا  
ہوں پس تجھے اس سے کیا فائدہ ہو گا۔ تو نے محض ظاہر پرستی  
کی اس کا رغب ہوا حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوا جو کہ میری  
مصاحبت چاہے وہ میرے قول کو قبول کرے اس پر عامل ہو  
جس طور سے میں پھروں وہ بھی پھرے ورنہ میری صحبت میں  
نہ رہے ایسی حالت میں وہ بہ تحقیق نفع کی نسبت زیادہ نقصان  
اٹھائے گا میں ایک مہذب دسترخوان ہوں اور کوئی مجھ سے کچھ  
کہنا نہیں چاہتا۔ میں کھلا ہوا دروازہ ہوں لیکن اس میں کوئی  
داخل نہیں ہوتا میں تمہارے ساتھ کیا عمل کروں کس قدر کہوں  
حالانکہ تم تو میری بات کو سننا ہی نہیں چاہتے میں تو تم کو تمہارے  
ہی لیے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے فائدہ کے لیے میں تم سے ڈرتا  
ہوں اور نہ تم سے کچھ امید رکھتا ہوں اور نہ ویرا نہو باری  
میں تفریق کرتا ہوں رہا باقی زندہ اور مردہ امیر و فقیر

بَيْنَ الْمَلِكِ وَالْمَمْلُوكِ الْأَمْرُ بِدَا  
غَيْرِكُمْ لَكُمَا أَخْرَجْتَ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ  
قَلْبِي صَحَّ لِي هَذَا كَيْفَ يَصَحُّ لَكَ  
التَّوْحِيدُ وَفِي قَلْبِكَ حُبُّ الدُّنْيَا أَمَا  
سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ  
مَا دُمْتَ مُبْتَدِّهَا مُتَعَبِّدًا يَا طَالِبًا  
سَالِكًا فَحُبُّ الدُّنْيَا فِي حَقِّكَ رَأْسُ  
كُلِّ خَطِيئَةٍ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ سَبْرُ قَلْبِكَ وَ  
وَصَلَّ إِلَى قُرْبِ الْحَقِّ عَتَا وَجَلَّ حُبُّ  
إِلَيْكَ فَسَمَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَيُغَضُّ إِلَيْكَ  
فَسَمُّ غَيْرِكَ يُحِبُّكَ إِلَيْكَ أَفَسَامَكَ  
حَتَّى تَسْتَوِيَ فِيهَا تَحْقِيقًا يُولِيهِ السَّابِقُ  
فِيكَ فَتَقْنَعُ بِهَا وَكَأَنَّكَ تَوَقَّعْتَ إِلَى غَيْرِهَا  
وَقَلْبُكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَعَلَّبُ فِي  
الدُّنْيَا كَتَقَلَّبُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ  
فَجَمِيعُ مَا يَجْرِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ  
عَتَا وَجَلَّ مَحْبُوبُكَ لَا تَكَ تَرِيدُ بِإِرَادَتِهِ  
وَتَخْتَارُ بِاخْتِيَارِهِ تَدَاوَمَ مَعَهُ وَتَدَاوَمَ  
وَتَقَطَعَ عَنْ قَلْبِكَ جَمِيعَ مَا سِوَاهُ  
تَنَحَّى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَنْكَ فَيَصِيرُ  
تَنَاوُلَكَ لِأَقْسَامِ وَحُبِّكَ لَهَا بِهَ لَا يَكُ  
السَّائِقُ الْمَرَاتِي الْمُعْجَبُ بِعَمَلِهِ يُدِيرُ  
صَيَامَ النَّهَارِ وَفِيَا لَيْلٍ وَيَخْشَنُ  
مَأْكُولَهُ وَمَلْبُوسَهُ وَهُوَ فِي ظِلِّهِ بَاطِنًا

بادشاہ و رعایا کے درمیان میں کچھ فرق نہیں سمجھتا ہوں حکم تو  
تمہارے غیر کے قبضہ میں ہے جب میں نے دنیا کی محبت  
اپنے قلب سے نکال ڈالی تو مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا جب  
تیرے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے پھر تیری توحید کیسے  
درست ہو سکتی ہے کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول  
نہیں سنا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب تک تو مات  
ابتدائی میں عبادت گزار طلب کار و سالک رہے گا پس دنیا  
تیرے حق میں خطا کی جڑ رہے گی پس جب تیرے قلب کا  
میر ختم ہو جائے گا اور وہ قرب الہی سے فائز ہو جائے گا۔ تو  
مقسوم دنیا جو تیرے حصہ کا ہے تجھے محبوب بنا دیا جائے گا۔  
اور غیر مقسوم کی تیرے دل میں عبادت ڈال دی جائے گی تیرا مقسوم اس لیے  
محبوب بنا دیا جائے گا تاکہ تو اپنے مقسوم اذی کا جو کہ قضاء و قدر میں زیر ہے یہ باقی  
ہو چکا ہے تابع ہو جائے پس تو اس پر تابع بنے اور غیر کی طرف تیری  
توجہ نہ ہو اور تیرا قلب اللہ کے حضور میں قائم رہے دنیا  
کے مقسوم میں تو ویسا ہی تصرف کرے جیسے غنی اس کو استعمال  
کریں گے پس تمام وہ احکام جو حق عزوجل کی طرف سے  
جاری ہوں گے تیرے محبوب بن جائیں گے کیونکہ تو ارادہ الہی  
قصد کرتا اور اس کے اختیار سے تو اشیاء کو اختیار کرے گا اور  
اسی کی تقدیر کے ساتھ گھومتا رہے گا تیرا دل ماسوی اللہ سے جدا  
ہو گا۔ دنیا و آخرت تجھ سے دور ہو جائے گی پس تیرا اپنے مقسوم  
کو لینا اور اسے محبوب رکھنا خدا کے حکم کے ماتحت ہو  
گا نہ کہ اپنی طرف سے۔ منافق ریاکار اپنے عمل  
پر مغرور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور راتوں  
کو شب بیداری کرتا ہے موٹا موٹا کھاتا پیتا ہے  
اور حقیقہً باطن و ظاہر میں تارکی میں ہی ہے۔

وَمَا ظَاهِرًا لَّا يَتَقَدَّمُ مِنْ قَلْبِهِ خُطْوَةً إِلَى  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مِنَ الْعَامِلَةِ النَّاصِبَةِ  
سِرِّيَّتُهُ ظَاهِرَةٌ عِنْدَ الصِّدِّيقَيْنِ وَ  
الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الْوَاصِلِينَ إِلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْيَوْمَ يَعْرِفُهُ الْخَوَاصُّ  
مِنَ الْخَلْقِ وَعِنْدَ الْيَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ بِحَبِيَّتِهِمْ  
الْخَوَاصُّ إِذَا دَاوَهُ مَقْتُوهُ بِقُلُوبِهِمْ  
وَالِكَلَامُ يَسْتَرْوَنَّهُ يَسْتَرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا تَزَاجِمُ الْقَوْمَ بِبِقَائِكَ فَإِنَّكَ مَا  
تَحْكِي الْكَلَامَ حَتَّى تَقْطَعَ الرُّثَاءَ وَتُجِدَّ  
الْإِسْلَامَ وَتُحَقِّقَ التَّوْبَةَ بِقَلْبِكَ وَتَخْرِجَ  
مِنْ بَيْتِ طَبْعِكَ وَهَوَاكَ وَوُجُودِكَ  
وَجَلْبِ النَّفْسِ إِلَيْكَ وَدَفْعِ الصَّدْرِ عَنْكَ  
لَا كَلَامَ حَتَّى تَخْرِجَ عَنْكَ بِتَرْكِ نَفْسِكَ  
وَهَوَاكَ بِطَبْعِكَ عَلَى الْبَابِ وَتَتْرَكَ  
فِي الدَّهْلِيْزِ وَتَتْرَكَ سِرَّكَ فِي الْمَخْدَعِ  
عِنْدَ الْمَلِكِ اسْرِعْ إِلَى الْأَسَاسِ فَإِذَا  
حَكَمْتَهُ اسْرِعْ إِلَى الْإِنْسَاءِ مَا الْأَسَاسُ  
الْفِقْهُ فِي الدِّينِ فَوَقْفَةُ الْقَلْبِ  
لَا فِقْهُهُ اللِّسَانِ

وَفِقْهُهُ اللِّسَانِ يَقْرَبُكَ  
إِلَى الْخَلْقِ وَمُلُوكِهِمْ فِقْهُهُ الْقَلْبُ يُدْرِكُكَ  
فِي صَدْرِ مَجْلِسِ الْقُرْبِ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ يُصْدِرُكَ وَيَرْفَعُكَ وَيَقْرَبُ  
خُطَاكَ إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ .

اپنے قلب سے رب عزوجل کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھتا ہے پس  
وہ عمل کرنے والوں غم اٹھانے والوں میں سے ہے جن کے بارہ  
میں عالمیت ناصبتہ فرمایا گیا ہے اس کی چھپی ہوئی حالت مدقیقین اور  
اولیاء اللہ اور صالحین پر جو کہ حاصل الی اللہ ہیں آج بھی ظاہر  
اس کو مخلوق میں سے آج خاص لوگ جانتے پہانتے ہیں  
کل اس کو جلد عوام بھی پہچان لیں گے۔ خواص جب اس کو  
دیکھتے ہیں اپنے دلوں سے اس پر غیظ و غضب کرتے ہیں  
اور کہیں وہ اللہ کی پردہ پوشی سے اس کی عیب پوشی فرماتے  
ہیں اسے عالم میں آشکار نہیں کرتے تو اپنے نفاق کے ساتھ  
اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل نہ ہو جب تک کہ تو اپنی  
زنا رکوزہ مؤثر و ملے اور اسلام کی تجدید نہ کرے اور تیرے  
دل میں توبہ متحقق نہ ہو جائے اور تو اپنی طبیعت و خواہش اور  
اپنے وجود اور تحصیل منفعت اور دفع ضرر کے گھر سے باہر  
نہ ہو جائے واعظ نہ بن او لیاء اللہ کے حالات نہ سنا۔  
جب تک کہ تو اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے اپنے  
نفس و خواہش و طبیعت کو دروازہ پر نہ چھوڑ دے اور  
قلب کو دلیز میں اور باطن کو بادشاہ کے حضور میں مقام خلوت  
میں نہ چھوڑے تیرا کلام نامسموع ہے زبان نہ ہلا۔  
اولاً جلد تو بنیاد کو مضبوط کر لے پس جب تو اسے مضبوط  
کرے تو عمارت کی طرف دوڑ۔ بنیاد کیا ہے دین  
اور دل کی سمجھ و علم و فقہ نہ محض زبان زور می و فقہ سانی کہ  
وہ تو تجھ کو محض مخلوق اور ان کے بادشاہوں سے نزدیک  
کر دے گی اور فقہ قلبی تجھ کو قرب الہی کی صدر مجلس میں لے  
جا کر چھوڑے گا اور تجھے صدر مجلس بنائے گا اور تجھے بلندی  
دے گا اور تیرے قدم خدا کی طرف بڑھائے گا اس کو اختیار کر

وَيَحْكُ تَضَيُّعُ زَمَانِكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ  
وَلَا تَعْمَلْ بِهِ فَأَنْتَ عَلَى قَدَمِ الْجَهْلِ فِي  
هَوَاسِ تَخْدِيمِ أَعْدَاءِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَتَشْرِكُ بِهِمْ هُوَ غَيِّ عَنْكَ وَعَمَّنْ أَشْرَكَ  
بِهِ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ شَرِيكًا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ  
عَبْدُ مَنْ زَمَانُكَ بِيَدِهِ إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ  
فَانْزِلْ زَمَانُ قَلْبِكَ بِبَيْدِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَكَوَكُلْ عَلَيْهِ حَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ وَ  
اِخْدِمُهُ بِظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ وَلَا تَنْهَمُهُ  
فَاتَّهَ غَيْرُ مَتَّبِعِهِ هُوَ أَعْرِفُ مِنْكَ  
بِمَصْلَحَتِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ  
عَلَيْكَ بِالسُّكُونِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْخُمُولِ  
وَالْتَعَاضِ وَالْإِطْرَاقِ وَالْحَرَسِ إِلَى أَنْ  
يَأْتِيكَ الْأَذُنُ مِنْهُ بِالطُّقِ فَتَنْطِقُ وَ  
تَنْطِقُ بِهِ لَا يَكُ فَيَكُونُ نُطْقُكَ دَوَاءً  
لِمَرَاضِ الْقُلُوبِ وَشِفَاءً لِّلْأَسْرَارِ  
وَضِيَاءً لِّلْعُقُولِ اللَّهُمَّ تَوَمَّلْ قُلُوبَنَا وَ  
ذُلَّهَا عَلَيْكَ وَصِفْ أَسْرَارَنَا وَقَرِّبْنَا  
مِنْكَ وَاتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

الْمَجْلِسُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

مومنین کا ملین کے بیان میں !

۲۳ رجب ۱۳۵۳ھ کو منگل کے دن شام کے وقت مدرسہ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْفَلَاحِ عَشِيَّةً فِي الْمَدْرَسَةِ

چوالیسویں مجلس

قادریہ میں ارشاد فرمایا :

مسلمان دنیا میں غریب ہے اور زاہد آخرت میں اور عاقل  
زاہد ماسوی اللہ میں مسلمان دنیا میں ایک قیدی ہے اگرچہ دنیا  
میں اس کو وسعت رزق و فراخی مکان و کثرت اہل ہوا، اہل  
عیال اس کے مال و مرتبہ میں ہر طرح اکڑتے پھرتے خوش ہوتے  
ہیں اور اس کے ارد گرد ہنستے پھرتے ہیں لیکن وہ باطنی قید خانہ  
میں رہتا ہے اس کی بشارت و غمشی محض چہرہ پر ہوتی ہے  
اور غم اس کے قلب میں رہتا ہے اس نے دنیا کی حقیقت کو  
پہچان کر دنیا کو اپنے قلب سے طلاق دے دی ہے۔ اولاً  
اس نے دنیا کو ایک طلاق رجعی دی کیوں کہ اس کو خوف نکاح کیس  
انکار ارادہ کو پٹ نہ دیں پس وہ اس حال میں تھا کہ آخرت نے  
اس پر اپنا دروازہ کھول دیا اور اس کے چہرہ کی چمک دمک کی  
بجلی اس پر ظاہر ہوئی اس وقت اس نے دنیا کو دوسری طلاق اور  
دے دی بعدہ آخرت اس کے پاس آکر اس کے گلے سے پٹ  
گئی پس اس نے دنیا کو تیسری طلاق دے دی اور کلیتہً اس نے  
آخرت کا ساتھ پکڑ لیا بعدہ وہ اسی حالت میں تھا کہ ناگاہ اس  
پر قرب الہی کی بجلی چمکی قرب مولیٰ کا نور چمکا پس اس نے آخرت کو  
بھی طلاق دے دی قرب الہی کے مسئلہ میں لگا دنیا نے سوال کیا  
تم نے مجھے کیوں طلاق دی جواب دیا کہ میں نے تجھ سے اچھی چیز دیکھ  
لی تھی پھر آخرت نے طلاق کی وجہ دریافت کی جواب دیا کیوں کہ تو توبہ  
خدا کی صورت دی ہوئی بنائی ہوئی ہے تیرا وجود اسی سے ہے  
لیکن تو جب غیر خدا حادث ہے پس تجھے کیسے طلاق نہ دیدیتا پس اہمیت  
بندہ مومن کو معرفت الہی متحق ہو گئی اور وہ ماسوی اللہ سے آزاد اور دنیا  
و آخرت میں غریب ہو گیا اور ہر ایک سے غائب ہر چیز سے محفوظ ہو گیا  
پس ایسی حالت فانیں دنیا اس کی خدمت میں آکھڑی ہوتی ہے وہ دنیا

ثَلَاثَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةِ ثَمَسَ وَارْبَعِينَ وَخَمْسَ يَأْتِي  
الْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ فِي الدُّنْيَا وَالزَّاهِدُ  
غَرِيبٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْعَادِلُ غَرِيبٌ فِيهِمَا  
يَسُوَّى الْمَوْلَى الْمُؤْمِنُ مَسْجُونٌ فِي الدُّنْيَا  
وَإِنْ كَانَ فِي سَعَةِ الرِّزْقِ وَالْمَنْزِلِ أَهْلُهُ  
يَتَقَلَّبُونَ فِي مَالِهِ وَجَاهِهِ وَيَفْرَحُونَ  
وَيَصْحَكُونَ حَوْلَ إِلَيْهِ وَهُوَ سَجِينٌ بَاطِنٌ  
بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ عَرَفَ  
الدُّنْيَا فَطَلَّقَهَا بِقَلْبِهِ أَوَّلَ مَا طَلَّقَهَا  
طَلْقَهُ وَاحِدَةً لِأَنَّهُ خَافَ مِنْ تَقْلِيلِ  
الْأَعْيَانِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا فَتَحَتْ  
الْآخِرَةُ بَابَهَا فَجَاءَ بَرَقٌ حُسْنٌ وَجْهَهَا  
فَطَلَّقَ الدُّنْيَا طَلْقَهُ أُخْرَى فَجَاءَتْهُ  
الْأُخْرَى فَعَانَقَتْهُ فَطَلَّقَ الدُّنْيَا الطَّلْقَةَ  
الثَّلَاثَةَ وَوَقَفَتْ مَعَ الْآخِرَةِ بِكَيْلَيْتِهِ  
فَبَيْنَمَا هُوَ مَعَهَا إِذَا بَرَقَ نُورٌ قَرِيبٌ لِحَقِيقَةِ  
وَجَلَّ فَطَلَّقَ الْآخِرَى قَالَتْ لَهُ الدُّنْيَا  
لِمَ طَلَّقْتَنِي قَالَ لَهَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْكَ  
وَقَالَتْ لَهُ الْآخِرَى لِمَ طَلَّقْتَنِي قَالَ لَهَا  
لِأَنَّكَ مُصَدَّثَةٌ مُصَوَّرَةٌ أَمَا أَنْتِ  
غَيْرُهُ فَكَيْفَ لَا أُطَلِّقُكَ فَحِينَئِذٍ تَحَقَّقَتْ  
مَعْرِفَتُهُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَارَ حُرّاً مِمَّا  
سِوَاهُ غَيْرِ بَيِّنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي غَيْبَةِ  
عَنِ الْكُلِّ فِي مَحْوِ الْكُلِّ فَتَقَفَ الدُّنْيَا  
فِي خِدْمَتِهِ يُرَى خُدَامَهُ لَا سِرِّيَّةَ لَهْفَ

بَصَدَدِ الْعَمَلِ خَالِيَةً عَنْ زِينَتِهَا الَّتِي  
تُظَاهَرُ بِهَا عَنْدَ ابْنَائِهَا وَإِنَّمَا جُعِلَتْ  
كَذَلِكَ لَعَلَّ لَا يَكُونُ الْفِتَنَاتُ إِلَيْهَا  
السِّلَكَةُ إِذَا أَحَبَّتْ شَخْصًا نَفَذَتْ  
هَدَايَاهَا إِلَيْهِ عَلَى يَدِ الْعَجَائِزِ وَ  
الْجَوَارِي الرَّيْبِ حِفْظًا لَهُ وَغَيْرَهُ  
عَلَيْهِ أَقْبَلُ عَلَى رَبِّكَ بِكُلِّ تَكَلُّفٍ  
أُتْرِكَ غَدًا إِلَى جَنْبِ أَمْسٍ لَعَلَّ  
غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ مَيِّتٌ وَ أَنْتَ  
يَا غَنِي لَا تَسْتَعِزُّ بِغَنَاكَ عَنْهُ  
لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ لَا تَكُنْ  
مَعَ شَيْءٍ بَلْ كُنْ مَعَ خَالِقِ الْأَشْيَاءِ  
الَّذِي هُوَ شَيْءٌ لَا يَشَبَّهُهُ شَيْءٌ  
لَا تَسْتَرْيِجُ إِلَى غَيْرِهِ رَاحَةً قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا رَاحَةَ لِمُؤْمِنٍ مِنْ دُونِ لِقَاءِ  
رَبِّهِ إِذَا خَرِبَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ  
الْخَلْقِ وَ عَمَرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ  
فَقَدْ اخْتَارَ لَكَ فَلَا تَكْرَهُ خَيْرَتَهُ  
مَنْ صَبَرَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ رَأَى  
عَجَائِبَ مِنَ الطَّائِفَةِ مَنْ صَبَرَ  
عَلَى الْفَقْرِ جَاءَهُ الْغِنَى أَكْثَرَ مَا  
جُعِلَ السُّبُورُ فِي الرُّعَاةِ وَالْوَلَايَةِ  
فِي الْمَوَالِي وَالْعُرَبَاءِ كُلَّمَا ذَلَّ  
الْعَبْدُ لِمَا أَعَزَّهُ كُلَّمَا تَوَاصَعَ

کو اپنا خادم جانتا ہے نہ کہ حرم دنیا اس کے رو برو اپنے حسن جمال  
سے خالی ہو کر جس کو کہ وہ ابنار دنیا کے لیے ظاہر کرتی رہتی ہے  
ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہے یہ حالت اس لیے بنا دی گئی  
ہے تاکہ مسلمان کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو پائے شاہنشاہ  
بگیم جب کسی کو چاہئے لگتی ہے تو اپنے تحفہ ہدیہ اس محبوب  
کی طرف بڑھیوں اور سیاہ نام جشن عورتوں کی معرفت اس محبوب  
کی حفاظت اور اس پر بغیرت کی وجہ سے بھیجتی رہتی ہے تو اپنے  
رب کی طرف کلیتہ متوجہ ہو جائے آئندہ کل کو گزشتہ کل کے پاس  
اس کے پہلو پر چھوڑے کیا خبر ہے کہ کل کا دن تجھے ایسی حالت  
میں آئے کہ تو مر چکا ہو اے امیر تو اپنی امارت کی وجہ سے  
خدا سے غافل نہ ہو کیا خبر کہ کل تو فقیر ہو جائے تو کسی شے کے  
ساتھ مت رہ بلکہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے کے ساتھ  
جس کا کوئی نظیر و مشابہ نہیں ہے قرار پڑے اس کے غیر سے  
کسی قسم کی راحت نہ چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خدا کی ملاقات کے  
بغیر مسلمان کے لیے راحت نہیں حجب وہ تیرے اور  
مخلوق کے درمیان میں خرابی و ویرانہ پن ڈال دے اور  
تیرے اور اپنے درمیان میں آبادی کر دے پس تو سمجھ  
لے کہ اس نے تجھے پسند کر لیا پس تو اس کی پسندیدگی  
کو بُرائی سمجھ جو اللہ برتر کے ساتھ صبر کر لے گا و الطاف  
الہی کے عجائبات دیکھنے لگے گا اور جو فقر پر صابر ہو جائے  
گا اس کو امیری حاصل ہو جائے گی اکثر مرتبہ نبوت بکریاں  
چرانے والوں کو اور مرتبہ ولایت غلاموں اور غریبوں کو  
عطا فرمایا گیا ہے جس قدر بندہ خدا خدا کے سامنے جھکتا  
ہے اسی قدر اللہ اس کو عزیز بنا لیتا ہے اور جھکاؤ اس کے رو برو

لَهُ رَفَعَهُ هُوَ الْمُعِزُّ وَالْمُنِزِّلُ الرَّافِعُ وَ  
 الْوَاضِعُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُسَيِّدُ لَوْلَا مَا  
 عَرَفْنَاهُ يَا مُعْجِبِينَ بِأَعْمَالِهِمْ مَا  
 أَجْهَلَكُمْ لَوْلَا تَوْفِيقُهُ مَا صَكَيْتُمْ  
 وَقَاصْتُمْ وَمَا صَبَرْتُمْ أَنْتُمْ فِي مَقَامِ  
 الشُّكْرِ لَا فِي الْمَقَامِ الْعَجَبِ الْكَثْرِ الْعِبَادِ  
 مُعْجِبُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ  
 طَالِبُونَ لِلْحَمْدِ وَالْتِنَاءِ مِنَ الْخَلْقِ  
 رَاغِبُونَ فِي رِاقِبِ الدُّنْيَا وَأَرْبَابِهَا  
 عَلَيْهِمْ وَسَبَبُ ذَلِكَ وَفَوْقَهُمْ مَعَ  
 نُفُوسِهِمْ وَأَهْوِيَّتِهِمُ الدُّنْيَا مَحْبُوبَةٌ  
 النَّفُوسِ وَالْأُخْرَى مَحْبُوبَةُ الْقُلُوبِ  
 وَالْحَقِّ عَتَرٌ وَجَلَّ مَحْبُوبُ الْأَسْرَارِ  
 إِنَّمَا قَدَفَ الْحُكْمَ إِلَى قُلُوبِهِمْ بَعْدَ  
 أَحْكَامِ الْحُكْمِ قَدَمُ هَذَا الْأَمْرِ فَمَنْ  
 ادَّعَى مِنْهُ شَيْئًا مَعَ عَدَمِ أَحْكَامِ  
 الْحُكْمِ فَقَدْ كَذَبَ لِأَنَّ كُلَّ حَقِيقَةٍ  
 لَا تَشْهَدُ لَهَا الشَّرِيعَةُ فِيمَا نَرَتْ فَتَدْفَعُ  
 وَطَرُ إِلَى الْحَقِّ عَتَرٌ وَجَلَّ بِجَنَاحِي الْكِتَابِ  
 وَالْمُسَنَّةِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ وَيَدَاكَ فِي يَدِ  
 الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَجْعَلُهُ وَرَازِيكَ وَمُعَلِّمَكَ دَعَا يَدَا  
 تَزَيُّتِكَ وَتَشْطُوكَ وَتُعْرِضُكَ عَلَيْهِ  
 هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْأَمْرَ وَاجِ الْمَمَارِ  
 لِلْمُرِيدِينَ جَهْدُ الْمَرَادِينَ أَمِيرُ

عاجزی کو کہتا ہے اُمّی اللہ اس کو بلند دیتا ہے۔ اللہ ہی عزت دینے والا، اُزّت  
 دینے والا، پست و بلند کرنے والا، توفیق دینے والا، اور  
 ہر امر کا آسان کرنے والا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوتا ہم اس کو ہرگز  
 نہ پہچانتے۔ اے اپنے عملوں پر غرور کرنے والو تم کس قدر جاہل ہو  
 اگر توفیق الہی نہیں ہوتی تو تم نہ نماز پڑھتے اور نہ روزہ رکھتے اور  
 نہ صبر کر سکتے تم تو مقام شکر میں ہو نہ کہ غرور کے مقام میں اکثر بندہ  
 اپنی عبادتوں، عملوں پر غرور اور مخلوق سے اپنی حمد و ثنا کے  
 طالب اور دنیا میں اہل دنیا میں راغب و متوجہ ہیں اور اس کا  
 سبب محض اپنے نفسوں اور خواہشوں میں وابستگی ہے۔ دنیا  
 نفسوں کی محبوب اور آخرت قلوب کی محبوب ہے اور حق  
 عز و جل باطن و اسرار کا محبوب اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص اپنے  
 محبوب کی طرف جھکتا ہے ان کے قبول میں حکم کا ڈان حکم  
 کی مضبوطی کے بعد لکھا ہے کیوں کہ حکم شرعی اس امر کا پہلا قدم  
 ہے علم باطن بغیر مضبوطی علم شریعت حاصل نہیں ہو سکتا ہے  
 پس جو شخص علم باطن کا بغیر مضبوطی علم شرعی کے دعوے کرے  
 وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اس لیے کہ ہر وہ حقیقت  
 جس کی شہادت شریعت مطہرہ نہ دے پس وہ بے دینی و الحاد  
 ہے تو کتاب اور حدیث شریف کے بازوؤں سے  
 جناب باری کی طرف پرواز نہ کرے تو اس کی حضوری میں ایسی حالت  
 میں حاضر ہو کہ تیرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 ہاتھ میں ہو تو حضور کو اپنا وزیر و استاد بنا لے اور تو  
 آپ کے ہاتھ کو اختیار دے کہ وہ تیرا بناؤ سنگھٹا  
 کریں اور تمہجہ کو بار الہی میں پیش فرما دیں۔ حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحوں کے حاکم اور مریدوں  
 کے مربی و سرپرست اور مرادوں کے سرور و صاحبین کے

الصَّالِحِينَ قَسَّامُ الْأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ  
بَيْنَهُمْ لَئِنْ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ قَوَّضَ  
ذَلِكَ إِلَيْهِ جَعَلَهُ أَمِيرُ الْكُلِّ الْخَلْقِ  
إِذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ لِلْجُنْدِ  
إِسْمًا تَقْسَمُ عَلَى يَدِ أَمِيرٍ هُمَا التَّوْحِيدُ  
عِبَادَةً وَالشَّرْكَ بِالْخُلُقِ عَادَةً فَالْزَمِ  
الْعِبَادَةَ وَاتْرِكِ الْعَادَةَ إِذَا خَرَقْتَ  
الْعَادَةَ خَرَقْتَ فِي حَقِّكَ الْعَادَةَ غَيْرَ  
حَتَّى يُغَيِّرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى  
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ أَخْرِجْ نَفْسَكَ وَ  
الْخَلْقَ مِنْ قَلْبِكَ وَأَمْلَأْهُ بِمُكُونِهِمَا  
حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْكَ التَّكْوِينُ مَا هَذَا شَيْءٌ  
يَجِيءُ بِصِيَامِ النَّهَارِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ لَكِنْ  
بِطَهَارَةِ الْقُلُوبِ وَصَفَاءِ الْأَسْرَارِ  
عَنْ بَعْضِهِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ  
الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ خُلٌّ وَبَقْلٌ عَلَى الْمَائِدَةِ  
وَالطَّعَامُ غَيْرُهُمَا صَدَقَ هُمَا أَوَّلُ  
الطَّعَامِ ثُمَّ يَجِيءُ كَوْنٌ بَعْدَ كَوْنٍ مِنَ  
الْأَطْعِمَةِ ثُمَّ الْأَكْلُ ثُمَّ غَسْلُ الْأَيْدِي  
ثُمَّ يَجِيءُ لِقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ  
الْخُلُقُ وَالْأَقْطَاعُ وَالْإِمَارَةُ وَالنِّيَابَةُ  
وَتَسْلِيمُ الْبِلَادِ وَالْقِلَادِ إِذَا صَلَّيْتَ  
قَلْبَ الْعَبْدِ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَمَكَّنَ  
مِنْ قُرْبِهِ أَعْطَى الْمَمْلُوكَةَ وَالسُّلْطَنَةَ

بادشاہ اور حالات و مقامات کے مخلوق کے درمیان تقسیم  
فرمانے والے ہیں اس واسطے کہ اللہ عزوجل نے ان کو سب کا  
امیر بنایا ہے اور یہ تمام امور آپ کے سپرد فرمائیے ہیں  
جب بادشاہ کے دربار سے خلعت دیے جاتے ہیں تو اس  
کی تقسیم سپہ سالار افسر کے ہاتھ سے کرائی جاتی ہے توجید  
عبادت ہے اور شرک نفس کی عادت، پس تو عبادت کو  
لازم پکڑ اور عادت کو چھوڑ دے۔ جب تو خلافت عادت  
کمرے کا تو تیرے حق میں بھی خدا کی طرف سے خلافت عادت  
برتاؤ ہوگا۔ تو اپنی حالت میں تغیر کرتا کہ حق عزوجل تیری حالت  
میں تغیر فرما دے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے بیشک اللہ تعالیٰ  
قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے تا وقتیکہ وہ اپنے  
نفسوں کی حالت کو نہ بدل ڈالیں تو نفس و مخلوق کو اپنے  
قلب سے نکال ڈال اور ان دونوں کے خالق و موجد  
سے قلب کو لبریز کرے تاکہ وہ منصب تکوین تجھ کو عطا  
فرما دے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ دن کے روزوں اور  
رات کے ذکر و نماز سے حاصل ہو جاتے اس کے لیے  
قلوب کی طہارت اور باطن کی صفائی کی ضرورت ہے۔  
بعض اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ بے شک  
صیام و قیام اس دسترخوان کا سرکہ اور ترکاری ہے :-  
اصل کھانا تیرا دنوں کے ماسوا ہے۔ سچ فرمایا یہ دونوں اول  
تو طعام ہیں ان کے بعد رنگ برنگ کا کھانا آتا ہے۔ بعد کھانا  
کھانا زائل بعد ہاتھوں کا دھونا پھر تعارلی پھر خلعت جاگیر ملنا اور مال  
و نیابت اور ممالک و قلعوں کا سپرد فرمانا۔ جب بندہ کا قلب  
حق عزوجل کے واسطے قابل ہو جاتا ہے اور بندہ قرب الہی میں  
جاگزیں ہو جاتا ہے تب اس کو سلطنت بادشاہت اطراف زمین کی

فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَسَلِّمْ إِلَيْهِ نَشْرُ  
الدَّعْوَةَ مِنَ الْخَلْقِ وَالصَّبْرُ عَلَى  
أَذَاهُمْ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ تَغْيِيرُ الْبَاطِلِ وَ  
إِظْهَارُ الْحَقِّ يُعْطِيهِ وَيُعْطِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا  
أَعْطَى أَغْنَى يَمْلَأُ بَطْنَهُ حِكْمًا الْحَقُّ  
عَزَّ وَجَلَّ فَدَا جَعَلَ مِنْ خِلَالِ أَرْضِي  
قُلُوبَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ لَهُ الْعَارِفِينَ  
بِهِ أَتَهَارَ الْحِكْمِ تَذَبُّعٌ مَنْ دَاوَى عَلَيْهِ  
مَنْ عِنْدَ عَرْشِهِ وَلَوْجِهِ تَجَرُّنِي إِلَى  
أَرْضِي الْقُلُوبِ الْمَيِّتَةِ الْجَاهِلَةِ  
بِهِ الْمُعْرِضَةِ عَنْهُ.

يَا غَلَامُ أَكُلُ الْحَرَامِ يُمِيتُ  
قَلْبَكَ وَ أَكُلُ الْحَلَالِ يُحْيِيهِ لَقْمَةٌ  
تُنَوِّرُ قَلْبَكَ وَ لَقْمَةٌ تُظْلِمُهُ لَقْمَةٌ  
تُشْغِلُكَ بِالدُّنْيَا وَ لَقْمَةٌ تُشْغِلُكَ  
بِالْآخِرَةِ وَ لَقْمَةٌ تُزْهِدُكَ فِيهِمَا وَ  
لَقْمَةٌ تُرْغِبُكَ فِي خَالِقِهِمَا الطَّعَامُ  
الْحَرَامُ يُشْغِلُكَ بِالدُّنْيَا وَيَحْبِيبُ  
إِلَيْكَ الْمَعَاصِيَ وَالطَّعَامُ الْمُبَاحُ  
يُشْغِلُكَ بِالْآخِرَةِ يُحْبِبُ إِلَيْكَ  
الطَّاعَاتِ وَالطَّعَامُ الْحَلَالُ يُقَرِّبُ  
قَلْبَكَ مِنَ الْمَوْلى هَذِهِ الْأَطْلَعَةُ لَا  
تَعْرِفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَمَعْرِفَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْقَلْبِ  
لَا فِي الدَّعَاتِ مِنْهُ تَكُونُ لَا مِنْ خَلْقِهِ

عطا فرمائی جاتی ہے مخلوق کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے  
کے ساتھ کا تربیتیں اس کے سپرد ہو جاتا ہے۔ باطل کا پلٹ  
دینا اور حق کا ظاہر کرنا اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  
ہی ان کو عطا فرماتا ہے اور وہی غنی بنا دیتا ہے کیوں کہ  
جب وہ دیتا ہے تو یقیناً غنی بنا دیتا ہے۔ اس کے  
پیٹ کو حکمتوں سے بھر دیتا ہے حق عزوجل نے اپنے نیک  
بندوں اور عارفوں کے دلوں کی زمین سے ایسی حکمت کی نہیں  
جاری فرمادی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وادی سے عرشِ عظیم  
و لوج محفوظ سے جوش مارتی ہیں اور ان دلوں کی طرف جو کہ  
مردہ اور خدا سے جاہل اور روگردانی کرنے والے ہیں  
پہنچتی ہیں۔

اے غلام! حرام کا کھانا تیرے قلب کو مردہ کر دے گا  
اور حلال کا کھانا اس کو زندہ بنا دے گا۔ ایک لقمہ ایسا ہے جو  
تیرے قلب کو منور کرتا ہے۔ ایک لقمہ وہ ہے جو قلب کو  
تاریک کر دیتا ہے، ایک لقمہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ  
مشغول کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو تم کو آخرت کے ساتھ مشغول  
کر دیتا ہے اور ایک لقمہ وہ جو تجھ کو خالق کا راغب بناتا  
ہے۔ حرام کھانا تجھے دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے اور  
تیری طرف گنہگاروں کو محبوب کر دیتا ہے۔ اور مباح  
کھانا تجھے آخرت کی طرف مشغول کرتا ہے اور تیری طرف  
طاعت و عبادت کو محبوب کر دیتا ہے اور حلال کھانا تیرے  
قلب کو مولیٰ تعالیٰ سے نزدیک کرتا ہے۔ ان غذاؤں کی  
شناخت بغیر معرفت الہی نہیں ہو سکتی ہے اور معرفت الہی  
قلب میں ہوتی ہے نہ کہ دفتروں میں وہ اللہ ہی کی طرف  
سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق الہی سے

معرفت الہی کا حصول اس کے حکم پر عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے خدا کو سچا سمجھنے اور سچا ماننے کے بعد خدا تعالیٰ کو مکتب سمجھنے اور اس پر بھروسہ کرنے کے بعد اور ساری مخلوق سے جدا ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو حق عزوجل کو کیسے پہچان سکتا ہے حالانکہ تجھے تو کھانے اور پینے اور صحبت کرنے کے سوا کسی اور شے کی شناخت ہی نہیں ہے تو اس میں حلال و حرام کی پروا نہیں کرتا، یہ مزہ میں گو کسی کی طرح سے ہوں کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں سنا کہ جس نے اپنے کھانے پینے میں حلال و حرام کی پروا نہ کی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کچھ پروا نہ کرے گا اس کو وہ دوزخ کے کس دروازے سے دوزخ میں داخل کرے۔

آپ نے پھر بعد کلام کے فرمایا: پس تو تمام چیزوں سے بے پروا ہو جا اور کسی چیز کی پروا نہ کر اور نہ کوئی چیز تجھے رب تعالیٰ سے روکے اور نہ اس کی مخلوق تجھے پابند کرے سوا اس کے کہ تو ان سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرے اور مدارات کے ساتھ ان پر صدقہ کرے تیرا عمل مطابق ارشاد نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمیوں کیساتھ مدارات کرنا صدقہ ہے تو مخلوق کو عطیات الہی میں سے کچھ دیتا ہے اور ان پر کرامت الہی سے جو تیرے ساتھ ہے کرم کرتا ہے۔ ان کے ساتھ تیرا نرمی و لطف کا برتاؤ ہو اور ان کے سامنے تیرا پہلو جھکا ہے تیرا خلق من جسدہ اخلاق الہی کے ہو جائے گا اور تیرا کام امر الہی سے ہوگا۔ مشائخ دو قسم کے ہیں۔ ایک مشائخ شریعت اور ایک مشائخ طریقت و معرفت۔ مشائخ شرع تجھ کو مخلوق کے

إِنَّمَا تَحْصُلُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
بَعْدَ الْعَمَلِ بِحُكْمِهِ بَعْدَ التَّصَدِيقِ وَ  
الْصِّدْقِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
الْبَقَّةِ بِهِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلْقِ فِي  
الْجُمْلَةِ كَيْفَ تَعْرِفُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلَسْتَ تَعْرِفُ إِلَّا مَا تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ  
وَتَلْبَسُ وَتَنْكِحُ وَلَا تُبَالِي مِنْ أَيْ وَجْهِ  
كَانَ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ  
مَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ  
مِنْ أَيْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ أَدْخَلَهُ  
(وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ  
كَلَامِهِ) فَلَا تُبَالِ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ  
وَلَا تَتَمَنَّ شَيْئًا يَشْغُوكَ عَنْهُ شَيْءٌ  
لَا تُقَيِّدُكَ الْخَلْقُ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّكَ  
تُحَدِّثُهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَ وَتَتَصَدَّقُ  
عَلَيْهِمْ بِالْمَدَارَاتِ تَعْمَلُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَارَاتُ النَّاسِ  
صَدَقَةٌ تُعْطِيهِمْ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ  
عَزَّ وَجَلَّ تَتَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ  
كَرَامَتِهِ لَكَ تَرْفُقُ بِهِمْ تَلْطِفُ بِهِمْ  
وَتَلِينُ جَانِبَكَ لَهُمْ يَصِيرُ خَلْقُكَ  
مِنْ أَخْلَاقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَفِعْلُكَ  
مِنْ أَمْرِهِ الشَّيْءُ اثْنَانِ شَيْءٌ الْحَكِيمِ  
وَشَيْءٌ الْعَلِيمِ شَيْءٌ الْحَكِيمِ يَدُلُّكَ عَلَى

بَابُ الْخَلْقِ وَشَيْئُهُ الْعِلْمُ يَدُلُّكَ عَلَى  
بَابِ قُرْبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بَابَانِ لَا  
بُدَّ لَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِمَا بَابُ الْخَلْقِ  
وَبَابُ الْخَالِقِ بَابُ الدُّنْيَا وَبَابُ  
الْآخِرَةِ أَحَدُهُمَا تَبِعَ لِلْآخَرِ بَابُ الْخَلْقِ  
أَوَّلًا وَبَابُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ثَانِيًا مَا  
تَرَى الْبَابَ الْآخِرَ حَتَّى تَجُوزَ مِنْ  
الْبَابِ الْأَوَّلِ أُخْرِجْ بِقَلْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا  
حَتَّى تَدْخُلَ إِلَى الْآخِرَى إِخْدِمْ شَيْئَهُ  
الْحَكِيمَ حَتَّى يَدْخُلَ بِكَ إِلَى شَيْئِهِ الْعِلْمُ  
أُخْرِجْ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَقَّ  
عَزَّ وَجَلَّ هِيَ دَرَجَاتٌ دَرَجَةٌ بَعْدَ  
دَرَجَةٍ وَهِيَ صِدَائِنُ لَا يَجْتَمِعَانِ هَذِهِ  
الْأَشْيَاءُ أَصْدَادٌ فَلَا تَطْلُبُ الْجَمْعَ  
بَيْنَهُمَا يَقَعُ بِيَدِكَ فَزَعْ قَلْبِكَ الَّذِي  
هُوَ بَيْتُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَدَاعُ فِيهِ  
غَيْرُهُ إِذَا كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  
لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ فَكَيْفَ يَدْخُلُ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَلْبِكَ وَفِيهِ صُورَةٌ  
وَأَصْنَامٌ كُلُّ مَا سِوَاهُ صَنَمٌ فَتَكْسِرُ  
الْأَصْنَامَ وَظَهَرَ هَذَا الْبَيْتُ وَفِيهِ  
رَأَيْتَ حُصُونًا صَاحِبِيهِ فِيهِ تَرَى مِنَ  
الْعَجَائِبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ مِنْ قَبْلُ  
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا وَآتِنَا  
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

دروازے پر لے جائے گا اور شیخ طریقت قرب  
الہی کے دروازہ پر۔ دو دروازہ ہیں جس میں تجھے داخل  
ہونا ضروری ہے ایک خلق کا دروازہ اور ایک خالق کا دروازہ  
ایک دنیا کا دروازہ اور ایک آخرت کا دروازہ ،  
ایک دوسرے کے تابع ہے۔ اول خلق کا دروازہ  
ہے اور دوبارہ حق عزوجل کا دروازہ جب تک تو  
پہلے دروازہ سے نہ گزرے گا دوسرے دروازہ کو  
نہ دیکھ سکے گا۔ اپنے دل کے ساتھ تو دنیا سے باہر  
آتا کہ تو آخرت کی طرف داخل ہو۔ شیخ شریعت کا  
خدمت گزار بن تاکہ وہ تجھ کو شیخ طریقت کی طرف  
پہنچا دے تو مخلوق سے علیحدہ ہوتا کہ تو حق عزوجل کو  
پہچانے یہ درجہ میں ایک درجہ کے بعد دوسرا درجہ  
افروہ دونوں آپس میں ضد و مخالفت ہیں کہ باہم جمع  
نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں ضدین و مخالفت میں پس تو  
ان کے جمع کرنے کا طالب نہ بن تیرے ہاتھ کچھ نہ  
آئے گا تو اپنے قلب کو جو کہ خدا کا گھر ہے غیر اللہ سے  
خالی کرے اس میں ماسوی اللہ کو جگہ نہ دے جب کہ فرشتہ  
ایسے گھر میں جس میں کہ تصویر ہو داخل نہیں ہوتے پس تیرے  
قلب میں جب کہ اس میں تصویر اور بت بکثرت ہیں، حق  
عزوجل کیسے داخل ہوگا ہر ماسوی اللہ بت ہے پس تو  
ان بتوں کو توڑ اور اس گھر کو پاک و ستھر کرے اس وقت تو  
گھر والے کو گھر میں دیکھے گا اور وہ وہ عجائبات تجھے نظر  
آئیں گے جو پہلے کبھی تو نے دیکھے بھی نہ ہوں گے  
اے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی  
توفیق دے اور دارین کی نگوں سبب نصیب کر اور

## الْمَجْلِسُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

## پنٹالیسویں مجلس

اس بیان میں کہ غیر اللہ پر وثوق کرنے والا ملعون ہے

۲۶ رجب ۱۲۵۷ھ کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ

میں ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بیشک وہ ملعون و راندہ درگاہ الہی ہے جس کا بھروسہ اپنے جیسی مخلوق پر ہو کتنی کثرت سے وہ لوگ ہیں جو اس لعنت میں شامل ہیں، اکثر مخلوق میں سے ایک ہی ہے جس نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا۔ بلا شک اس نے مضبوطی کو کھڑا کیا اور جس نے اپنے جیسے مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی ٹمھی میں بند کرے اور ہاتھ کھولنے پر کچھ نہ پائے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُكَرَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ سَادِسَ عَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ خَمِيسَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَانَتْ ثِقَّتُهُ بِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ مَا أَكْثَرَ الَّذِينَ كَخَلَوْا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَاحِدٌ يَثِقُ بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَ وَمَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَنْ وَثِقَ بِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ فَهُوَ كَالْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ يَفْتَحُ يَدَهُ لَا يَبْقَى فِيهَا شَيْئًا

تیرے اوپر افسوس ہے! مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن، دو دن، تین دن اور ایک مہینہ، سال، دو سال پورا کر دیں گے آخر میں تجھ سے تنگ آکر روگردانی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صحبت اور اسی پر اپنی حاجتوں کا پیش کرنا لازم کھڑا کیونکہ یقیناً وہ تجھ سے تنگ آئے گا اور نہ دنیا و آخرت میں تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا۔ موعود کے لیے اس کی توحید کی قوت کی وجہ سے نہ ماں باپ باقی رہتے ہیں اور نہ

وَيُحَلِّكُ الْخَلْقُ يَقْضُونَ حَوَائِجَكَ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ وَفِي الْآخِرِ يَضْجُرُونَ مِنْكَ عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَ وَانْزَالِ حَوَائِجَكَ بِهِ فَإِنَّكَ لَا يَضْجُرُ مِنْكَ وَلَا يَسْأَمُ مِنْ حَوَائِجِكَ نَبِيًّا وَآخِرَةً الْمَوْحِدُ عِنْدَ قُوَّةِ تَوْحِيدِهِ لَا يَبْقَى لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا أَهْلٌ وَلَا

صَدِيقٌ وَلَا عَدُوٌّ لَا مَالٌ وَلَا جَاهٌ وَلَا  
 سُكُونٌ إِلَى شَيْءٍ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْتَعِلُ لَهُ  
 سِوَى التَّعَلُّقِ بِبَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَمِنْهُ يَا وَاشْفَا بِالْذِّينَارِ وَالْدَّرْهِمِ  
 الَّذِينَ فِي يَدِكَ عَنْ قَرِيبٍ يَذْهَبَانِ  
 مِنْ يَدِكَ عَقُوبَةً لَكَ كَمَا بَغِيتَهَا قَدْ  
 كَانَا فِي يَدَا غَيْرِكَ فَسَلِّبَا مِنْهُ وَسَلِّمَا  
 إِلَيْكَ لَتَسْتَعِينَ بِهِمَا عَلَى طَاعَةِ مَوْلَاكَ  
 عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَتْهُمَا صَنْمَكَ يَا جَاهِلُ  
 تَعْلَمُ الْعِلْمَ لِرُوحِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 أَعْمَلَ بِهِ فَاتَهُ يُؤَدِّبُكَ الْعِلْمُ حَيَاةً  
 وَالْجَهْلُ مَوْتٌ الصِّدِّيقُ إِذَا خَرَعَ مِنْ  
 تَعْلَمُ الْعِلْمُ الْمُشْتَرِكِ أُدْخِلَ فِي الْعِلْمِ  
 الْخَاصِّ عِلْمُ الْقُلُوبِ وَالْأَسْرَارِ فَإِذَا  
 تَمَكَّنَ فِي هَذَا الْعِلْمِ صَارَ سُلْطَانُ  
 دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَرْوِيْنَهِي وَ  
 يُعْطِي وَيَمْنَعُ بِأَذْنِ مُسْطَظِنِهِ يَصِيْرُ  
 سُلْطَانًا فِي الْخَلْقِ يَا مَرْوِيْنَهِي اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَيَنْهَى عَنْ تَهْنِئِهِ يَأْخُذُ مِنْهُمْ  
 بِأَمْرِهِ وَيُعْطِيهِمْ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ مَعَهُمُ  
 بِالْحُكْمِ وَمَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعِلْمِ  
 الْحُكْمُ بَرَاءَتٌ عَلَى الْبَابِ وَالْعِلْمُ دَاخِلُ  
 خِلْدَارِ الْحُكْمِ عَامٌّ وَالْعِلْمُ خَاصٌّ  
 الْعَارِفُ وَاقِفٌ عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَقَدْ سَلِمَ إِلَيْهِ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ

دوست اور نہ دشمن اور نہ مال اور نہ مرتبہ اور نہ فی الجملہ  
 کسی شے کی طرف سکون و قرار اس کا تعلق تو سوا اللہ کے  
 دروازہ اور احسانات کے کہی شے سے چلے جائیں  
 گے۔ اے اپنے مقبوضہ درہم و دینار پر بھروسہ کرنے  
 والے عنقریب وہ دونوں سزا دینے کے لیے تیرے  
 ہاتھ سے چلے جائیں گے جیسے کہ تو نے ان کو طلب  
 کیا تھا وہ درہم و دینار تیرے غیر کے قبضہ میں تھے  
 ان سے چھین کر تیرے قبضہ میں اس لیے دیے  
 گئے تھے تاکہ تو ان دونوں سے اطاعت الہی پر  
 مدد لیتا۔ پس تو نے ان دونوں کو اپنا بت بنالیا۔  
 اے جاہل! اللہ واسطے علم سیکھ اور اس پر عمل کر  
 وہ تجھے ادب و ان بنائے گا علم حیوۃ ہے اور جمالت  
 موت، صدیق جب کہ علم مشترک کے سیکھنے سے فارغ  
 ہو جاتا ہے تو اس کو علم خاص میں جو کہ علم قلوب و علم باطن  
 ہے داخل کر دیا جاتا ہے پس جب تو اس علم میں مہارت  
 حاصل کر لیتا ہے تو وہ دین الہی کا بادشاہ ہو جاتا ہے اور  
 اپنے بادشاہ بنانے والے کی اجازت سے حکم کرتا  
 باز رکھتا ہے۔ منع کرتا ہے اور دیتا ہے وہ مخلوق کا  
 بادشاہ بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کے حکم سے حکم دیتا  
 ہے اور اس کے منع فرمائیے سے منع کرتا ہے  
 مخلوق سے بامر الہی لین دین کرتا ہے پس حکم کے اعتبار  
 سے وہ مخلوق کے ساتھ بڑا ہے اور علم کے اعتبار سے حق عز و جل کے ساتھ کم  
 دربار الہی کے دروازہ کا دربان ہے اور علم گھر کا داخل و اندرون۔ حکم تمام  
 ہے اور علم خاص۔ عارف دروازہ خداوندی پر  
 اس حالت میں کھڑا رہتا ہے کہ اس کی طرف علم

وَالْإِطْلَاعَ عَلَى أُمُورٍ لَمْ يَطْلُبْ غَيْرَهُ  
عَلَيْهَا يُؤْمَرُ بِالْعَطَاءِ فَيُعْطَى وَيُؤْمَرُ  
بِالْمَسَاكِ فَيُمْسِكُ يُؤْمَرُ بِالْأَكْلِ  
فَيَأْكُلُ وَيُؤْمَرُ بِالْجُرْعِ فَيَجُوعُ وَيُؤْمَرُ  
بِالْقِتَالِ عَلَى شَخْصٍ وَبِالْعَرَاضِ  
عَنْ الْآخَرِ يُؤْمَرُ بِالْأَخْذِ مِنْ شَخْصٍ  
وَبِالْوَرْدِ إِلَى الْآخِرِ الْمَنْصُورِ مَنْ تَصَرَّكَ  
وَالْمَخْذُولُ مَنْ خَذَلَهُ الْقَوْمُ يَأْتُونَ  
إِلَيْكُمْ وَلَيَنْفَعَنَّكُمْ لَا يَحْوَايِحِمُ وَلَا  
حَاجَةٌ لَهُمْ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي  
حَبَالِ الْخَلْقِ يَفْتَلُونَ وَلَيُنْيَا بِهِمْ  
بَشَادُونَ وَعَلَيْهِمْ يَشْفِقُونَ هُمْ  
جَهَابِدَةُ الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ أَيْشُ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ لَكُمْ  
لَا لَهُمْ شُعْلُهُمُ النَّصَحُ لِلْخَلْقِ وَالِدَوَامُ  
عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ  
فَهُوَ يَدُومُ وَيَثْبُتُ وَمَا كَانَ مِنْ  
غَيْرِهِ فَلَا إِخْدِمُ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ  
الْعَمَلُ وَالْأَصْدِقُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا صَبَرْتَ عَلَى خِدْمَةِ  
الْعِلْمِ أَوْ لَا كَبَدًا أَنْ يَخْدِمَ تَأْنِيًا يَصْبِرُ عَلَى خِدْمَتِهِ كَمَا  
صَبَرْتَ عَلَى خِدْمَتِهِ إِذَا صَبَرْتَ عَلَى خِدْمَةِ الْعِلْمِ أَعْطَيْتَ  
فِيهِ الْقَلْبَ وَنُورَ الْبَاطِنِ يَا قَوْمَ سَلِّمُوا أَلَمْؤُورَ إِلَى الْحَقِّ  
عَرَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ مِنْكُمْ أَنْتَظِرُوا  
فَرَجَهُ فَإِنَّهُ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ فَرَجًا  
إِخْدِمُوا الْحَقَّ عَرَّ وَجَلَّ وَاسْتَفْتَحُوا

معرفت سپرد کر دیا ہے اور ایسے حالات پر خبردار کر دیا گیا ہے  
کہ دوسرے اس سے واقف نہیں عطا فرمانے کا حکم دیا  
جاتا ہے پس لوگوں کو عطا کرتا ہے اور جہاں روک لینے کا  
حکم دیا جاتا ہے پس روک لیتا ہے کھانے کے حکم ملنے پر  
کھا لیتا ہے بھوکے رہنے کے حکم پر بھوکا رہتا ہے۔  
کسی شخص پر توجہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی سے غور  
کا کسی سے نذرانہ لینے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی پر خرچ  
کر دینے کا جو اس کی مدد کرتا ہے وہ منصور ہوتا ہے اور جو  
اس کو حقیر سمجھتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے اولیا راشد تھاری  
طرف محض تھارے واسطے اور تھارے نفع کے لیے آتے  
ہیں نہ ان کی حاجتوں کے واسطے ان کی مخلوق میں سے  
کسی کی طرف کوئی حاجت ہی نہیں وہ مخلوق کی رسیوں میں بل  
دیتے ہیں ان کی عمارتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان پر شفقت  
و مہربانی کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں خدائی سردار ہیں  
وہ جو کچھ تم سے بیٹے ہیں تمہارے ہی لیے بیٹے ہیں نہ کہ  
اپنے لیے۔ مخلوق کی خیر خواہی اور اس پر ہمیشگی ان کا مشغلہ ہے  
کیوں کہ جو چیز خدا کی طرف ہوتی ہے پس وہ دائم و قائم رہتی ہے  
اور جو چیز غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے پس اس کیلئے دوام نہیں ہوتا تو  
علم اور علماء عالمین کی خدمت کر اور اس پر صبر کر جب تو خدمت  
علم پر اذرا صبر کر لیا ضرور ہے کہ علم زائل بعد تیری خدمت کر لیا  
اور وہ تیری خدمت پر ویسا ہی صابر ہوگا جیسا کہ تو اس کی خدمت پر صابر  
رہا جب تو خدمت علم پر صبر کر لیا تو تجھ کو نعم قلبی اور نور باطن عطا فرمایا  
جائز گارے قوم تم اپنے تمام امور حق عزوجل کے سپرد کر دو پس وہ  
تمہارے ساتھ تم سے بہت علم والا ہے تم اس کی کشائش کا انتظام  
کر لو ایک پل سے دوسرے پل تک بہتری کشائش ہے تم حق عزوجل

بَابُهُ وَاعْلَمُوا أَبْوَابَ الْخَلْقِ فَإِنَّهُ يُرِيكُمْ  
عَجَائِبَ مَا لَيْسَ فِي حِسَابِكُمْ  
وَيُحَكِّمُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
أَنْ يَنْفَعَكَ عَلَى أَيْدِي الْخَلْقِ نَفْعَكَ وَ  
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُضْرَكَ عَلَى أَيْدِيهِمْ كَانَ  
ذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَخِرُّ وَالْمِلَّةُ وَالْمُعْطَى  
لِقُلُوبِهِمْ هُوَ الْمُدْحِي وَالْمُمِيتُ هُوَ  
الْمُعْطَى وَالْمَائِنُ هُوَ الْمُعِزُّ وَالْمُنِيلُ  
هُوَ الْمُمْرِضُ وَالْمُعَافِي هُوَ الْمُسْخِبُ  
وَالْمُجَوِّعُ هُوَ الْمُكْسِي وَالْمُعْرِئُ هُوَ  
الْمُحْسِنُ وَالْمُوحِشُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ  
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ كُلُّ ذَلِكَ هُوَ لَا  
غَيْرُكَ اعْتَقِدْ هَذَا بِقَلْبِكَ وَ أَحْسِنْ  
مَعَاشِرَةَ الْخَلْقِ بظَاهِرِكَ وَهَذَا شُغْلُ  
الصَّالِحِينَ الْمُتَّقِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ عَزَّ  
وَجَلَّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ وَيُكَادِرُونَ  
الْخَلْقَ يُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَ  
يَقُولُ بِهِمْ بِخَلْقٍ حَسَنٍ بِخَلْقِ الْكِتَابِ  
وَالسُّنَّةِ وَيَأْمُرُونَهُمْ بِمَا فِيهِمَا فَإِنْ  
قِيلُوا اشْكُرُوا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ  
خَرَجُوا مِنْهُمَا فَلَا يَبْقَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ  
صَدَاقَةٌ وَلَا مُحَابَاةٌ يَتَوَاقَحُونَ عَلَى  
الْخَلْقِ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ تَهْيِئِ  
إِجْعَلْ قَلْبَكَ مَسْجِدًا لَا تَدَّعُ مَعَ اللَّهِ  
أَحَدًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَنْ

کی خدمت کرو اور اس کا دروازہ کھلاؤ اور مخلوق کے دروازوں کو  
بند کرو و تم تحقیق خدا کے تعالیٰ تم کو ایسے ایسے عجائبات دکھائے گا جو کہ  
تمہارے شمار میں بھی نہ آسکیں گے۔ تجھ پر انیس: اگر اللہ عزوجل تجھ کو  
مخلوق کے ہاتھوں سے نفع دینا چاہے گا تو نفع پہنچا دیگا اور اگر  
وہ ان کے ہاتھوں سے تجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو دیباہی ہوگا  
وہی مسخر کرنے والا وہی نرم دل اور سخت دل کرنیوالا ہے وہی  
زندہ کرنے والا ہے اور ماریں والا ہے وہی دینے والا اور نہ  
دینے والا ہے وہی عزت و ذلت دینے والا ہے، وہی  
بیمار بنانے والا ہے اور عافیت دینے والا ہے، وہی  
پیٹ بھرنے والا اور بھوکا رکھنے والا ہے، وہی کپڑا پہنانے  
والا اور ننگا پھرانے والا ہے اور وہی وحشت میں ڈالنے  
والا ہے۔ وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے سب کچھ  
وہی ہے نہ کہ کوئی دوسرا اس بات کا اپنے دل سے اعتقاد  
رکھ اور مخلوق کے ساتھ اچھائی کیساتھ ظاہر و زندگانے بسر کر  
اور یہی نیکو کار متقیوں کا مشغلہ ہے وہ تمام حالتوں میں اللہ  
عزوجل سے ڈرتے رہتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ خاطر و  
مدارات سے پیش آتے ہیں مطابق اخلاق قرآن و حدیث  
کے اخلاقِ حسنہ سے ان سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو  
ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اس کو سمجھ لیں ان کو مطابق قرآن  
و حدیث حکم دیتے ہیں پس اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کا  
شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگر تعمیل حکم نہیں کرتے ہیں تو مخلوق اور  
اولیاء اللہ کے درمیان میں مطلقاً دوستی اور محبت نہیں  
رہتی وہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے معاملہ میں مخلوق کا لحاظ  
نہیں کرتے تو اپنے قلب کو مجذباتے اور خدا کے ساتھ کسی  
کو نہ لپکار، نہ اس میں غیر اللہ کو جگہ دے پس

الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا  
 فَإِذَا تَرَفَّتْ دَرَجَةُ هَذَا الْعَبْدِ مِنَ الْإِسْلَامِ  
 إِلَى الْإِيمَانِ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيمَانِ مِنَ  
 الْإِيمَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى  
 الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمَحَبَّةِ مِنَ الْمَحَبَّةِ  
 إِلَى الْمَحَبُّوبَةِ مِنْ طَلَبِهِ إِلَى مَطْلُوبَتِهِ  
 فَحِينَئِذٍ إِذَا عَقَلَ لَمْ يَتْرُكْ وَإِذَا نَسِيَ  
 ذَكَرُوا إِذَا نَامَ أَتْبَهَ وَإِذَا عَفَلَ وَفَطَوَ إِذَا وَلَّى أَقْبَلَ  
 وَإِذَا سَكَتَ دُطِقَ فَلَا يَزَالُ أَبَدًا مُسْتَقِظًا  
 صَافِيًا لِأَنَّهُ قَدْ صَغَتْ إِلَيْهِ قَلْبُهُ يُرَى  
 مِنْ ظَاهِرِهَا بَاطِنُهَا وَبَرِّكَ الْيَقْظَةِ مَنْ  
 نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ  
 تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَانَ يُرَى  
 مِنْ وَرَائِهِ كَمَا يُرَى مِنْ أَمَامِهِ كُلُّ  
 أَحَدٍ يَقْظَتُهُ عَلَى قَدَرِ حَالِهِ فَالتَّحِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِلُ أَحَدٌ  
 إِلَى يَقْظَتِهِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُشَارِكَهُ أَحَدٌ  
 فِي خَصَائِصِهِ غَيْرَ أَنَّ الْأَبْدَالَ وَالْأَوْلِيَاءَ  
 مِنْ أُمَّتِهِ يَرُدُّونَ عَلَى بَقَايَا طَعَامِهِ وَ  
 شَرَابِهِ يُعْطُونَ قَطْرَةً مِنْ بَحَارِ مُقَامَلَتِهِ  
 وَذَرَّةً مِنْ جِبَالِ كَرَامَاتِهِ لِأَنَّهُمْ وَرَاقَةُ  
 الْمُتَمَسِّكُونَ بِدَائِيهِ النَّاصِرُونَ لَهُ  
 الدَّائُونَ عَلَيْهِ النَّاشِرُونَ لِعِلْمِ دِينِهِ  
 وَشَرْعِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهُ وَتَحِيَّاتُهُ  
 وَعَلَى الْوَارِثِينَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الْمُؤْمِنُ لَمَعَ الدُّنْيَا فَاسْرَادَهَا وَطَلَبَهَا  
وَأَمْتَلَا قَلْبَهُ بِهَا فَأَمَاتَتْ تَمْلِكُهُ  
فَطَلَقَهَا ثُمَّ طَلَبَ الْآخِرَةَ حَتَّى وَجَدَهَا  
فَأَمْتَلَا قَلْبَهُ بِهَا فَخَافَ مِنْ تَغْيِيدِهَا  
وَحَبَسَهَا لَهُ عَنْ رِيَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَطَلَقَهَا  
وَأَقْعَدَهَا إِلَى جَنْبِ الدُّنْيَا وَأَدَّى قَرْضَهَا  
وَلَحِقَ بِبَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَحَكِيمٌ  
عِنْدَكَ وَتَوَسَّدَ بَعْتَبَتِهِ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
الْحَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الزَّاهِدِ فِي التَّجَمُّعِ  
ثُمَّ فِي الْقَمَرِ ثُمَّ فِي الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ لَا  
أُحِبُّ الْأَفْلَاقَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ  
فَطَرِ السُّلُوكِ وَالْأَرْضِ حَقِيقًا وَمَا أَنَا  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا دَامَ تَوَسَّدُكَ بِالْعَبْتَةِ  
وَعَرَفَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ صِدْقَهُ فِي  
الطَّلَبِ فَتَحَ الْبَابَ وَأَذِنَ لِقَلْبِهِ فِي  
الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَاسْتَخْبَرَ عَنْ حَالِهِ  
وَمَا جَرَى عَلَيْهِ مَعَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُ وَقَضَتُهُ فَتَرَبَّهَ  
وَالنَّسَةَ وَحَدَّثَتْهُ وَخَلَعَتْ عَلَيْهِ خِلْعَةَ  
رِضَاكَ وَأَمْلَاكَ مِنْ حِكْمِهِ وَعِلْمِهِ  
وَدَعَا إِلَى طَلْقَتَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَجَدَّ لَهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا وَكُتِبَ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَهُمَا قَضِيَّةٌ وَشَرَطَ عَلَيْهِمَا تَرْكَ  
الْأَدِيَّةِ وَجَعَلَ لَهُمَا حَادِمَتَيْنِ لَمْ  
يُؤْفِيَا بِهِ أَفْسَاحَةً مِنْهُمَا وَالْقَفَى

آمین! مسلمان نے دنیا پر نظر ڈالی پس اس کو چاہا اور طلب کیا  
اور اپنے قلب کو اس سے بھر لیا پس دنیا نے اس پر ملکیت  
کا ارادہ کیا اس پر اس مسلمان بندہ خدا نے دنیا کو طلاق دے  
دی بعد اُخرت کو طلب کیا یہاں تک کہ اس کو بھی پالیا  
اور اپنے

دل کو بھی اس سے بھر لیا تب اس کو ڈھونڈا کہ کس آخرت اس کو  
مقیمہ کرے اور رب عزوجل سے نہ روک لے پس آخرت  
کو بھی طلاق دے دی اور اس کو دنیا کے پہلو پر بٹھا دیا اور آخرت کا  
فرض ادا کر دیا اور خدا کی دروازہ پر پہنچ کر وہاں خیمہ کاڑ دیا اور اس  
آستانہ کو نیکہ بنا لیا ملت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیروی جو کہ تاروں  
پھر چاند پھر آفتاب بے توجہی کر نیوالے ہوئے پھر فرما دیا میں ڈوب  
جانیوالوں سے محبت نہیں کرتا میں نے اپنی ذات کو اس کی طرف  
متوجہ کر دیا جو کہ آسمان زمین کا پیداکرنیوالا ہے اور میں مذہب حق  
کا پیرو ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں پس جب آستانہ الہی  
پر اس کا تکیہ لگانا بدتر رہا اور حق عزوجل نے اس کی سچی طلب  
کو ظاہر طور سے جان لیا تو اس پر دروازہ قرب کھول دیا اور اس کے  
قلب کو حضوری کی اجازت دے دی اور اس کے حالات واقعات  
جو دنیا و آخرت کے ساتھ گزرتے تھے دریافت فرمائے حالانکہ وہ اس  
سے زیادہ خبردار ہے پس اس نے اپنا سارا ماجرا کہہ دیا پس اس پر  
حق تعالیٰ نے اس کو اپنے سے قرب کر لیا اور موانعت فرمائی۔  
ہر کامی سے شرف دیا اور اپنی رضامندی کا غلعت مرحمت فرمایا اور  
اس کو اپنی محنت و علم سے مالا مال کر دیا

اور اس کے دونوں طلاق دی ہوئی دنیا و آخرت کو بھلا کر  
ان دونوں سے اس کا ازمہ فرماتے کر دیا اور اس کے اور ان دونوں  
کے درمیان میں شرط نامہ لکھ دیا اور ایذا رسانی سے باز رہنے کی شرط

عَلَيْهِمَا مَحَبَّتَهُ وَانْقَلَبَ الْأَمْرُ فِي حَقِّهِ  
صَارَ مَقَامُ قَلْبِهِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَتَنَحَّى مَا يَسُوأُ عَنْهُ صَارَ عَبْدًا حُرًّا  
عَبْدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُرًّا مِمَّا سِوَاكَ  
مُطْلَقًا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ لَا يَمْلِكُكَ  
شَيْءٌ وَهُوَ يَمْلِكُ الْأَشْيَاءَ صَارَ مَلِكًا  
لَا يَمْلِكُكَ سِوَى الْمَلِكِ الْبَابُ مُشْرَعٌ  
فِي وَجْهِهِ بِإِذْنِ مُطْلِقِ لَا بَوَّابٍ وَلَا  
حَاجِبٍ

يَا غُلَامُ كُنْ غُلَامَ الْقَوْمِ فَإِنَّ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ نَخِذٌ لَهُمْ أَمَّا وَقْتُ  
تَنَاوُلِ أَخَذُوا مِنْهَا بِإِذْنِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ يَعْطُونَكَ صُورَةً مِنَ الدُّنْيَا مَعَهُ  
فِي الْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ عَرِّفْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ دُنْيَا  
وَآخِرَةً.

کی اور ان دونوں کو اس کا خادم بنادیا تاکہ وہ اس کے حق پر سے  
طور سے اس کو ادا کرتی رہیں اور دونوں کے دلوں میں اس کی  
محبت ڈال دی اور اس کا معاملہ پلٹ گیا اس کے قلب کا قیام اب  
عز و جل کے حضور میں قرار پایا اور ماسوی اللہ اس سے سب علیحدہ  
ہو گئے آزاد بندہ ہو گیا صرف اللہ کا غلام رہا اور ماسوی اللہ سے  
آزاد زمین و آسمان میں بے قید اس کی کوئی شے مالک نہیں اور وہ  
تمام اشیاء کا مالک بن گیا بادشاہ ہو گیا سوا خدا کے اس کا کوئی  
مالک نہ رہا قرب الہی کا دروازہ اجازت عامہ کیساتھ اس کے لیے  
مفتوح ہے نہ کوئی دربان ہے اور نہ روک ٹوک کرنے والا۔

اے غلام! توا لیا اللہ کا خادم بن جا کیوں کہ دنیا و آخرت  
دونوں ان کی خدمت گزار ہیں جس وقت جو کچھ ان دونوں کیلئے  
چاہتے ہیں باذن اللہ لے لیتے ہیں وہ تم کو ظاہر اور باطنی دیکھیں  
گے اور باطنی آخرت۔

اے اللہ! ہمارے اور ان کے درمیان میں دنیا و آخرت  
دونوں میں معرفت کرا دے۔ آمین۔



## المجلس السادس والأربعون

## چھالیسویں مجلس

## دنیا کے چھوڑ دینے کے بیان میں

انوار کے دن ۲۸ رجب ۱۲۵۵ھ کی صبح کو خلافت شریف میں ارشاد فرمایا :

دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا تم مخلوق کے فضل پر نظر ڈالنے کے دروازوں کو بند کر لو اور فضل الہی پر نظر ڈالنے کے دروازے کو کھول لو تم صفائی قلب اور مقرب سیر کی حالت میں اپنے مخصوص امور میں کعب اور اسباب کے دروازہ بند کر لو نہ کہ ان امور میں جو کہ تھکائے اہل و عیال متعلقین کے ساتھ عام ہیں پس تمہاری کمائی اور نفع اور تحصیل معاش دوسروں کے لیے ہو۔ اور تم مخصوص اپنے لیے فضل الہی کے طبق سے طالب ہو اور اپنے نفسوں کو دنیا کے ساتھ بٹھا دو اور اپنے قلوب کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو مولے عزوجل کے ساتھ اور کہتے رہو کہ اے مولے تو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔

اور اپنے ابدال انبیاء یعنی اولیاء اللہ کے بارہ میں فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہیں حکم دیں اسے اُن سے قبول کرو کیوں کہ وہ تم کو اللہ و رسول کے امر و نہی کے مطابق کرنے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب انہیں بلوایا جاتا ہے پس وہ بولتے ہیں دیئے جاتے ہیں پس اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کی حرکت اپنی طبیعتوں اور نفسوں کے مطابق نہیں ہوتی ہے وہ دین میں اپنی خواہشوں کی وجہ سے کسی کو خدا کا شریک نہیں بناتے یہی انہوں کا احوال

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَكْرَةَ الْأَحَدِ تَامِنَ عَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ سَنَةِ ثَمَاسَ وَأَرْبَعِينَ خَمْسًا أَلَدْنِيَا سَوَقٌ عَنْ قَرِيبٍ يَنْفَلِقُ أَغْلِقُوا أَبْوَابَ رُؤْيَا وَفَضْلِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ بَابَ رُؤْيَا فَتَقَرَّلِ الْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ أَغْلِقُوا أَبْوَابَ الْاِكْتِسَابِ وَالْاَسْبَابِ فِي حَالِ صَقَاءِ الْقُلُوبِ وَقُرْبِ الشَّرِّ فِي مَا يَخْصُكُمْ لَا فِي مَا يَعْصَمُ غَيْرَكُمْ مِنَ الْأَهْلِ وَالْإِنْبَاءِ فَلْيَكُنِ الْكَسْبُ لِغَيْرِكُمْ وَالتَّغْنَى لِغَيْرِكُمْ وَالتَّحْصِيلُ لِغَيْرِكُمْ وَاطْلُبُوا مَا يَخْصُكُمْ مِنْ حَبِيقِ فَضِيلِهِ وَاقْبَلُوا أَنْفُسَكُمْ مَعَ الدُّنْيَا وَقُلُوبَكُمْ مَعَ الْآخِرَى وَأَسْرَأَ مَا كَرَّمَهُ الْمَوْلَى أَنْ تَعْلَمَ مَا نُرِيدُ (وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي أَبْدَالِ الْأَنْبِيَاءِ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ قَائِمًا وَمَوْتًا بِهِ قَائِمًا وَمَوْتًا كَرَّمَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ وَيَنْهَوْنَ بَيْنَهُمَا فَيُطَقُونَ يُعْطُونَ فَيَا خُدُون لَا يَتَحَرَّكُونَ حَرَكَةً يَطْبَاعِهِمْ وَنَفْسِهِمْ لَا يَشَارَكُونَ الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ فِي دِينِهِ يَا هَوِيَّتِهِمْ إِنِّبَعُوا

افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے انہوں نے  
اللہ عزوجل کا قول مانتا کہ الرسول الایۃ جو کچھ تم کو رسول  
دیں پس اس کو لے لو اور جس سے منع کریں پس اس سے باز  
رہو سُن لیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم کی پیروی کی یہاں تک کہ حضور نے ان کو اپنے بھیجنے  
والے کی طرف پہنچا دیا وہ حضور سے قریب ہوئے پس حضور صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے ان کو قریب کر دیا ان کو دربار الہی سے  
لقب اور خلعت اور مخلوق پر حکومت دلوا دی۔

اسے منافقو! تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ دین قصہ کہانی  
ہے اور تحقیق امر دینی بیکار ہے اور محل تھیں اور تمہارے  
شیطانوں اور تمہارے بُرے ہم نشینوں کی کوئی عزت نہیں  
اسے اللہ مجھ پر اور ان پر توبہ ڈال دے اور ان کو نفاق کی  
ذلت اور شرک کی قید سے غلامی دیدے۔ تم اللہ عزوجل کی عبادت  
کو۔ حلال کمائی سے اس کی عبادت پر مدد چاہو۔ یہ تحقیق اللہ  
عزوجل سلطان تابعدار حلال کمائی کھانے والے بندہ کو دوست  
رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو  
کھائے اور کام کرے اور اس کا دشمن ہے جو کھائے اور  
کام نہ کرے وہ اس کو دوست رکھتا ہے جو کھائے اور کام نہ کرے  
اور اس سے دشمنی رکھتا ہے جو کھائے اور نفاق سے اور مخلوق پر توکل کرے  
کھاتا ہے۔ وہ موحّد کو دوست رکھتا ہے اور مشرک  
کو دشمن۔ وہ تسلیم و رضا والے کو دوست رکھتا ہے۔  
اور جھگڑنے والے کو دشمن۔ دوستی کی شرط سے  
موافقت کرتا ہے۔ اور دشمنی کی شرط سے مخالفت  
کرتا ہے۔ تم اپنے کو رب عزوجل کی طرف سپرد کردو۔ اور  
دنیا و آخرت میں اس کی مدد بسر پر!

الرَّسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ سَمِعُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا  
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اتَّبِعُوا الرَّسُولَ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  
يُخْرِجَكُمْ إِلَى الْمَرْبِ قَبُولُ أَمْنِهِ فَقَرَّبَهُمْ  
إِلَى الْخَلْقِ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَلْقَابِ  
وَالْخِلَعِ وَالْإِمَارَةِ عَلَى الْخَلْقِ.

يَا مُنَافِقُونَ حَسِبْتُمْ أَنَّ الدِّينَ  
مُسْمَرٌ وَأَنَّ الْأَمْرَ سُدِّي لَكُمْ أَمْ لَكُمْ  
وَلَا لَشَيْءٍ طِينِكُمْ وَلَا يَقْرَأُكُمْ الشُّؤْءُ  
اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَى وَعَلَيْهِمْ وَخَلِّصْهُمْ مِنْ  
ذُلِّ الْيَفَاقِقِ وَقَيْدِ الشُّرَكَ اُعْبُدُوا اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعِينُوا عَلَى عِبَادِهِ  
يَكْسِبُ الْحَلَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ  
عَبْدًا مَوْمِنًا مَطِيعًا أَكْلًا مِنْ حَلَالِهِ  
يُحِبُّ مَنْ يَأْكُلُ وَيَعْمَلُ وَيَبْغِضُ  
مَنْ يَأْكُلُ وَلَا يَعْمَلُ يُحِبُّ مَنْ يَأْكُلُ  
يَكْسِبُهُ وَيَبْغِضُ مَنْ يَأْكُلُ يَبْغِضُهُ  
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْخَلْقِ يُحِبُّ الْمُوَحِّدَ  
لَهُ وَيَبْغِضُ الْمُشْرِكَ بِهِ يُحِبُّ الْمُسْلِمَ  
إِلَيْهِ وَيَبْغِضُ الْمُنَافِقَ لَهُ مِنْ شَرْطِ  
الْمَحَبَّةِ الْمَوَافَقَةِ وَمِنْ شَرْطِ الْعَدَاوَةِ  
الْمُخَالَفَةِ سَلِّمُوا إِلَى رَيْكُمُ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَارْضُوا بِتَدْبِيرِهِ فِي الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةِ مِنْ آيَامِ ابْتُلِيتَ بِبَلِيَّةٍ فَسَأَلْتُ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُشْفَهَا فَزَادَنِي بَلِيَّةً  
أُخْرَى فَوْقَهَا فَتَحَيَّرْتُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا  
قَائِلٌ يَقُولُ لِي أَلَمْ تَقُلْ لَنَا فِي حَالِ  
بَدَايَتِكَ أَنَّ حَالَتَكَ حَالَةُ النَّسِيلِ  
فَتَأَذَيْتَ وَسَكُتَ .

وَيُحَاكَ تَدْعِي مَحَبَّةَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَتُحِبُّ غَيْرَهُ هُوَ الصَّفَاءُ وَ  
غَيْرُهُ الْكُذْرُ فَإِذَا كَدَّرْتَ الصَّفَاءَ  
بِمَحَبَّةٍ غَيْرِهِ كَدَّمَا عَلَيْكَ يَفْعَلُ بِكَ  
كَمَا فَعَلَ بِأَبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَيَعْقُوبَ  
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَمَا مَالَ إِلَى وَلَدَيْهِمَا  
يُجْزَوِ مِنْ قَلْبَيْهِمَا ابْتِلَاهُمَا فِيهِمَا وَ  
نَبَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَمَا مَالَ إِلَى وَلَدَيْ ابْنَتَيْهِ الْحُسَيْنِ وَ  
الْحُسَيْنِ جَاءَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
فَقَالَ أَنْتُمَاهُمَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَمَّا  
أَحَدُهُمَا فَيُسْقَى السَّمَّ وَأَمَّا الْآخَرُ  
فَيُقْتَلُ فَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ وَخَرَّغَهُ  
لِمَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْقَلْبَ الْمَفْرُجَ  
بِهِمَا حُزْنًا عَلَيْهِمَا الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
غَيُورٌ عَلَى قُلُوبِ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ  
وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ يَا طَالِبَ الدُّنْيَا  
بِنَفَاقِهِ افْتَحَرَّ يَدَكَ فَمَا تَرَى فِيهَا شَيْئًا  
وَيْلَكَ زَهَدَتْ فِي الْكُسْبِ وَقَعَدَتْ

راضی ہو جاؤ۔ ایک زمانہ میں میں مبتلا ہوا ہا پس میں نے اللہ عزوجل  
سے اس کے دفع فرمانے کا سوال کیا پس اس نے دوسری ہمار  
اس سے زیادہ مجھ پر اور بڑھادی پس میں حیرت میں پڑ گیا اور نگاہ  
ایک کہنے والے کی آواز اُن کی کہنا سے کر گیا ہم نے تجھ سے حالت  
ابتدائی میں یہ نہ کہہ دیا تھا کہ تیری حالت تسلیم کی حالت ہونا چاہیے  
پس میں نے ادب کیا اور ساکت رہ گیا۔

تجھ پر انوس تو دعویٰ تو محبت الہی کا کہتا ہے اور نیز اللہ کو دوست رکھتا ہے  
وہ سراپا معصی ہے اور اس کا نیز سر سارہ کہدورت پس جب تو صناعی کو غیر اللہ کی  
دوستی سے مل کر کر دے گا۔ وہ تجھ پر کہدورت کمال دے گا اور وہ نیز سے ساتھ وہ  
معاملہ کرے گا۔ جو کہ اس نے ابراہیم خلیل اللہ اور یعقوب علیہما السلام کے ساتھ کیا تھا  
جب وہ دونوں حضرات تھوڑی سی محبت نبی کے ساتھ اپنے صاحبزادوں کی طرف  
مائل ہوئے تو دونوں کا ان بچوں ہی کے ساتھ امتحان لیا۔ اور ہمارے  
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دونوں نواسوں امام حسن و امام حسین  
رضی اللہ عنہما کی طرف مائل ہوئے تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام  
آئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ ان کو دوست رکھتے ہیں فرمایا ہاں  
یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے کہا ان میں سے ایک کو زہر پلایا جائے گا  
اور دوسرے کو قتل کیا جائے گا پس وہ دونوں آپ کے قلب سے  
نکل گئے اور آپ نے اپنے قلب کو مولے عزوجل کے لیے  
خالی کر لیا اور وہ خوشی ان پر غم سے تبدیل ہو گئی۔ حتیٰ عزوجل  
اپنے انبیاء اور اولیاء اور اپنے نیک بندوں کے دلوں پر بڑی  
عزت رکھنے والا ہے کہ غیب کی طرف متوجہ نہیں ہونے  
دیتا ہے۔ اسے نفاق سے دنیا کے طالب تو اپنا ہاتھ  
کھول پس اس میں تو کچھ بھی نہ پائے گا۔ تجھ پر انوس  
کہ تو نے کمائی کو چھوڑ دیا۔ اور دین کے بدلہ لوگوں کے

تَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِإِذْنِكَ الْكَسْبُ  
صَنَعَهُ الْإِنِّيَاءُ جَمِيعِهِمْ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ  
كَانَ لَهُ صَنْعَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ أَخَذُوا  
مِنَ الْخَلْقِ بِأُذُنِ الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ  
سَكْرَانُ بِخَمْرِ الدُّنْيَا وَبَشَرٍ هَوَاتِمًا  
هَوَا سَاتِمًا عَنْ قَرِيبٍ تَصْخُوفِي لِحَدِّكَ

الْمَجْلِسُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

سینا یسوی مجلس

علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے بیان میں

یکم شعبان ۱۴۳۵ھ کو مدرسہ قادریہ میں منگل کے دن  
ارشاد فرمایا :

علم سیکھ پورا عمل کرو اور اخلاص کرو اور اپنے نفس اور جو مخلوق سے  
مجدد ہو جاؤ اور اللہ اللہ کہو پھر ان سب کو چھوڑ دے کہ وہ اپنے  
بیہودہ خیالات میں کھیل رہے ہیں۔ ویسا ہی کہو جیسا کہ ابراہیم علیہ  
السلام نے کہا تھا۔ تحقیق یہ سب سوا رب العالمین کے میرے  
دشمن ہیں جب تک تیری نظر نقصان و نفع میں مخلوق پر پڑتی رہے  
تو ان کو چھوڑ دے اور ان کو دشمن سمجھ پس جب تیری توحید  
درست ہو جائے اور خباثت شرک کی تیرے قلب سے  
نکل جائے تو تو مخلوق کی طرف لوٹ آ اور ان سے میل جول کر  
اور جو کچھ تیرے پاس علم ہو اس سے ان کو نفع پہنچا۔ اور ان کو  
پروردگار عالم کے دروازہ کا راستہ بتا۔ خاص لوگوں  
اہل اللہ کی موت فی الجملہ تمام مخلوق سے مر جانا۔ ارادہ  
اختیار سے مر جانا ہے۔ جس کو یہ موت حاصل ہوئی۔

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فِي الْمَدْرَسَةِ  
مُسْتَهْلَ شُعْبَانَ سَنَةِ خَمِيسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
تَعَلَّمْ شَيْئًا أَعْمَلْ أَحِلِّصْ وَتَجَرَّدْ  
عَنْكَ وَعَنِ الْخَلْقِ وَقُلِ اللَّهُ شَيْءٌ ذَرَهُمْ  
فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلْ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا سَرَبَ  
الْعَالَمِينَ أَهْجَرَ الْخَلْقِ وَابْغَضَهُمْ  
مَا دُمْتُ تَرَاهُمْ فِي الضَّرِّ فَإِذَا أَصَبَتْ  
تَوْحِيدُكَ وَخَرَبَهُ خُبْتُ الشِّرْكَ مِنْ  
قَلْبِكَ عُدَّ إِلَيْهِمْ وَخَالَطَهُمْ وَانْفَعَهُمْ  
بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَذُرِّهِمْ عَلَى بَابِ  
رَبِّهِمْ عَنَّا وَجَلَّ مَوْتُ الْخَوَاصِّ مَوْتُ  
عَنِ الْخَلْقِ فِي الْجُمْلَةِ مَوْتُ عَنِ الْإِرَادَةِ  
وَالْإِخْتِيَارِ مَنْ صَدَحَتْ لَهَا هَذِهِ الْمَوْتَةُ

صَحَّتْ لَهُ الْحَيَاةُ الْآبِدِيَّةُ مَعَ رَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ تَصِيرُ مَوْتُهُ الظَّاهِرَةُ سَكْنَةً  
لِحُطَّةٍ غَشِيَةٍ لِحُطَّةٍ غَيْبَةٍ لِحُطَّةٍ نَوْمَةٍ ثُمَّ  
يَقُطُّهُ إِنْ أَرَدْتَ هَذِهِ الْمَوْتَةَ فَعَلَيْكَ  
بِتَنَادُلِ بَنِي الْمَعْرِفَةِ وَالْقُرْبِ وَالنَّوْمِ  
عَلَى عَتَبَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَأْخُذَكَ  
بِيَدِي الرَّحْمَةِ وَالْمِثْرِ فَيُحْيِيكَ حَيَاةً  
آبِدِيَّةً لِلنَّفْسِ طَعَامٌ وَلِلْقَلْبِ طَعَامٌ  
وَلِلسَّرِّ طَعَامٌ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَيْتُ عِنْدَ  
رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي يَعْنِي يُطْعِمُ  
سِرِّي مَعَانِي يُطْعِمُ رُوحِي الرُّوحَانِيَّةَ  
يُعَذِّبُنِي بِغُذَاءٍ يَخْصُمُنِي فِي الْأَوَّلِ عُرْجٍ  
بِقَالِيهِ وَقَلْبِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَعُ الْقَالِبِ  
وَصَارَ يَعْرِضُ بِقَلْبِي وَسِرِّي وَهُوَ خَاضِرٌ  
بَيْنَ النَّاسِ وَهَكَذَا وَرَأَيْتُهُ عَلَى  
الْحَقِيقَةِ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ  
وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّعَلُّمِ لِلْخَلْقِ  
يَا قَوْمُ كُلُّوْا بَقَايَا الْقَوْمِ اشْرَبُوا  
مَا تَدَبَّقُوا فِي أَوَانِيهِمْ يَا مَنْ يَدْعِي الْعِلْمَ  
لَا عِبْرَةَ بِعِلْمِكَ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا  
عِبْرَةَ بِعِلْمِكَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاصٍ لِأَنَّهُ  
جَسَدٌ بِلَا رُوحٍ عَلَامَةُ إِخْلَاصِكَ  
أَنَّكَ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى حَمْدِ الْخَلْقِ وَلَا إِلَى  
ذَمِّهِمْ وَلَا تَطْمَعُ فِيمَا آيَدِيهِمْ بَلْ تُعْطَى

اس کو اپنے رب عزوجل کے ساتھ حیوۃ ابدی ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ اس کی ظاہری موت صرف ایک لمحہ کا سکتہ ایک لحظہ کی غشی ایک لمحہ کی غیب و ناموجودگی ہے۔ ذرا سی دیر کا سونا ہے پھر ہمیشہ کی بیداری۔ اگر تو ایسی موت من چاہتا ہے پس تو معرفت و قرب الہی کی شراب نوشی کر اور اس کے آستانہ پر پڑ جا سوجانا اختیار کر تا کہ وہ تجھ کو اپنی رحمت اور احسان کے ہاتھ سے پکڑ لے پس وہ تجھ کو حیوۃ ابدی کی زندگی عطا فرما دے نفس کا علیحدہ کھانا ہے اور قلب کا جلا۔ اور سرو باطن کا جلا۔ اور اسی واسطے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ تحقیق میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں پس وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے مطلب یہ کہ وہ میرے باطن کو حقیقت کی غذا اور میری روح کو روحانیت کی غذا کھلاتا ہے مجھ کو ایسی غذا دیتا ہے جو میرے ساتھ مقصود ہے ابتداء اپنے قلب و جسم دونوں کے ساتھ معراج کیا ترقی و معراج حاصل کی بعدہ قالب و جسم کو روک لیا۔ اور ایسی حالت میں کوہ آدمیوں میں موجود و حاضر رہتے تھے۔ قلب و باطن سے عروج و معراج فرماتے رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی حال آپ کے ان حقیقی وارثوں کا ہے۔ جنہوں نے علم و عمل اور اخلاص اور مخلوق کی تعلیم و تلقین کو جمع کر لیا ہے۔

اے قوم۔ ادب اللہ کا سچا کچا کھاؤ جو کچھ ان کے برتنوں میں باقی رہا ہے اسی کو پیو۔ اے مدعی علم تیرے حکم کا بغیر عمل کے اور تیرے عمل کا بغیر اخلاص کے کچھ اعتبار نہیں ہے۔ کیوں کہ علم بلا عمل اور عمل بغیر اخلاص جسم بلا روح ہے۔ تیری اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف اور ان کی مذمت و برائی کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کے مال و اسباب کی طرف لالچ و طمع نہ کرے بلکہ تو ربوبیت

الرَّبُّ بِرَبِّهِ حَقًّا تَعْمَلُ لِلْمُنْعِمِ لَا لِلنَّعْمَةِ  
 لِلْمَالِكِ لَا لِلْمَلِكِ لِلْحَقِّ لَا لِلْبَاطِلِ مَا عِنْدَ  
 الْخَلْقِ قَشَرٌ وَمَا عِنْدَ الْخَالِقِ لُبٌّ فَإِذَا  
 صَحَّ صِدْقُكَ فِيهِ وَإِخْلَاصُكَ لَهُ وَ  
 دَامَ وَفُوقُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَطْعَمَكَ مِنْ  
 دَهْنِ هَذَا اللَّبِّ وَأَطْلَعَكَ عَلَى لُبِّ  
 اللَّبِّ وَسِرِّ السِّرِّ وَمَعْنَى الْمَعْنَى فَحِينَئِذٍ  
 تَتَعَرَّى عَمَّا سِوَاهُ فِي الْجُمْلَةِ التَّعَرَّى  
 لِلْقَلْبِ لَا لِلْجَسَدِ الزَّهْدُ لِلْقَلْبِ لَا لِلْجَسَدِ  
 الْإِعْمَاضُ لِلْسِّرِّ لَا لِلظَّاهِرِ النَّظَرُ إِلَى الْبَعَائِ  
 لَا لِلْمَبَائِي النَّظَرُ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا لِلْخَلْقِ  
 الدَّائِرَةُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَعَهُ لَا مَعَ الْخَلْقِ  
 تَتَعَدَّمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِأَلْضَافَةِ إِلَيْكُمْ  
 كَانَ لَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ كَانَ لَا نَتْنَى سِوَاهُ  
 تَتَعَدَّمُ الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ هُمْ  
 خَوَاصُّهُ مِنْ خَلْقِهِ لَا بَيْتًا أَجْسَادِهِمْ  
 الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ قَتَلُوا بِسُيُوفِ الْكُفَّارِ  
 لَا بَيْتًا أَجْسَادِهِمْ فَكَيْفَ الشُّهَدَاءُ  
 الَّذِينَ قَتَلُوا بِسُيُوفِ الْمَحَبَّةِ إِنَّمَا  
 يَتَسَلَّطُ الْخَرَابُ عَلَى الْأَبْنِيَةِ وَالْمَبَائِي  
 بِالْمَعَاصِي أَمَا تَرَى الْمَوَاضِعَ الْخَرَابُ  
 مَعَاصِي أَهْلِهَا خَرَبَتْهَا لَا أَنَّ الْمَعَاصِي  
 تُخَرِّبُ الْبِلَادَ وَتُهْلِكُ الْعِبَادَ هَكَذَا أَنْتَ  
 بَنَيْتَكَ بَكْدَةً إِذَا عَصَيْتَ فِيهَا جَاءَهَا  
 الْخَرَابُ إِذَا عَصَيْتَ يَجِيئُكَ الْخَرَابُ

کو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ تیرا عمل نعمت دینے والے کے  
 واسطے تیرے عمل مالک کے لیے ہو نہ کہ ملک کے لیے حق کے  
 لیے ہو نہ کہ باطل کے واسطے مخلوق کے پاس جو کچھ ہے۔ محض یہ  
 چھلکا ہے اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ سراپا مغتر جب اللہ  
 کے بارہ میں تیری سچائی اور اس کے واسطے تیرا اخلاص اور اس  
 کے روبرو تیری حضورِ درست ہو جائے گی۔ پس وہ تجھ کو اس مغز  
 کے روغن سے کھانا کھلائے گا اور وہ تجھے مغز کے مغز اور باطن  
 کے باطن اور حقیقت کی حقیقت پر خبردار کر دے گا پس اس وقت  
 تو اسوائے اللہ سے برہنہ ہو جائے گا۔ فی الجملہ یہ رنگی دل کی ہرے  
 نہ کہ جسم کے لیے زہر کا تعلق قلب سے ہوتا ہے نہ کہ جسم سے روگردانی  
 باطن سے ہوتی ہے نہ کہ ظاہر سے۔ نظر معانی کی طرف معتبر ہوتی  
 ہے کہ الفاظ پر دیکھنا اللہ عزوجل کا ہے نہ کہ مخلوق کا۔ دار و مدار  
 اس پر ہے کہ تو خالق تھے ساتھ ہو نہ کہ مخلوق کے ساتھ دنیا و آخرت  
 تمہارے اعتبار سے دونوں معدوم ہو جائیں۔ گویا نہ دنیا ہے  
 اور نہ آخرت گویا کوئی شے خدا کے سوا ہے ہی نہیں اللہ کی  
 مخلوق میں سے مخصوص اس کے محب جو کہ اعلاء کلمۃ اللہ  
 کے لیے کافروں کی تلواروں سے شہید ہوتے ہیں بدنی تکلیفیں  
 اٹھا کر کے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ لذتیں پاتے ہیں پس کیا حال  
 ہو گا ان شہیدوں کا جو کہ محبت کی تلواروں سے قتل کیے گئے  
 ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بچائے بدنوں اور جسموں پر بربادی مسلط  
 کی جاتی ہے کیا تو نے وہ دیرانے جن کو ان کے رہنے والوں  
 کے گناہوں نے خراب و برباد کر دیا نہ دیکھے کیوں کہ گناہی شہروں  
 کو خراب اور بندوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اسی طرح تیری حالت ہے  
 تیرا جسم ایک شہر ہے جب تو اس میں گناہ نافرمانی کرے گا  
 اس میں خرابی آجائے گی۔ جب تو گناہ کرے گا۔ اولاً خرابی

إِلَى جَسَدِكَ شَمَّ إِلَى جَسَدِ دِينِكَ يَجِيئُكَ  
 الْعَبَى وَالزَّمَنُ وَالظُّرُنُّ وَذَهَابُ الْقُرَّةِ  
 تَجِيئُكَ الْأَمْرَاضُ الْمُخْتَلِفَةُ تَجِيئُكَ  
 الْفَقْرُ فَيَخْرِبُ بَيْتَ مَالِكَ وَيُخْرِجُكَ  
 إِلَى أَصْدِ قَائِمِكَ وَأَعْدَاءِكَ وَبِكَ يَأْمَنُ  
 لَا تَخَادِعِ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ تَعْمَلْ عَمَلًا  
 وَتُظْهِرْ أَتَكَ لَهُ وَهُوَ لِلْخَلْقِ تَزَائِيهِمْ  
 وَتَنَافِيهِمْ وَتَتَمَلَّقُ لَهُمْ وَتَنْسَى رَبَّكَ  
 عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَرِيبٍ تَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا  
 مُفْسِدًا مَرِيضًا النَّبَاطِينَ عَلَيْكَ بِالْذَّوَاءِ  
 وَهَذَا الدَّوَاءُ لَا يَكُونُ عِنْدَ الصَّالِحِينَ  
 مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خُذِ الدَّوَاءَ مِنْهُمْ  
 وَاسْتَعْمِلْهُ وَقَدْ جَاءَتْكَ الْعَافِيَةُ  
 الدَّائِمَةُ وَالصِّحَّةُ الْأَبَدِيَّةُ لِمَعْنَاكَ  
 وَلِفَيْلِكَ وَلِسِرِّكَ وَلِيَحْلُوتِكَ مَعَ رَبِّكَ  
 عَزَّ وَجَلَّ تَتَغَيَّرُ عَيْنَا قَلْبِكَ فَتَنْظُرُ بِهَا  
 إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَصِيرُ مِنَ الْمُجِيبِينَ  
 الْوَقُوفِ عَلَى بَابِ الدِّينِ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى  
 مَا سِوَاهُ قَلْبُ فِيهِ يَدْعُهُ كَيْفَ يَنْظُرُ إِلَى  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ .

يَا قَوْمُ اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا وَاقِفُوا  
 وَلَا تُخَالِفُوا أَطِيعُوا وَلَا تَعْصُوا اخْلَصُوا  
 وَلَا تُشْرِكُوا وَحْدُوا الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ  
 بَابِهِ فَلَا تَبْرَحُوا سَلْوَهُ وَلَا تَسْأَلُوا غَيْرَهُ  
 اسْتَعِينُوا بِهِ وَلَا تَسْتَعِينُوا بِغَيْرِهِ تَوَكَّلُوا

تیرے بدن کی طرف اُسے کی پھر تیرے دین کے جسم کی طرف راہیت  
 کرے گی تجھے اندھا پن اپا سچ پن بہا پن حاصل ہوگا اور تیری قوت  
 جاتی رہے گی۔ تجھے طرح طرح کے مرض اُگھیریں گے۔ تجھے  
 محتاجی اُسے کی پس وہ تیرے مال کے گھر کو ویران و برباد کرے  
 گی اور وہ تجھے تیرے دوستوں اور دشمنوں کے طرف لے جائے  
 گی اور در بدر پھرائے گی اسے منافق تیرے اوپر نفوس ہے  
 حق عزوجل کے ساتھ مکرو فریب نہ کر اسے دھوکہ نہ دے تو  
 عمل کر کتاب اور انظار کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے کیا ہے۔  
 حالانکہ وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے تو ان سے ریا و نفاق کرتا  
 ہے اور ان کے واسطے چلو سنی و خوشامد کرتا ہے اور تو اپنے  
 رب عزوجل کو بھلا دیتا ہے عنقریب تو دنیا سے مفلس و محتاج ہو کر  
 نکلے گا۔ سوچ غور کر اسے باطن کے مریض تو اپنا علاج کروا کر۔  
 اور اس کی دوا تجھے اللہ عزوجل کے نیک بندوں ہی کے پاس ملے گی  
 ان سے تو دوا لے کر استعمال کر۔ اس سے تجھے عافیت دائمی۔  
 اور صحت ابدی حاصل ہوگی تیری حقیقت اور قلب اور باطن سب  
 کا علاج ہو جائے گا نیز تیری اس غلوت کا اللہ عزوجل کے ساتھ  
 ہوگی۔ تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی پس تو ان سے اپنے  
 رب عزوجل کو دیکھنے لگے گا۔ تو ان محبوبان الہی سے ہو جائے گا۔ جو کہ  
 استاد الہی پر ٹھہرنے والے ہیں اسوے اللہ کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے جس  
 قلب میں بدعت ہو وہ حق عزوجل کی طرف کیسے نظر کر سکتا ہے۔

اسے قوم تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ کرو موافقت  
 کرو اور مخالفت نہ بنو طاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو مخلص بنو اور  
 مشرک نہ ہو حق عزوجل کی وحدانیت پر عمل کرو و موحد بنو اور اس  
 کے استاد سے ہرگز نہ ہٹو اسی سے سوال کرو اس کے غیر سے سائل  
 نہ بنو اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو اسی پر توکل

کر داس کے غیر پر تمہارا توکل نہ ہو۔ اور تم اپنے مخصوص لوگوں اپنے نفسوں کو اس کی طرف سپرد کر دو اور اس کی تدبیر پر جو کہ تمہارے اور تمہارے غیروں کے لیے ہے راضی ہو جاؤ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ کہ سوال میں کیا تم نے قول الہی جو کہ اس نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا نہیں سنا جس کو میرا ذکر سوال کرنے سے باز رکھے گا میں اس کو ایسا عظیمہ دلوں کا جو کہ سائلین کی بر نسبت بہت بزرگ و بہتر ہو گا اسے ذکر الہی میں مشغول ہونے والے اور اسی کے لیے اپنے قلب کو منکر بنادینے والے کیا تو اس کی اس عطا سے راضی نہیں کہ وہ تیرا مجلس دہم نشین ہو جائے۔ اللہ عزوجل نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور میں اس کا مجلس ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے اور نیز فرمایا میں ان کے پاس ہوں جن کا دل میرے لیے شکستہ ہو رہا ہے۔

اے غلام تیرے خدا کو یاد کرنے سے تیرا قلب خدا سے نزدیک ہو جائے گا اور وہ تجھے خدا کے قریب کے گھر میں داخل کر دے گا اور تو خدا کا مہمان ہو جائے گا۔ مہمان کی عزت کی باقی ہے خصوصاً بادشاہ کے مہمان کی۔ تو کب تک اس بادشاہ سے ملک و سلطنت میں مشغول رہ کر روگردانی کرتا رہے گا غریب تو اپنی سلطنت و حکومت سے جدائی کرے گا اور غریب تو آخرت میں موجود ہو گا اور خیال کرے گا کہ گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے ہے۔ تو میرے ہاتھ کو خالی دیکھ کر مجھ سے نہ بھاگ پس تحقیق مجھے تو تجھ سے اور تمام مشرق و مغرب والوں سے بے پڑا ہی ہے میں تجھ سے تیرے ہی نفع کے لیے چاہتا ہوں تمہاری ہی ریسماں بننا رہتا ہوں۔ تو بدعت نہ کر اور دین الہی میں کوئی نئی بات جس کی اصل نہ ہو مت نکال۔ تو دو عادل گواہوں قرآن و حدیث کی پیروی کرتا رہو۔ پس تحقیق وہ دونوں تجھ کو تیرے رب عزوجل کی طرف پہنچا دیں گے۔ اور لیکن

عَلَيْهِ وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى غَيْرِهِ وَ أَنْتُمْ يَا خَوَاصُّ سَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَيْهِ وَارْضُوا بِتَدْبِيرِهِ فِيكُمْ وَاسْتَتِعِلُّوا بِذِكْرِهِ دُونَ مَسْئَلَتِهِ أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ يَا بَنِ اسْتَغْلِ بِذِكْرِهِ وَانْكَسِرْ قَلْبَكَ لِاجْلِهِ أَمَا تَرْضَى مِنْ عَطَايَ إِنْ يَكُونُ جَدِيسًا لَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي وَقَالَ أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجَلِي

يَا غُلَامُ بِذِكْرِكَ لَكَ يَقْرُبُ قَلْبُكَ مِنْهُ وَيُدْخِلُ إِلَى بَيْتِ قُرْبِهِ وَتَصِيرُ ضَيْفًا لَكَ الضَّيْفُ يُكْرَمُ وَلَا سَبِيحَ لَضَيْفٍ إِلَيْكَ إِلَى مَعِي تَسْتَغْلِ عَنْ هَذَا الْمَلِكِ بِالْمَلِكِ وَالْمَلِكُ عَنْ قَرِيبٍ تَعَارِيقُ مَلِكِكَ وَمَلِكُكَ عَنْ قَرِيبٍ يَحْصُلُ فِي الْآخِرَةِ وَتَرَى كَأَنَّ الْمَلِكًا تَكُنُ وَالْآخِرَةُ لَمْ تَكُنْ لَا تَهْرَبُوا مِنِّي لَنْفَعِي يَدَايَ فَإِنَّ عِنْدِي غَنَى عَنْكُمْ وَعَنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّمَا أُرِيدُكُمْ لَكُمْ فِي حَبَالِكُمْ أَقِيلُ لَا تَبْتَدِعْ وَلَا تُحْدِثْ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ إِيْتِمَ الشَّاهِدِينَ الْعَادِلِينَ لَكِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَإِنَّهُمَا يُؤْصِلَانِكَ إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا

إِنْ كُنْتَ مُبْتَدِعًا فَشَاهِدَاكَ عَمَلَكَ وَ  
هَوَاكَ فَلَا جَوْرَ يُؤْصِلُكَ إِلَى النَّارِ وَ  
يُلْحِقُكَ بِكَ بِغَيْرِ عَوْنٍ وَهَذَا مَا وَجَّهُوا بِهِمَا  
تَحْتَجُّجَ بِالْقُدْرِ فَلَا يَقْبَلُ مِنْكَ لَابِدًا  
لَكَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى دَارِ الْعِلْمِ وَالْتَعْلُمِ ثُمَّ  
الْعَمَلِ ثُمَّ الْإِحْلَاصِ بِكَ لَا يَتَّبِعُ شَيْءٌ  
وَلَا بَدَأَ مِنْكَ اجْعَلْ سَعْيَكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ  
وَالْعَمَلِ وَلَا تَجْعَلْهُ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا عَنْ  
قَرِيبٍ يَنْقُطِعُ سَعْيُكَ فَاجْعَلْ سَعْيَكَ  
فِيمَا يَنْفَعُكَ فَإِنَّ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَتَوَاجَدَ  
وَقَالَ مَا كَانَ مُقَدَّرَ مَعَهُ هَذِهِ الْعُرُوسُ  
حَتَّى كَانَ لَهَا الْبَحْثُ فَقَالَ لَمَحَهُ مِنْ  
السَّكَاةِ قَبْلَ التَّخَافِ

يَا عِلْمًا تَعَرَّضْ وَتَوَصَّلْ إِلَى يَمِينِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ عَنْكَ  
أَحَبَّكَ نَحْمُ غَيْرَ الرِّزْقِ عَنْ قَلْبِكَ وَقَدْ جَاءَكَ  
الرِّزْقُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ  
مِنْكَ وَلَا عَنَاءٍ نَحْمُ الْهُمُومَ عَنْ قَلْبِكَ وَ  
اجْعَلْهَا وَاحِدًا وَهُوَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
بِأَذَانِ أَفْعَلْتَ ذَلِكَ كَفَاكَ الْهُمُومُ كُلُّهَا هَمُّكَ  
مَا أَهَمَّكَ إِنْ كَانَ هَمُّكَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ  
مَعَهَا وَإِنْ كَانَ هَمُّكَ الْخَلْقُ فَإِنَّكَ  
مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ هَمُّكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
فَإِنَّكَ مَعَهُ دُنْيَا وَآخِرَةً

اگر تو بدعتی ہو جائے گا۔ پس تیرے دو گواہ تیری عقل و خواہش ہوں  
گی۔ پس یقیناً وہ دونوں تجھ کو دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ اور تجھے زمیں  
بامان اور اس کے لشکر کے ساتھ ملا دیں گے۔ غور و فکر تو قدر الہی کے  
ساتھ حجت کرتا ہے جو تجھ سے قبول نہ کی جائے گی تیرے لیے  
علم و تدریس عمل و اخلاص کی درس گاہ میں داخل ہونا لازمی ہے اول  
علم ہے پھر عمل بعد از اخلاص تجھ سے کچھ ہوتا نہیں حالانکہ ہونا  
ضروری ہے۔ تیری تمام تر سعی علم و عمل کی طلب میں ہونی چاہیے  
نہ کہ طلب دنیا میں مغرب تیری سعی کشش منقطع ہو جائے گی پس  
اپنی سعی ایسے کام میں کر جو کہ تجھے نفع دے۔ ایک شخص آپ کے  
روبرو کھڑا ہوا اور وجد ظاہر کیا اور دریافت کرنے لگا کہ اس دین کا  
پیش خیمہ کیا تھا جو اس کا ایسا نصیب ہو گیا۔ پس جواب میں ارشاد فرمایا  
کرشب وصال سے قبل بادشاہ و مالک کی ایک نظر لطف۔

اے غلام۔ اگے بڑھ اور رضا الہی تک پہنچ جاتا کہ وہ تجھ  
سے راضی ہو جائے۔ پس بہ تحقیق جب وہ تجھ سے راضی ہو جائے  
گا تو وہ تجھے اپنا محبوب بنائے گا۔ تو رزق کے غم کو اپنے قلب  
سے دور کر دے۔ تیرے پاس رزق اللہ عز و جل کی طرف سے  
بغیر مشقت و تکلیف اٹھانے کے آجائے گا۔ تو تمام غموں کو  
اپنے قلب سے نکال ڈال اور اس کو ایک بنائے اور وہ حق عز و جل کا غم  
ہے پس جب تو ایسا کرے گا وہ تیرے تمام غموں کو کافی ہو گا تیرا  
کفیل بن جائے گا۔ تیرا غم وہ ہے جو تجھے بے چین نہ دے گا تیرا  
دنیا کے لیے غم ہے پس تو دنیا کا ساتھی ہے اور اگر تیرا غم آخرت کے لیے  
تو آخرت کا ساتھی ہے اور اگر تیرا غم مخلوق کے لیے ہے پس تو ان کے ساتھ ہے اور  
اگر تیرا غم حق عز و جل کے لیے ہے پس تو دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ ہے۔

## اڑتالیسویں مجلس

## المجلس الثامن والأربعون

## غضب الہی سے بچنے کے بیان میں

۸ شعبان ۱۲۵۵ھ کو منگل کے دن مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروی ہے تحقیق آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا بناؤ نگھارا اس چیز سے کیا جس کو مخلوق پسند کرتی ہے۔ اور اللہ سے اس چیز کے ساتھ مقابل کیا جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے تو وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو گا تم کلام نبوت کو سن لو۔ اسے منافقو!۔ اسے آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے والا اسے حق کو مخلوق کے عوض اور باقی کو فانی کے بدلہ بیچنے والے۔ تمہارے کاروبار تجارت میں ٹوٹا ہے۔ اور تمہارا اصل مال بھی غارت ہو گیا تم پر انفسوس کو تم اللہ کے غضب اور غصہ کا اپنے کو نشانہ بنانے والے ہو کیوں کہ جو ایسی چیز سے اپنا بناؤ نگھارا کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی اس پر اللہ عزوجل غصہ فرماتا ہے تو مکاری نہ کر۔ اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کے نکال دینے سے آراستہ کر۔ مخلوق کے دروازوں کو بند کر دے اور ان کو تو اپنے قلب سے فنا کر دے یہاں تک کہ توبہ سمجھ لے کہ گویا مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو ان کے ہاتھوں پر نفع و نقصان کا کچھ خیال نہ کر تحقیق تو تو بدن کی آراستگی میں مشغول ہو گیا اور تو نے قلب کی آراستگی کو چھوڑ رکھا ہے قلب کی آراستگی توحید و اخلاص اور ضلّٰہ پر مجھروں سے کرنے اور اس کی یاد غیر اللہ کے بھلا دینے میں ہے عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثِ عَشْرَةِ رَجَبٍ فِي الْمَدْرَسَةِ ثَامِنِ شَعْبَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يُحِبُّونَ وَبَارَزَ اللَّهُ بِمَا يَكْرَهُ لِقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ اسْتَمْعُوا كَلَامَ التَّوْبَةِ يَا مُتَأَفِّقُونَ يَا بَارِعِينَ الْآخِرَةِ يَا دُرِّيَّا يَا بَارِعِينَ مَا يَبْقَى بِمَا يَفْنَى خَسِرَتْ بَعَارَتُكُمْ وَذَهَبَتْ دُرُسُ أَمْوَالِكُمْ وَيُكَلِّمُكُمْ أَنْتُمْ مُتَعَرِّضُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَخَطِهِ لِأَنَّ مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مَقْتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَيَّنَ ظَاهِرَكَ بِآدَابِ الشَّرِّعِ وَبَاطِنَكَ بِاخْتِلَاجِ الْخُلُقِ مِنْهُ سُدَّ أَبْوَابُهُمْ أَفْتَرِهِمْ مَنْ حَيَّتْ قَلْبَكَ حَتَّى كَانَتْهُمْ لَمْ يُحَلِّقُوا لَا تَرَى عَلَى أَيْدِيهِمْ صَبْرًا وَلَا نَفْعًا قَدْ اسْتَعْلَتْ بِزِينَةِ الْقَالِبِ وَلَا تَرَكْتَ رِيبَةَ الْقَلْبِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِحْلَاصِ وَالتَّقَاتِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُهُ وَنَسِيَانِ غَيْرِهِ عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

کو نیک عمل دوسے جس پر تو تعریف کو دوست نہ رکھے کرکے  
تیزی تعریف کریں اسے آخر کے اعتبار سے ہو تو نو!  
دیوانو اور دنیا کے اعتبار سے عاقلو یا ایسی عقل ہے  
جو تم کو نفع نہ دے گی۔ تو ایمان کے حاصل کرنے میں کوشش  
کر تحقیق تجھے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ تو بہر گوار معذرت  
چاہ اور نام ہو اور دونوں آنکھوں سے آنسو اپنے دونوں  
رخساروں پر بہا۔ کیوں کہ اللہ عزوجل کے خوف سے رونا۔  
گناہوں اور غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب تو دل  
سے توبہ کر لے گا یقیناً سچی توبہ کا نور چہرہ پر چمکنے لگے گا۔ تیرا چہرہ  
منور ہو جائے گا۔

اے غلام۔ اپنے راز کے چھپانے میں جب تک کہ تو  
اس کی حفاظت پر قادر ہو کوشش کرتا رہ۔ پس جب تو مغلوب ہو جائے  
اور راز ظاہر ہو جائے پس اس وقت تو معذور ہے۔ محبت  
پروہ اور ستر کی دیواروں حیا کی دیواروں وجود اور مخلوق کی  
نظر کرنے کی دیواروں کو خراب دیران کر دیا کرتی ہے۔ بناوٹ  
آدمی کی نکال دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جس پر کہ بے اختیاری سے  
وجد طاری ہو اس کے قدموں کی خاک کا سرمہ بنایا جاتا ہے کیوں کہ  
بناوٹ نفسانی امر ہے اور غلبہ بے اختیاری امر ہے وہ مخلوق کے  
دکھانے کا ہے اور رب والا تو اس بات کی کوشش کر کہ تو نہ رہے  
بلکہ صرف وہی رہ جائے۔ تو اس کی کوشش کر کہ اپنے سے نقصان  
کے رفع کرنے میں تو حرکت کرے اور نہ اپنے لیے نفع حاصل کرنے میں  
پس تحقیق جب تو ایسا کرے گا تو حق عزوجل تیرے لیے ایک خدمت کا دفتر کرے گا  
جو کہ تیری خدمت کیا کرے گا اور تجھے تنہا کیلئے وہ چیزوں کو در کرتا رہے گا۔  
تو حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جاوے گا کہ وہ ہمارے لئے کے ساتھ جیسے چاہے پڑے اور جیسے  
اصحاب بہمن جبریل کے ساتھ تو حق تعالیٰ کی محبت میں فی الجملہ فیہ وجود اور بلا اختیار اور بغیر

الْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي لَا تَحِبُّ أَنْ تَحْصِدَ  
عَلَيْهِ يَا بُلْدُ يَا مَجَانِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّنْيَا  
هَذَا عَقْلٌ لَا يَنْفَعُكُمْ إِجْهَدُ فِي تَحْصِيلِ الْإِيمَانِ  
وَقَدْ حَصَلَ لَكَ الْإِيمَانُ تُبِّ وَاعْتَدِمْ وَ  
انْدَمْ وَأَمْرٌ سَلُّ دُمُوعَ عَيْنَيْكَ عَلَى حَدِّكَ  
فَإِنَّ الْبَكَاءَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يُطْفِئُ نِيرَانَ الْمَعَاصِي يُطْفِئُ نِيرَانَ  
غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تُبَّتْ بِفَتْلِكَ  
فَإِنَّ نُورَ التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ يُضِيءُ عَلَى  
الْوَجْهِ

يَا غُلَامُ إِجْهَدُ فِي حِفْظِ سِرِّكَ  
مَهْمَا فَتَدَارَتْ عَلَى الْحِفْظِ فَإِذَا جَاءَكَ تِلْكَ  
الْغَلْبَةُ فَإِنَّتَ مَعْدُورٌ الْحَبِّ يُخَرِّبُ  
حَيْطَانَ الْخُدْرِ وَالسُّتُورِ حَيْطَانَ الْحَيَاءِ  
حَيْطَانَ الْوُجُودِ حَيْطَانَ رُؤْيَا الْخَلْقِ  
الْمُنَكَّلِ الْمَغْلُوبِ الْتَّحِلِ بُرَابِ قَدَمِ  
لَا أَنْ هَذَا نَفْسِي وَهَذَا قَلْبِي هَذَا خَلْقِي  
وَهَذَا رَبِّي اجْتَرِهَذَا أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ بَلْ  
يَكُونَ هُوَ إِجْهَدُ أَنْ لَا تَتَحَرَّكَ فِي دَفْعِ  
الصَّبْرِ عَنْكَ وَلَا جَلْبِ النِّعَمِ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ  
إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَقَامَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
إِلَيْكَ مَنْ يَخْدُمُكَ وَيُدْخِي الْأَذَى عَنْكَ  
كُنْ مَعَ كَالْمَيْتِ مَعَ الْغَالِيْلِ وَكَاهِلِ  
الْكُفِّ مَعَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُنْ مَعَ  
بَلَا وَجُودٍ وَلَا اِحْتِيَارٍ وَلَا تَذْيِيرٍ

الْجَمْلَةُ اُشْبِتَ تَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْحِي  
 اِيْمَانِكَ يَفْقِيْنِكَ وَفَتَ تَرْوُلِ اَتَقْتَالِ  
 اَقْضِيْتَهُ وَاَفْتَدَا رَاةَ اِلِيْمَانُ يَفْقُتْ وَ  
 يَشْبِتُ مَعَ الْقَدْرِ وَالْفَقْاقِ كَيْفَ بِنَ  
 الْمَنَافِقِ كَلَّمَ مَضَتْ عَلَيْهِ الْاَيَاتُ وَ  
 وَاللَّيَالِي هَزَلَتْ بِنَيْتِهِ وَسَمِنَتْ نَفْسُهُ  
 وَهَوَاةُ وَطَبْعُهُ وَعَمِيَتْ عَيْنَا سِرِّهِ وَ  
 قَلْبُهُ بَابُ دَارِهِ عَامِرٌ دَاخِلُ الدَّارِ خَرَابُ  
 ذِكْرُهُ لِلْحَقِّ عَرَّ وَجَلَّ يَلْسَانُهُ لَا يَقْلِبُهُ  
 غَضَبُهُ يَنْفُسُهُ لَا يَرْبِيَهُ عَرَّ وَجَلَّ يَلْسَانُهُ  
 وَيَقْلِبُهُ وَفِي اَكْثَرِ اَوْقَاتِهِ يَكُونُ قَلْبُهُ  
 ذَاكِرًا وَلِسَانُهُ سَاكِنًا غَضَبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَلِرَسُولِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَهَوَاةُ وَطَبْعِهِ وَ  
 دُنْيَاةُ لَا يَحْسُدُ وَلَا يَتَنَزَعُ اَهْلُ  
 الْحُطُوطِ فِي حُطُوطِهِمْ

يَا عَلَامُ اِيَّاكَ وَاِيَّاكَ اَنْ تُنَايِرَ  
 مَحْطُوطًا فَاَنْتَ يَسْكُمُ وَيَرْتَفِعُ وَاَنْتَ  
 تَهْلِكُ وَتَنْحُطُ وَتَذِلُ وَتَفْتَضِضُ كَيْفَ  
 تُغَيِّرُ حَظَّهُ بِمُنَانٍ عَمَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ  
 اللَّهُ بِمَا هُوَ فِيهِ اِذَا اَنَا نَعَبْتُ الْحَقَّ عَرَّ وَ  
 جَلَّ فِي عَمَلِهِ السَّابِقِ فِيكَ وَفِي عَمَلِكَ  
 سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِكَ وَلَا يَنْفَعُكَ عَمَلُكَ  
 كَمَا قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ عَامِلَةٌ تَأْصِبُهُ  
 ثُبُ الْاَنَ اِلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ الْمَعْصُومُ  
 كَيْسٌ لَا تَرْجِعُ عَنِ الْقَصْدِ اِلَيْهِ لَا جَلَّ

تدبیر کے ٹھہرا رہا۔ تو خدا کے حضور میں تضاد و قدر کے بوجھوں  
 کے اترنے کے وقت اپنے ایمان و یقین کے قدموں  
 پر ٹھہرا رہا۔ ایمان تقدیر کے ساتھ ٹھہرا رہتا ہے اور  
 ثابت رہتا ہے۔ اور نفاق بھاگتا ہے۔ منافق پر جب چند  
 دن اور راتیں گزرتی ہیں اس کا جسم دُلا ہوا جاتا ہے اور اس کا  
 نفس اور خواہش اور طبیعت موٹی ہو جاتی ہے اور اس کے باطن  
 قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اس کے گھر کا دروازہ آباد  
 ہوتا ہے اور اندرونی حصہ ویران اس کا خدا کا ذکر محض زبان  
 سے ہوتا ہے وک قلب سے اس کا غمخوار اپنے نفس کے لیے  
 ہوتا ہے نہ کہ رب عزوجل کے لیے اور مومن اس کے برعکس  
 ہوتا ہے۔ مومن کا ذکر زبان و قلب دونوں سے ہوتا ہے اور اکثر  
 اوقات میں اس کا قلب ذاکر ہوتا ہے اور زبان سکون میں مومن کا غمخوار  
 غضب اللہ و رسول کے واسطے ہوتا ہے نہ کہ اپنے نفس و خواہش و طبیعت و  
 دنیا کے لیے نہ وہ حسد کرتا ہے اور نہ وہ خوشحالوں سے ان کی خوشحالی پر  
 جھگڑتا ہے۔

اے غلام تو اس بات سے اپنے کو بچا اور پہرہ بچا کہ تو کسی  
 خوشحال سے جھگڑے کیونکہ وہ تو سلامت رہے گا اور ملحد ہو جائے  
 گا اور تو دشمنی و جھگڑے سے ہلاک ہو جائے گا اور گناہ جائے گا اور  
 ذلیل و رسوا ہو گا تو اپنے جھگڑے سے اس کی خوشحالی کے حصہ کو کیسے  
 بدل سکتا ہے مالا نیک علم الہی پہلے ہی سے اس کی خوشحالی کے متعلق  
 ہو چکا ہے جب تو اللہ عزوجل کے علم سابق کے متعلق جو تیرے اور  
 دوسروں کے بارہ میں سابق ہو چکا ہے اللہ سے جھگڑے گا تو تو نظر الہی سے  
 گرہلے گا اور تجھ کو تیرا عمل کچھ نفع دے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا  
 ہے عمل کرنے والے رنج اٹھانے والے ہیں۔ تو ابھی  
 اللہ عزوجل کی طرف توبہ کر لے مصوم دانا ہو شیار ہے اس بلا

بَلَاءٍ أَنْزَلَهُ بِكَ إِنْ تَنْظُرْ كَشَفَعَكَ عَنْكَ وَلَا  
تَبَاسٌ فَإِنَّ مِنْ سَاعَةٍ فَرَجًا كُلُّ يَوْمٍ  
هُوَ فِي شَأْنٍ يَنْقُلُ مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ  
إِصْبِرْ مَعَهُ وَارْضَ بِتَقْدِيرِهِ فَإِنَّكَ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
أَمْرًا إِذَا صَبَرْتَ خَفَّفَ عَنْكَ الْبَلَاءُ  
وَاحْدَثَ لَكَ أَمْرًا يُحِبُّهُ وَتُحِبُّهُ وَ  
إِذَا جَزَعْتَ وَاعْتَرَضْتَ أَثْقَلَ عَلَيْكَ  
الْبَلَاءُ وَزَادَكَ مِنْهُ عِقُوبَةٌ لِعِصْيَانِكَ  
عَلَيْهِ يَا قَوْمُ يَنْزِلُ الْبَلَاءُ عَلَيْكُمْ  
بِسَبَبٍ اعْتَزَّاضِكُمْ عَلَيْهِ عَمَلٌ وَ  
جَلٌّ وَمُنَادَعَتِكُمْ لَهُ وَقُوفُكُمْ مَعَ نَفْسِكُمْ  
وَأَهْوِيَّتِكُمْ وَاعْتَرَّاضِكُمْ وَحُبُّكُمْ لِدُنْيَاكُمْ  
يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَتَكُونُ  
نَفُوسُكُمْ عَلَى بَابِ الْآخِرَةِ وَأَسْرَارُكُمْ  
عَلَى بَابِ الْمَوْتِ إِلَى حِينٍ تَنْقَلِبُ  
النَّفْسُ قَلْبًا وَتَدُوقُ مِمَّا ذَاقَ وَيَنْقَلِبُ  
الْقَلْبُ سِرًّا وَيَدُوقُ مِمَّا ذَاقَ وَيَنْقَلِبُ  
السِّرُّ فَنَاءً فِيهِ لَا يَدُوقُ وَلَا يَذَاقُ  
ثُمَّ يُحْيِيهِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ  
يَصِيرُ كِيمِيَاءَ كُلِّ دَرْهِمٍ مِنْهُ  
يَقَعُ فِي أَلْفِ مِثْقَالٍ مِنَ الشَّيْءِ  
يَجْعَلُهَا ذَهَبًا فَهَذَا هُوَ الْعَايَةُ  
الْكَلِيَّةُ الْآصِلِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ طُوبَى  
لِمَنْ عَرَفَ مَا أَقُولُ وَآمَنَ بِهِ

کی وجہ سے جس کو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے وہ خدا کی طرف قصد کرنے  
سے باز نہیں رہتا۔ تو اس بلا کے اپنے سے ٹل جانے کا منتظر  
رہ اور خدا سے ناامید نہ ہو کیوں کہ ایک ساعت کے بعد دوسری  
ساعت میں کشادگی ہے ہر روز وہ جدا نشان میں ہے۔ وہ ایک  
قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرتا ہے تو خدا کے ساتھ صبر کر  
اور اس کی تقدیر پر راضی رہ کیوں کہ تو نہیں جانتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ  
اس کے بعد کوئی اور امر پیدا کر دے جب تو بلا پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ  
تجھ سے بلا کو ہٹا کر دے گا اور تیرے لیے دوسرا ایسا امر پیدا کر دے  
گا کہ وہ بھی اسی کو پسند کرے گا اور تو بھی اسے محبوب سمجھے گا اور جب تو  
جزع فزع کرے گا اور تقدیر پر متعرض ہو گا تو وہ تیرے اوپر بلا کو بھاری کرے  
گا اور اس پر عجز و اعتراض کی وجہ سے اپنا عذاب و غصہ زیادہ کرے گا۔ اے قوم تم پر  
بلا اس وجہ سے اترتی ہے کہ تم اللہ کو بل پر اعتراض کرتے ہو۔ اور اس سے بچ سکتے ہو اور  
اپنے نفسوں اور خواہشوں اور غرضوں کے ساتھ تنازعہ کرنا اور دنیا میں موبہ اور کجی کرنا نہیں ہو  
اے قوم اگر بغیر دنیا چارہ نہیں اس کا ہونا ہی ضرور ہے پس  
تمہارے نفس دنیا کے دروازے پر ہیں اور تمہارے باطن مولا  
قلب آخرت کے دروازے پر اور تمہارے باطن مولا  
کے دروازہ پر یہاں تک کہ نفس قلب بن جائے اور وہ ذائقہ  
پکھلے جو کہ قلب نے چکھا ہے اور باطن تنافی اللہ ہو جائے  
جس کے پکھنے پکھانے کی ضرورت نہ رہے پھر اللہ اس کو اپنے  
لیے زندہ کرے نہ غیر کے لیے اس وقت وہ ایسی کیمیا  
بن جائے گا کہ اس میں کا ایک درم جب ہزار  
مثقال تابنے میں ڈالا جائے گا تو وہ تابنے کو سونا بنا  
دے گا پس اصلی غایت کلی یہی ہے  
جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے  
جو میرے قول کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے

خوشخبری ہے اس کے لیے جو کہ عمل کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دے۔

اے غلام جب تو مر جائے گا تو مجھے دیکھے گا اور اپنے دائیں بائیں سے پہچانے گا میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا اور تجھ سے ضرر کو دفع کروں گا اور تیرے لیے سوال کرتا رہوں گا تو کب تک خلق کے ساتھ مشرک اور ان پر بھروسہ کرنے والا رہے گا تجھ پر یہ واجب ہے کہ تو یہ جان لے کہ نہ کوئی تجھے ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے نہ ان کا فقیر اور نہ غنی نہ کوئی عزت والا نہ کوئی ذلیل تو اللہ عزوجل کو لازم پکڑ خلق پر بھروسہ نہ کر۔ اور نہ اپنی کمائی اور طاقت و قوت پر۔ صرف اللہ عزوجل کے فضل پر بھروسہ کر اس پر بھروسہ کر جس نے تجھے کمائی کرنے پر قدرت دے دی اور اسے تیری

روزی بنا دیا پس جب تو یہ کر لے گا۔ تو وہ تجھے اپنے ساتھ میر کرائے گا اور تجھے اپنے عجائبات قدرت و ! عجائبات علم ازلی دکھائے گا اور تیرے قلب کو اپنی طرف ملائے گا پھر اس ملاقات کے بعد وہ تجھ کو کچھلے زمانے کی یاد دلانے گا۔ جیسے کہ وہ جنت میں اہل جنت کو دنیا یاد دلانے کا حربہ تو سب کے بال کو توڑ دے گا تو سب پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب تو اپنی عادت کے خلاف کرے گا عادت تیرے لیے خلاف کرے گی۔ جو خدمت کرتا ہے مخدوم بنایا جاتا ہے اور جو تا بعد ارمی کرتا ہے وہ مطاع بنایا جاتا ہے اور جو اکرام کرتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور جو نزدیک ہوتا ہے نزدیک کیا جاتا ہے اور جو تواضع کرتا ہے بلند کیا جاتا ہے اور جو احسان کرتا ہے اس پر احسان کیا جاتا ہے اور جس نے حسن ادب کیا وہ مقرب بنایا گیا احسان

طَوْبَى لِمَنْ أَخَذَ الْعَمَلَ بِبِيْدِهِ فَقَرَّبَهُ إِلَى الْمَعْمُولِ لَهُ۔

يَا غُلَامُ إِذَا مِتُّ تَدْرَانِي وَ تَعْرِفُنِي تَوَانِي عَنْ يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ أَحْمِلُ وَ أَدْفَعُ عَنْكَ وَ أَسْأَلُ فِيكَ إِلَى مَتَى أَنْتَ مُشْرِكٌ بِالْخَلْقِ مُتَّكِئٌ عَلَيْهِمْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَتَغْيِرْهُمْ وَ غِيَرَهُمْ عَزِيزُهُمْ وَ ذَلِيلُهُمْ عَلَيْكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَتَّكِلْ عَلَى الْخَلْقِ وَلَا عَلَى كَسْبِ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ

الَّتِي كَلَّ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِتَّكِلْ عَلَى الَّذِي أَقْدَرَكَ عَلَى الْكَسْبِ وَ سَمَّاكَ رِجَالًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَيَرَكَ مَعَهُ وَ أَمَّاكَ عَجَائِبُ قُدْرَتِهِ وَ سَابِقَتِهِ يُوصِلُ قَبْلَكَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَذْكُرُكَ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ أَيَّامَهُ السَّابِقَةَ كَمَا يَتَذَكَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ أَيَّامَ الدُّنْيَا إِذَا اخْرَقْتَ شَبَكَةَ السَّبَبِ

صَلَّتْ إِلَى الْمُسْتَبِ إِذَا اخْرَقْتَ الْعَادَةَ خَرَقْتَ لَكَ الْعَادَةَ مَنْ خَدَمَ يُخْدَمُ مَنْ أَطَاعَ يُطَاعُ مَنْ أَكْرَمَ يُكْرَمُ مَنْ تَقَرَّبَ قَرِبَ مَنْ تَوَاضَعَ رُفِعَ مَنْ تَكْرَّمُ تُكْرَمُ عَلَيْهِ مَنْ أَحْسَنَ الْأَدَبَ قَرِبَ حُسْنُ الْأَدَبِ

يُقَرِّبُكَ وَسَوْءُ الْأَدَبِ يُبْعِدُكَ حَسَنُ  
الْأَدَبِ طَاعَةُ اللَّهِ وَسَوْءُ الْأَدَبِ مَعْصِيَتُهُ  
يَا قَوْمُ لَا تَوَخَّروا الْعَرْصَ لَا أَنْفُسَكُمْ  
وَالْمَحَاسِبَ لَهَا عَجَلُوا بِذَلِكَ عَلَى  
أَنْفُسِكُمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ عَنِ  
الرَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَحْيِي أَنْ يُحَاسِبَ الْمُتَوَخَّصِينَ  
مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ وَالْإِ  
فَالْخُذْ لَانَ فِي رُبُكَ تَوَخَّعْ فِي تَصَوُّفِكَ  
فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا انْقَلَبَتْ شَهْوَاؤُكَ حَسَرَاتٍ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا دَارُ النَّارِ  
وَالْآخِرَةُ دَارُ الْهَمِّ لَا سِيَّمَا إِذَا اخْتَلَمَا  
مِنْ وَجْهِ حَرَامٍ وَصَرَفْتَهُمَا فِي وَجْهِ  
حَرَامٍ عِنْدَا يُبَيِّنُ لَكَ هَذَا الَّذِي أَقُولُ  
الْيَوْمَ أَنْتَ أَعْلَى وَأَصَمُّ قَالَ الرَّبِّيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ الشَّيْءَ  
يُعْبَى وَيُصَمُّ عَرِّ قَلْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَاجْعَلْهُ وَأَظْمِئْهُ حَتَّى يَكْسُوهُ الْحَقُّ  
عَرَّ وَجَلَّ وَيُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ سَلِمَ  
ظَاهِرُكَ وَبَاطِنُكَ إِلَيْهِ وَلَا تَدْبُرْ بِلَ  
تَكُونُ هُوَ بِلَا أَنْتَ كُنْ أَيْدَا دُوكَارِيَا  
لَا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْعَمَلِ وَالْآخِرَةُ دَارُ  
الْجُزْءِ دَارُ الْعَطَاءِ دَارُ الْمَوْهِبَةِ هَذَا  
هُوَ الْأَغْلَبُ فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ وَأَمَّا  
الْمُقَادِرُ مِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْعَمَلِ

تجھ کو خدا کے قریب پہنچا دے گا اور بے ادبی تجھ کو خدا دور کرے گی  
حسن ادب اللہ عزوجل کی طاعت ہے اور بے ادبی اس کی نافرمانی کرنا۔  
اے قوم تم اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کے پیش کرنے اور  
ان کی چابچ پڑتال میں تاخیر نہ کرو اس بارے میں اپنے نفسوں پر  
قبل آخرت کے دنیا ہی میں جلدی کرو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اُن نیک  
بندوں پر جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری کی ہے حساب کرتے  
شرم فرمائے گا حساب نہ لے گا۔ تو تقویٰ اختیار کرو درکل تیرے گلے  
میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ تو اپنے تصرفات و بیوی میں تقویٰ  
کو روز تیری خواہشیں دنیا و آخرت میں سر تا پا حسرتیں  
بن جائیں گی۔ وینار دوزخ کی آگ کا گھر ہے اور درہم  
غم کا گھر ہے۔ خصوصاً جب کہ تو درہم و دینار کو حرام  
طریقہ سے حاصل کرے اور حرام طریقہ میں ان کو صرف  
کرے جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کل تجھے معلوم ہو  
جائے گا آج تو تو اندھا بہا رہا ہے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تیرا کسی چیز کو دوست رکھنا  
تجھے اندھا و ہر انا دیتا ہے تو اپنے قلب کو دنیا کی محبت  
سے خالی کر لے برہنہ ہو جا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ تاکہ خود  
حق عزوجل اُس کو ڈھانپے اور کھلائے پلائے۔ تو اپنے  
ظاہر و باطن کو اسی کی طرف سپرد کر دے اور تیرا چھوڑ دے  
وہی وہ رہ جائے تو کچھ بھی نہ ہو تو ہمیشہ مزدور کام کرنے  
والا بنارہ کیوں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اجرت و  
عطاء و بخشش کا گھر صالح بندوں میں یہی طرز عمل اکثر ہے یہاں  
عمل کریں وہاں بدلہ پائیں اور لیکن انہیں نیک بندوں میں سے  
مشافروں اور وہ بھی ہیں۔ جن کو دنیا میں کام کرنے سے وہ

نکال دیتا ہے اور ان پر احسان و رحمت فرماتا ہے۔ اور آخرت کے آنے سے پہلے دنیا میں بھی ان کو راحت بخشتا ہے اور ان کے صرف فرائض ادا کر لینے پر اتنا قناعت فرماتا ہے۔ اور ان کو نوافل سے راحت دے دیتا ہے کیوں کہ فرض تو تمام مالتوں اور مرتبوں میں ساقط ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسا مرتبہ ہزاروں بندگان الہی میں سے کسی ایک ہی کا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی کمیاب ہیں۔

اسے غلام تو زہد کر اور دنیا سے رخ پھیر لے ایسا کرنے سے تو دنیا ہی میں راحت پائے گا اور اگر دنیا سے کچھ حصہ تیرے مقصود کا ہو گا پس وہ ضرورتی طور پر تیرے مقصود کا بغیر تیرے پاس آئے نہ رہے گا۔ درآنحالیکہ تو عزیز و مکرّم سوال کیا گیا ہو گا اس حالت میں خود مقصود تجھ سے قبول کی درخواست کرے گا۔ تو اپنے نفس اور خواہش نفس کے ساتھ نہ لکھا کیونکہ یہ ایک پردہ ہے جو تیرے قلب کے لیے تیرے پردہ کا رستہ حاجب ہو گا۔ مومن کامل تو نہ نفس کی خاطر سے اور خواہش نفس سے کھاتا ہے اور نہ اس غرض سے کہ نفس پلے پہنتا اور نفع اٹھاتا ہے بلکہ اس سے یہ فعل طاعت الہی پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس کا کھانا مطابق شرع صرف اس قدر ہوتا ہے جو کہ اس کے ظاہر کے قدموں کو خدا کے روبرو جوادے اسے خواہش انسانی سے علاقم نہیں ہوتا۔ اور ولی امر الہی سے کھانا کھاتا ہے اور بدل جو کہ قطب کا وزیر ہے خدا کے نعل سے کھایا کرتا ہے۔ اور قطب کا کھانا اور تمامی تصرف مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوا کرتے ہیں اور ایسا کیسے نہ ہو قطب تو نبی کریم علیہ السلام کا نظام اور نائب اور امت مرحومہ کے لیے آپ کا جانشین ہوا کرتا ہے۔ وہ تو رسول کریم اور حق عزوجل کا خلیفہ ہے قطب خلیفہ

فِي الدُّنْيَا وَيَمُنُّ عَلَيْهِ وَيَرْحَمُهُ وَيُعْجَلُ لَهُ الرَّاحَةُ قَبْلَ مَجِيئِهِ الْآخِرَةِ يَقْتَصِرُ مِنْهُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَيُرِيحُهُ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِنَّ الْفَرَاضَ لَا يَسْقُطُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَالْمُقَامَاتِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْحَادِ أَحْرَادٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَادِرٌ مِّنْ كُلِّ نَادِرٍ

يَا غُلَامُ اذْهَبْ وَاعْرِضْ فَتَسْتَرِيحَ بِالْعَاجِلِ وَإِنْ كَانَ لَكَ فَتَسْمُ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا بُدَّ مِنْ وُضُوئِهِ إِلَيْكَ تَأْتِيكَ أَفْسَاؤُكَ وَأَنْتَ عَزِيزٌ مُّكْرَمٌ مُّسْئِلٌ لَا تَأْكُلُ بِنَفْسِكَ وَهَوَاكَ فَإِنَّ ذَلِكَ حِجَابٌ يَحْجُبُ قَلْبَكَ عَنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ لِنَفْسِهِ وَبِنَفْسِهِ وَلَا يَكْسِبُ لَهَا وَلَا يَتَمَتَّعُ بَلْ يَتَّقُوهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَأْكُلُ مَا يَشَاءُ أَفْدَامَ ظَاهِرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْكُلُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْهَوَى وَالْوَلَى يَأْكُلُ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْبَدَلُ الَّذِي هُوَ وَزِيرُ الْقُطْبِ يَأْكُلُ بِفِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْقُطْبُ أَكْلُهُ وَتَصَرُّفُهُ كَأَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصَرُّفُهُ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ كَذَلِكَ وَهُوَ عِلْمُهُ وَتَأْيِيدُهُ وَخَلِيفَتُهُ فِي أَمْرِهِ هُوَ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ خَلِيفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا خَلِيفَةُ

بَاطِنٌ وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ السَّيِّدُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِمْ  
خَلِيفَتُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ  
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تَرْكُ مُتَابَعَتِهِ وَطَاعَتِهِ  
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ  
عَادِلًا هُوَ قُطْبُ الزَّمَانِ لَا تَحْسِبُوا أَنَّ  
الْأَمْرَ هَيِّنٌ قَدْ وَكَّلَ بِكُمْ مَن يَخْصِي  
أَفْعَالَكُمْ الظَّاهِرَةَ وَهُوَ يَخْصِي أَعْمَالَكُمْ  
الْبَاطِنَةَ مَا مِنْكُمْ إِلَّا مَن يُورِثِي بِهِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ مَلَائِكَتُهُ الَّذِينَ كَانُوا  
مُؤَكِّلِينَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يَكْتُتُونَ عَلَيْهِ  
حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ وَمَعَهُم تِسْعَةٌ وَ  
تِسْعُونَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ  
فِيهَا حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ وَجَمِيعُ مَا صَدَرَ  
مِنْهُ فَيُكَلَّفُ قِرَاءَتَهَا جَمِيعًا فَيَقْرَأُهَا  
وَلَا يَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَمُ يُحْسِنُ يَكْتَتِبُ  
وَكَمُ يَقْرَأُ لِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ حِكْمَةٍ  
وَالْآخِرَةُ دَارُ قُدْرَةِ الدُّنْيَا تَحْتَاجُ  
إِلَى أَسْبَابٍ وَآلَاتٍ وَالْآخِرَةُ لَا تَحْتَاجُ  
إِلَى ذَلِكَ إِذَا جَعَلَ أَحَدُكُمْ مَا فِي سِجِلِّهِ  
نُطْقَتْ جَوَارِحُهُ بِمَا فِيهَا تَنْطِقُ كُلُّ  
جَارِحَةٍ عَلَى حِدَةٍ بِجَمِيعِ مَا عَمِلَتْهُ فِي  
الدُّنْيَا قَدْ خُلِقْتُمْ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَمَا  
عِنْدَكُمْ خَبْرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفَحَسِبْتُمْ  
أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا  
لَا تُرْجَعُونَ ۝

باطنی ہے۔ اور مسلمانوں کا امام جو کہ ان کا بادشاہ ہے خلیفہ ظاہر۔ اور  
یہ وہی ہے جس کی مسلمانوں میں سے کسی کو تابعداری و فرمان برداری  
کا چھوڑنا حلال نہیں یہ بھی منقول ہے کہ جب بادشاہ عادل ہو تو وہ  
قطب زمانہ ہوتا ہے۔ تم یہ مت خیال کر لینا کہ ولایت و طاعت  
کوئی آسان امر ہے تمہارے افعال ظاہری کے شمار  
و نگہداشت کے لیے فرشتہ مقرر ہیں اور تمہارے افعال باطنی  
کی وہ خود نگہداشت فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو  
قیامت کے دن حاضر نہ کیا جائے حاضر کیا جائے گا اور اس  
کے ساتھ وہ فرشتے ہوں گے جو کہ دنیا میں اس کی برائیاں جھلایا  
لکھنے پر مقرر تھے اور فرشتوں کے ساتھ نینا نوے دفتر ہوں گے  
ہر دفتر اتنا بڑا ہو گا جہاں تک نظر جا سکے اس میں ہر ایک کی  
بھلائی برائی اور جو کچھ اس سے دنیا میں صادر ہوا ہے موجود ہو گا۔  
ہر ایک کو ان سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ اس کو  
پڑھے گا اگرچہ اس نے دنیا میں اچھی طرح لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو گا  
کیوں کہ دنیا دار حکمت ہے اور آخرت دار قدرت۔ دنیا  
اسباب و فرائع کی حاجت مند ہے اور آخرت میں ان کی حاجت  
نہیں جب تم میں سے کوئی دفتر میں لکھنے کا انکار کرے گا تو اس  
کے اعضا اس کے مطابق بولیں گے ہر عضو علیحدہ علیحدہ تمام  
دنیا کے ملول کے موافق بول دیں گے۔ یہ تحقیق تہ بڑے امر کے  
واسطے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں خبر نہیں اللہ عزوجل نے  
ارشاد فرمایا ہے کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں  
بے کار پیدا کیا ہے اور تحقیق تم ہماری طرف لوٹائے  
نہ جاؤ گے

## المجلس التاسع والاربعون

## انچاسویں مجلس

## اولیاء اللہ کے بیان میں

۲۱ شعبان ۵۲۵ھ کو جمعہ کے دن مدرسہ قادریہ

میں ارشاد فرمایا :

عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعض دنوں میں ان کے پاس ایک سائل نے آکر کھانا مانگا اس وقت آپ کے یہاں سوا دس انڈوں کے کچھ حاضر تھا آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ دسوں انڈے سائل کو دیدے اس نے نو انڈے سائل کو دے دیئے اور ایک چھپایا۔ پس جب کہ مغرب کا وقت ہوا ایک مرد نے آکر دروازہ کھٹکا اور کہیا یہ ٹوکری لے جاؤ۔ پس آپ دروازہ پر گئے اور اسے لے کر دیکھا تو اس میں انڈے تھے شمار کرنے سے معلوم ہوا نوے انڈے ہیں پس اپنی خادمہ سے دریافت کیا دسواں انڈا کہاں ہے اور تو نے سائل کو کتنے دیئے تھے خادمہ نے کہا میں نے نو سائل کو دیدیئے تھے اور ایک آپ کے روزہ کے انطار کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پس عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تو نے یہیں دس انڈوں کا نقصان دیا۔ اولیاء اللہ کا اپنے رب عزوجل کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کرتا ہے جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں وارد ہے اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے قرآن کے بندے تھے وہ انہی حرکات و سکنات اور اپنے لہجہ و لہجہ میں سرسوا حکام شرعی کی

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَدْرَسَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدَّثَنِي عَشْرُ شُعْبَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ خَمْسٍ مِائَةٍ حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاءَهُ الْبَيْتُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ سَائِلٌ يُسْأَلُهُ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ شَيْءٌ سِوَى عَشْرِ بَيْضَاتٍ فَأَمَرَ جَارِيَتَهُ بِأَنْ تُعْطِيَهُ إِيَّاهَا فَأَعْطَتْهُ تِسْعَةً وَ خَبَاطَ وَاحِدَةً فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ جَاءَهُ رَجُلٌ وَ دَفَعَ الْبَابَ وَقَالَ خُذْ أَوْجِيْ هَذِهِ السِّلَّةَ فَخَرَجَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ أَخَذَهَا مِنْهُ فَرَأَى فِيهَا بَيْضًا فَعَدَّهَا فَإِذَا هُوَ تِسْعُونَ بَيْضَةً فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ أَيْنَ الْبَيْضَةُ الْآخِرَى كَمْ أَعْطَيْتِ السَّائِلَ فَقَالَتْ أَعْطَيْتُهُ تِسْعَةً وَ تَرَكْتُ وَاحِدَةً تُقْطِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا عَرِّ مَتَيْنَا عَشْرَةَ هَكَذَا كَانُوا فِي مَعَامِلِهِمْ لِيَرْبِيَهُمْ عَتْرٌ وَ جَلَّ كَانُوا أَيُّومُونَ وَ يُصَيِّدُونَ بِمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَنِ كَانُوا عَابِدِينَ الْقُرْآنِ لَا يَخْلِفُونَهُ فِي

مخالفت نہیں کرتے تھے ان کا معاملہ رب عزوجل کے ساتھ تھا اس معاملہ میں نفع حاصل کے اس کو لازم پکڑ لیا تھا۔ آستانہ الہی کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا پس اس میں گھس گئے اور غیر اللہ کا دروازہ بند پایا۔ پس اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے غیر اللہ کے مقابلہ میں خدا کی موافقت کی۔ اور خدا کے مقابلہ میں غیر کی موافقت نہ کی اس کے دشمنوں سے اس کی موافقت میں بغض کیا اور اس کے دوستوں سے دوستی برتی۔ اسی واسطے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا تو خلق کے مقابلہ میں اللہ کی موافقت کر اور اللہ کے مقابلہ میں خلق کی موافقت نہ کر۔ جو ٹوٹے ٹوٹ جاتے اور جو جڑا رہے کچھ پروانہ کر۔ اولیاء اللہ ہمیشہ حق عزوجل کی جانب میں اپنے اور غیر کے مقابلہ پر حق کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ان کو کسی طاعت کرنے والے کی طاعت نہیں پکڑنی تھی اور نہ وہ حدود الہی میں اور شریعت کے قائم کرنے میں کسی ایک حد کی مخالفت کرتے تھے۔

حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَأَخَذَ هُمْ وَعَطَاهُمْ  
عَامِلُوا دَبَّتْهُمْ عَزَّةٌ وَجَلَّ فَزِيحُوا فِي مَعَالِيهِمْ  
فَكَرِهُوا مَوَاهِرَ أَوْ بَابَهُ مَفْتُوحًا فَدَخَلُوهُ  
وَمِنْ أَوْ بَابٍ غَيْرِهِ مَعْلُوقًا فَهَجَرُوهُ  
وَوَافَقُوهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يُوَافِقُوهُ غَيْرَهُ  
فِيهِ وَافَقُوهُ فِي بَعْضِهِ لَمْ يُبْغِضْ فِي  
حَيْثُ لَمْ يُبْغِضْ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ  
وَافَقَ اللَّهُ عَزَّةً وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تَوَافَقَ  
الْخَلْقُ فِي اللَّهِ عَزَّةً وَجَلَّ انْكَسَرَ مِنَ انْكَسَرَ  
وَالْجَبَرُ مِنَ الْجَبَرِ الْقَوْمُ لَا يَزَالُونَ  
فِي جَلَنِيبِ الْحَقِّ عَزَّةً وَجَلَّ يَنْصَرُونَ  
عَلَى نَفْسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِ لَا تَأْخُذْهُمْ  
فِيهِ كَوْمَةٌ لَا يَحِمْ كَايَحَاوُونَ أَحَدًا فِي  
حُدُودِهِ وَاقْتَامَةِ شَرْعِهِ

يَا غَلَامُ دَعُ عَنْكَ الْهُوسَ الَّذِي  
أَنْتَ فِيهِ وَعَلَيْهِ وَاتَّبِعِ الْقَوْمَ فِي أَقْوَالِهِمْ  
وَفِعَالِهِمْ لَا تَطْلُبِ الْوُصُولَ إِلَى مَا وَصَلُوا  
إِلَيْهِ لَوْلَا الْبَلَاءُ لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ  
عِبَادًا إِذَا هَذَا أَوَّلُ لِكْنَتِهِمْ تَحِيَّةُ الْمَلِكِ لَا يَأْتِي  
فَلَا يَصِيرُونَ عَلَيْهَا فَتَحْجُبُهُمْ عَنْ بَابِ  
رَبِّهِمْ عَزَّةً وَجَلَّ مَنْ لَا يَصْبِرُ لَمْ يُعْطَ  
لَهُ إِذَا عَدِمْتَ الصَّبْرَ وَالرِّضَا كَانَ ذَلِكَ  
سَبَبًا لَخُرُوجِكَ مِنْ عِبُودِيَّتِكَ لِلْحَقِّ  
عَزَّةً وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ كُتُبِهِ  
مَنْ لَمْ يَرْضَ بِفَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيَّ

اے غلام وہ ہوا دہوس جس میں تو مبتلا ہے اور وہ تیرے  
اوپر مسلط ہے اس کو چھوڑ اور اولیاء اللہ کا ان کے اقوال و افعال میں  
پیروی و محض جھوٹے دعوے ان کے درجوں پر جس پر وہ پہنچے ہوئے  
ہیں پہنچنا طلب نہ کر جیسا کہ انہوں نے ہلا ہلا کر کیا ہے تو بھی مبرا کیا کرتا  
کہ ان کے درجوں پر پہنچ جائے۔ اگر بلا و مصائب نہ ہوتے تمام  
ادنیٰ عابد و زاہد ہو جاتے۔ لیکن انسانوں پر جب بلا آتی ہے اور وہ اس پر  
مبرا نہیں کرتے پس وہ آستانہ الہی سے محجوب ہو جاتے ہیں اور محروم رہتے  
ہیں جو مبرا نہیں کرتا وہ عطیہ نہیں پاتا۔ تاہم جب مبرا و رضا نہ ہوگا یہ  
اس کی عبودیت سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے جانے کا سبب بن جائے  
گا۔ اللہ عزوجل نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے جو  
کوئی میری رضا و قدر پر راضی نہ ہو اور میری رضا کو ہلا کر

مِنْ حَبِثٌ لَا تَدْرُونَ وَلَا تَعْقِلُونَ النَّفْسُ  
حِجَابُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْوَسْطِ  
زَالَ الْحِجَابُ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يَزِيدَ  
الْبُسْطَامِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَأَيْتُ سَرَّيَّ  
فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ  
يَا بَارِي خُذَا فَقَالَ دَعِ نَفْسَكَ وَتَعَالِ  
فَأَنْسَلَخْتُ مِنْهَا كَمَا تَنْسِلُهُ الْحَيَّةُ مِنْ  
جِلْدِهَا لِأَتَمَّ عَيْنُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  
النَّفْسِ دُونَ غَيْرِهَا وَأَمَرَهُ بِتَرْكِهَا لِأَنَّ  
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ فِي الْجُمْلَةِ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ الدُّنْيَا لَهَا  
وَهِيَ مَحْبُوبَتُهَا وَالْآخِرَةُ لَهَا أَيْضًا فَإِنَّ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ  
الْأَنْفُسُ وَتَكْذِبُ الْأَعْيُنُ .

(وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ كَلَامِهِ)

هُمْ بِأَلْفِهَا بَارِي مَصَالِحِ الْخَلْقِ وَالْعِيَالِ  
وَفِي اللَّيْلِ فِي خِدْمَتِهِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ  
وَالْخُلُوةَ مَعَهُ هَكَذَا الْمُلُوكُ طُولَ  
النَّهَارِ مَعَ الْعُلَمَاءِ وَالْحَوَاشِي وَقَضَاءِ  
حَوَائِجِ النَّاسِ فَإِذَا أَجَاءَ اللَّيْلُ خَلَوْا  
بِوَسْطِ رَأْيِهِمْ وَخَوَاصِرِهِمْ اسْمَعُوا رَحِمَكُمُ  
اللَّهُ تَعَالَى مَا أَقُولُ يَا سَمَاعُ قُلُوبِكُمْ  
وَاحْفَظُوا وَاعْمَلُوا بِهِ مَا أَنْطِقُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ مَا أَنْطِقُ إِلَّا بِصِفَةٍ  
طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَصِفُهَا حَتَّى

اس حیثیت سے کھانے گو گے کہ تمہیں علم و فہم بھی نہ ہوگی۔ نفس  
مخلوق کے لیے خدا سے حجاب بنا ہوا ہے۔ پس جب وہ نفس  
درمیان سے اٹھ جائے گا حجاب زائل ہو جائے گا اور اسی  
غرض سے ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا میں نے خواب میں  
اپنے رب تمہارے کو دیکھا پس عرض کیا اے بار خدا تیری  
طرف پہنچنے کا طریقہ کیا ہے ارشاد باری برا اپنے نفس کو چھوڑ  
دے اور آجائیں میں نفس سے ایسے علیحدہ ہو گیا جیسے !  
سانپ اپنی کپھلی سے اس واقعہ میں خدا تعالیٰ نے صرف  
نفس سے جدا ہونے کا ہی تعین کیا اور اسی کے چھوڑنے کا  
حکم اس لیے دیا کہ دنیا اور اسوائے اللہ فی الجملہ نفس کے  
تا بعد از یہ نہیں دینا نفس کے لیے ہے اور اسی کی محبوب  
اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ بہ تحقیق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا۔  
اور جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے  
اور انھیں ان سے لذت پائیں گی۔

اور آپ نے بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ  
ابراہیم میں خلعت اور بال بچوں کی مصلحتوں میں مشغول !  
رہتے ہیں اور رات میں رب تعالیٰ کی خدمت اور  
اس کے ساتھ خلوت و تنہائی میں اسی طور سے بادشاہ دلی  
بھر غلاموں اور خدمت گاروں اور آدمیوں کی حاجت روائی  
میں رہتے ہیں پس جب رات آجاتی ہے تو اپنے وزیروں  
اور مخصوص لوگوں سے خلوت کرتے ہیں۔ تم پر خدا رحم کرے  
میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو قلب کے کانوں سے سنو اور اس کو یاد کرو  
اور اس پر عمل کرو۔ میں حق ہی کہتا ہوں اور حق کی جانب  
ہی سے کہتا ہوں میں جو کچھ بھی کہتا ہوں۔ حق تعالیٰ  
کے راستہ کی کیفیت جانتا ہوں تاکہ تم

ممبر نہ کرے پس اس کو چاہیے کہ وہ میرے سوا دوسرے معبود نہ بلے  
تم اسی پر تکیہ کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ دو اور تقدیر کو کچھ بھی نفع و  
نقصان والا ہے یقیناً، مرنے والا ہے۔ تم اسلام میں راسخ الاعتقاد  
ہو جاؤ تا کہ تم ایمان تک پہنچ سکو پھر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو  
تا کہ تم درجہ یقین تک پہنچ جاؤ پس اس وقت تمہیں وہ چیزیں  
نظر آنے لگیں گی جو اس سے قبل تم نے دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ تم کو  
تمام اشیاء کی حقیقی صورتوں پر ملاحظہ کرادے گا خبر معارف بن  
جائے گی۔ وہ یقین قلب کو حتی عزوجل کے حضور میں لے جا کر  
کھڑا کر دے گا اور سب چیزوں کو اسی کی طرف سے دکھائے گا پھر جب  
قلب حتی عزوجل کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے گا تو ذکر امانت اسی قلب  
کی طرف بڑھ کر اس پر کرم فرمائے گا۔ پس یہ خود کریم و صاحب  
ایثار بنا دیا جائے گا مخلوق پر کرم کرے گا اور کسی چیز سے ان پر  
بخل نہ کرے گا۔ وہ قلب صحیح جو اللہ کے قابل بن جاتا ہے  
کرم والا ہو جاتا ہے اور ایسے ہی وہ باطن جو کہ درت سے  
سے صاف ہو جائے اور وہ دونوں کیسے صاحب کرم و کریم نہ  
ہو جائیں گے حالانکہ ان پر اکرام الاکرامین نے کرم فرمایا  
ہو گا۔

اے قوم تم طاعت الہی میں کرم و ایثار سخاوت و عطا  
کو لازم پکڑو نہ کہ معصیت الہی میں کہ ایسا کرم معرض نزول  
میں وبال کا باعث ہے۔ تم طاعت الہی کو لازم پکڑ  
کر حلال کمائی میں اس وقت تک مشغول رہو کہ تمہیں  
قرب الہی حاصل ہو جائے۔ پس تمہارے تمام  
ختم و ہم اسی کی معیت میں اس کے سبب  
جمع ہو جائیں نہ کہ اس کے بغیر کی معیت میں پس  
اس وقت تم خدا کے طبق نفل و کرم سے !

بَلَايَ فَلْيُتَخَذِ الْهَاسِيَاءُ اِقْتَعُوا اِيَّاهُ دُونَ  
غَيْرِهِ وَالْمُقَدَّرُ كَايُّكُمْ وَعَلَيْكُمْ  
حَقُّقُوا الْاِسْلَامَ حَتَّى تَصِلُوا اِلَى الْاِيْمَانِ  
ثُمَّ حَقِّقُوا الْاِيْمَانَ حَتَّى تَصِلُوا اِلَى  
الْاِيْقَانِ فَحِينَئِذٍ تَرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَرَوْنَ  
مِنْ قَبْلِ الْيَقِيْنِ يُرِيْكُمْ الْاَشْيَاءَ كَمَا  
هِيَ عَلَى صُوْرَتِهَا يَصِيْرُ الْخَبْرُ مَعَايِنَةً هُوَ  
يُوقِفُ الْقُلُوبَ عَلَى الْحَقِّ عَتَرًا وَجَلَّ وَ  
يُرِيْهِ الْاَشْيَاءَ مِنْهُ اِذَا وَقَفَ الْقُلُوبُ  
عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَتَرًا وَجَلَّ خَرَجْتُ اِلَيْهِ  
يَدُ الْكِرَامَةِ فَتَكْرَمْتُ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ  
كَرِيْمًا مُؤْتَرًّا يَتَكْرَمُ عَلَى الْخَلْقِ وَكَ  
يَبْخُلُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ الْقُلُوبُ الصَّحِيْحُ  
الَّذِي صَدَّقَهُ رَبُّهُ عَتَرًا وَجَلَّ كَرِيْمًا وَابْتَسُرَ  
الَّذِي قَدْ صَفَا عَنْ الْكُدْرِ كَرِيْمًا وَ  
كَيْفَ لَا يَكُوْنَانِ كَذَلِكَ وَقَدْ تَكْرَمَ  
عَلَيْهِمَا اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ .

يَا قَوْمُ عَلَيْكُمْ بِالْكَرَمِ وَالْاِيْثَارِ  
فِي طَاعَةِ الْحَقِّ عَتَرًا وَجَلَّ لَا فِي مَعْصِيَّتِهِ  
كُلُّ نِعْمَةٍ تُصْرَفُ فِي الْمَعْصِيَةِ هِيَ  
مَعْرِضَةٌ لِلزَّوَالِ تَشَاعَلُوْا اِيَّاهُ كَيْسَابِ  
مَعَ مَلَائِمَةِ الطَّاعَةِ اِلَى اَنْ يَّاتِيَكُمْ  
الْقُرْبُ مِنْهُ فَتَجْتَمِعُ هُمُومُكُمْ بِهِ وَ  
مَعَهُ لَا بَغِيْرَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ  
يَصِيْرُ اَكْرَمُكُمْ مَنْ طَبِقَ فَضْلُهُ وَكَرَّمَ

تَسْلُكُوْهَا مَا أَفْتَحُ مِنْكُمْ بَانَ تَقُولُوا لِي  
 أَحْسَنْتَ بَلْ قُولُوا لِي بِأَسِنَّةٍ فُلُوْكُمْ  
 أَحْسَنْتَ وَاعْمَلُوا بِمَا أَقُولُ وَاخْلُصُوا  
 فِي أَعْمَالِكُمْ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْكُمْ  
 قُلْتُ لَكُمْ أَحْسَنْتُمْ مَتَى يُصَلِّي عَلَى  
 نَفْسِكَ وَعَلَى دُنْيَا وَأُحْرَاكَ وَعَلَى  
 الْخَلْقِ وَمَا سِوَى الْحَقِّ عَدَّ وَجَلَّ فِي  
 الْجُمْلَةِ الْخَلْقُ جِجَابُ نَفْسِكَ وَنَفْسُكَ  
 جِجَابُ قَلْبِكَ وَقَلْبُكَ جِجَابُ سِرِّكَ  
 فَمَا دُمْتَ مَعَ الْخَلْقِ لَا تَرَى نَفْسَكَ  
 فَإِنْ تَرَكْتَهُمْ رَأَيْتَهَا تَرَاهَا عَدُوًّا لِرَبِّكَ  
 عَدُوًّا وَجَلَّ وَلَكَ فَلَا تَزَالُ تُحَارِبُ بِهَا  
 حَتَّى تَطْمَئِنَّ إِلَى رَبِّهَا عَدُوًّا وَجَلَّ وَ  
 تَطْمَئِنَّ إِلَى وَعْدِهِ وَتَخَافَ مِنْ وَعْدِهِ  
 تَمَثَّلْ أَمْرَهُ وَتَذْتَهِي عَنْ تَهْيِيهِ وَ  
 تَوَارِثْهُ فِي قَدْرِهِ فَحِينَئِذٍ تَزُولُ الْمُحِبُّ  
 عَنِ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ يَرِيَانِ مَا لَمْ يَرِيَا  
 مِنْ قَبْلُ يَعْرِفَانِ رَبَّهُمَا عَدُوًّا وَجَلَّ وَ  
 يُحِبَّانِ بِهِ وَلَا يَقِفَانِ مَعَ شَيْءٍ سِوَاهُ  
 الْعَارِثِ لَا يَقِفُ مَعَ شَيْءٍ بَلْ يَقِفُ مَعَ  
 خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ لَا تَوْمَلَهُ وَلَا سِنَّةَ لَهُ  
 لَا قَيْدَ لَهُ عَنْ رَأْيِهِ عَدُوًّا وَجَلَّ وَالْمُحِبُّ  
 لَا وَجُودَ لَهُ هُوَ فِي وَادِي الْقَدَرِ وَالْوَعْدِ  
 بِرَبِّهِ عَدُوًّا وَجَلَّ أَمْوَابُ بَحْرِ الْعِلْمِ تَرْفَعُهُ  
 وَتُحْطُهُ وَتَرْفَعُهُ إِلَى الْجَوْشَمِ تَحْطُهُ إِلَى

اس پر پلو۔ میں صرف اس بات پر تم سے قناعت کرنے والا  
 نہیں ہوں کہ تم میرا وعظ سن کر یہ کہہ دو آحسنت خوب بیان  
 کیا۔ بلکہ تم اپنے قلب کی زبانوں سے آحسنت کہو اور  
 میرے کہنے پر عمل کرو۔ اور اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو یہاں  
 تک کہ میں جب تم سے عمل یا اخلاص دیکھوں تو میں تم سے کہوں  
 تم نے بہت خوب کیا تو کب تک اپنے نفس اور دنیا اور آخرت  
 اور مخلوق اور ماسوائے اللہ پر نماز پڑھتا رہے گا۔ مخلوق تیرے  
 نفس کا حجاب ہے اور تیرا نفس تیرے قلب کا حجاب اور تیرا  
 قلب تیرے باطن کا حجاب جب تک تو مخلوق کا ساتھ رہے  
 گا تو اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا پس اگر تو مخلوق کو چھوڑ دے گا تو  
 تو اپنے نفس کو دیکھنے لگے گا وہ تجھے تیرے رب تعالیٰ کا اور تیرا  
 دشمن نظر آئے گا اور تو نفس سے عیشہ و طماریہ گاہاں تک کہ نفس  
 پروردگار کے ساتھ قرار پڑے گا اور اس کے وعدے سے مطمئن ہو  
 جائے گا اور اس کی وعید سے ڈرنے لگے گا امر الہی کو بجالائے گا۔  
 اور اس کی انہی سے باز رہے گا اور تقدیر الہی سے موافقت کرنے  
 لگے گا پس اس وقت تیرے قلب و باطن سے حجاب اٹھ جائیں  
 گے اور تجھے ان کے ذریعہ سے وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جو تو  
 نے پہلے سے نہ دیکھی تھیں۔ وہ دونوں خدا کو پہچان لیں گے۔ اور  
 اس کو محبوب رکھیں گے اور غیر خدا کے ساتھ قرار نہ لیں گے۔  
 عارف باللہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ٹھہرتا وہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے  
 کے ہی ساتھ قرار پڑتا ہے۔ اسے نیندا آتی ہے اور زندگیاں اور اس کو تنہا  
 سے کوئی درد نہ سکتا ہے اور محبوب کے لیے نہ کوئی رنج و ہوا ہی نہیں ہے وہ تو  
 تقدیر و علم الہی کے جنگل میں پھرتا رہتا ہے۔ علم کے دریا کی موجیں  
 اس کو چڑھاتی گرائی نہ ہوتی ہیں۔ کبھی اس کو عالم بالا  
 کی طرف ادبھا کرتی ہیں۔ اور کبھی زمین پر !!!

التَّخَوُّمَ وَهُوَ غَائِبٌ مَّبْهُوتٌ لَا يَعْقِلُ  
أَصْحَابُكُمْ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ عَمَّا وَ  
جَلَّ وَلَا يَرَى غَيْرَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ  
فَإِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ إِذَا أَرَادَ أَوْجَدَهُ هُمْ  
أَبَدًا فِي سُرَادِقِ الْقُرْبِ فَإِذَا جَاءَتْ  
تَوْبَةُ الْحُكْمِ كَانُوا فِي صَحْنِ الْحُكْمِ  
إِذَا جَاءَتْ تَوْبَةُ الْخُرُوجِ كَانُوا عَلَى  
الْبَابِ يَأْخُذُونَ الْقَصَصَ مِنَ الْخَلْقِ  
يَصِيرُونَ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَيَكُنُّ الْحَقُّ  
عَمَّا وَجَلَّ هَذِهِ أَحْوَالُهُمْ وَلَكِنْ مِنْ  
حَالٍ مَا يَكُونُ.

يَا قَوْمِ آيَشَ هَذَا أَنْتُمْ فِي هَوَسٍ  
أَنْتُمْ فِي ضَيَالِ الرَّمَانِ بِلا شَيْءٍ إِصْبِرُوا  
مَعَ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ وَقَدْ رَأَيْتُمْ الْخَيْرَ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْقِيقَ  
الْإِسْلَامِ فَعَلَيْكُمْ بِالْإِسْتِسْلَامِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ فَعَلَيْكُمْ بِالْإِسْطِرَاحِ  
بَيْنَ يَدَيْ قَدِيرِهِ وَفَعْلِهِ بِلا لَهْوٍ وَلَا كَيْفٍ  
فَبِذَلِكَ تَقْرُبُ مِنْهُ لَا تَشَاءُ شَيْئًا فَإِنَّهُ  
مَا يَصِلُهُ قَالَ اللَّهُ عَمَّا وَجَلَّ وَمَا تَشَاءُونَ  
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِذَا كَانَ لَا يُتِمُّ لَكُمْ مَا  
تَشَاءُ فَلَا تَشَاءُ لَا تَنْزِعُهُ فِي أَعْمَالِهِ  
إِذَا أَخَذَ عِمْرَ ضَنْكَ وَمَالِكَ وَهَافِيَتِكَ  
وَوَلَدَكَ وَكَسْرَ أَعْرَاضِكَ فَتَبَسَّمُ فِي  
وَجْهِهِ قَدِيرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَتَبْدِيلِهِ كُنْ

گرا دیتی ہیں اور وہ غائب اور حیرت زدہ ہے سمجھ کو نگاہ ہرا  
رہتا ہے نہ خیر اللہ کی سنتا ہے اور خیر اللہ پر نظر ڈالتا ہے وہ  
تو حضور الہی میں مثل دودھ کے ہوتا ہے پس جب خدا چاہتا ہے  
اس کو اٹھاتا ہے اور جب چاہتا موجود کر دیتا ہے اولیاء اللہ  
ہمیشہ قرب کے سراپا دروں میں رہتے ہیں پس جب حکم کی نوبت  
آتی ہے تو وہ حکم کے صحیح میں موجود ہوتے ہیں اور جب نکلنے  
کی نوبت آتی ہے تو وہ دروازہ پر ہوتے ہیں مخلوق کے واقعات  
معلوم کرتے ہیں اور مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ بن جاتے  
ہیں یہی ان کے حالات ہیں۔ اور لیکن بعض حالات ان کے مخفی  
بھی رہتے ہیں۔

اے قوم یہ کیا معاملہ ہے تم سراپا ہوس بنے ہوئے ہو۔  
تم بے فائدہ زما کو ضائع کر رہے ہو تم حتی تعالیٰ کے ساتھ  
صابر بنو تمہیں دنیا و آخرت کی خوبیاں مل جائیں گی۔ اگر تو تحقیق  
اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے پس تو سر تعلیم جھکا دے راضی برضاد  
اور اگر تیرا ارادہ قرب الہی حاصل کرنے کا ہے پس تو اپنے آپ کو  
اس کے قدر و فضل کے روبرو دو بلاچوں و چسرا کے  
پیش کر دے اس طریقہ سے تجھے قرب الہی حاصل ہو جائے  
گا تجھ کو کچھ چاہنا کہ ایسا ہو نہ پائے کیونکہ یہ بات ٹھیک  
نہیں ہے اللہ عز و جل نے فرما دیا ہے اور بغیر مشیت  
الہی کے تم نہیں چاہ سکتے۔ جب کہ معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا  
اپنے ارادہ سے پا پا پورا نہیں ہوتا تو اللہ سے اس کے فعلوں  
میں تم جھگڑا نہ کر دو جب تمہاری آبر و اور تمہارے  
مال و عافیت اور اولاد کو لے لے۔ اور تمہاری آبر و وریزی  
کرے پس تو اس کے قضاء و قدر اور ارادہ اور تبدیلی کے

عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِنْ أَرَدْتَ قُرْبَهُ إِنْ أَرَدْتَ  
الصَّفَاءَ مَعَهُ إِنْ أَرَدْتَ وَصُولَ قَلْبِكَ  
إِلَيْهِ وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا أَكْثَمُ حُزْنَكَ وَ  
أَظْهَرُ بِشْرَكَ خَالِقِ النَّاسِ يَخْلُقُ حَسَنَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَشَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِهِ وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ  
لَا تَشْكُوا إِلَيَّ أَحَدًا فَإِنَّكَ إِنْ شَكَوْتَ مِنْ  
الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِهِ وَمَعَ  
ذَٰلِكَ لَا يَزُولُ مِنْ عِنْدِكَ مَا تَشْكُو مِنْهُ  
وَلَا تُعْجِبَنَّ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِكَ فَإِنَّ  
الْعُجْبَ يُفْسِدُ الْعَمَلَ يُهْلِكُهُ مَنْ رَأَى  
تَوَفِيقَ اللَّهِ عَنَّا وَجَلَّ لَهُ أَنْفَعُ الْعُجْبُ  
بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ اجْعَلْ كُلَّ قَصْدِكَ  
إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ رَحْمَتَهُ لَكَ وَيُهَيِّئُ  
لَكَ أَسْبَابَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ كَيْفَ تَقْدِرُ أَنْ  
تَجْعَلَ قَصْدَكَ إِلَيْهِ وَأَنْتَ كَاذِبٌ فِي  
أَفْرَائِكَ وَأَفْعَالِكَ طَلِبُ الْحَمْدِ مِنَ  
الْخَلْقِ خَائِفٌ مِنْ ذَرَمِ طَرِيقِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كُلُّهَا صِدْقٌ بِلَا كَذِبٍ صِدْقٌ  
بِلَا ظُهُورٍ أَعْمَالُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ إِقْبَالِهِمْ  
هُوَ سُؤَابُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَلْقِهِ وَ  
خَلْقَاءُ عَلَيْهِمْ وَجْهًا بَدَنَهُ وَشَخْصَهُ  
فِي أَرْضِهِ هُمْ مُفَرَّدُونَ وَخَوَاصُّهُ أَنْتَ  
يَا مُنَافِقُ أَيْشَ عَلَيْكَ مِنْهُمْ لَا تُزَاجِرُهُمْ  
بِنِعَائِكَ هَذَا أَشْنَىٰ لَا يَجِيءُ بِالْخَلْقِ وَ

روبرو سکلاتارہ۔ اگر تو قرب الہی چاہتا ہے تجھے اس کے ساتھ  
صفائی مقصود ہے تو اپنے قلب کو اس تک دنیا میں رہ کر پہنچانا  
چاہتا ہے تو تو ایسی حالت بنا کر اپنے غم کو چھپاتا رہ اور اپنی تازہ  
روئی ظاہر کرتا رہ آدمیوں سے خندہ پیشانی اخلاق حسرت کے ساتھ  
میل جول رکھ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے  
مسلمان کے چہرہ پر نشانِ شت ہوتی ہے اور قلب میں غم تو کسی طرف  
شکایت نہ لے جا لیا کرنے سے تو اس کی نظر سے گر  
جائے گا اور جس امر کا تو نے شکوہ و گلہ کیا ہو گا وہ بھی تجھ سے  
دور نہ ہو گا۔ اور اپنے غلوں سے کسی عمل پر عجب و غرور نہ کر  
کیوں کہ عجب عمل کو فاسد اور عجب کرنے والے کو ہلاک کر دیتا  
ہے جس شخص کی نظر توفیق الہی پر ہوتی ہے اس کا اپنے کسی عمل پر  
عجب و غرور دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنا تمام مقصود اسی کو بننا  
پس اس حالت میں یقیناً وہ اپنی رحمت تیری طرف متوجہ کرے گا۔  
اور اپنی طرف پہنچا دینے کے سبب تیرے لیے مہیا کرنے کا  
جب کہ تو اپنے اقوال و افعال میں جھوٹا ہو گا تو اس بات پر کہاں  
قدرت رکھے گا کہ تو رب تعالیٰ کو اپنا مقصود کلی بنا کے مخلوق سے  
تعریف کا طلب گار۔ اور ان کی برائی سے ڈرنے والا طالب  
مولا نہیں بن سکتا ہے۔ حتیٰ اللہ عزوجل کا راستہ تو سر تا پایج  
ہی ہیج ہے اور یا اللہ کے لیے تو سر تا پای بغیر کذب کے سچائی  
اور بلا ظہور کے سچائی ہے ان کے فعل ان کے قولوں سے  
بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ مخلوق الہی میں خدا کے نائب اور  
ان پر خلیفہ ہوتے ہیں اور خدا کی زمین میں سردار و کووال حفاظت  
کرنے والے۔ وہ تو اس کے کینہ و مخصوص بندہ ہوتے ہیں اسے منافق  
تجھ کو ان سے کیا نسبت ان کا تجھ میں کیا نشان ہے تو اپنے نفاق سے  
ان میں نہ گھس ان کی صف سے علیحدہ رہ و ولایت محض ظاہری ٹیپ ٹاپ اور

السَّمِیِّ وَالْقَالِ وَالْفَیْلِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّادِقِينَ  
وَاجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي  
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ۔

صرف آرزو قبول و قال سے نہیں مل سکتی ہے قابلیت پیدا کر۔  
اے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سچے بندوں میں سے  
کردے اور ہم کو دنیا و دین میں نیکیاں عطا فرما اور دوزخ  
کے عذاب سے بچا۔

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

لَا تَقْنَعُ مَنْ أَحْوَالِهِمْ بِالْإِسْمِ  
وَالْتَّزَيُّ بِزَيِّهِمْ وَالتَّشْدُقُ  
بِكَلَامِهِمْ لَا يَنْفَعُكَ ذَلِكَ  
مَعَ مُخَالَفَتِكَ لِأَفْعَالِهِمْ  
أَنْتَ كَذِبٌ بِلَا صَفَاءٍ خَلْقٌ  
بِلَا خَالِقٍ دُنْيَا بِلَا آخِرَةٍ بَا طِلْ  
بِلَا حَقِيقَةٍ ظَاهِرٌ بِلَا بَاطِنٍ  
قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ عَمَلٌ بِلَا إِخْلَاصٍ إِخْلَاصٌ  
بِلَا إِصَابَةٍ السُّنَّةُ إِنْ أَلَّ اللَّهُ عَتْرَ وَجَلَّ لَا  
يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ وَلَا عَمَلًا بِلَا إِخْلَاصٍ  
وَلَا يَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْجُمْلَةِ غَيْرَ مُوَافِقٍ  
بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا  
جَزْمَ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ شَيْئًا إِنْ حَصَلَ لَكَ  
قُبُولُ الْخَلْقِ مَعَ كَذِبِكَ فَمَا حَصَلَ لَكَ  
قُبُولُ الْحَقِّ عَتْرَ وَجَلَّ هُوَ الْعَالِمُ بِمَا  
فِي الْقُلُوبِ فَلَا تَبْهَرْهُ فَإِنَّ السَّاقِدَ بَصِيرٌ  
إِنَّ اللَّهَ عَتْرَ وَجَلَّ يَنْظُرُ إِلَى مَا وَدَّ الْعَالَمُ

تو محض نام لینے پر اللہ والوں کے حالات جانے اور  
ان کے لباس پہن لینے اور ان کا سا کلام کرنے سے کفایت  
کر تجھے ایسا کرنا ان کے افعال کی مخالفت کرتے ہوئے  
فائدہ نہ دے گا۔ تو تو بلا صفائی کے سر اپنا کدورت اور مخلوق  
بغیر خالق دنیا بغیر آخرت باطل بلا حقیقت۔ ظاہر بلا باطن تول  
بلا عمل اور عمل بلا اخلاص اور اخلاص بلا موافقت سنت کے ہے  
تحقیق اللہ عزوجل ایسے قول کو جس پر عمل نہ ہوا اور ایسے  
عمل کو جس میں اخلاص نہ ہو قبول نہیں فرماتا ہے۔ کوئی  
چیز بھی کیوں نہ ہو جو چیز بھی مخالفت کتاب اللہ اور سنت  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوگی مقبول نہ  
ہوگی۔ تیری یہ بناوٹ بغیر ثبوت کا دعویٰ ہے  
پس یقیناً اس میں سے تجھے کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ  
فرمائے گا۔ اگر جھوٹ کے ساتھ تجھے مخلوق کی قبولیت  
حاصل بھی ہو جائے پس تیرے لیے حق عزوجل کی  
قبولیت ہرگز حاصل نہ ہوگی وہ تو دونوں کے اندر کی  
باتیں جاننے والا ہے تو اپنے کھوسٹے دام پیش نہ کر  
کیوں کہ پرکھنے والا دانہ خبردار ہے تحقیق اللہ عزوجل تیرے  
قلب کی طرف نظر کرتا ہے نہ کہ تیری صورت کی طرف وہ تیرے کپڑوں

وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 جَلْوَتِكَ أَمَا تَسْتَحْيِي جَعَلْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ  
 مُرْتَبًا وَمَنْظَرَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مُنْجَسًا  
 إِنْ أَدَدْتَ الْفَلَاحَ قَتُبٌ مِنْ جَمِيعِ دُنُوبِكَ  
 وَأَخْلَصَ فِي تَوْبَتِكَ ثُبٌّ مِنْ شَرِّكَكَ  
 يَا خَلْقُ لَا تَعْمَلْ شَيْئًا إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 إِنْ آتَاكَ كَلَّكَ خَطَاءٌ لَا تَكُ مَعَ النَّفْسِ  
 وَالْهَوَى وَالْمُنْيَا وَالْمَشْهُوَاتِ وَاللَّذَاتِ  
 تُحَرِّدُكَ بَقَّةٌ شَخِطُكَ لُقْمَةٌ تَرْمِي  
 بِرِضَا نَفْسِكَ وَتَسْخَطُ لِسَخَطِهَا فَانْتَ  
 عَبْدُهَا زِمَامُكَ بِيَدِهَا إِنْ آدَدْتَ مِنْ  
 عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ تَحَقَّقَتْ  
 لَهُمُ الْعُبُودِيَّةُ لَهُ وَالرِّضَا بِأَفْعَالِهِمْ  
 أَلْفَاظُ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ فَعُودُ  
 كَالْجِبَالِ الرُّوَا سَيُتَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ  
 يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا بَعَيْنِ الصَّبْرِ وَالْمُؤَافَقَةِ  
 تَرَكُّوا الرِّجْسَ لِبَلَايَا وَطَارُوا إِلَى الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ يَتَلَوُّ بِهِمْ فَهُمْ خِيَمٌ بِلَا رِجَالٍ  
 أَقْفَاصٌ بِلَا طُيُورٍ وَأَمْوَاحُكُمْ عِنْدَهُ  
 وَاجْسَادُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَا مَعْزُ حَنِينٍ  
 عَنْ بَرِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ يَا مُسْتَوْحِشِينَ  
 مِنْهُ تَقَدَّ مُوَالِي حَتَّى أَصْلَحَ بَيْنَكُمْ  
 وَبَيْنَهُ أَسْأَلُهُ فِيمَكُمْ أَخْذُ لَكُمْ  
 الْأَمْنُ مِنْهُ أَنْتُمْ عَرَبِيْنَ يَدَايِهِ حَقِّي  
 يَهَبُ لَكُمْ حَقُوقَهُ الَّتِي لَكُمْ عَلَيْكُمْ

اور کھانوں اور ہڈیوں کے اندر وہ فی حالت پر نظر رکھتا ہے وہ تیری  
 خلوت کو دیکھتا ہے نہ تیری جلوت کو کیا تو اس سے نہیں شرماتا کہ  
 تو نے خلق کے منظر کو مزین و آراستہ بنالیا ہے اور منظر حق کو  
 نجس بنالیا ہے اگر تو فلاح کا خواہشمند ہے پس تو اپنے تمام گناہوں  
 سے توبہ کر اور اپنے توبہ میں اعلاص پیدا کر خلق کو شریک خدا بنانے  
 سے توبہ کر تیرا کوئی عمل خدا کے سوا دوسرے کے لیے نہ ہو میں تو  
 تجھ کو کلیتہً سزا دینا چاہتا ہوں کیوں کہ تو نفس و ہوا سے  
 اور دنیا اور شہوتوں اور لذتوں کا ساتھی بنا ہوا ہے ایک مچھر تجھے  
 غصہ میں ڈالتا ہے اور ایک لقمہ تجھے غضب ناک بنا دیتا ہے  
 تو نفس کی رضامندی سے راضی ہوتا ہے اور اس کی ناراضی سے  
 ناراض پس تو نفس کا بندہ ہے تیری لگام اسی کے ہاتھ میں ہے  
 تجھے خدا کے ان مخصوص بندوں سے کیا نسبت جن کے لیے  
 خدا کی بندگی متحقق ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے افعال پر راضی رہتے  
 ہیں ان پر اُنقائیں اترتی ہیں اور وہ مثل مضبوط پہاڑوں کے اپنی  
 جگہ پر قائم رہتے ہیں مستحکم ان کی طرف اور ان پر اترتی رہتی ہیں  
 اور وہ ان پر صبر و موافقت کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں  
 نے جموں کو بلاؤں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے دلوں سے حق  
 عزوجل کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ پس وہ بغیر آدمیوں کے  
 خیمہ اور بلاپردوں کے خالی پنجہ جہاں ان کی روحیں خدا کے حضور  
 ہیں ہیں اور ان کے جسم خدا کے روبرو اسے اپنے رب سے  
 روگردانی کرنے والو اور اسے خدا سے وحشت کرنے والو  
 میری طرف بڑھو تاکہ میں اس کا اور تمہارے درمیان میں اصلاح کر دوں  
 خدا سے تمہارے بارے میں درخواست کر لی اس سے تمہارے  
 لیے امن لے لوں اس کے روبرو میں عاجزی کروں تاکہ  
 وہ تم کو وہ حق جو اس کے تم پر ہیں ہمہ کر دے۔

اے اللہ تو ہم کو اپنی طرف لوٹالے۔ اور تو ہم کو اپنے دروازہ پر کھڑا کرے تو ہم کو اپنا بنالے اور اپنی خدمت میں لے لے اور اپنی معیت میں رکھ اور اپنی خدمت گاہی میں رکھ اور راضی رہ ہمارا لینا اور دینا سب اپنے لیے کرے۔ ہمارے باطنوں کو اپنے غیب سے پاک کر دے جہاں کی کہ تو نے ممانعت فرمادی ہے وہاں تو ہم کو نہ دیکھ اور جہاں حاضر رہنے کا تو نے حکم دیا ہے وہاں سے ہم کو غیر حاضر نہ کر۔ ہمارے ظاہر کو اپنے گناہوں میں اور ہمارے باطن کو شرک میں مبتلا نہ کر۔ ہمارے نفسوں سے ہم کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ہم کو از سر تا پا تو اپنا بنا لے تیرے سبب سے تیرے غیر سے ہم غنی ہو جائیں اپنی طرف غفلت کرنے سے ہم کو بیدار کر دے ہم سے اپنی طاعت و مناجات کا ارادہ فرما اور اپنے قرب سے ہمارے قلوب و باطن کو لذت دے۔ تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو گیا تو آسمان و زمین کے درمیان حائل و فاضل ہے۔ اور ہم کو اپنی طاعت کی طرف و سیاہی قریب کر لے جیسے کہ تو نے آنکھ کی سیاہی و سپیدی میں نزدیکی کر دی ہے تو ہمارے اور اپنے ناپسندیدہ امور کے درمیان میں و سیاہی حائل ہو جا جیسے کہ تو اپنی مصیبت کے متعلق حضرت یوسف اور زلیخا کے درمیان حائل و آڑ بن گیا تھا اسے قوم و اہل قریب نے نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کو دائمی روزہ اور دائمی نماز اور دائمی صبر سے بگھلا دیا جو جب بندہ اپنے نفس و خواہش و طبیعت کو صحیح طور سے بگھلا لیتا ہے تو وہ ہی اور اس کا مولیٰ تعالیٰ بلا مزاحمت غیرے باقی رہ جاتا ہے قلب و باطن اور مولیٰ اور بغیرگی کے وسعت اور بغیر بے چارگی کے عافیت ہی باقی رہ جاتی ہے تم مائل بنو اور علم بکھو اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔

اے غلام تو اول خلقی سے بعدہ خالق بل مجدد سے

اللَّهُمَّ رَدَّنَا إِلَيْكَ وَ أَوْقِفْنَا عَلَى بَابِكَ  
اجْعَلْنَا لَكَ وَفِيكَ وَ مَعَكَ إِسْرَافًا  
يَجْعَلُ مَتَكَ اجْعَلْ أَخَذَنَا وَ عَطَاءَنَا  
لَكَ طَهْرًا بَوَاطِنًا عَنْ غَيْرِكَ لَا تَرْنَا  
حَيْثُ نَهَيْتَنَا لَا تَقْضِ نَا حَيْثُ أَمَرْتَنَا  
لَا تَجْعَلْ طَوَاهِرَنَا فِي مَعَاصِيكَ وَ  
بَوَاطِنَنَا فِي الشَّرِّ بِكَ خُذْنَا مِنْ  
تُخَوِّسَنَا إِلَيْكَ اجْعَلْ كُلَّنَا لَكَ أَغْنِيَاءَ  
بِكَ عَنْ غَيْرِكَ تَبَهَّنَا مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْكَ  
أَمْرًا بِطَاعَتِكَ وَ مَنَاجَاتِكَ لَدَدُ  
قُلُوبِنَا وَ أَسْرَارِنَا بِقُرْبِكَ أَجَلْ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ كَمَا أَحَلَّتْ بَيْنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَ قَرَّبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ كَمَا قَرَّبَتْ  
بَيْنَ سَوَادِ الْعَيْنِ وَ بَيَاضِهَا أَجَلْ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ مَا تَكْرَهُهُ كَمَا أَحَلَّتْ بَيْنَ يُونُسَ  
وَزَلِيخَا فِي مَعْصِيَتِكَ (وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)  
ذُوبُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْوِيتُمْ وَ طَبَاعَكُمْ  
بِالصَّوْمِ الدَّائِمِ وَ الصَّلَاةِ الدَّائِمَةِ  
وَ الصَّبْرِ الدَّائِمِ إِذَا صَحَّ لِلْعَبْدِ  
ذُوبَانُ نَفْسِهِ وَ هَوَاهُ وَ طَبْعُهُ بَقِيَ هُوَ  
وَ مَوْلَاهُ يَلَا نَحْمَةً بَقِيَ قَلْبًا وَ سِرًّا  
وَ مَوْلَى سَعَةٍ يَلَا ضَيْقًا عَافِيَةً يَلَا  
سُقْمٍ كُونُوا عَقْلَاءَ وَ تَعَلَّمُوا وَ اعْلَمُوا  
وَ أَخْلَصُوا

يَا غُلَامُ تَعَلَّمْ مِنَ الْخَلْقِ شَيْئًا مِنْ

الْخَالِقِ قَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ أَوْ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ عِلْمُ  
مَا لَمْ يَعْلَمْ لَا بُدَّ مِنَ التَّعَلُّمِ مِنَ الْخَلْقِ  
أَوَّلًا وَهُوَ الْحُكْمُ شَعْرٌ مِنَ الْخَالِقِ ثَانِيًا وَ  
هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي عِلْمُهُ يَخْصُ الْقُلُوبَ  
بِسِرٍّ يَخْصُ الْأَسْرَارَ كَيْفَ تَقْدِرُ مَا تَتَكَلَّمُ  
شَيْئًا يَلَا أُسْتَاذٍ أَنْتَ فِي دَارِ الْحُكْمِ  
أُطْلِبِ الْعِلْمَ فَإِنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ قَالَ  
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُطْلِبُوا  
الْعِلْمَ وَكُونُوا بِالصِّبْيِ -

يَا غُلَامُ اصْحَبْ مَنْ يُعَاوَنُكَ  
عَلَى جَهَادِ نَفْسِكَ لَا مَنْ يُعَاوِدُهَا  
عَلَيْكَ إِذَا صَحِبْتَ شَيْخًا جَاهِلًا  
مُتَأَفِّقًا صَاحِبَ طَبَعٍ وَهَوًى كَانَ  
مُعَاوِنًا لَهَا عَلَيْكَ الشُّيُوءُ لَا يَصْحَبُونَ  
لِلدُّنْيَا بَلْ يَصْحَبُونَ لِالْآخِرَةِ إِذَا كَانَ  
الشَّيْخُ صَاحِبَ طَبَعٍ وَهَوًى صَحِبَ لِلدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ حَسَنًا  
قَلْبٌ صَحِبَ الْآخِرَةَ وَإِذَا كَانَ صَاحِبَ سِرٍّ صَحِبَ  
لِلْمَوْلَى يَا مَنْ تَنْشِيئُهُ وَتَصَدِّدُ وَرَاحِمُ  
الشُّيُوءِ الْمُخْلِصِينَ فِي أَحْوَالِهِمْ مَا  
دُمْتَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا بِنَفْسِكَ وَهَوَاكَ  
فَإِنَّتَ صَبِيٌّ ذَلِكَ طَبَعٌ مَحْضُ السَّادِرُ  
مِنْ كُلِّ نَادٍ بِهَا نَفْسٌ تُعْرِضُ عَنِ  
الدُّنْيَا وَتَتَوَكَّلُهَا اخْتِيَارًا لَا اضْطِرَارًا  
وَكُونِ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ وَتَصِيرُ قَلْبًا

علم سیکھ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم نے ارشاد فرمایا ہے - کہ  
جو کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم  
عطا فرمادیتا ہے جس کو یہ جانتا بھی نہ تھا اور اگر مخلوق سے  
علم سیکھنا ضروری ہے اور وہ علم شرعی ہے اس کے بعد  
دوسرے نمبر پر خالق سے اور وہ علم لدنی ہے جو کہ باطن و  
اسرار کے ساتھ مخصوص ہے اور غیب و اسرار کے کسی علم  
کے حاصل کر لینے پر تو کیسے قادر ہو سکتا ہے تو تودارالحکم  
میں ہے علم طلب کر کیوں علم کا طلب کرنا فرض ہے حضور  
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم نے ارشاد فرمایا ہے تم علم کو طلب کرو  
اگرچہ وہ ملک چین میں ہی ملے۔

اسے غلام تو ایسے شخص کی مصاحبت کر جو کہ جہاد نفس پر  
نیری مدد کرے نہ اس کی جو کہ تیرے مقابل میں نفس کا مددگار  
بنے۔ جب تو کبھی ایسے شخص کی مصاحبت کرے گا جو کہ جاہل و  
منافق ہے اور پیرو نفس و طبیعت ہے تو وہ تیرے مقابل میں  
نفس کا مددگار ہو گا۔ مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے اختیار  
نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان کی مصاحبت سے مقصود آخرت  
ہوتی ہے۔ جب کوئی شیخ پیر و خواہش و طبیعت ہو گا۔  
تو اس کی مصاحبت دنیا کے لیے کی جائے گی اور جب وہ  
صاحب قلب ہو گا تو اس کی مصاحبت آخرت کے واسطے کی جائے  
گی اور جب کہ وہ صاحب باطن ہو گا تو اس کی مصاحبت مولیٰ تعالیٰ کے لیے  
اختیار کی جائے گی اسے جھوٹے مشیخت و صدارت کے دعویدار اور مخلص  
سچے مشائخوں کے حال میں گھسنے والے جب تک کہ تو اپنے نفس و  
خواہش کی پیروی میں دنیا کو طلب کرتا رہے گا پس تو ایک بچہ ہے محض  
ایک طبیعت ہے بہت ہی کم یاب ایسا نفس ہو گا جو دنیا و آخرت کے لیے  
دنیا کو اختیار سے بغیر اضطرار کے چھوڑ دے۔ ایسا مطمئن بن کر نہ مل سکتا ہے۔

كَادِمًا مِّنْ كُلِّ نَازٍ بَعِيدٍ مِّنْ كُلِّ بَعِيدٍ  
لَتَنَالَيَنَّكُمْ فِي حَقِّهَا إِذَا عَمِيَّتْ عَنِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا سَوَى السَّوْلِ  
كُلَّمَا قَرَّبَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَمَّ وَجَلَّ  
كَثُرَ خَطَرُهُ وَاشْتَدَّ خَوْفُهُ وَلِهَذَا  
أَخْطَرُ النَّاسِ مِنَ الْمَلِكِ وَزَيْرُهُ  
لَا تَنَالُهُ أَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ  
الْمُؤْمِنُ إِلَّا بِأَخْلَاصٍ فَحِينَئِذٍ هُوَ  
عَلَى خَطَرِ الْقَتْلِ عَلَى خَطَرِ عَظِيمٍ  
لَا يَسْكُنُ خَوْفُهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا رَبَّهُمْ  
عَمَّ وَجَلَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَمَّ وَجَلَّ  
اشْتَدَّ خَوْفُهُ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْرَافُكُمْ  
يَا اللَّهُ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَوْفًا الْحَقُّ عَمَّ  
وَجَلَّ يَخْتَارُ أَوْلِيَاءَهُ لِيُصْفِيَهُمْ فَهُمْ  
أَبَدًا عَلَى قَدَمِ الْخَوْفِ مِنَ التَّغْيِيرِ  
وَالشَّبَدِ يَلِ يَخَافُونَ وَإِنْ كَانَ حَالُهُمْ  
أَلَا مَنْ يَنْزِعُ عَجُونَ وَإِنْ كَانُوا أُعْطُوا  
السُّكُونُ يُسَاقِشُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى ذَرَّةٍ وَ  
خَوْدَةٍ وَكَفْتَةٍ وَأَذَى عَفْلَةٍ كُلَّمَا  
أَسْكَنَهُمْ طَارُوا كُلَّمَا أَعْنَاهُمْ انْتَفَرُوا كُلَّمَا أَمَنَهُمْ خَافُوا  
كُلَّمَا أَعْطَاهُمْ امْتَنَعُوا كُلَّمَا أَحْدَحَكَّهُمْ  
بَكُوا كُلَّمَا فَتَّرَ حَمَمَ خَزَنُوا يَخَافُونَ مِنْ  
تَغْلِبِ الْأَعْيَارِ وَسُوءِ الْعَاقِبَةِ  
فَتَدْعُوا أَلَا رَبَّهُمْ عَمَّ وَجَلَّ

ایسا ہونا تو بہت ہی ناور اور دور از دور ہے یہ تو نفس کے حق  
میں جیہی درست ہو سکتا ہے جب کہ وہ دنیا اور آخرت اور اس کے  
اللہ سب سے اندھا ہو جائے گا جب کوئی بندہ اپنے  
رب عزوجل سے قریب ہو جاتا ہے اس کا خطرہ بڑھ جاتا  
ہے اور اس کا خوف بے حد زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ  
سے وزیر بادشاہ سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ  
وہ بادشاہ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے کوئی مومن خدا تک  
بغیر اخلاص کے پہنچ ہی نہیں سکتا اس مرتبہ پہنچ کر وہ بڑے  
خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یا کرام بڑے خطرہ میں رہتے ہیں  
ان کے خوف کو جب تک کہ وہ اپنے رب عزوجل سے ملاقات  
و کر لیں سکون ہی نہیں ہوتا جس نے اللہ عزوجل کو پہچانا اس کا خوف زیادہ  
بڑھ گیا اور اسی واسطے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کو تم  
میں سب سے زیادہ پہچاننے والا اور تم سب سے اس سے زیادہ خوف  
کرنے والے ہوں حتیٰ عزوجل اپنے اولیاء کو جانچتا رہتا ہے تاکہ ان  
کو صاف بنادے پس وہ ہمیشہ خوف کے قدم پر کھڑے رہتے ہیں  
تغیر و تبدل سے ڈرتے رہتے ہیں اگر ان کی حالت میں ان پایا جاتا ہو  
اگرچہ ان کو سکون عطا فرمایا جاوے۔ وہ مضطرب ہی رہتے ہیں وہ  
اپنے نفسوں سے ایک فدر اور ایک رائی کے دائرہ اور طریق کی طرف ادنیٰ  
توجہ اور غفلت پر توجہ کرتے رہتے ہیں جب جس قدر ان کو سکون ملتا ہے  
اسی قدر وہ اور ٹپے میں جس قدر ان کو غنا عطا ہوتا ہے اتنے ہی حاجت مند  
ہوتے ہیں خلا سے ان کی حاجت بڑھ جاتی ہے جس قدر ان کو امن عطا ہوتا ہے اتنے  
زیادہ خوف ان کو ہوتے ہیں ان کی جس قدر عطا الہی ہوتی ہے رکتے ہیں وہ جس قدر ان کو  
ہنسالتا ہے وہ روتے ہیں جس قدر وہ ان کو رحمت دیتا ہے وہ غم ناک ہوتے ہیں وہ  
دوروں کی طرح حالت کے پلٹ جانے اور انجام کار کے خراب ہونے سے ڈرتے  
رہتے ہیں انہوں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ رب عزوجل سے کس فعل سے

لَا يُسَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَالُونَ وَ  
 أَنْتَ يَا عَافِيْلُ تَبَارِكُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
 بِالْمُعْصِيَةِ وَالْمُخَالَفَةِ شَرَّتْ تَامَتُهُ  
 عَنْ قَرِيبٍ يَنْقَلِبُ أَمْنُكَ خَوْفًا سَعَتْكَ  
 ضِيْفًا عَافِيَّتُكَ مَرَضًا عِزُّكَ دُلَّارُفَعُكَ  
 وَضَعَاغِنَاكَ فَقَرًا إِعْلَمُ أَنَّ أَمْنُكَ  
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ عَلَى قَدَرِ خَوْفِكَ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا  
 وَخَوْفِكَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى قَدَرِ أَمْنِكَ  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ غَايِصُونَ فِي  
 بَحْرِ الدُّنْيَا سَاكِتُونَ فِي قَعْرِ بَيْتِ  
 الْغَفْلَةِ فَلَا جَرَمَ عَيْشِكُمْ كَعَيْشِ  
 الْبَهَائِمِ لَا تَعْرِفُونَ سِوَى الْأَكْلِ  
 وَالشَّرْبِ وَالتَّكَاثُرِ وَالتَّوَرُّمِ أَحْوَالِكُمْ  
 ظَاهِرَةٌ عِنْدَ أَرْبَابِ الْعُلُوبِ الْخُصُ  
 عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعُهَا وَطَلَبُ الْأَذْذَاقِ  
 قَدْ حَجَبَكُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَ عَنْ بَابِهِ يَا مَنْ قَدْ فَتَحَهُ  
 جَوْهَرُهُ لِيَوَاجِئْتُمْ أَنْتَ وَ أَهْلُ  
 الْأَرْضِ مِنْ عَلَى أَنْ يَجْلِبَ لَكَ شَيْئًا  
 لَمْ يُفْتَسَمْ لَكَ لَمْ تُقَدَّرْ قَدْرُكَ عِنْدَ  
 الْخُصُصِ عَلَى طَلَبِ مَا قَدْ قَسِمَ  
 لَكَ وَ طَلَبِ مَا لَمْ يُفْتَسَمْ لَكَ  
 كَيْفَ يُحْسِنُ لِعَاقِلٍ أَنْ يَضَيِّعَ  
 زَمَانَهُ فِيمَا قَدْ فَتَرَ مِنْهُ أَخْرِجْ

سوال نہ کیا جائے گا اور وہ سوال کیے جائیں گے ان سے باز پرس  
 ہوگی اور تو تو اسے غافل تھی عزوجل سے گناہ و مخالفت کر کے رہتا  
 رہتا ہے اور پھر نڈر رہتا ہے بنقریب تیرا امن خوف سے  
 اور تیری وسعت تنگی سے اور تیری عافیت بیماری  
 سے اور تیری عزت ذلت سے اور تیری بلندی  
 پستی سے اور تیری امیری فحمتی جحی سے بدلی  
 جائے گی۔ تو بہ تحقیق اس بات کو جان لے کہ قیامت  
 کے دن تجھے امن و امان عذاب الہی سے بمقدار تیرے  
 خوف دینے کے ہوگا جتنا قویاں ڈرا ہے اتنا وہاں نڈرا ہو  
 گا اور تیرا خوف آخرت میں بمقدار تیرے امن دینے کے  
 ہوگا۔ لیکن تم تو دنیا کے دریا میں غوطہ زن اور غفلت کے  
 کنویں کی تہ میں ساکن ہو اسی وجہ سے تمہارا عیش چرپایوں  
 کا سا عیش بنا ہوا ہے تم تو کھانے پینے اور نکاح اور  
 سونے کے سوا کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ تمہاری  
 حالتیں اہل دل اولیاء اللہ پر ظاہر ہیں۔ تم کو دنیا اور  
 اس کے جمع کرنے کی حرص اور طلبی رزق کی ہوس نے  
 اللہ عزوجل کے راستہ اور اس کی آستان بوسی سے  
 روک رکھا ہے اسے وہ شخص جس کو اس کی حرص نے روکا  
 کر دیا ہے اگر تو تمام زمین والے اس لیے جمع ہو  
 جائیں کہ تیری طرف ایسی چیز کو کھینچ لائیں جو کہ تیرے  
 مقسوم میں نہیں ہے تو اس پر قدرت نہیں رکھتے تو مقسوم  
 اور غیر مقسوم کی طلب پر حرص کرنے کو چھوڑ دے۔  
 عقلمند کے لیے یہ امر کیوں کہ ہنزا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے  
 زمانہ کو ایسے امر میں ضائع کرے کہ جس سے  
 فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ تو اپنے قلب سے

الْخَلْقِ مِنْ قَبْلِكَ وَلَا تَرَاهُمْ فِي الضَّرِّ  
وَالنَّفْعِ فِي الْعَطَاءِ وَالنَّمْعِ فِي الْحَمْدِ  
وَالدَّمِ فِي الْإِكْرَامِ وَالْإِهَانَةِ فِي  
الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ وَاعْتَفِدْ أَنَّ الضَّرَّ  
وَالنَّفْعَ مِنَ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَ وَ أَنَّ  
الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِيَدِهِ يُجْعِلُهُمَا عَلَى  
أَيِّدِي الْخَلْقِ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ حِزَّتُ  
سَفِيرًا بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ اخْتِذَا  
بِأَيْدِيهِمْ إِلَى بَابِهِ تَرَاهُمْ كَأَنَّهُمْ  
مَعْدُومُونَ بِالْإِصْنَاءِ إِلَيْكَ تَرَى  
الْعَصَاةَ لِرَبِّهِمْ عَمَّا وَجَلَ بِعَيْنِ  
الْجُنُونِ وَالْجَهْلِ فَتُدَاوِيهِمْ وَ  
تَطِيَّبُهُمْ وَتَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَ  
جَهْلِهِمُ الطَّائِعُونَ لِرَبِّهِمْ عَمَّا وَجَلَ  
جَلَّ هُمْ الْعُلَمَاءُ الْعُقَلَاءُ وَالْعَاصُونَ  
لِرَبِّهِمْ عَمَّا وَجَلَ هُمُ الْجُهَالُ الْجَائِزِينَ  
الْعَاصِي جَهْلَ رَبِّهِ عَمَّا وَجَلَ فَعَصَاةُ  
وَتَابِعَ شَيْطَانَهُ وَوَافَقَهُ فَكَوْ كَمْ  
يَجْهَلُ لَمَّا عَصَى كَوَفَرَ نَفْسَهُ  
وَعَلِمَ أَنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالشُّرِّ لَمَّا  
وَافَقَهَا كَمْ أَحْدَاكَ مِنْ إِبْلِيسَ  
وَأَعْوَانِهِ وَأَنْتَ تَصْحَبُهُ وَتَقْبَلُ  
مِنْهُ أَعْوَانُهُ النَّفْسُ وَالذُّنْيَا وَالْهَوَى  
وَالطَّبَعُ وَأَخْرَانُ الشُّرِّ أَحْدَا الْجَمِيعِ  
فَإِنَّ كُلَّهُمْ أَعْدَاؤُكَ وَكَيْسَ لَكَ

کیلتا مخلوق کو نکال ڈال نفع اور نقصان دینے اور لینے  
تقریف اور برائی عزت و دولت اقبال و ادبار میں مخلوق  
کی طرف نظر نہ کر۔ اور اس بات کا معتقد ہو جا کہ نقصان  
و نفع سب خدا ہی کی طرف سے ہے اور بھلائی  
برائی سب اس کے قبضہ میں ہے وہ ان دونوں کو  
مخلوق کے ہاتھوں پر چلاتا ہے۔ جب یہ حالت  
متحقق ہو جائے گی تو تو مخلوق و خالق کے درمیان  
سفیر اور مخلوق کے ہاتھوں کو پکڑ کر آستانہ الہی کی  
طرف سے جانے والا ہو جائے گا۔ تو ان کو گویا  
باعتبار اپنی نسبت کے معدوم و مفقود جاننے لگے  
گا۔ خدا کے نافرمانوں کو تو جنہیں جمالت کی آنکھ سے  
دیکھے گا پس تو ان کا علاج و معالجہ کرنے لگے گا اور ان  
کی تکلیف دہی اور جمالت پر صابر بن جائے گا۔ اپنے  
پروردگار جل جلالہ کے فضل بروراء عالم اہل عقل ہی ہیں  
اور نافرمان گناہ گار جاہل و مجنون گناہ گار نے اپنے  
پروردگار کو نہ جانا پس اس کی نافرمانی کی اور اپنے  
شیطان کی پیروی و موافقت۔ اگر وہ خدا  
سے جاہل نہ ہوتا ہرگز اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اگر وہ  
اپنے نفس سے واقف ہوتا اور یہ جانتا ہوتا کہ وہ برائی  
کا حکم دیتا ہے تو کبھی نفس کی موافقت نہ کرتا میں تجھے  
کس قدر شیطان اور اہل کے مددگاروں سے ڈراتا رہتا ہوں  
لیکن تو اس کو مصاحب بنائے ہوئے ہے اور اسی کی بات کو  
قبول کرتا رہتا ہے شیطان کے مددگار نفس اور دنیا اور خواہشات  
اور طبیعت اور برے ہم نشین ہیں تو ان سب سے  
پرہیز کر کیونکہ یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تیرا محب خدا کے

مُحِبِّ سَيِّدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَائِيَّةَ  
يُرِيدُكَ لَكَ وَغَيْرُهُ يُرِيدُكَ لَمْ  
إِذَا فَتَدَّتْ نَفْسُكَ فِي حَالِ خَلُوتِكَ  
وَطَلَبَتْهَا مَعَ الظَّالِمِينَ حِينَئِذٍ  
صَارَتْ خَلُوتُكَ أُنْسًا بِالْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ إِذَا تَرَكْتَ نَفْسَكَ مَعَ الدُّنْيَا  
وَقَلْبِكَ مَعَ الْآخِرَى وَ سَرَّكَ  
مَعَ الْمَوْلَى حِينَئِذٍ صَارَتْ خَلُوتُكَ  
أُنْسًا بِاللَّهِ وَ أَمَّا مَعَ وَجُودِهَا  
وَوُجُودِ غَيْرِهَا مِنَ الْأَنْفُسِ  
لَا يَكُونُ لَكَ خَلْوَةٌ أَلْحَلَّوْهُ مَعَهُ  
إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ الْوَحْدَةِ مِنْ غَيْرِهِ  
إِنَّمَا تَجِدُهُ بَعْدَ بَعْضِ غَيْرِهِ  
مَتَى تَصْعُقُ حَتَّى تَرَى الصِّفَا وَ أَهْلَهُ  
مَتَى تَصْدُقُ حَتَّى تَرَى الصِّدْقَ وَ  
أَهْلَهُ مَتَى تُخْلِصُ حَتَّى تَرَى بَابَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَهْلَهُ إِذَا احْفَظْتَ  
حَالَكَ رَأَيْتَ رَجَالَ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ إِذَا رَأَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ رَأَيْتَ  
خَدَمَهُ وَ قُرُوبًا هُنَاكَ بَابَ الْمَلِكِ  
مَا دَسَّتَهُ مَا لَمْ حَتَّهِ كَيْفَ تَرَى  
عِلْمَانَهُ لَا كَلَامَ حَتَّى تَرَى الْبَابَ  
فَحِينَئِذٍ تَرَى الْعِلْمَانَ لَا كَلَامَ  
حَتَّى تَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ  
تَرَى صِدْقًا وَ قَدْ رَأَيْتَ هُنَاكَ

سوا کوئی بھی نہیں ہے کیوں کہ وہ تجھ کو صرف تیرے نفع کے  
لیے ہی چاہتا ہے اور دوسرے تجھے اپنے لیے چاہتے  
ہیں جب تو اپنے نفس کو اپنی خلوت و تنہائی کی حالت میں  
مفقود کر دے گا دوسرے طلب گاروں کے ساتھ میں ہو کر  
اس کو طلب کرے گا اُس وقت تیری تنہائی و خلوت خدا کے  
ساتھ مانوس بن جائے گی۔ جب تو اپنے نفس کو دنیا کے  
ساتھ اور اپنے قلب کو اغتر کے ساتھ اور اپنے باطن  
کو مولے تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دے گا پس اس وقت تیری  
خلوت انس بقی بن جائے گی۔ لیکن جب تک تیرے نزدیک  
نفس اور اغیار کا وجود رہے گا تجھے خلوت حاصل نہ ہوگی تیری  
خلوت نشینی بے کار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی معیت میں خلوت  
جب ہو سکتی ہے جب غیر اللہ سے کلیتہً انقطاع ہو۔ اس کو  
تو جب ہی پاسکتا ہے جب کہ اس کے غیر کو تو دشمن بنالے  
تجھے صفائی جب ہی مل سکتی ہے جب کہ تو صفائی و اہل صفا  
پر توجہ کرے۔ تو مخلص جب ہی بن سکتا ہے۔ جب کہ  
تو استناذ الہی کو دیکھے اور اہل اللہ کے ساتھ رہے جب  
تو اپنی حقیقتنا ایسی حالت بنالے گا تو مردان خدا کو دیکھ  
کے گا جب تو بادشاہ کے دروازہ پر پہنچے جائے گا اس وقت اس کے  
نوکر چاکر دریاں کھڑے ہوئے تجھے نظر آئیں گے تو نے بادشاہ کے  
دروازہ کو ٹھوکا ہی نہیں ہے اس کو دیکھا ہے پھر تو کیسے  
اس کے نوکر چاکر کو دیکھ سکتا ہے۔ تیرے کلام کا اعتبار نہیں  
جب تک کہ تو اس کے دروازہ کو نہ دیکھ لے اسی وقت تجھ کو  
اس کے غلام نظر آئیں گے۔ تیرا کلام معتبر ہی نہیں جب تک  
کہ تو اللہ عزوجل کو نہ دیکھے اسی وقت تو سچائی دیکھ  
سکے گا۔ وہیں تجھے معلوم ہوئے گا۔ کہ

الصِّدْقَ يَحْبِلُكَ وَيُعَيِّدُكَ وَيُوقِظُكَ  
وَالْكَذِبَ يَرُدُّكَ وَيَتَوَمِّمُكَ كُنْ  
مَعَ الصَّادِقِينَ حَتَّى تَعْمَلَ بِمَا  
عُومِلُوا بِهِ اُصْدُقْ فِي اَحْوَالِكَ  
وَاَفْعَالِكَ وَاَصْبِرْ فِي جَمِيعِ  
اَحْوَالِكَ الصِّدْقُ هُوَ التَّوْحِيدُ وَ  
الْاِخْلَاصُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ قَطْعُ السَّبَابِ  
وَالْاِسْرَاقِ وَالْخُرُوجِ مِنْ حَوْلِكَ  
وَحَوَاتِكَ مِنْ حَيْثُ قَلْبِكَ وَسِرِّكَ  
اِنْ اَرَادْتَ الْاِلْتِصَالَ بِهِ فَاقْطَعْ  
كُلَّ مَوْصُولٍ غَيْرَهُ وَاَعْرِضْ عَنْكَ  
وَعَنْهُمْ اَعْرِضْ عَنِ الْمُحَدَّثِ حَتَّى  
تَقُولَ اِلَى الْمُحَدَّثِ مَا دُمْتَ مَعَكَ  
وَمَعَهُمْ لَا تُفْلِحْ قُرْبَ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ لَا يَحْتَمِلُ الرَّحْمَةَ مِنْ كُلِّ  
اَلْفِ اَلْفٍ مِنْكُمْ اِلَى الْقَطَاعِ النَّفْسِ  
وَاحِدٌ يَعْمَلُ مَا اَقُولُ وَيَعْمَلُ  
بِهِ وَبَاقِيكُمْ يَدْخُلُونَ فِي عَمَارَةٍ  
وَيَتَبَرَّكُونَ بِحُضُورِهِمْ مَعَهُ  
اِنِّي اَرْجُو لَكُمْ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ  
فَاِذَا تَبَيَّنَ سَجْنُهُ جَاءَهُ الْفَرَجُ  
الْمُؤْمِنُونَ فِي سَجْنٍ وَالْعَارِفُونَ  
فِي سَكْرَتِهِمْ عَائِمُونَ عَنِ السَّجْنِ

سچائی تجھے اٹھائے گی اور آگے بڑھائے گی اور تجھے بیدار  
بنادے گی اور جھوٹ تجھ کو واپس کر دے گا۔ اور تجھے غافل  
بنادے گا۔ تو سچے لوگوں کی معیت اختیار کر تا کہ تیرے ساتھ  
بھی انہیں جیسا معاملہ کیا جائے۔ تو اپنے اقوال و افعال میں  
سچائی اختیار کر اور اپنی تمام حالتوں میں صابر بنارہ۔ سچائی  
کیا ہے خدا کا ایک جاننا۔ اور اخلاص اور امانت پر توکل کرنا  
توکل کی حقیقت سببوں اور دوستوں و ارباب سے قطع  
تعلق کر لینا۔ اور قلب و باطن کی حیثیت سے اپنی قوت  
و طاقت سے علیحدہ و دور ہو جانا ہے۔ اگر تو اپنا اتصال  
خدا کے ساتھ چاہتا ہے تو ہر ملاقاتی سے جو کہ اسے اللہ  
ہے قطع تعلق کرے اور اپنے سے اور ان سب سے  
روگردانی کر لے۔ تو تمام حادث چیزوں سے روگردانی  
کر لے تاکہ تو ان کے موجد کی طرف تہنچ جائے۔  
جب تک کہ تو اپنے اور ان کے ساتھ رہے گا۔  
فوز و فلاح پائے گا۔ قرب الہی از و حام و اجتماع کو برداشت  
نہیں کر سکتا۔ وہ تو یگانگت کو چاہتا ہے۔ تم میں سے لاکھوں  
کوڑوں میں سے آخر دم تک ایک آدمی ہی ہو گا۔  
جو کہ میری بات کو سمجھے گا۔ اور اس پر عمل کرے گا۔ اور  
باقی تم لوگ تو عمارت میں محض برکت لینے کے لیے  
حاضری دیتے ہو۔ میں تو تمہارے لیے داریں کی  
بھلائی کا امیدوار ہوں۔ دنیا مسلمان کے لیے  
قید خانہ ہے۔ پس جب وہ اپنے قید خانہ  
کو بھول جائے گا تب اس کو کشادگی ملے گی۔  
مسلمان قید خانہ میں ہیں اور عارف باللہ مستی و  
حالت میں پس وہ قید خانہ سے غائب ہیں،

قَدْ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَ الشُّوقِ إِلَيْهِ  
 شَرَابَ الْأَنْسِ بِهِ وَشَرَابَ الطَّلِبِ لَهُ شَرَابُ  
 الْعَفْوَ عَنِ الْخَلْقِ وَالْيَقْظَةِ بِهِ سَقَاهُمْ  
 هَذِهِ الْأَشْرَبَةَ فَتَحُوا عَنِ الْخَلْقِ دَافِقُوا  
 بِهِ وَمَعَهُ غَابُوا عَنِ السَّجْنِ وَالْمَسْجُونِينَ  
 قَدْ عَجَّلَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا نَارَهُمْ وَجَنَّتَهُمُ  
 الْمَنَاسَرَةُ نَارُهُمْ وَالرِّضَابُ الْقَصَا  
 جَنَّتَهُمُ الْعَفْوَ نَارُهُمْ وَالْيَقْظَةُ جَنَّتَهُمُ  
 الْقِيَامَةُ فِي حَقِّ الْعَوَامِ الْمُحَاسَبَةُ  
 وَفِي حَقِّ الْحَقِّ الْخَوَاصِّ الْمَعَايِنَةُ كَيْفَ  
 لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ أَقَامُوا الْقِيَامَةَ  
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِكُورًا  
 قَبْلَ الضَّرْبِ فَفَعَلَهُمُ الْبُكَاءُ وَقَتَّ  
 حُضُورُ الضَّرْبِ رَوَى سَفِيَانُ الشَّوْمِيُّ  
 رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ  
 لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ أَوْقَفَنِي  
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ يَا سَفِيَانُ  
 أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَفْوَكَ رَحِيمٌ بِكَيْتٍ  
 ذَلِكَ الْبُكَاءُ كُلُّهُ مِنْ خَوْفِي أَمَا  
 اسْتَحْيَيْتَ مِثِّي أَهْجُرَ طَبْعَكَ وَ  
 هَرَاكَ وَشَيْطَانَكَ وَلَا تَرَكُنِي إِلَيْهِمْ  
 إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ  
 أَقْرَانِ السُّوءِ عَدَاوَةً وَلَا تُصَادِقْهُمْ  
 حَتَّى يُوَافِقُوكَ فِي حَالِكَ التَّوْبَةِ  
 قَلْبُ دَوْلَةٍ مَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ

ان کو ان کے رب نے اپنے شوق کی شراب اپنے  
 انس اور طلب کی شراب اور خلق سے غفلت اور اپنے  
 ساتھ بیداری کی شراب پلا دی ہے جب رب تعالیٰ  
 نے ان کو یہ شرابیں پلا دیں پس وہ مخلوق سے علیحدہ ہو گئے  
 اور خدا نے تعالیٰ کے ساتھ اس کی معیت میں مدہوش ہو  
 گئے قید خانہ اور قیدیوں سے غائب ہو گئے۔ ان کے  
 لیے ان کی جنت و دوزخ دنیا ہی میں بعمالت بنا دی گئی  
 اللہ تعالیٰ سے منازعت و مخالفت ان کے واسطے دوزخ  
 ہے اور راضی برضار ہنا ان کی جنت خدا سے غفلت ان  
 کی دوزخ ہے اور بیداری جنت عوام کے حق میں قیامت  
 حساب و کتاب دینے کا نام ہے اور خواص کے حق میں  
 مشاہدہ و معائنہ کا دل یہ کیوں کر نہ ہو۔ انہوں نے تو دنیا ہی  
 میں اپنے نفسوں پر قیامت قائم کر لی ہے قبل پٹنے ہی  
 کے روچکے ہیں۔ پس بار کے حاضر ہونے کے دن ان  
 کا پہلے کا روزانہ کو نفع دے گا۔ حضرت سفیان ثوری  
 رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا اور آپ سے دریافت  
 کیا گیا کہ آپ کے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا۔ جواب دیا  
 کہ اس نے مجھے اپنے رب و ربوہ کھڑا کر کے ارشاد فرمایا اے  
 سفیان کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں بخشش و رحمت کرنے والا  
 ہوں تو بکثرت میرے خون سے روتا رہا۔ کیا مجھ سے  
 تجھے شرم نہ آئی۔ تو اپنی طبیعت اور خواہش اور اپنے شیطان  
 کو چھوڑ دے اور ان کی طرف مائل نہ ہو۔ جب یہ امر ثابت  
 ہو جائے پس تو اپنے اور برے ہم نشینوں کے درمیان  
 میں عداوت پیدا کر لے اور تا وقتیکہ وہ تجھ سے موافقت  
 نہ کریں تو ان سے دوستی نہ کر تو بر دولت کا کاپیلٹ

مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَقَدْ كَذَبَ فِي تَوْبَتِهِ إِذَا غَيَّرْتَ غَيْرَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ لَا تَظْلِمُ أَحَدًا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّكَ تُوْحَدُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إَعْدِلْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى لَا يَعْدِلَ بِكَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ الظَّلَمَةُ لَمَّا تَرَكَوْا الْعَدْلَ عَدَلَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ دَارِ أَهْلِ الْعَدْلِ ائْتِرْكَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ لَكَ مَوْضِعٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا اخِرُ الزَّمَانِ إِنِّي أَدَاكُمْ قَدْ غَيَّرْتُكُمْ وَبَدَّلْتُكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ لَا بَدَّ مَا يُغَيِّرُ أَشْيَاءَ وَيَبْدِلُ وَلَكِنْ مِنَ الْحَالِ مَا يُكَلِّمُ يَا خَلْقَ اللَّهِ إِنِّي أَطْلُبُ صَلَاحَكُمْ وَمَنْفَعَتَكُمْ فِي الْجُمْلَةِ أَتَمَنَّى غُلُقَ أَبْوَابِ النَّارِ وَعَدَمَهَا يَا كَلِيَّةُ وَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَتَحَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ دُخُولِهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا تَمَيَّنَتْ هَذِهِ الْأُمْنِيَّةُ لَا تَطْلَعُ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَشَفَقَتِهِ عَلَى خَلْقِ قَعُودِي لِمَصَالِحِ قُلُوبِكُمْ وَتَهْدِيئِهَا لَا لِتَغْيِيرِ الْكَلَامِ

کرنا ہے جس نے توبہ کی اور قبل توبہ کے جو اس کی حالت تھی اس کو نہ بدلا۔ پس وہ اپنی توبہ کرنے میں جھوٹا ہوا جب تو اپنی حالت کو بدلے گا تیرے اوپر تبدیلی کی جائے گی۔ ارشاد الہی ہے کہ بر تحقیق اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا تا وقتیکہ وہ اپنے نفسوں کی حالت کو نہ بدلیں دنیا میں تو کسی پر ظلم نہ کریں کہ تو ظلم کرنے پر آخرت میں پکڑا جائے گا۔ دنیا میں عدل و انصاف کرنا کہ وہ تجھ کو جنت کے راستہ سے منحرف نہ کر دے۔ ظالموں نے جب انصاف کو چھوڑ دیا ان کو جنت کے راستہ سے دور کر دیا گیا جو کہ انصاف والوں کا گھر ہے ہر چیز کو تو اس کی جگہ پر چھوڑ دے تاکہ تجھے اللہ کے نزدیک مرتبہ مل جائے۔ یہ آخر زمانہ ہے بر تحقیق میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے پس میں تمہارے اوپر خدا کی طرف سے تغیر و تبدل سے ڈر رہا ہوں۔ اشیاء میں تغیر و تبدل ضروری ہے۔ لیکن بعض حال مخفی رکھے جاتے ہیں اسے مخلوق الہی میں فی الجملہ میں تمہاری بہتری اور نفع کا خواہان ہوں میں دوزخ کے دروازوں کے بند ہو جانے اور اس کے بالکلیتہ معدوم ہو جانے اور اس بات کا کہ کوئی بھی مخلوق الہی سے اس میں نہ جائے اور جنت کے کھولنے اور اس بات کا کہ اس میں جانے سے مخلوق میں سے کوئی بھی نہ روکا جائے۔ متمنی ہوں۔ اور میری یہ تمنا محض اس وجہ سے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و شفقت پر مطلع ہو چکا ہوں جو کہ اس کو اپنی مخلوق پر ہے۔ میرا وعظ کے لیے بیٹھنا محض تمہارے قلوب کی مصلحتوں اور تہذیب کے لیے ہے نہ کہ وعظ و تقریر میں الٹ پھیر کرنے کے لیے

وَقَهْدَ يَبِيْهِ لَا تَهْرَبُوْا مِنْ خُشُوْنَةٍ كَلَّا هِيَ  
 قَمَارَاتُ النَّاٰفِيْ اِلَّا الْخَشِيْنُ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ كَلَّا هِيَ خَشِيْنٌ وَ طَعَارِمٌ  
 خَشِيْنٌ فَمَنْ هَرَبَ مِنْهُ وَ مِنْ اَمْثَالِهَا  
 لَا يُفْلِحُ اِذَا اَسَاعَتْ اِلَّا دَبَّ فِيْهَا  
 يَرْجِعُ اِلَى الدِّيْنِ لَا اَتُرْكُكَ وَلَا  
 اَقُوْلُ اَفْعَلْ ذٰلِكَ وَلَا اُبَالِيْ حَفَرْتَ  
 عِنْدِيْ اَمْ رَغِبْتَ لَا اَطْلُبُ الْحِيَالَ  
 اِلَّا بِاَللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ مِنْهُ لَا مِنْكُمْ  
 اِنِّيْ نَاجِيْهِ عَنْ عَذَابِكُمْ وَ  
 حَسَابِكُمْ مَا اَنَا فِيْهِ لَا بُعْبُورُ  
 بِاللِّسَانِ اِنَّمَا يُعْبَرُ بِالْجَنَانِ  
 لَا يَمِيْنُ وَلَا شِمَالُ وَلَا وَرَاءَ  
 بَلْ قُدَّ اَمْ حَسِبَ صَدْرٌ يَلَا ظَهْرُ  
 تَابِعُ لِلْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ  
 وَ السَّلَفِ لَا اَنْزَالُ عَنْهُمْ فِيْ  
 عَذَابِكُمْ اِلَى دَارِ قُرْبِهِ تُوْبُوْا  
 مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ سُوءِ اَدْبِكُمْ هٰذِهِ  
 التَّوْبَةُ غَمْرٌ مِّنْ اَرْضِ قُلُوْبِكُمْ بِنَاءُ  
 اَبْنِيْهِ عِنْدَكُمْ اَلْقُصَصُ بِنَاءُ الشَّيْطَانِ  
 وَ اَبْنِيْ بِنَاءُ الرَّحْمٰنِ وَ الْحَقُّكُمْ  
 بِمَوْلَاكُمْ وَ سَرِّبَكُمْ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّيْ  
 قَائِمٌ مَّعَ اللّٰثِ لَا مَعَ الْقَشْرِ هٰذَا  
 الظَّاهِرُ قَشْرٌ لَا اَتَعَبُ فِيْ تَرْبِيَّتِهِ اِنَّمَا اَدْبِيْ  
 اَلْبَابُكُمْ وَ اُنْحَى قَشْرُكُمْ وَ اَسْرَبِيْكُمْ

تم میری سخت کلامی سے نہ بھاگو میری تربیت و پرورش ایسے  
 ہی لوگوں نے فرمائی ہے جو کہ دین الہی کے بارہ میں سخت  
 تھے میرا عظمیٰ سخت ہے اور میرا کھانا بھی کھڑا معمولی  
 پس جو کوئی مجھ سے اور مجھ جیسوں سے بھاگے گا فلاح  
 نہ پائے گا جب تو دینی معاملہ میں بے ادبی برتے  
 گامیں تجھے چھوڑنے والا ہوں اور نہ تجھ سے یہ کہوں  
 گا کہ تو ایسا کیے جا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تو میرے  
 پاس آئے یا نہ آئے میں قوت کا طالب صرف خدا سے  
 ہوں نہ کہ تم سے۔ میں تمہاری گنتی و شمار سے اور تمہارے  
 حساب سے علیحدہ ہوں جس حال میں کہ میں ہوں وہ زبان  
 سے بیان نہیں کیا جاسکتا پس وہ دل سے بیان ہو سکتا  
 ہے میرا دھیان یمن و شمال اور پیچھے کو نہیں ہوتا ہے بلکہ  
 صرف اگے ہوتا ہے۔ میں بغیر پشت کا سینہ ہوں۔  
 انبیاء و مرسلین اور سلف صالحین کا پیرو۔ میں کبھی اُن کے  
 استاد الہی کی دوڑ میں اُن کے پاس سے علیحدہ نہیں ہوتا  
 ہوں۔ تم اپنے گناہوں اور بے ادبی سے توبہ کرو۔ یہ  
 توبہ تمہارے دلوں کی زمین میں میرا نہ سچا بونا ہے یہ ایک  
 عمارت ہے جس کی میں تمہارے لیے بنیاد ڈالتا ہوں  
 شیطان کی عمارت کو ڈھارہا ہوں اور رحمن کی عمارت  
 بنا رہا ہوں۔ اور تم کو تمہارے مولیٰ اور رب عزوجل سے  
 ملارہا ہوں بہ تحقیق میں مغز کے ساتھ قائم ہوں نہ کہ چھلکے  
 کے ساتھ۔ بہ ظاہر تو ایک چھلکا ہے میں اُس کی پرورش میں  
 مشقت اٹھانا نہیں چاہتا میں تو تمہارے مغز کی پرورش  
 کرتا ہوں اور تمہارے چھلکوں سے دور رہتا ہوں اور میں  
 تمہاری پرورش اُس وقت تک کروں گا تمہارے سب سے

حَتَّى تَقَرَّ عَيْنَ نَبِيِّكُمْ بِكُمْ .

يَا عِلْمَانُ لَا تَصْحَبُونِي لِلدُّنْيَا وَ  
اصْحَبُونِي لِلْآخِرَةِ فَخَسِبَ إِذَا اصْحَبْتُمْ  
صُحْبَتَكُمْ لِي لِلْآخِرَةِ جَاءَتْكُمْ الدُّنْيَا  
تَبَعًا وَضَمِنًا فَتَأْخُذُوكَ عَلَيْهَا قُدْرَ  
الرُّهْدِ فِيهَا وَآتَاكُمْ مِنْ لَدُنْكُمْ  
لَا تَحْصِبُونَ عَيْهَا قَدَرُ مَا الْآخِرَةُ  
عَلَى الدُّنْيَا الْبَاطِلُ عَلَى الظَّاهِرِ  
الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ الْبَاقِي عَلَى الْفَائِزِ  
أُتْرِكُوا ثُمَّ خُذُوا أُوْتْرِكُوا الْآخِذُ  
مِنْ أَيْدِي الطَّيْبِ وَالْمَكْرُورِ وَالنَّفْسِ  
وَأُتْرِكُوا مِنْ يَدِ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ  
أُتْرِكُوا الْآخِذُ مِنْ أَيْدِي الْخَلْقِ وَ  
خُذُوا مِنْ يَدِ الْخَائِبِ أَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَاقْبَلُوا مِنْهُ مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ مِنْ  
الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا  
آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا كُونُوا سِبَاعًا عَنْدَ  
أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ وَمَرْضَى  
عَنْدَ نَهْيِهِمَا مَوْتِي عِنْدَ حَيِّهِ الْأَقْصَبُ  
وَالْأَقْدَارُ وَمَعَ هَذَا عَاشِرُوا النَّاسَ  
بِخُلُقٍ حَسَنٍ لَا تَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَغِيرَ  
عَلَيْهِ فَيَكُفُّكُمْ وَوَأَقْفُوهُ فِي حُكْمِهِ وَقَدْرُهُ فَيَكُفُّكُمْ فَوَيْ  
فَبِيرُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا خَلَقَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ الْكُتُبُ قَالَ

تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں  
اے غلامو! میری مصاحبت دنیا کے لیے نہ کرو بلکہ  
محض آخرت کے لیے کرو جب تمہاری مصاحبت  
مجھ سے آخرت کے لیے صحیح ہو جائے گی تو تبعاً و ضمناً  
دنیا بھی تمہارے پاس آجائے گی پس تم اُس کو زہد کے  
قدم پر یعنی بے رغبتی کے ساتھ بقدر ضرورت لو گے اور  
میں تمہارے لیے اس کا ضامن ہوں اُس پر تم سے  
حساب کتاب نہ کیا جائے گا۔ تم آخرت کو دنیا پر باطل  
کو ظاہر پر حق کو باطل پر باقی کو فانی پر مقدم کرو اور لا چھوڑو  
پھر لو۔ طبعیت اور خواہش اور نفس کے ہاتھوں سے لینا  
چھوڑ دو اور قلب و باطن کے ہاتھ سے لو۔ تم خلق کے  
ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو اور خالق کے ہاتھ سے لینا اختیار  
کرو۔ تم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور وہ جو  
کچھ بھی امر و نہی فرمائیں اُس کو قبول کرو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد  
ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں پس تم  
اُس کو لو۔ اور وہ جس چیز سے تمہیں منع کریں پس تم اُس سے  
باز رہو۔ تم اللہ و رسول کے حکم کو وقت و رندہ بہادر بنے  
رہو اور اُس کی ممانعت کے وقت بیمار و لاچار اور تقدیر  
قضاء کے آنے کے وقت مردہ بن جاؤ سر جھکا دو اور  
اس کے ساتھ آپس میں اچھے اخلاق برتو۔ تم اللہ عز و جل  
سے اپنے لیے وہ چیز جو اس کے علم کے خلاف ہو طلب  
کرو اور تمہارے اور دوسروں کے بارے میں  
جو احکام قضاء قدر کے ہوں اُس کی موافقت کرو۔ نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اپنے فرمایا جب اللہ  
عز و جل نے قلم کو پیدا فرمایا ارشاد کیا اے قلم لکھ۔ قلم نے

دریافت کیا کیا لکھوں ارشاد ہوا مخلوق کے بارے میں  
قیامت تک میرے حکم میں سب لکھ دے۔

اے قلب کے مردو! نفسوں سے زندہ رہنے  
والو تمہارے قلب مردہ ہو گئے ہیں پس تم اُس کی غم  
مصیبت میں بہ نسبت غیروں کے غم کے زیادہ تر متوجہ  
ہو۔ قلبوں کی موت اللہ عزوجل اور اُس کے ذکر سے  
غافل ہو جانا ہے پس تم میں سے جو کوئی اپنے قلب  
کو زندہ کرنا چاہے پس اُس کو ذکر الہی کے لیے چھوڑے  
اور اُس کے اُس کے لیے اور اُس کی حکومت و عظمت  
اور مخلوق کی طرف تصرفات کرنے میں توجہ کے لیے متوجہ  
کر دے۔

اے غلام تو اول اپنے قلب سے حق عزوجل کا  
ذکر کر بعد ازاں اپنے بدن سے۔ تو اپنے قلب سے اُس  
اُس کا ذکر ہزار مرتبہ کر۔ اور اپنی زبان سے ایک مرتبہ۔  
افقوں کے آنے کے وقت خدا کا ذکر صبر سے کیا کر اور  
دنیا کے آنے کے وقت ترک سے اور آخرت کے  
آنے کے وقت توحید کے ساتھ اور ماسوائے اللہ کے  
آنے کے وقت اُن سے منہ پھیر لینے سے ذکر کیا کر۔  
جب تو اپنے نفس کی باگ کو ڈھیل کر دے گا تو وہ تجھ  
میں لالچ کرنے لگے گا۔ اور تجھے گرا دے گا۔ تو نفس کے  
تقویٰ کی باگ ڈال اور یہودہ قبل و قال کو چھوڑ دے  
موت کا ذکر تیرے قلب کو صفائی بخشنے کا اور دنیا کو تیرا  
مبغوض بنا دے گا تیرے قلب پر پردہ کو کھول دے گا۔  
پس تو مخلوق کو فانی مردہ ہلاک شدہ عاجز دیکھنے لگے گا کہ اُن  
میں نہ نقصان ہے اور نہ نفع۔

مَا الَّذِي كَتَبَ قَالَ اَكْتُبَ حِكْمِي فِي  
خَلْقِي اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

يَا مَوْتِ الْقُلُوبِ يَا اَحْيَاءَ النَّفُوسِ  
قُلُوبُكُمْ قَدْ مَاتَتْ فَكُونُوا فِي مُصِيبَتِهَا  
اَوَّلِي مَا تَكُونُونَ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِكُمْ  
مَوْتُ الْقُلُوبِ الْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَعَنْ ذِكْرِهِ فَمَنْ ارَادَ مِنْكُمْ اَنْ  
يُحْيِيَ قَلْبَهُ فَلْيَتْرِكْ فِيهِ ذِكْرَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَنْشَبَ بِهِ وَ  
النَّظَرَ اِلَى سُلْطَانِيهِ وَعَظَمَتِهِ وَتَعَرُّفِهِ  
فِي خَلْقِهِ۔

يَا عَلَّامُ اَذْكُرُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ اَوَّلًا  
بِقَلْبِكَ ثُمَّ بِفِكَ تَانِيًا اَذْكُرْ  
بِقَلْبِكَ اَلْفَ مَرَّةٍ وَبِلِسَانِكَ مَرَّةً اَذْكُرْ  
عِنْدَ مَبِجَى الْاَفَاتِ بِالصَّبْرِ وَعِنْدَ مَبِجَى  
الدُّنْيَا بِالتَّوَكُّلِ وَعِنْدَ مَبِجَى الْاٰخِرَى بِالْقَبُولِ  
وَعِنْدَ مَبِجَى الْخَالِقِ بِالتَّوْحِيدِ وَعِنْدَ  
مَبِجَى غَيْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ يَا رَعِي اِحْضِرْ عَنَّهُ  
اِذَا ارْحَيْتَ عَنَّا نَفْسِكَ طَعَمْتَ فِيكَ  
وَاَرَمْتَ بِكَ اَلْبَحْمَ بِاَلْبَحَامِ السَّوَامِ  
وَدَعِ عَنْكَ الْقَالَ وَالْقِيلَ ذَكْرُ الْمَوْتِ  
يُصْفِي قَلْبَكَ وَيُبْغِضُ الدُّنْيَا وَالْخَلْقَ  
اِلَيْكَ يَنْكَشِفُ الْغَطَاءَ عَنْ قَلْبِكَ فَتَرَى  
الْخَلْقَ فَانِينَ مَوْتِي هَكَذَا عَجْزِي لَا  
ضَرَّ فِيهِمْ وَلَا نَفْعَ۔

## المجلس الخمسون

## پچاسویں مجلس

## اپنی اور مخلوق کی اصلاح کے بارے میں

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِكَرَّةٍ الْجَمْعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ ثَابِتٍ  
عَشْرَ شَعْبَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِائَةٍ  
بَعْدَ كَلَامِهِ اسْتَغْلِبَ بِاصْلَاحِكَ وَ  
صَلَاحِهِمْ وَدَعَا عَنْكَ الْقِتَالَ وَالْقِيْلَ  
وَهُوَ مِنَ الدُّنْيَا تَفَرَّغُ مِنْ هُمُومِهَا مَا  
اسْتَطَعْتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا  
اسْتَطَعْتُمْ يَا جَاهِلًا بِالدُّنْيَا لَوْ عَرَفْتُمْهَا  
مَا طَلَبْتُمْهَا إِنْ جَاءَتْ إِلَيْكَ اتَّعَبْتُكَ  
وَرِنْ تَوَلَّيْتُ حَسْرَتَكَ لَوْ عَرَفْتُ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ لَعَرَفْتُ بِهِ غَيْرَهُ وَلَكِنَّكَ  
جَاهِلٌ بِهِ وَرَبُّ سُلَيْمٍ وَأَنْبِيَاءُهُ وَأَوْلِيَائِهِ

وَيَحَاكَ مَا تَتَوَعَّظُ بِمَا جَرَى عَلَى مَنْ  
تَقَدَّمَ مِنَ الْخُلُقِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أُطْلِبُ  
الْخَلَاصَ مِنْهَا إِخْلَعُ لِبَاسَهَا وَأَهْرُبُ مِنْهَا  
إِخْلَعُ لِبَاسَ النَّفْسِ وَسِرِّ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ إِذَا انْخَلَعْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَدْ  
انْخَلَعْتَ بِمَا رَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ  
كَانَ مَا سِرَّاكَ تَابِعًا لِلنَّفْسِ فَتَضَرَّ

۱۸ شعبان ۱۲۵۵ھ کو صبح کے وقت جمعہ کے دن مدرسہ  
قادییہ میں ارشاد فرمایا :

بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا۔ تو اپنی اور دوسروں کی  
اصلاح و درستی میں مشغول رہ اور وہ فضول قیل و قال اور دنیا کی  
ہوس کو چھوڑ دے اور جہاں تک ہو دنیا کے غموں سے  
فارغ البالی اختیار کر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ارشاد  
فرمایا کرتے تھے تم جہاں تک ہو سکے دنیا کے غموں سے  
فارغ ہو جاؤ۔ اے دنیا سے ناواقف اگر تو دنیا کو پہچان  
لیتا ہرگز تو اس کا طالب نہ بنتا اگر وہ تیری طرف آئے گی  
تو تجھے مصیبت میں ڈالے گی اور اگر وہ تجھ سے پیٹھے پھیر لے  
گی تو وہ تجھے حسرت میں ڈالے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا تو  
البتہ تو اس وجہ سے غیر اللہ کو بھی پہچان لیتا لیکن تو تو اللہ اور اس  
کے رسولوں نبیوں اور اولیاء اللہ ہی سے جاہل ہے۔

تجھ پر انہوس ہے تو ان چیزوں سے جو پہلے لوگوں  
پر دنیا کی طرف سے گزری ہیں نصیحت ہی نہیں کی جاتا۔ تو  
دنیا سے خلاصی طلب کر تو دنیا کے لباس کو اتار پھینک اور  
اُس سے دور بھاگ۔ نفس کے لباس کو اتار دے اور  
استاذ الہی کی طرف دوڑ۔ جب تو اپنے نفس سے علیحدہ  
ہو جائے گا پس تو یقیناً ماسوائے اللہ سے علیحدہ ہو سکے  
گا۔ اس لیے کہ ماسوائے اللہ نفس کا تابع ہے پس تو اپنے

عَنْ نَفْسِكَ وَقَدْ رَأَيْتَ رَبَّكَ عَمَّ وَجَلَّ  
 سَلَّمَ إِلَيْهِ وَقَدْ سَلِمْتَ جَاهِدَ فِيهِ وَقَدْ  
 اهْتَدَيْتَ وَاشْكُرْهُ وَقَدْ نَادَكَ سَلَّمَ  
 إِلَيْكَ وَالْخَلْقَ إِلَيْهِ لَا تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ فَيْكُ  
 وَلَا فِي غَيْرِكَ الْقَوْمُ لَا يُرِيدُونَ مَعَ اللَّهِ  
 عَمَّ وَجَلَّ إِرَادَةً وَلَا يَخْتَارُونَ مَعَهُ  
 اخْتِيَارًا لَا يَحْرِصُونَ عَلَى طَلَبِ آفْسَامِهِمْ  
 وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى آفْسَامِ غَيْرِهِمْ إِنْ أَرَدَتْ  
 صَحْبَةُ الْقَوْمِ دُنْيَا وَآخِرَةً فَوَافِقُهُ فِي  
 أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِرَادَتِهِ إِنْ أَرَاكَ  
 قَدْ عَكَسْتَ الْأَمْرَ وَجَعَلْتَ مُحَالَفَتَهُ  
 وَمُنَافِقَتَهُ ذَابَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ  
 لَكَ رَافِعٌ وَلَا تَفْعَلْ كَأَنَّهُ هُوَ الْعَبْدُ وَ  
 أَنْتَ الْمَعْبُودُ سُبْحَانَهُ مَا أَحْلَمَهُ لَوْلَا  
 حِلْمُهُ لَرَأَيْتَ صَدًّا مَا عِنْدَكَ إِنْ أَرَدْتَ  
 الْفَلَاحَ فَعَلَيْكَ يَا السُّكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ  
 سُكُونُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ سُكُونُ الظَّاهِرِ  
 عَنِ الْخَرَاجَاتِ وَسُكُونُ الْبَاطِنِ عَنِ الْخَطَرَاتِ  
 السُّوَالُ سُرُّ الْأَدَبِ عِنْدِي وَإِنَّمَا أَعْدَدْتُ رَحْمَةً  
 أَذْ أَمْرًا وَانْتَهَى عَنِ النَّهْيِ وَافَقَ الْقَدَرُ وَسَدَّ  
 ظَاهِرَكَ وَبَاطِنَكَ عَنِ الْكَلَامِ بِيَدٍ يَدٍ  
 وَقَدْ مَرَّ آيَتِ الْخَيْرِ دُنْيَا وَآخِرَةً  
 لَا تَسْأَلُ الْخَلْقَ شَيْئًا وَإِقْصَاهُمْ  
 عَجَزَةٌ فَقَرَأَ لَا يَمْلِكُونَ  
 لَا لِنَفْسِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ صَرًّا

نفس سے دوری کر لے تحقیق تو اپنے رب عزوجل کو دیکھ  
 لے گا۔ تو اپنے کو اس کے سپرد کر دے یقیناً سلامتی مل جائے  
 گی۔ تو اس کے راستہ میں مجاہدہ کر بلا شک تو ہدایت پا  
 لے گا اور تو اس کا شکر کرو وہ تیرے لیے نعمت بڑھائے  
 گا۔ تو اپنے آپ کو اور خلق کو کسی کی طرف حوالہ کر دے۔  
 تو اس پر اپنے اور غیر کے بارے میں کسی طرح کا اعتراض نہ کر  
 اولیاء اللہ کی معیت میں نہ کوئی ارادہ کرتے ہیں۔ اور نہ کوئی اپنا  
 اختیار برتتے ہیں نہ وہ اپنے مقصوم کی طلب پر حرص کرتے  
 ہیں اور نہ غیروں کے مقصوم کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اگر تو  
 دنیا و آخرت میں اولیاء اللہ کی مصاحبت کا خواستگار ہے  
 پس تو ان کے تمام اقوال و افعال اور ارادوں میں ان کی  
 موافقت کر میں تو تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تو نے معاملہ کو متعکس  
 کر دیا ہے تو نے اللہ کی مخالفت اور اس سے جھگڑنے کو  
 رات دن کا اپنا طریقہ بنالیا ہے۔ تو اللہ سے کہتا ہے ایسا  
 کر اور ایسا نہ کر گویا کہ وہ بندہ ہے اور تو معبود اس کی ذات نہایت  
 پاک ہے وہ بڑا بڑا رہا ہے اگر اس کو ربوباری نہ ہوتی تو تو اپنی  
 حالت کے برخلاف جس پر کہ تو ہے اپنا حال دیکھتا۔ اگر تجھے  
 اپنی بھلائی درکار ہے پس تو اس کی حضوری میں ظاہری و باطنی  
 سکون کو لازم پکڑ لے۔ ظاہری سکون حرکتوں سے اور باطنی سکون  
 خطروں سے ہو۔ میرے نزدیک سوال کرنا یہ ادبی ہے۔ اور میں  
 اس کو محض رخصت شمار کرتا ہوں تو امر کو بجالا اور نہی سے باز  
 رہ اور تقدیر کی موافقت کر لے اور اپنے ظاہر اور باطن کو اس  
 کے ربوب و کلام کرنے سے روک لے تحقیق تو دنیا و آخرت  
 کی بھلائی کو پالے گا مخلوق سے کسی قسم کا سوال نہ کر کیوں کہ وہ  
 تو عاجز و محتاج ہیں اپنے اور دوسروں کے لیے کسی نقصان

وَلَا تَفْعًا رَاصِدٌ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلَا تَسْتَعِجِلْهُ وَلَا تَسْتَبْخِلْهُ وَ  
تَهْتِمُهُ عَلَيْهَا هُوَ اسْتَفَقَ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ  
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ آيَشَ  
عَلَى مِرِّي عَلَيْكُمْ بِالْمَوَاقِفَةِ لَهُ عَزَّ  
وَجَلَّ فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِكُمْ لَيْسَ كُلُّ  
مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَكُمْ يَطَّلِعُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى أَنْ تَكُمُ هُوَ أَشْيَاءُ وَ  
هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ تُحِبُّوا أَشْيَاءًا وَهُوَ  
شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ه  
وَقَالَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ وَمَا  
أَوْتَيْنَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ه مَنْ أَرَادَ سُلُوكَ  
طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَهْدِ بِنَفْسِهِ قَبْلَ  
سُلُوكِهِ هِيَ سَبِيلُهُ الْآدِيبُ لِأَنَّ النَّفْسَ  
أَمَّارَةً بِالسُّوءِ آيَشَ تَعْمَلُ عِنْدَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ تَصْغِيهَا فِي سَيْرِكَ إِلَيْهِ  
جَاهِدْهَا حَتَّى تَطْمَئِنَّ فَإِذَا اطْمَأَنَّتِ  
اسْتَصْحِبْهَا مَعَكَ إِلَى بَابِهِ لَا يُوَافِقُهَا  
إِلَّا بَعْدَ الرِّيَاضَةِ بَعْدَ التَّحْلِيلِ وَحُسْنِ  
الْآدِيبِ وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَى وَعْدِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَوَعْدِهِ هِيَ عَمِيَاءُ  
خُرُسَاءُ طَرِشَاءُ مَحْبَلَةٌ جَاهِلَةٌ  
بِرَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ عُدَّةٌ لَهَا  
فَبَدَا أَمْرُ الْمُجَاهِدَاتِ تَنْفَتِحُ  
عَيْنَاهَا وَيَنْطِنُ لِسَانُهَا وَتَسْمَعُ أَذُنُهَا

نفع کے مالک نہیں۔ تو اللہ عزوجل کے ساتھ صابر بنارہ اور اس  
سے عجلت طلب نہ کرو اور اس کو کھیل بنا اور نہ مفادات پر توجہ  
تہمت لگاؤ تو تم پر تم سے زیادہ شفقت فرمائے والا ہے  
اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا مجھ پر میری طرف سے ہے  
بھی کیا۔ تم اللہ عزوجل کے ساتھ موافقت کو لازم پکڑو پس وہ  
تمہاری حالت کو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ایسی بات  
نہیں ہے کہ جس امر میں تمہاری مصلحت ہو تمہیں وہ مطلع ہی  
کر دیا کرے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے  
کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ  
تم ایک شئی کو دوست رکھو اور وہ تمہارے لیے بدتر ہو اور  
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نیز ارشاد فرمایا اور خدا  
وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے نیز ارشاد فرمایا تمہیں  
تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے جو کوئی اللہ عزوجل کے راستہ  
پر چلنا چاہے پس اس کو چاہیے کہ اس راہ پر چلنے سے پہلے  
وہ اپنے نفس کو مہذب بنائے کیونکہ نفس بے ادب برائی کا  
کا حکم دینے والا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی حضوری میں کیا عمل کرے  
گا۔ تو اس کو اپنے اس میر میں کیسے ہمراہ لے سکتا ہے۔ تو  
اولاً نفس سے جہاد کر کے اس کو مطمئن بنالے پھر تو اس کو  
استناء الہی کی طرف اپنے ہمراہ لے کر جا۔ تو نفس کی  
موافقت اس وقت کرنا کہ جب وہ ریاضت کر لے تعلیم و حسن  
ادب حاصل کر لے اور خدا تعالیٰ کے وعدہ و وعید سے مطمئن ہو  
جائے بغیر اس کے تو نفس کی موافقت نہ کرنا وہ تو بے جا گونگا  
بہر مغبوط الحواس اپنے پروردگار سے جاہل اس کا دشمن ہے  
ہمیشہ کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے اس کی آنکھیں کھلیں  
گی اور اس کی زبان گویا ہوگی اور اس کے کان سننے لگیں گے اور

وَيَزُولُ خَبْلُهَا وَجْهَهَا وَعَدَاوَتُهَا  
لِرَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى حِبَالٍ  
وَرِجَالٍ وَدَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ  
وَيَوْمَ بَعْدَ يَوْمٍ وَسَنَةٍ بَعْدَ سَنَةٍ مَا  
يَجِيءُ هَذَا إِلَّا بِجَاهِدَةٍ سَاعَةٍ وَيَوْمَ وَشَدِيدٍ  
إِصْرٍ بِهَا يَسُوطُ الْجُوعُ إِمْنَعُهَا حَظَهَا وَ  
أَوْفِرْهَا حَقَّهَا أَحْمِلْ عَلَيْهَا وَلَا تَخَفْ مِنْ  
سَيْفِهَا وَسِكِّينِهَا سَيْدُهَا خَشَبٌ مَا هُوَ حَدِيدٌ  
لَهَا كَلَامٌ بَلَا أَفْعَالٍ كَذَبٌ بِلَا صِدْقٍ عَهْدٌ  
بِلَا وَفَاءٍ لَا مَوَدَّةَ لَهَا جَوْلَةٌ بِلَا دَوْلَةٍ  
إِبْلِيسُ الَّذِي هُوَ أَمِيرُهَا لَا قُوَّةَ لَهُ  
عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ فِي عَدَاوَتِهِ  
وَمُخَالَفَتِهِ فَكَيْفَ هِيَ لَا تَنْطِقُ أَنَّهُ دَخَلَ  
الْجَنَّةَ وَآخَرَجَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
مِنْهَا بِعُقُوتِهِ وَإِنَّمَا الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
قَوَّالٌ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَهُ سَبَبًا لَا أَصْلًا  
بِأَقْلِيلِ الْعَقْلِ لَا تَهْرُبُ مِنْ بَابِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ لَا جُلَّ بَلِيَّةٍ يَنْتَلِيكَ بِهَا فَإِنَّهُ  
أَعْرَفُ مِنْكَ بِمَصْلِحَتِكَ مَا يَنْتَلِيكَ  
إِلَّا لِفَاعِدَةٍ وَحِكْمَةٍ إِذَا ابْتَلَاكَ  
فَاتَّبَعْتُ وَارْتَجِعْ إِلَى ذُنُوبِكَ وَكَثِيرِ  
الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَاسْأَلْهُ الصَّبْرَ وَالثَّبَاتَ  
عَلَيْهَا وَقِفْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَعَلَّقْ بِذِيْلِ رَحْمَتِهِ  
وَاسْأَلْهُ كَشَفَ ذَلِكَ عَنْكَ وَبَيَانَ وَجْهِهِ  
الْمَصْلَحَةِ فِيهِ إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ فَاصْبِرْ شَبَّاعًا لِلْإِحْمِ

اور اُس کا غلط زائل ہو جائے گا اور اُس کی عداوت و جہالت  
رب عزوجل سے جاتی رہے گی اور یہ نفس رسول اور مردانِ خدا  
کی صحبت اور ہمیشگی اور ساعت بساعت اور روز بروز اور سال  
بسال اس میں قائم رہنے کا محتاج ہے۔ یہ صرف ایک ساعت  
اور ایک دن اور ایک مہینہ کے مجاہدہ سے حاصل نہ ہو گا۔ اُس  
کو بھوک کے کوڑے سے مارا اس نفس کو اُس کے جھڑے سے  
روک اور اُس کا حق اُس کو پورے طور سے دے تو اُس پر حملہ  
کرا اُس کی تلوار کھڑی ہے نہ کہ لوہا۔ اُس کی مروت بائیں پائی ہیں  
کام کچھ بھی نہیں مروت جھوٹ ہے پیچ کا پتہ بھی نہیں اُس کا وعدہ  
ہے وفا نہیں وہ درستی جانتا ہی نہیں ہے بغیر دولت کے گھومنا  
ہے۔ اُس ابلیس کو جو کرا اُس کا سردار ہے کچھ سالوں پر عداوت  
و مخالفت میں کوئی طاقت و قوت نہیں تو پھر نفس کی کیفیت کیا  
ہو گی۔ تو یہ گمان نہ کر کہ شیطان اپنی قوت سے جنت میں گیا  
اور اُس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ بلکہ حق عزوجل نے  
اُس پر اُس کو قوت دے دی اور اُس کو سبب گردان دیا نہ کہ  
اصل۔ اسے کم عقل تو کسی امتحان کی وجہ سے جس میں کو مبتلا ہو  
اللہ عزوجل کے دروازہ سے دور نہ بھاگ۔ کیوں وہ تیری مصلحت  
کو تجھ سے زیادہ جانتے پہچانتے والا ہے وہ تیرا امتحان کسی  
فائدہ حکمت سے کیا کرتا ہے جب وہ تیرا کسی بلا کے ساتھ  
امتحان لے پس تو ثابت قدم رہ اور اپنے گناہوں کی طرف رجوع  
کرا اور استغفار و توبہ زیادہ کیا کر۔ اور اُس سے صبر و ثابت قدمی کا  
سوال کرتا رہ اور اُس کے روبرو کھڑا رہ اور اسی کے دامنِ رحمت  
سے پلٹا رہ اور اسی سے اُس کی دفع کا سوال کرا اور اُس کی مصلحت  
کے اظہار فرما دینے کا اسی سے حاجت مند ہو۔ اگر تجھے انہی  
نجات درکار ہے۔ پس تو ایسے شیخ کی صحبت میں رہ جو حکم

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْهِ وَيُعَلِّمُكَ وَيُؤَدِّبُكَ  
وَيُعَرِّفُكَ الطَّرِيقَ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الْمُرِيدُ  
لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَائِدٍ وَدَلِيلٍ لِأَتِهِ فِي بَرِّيَّةٍ  
فِيهَا عَقَارِبٌ وَحَيَّاتٌ وَأَفَاتٌ وَعَطَشٌ وَسَيَّامٌ  
مُّهْلِكَةٌ فَيُحَيِّرُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَفَاتِ وَيُدْلُّهُ عَلَى  
مَوْضِعِ الْمَاءِ وَالْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ فَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ  
مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَقَعَ فِي أَرْضٍ مُّسْبِغَةٍ وَعَرَّةٍ كَثِيرَةٍ  
الْيَسَّاعِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ وَالْأَفَاتِ يَا مُسَافِرُ أَفِي  
طَرِيقِ الدُّنْيَا لَا تَفَارِقِ الْقَائِلَةَ وَالذَّلِيلَ وَالرُّفْقَاءَ  
وَالْأَذْهَبَ مِنْكَ مَالُكَ وَرُوحَكَ وَأَنْتَ يَا  
مُسَافِرُ أَفِي طَرِيقِ الْآخِرَةِ كُنْ أَبًا مَعَ الدَّلِيلِ  
إِلَى أَنْ يُوصِلَكَ إِلَى الْمَنْزِلِ اخْدُمُهُ فِي  
الطَّرِيقِ وَاحْسِنْ أَدَبَكَ مَعَهُ وَلَا تَخْرُجْ  
عَنْ رَأْيِهِ فَيُعَلِّمُكَ وَيُقَرِّبُكَ إِلَيْهِ ثُمَّ  
يَسْتَنْبِيحُكَ فِي الطَّرِيقِ لِرُؤْيَيْهِ تَجَابَتَكَ وَ  
وَصَدُوقَكَ وَحَدِّقَكَ فَيُصَيِّرُكَ أَمِيرًا فِيهَا وَ  
سُلْطَانًا عَلَى أَهْلِهَا يَسْتَخْلِفُكَ فِي مَوَاطِنِهِ فَلَا  
تَزَالُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِكَ إِلَى نَبِيِّكَ صَلَّى  
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْلِمُكَ إِلَيْهِ فَيُقَرِّبُكَ عَيْنًا  
ثُمَّ يَسْتَنْبِيحُكَ عَلَى الْقُلُوبِ وَالْأَحْوَالِ وَ  
الْمَعَانِي فَيُنْصِرُ سَفِيرًا بَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ بَيْنَ خَلْقِهِ عُلَمَاءَ بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّكَ  
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي رَأْيَ  
الْخَلْقِ وَالْخَائِبِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ  
هَذَا شَيْءٌ لَا يَجِيءُ بِالنَّجْوَى وَالنَّهْيِ

علم الہی کا جاننے والا ہو کہ وہ تجھے علم پڑھائے اور ادب سکھائے  
اور خدا کا راستہ پہنچانے پر مدد کے لیے دستگیر رہنا کی ضرورت  
ہے۔ کیوں کہ وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جس میں نہ پتھر نہ پھوس اور  
آزاد ہے اور آفتیں اور پریاں ہیں اور ہلاک کرنے والے دزدے  
ہیں پس وہ دستگیر اس کو ان آفتوں سے بچائے اور اس کو پانی اور  
پھل دار درختوں کی جگہ بتائے پس جب وہ مرید بغیر رہنما  
کے وحشیوں اور سانپ بھجڑوں اور آفتوں سے بھڑے ہوئے  
میدان میں چلے گا نقصان اٹھائے گا اے دنیا کے راستہ کے  
مسافر تو قافلہ اور رہنما اور رفیقوں سے جدا نہ ہو ورنہ تجھ سے تیرا  
مال اور روح سب چلے جائیں گے اور آخرت کے راستہ کے  
مسافر تو ہمیشہ مرشد رہنما کے ساتھ رہ یہاں تک کہ وہ تجھ کو  
منزل مقصود تک پہنچا دے تو اس کی راہ میں خدمت کرتا رہ اور  
اُس کے ساتھ حسن ادب کو ملحوظ رکھ اور اُس کی رائے سے جدا  
نہ ہو وہ تجھے علم سکھائے گا اور اللہ سے تجھے نزدیک کرے گا  
پھر وہ تجھ کو تیری شرافت اور سچائی اور دانائی دیکھ کر  
راستہ میں تجھ کو اپنا قائم مقام کر دے گا تجھ کو راستہ میں  
امیر اور راہ چلنے والوں کا حاکم بنا دے گا اور اپنے لشکر کا تجھ  
کو خلیفہ و جانشین کر دے گا پس تو اسی حالت پر رہے گا۔  
یہاں تک کہ وہ مرشد تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لا کر حضور  
کے سپرد کر دے گا پس آپ کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوں  
گی پھر آپ تجھ کو قلوب و احوال و معانی پر اپنا نائب بنادیں گے  
پس تو اللہ اور اُس کی مخلوق کے درمیان میں سفیر و قاصد اور رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آپ کا غلام بن کر رہے گا غنی و  
خالی کی طرف آمد و رفت کرے گا کبھی ادھر کبھی اُدھر یہ ایسی  
چیز ہے کہ خلوت نشینی و محض آرزو سے حاصل نہیں ہوتی ہے

وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقُرَ فِي الصُّدُورِ فَصَدَقَهُ الْعَمَلُ  
الْقَوْمُ نِزَاعُ الْعَشَائِرِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ إِلَى الْفِطْطَامِ  
النَّفْسِ وَاحِدٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يَقُولُ بِهِمْ وَمَعَانِيهِمْ وَيَصَدِّقُونَ ذَلِكَ  
السَّمَاءَ بِأَعْمَالٍ جَوَارِحِهِمْ يَأْجُرُهُمْ تَوْبَتُهُ إِلَى  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَارْجِعُوا إِلَى جَادَّةِ  
الصِّدِّيقِينَ وَاتَّبِعُواهُمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ  
أَفْعَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا بَنِيَاتِ الطَّرِيقِ الْمُنَافِقِينَ  
الطَّالِبِينَ الدُّنْيَا الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْآخِرَةِ الْفَارِكِينَ  
لِجَادَّةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مَنْ  
تَفَقَّهَ أَحَدٌ وَيَسْبِيحُ وَشَمَّا لَا وَرَأَى طَلَبُوا  
طَرِيقَ الْكُسَالَى وَلَمْ يَكُنْ رُؤْيَا جَادَّةِ نَزَمَ فِي الْجَادَّةِ  
الصَّحِيحَةِ الَّتِي هِيَ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ۔

يَا غُلَامُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِينَ تَعَاشَرُ هُنَّ فِي  
الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا عَدَا الْأَتْرَاهُمْ تُقْطَعُ بَيْنَكُمْ  
كَيْفَ لَا تُقْطَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَقْرَانِكَ  
السُّوءِ الَّذِينَ عَاشَرْتَهُمْ فِي غَيْرِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ لَكَ مِنْ  
مُعَاشَرَةِ الْخَلْقِ فَعَاشِرِ الْمُتَوَرِّعِينَ  
الْمُتَزَهِّدِينَ الْعَافِينَ الْعَامِلِينَ  
مُرِيدِي الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ مُرَادِيهِ  
عَاشِرُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْكَ الْخَلْقُ وَيُعْطِيكَ  
قُرْبَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ مِنْكَ الضَّلَالُ وَ  
يُعْطِيكَ عَلَى الْجَادَّةِ يُعْصِبُ عَيْنِكَ عَنِ الدُّنْيَا

بل ایسی چیز سے حاصل ہوتی ہے جو کہ سینوں میں جگ پائے ہوئے  
ہے اور عمل نے اُس کی تصدیق کر دی ہے اور یہاں اللہ تمام  
قبیلوں میں منتخب لاکھوں کروڑوں میں سے آخر دم تک  
ایک ہی آدمہ ہو تا ہے جو کہ کام الہی کو اپنے قلوب اور باطن  
سے سنتے ہیں اور اُس سننے کی تصدیق ان کے تمام اعضاء  
کے عمل کرنے میں سر مو حکم الہی سے تجاوز نہیں کرتے۔  
اسے جاہلو تم اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرو اور صدیقین و سلف  
صالحین کے طریقہ پر چلو اور ان کے تمام اقوال و افعال میں ان  
کی پیروی کرو اور منافقوں کے راستوں پر نہ چلو جو کہ دنیا کے  
طالب اور آخرت سے روگردانی کرنے والے۔ حتیٰ عزوجل  
کے راستہ کو چھوڑ دینے والے ہیں جس پر کہ اگلے نیک بندے  
چلے تھے۔ یہ منافق دایں بائیں اور پیچھے کی طرف چلے کاہلوں  
کا راستہ ڈھونڈا اور صبح راستہ پر جو کہ حتیٰ عزوجل کا راستہ تھا  
جس پر کہ اگلے چلے تھے ہو کر بھی نہ گزرے۔

اسے غلام یہ لوگ جن سے تو آج دنیا میں دنیا کے  
لیے ملتا ہے کل قیامت کے دن تجھے نظر بھی نہیں پڑیں گے  
تمہارے درمیان میں دوستی قطع کر دی جائے گی تیرے  
اور تیرے برے ہم نشینوں کے درمیان میں جس سے کہ  
تو نے اسے اللہ کے لیے دوستی کی ہے کیسے دوستی منقطع  
کر دی جائے گی اگر تجھے خلق کی دوستی بغیر چارہ ہی نہیں ہے پس  
تو پر ہیز گاروں زاہدوں خدا کے پیمانے والوں ماملوں سے  
دوستی و ملاقات کر جو کہ خدا کے چاہنے والے اور اس کے  
مطلوب ہیں۔ ایسوں سے میل جول کر جو تجھ سے خلق لیے اور  
تجھے خدا سے قریب کر دے جو تجھ سے گمراہی کو لیلے اور  
مراط مستقیم پر مٹھہر ادا سے جو تیری انھول پر دنیا سے پٹی

ثُمَّ يَفْتَحُهَا عَلَى الْآخِرَةِ يُنْجِي مَنْ  
 بَيْنَ يَدَيْكَ طَبَقَ الدُّنْيَا وَيُتْرَكُ  
 بَدَلَهُ طَبَقَ الْآخِرَةِ يُنْجِي عَنْكَ الْخَفَايَةَ  
 وَيُتْرَكُ بَدَلَهَا الْجَوْرُ بِهِ يُقِيمُكَ مِنْ  
 بَيْنَ الْحَيَاتِ وَالْعَقَابِ وَالسَّبَاعِ وَ  
 يُقِيمُكَ فِي الْأَمْنِ وَالرَّاحَةِ وَ  
 الطَّيِّبَةِ عَاشِرُ مِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَ  
 أَصِيدُ عَلَى كَلَامِهِ وَاقْبَلْ أَمْرًا  
 وَخَفِيَّةً وَقَدْ سَأَلْتُ النُّحَيْرَ عَاجِلًا  
 غَيْرَ أَنْ أَجَلَ الشَّجَاعَةِ صَبْرُ سَاعَةٍ  
 بِكَ لَا يَجِيءُ شَيْءٌ وَلَا بُدَّ مِنْكَ اشْتَرِ  
 الْمَكْتَلَ وَالزَّنْجِيلَ وَاقْعُدْ عَلَى  
 بَابِ الْعَمَلِ فَإِنْ قَدَّرَ عَمَلُكَ  
 فَسَوْفَ تَعْمَلُ أَعْطِ السَّبَبَ حَقَّهُ  
 وَتَوَكَّلْ وَاقْعُدْ عَلَى بَابِ الْعَمَلِ  
 فَإِنْ أَخَذُوا الزُّوْكَارِيَّةَ وَكَمْ  
 يَأْخُذُوكَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ  
 حَتَّى تَبْأَسَ مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوكَ  
 إِلَى عَمَلِهِ فَحِينَئِذٍ آتَى نَفْسَكَ  
 فِي بَحْرِ التَّوَكُّلِ فَتَجْمَعُ بَيْنَ السَّبَبِ  
 وَالتَّسْبِيبِ أَحْسِنُ أَدَبَكَ بَيْنَ يَدَيِ  
 مُعَلِّمِكَ وَلَيْكِنْ صَمْتُكَ أَكْثَرُ مِنْ  
 نُطْقِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِعَمَلِكَ وَقُدْرِكَ إِلَى قَلْبِهِ

باندھ دے پھر اُس کو آخرت پر لے جا کر کھول دے تیرے  
 سامنے سے دنیا کے طبق کو ہٹا کر اُس کے بدلے آخرت  
 کا طبق لا کر رکھ دے۔ ننگے پر ہونا تجھ سے دور کر دے  
 اور اُس کے بدلے تجھے جُزْأَب پہنا دے تجھ سے اُتر دھول  
 اور بچھوؤں اور درندوں کے درمیان میں سے کھڑا کر کے  
 امن اور راحت میں اور سنہری جگہ بٹھا دے تو ایسے سے  
 میل جول کر جس میں ریاضت ہو اور اُس کی تلخ کلامی پر صبر کر اور  
 اور اس کے امر و نہی کو قبول کر ایسی حالت میں تجھے جلد دنیا ہی  
 میں بھلائی مل جائے گی آخرت کا انتظار کرنا نہ بڑے گار۔  
 بہادر ہی ایک ساعت کے صبر ہی کا تو نام ہے۔ انتقال  
 سے کام لے۔ تجھ سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور تیری ضرورت  
 بھی ہے تو کبید اور زنجیل خریدا و عمل کے دروازہ پر بیٹھ جا  
 پس اگر تیرے لیے کوئی کام مقدور ہو چکا ہے پس قریب ہے  
 کہ تو کام پر لگ جائے گا تو سبب کو اس کا حق ادا کر اور  
 بھر دے کہ عمل کے دروازہ پر بیٹھ جا۔ پس اگر وہاں سے  
 دوسرے مزدوروں کو لیں اور تجھے نہ لے جائیں تو تو اپنی  
 جگہ سے مت ہٹ ڈٹا بیٹھا رہ یہاں تک کہ تجھے ہر ایک  
 سے کامل ناامیدی ہو جائے کہ اب تجھے کوئی کام پر نہ  
 بلائے گا اُس وقت تو اپنے نفس کو توکل کے سمندر میں  
 ڈال دے پس تو سبب اور سبب پیدا کرنے والے دونوں  
 کو جمع کر لے گا تو اپنے استاد کے روبرو حسنِ ادب  
 اختیار کر اور تیری خاموشی تیرے بولنے سے زیادہ ہو  
 کیونکہ ایسا کرنا تیری تعلیم کا اور استاد کے دل میں تیری نزدیکی  
 بالکل غافل نہ ہو جو ہونا ہے وہ ہو گا لیکن سبب کی سلاست

کاسبب بن جائے گا۔ جس ادب تجھے مقرب بنا دے گا  
ادبے ادبی تجھے دور کر دے گی تجھے حسن ادب کیسے آ  
سکتا ہے حالانکہ تو ادب وال لوگوں سے ملا ہی نہیں ہے  
تجھے علم کیسے آسکتا ہے حالانکہ تو اپنے استاد سے راضی  
ہی نہیں ہے اور نہ تیرا لگان اس کے بارے میں نیک ہے

حَسَنُ الْأَدَبِ يُقَرِّبُكَ وَسَوْءُ الْأَدَبِ  
يُبْعِدُكَ كَيْفَ يُحَسِّنُ أَدَبُكَ وَأَنْتَ  
لَا تَخَالِطُ الْأَدَبَاءَ كَيْفَ تَتَعَلَّمُ وَ  
أَنْتَ لَا تَرْضَى بِمُعَلِّمِكَ وَلَا تُحَسِّنُ  
ظَنَّاكَ فِيهِ .

## اکیانوئیں مجلس

## المجلس الحادی والخمسون

### دنیا و آخرت کے بیان میں

بسیوں شیخان کو اسی سال میں مدرسہ قادریہ  
میں ارشاد فرمایا :

دنیا از سر تا پا حکمت و عمل ہے اور آخرت کل کی کل  
قدرت پس دنیا کی بنا حکمت پر ہے اور آخرت کی بنا  
قدرت پر پس تو دارالعمل دارحکمت (دنیا میں) عمل کو چھوڑ  
عمل کیسے جا اور اس کی قدرت کو دار قدرت میں عاجز نہ بچھ  
دارحکمت میں عمل کیسے جا اور اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے  
بڑ بیٹھ جا تو قدرت کو اپنے نفس کے لیے عذر نہ بنائے کیونکہ  
نفس اس کو حجت بننے کا اور عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ تقدیر  
کا عذر قرار دینا کابلوں کی دلیل ہے۔ تقدیر کا عذر بنانا غیر اولیٰ و  
نوابی میں ہو سکتا ہے نہ کہ عبادت و فرائض میں۔ آپ نے  
کچھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا جو کہ مومن ہے وہ نہ تو اس دنیا  
کی طرف سكون کرتا ہے اور نہ اس چیز کی طرف جو کہ دنیا  
میں ہے دنیا سے اپنا مقسوم لے لیتا ہے اور قلب سے  
حق تبارک کی طرف تھکوتی کر لیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ٹھہر جاتا

وَقَالَ رَحِمَى اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِیْ عِشْرَیْنَ  
مِنْ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ .  
الدُّنْيَا كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَعَمَلٌ وَالْآخِرَةُ  
كُلُّهَا قُدْرَةٌ فَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحِكْمَةِ  
وَتِلْكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقُدْرَةِ فَلَا تَتْرُكِ  
الْعَمَلَ فِیْ دَارِ الْحِكْمَةِ وَلَا تَعْجِزْ  
قُدْرَتَهُ فِیْ دَارِ الْقُدْرَةِ اِعْمَلْ فِیْ  
دَارِ الْحِكْمَةِ بِحِكْمَتِهِ وَلَا تَتَّكِلْ  
عَلَى قُدْرَتِهِ لَا تَجْعَلَ الْقُدْرَةَ عُدَّةً  
لِنَفْسِكَ فَإِنَّهَا تَحْتَجُّ بِهِ وَتَتْرُكُ الْعَمَلَ  
الْعُدَّةُ بِالْقُدْرِ حُجَّةٌ الْكُسَالَى اِنَّهَا يَكُونُ  
الْعُدَّةُ بِالْقُدْرِ فِیْ غَيْرِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاحِیِ وَ  
قَالَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَبَعَدَ كَلَامِ الْمُؤْمِنِ لَا يَسْكُنُ اِلَى  
هَذِهِ الدُّنْيَا وَلَا اِلَى مَا فِيهَا يَأْخُذُ قِسْمَهُ مِنْهَا  
وَيَتَنَحَّى بِقَلْبِهِ اِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَقِفُ هُنَاكَ

حَتَّىٰ يَبْجَىٰ عَنْهُ وَهَجَ الدُّنْيَا وَيُؤْذَنَ  
لِقَلْبِهِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ سَفَارَةً سِرًّا  
يُخْرِجُ السِّرَّ إِلَى الْقَلْبِ وَالْقَلْبُ إِلَى  
النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ وَالْجَوَارِحِ الطَّائِعَةِ  
فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا أَعْيَىٰ عِيَالَهُ  
عَنْهُ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ يَكْفِيهِ  
شُرُورُ الْخَلْقِ وَيُطِيعُهُمْ لَهُ وَيُحِيلُ  
بَيْنَ قَلْبِهِ وَقُلُوبِهِمْ وَيَبْقَىٰ وَحْدَهُ مَعَ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ الْخَلْقُ لَهُ يُخْلَقُ  
بِأَلَا ضَافَةٍ إِلَيْهِ كَانَ لَا خَلْقَ لِرَبِّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا لَا يَبْقَىٰ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
فَاعِلًا وَهُوَ مَفْعُولٌ فِيهِ يَبْقَىٰ مَطْلُوبُهُ  
وَهُوَ طَالِبُهُ يَبْقَىٰ أَصْلُهُ وَهُوَ  
فَرْعُهُ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ وَلَا يَدْرِي  
غَيْرَهُ يَطْوِيهِ عَنِ الْخَلْقِ شَمًّا  
إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ لَهُمْ يُوجِدُهُ  
بَيْنَهُمْ لِمَصَالِحِهِمْ وَلِهَذَا آيَتُهُمْ  
وَيَصِيرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ لِمَرْصَنَةِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْقَوْمُ حُرَّاسُ  
الْقُلُوبِ وَالْأَسْرَارِ قَائِمُونَ مَعَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَعَ غَيْرِهِ  
عَامِلُونَ لَهُ لِغَيْرِهِ يَا مَنْ فَتَنُ  
مَا عِنْدَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ  
خَبْرٌ وَلَا مِنْ الْإِيمَانِ خَبْرٌ وَلَا  
مِنَ الْإِنْسِ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَبْرٌ

ہے یہاں تک کہ اُس سے دنیا کی سوزش دور کر دی جاتی  
ہے اور اُس کے قلب کو دربار الہی میں داخل ہونے کی  
اجازت دے دی جاتی ہے۔ اُس کے باطن کی سفارت  
اُس کے باطن کو قلب کی طرف اور قلب کو نفس مطمئنہ اور  
فرمانبردار اعضاء کی طرف لے جاتی ہے تمام اعضاء پر  
اُسے قابو مل جاتا ہے وہ اسی حال میں ہوتا ہے کہ یکایک  
اُس کو اُس کے متعلقین سے بے نیاز بنا دیا جاتا ہے اور  
درمیان میں اڑ کر وہ بجاتی ہے رب تعالیٰ اس کو خلق کی برائیوں  
سے کفایت کرتا ہے اور سب کو اُس کا تابعدار بنا دیتا ہے  
اور اس کے اور اُن کے قلوبوں میں خود مائل ہو جاتا ہے یہ بندہ  
خدا تنہا اپنے رب تعالیٰ کی معیت میں باقی رہ جاتا ہے گویا  
مخلوق اس کے اعتبار سے پیدا ہی نہیں کی گئی تھی گویا سوا  
اس کے رب عزوجل کی کوئی اور مخلوق ہی نہیں ہے اس کا  
پہرہ و گارنا مل مختار ہوتا ہے اور یہ اس کا عمل فعل خدا اس کا طالب وہ اس  
کی اصل اور یہ اُس کی فرع باقی رہتے ہیں یہ غیر اللہ کو پہچانتا ہی  
نہیں اور نہ اُس کے ماسوا کو دیکھتا ہے۔ جب پھر چاہے گا  
اس کو مخلوق سے منجی کر دیتا ہے۔ جب پھر چاہے گا اس  
کو مخلوق کے لیے کھڑا کر کے درمیان میں انہیں کی مصلحتوں  
اور ہدایت کے لیے اُس کو موجود کر دے گا اور یہ بندہ  
رضائے الہی کے لیے مخلوق کی تکلیفوں پر مبرا اختیار کر لے  
گا۔ اولیاء اللہ قلوبوں اور اسرار کے محافظ و نگہبان ہیں حتیٰ  
عزوجل کی معیت میں قائم غیر اللہ کی معیت سے جدا اُن کا ہر  
عمل خدا کے لیے ہوتا ہے نہ کہ غیر اللہ کے لیے۔ اسے  
منافی تیرے پاس تو اس قوم کی کوئی خیر ہی نہیں ہے اور نہ  
ایمان سے کوئی خبر اور نہ اللہ کے اُنس سے کچھ خیر تو تو محض

بے خبر ہے عنقریب تو مرے گا اور بعد موت کے شرمندہ ہو گا۔ تو نے محض زبان کی فصاحت پر قناعت کر لی ہے دل کو گونگا بنا رکھا ہے یہ تیرے لیے نافع نہیں ہے۔ فصاحت قلبی کی ضرورت ہے نہ کہ فصاحت زبانی کی۔ تو اپنے نفس پر ہزار بار رد اور دوسروں پر ایک مرتبہ اسے مردہ دل اسے اولیاء اللہ سے بغاوت کرنے والے اسے مسرت اسے خودی و ماسوسے اللہ میں مشغول ہو کر حتیٰ سے دور ہو جانے والے اس طور سے رویا کر لے خدا میں گونگا تھا پس تو نے مجھے گویائی بخشی پس میری گویائی سے مخلوق کو نفع دے اور میرے ہاتھ پر ان کی کامل اصلاح کر دے ورنہ مجھ کو میرے گونگاپن کی طرف لوٹا دے۔

اے قوم میں تجھ کو خونی موت کی طرف بلاتا ہوں اور خونی موت کیا ہے نفس اور خواہش اور طبیعت اور شیطان اور دنیا کی مخالفت کرنا اور خلق سے علیحدگی کر لینا اور ماسوسے اللہ کافی الجملہ چھوڑ دینا۔ تم سب ان حالتوں میں جہاد کرو اور نا امید نہ ہو کیوں کہ حق عز و جل ہر دن ایک جلا شان میں ہوتا ہے۔ اُس سے مقدر کے مطابق سوال کرو اُس سے تمہارا سوال بحیثیت قدرت ہو نہ کہ بحیثیت حکمت ہمارا سوال باعتبار اُس کے علم کے ہو نہ کہ باعتبار تمہارے علم کے تم اُس سے قلوب و اسرار کے ساتھ سوال کیا کرو نہ کہ زبان کی تیزی و طراری سے تمہارا سوال تمہارے علم و قدرت کے سمندروں سے ہٹ کر ہو تم اس کی حضوری میں تمام چیزوں سے مفلس ہو کر قیام کرو۔ تم اُس پر عامل و حاکم نہ بنو اور نہ اس پر اپنا مرتبہ اور عقلمندی بگھاؤ اور نہ اپنی تدبیروں سے اس کی تدبیر کو رد کرو تم جاہلوں کی

عَنْ قَرِيبٍ تَمُوتُ وَتَتَذَمَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَدْ قَنَعْتَ بِفَصَاحَةِ اللِّسَانِ مَعَ عَجَمَةِ الْجَنَانِ وَهَذَا لَا يَنْفَعُكَ الْفَصَاحَةُ لِلْقَلْبِ لَا لِلِّسَانِ إِبْلُكَ عَلَى نَفْسِكَ أَلْفًا وَعَلَى غَيْرِكَ مَرَّةً يَا مَيِّتَ الْقَلْبِ يَا بَاغِيًا عَنِ الْقُرْآنِ يَا مُبَدِّدًا يَا مَحْجُوبًا بِكَ وَبِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَهِي إِنِّي كُنْتُ أَخْرَسَ فَتَأَنَّنَيْتُ نِيَّ فَتَأَنَّنِى الْخَلْقُ بِنُطْقِي وَكَيْمُلُ لَهُمُ الصَّلَاحَ عَلَى يَدَيَّ وَإِلَّا مُدَّيْنِي إِلَى الْخَرَسِ.

يَا قَوْمُ إِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَوْتِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالطَّبْعِ وَالشَّيْطَانِ وَالْدُّنْيَا وَالْخُرُوجُ عَنِ الْخَلْقِ وَتَرْكُ مَا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجُمْلَةِ جَاهِدُوا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَلَا تَيَاسَّرُوا لِقَاتِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ اسْأَلُوهُ عَلَى قَدَرِ قُدْرَتِهِ اسْأَلُوهُ مِنْ حَيْثُ الْقُدْرَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحِكْمَةُ اسْأَلُوهُ مِنْ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ عَلَيْهِ اسْأَلُوهُ بِقُلُوبِكُمْ وَأَسْرَارِكُمْ لَا بِفَلَقَلِكُمْ اللِّسَانِ اسْأَلُوهُ مِنْ وَرَاءِ تَجَوُّزِ عَلَيْكُمْ وَقُدْرَتِكُمْ قِفُوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدَمِ الْأَفْلاَسِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَا تَتَعَامَلُوا عَلَيْهِ وَلَا تَتَمَقَدَّرُوا عَلَيْهِ وَلَا تَتَعَقَّلُوا عَلَيْهِ وَلَا تَرُدُّوا أَقْدِيرَهُ بِتَدْبِيرِكُمْ لَا تَقْلِقُوا

إِلَى الْجَهَنَّمَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ  
وَإِنْ كَانَ مُتَقِنًا لِحِفْظِهِ وَالْعِلْمُ بِمَعْنَاهُ  
تَعَلُّمُكَ لِلْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ يَرُدُّكَ إِلَى  
الْخَلْقِ وَعَمَلُكَ بِالْعِلْمِ يَرُدُّكَ إِلَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَيُزِيلُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُبْصِرُكَ  
بِبَاطِنِكَ يُشْغِلُكَ عَنْ تَزْيِينِ الظَّاهِرِ وَ  
يُلْهِمُكَ بِتَزْيِينِ الْبَاطِنِ وَفِي حَيْثُ تَقُولُ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَكَ قَدْ صَلَحْتَ لَهُ قَالَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَقُولُ الصَّالِحِينَ هُ  
يَتَوَلَّى ظَوَاهِرَهُمْ وَبِوَاطِنِهِمْ يَرِي ظَوَاهِرَهُمْ  
بَيِّدَ حَكْمَتِهِ وَبِوَاطِنِهِمْ بَيِّدَ عَلَيْهِ فَلَا يَخْفُونَ  
مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَرْجُونَ غَيْرَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ  
إِلَّا مِنْهُ وَلَا يُعْطُونَ إِلَّا فِيهِ يَسْتَوْحِشُونَ  
مَنْ غَيْرَ كَيْسَتَانِسُونَ بِهِ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ  
هَذَا اخِرُ الزَّمَانِ قَدْ كَثُرَ فِيهِ التَّغْيِيرُ  
وَالْتَبْدِيلُ هُوَ مَا نُ الْفِتْرَةِ نَمَا نُ  
النَّفَاقِ وَنِفَاقِهِ يَا مُنَافِقُ أَنْتَ عَبْدُ  
الدُّنْيَا وَالْخَلْقِ تَرَاهِيَهُمْ وَتَعْمَلُ  
لَهُمْ وَتَتَسَلَّى نَظَرَ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ إِلَيْكَ تُظَاهِرُ أَنْتَ تَعْمَلُ  
وَكُلُّ عَمَلِكَ وَقَصْدِكَ لِلدُّنْيَا  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
وَالِإِيهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَنْ قَالَ  
إِذَا تَزَيَّنَ الْعَبْدُ بِعَمَلٍ  
لَا خَيْرَ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا

طرت التفات نہ کرو جو کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہل  
ہے اگرچہ کیسا ہی زبردست حافظ اور معنی و مطلب کا جاننے  
والا ہو۔ تیسرا علم سیکھنا بغیر عمل کے تجھ کو مخلوق کی طرت لوٹائے  
گا اور تیسرا علم پر عمل کرنا تجھ کو حق تعالیٰ کی طرف پہنچائے گا  
اور تجھے دنیا سے بے رغبت کر دے گا اور باطن سے  
خبردار بنادے گا۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ تجھے باہر کھے گا اور  
باطن کی لاشکی کا تجھے اندام کرے گا۔ ایسا ہونے پر حق عزوجل  
تیرا کار ساز و متولی ہو جائے گا کیوں کہ تجھ میں ایسی صلاحیت  
پیدا ہو جائے گی ارشاد الہی ہے اور خدا ٹیکوں کا دالی ہو جاتا  
ہے۔ ان کے ظاہر و باطن دونوں کی کار سازی فرماتا ہے ان  
کے ظاہر کی حکمت کے ہاتھوں سے اور باطن کی اپنے  
علم کے ہاتھوں سے تربیت فرماتا ہے۔ نہ تو وہ غیر اللہ  
سے خوف کرتے ہیں اور نہ غیر خدا سے امیدواری کرتے  
ہیں ان کا تمام لین دین خدا سے اور اسی کے راستہ میں ہوتا  
ہے۔ وہ غیر اللہ سے وحشت کرتے ہیں اور اسی سے مانوس  
رہتے ہیں اور اسی سے سکون حاصل کرتے ہیں یہ آخر زمانہ ہے  
اس میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو گیا ہے نبوت کا زمانہ دور  
چلا گیا ہے یہ زمانہ نفاق اور اس کے چلن کا ہے۔ اسے  
منافق تو دنیا اور مخلوق کا بندہ ہے ان کے دکھاوے کے  
لیے تمام عمل کرتا ہے اور اپنی طرت حق تعالیٰ کی توجہ و نظر  
کو بھلا دیا ہے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تیرے عمل آخرت  
کے واسطے ہیں حالانکہ تیرا ہر عمل اور قصد محض دنیا کے  
لیے ہے۔ نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا  
جب بندہ اپنے آپ کو عمل آخرت سے مزین کرتا ہے  
اور اس کا مقصد و ارادہ آخرت کا نہیں ہوتا تو اس کے نام

وَلَا يَطْلُبُهَا لَعْنٌ فِي السَّمَوَاتِ بِرَأْسِهِ وَنَسِيهِ إِنِّي  
أَعْرِضُكُمْ يَا مُنَافِقُونَ مِنْ طَرِيقِ الْعَذَابِ وَالْعِلْمِ  
وَلَكِنْ أَسْتَرْكُمْ بِسِتْرِ اللَّهِ عَنِّي وَجَلَّ

وَيُحَاكُّ مَا تَسْتَحْيِي جَوَارِحُكُمْ فَاطْمَئِنُّوا  
مِنَ الْمَعَاصِي وَالنَّجَاسَاتِ الظَّاهِرَةِ تَتَدَرَّى  
ظَهَارَةُ الْبَاطِنِ طَهَارَةُ الْقَلْبِ فَاصْبِرْ  
فَكَيْفَ السِّرِّ مَا تَاذَبْتَ مَعَ الْمَخْلُوقِ  
وَتَدَعَى الْأَدَبَ مَعَ الْخَائِنِ الْمَعْلَمِ مَا  
رَضِيَ عَنْكَ وَلَا تَاذَبْتَ مَعَهُ وَلَا قِيلَتْ  
مِنْهُ أَوْ أَمْرٌ تَقَعُدُ فِي الدُّسُوتِ وَتَقْصُرُ  
لَا كَلَامَ حَتَّى يَقُومَ تَوْحِيدُكَ عَلَى رَجُلِهِ  
وَيُثَبَّتَ بَيْنَ يَدَيْ الْحَقِّ عَنِّي وَجَلَّ وَ  
تَخْرُجُ مِنْ بَيْضَةٍ وَجُرْدِكَ وَتَقْعُدُ فِي  
حَجَرِ اللَّطِينِ وَتَتَكَنَّنَ تَحْتَ جَنَاحِ الْأَنْسِ  
بِهِ وَتَلْقُطَ حَبَّ الْإِخْلَاصِ وَتَشْرَبَ  
مَاءَ الْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَبْقَى عَلَى ذَلِكَ  
إِلَى تَصْيِيرِ دِيكَ فَحَيْثُ تَصِيرُ  
حَافِظًا لِلدَّجَارِجِ مُؤَيَّدًا لَهَا بِالْحَقِّ  
مُؤَيَّدًا مِنْبَهًا لِلنَّاسِ فِي الدَّلِيلِ  
وَالشَّهَادَةِ تَنْتَقِطُ هُمْدُ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ  
عَنِّي وَجَلَّ يَا جَاهِلُ أَتُرِكَ الدَّفْئَ تَرَكْتَ  
مِنْ يَدِكَ وَتَعَالَى أُقْعَدُ هَاهُنَا بَيْنَ  
يَدَيَّ عَلَى رَأْسِكَ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ مِنْ  
أَفْوَاهِ الرِّجَالِ لَا مِنَ الدَّفَائِرِ يُؤْخَذُ  
مِنَ الْحَالِ لَا مِنَ الْمَقَالِ يُؤْخَذُ

اور نسب پر آسمانوں میں لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقو! میں تم کو شریعت و طریقت کے طریقوں سے پہچانتا ہوں لیکن میں تمہاری حق کی پردہ پوشی سے پردہ داری کرتا ہوں تجھ پر انوس کو حیا نہیں کرتا نیزے اعضاء ظاہری گناہوں اور نجاست ظاہری سے پاک نہیں ہوئے اور تو طہارت باطنی کا دعویٰ کرتا ہے قلب کی پاکیزگی ابھی درست ہی نہیں ہوئی اور باطن کی پاکی کا تو مدعی ہے مخلوق کے ساتھ تیز طریقہ ادب درست ہی نہ ہوا اور تو خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ دار ہے معلم و استاد تجھ سے لاشی نہ ہوا اور نہ تو نے اس کے ساتھ ادب برتا اور نہ تو نے اس کے حکموں کو قبول کیا اور تو منبر پر بیٹھ کر صدر بن گیا۔ وعظ شروع کر دیا تجھے وعظ کہنا جائز نہیں یہاں تک کہ تو توحید کے قدم پر کھڑا ہو اور اللہ کی حضوری میں ثابت قدم رہے اور اپنی ہستی کی خودی سے جدا ہو کر لطف الہی کے پہلو میں بیٹھ جائے اور انس کے بازو کے نیچے چھپ جائے اور انخلاص کا دانہ چگنے لگے اور مشاہدہ الہی کا پانی پیئے بعدہ تو اسی حالت پر باقی رہے یہاں تک کہ تو ہی شاہی مرغ بن جائے۔ پس اس حالت پر پہنچ کر تو مرغوں کا نگہبان بن جائے گا اور ان پر دانہ کا ایشا رکرنے والا۔ بانگ دینے والا آدمیوں کو رات دن ہوشیار کرنے والا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ان کو جگاتا رہے گا۔ اے جاہل تو دفتر کو اپنے ہاتھ سے پھینک دے اور میری حضوری میں سر کے بل اگر با ادب ہو کر بیٹھ جا۔ علم مردان خدا کے ہونہوں سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ دفتروں سے علم حال سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ محض قال سے۔ ان سے حاصل

مَنْ الْفَارِغِينَ عَنْهُمْ وَعَنِ الْخَلْقِ الْبَاقِينَ  
 بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الدَّائِرَةُ عَلَى فَنَائِكَ عَنْكَ  
 وَعَنْهُمْ ثُمَّ وَجُودَكَ بِهِ مِتَّ عَنْ غَيْرِهِ  
 ثُمَّ أَحْيَى بِهِ وَلَهُ اصْصَحَبَ خَدَمَ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ لَا تَبْرَحُونَ عَلَى بَابِهِ  
 شُعْلُهُمُ الْإِمْتِنَالُ لِأَمْرِهِ وَالْإِنْتِهَاءُ  
 عَنْ تَهْيِيهِ وَالْمُوَافَقَةُ لِقُدْرَةِ يَدُورُونَ  
 مَعَ إِرَادَتِهِ فِيهِمْ وَفَعَلِهِ بِهِمْ لَيْسَ عَنْهُمْ  
 مُنَازَعَةٌ لَهُ فِيهِمْ وَلَا فِي غَيْرِهِمْ لَا  
 يَعْتَرِضُونَ عَلَيْهِ فِي الْقَلِيلِ وَلَا فِي الْكَثِيرِ  
 لَا فِي الْعَالِيِ وَلَا فِي الدَّائِيِ لَا تَشْتَعِلُ عَنْ  
 خِدْمَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بِخِدْمَةِ نَفْسِكَ  
 بِالْجُورِ عَلَى بُلُوغِ أَعْرَاضِهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ فِي تَكْلِيفِ الطَّلَبِ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ  
 غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِمْ وَلَكِنْ يَلْزِمُهُمْ بِذَلِكَ  
 رَحْمَةً لِلْخَلْقِ لَا يَطْلُبُ مِنْهُمْ بِنَفْسِهِ نَفْسَهُ  
 قَدْ أَطْمَأَنَّتْ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا إِرَادَةٌ وَشَهْوَةٌ  
 فِيمَا يَكِلِي الدُّنْيَا تَحْسَبُ أَنَّ نَفْسَهُ  
 كَنَفْسِكَ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي قَدْ أَدْفَنْتَكَ  
 فِي خِدْمَتِهَا وَتَصَرُّفِكَ فِي  
 إِرَادَتِهَا وَشَهْوَاتِهَا لَوْ كَانَ  
 لَكَ عَقْلٌ لَا نَصَرَ فِتْمَنْ خِدْمَتِهَا  
 وَاشْتَغَلَتْ بِخِدْمَةِ رَبِّهَا عَزَّ  
 وَجَلَّ عَدَاوَةً لَكَ الصَّوَابُ لَكَ  
 السُّكُوتُ عَنْ جَوَابِهَا وَأَنْ تَضْرِبَ

کیا جاتا ہے جو کہ اپنے وجود اور تمام خلق سے فانی اور  
 باقی باللہ ہوں۔ دائرہ ارادیت کا تیری فنا پر ہے تو خودی  
 سے اور مخلوق سے فنا کر موجود ہو جا غیر اللہ سے ہٹ کر  
 اللہ کے ساتھ اُسی کے واسطے زندگی کر۔ تو اللہ تعالیٰ  
 کے اُن خادموں کی صحبت اختیار کر جو اُس کے دروازہ سے  
 کبھی ہٹتے ہی نہیں۔ جن کا مشغلہ خدا کے حکموں کا بجالانا اور  
 اس کے ممنوعات سے باز رہنا اور قضا و قدر میں خدا کے  
 ساتھ موافقت کرنا ہے جو کہ خدا کے ارادہ و فعل کے  
 ساتھ گھومتے رہتے ہیں اُن کو اپنے اور غیر کے بارے میں  
 خدا سے کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں نہ وہ اُس پر قلیل و کثیر ارادے  
 و اعلیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو اپنے نفس کی خدمت کے  
 سبب ہے کہ اُس کی خواہش و حرص اپنی غرضوں کا حاصل  
 کر لینا ہے حق عزوجل کی خدمت سے روگردانی نہ کر۔  
 اللہ والے مخلوق سے بلا ضرورت بے تکلف طلب کرنے  
 ہیں اُن کی طلب حرص سے نہیں ہوتی بلکہ اُن کو اس کا خلق  
 پر شفقت کرنے کی غرض سے اللہ مام ہوتا ہے۔ تو بے مجبوری  
 طلب کرتے ہیں نہ نفس کی پیروی سے اُن کا نفس و طمع  
 ہو گیا ہے اُس کا کوئی ارادہ اور شہوت دنیا کے متعلق باقی  
 ہی نہیں رہا ہے۔ تو گمان کرتا ہو گا کہ ان کا نفس تیرے  
 جاہل کی طرح سے ہے جس نے تجھے اپنا خدمت گار بنالیا  
 اور تجھ کو اپنے ارادہ اور خواہشوں کے مطابق چکر دیتا رہتا  
 ہے۔ اگر کاش تجھے کچھ عقل ہوتی تو تو اُس کی خدمت گاری  
 سے منحرف ہو کر اپنے پروردگار عزوجل کی خدمت میں مشغول  
 ہو جاتا۔ تیرا نفس تیرا دشمن ہے تیرے لیے اُس کی جواب  
 دہی سے سکوت بہتر ہے۔ اور یہ کہ تو اُس کے کلام کو

بِكَلَامِهَا الْحَاكِطِ اِسْمَعُ مِنْهَا كَمَا  
تَسْمَعُ مِنْ مَّجْنُونٍ قَدْ زَالَ عَقْلُهُ  
لَا تَلْتَمِثْ اِلَى قَوْلِهَا وَطَلِبِهَا  
لِلشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ وَالشَّرَّكَاتِ  
هَلَاكُكَ وَهَلَاكُهَا فِي قُبُورِكَ مِنْهَا  
وَمَلَا حُكَّ وَصَلَا حَمَا فِي مُخَالَفَتِهَا  
النَّفْسُ اِذَا كَانَتْ طَارِعَةً لِلَّهِ عَنَّا  
وَجَلَّ اَتَا هَارِنُ قَهَارِ عَدَاوَتِنِ كَلَّ  
مَكَانٍ فَاِذَا عَصَتْ وَتَجَبَّرَتْ قُطِعَ  
عَنْهَا الْاَسْبَابُ وَسُلِطَ عَلَيْهَا الْاَذَا  
فَهَلَكَتْ وَهِيَ خَاسِرَةٌ لِلدُّنْيَا وَ  
الْاٰخِرَةِ الطَّائِعَةُ الْمُتَقَاتِعَةُ  
صَاحِبُهَا مَخْدُومٌ اَيْنَمَا تَوَجَّهَ  
لَقَطَ قَسْمُهُ مِنَ الرِّضَا بِهِ يُوَدِّي  
الْفَرَضَ الَّذِي عَلَيْهِ مَعَ طِيبَةِ  
الْقَلْبِ بِلَا كُفْلَةٍ فَاِذَا غَرَّ الْقَلْبُ  
مِمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاكِنُ  
الْجَوَارِحِ عَنِ التَّعَبِ فِي تَحْصِيلِ  
الدُّنْيَا وَفُضُولِهَا يَا مُنْعَمًا عَلَيْهِ  
اَشْكُرُ النِّعَمَ وَاِلَّا سَلَبْتُ مِنْ يَدِكَ  
قُصَّ جَنَاحُ النِّعَمِ بِالشُّكْرِ وَاِلَّا  
كَارَتْ مِنْ عِنْدِكَ النِّبْتُ مَنْ مَاتَ عَنْ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ كَانَ حَيًّا فِي الدُّنْيَا  
اَلَيْشَ تَنْفَعُهُ حَيَاتُهُ وَهُوَ يَصْرِفُهَا فِي تَحْصِيلِ  
شَهَوَاتِهِ وَلَذَاتِهِ وَتَرْهَاتِهِ فَمُؤْمِنٌ مَعْنَى

دیوار پر مار دے اُس کے قول کو ایسا جس جیسے کوئی  
مجنون لای عقل کا کلام سنتا ہے تو نفس کے قول کی طرف  
توجہ ہی نہ کر اور نہ اُس کی طلب خواہشات و لذات و  
خوافات پر نظر ڈال تیری اور اُس کی ہلاکت اُس میں ہے  
تو نفس کے قول کو سنے اور تیری اور اُس کی اصلاح اُس کی مخالفت  
کرنے میں ہے جب نفس اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے  
اور اُس کو ہر جگہ سے رزق ملتا ہے اور جب نفس خدا کی نافرمانی  
کرتا ہے اور شکیبہ بن جاتا ہے تو اُس سے سبب منقطع کر  
دیئے جاتے ہیں اُس پر طرح طرح کی تکلیفیں مسلط کر دی  
جاتی ہیں پس تیری اور اُس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے  
اور نفس دنیا و آخرت میں ٹوٹا پانے والا ہو جاتا ہے  
جس کسی کا نفس تابع دار اور قناعت کرنے والا ہو جاتا ہے  
اپنی مقسوم روزی رضامندی کے ہاتھ حاصل کر لیتا ہے۔  
تمام فرائض کو جو کہ اُس کے ذمہ ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ  
بغیر تکلیف کے ماسوائے اللہ سے فارغ اہمال ہو کر  
دنیا و نفسویات دنیا اور تمام مشغولوں سے سکون حاصل  
کر کے ادا کرتا رہتا ہے۔ اسے دولت مند و میر نعمتوں  
پر شکر ادا کر دینا وہ نعمتیں تیرے ہاتھ سے ملی جاتیں گی۔  
اور ادائے شکر سے نعمت کے بازو تراش دے  
ورنہ وہ نعمت تیرے پاس سے اڑ جائے گی جو اپنے  
پروردگار عز وجل کی طرف سے مرا ہوا ہے وہ مردہ  
ہے اگرچہ دنیا میں اُس کا زندوں میں شمار کیا جاتا ہے  
اُس کی زندگی اُس کو کیا نفع پہنچائے گی جب کہ وہ اُس  
کو خواہشات و لذات و نفسویات نفسانہ کے حاصل  
کرنے میں صرف کرے گا ایسا شخص حقیقتہً مردہ ہے

لَا صَوْرَةَ -

اگرچہ صورتہ مردنہ ہو۔

اللَّهُمَّ احْبِبْنَا بِكَ وَامْتِنَا عَنْ غَيْرِكَ  
يَا شَيْخًا فِي السِّنِّ صَبِيًّا فِي الطَّبْعِ  
إِلَى مَتَى تَعُدُّوْا لِصَبَوَةِ طَبْعِكَ وَ  
خَلَفَ سَخَاكَ الدُّنْيَا فَتَدَّ جَعَلَتْهَا  
لَكَ هَبْلَكَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ هَبْلَكَ مَا  
أَهْلَكَ وَ أَتَكَ عَبْدٌ مَرُؤِي مَامُكَ  
يَبِيدُ إِنَّ كَانَ مِنْ مَامُكَ بَيْدِ الْآخَرَى  
فَأَنْتَ عَبْدٌ لَهَا وَ إِنَّ كَانَ زِمَامُكَ  
بَيْدِ الْآخَرَى فَأَنْتَ عَبْدٌ لَهَا وَ إِنَّ  
كَانَ زِمَامُكَ بَيْدِ الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَ  
فَأَنْتَ عَبْدٌ لَهُ وَ إِنَّ كَانَ مِنْ مَامُكَ  
بَيْدِ نَفْسِكَ فَأَنْتَ عَبْدٌ نَفْسِكَ وَ  
إِنَّ كَانَ مِنْ مَامُكَ بَيْدِ هَوَاكَ فَأَنْتَ  
عَبْدٌ هَوَاكَ وَ إِنَّ كَانَ زِمَامُكَ  
بَيْدِ الْخَلْقِ فَأَنْتَ عَبْدٌ الْخَلْقِ فَانْظُرْ  
إِلَى مَنْ تُسَلِّمُ زِمَامَكَ الْكَثْرُ وَالْأَغْلَبُ  
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَالْقَلِيلُ مِنْكُمْ  
مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَالتَّادِرُ مِنْكُمْ مَنْ  
يُرِيدُ وَجْهَ رَبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اصْصَبْهُمْ  
بِحُسْنِ الْآدَبِ وَلَا تُعَارِضْهُمْ وَلَا تُنَازِعْهُمْ  
وَلَا تُنَاقِضْهُمْ فَتَنْقُصُ لَا تُسَبِّحُ الْآدَبَ عَلَيْهِمْ  
فَتَهْلِكَ كَوْنُوا عَقْلَاءَ أَنْتُمْ تُعَادُونَ الْحَقَّ  
عَرَّ وَجَلَ يَا عَمَالِكُمْ أَعْمَالِكُمْ لَا تُسَوَّى  
عِنْدَكَ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِلَّا أَنْ تَخْلُصُوا

اے اللہ تو ہم کو اپنے ساتھ زندہ رکھ اور اپنے غیر  
سے ہم کو موت دیدے آمین اے عمر کے بوڑھے طبیعت  
کے بچے تو کب تک دنیا کے فضولیات کے درپے اپنی  
طبیعت کے پھینے سے دوڑتا رہے گا۔ تو نے تو اسی دنیا  
کو اپنا مقصود و اعظم بنالیا ہے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا مقصود  
وہ ہے جو تجھے غم میں ڈالتا ہے اور تحقیق تو اس کا بندہ ہے  
جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے۔ بس اگر تیری لگام دنیا کے  
ہاتھ میں ہو تو اس کا بندہ ہے اور اگر تیری لگام آخرت کے  
ہاتھ میں ہو تو اس کا بندہ ہے اور اگر تیری لگام خدا کے  
ہاتھ میں ہو پس تو اس کا بندہ ہے اور اگر تیری لگام تیرے  
نفس کے ہاتھ میں ہو پس تو اپنے نفس کا بندہ ہے اور اگر  
تیری لگام تیری خواہش کے ہاتھ میں ہو پس تو اپنی خواہش کا  
بندہ ہے۔ اگر تیری لگام مخلوق کے ہاتھ میں پس تو مخلوق  
کا بندہ ہے۔ پس تجھے نظر کرنا چاہیے کہ تو نے اپنی لگام  
کس کے سپرد کی ہے۔ اکثر داعیوں تو تم میں سے وہی ہیں  
جو کہ دنیا کے خواہش مند ہیں اور تھوڑے تم میں سے آخرت  
کے خواہاں ہیں اور شاذ و نادر تم میں سے وہ ہیں جو کہ  
دنیا و آخرت کے مالک کو چاہتے ہیں تو ایسوں ہی کی  
صحبت حسن ادب کے ساتھ اختیار کر اور ان سے جھگڑا قصہ  
نہ کر اور نہ ان کے نقصان کے درپے ہو ورنہ تو نقصان  
اٹھائے گا ان کے ساتھ گستاخ نہ بن ورنہ ہلاک ہو  
جائے گا۔ تم عقلمند ہو۔ تم تو اپنے غلوں سے حق عزوجل کے  
ساتھ دشمنی کر رہے ہو اس کے نزدیک تمہارے عمل  
مچھر کے پر کی برابر بھی قدر نہیں رکھتے ہیں البتہ اگر تم اپنی

خلوتوں اور جلوتوں میں اور تمام حالتوں میں مخلص بن جاؤ تو کچھ مرتبہ پاسکتے ہو۔ ایسا خزانہ جس کے لیے فنا نہیں سچائی اور اخلاص اور خوف الہی۔ اور اس سے اُمید داری اور اُسی کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا ہے۔ تو ایساں کو لازم پکڑو وہ تجھے اولیاء اللہ سے ملا دے گا۔ جب توان میں سے کسی ایک کو بھی پاپے پس تو اپنا بازو اس کی طرف بھجھا دے اور اپنی حالت کو اس کے سپرد کر دے اور پھر اس سے کبھی قسم کا جھگڑا نہ کر چپ ہو جا اور اپنی بے ادبی سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ ایسی چیز سے سکوت کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اور جس کو تو جانتا نہ ہو اس کا تسلیم کرنا ہی اسلام ہے اسے ضعیف یقین نہ تیرے پاس دینا ہی ہے اور نہ آخرت اور یہ سب تیری اللہ کے ساتھ بے ادبی اور اس کی اولیاء و ابدال انبیاء پر تہمت لگانے کی وجہ سے ہے جن کو حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا قائم مقام بنا دیا ہے اُن پر وہی بوجھ رکھ دیا ہے جو کہ خدا کے نبی اور صدیقیوں پر رکھا تھا۔ انبیاء کرام کے علم و عمل کو انھیں کے جوار فرما دیا ہے اُن کو اُن کے نفسوں اور خواہشوں سے فٹا کر کے اپنے ساتھ موجود کر لیا ہے اور اپنی حضور ہی میں اُن کو جگہ مرحمت فرما دی ہے اُن کے قلوب کو ماسوائے اللہ سے پاک کر دیا اور دنیا و آخرت اور تمام مخلوق اُن کے قبضہ میں دے دی ہے اُن کو اپنی قدرت دکھا دی ہے اور اُن کو اپنی حکمت و علم سکھا دیا ہے اور اپنی طاقت و قوت عطا فرما دی ہے اُن کو خدائی قوت ہے اُن کو لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا۔ صحیح ہے وہ اس قول میں سے بنے پس انہوں نے اپنی اور مخلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا

لَهُ فِي خَلْقِ الْإِنسَانِ كُلِّ مِنْ أَجْزَالِهِ الْكَثُورِ  
الَّذِي لَا يَنْفَعُ هُوَ الصَّدُوقُ إِلَّا خَلَاصٌ  
وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّجَاءُ  
لَهُ وَالرَّجُوعُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَلَيْكَ  
بِالْإِيمَانِ فَإِنَّهُ يُلْحِقُكَ إِذَا رَأَيْتَ وَاحِدًا  
مِنْهُمْ فَأَخْفِضْ لَهُ جَنَاحَكَ وَسَلِّمْ  
إِلَيْهِ حَالَهُ وَلَا تَنَازَعْ فِيهِ أَسْكُتْ  
عَنْهُ وَلَا تَوَدِّهِ بِسُرْعَةٍ أَدَبُكَ التَّكْوُتُ  
عَمَّا لَا تَعْلَمُ عِلْمُكَ وَالشَّيْءُ فِيهِمَا لَا  
تَعْلَمُ إِلَّا سَلَامٌ يَا ضَمِيمَتِ الْيَقِينِ لَا دُنْيَا  
عِنْدَكَ وَلَا آخِرَةَ وَذَلِكَ بِسُرْعَةِ أَدَبِكَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَهْمَتِكَ لِأَوْلِيَائِهِ  
وَأَبْدَالِ أَنْبِيَائِهِ الَّذِينَ أَقَامَهُمُ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامَهُمْ حَمَلَهُمُ  
مَا حَمَلَ النَّبِيُّينَ وَالصِّدِّيقِينَ سَلَّمَ  
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَعُلُوَّ مَقَامِهِمْ أَفَنَاهُمْ  
عَنْ تَفَنُّوسِهِمْ وَاهْوَيْتَهُمْ وَأَوْجَدَ  
هُمْ بِهِ وَأَقَامَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ  
ظَهَرَ تَكْوِينُهُمْ عَمَّا سِوَاهُ وَجَعَلَ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْخَلْقَ فِي أَيْدِيهِمْ  
أَمَّا هُمْ فَتَدَارَكُهُ وَعِلْمُهُمْ حُكْمُهُ  
وَعِلْمُهُ وَأَعْطَاهُمْ الْقُوَّةَ بِهِ لَهُمْ  
صَمْتٌ قَوْلٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ صَدَقُوا فِي هَذَا الْقَوْلِ  
فَأَفْنَوْا حَوْلَهُمْ وَقُوَاهُمْ وَقَوَى الْخَلْقِ

وَأَسْتَسْكُوا بِقُوَّةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
كَانَ مُعَاذُ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ  
إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي مَا أُرِيدُ فَصَيِّرْني عَلَى  
مَا تُرِيدُ۔

يَا غَلَامَ الرِّضَا يَا لِقَضَاءِ أَطِيبٍ مِنْ  
تَنَاوُلِ الدُّنْيَا مَعَ الْمُنَانَةِ حَلَاوَتُهُ  
أَحْلَى فِي قُلُوبِ الصَّادِقِينَ مِنْ تَنَاوُلِ  
الشَّهَوَاتِ وَالذَّاتِ هُوَ أَحْلَى عِنْدَهُمْ  
مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعِهَا وَمَا فِيهَا لَا تَهْ  
يَطِيبُ الْعَيْشَ فِي الْجُمْلَةِ فِي سَائِرِ  
الْأَحْوَالِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا  
تَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَ  
الْعَمَلِ وَالْإِخْلَاصِ وَلَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ  
بِلِسَانِ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ فَإِنَّهُ لَا  
يَنْفَعُكَ وَلَا يَنْفَعُكَ مَنْ عِنْدَكَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ  
وَلَا أُرْتَحِلَ عَنْهُ تَرْتَحِلُ بَرَكَتُهُ وَ  
تَبْقَى عَلَيْكَ حُجَّتُهُ تَصِيرُ عَلِيًّا مَقْتُونًا  
بِعَلِيٍّ تَبْقَى عِنْدَكَ شَجَرَتُهُ وَتَذْهَبُ عَنْكَ  
شَرَّتُهُ سَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْمُقَكَ  
حَالًا وَمَقَامًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا رَزَقَكَ ذَلِكَ  
سَلَّمَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ وَأَنْ لَا تُحِبَّ إِظْهَارَ  
شَيْءٍ مِنْهُ إِذَا أَحْبَبْتَ إِظْهَارَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهَلَاكِكَ

اور قوت الہی کے ساتھ متمک ہو گئے حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ  
دعا کرتے تھے اے اللہ اگر تو وہ نہ کرے جو کہ میں چاہتا  
ہوں پس تو تو مجھ کو اس پر صابر بنا دے جس کو کہ تو  
چاہتا ہے۔

اے غلام قضا الہی کے ساتھ راضی رہنا دنیا حاصل  
کرنے سے جو کہ منازعت الہی کے ساتھ ہو بدرجہا اچھا  
ہے۔ راضی بقضا رہنے کی شیرینی صدیقیوں کے قلوب میں تمام  
شہوتوں و لذتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ میٹھی ہے  
اُن کے نزدیک تو یہ تمام دنیا اور مافیہا سے زیادہ  
شیریں ہے کیوں کہ وہ فی الجملہ تمام حالتوں میں باوجود مختلف  
حالات کے اُن کو خوش عیشی میں رکھتی ہے تو آدمیوں سے  
علم و عمل اور اخلاص کی زبان سے بات چیت کیا کراہی زبان  
سے جو کہ بلا عمل ہے بات چیت نہ کر کیوں کہ وہ ٹھیکے اور تیرے  
پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نفع نہ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم عمل کو پکارا  
کرتا ہے۔ پس اگر وہ اس کے بلانے پر آ جاتا ہے فیہا  
ورہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ علم کی برکت چلی جاتی ہے  
اور اُس کی حجت تجھ پر باقی رہ جاتی ہے۔ تو خلق پر علم سے  
شیفۃ عالم رہ جاتا ہے تیرے پاس محض علم کا درخت رہ  
جاتا ہے اور اُس کا پھل چلا جاتا ہے اللہ عز و جل سے  
یہ دعا کر کہ وہ تجھے اپنے دربار کی حضور ہی اور ادب عظام  
فرما دے اُس وقت یہ دعا کر کہ وہ اپنے پردہ میں رکھے  
اور تو اس میں سے کسی چیز کے ظاہر کرنے کو پسند و محبوب  
نہ رکھے۔ جب زُاس معاملہ کے اظہار کو پسند کرے گا جو کہ  
تیرے اور حق عز و جل کے درمیان میں ہے تو یہ تیری ہلاکت

إِيَّاكَ وَالْعُجْبَ بِالْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ  
مُطَهَّرٌ مُسْقِطٌ لِصَاحِبِهِ مِنْ عَيْنِ الْحَقِّ عَمَّا  
وَجَلَّ إِيَّاكَ وَمَحَبَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْخَلْقِ  
وَالْقَبُولِ عِنْدَهُ هُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّكَ وَلَا  
يَنْفَعُكَ لَا تَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ حَتَّى تَحْمِلَ لَهَا كَرْهًا  
وَيَأْتِيكَ مِنْ حَيْثُ قَلْبُكَ أَمْرٌ جَزْمٌ  
مِّنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ تَدْعُو  
النَّاسَ إِلَى بَيْتِكَ وَمَا هَيَّيْتَ لَهُمْ طَعَامًا  
هَذَا الْأَمْرُ يَحْتَاجُ إِلَى آسَاسٍ ثُمَّ يَكُونُ  
بَعْدَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ إِحْفِزْ أَرَمْنِ قَلْبُكَ  
إِلَى أَنْ يَتَبَعَ فِيهِ مَاءُ الْحِكْمَةِ ثُمَّ  
ابْنِ بِالْإِخْلَاصِ وَالْمُجَاهِدَاتِ وَ  
الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ إِلَى أَنْ يَرْتَفِعَ  
قَصْرُكَ ثُمَّ ادْعُ النَّاسَ إِلَيْهِ بَعْدَ  
ذَلِكَ اَللَّهُمَّ أَحْيِ اجْسَادَ أَعْمَالِنَا  
بِرُوحِ إِخْلَاصِكَ أَلَيْسَ تَنْفَعُكَ الْخَلْقُ  
عَنِ الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ فِي قَلْبِكَ لَا وَ لَا  
كَرَامَةٌ لَكَ وَلَا يَخْلُوتُكَ إِذَا أَخْلُوتَ  
وَالْخَلْقُ فِي قَلْبِكَ فَإِنَّكَ قَاعِدٌ وَحَدَكُ  
يَلَا حُظُوْرَ الْإِنْسِ بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ  
بَلِ النَّفْسُ وَالشَّيْطَانُ وَالْهَوَى  
قُرْنًا وَكَذَا إِذَا كَانَ قَلْبُكَ مَسْتَأْنَسًا  
بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ فَإِنَّتَ خَالٍ عَنِ الْخَلْقِ  
وَإِنْ كُنْتَ بَيْنَ أَهْلِكَ وَعَشِيرَتِكَ إِذَا  
تَمَكَّنَ الْإِنْسُ فِي قَلْبِكَ هَذَا مَحِيطَانُ

کاسبب بن جائے گا تو اپنے احوال و اعمال پر تنجیر کرنے سے  
بچتا رہے کیونکہ یہ اپنے صاحب کو کشتی میں ڈالنے والا اور اس  
کو خدا کی نظر سے گرا دینے والا ہے۔ تو خلق کو عطا فرمانے  
اور ان سے قبولیت پر فریقتہ ہونے سے بچتا رہے اس کو پسند  
نہ کرے تیرے لیے نقصان رساں ہے نہ نہ کر نافع۔ اور تو ایک کلمہ  
بھی نہ کہہ یہاں تک کہ تیرا معاملہ درست ہو جائے اور تیرے  
لیے حق تعالیٰ کی طرف سے یقینی امر صادر ہو جائے۔ تو لوگوں  
کو ایسی حالت میں کر بھی تو نے ان کے لیے کھانا بھی تیار  
نہیں کیا ہے اپنے گھر کی طرف کیسے دعوت دیتا ہے۔ یہاں  
اولاً بنیاد کا حاجت مند ہے اس کے بعد عمارت بنے  
گی۔ تو اولاً اپنے قلب کی زمین کو اس وقت تک کھودتا رہ کر  
اس میں حکمت کا چشمہ جوش مارنے لگے۔ پھر اخلاص اور مجاہدوں  
اور نیک عملوں سے تعمیر شروع کر۔ یہاں تک کہ تیرا محل بن کر بلند  
ہو جائے اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت  
دے۔ اے اللہ تو ہمارے عملوں کے جموں کو اپنے اخلاص  
کی روح سے زندہ رکھ۔ تجھ کو خلق سے خلوت ایسی حالت  
میں کہ خلق تیرے قلب میں موجود ہو کیا فائدہ دے گی ہرگز  
نہیں نہ تیری عزت و وقعت ہو گی اور نہ تیری خلوت نشینی کی۔  
جب تو خلق کو قلب میں لیے ہوئے خلوت کرے گا پس  
تو تنہا بغیر انس الہی کے بیٹھنے والا ہو گا تیری خلوت نشینی بیکار  
ہو گی بلکہ اس حالت میں نفس و شیطان اور خواہشات نفسانیہ  
تیرے ہم نشین ہوں گے۔ جب کہ تیرا قلب اللہ عز و جل کے  
ساتھ انس پکڑنے والا ہو گا پس تو اگرچہ اہل و عیال خوش  
و اقارب کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو خلق سے خالی ہو گا  
جب انس الہی تیرے قلب میں جگہ پکڑے گا تو وہ تیرے وجود

وَجُودِكَ وَبَصَرَ بَصِيرَتِكَ فَتَبَصَّرَ  
فَضْلَهُ وَفَعَلَهُ فَتَرَضَى بِهِ دُونَ غَيْرِهِ  
مَنْ كَانَ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مَعَ  
مِلَّةٍ مِمَّا الشَّرْعُ وَلَمْ يَتَمَنَّ مَا  
قَوَّقَهَا وَلَا مَا تَحْتَهَا وَلَا نَدَاَهَا وَ  
لَا بَقَاءَ هَا فَقَدْ حَصَلَ لَهُ شَرْطُ  
الرِّضَا وَالْمُوَافَقَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ -

وَيْلَكَ لَا تَكْذِبُ تَدَّعَى الرِّضَا  
وَتَغَيِّرُكَ بَقَّةً وَلَقُمَةً وَكَكَلِمَةً  
وَكَسْرُ عِزٍّ مِنْ لَا تَكْذِبُ مَا أَسْمَعُ  
كَذَبَكَ وَلَا أَعْمَلُ بِهِ وَلَا أُصَدِّقُكَ  
عَلَيْهِ أَحَادُ أَفْرَادٍ مِنَ الْخَلْقِ  
يُوحِي إِلَى قُلُوبِهِمْ يُقَدِّفُ إِلَيْهَا  
كَلِمَاتٌ يَخْصُصُهَا يُعَدِّفُونَ  
الْخَيْرَ وَ يُوقِفُونَ عَلَيْهِ كَيْفَ  
لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهُمْ عَلَى  
مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ فِي أَقْوَالِهِ وَ  
أَفْعَالِهِ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْحَى إِلَيْهِ  
ظَاهِرًا وَهُمْ يُوحِي إِلَى قُلُوبِهِمْ بَاطِنًا  
لَا تَقُومُ وَتَرَاتُفُهُ وَاتَّبَاعُهُ فِي جَمِيعِ  
مَا أَمَرَهُمْ بِهِ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَصِفَ  
لَكَ هَذِهِ السَّابِقَةَ فَكَثِيرٌ مِنْ ذِكْرِ  
الْمَوْتِ فَإِنَّ ذِكْرَكَ يُعِينُكَ عَلَى نَفْسِكَ  
وَهَوَاكَ وَشَيْطَانِكَ وَانْعِزْ إِلَيْكَ عَنْ دُنْيَا  
مَنْ لَمْ يَتَوَعَّظْ بِالْمَوْتِ فَمَا إِلَى وَعْظِهِ

کی دیوار کو ڈھادے گا اور تیری بصیرت کی آنکھ کو بینا کرے  
گا پس تو اللہ تعالیٰ کے فعل وفضل کو دیکھنے لگے گا غیر اللہ کو چھوڑ کر  
اسی سے راضی رہے گا۔ جو شخص پابندی شرع کے ساتھ  
کسی ایک حال میں ہوا اور اس سے تو اونچے اور نیچے  
تمنا نہ کرے نہ اس کے زوال و بقا کا خواہش مند ہو پس  
اُس نے بحقیق رضا و موافقت و عبودیت الہی کی شرط کو  
حاصل کر لیا۔

تجھ پر افسوس ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے دعوائے تو  
حصول رضا کا کرتا ہے اور تیری حالت ایک مچھر اور ایک لقمہ اور  
ایک کلمہ اور ذرا سی ابرو چلے جانے سے بدلتی رہتی ہے۔  
تو جھوٹ نہ بول نہ میں تیرے جھوٹ کو سنوں گا اور نہ میں  
اُس پر عمل کروں گا اور نہ میں اُس پر تیری تصدیق کروں گا خلق  
میں سے چند ہی افراد ہوتے ہیں جن کے قلوب کی طرف الہام  
کیا جاتا ہے ان کے کلمات اُن کی طرف ڈال دیئے جاتے  
ہیں بھلائی پر اُن کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور اُسی پر ٹھہرا  
دیئے جاتے ہیں ایسا کیوں کر نہ ہو گا وہ تو تمام اقوال و افعال  
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہوتے ہیں رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر اوحی بھیجی گئی تھی اور اُن کے قلوب  
کی طرف باطن اوحی بھیجی جاتی ہے کیوں کر یہاں الہامی حضور  
کے وارث اور تمام حکموں میں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)  
کے تابعدار ہوتے ہیں۔ اگر تو ایسی تابعداری کو درست و صحیح  
طور سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو موت کو زیادہ یاد کر کیوں کر  
موت کا ذکر تیرے نفس اور خواہش اور تیرے شیطان اور  
تیرے دنیا سے علیحدہ ہونے پر تیرا مددگار بن جائے گا جس  
نے موت سے نصیحت نہ لی پس اُس کے لیے نصیحت کا کوئی

سَبِيلُ قَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُنْ يَا مَرْتَبَ وَأَعْظَا قَسْمُكَ يَا تَيْلَ إِنْ  
زَهْدَتِ أَوْ سَاعِبَتِ فَإِذَا زَهْدَتِ وَصَلَتْ  
إِلَيْكَ قَسْمُكَ وَأَنْتَ عَزِيزٌ وَإِذَا  
رَغِبَتِ وَصَلَتْ إِلَيْكَ وَأَنْتَ غَيْرُ عَزِيزٍ  
الْمُنَافِقُ يُسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَتَّ  
حُضُورًا الْخَلْقِ عِنْدَكَ وَيَتَوَاقَحُ عَلَيْهِ  
وَفَتَّ خَلْقِيَّتَهُ

طریقہ نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
تیرے لیے نصیحت کرنے کو موت کافی ہے۔ اگر تو رغبت  
کرے یا بے رغبتی تیرا مقصود حصہ تجھے ضرور پہنچے گا۔ پس  
جب تو بے رغبتی کرے گا تیرا مقصود عزت کی حالت میں تجھے  
پہنچے گا اور جب تو اس کی طرف رغبت کرے گا تیرا مقصود  
تجھ کو ایسی حالت میں پہنچے گا کہ تیری کچھ عزت نہ ہوگی۔ منافق  
جب کہ اس کے پاس مخلوق موجود ہوتی ہے اللہ سے شرم  
کرتا ہے۔ اور جب وہ مخلوق سے جدا ہو جاتا ہے  
بے حیائی کرتا ہے خدا سے شرم نہیں کرتا۔

تجھ پر افسوس ہے اگر خدا کے ساتھ تیرا ایمان اور یہ  
اعتقاد کہ وہ بر تحقیق تجھے دیکھنے والا ہے تجھ سے نزدیک  
ہے تیرے اوپر محافظ ہے درست و صحیح ہوتا تو یقیناً تو اس  
سے جیا کرتا شرا تہا۔ بر تحقیق میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں  
اور مجھے تم سے نہ کچھ خوف ہے اور نہ کسی قسم کی آرزو  
تم اور تمام زمین کے رہنے والے میرے نزدیک مثل مچھر  
اور چیونٹی کے ہو۔ نفع و نقصان کو اللہ کی طرف سے جانتا  
ہوں نہ کہ تمہاری طرف سے رعایا اور بادشاہ میرے  
نزدیک سب برابر ہیں اگر تم اپنے نفسوں اور دوسروں  
پر اعتراض کرو تو وہ شریعت کے ماتحت ہونے کو خواہش و  
نفس و طبیعت کے کہنے سے۔ جس سے شرع مقدس  
ساکت ہو پس تم اس کے سکوت میں اس کی موافقت کرو  
اور جس چیز پر شرع مقدس ناطق ہو پس تم اس میں اس  
کی موافقت کرو۔

وَيْلَكَ لَوْ مَعَهُ إِيْمَانُكَ بِهِ وَ  
اعْتِقَادُكَ أَنَّهُ نَظَرُ إِلَيْكَ قَرِيبٌ  
مِنْكَ رَقِيبٌ عَلَيْكَ لَا سَتَجِيبُ مِنْهُ  
إِنِّي أَقُولُ لَكُمْ الْحَقَّ وَلَا أَخَافُ  
مِنْكُمْ وَلَا أَرْجُوكُمْ أَنْتُمْ وَ أَهْلُ  
الْأَرْضِ عِنْدِي كَالْبَقِ وَ كَالذُّبَابِ إِنِّي  
أَرَى الصَّمْتَ وَ التَّفَعُّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا مِنْكُمْ الْمَمَالِيكُ وَ الْمُلُوكُ  
عِنْدِي سَوَاءٌ أَنْ تَكْرُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَعَلَيَّ غَيْرِكُمْ بِالشَّرْعِ لَا بِالْهَوَى وَ  
النَّفْسِ وَ الطَّبْعِ مَا سَكَتَ الشَّرْعُ عَنْهُ  
فَوَاقِفُوهُ فِي سَكُوتِهِ وَ مَا نَطَقَ بِهِ  
فَوَاقِفُوهُ فِي نُطْقِهِ

يَا غُلَامَ لَا تُكْرَ عَلَى غَيْرِكَ بِنَفْسِكَ  
وَهُوَ أَلَّا بَلْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ يَا مَمَالِيكَ

اے غلام تو دوسروں پر اپنے نفس و خواہش کے  
در غلامی سے اعتراض نہ کیا کہ بلکہ ایمان کے حکم کے

الْإِيمَانُ هُوَ الْمُنْكَرُ وَالْيَقِينُ هُوَ  
الْمُزِيلُ وَالرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ النَّاصِرُ  
يَنْصُرُكَ وَيُبَاهِي بِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ  
لَكُمْ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ  
وَيُهَيِّئْ لَكُمْ آفَاقَ أَمْكَمٍ إِذَا أَنْكَرْتَ  
مُنْكَرًا غَيْرَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَانُكَ  
عَلَى رِزَالَتِهِ وَنَصْرَكَ عَلَى أَهْلِهِ وَ  
ذَلِكَ لَكَ وَإِذَا أَنْكَرْتَ نَفْسَكَ  
وَهَوَاكَ وَشَيْطَانِكَ وَطَبْعَكَ  
خَذَلَكَ وَلَمْ يَنْصُرْكَ عَلَى أَهْلِهِ  
وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِمَانِهِ الْإِيمَانُ  
هُوَ الْمُنْكَرُ فَكُلُّ مُنْكَرٍ لَا يَكُونُ  
إِنْكَارُهُ بِإِلَا إِيمَانٍ فَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ  
إِلَّا نِكَارٌ بَلَا أَنْتَ تَرِيدُ أَنْ يَكُونَ  
لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَخَلْقِهِ لِدِينِهِ لَا  
لِنَفْسِكَ لَهُ لَا لَكَ دَعَا عَنْكَ الْهُوسُ  
وَأَخْلَصَ فِي أَعْمَالِكَ الْمَوْتُ عَلَى  
رَصْدٍ مِنْكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْعُبُورِ  
عَلَى قَنْطَرَتِهِ دَعَا عَنْكَ هَذَا الْحَرُصُ  
الَّذِي قَدْ فَضَحَكَ مَا هُوَ لَكَ لَا بُدَّ  
أَنْ يَأْتِيَنَّكَ وَمَا هُوَ بِغَيْرِكَ لَا يَأْتِيَنَّكَ  
فَأَسْتَغْلِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّكُ  
طَلَبَ مَا لَكَ وَمَا لِيْغَيْرِكَ قَالَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مطابق تیرا اعتراض ہو۔ اعتراض کرنے والا حقیقتہً ایمان ہی  
ہے اور یقین اُس کا زائل کرنے والا ہے اور رب تعالیٰ  
مددگار ہے وہ تیری مدد کرے گا اور تجھ پر فخر کرے گا۔  
اللہ عزوجل کا ارشاد ہے اگر اللہ عزوجل تمہاری مدد کرے  
گا پس کوئی تمہیں مغلوب کرنے والا نہ ہوگا اگر تم اللہ کی مدد  
کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم رکھے گا  
جب تو کسی بُرے امر پر اللہ سے غیرت کر کے اعتراض کرے  
گا اللہ تعلق اُس کے دور کر دینے پر تیری مدد فرمائے گا  
اور اُس کے کرنے والے پر تجھے نصرت دے گا اور اُن  
سب کو تیرے لیے جھکا دے گا۔ اور جب تیرا اعتراض تیرے  
نفس و خواہش اور شیطان اور تیری طبیعت کے ورغلانے  
سے ہوگا تو خدا تجھے ذیل کرے گا اور اُن پر تیری نصرت نہ  
فرمائے گا اور تو اُس امر کے دور کر دینے پر قدرت نہ پائے  
گا حقیقتہً ایمان ہی معترض ہو سکتا ہے۔ پس ہر وہ معترض  
جس کا اعتراض ایمان کی بنا پر نہ ہو معترض نہیں۔ لفظ لاسے  
(نہیں) اعتراض کر کے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ محض اللہ کے  
واسطے ہو نہ کہ مخلوق کے واسطے دین کے واسطے ہو نہ کہ  
تیرے نفس کے لیے اللہ واسطے ہو نہ کہ تیرے لیے پس تو  
اپنی ہوس کو چھوڑ دے اور اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کر موت  
تیرے گھات میں لگی ہوئی ہے تجھے اُس کے پل پر چلنا ضرور  
ہے تو اس حرص کو جس نے تجھے ذلیل بنا رکھا ہے چھوڑ دے  
جو کچھ کہ تیرے مقسوم کا ہے تجھے ضرور ملے گا اور جو کہ تیرے بغیر کا  
مقسوم ہے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ اور تو اللہ عزوجل  
کے ساتھ مشغول ہو جا اور دوسروں کے مقسوم کی طلب کو  
چھوڑ دے۔ اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

وَلَا تَصُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ  
 أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ أَشَدُّ الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ مَنْ  
 عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّطْقُ مَعَ الْخَلْقِ  
 وَالْقُعُودُ مَعَهُمْ وَهَذَا يَكُونُ أَلْفُ عَارِفٍ  
 وَالْمُتَكَلِّمُ فِيهِ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ  
 إِلَىٰ قُوَّةٍ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَكَيْفَ  
 لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ قُوَّتِهِمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ  
 يَقْعُدَ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْخَلْقِ يُخَاطِبُ  
 مَنْ يَعْقلُ وَمَنْ لَا يَعْقلُ يَقْعُدُ مَعَ  
 مُنَافِقٍ وَمُؤْمِنٍ فَهُوَ عَلَىٰ مِقَاسٍ  
 عَظِيمَةٍ صَابِرٌ عَلَىٰ مَا يَكْمُرُهُ وَمَعَ  
 ذَلِكَ فَهُوَ مُحْفُوظٌ فِيهَا هُوَ فِيهِ  
 مُعَانٌ عَلَيْهِ لَا تَبَةَ مُمْتَرِلٌ لَا مَرِ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْخَلْقِ  
 لَمْ يَتَكَلَّمْ بِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَارْتِيَا  
 وَارَادَتِهِ إِنَّمَا أُجِيبَ عَلَى الْكَلَامِ فَلَا  
 جَرَمَ يُحْفَظُ فِيهِ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْرِفَ  
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْقِطْ قَدْرَ الْخَلْقِ مِنْ  
 قَلْبِكَ فِيمَا بِيَدِي الصَّوْرُ وَالنَّفْعُ فَإِنَّكَ مَا  
 تَعْرِفُهُ إِلَّا بِذَلِكَ .

وَيَحَاكَ الدُّنْيَا فِي الْيَدِ يَجُوزُ فِي  
 الْجَبِيبِ يَجُوزُ إِذْ خَارَهَا سَبَبٌ بَيْنَهُ صَالِحَةٌ  
 يَجُوزُ أَمَا فِي الْقَلْبِ فَلَا يَجُوزُ وَفَوْقَهَا  
 عَلَى الْبَابِ يَجُوزُ أَمَا دُخُولُهَا إِلَى دَرَاءِ

ارشاد فرمایا اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر  
 نہ دیکھئے جو کہ ہم نے کافروں کی متفرق جماعتوں کو زندگی دنیا کی  
 بہار کے لیے کافروں کی آزمائش کی غرض سے متبع بنا دیا  
 ہے۔ عارف باللہ لوگوں پر سب چیزوں سے زیادہ سخت  
 گراں مخلوق کے ساتھ کلام کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے  
 اور اسی واسطے ہزار عارفوں کی جماعت میں کلام کرنے والا  
 صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی قوت  
 کی طرف محتاج ہوتے ہیں اور عارف ان کی بھی قوت کے  
 محتاج کیوں نہ ہوں جب کہ وہ قسم قسم کی مخلوق میں بیٹھنے کا ارادہ  
 رکھتے ہیں سمجھداروں سے بھی ملتے ہیں منافق اور مومن  
 کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں پس وہ بڑے سخت امتحان و  
 تکلیف میں ہیں مکروہات پر صبر کرنے والے ہیں اور باوجود  
 اس کے عارف اپنے حالات میں منجانب اللہ محفوظ ہوتا  
 ہے اس کی مدد کی جاتی ہے کیوں کہ وہ امر الہی کو ہمیشہ بجا لانا  
 رہتا ہے وہ جب مخلوق سے کلام کرتے ہیں ان کا کلام اپنے  
 نفس و خواہش اور اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں ہوتا ہے  
 بلکہ ان کو خدا کی طرف سے کلام پر مجبور کیا جاتا ہے اسی وجہ سے  
 ان کی منجانب اللہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر تیرا ارادہ ہے  
 کہ تو معرفت الہی حاصل کرے پس تو مخلوق کی قدر اپنے قلب  
 سے نفع و نقصان رساں امور کے متعلق نکال دے کیونکہ  
 تو بغیر اس کے خدا کو پہچان ہی نہ سکے گا۔ تیرے اوپر انوس  
 ہے دنیا کا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے حبیب میں رکھنا جائز  
 ہے اس کا کسی سبب سے نیک نیتی کے ساتھ رکھنا جمع  
 کرنا جائز ہے لیکن دنیا کا قلب میں رکھنا جائز نہیں ہے  
 اس کا دروازہ پر کھڑا رہنا جائز ہے لیکن دروازہ سے اگے

الْبَابِ لَا وَلَا كَرَامَةً لَكَ إِذَا فَنِيَ هَذَا الْعَبْدُ  
عَنْهُ وَعَنِ الْخَلْقِ صَامَةً كَأَنَّكَ مَفْقُودٌ  
مَمْحُودٌ لَا يَتَغَيَّرُ بَاطِنُهُ عِنْدَ مَجِيءِ الْأَفَاتِ  
يُوجَدُ عِنْدَ مَجِيءِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَثَلُهُ  
وَعِنْدَ مَجِيءِ نَهْيِهِ فَيَنْتَهِي عَنْهُ لَا يَتَمَتَّى  
شَيْئًا وَلَا يَحْرُصُ عَلَى شَيْءٍ يَرِدُ  
الشُّكُورِينَ إِلَى قَلْبِهِ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ تَقْلِيلُ  
الْأَعْيَانِ أَيْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ يَا خَوْنَهُ فِي  
الْعُلْمِ وَالْعَمَلِ يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
يَا قَاطِعِي عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتُمْ فِي  
ظُلْمٍ ظَاهِرٍ وَنِفَاقٍ ظَاهِرٍ هَذَا النِّفَاقُ  
إِلَى مَتَى يَا عُلَمَاءَ وَيَا زُهَّادَ كُمْ تَنَافِقُونَ  
الْمُلُوكَ وَالسَّلَاطِينَ حَتَّى تَأْخُذُوا مِنْهُمْ  
حُطَامَ الدُّنْيَا وَشَهْوَانِهَا وَكَذَّابَتِهَا أَنْتُمْ  
وَكَثُرَ الْمُلُوكُ فِي هَذَا الزَّمَانِ ظُلْمُهُ  
خَوْنُهُ فِي مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عِبَادِهِ  
اللَّهُمَّ اكْثِرْ شَوْكَةَ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْذِلْهُمْ  
أَوْ تَبِّ عَلَيْهِمْ وَأَقْهَمِ الظُّلْمَةَ وَظَهِّرِ  
الرُّمُضَ مِنْهُمْ أَوْ أَصْلِحْهُمْ أَمِينُ  
(وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) يَا مُلُوكُ وَيَا مَمَالِكُ  
يَا ظَالِمُونَ وَيَا عَادُونَ يَا مُنَافِقُونَ وَ  
يَا مُخْلِصُونَ، الدُّنْيَا إِلَى أَمِكٍ وَالْآخِرَةُ  
إِلَى أَبِكِ فَارِقُ مَنْ يَسُوءِ الْحَقَّ عَمَّا وَ  
جَلَّ بِسَجَا هَدْيِكَ وَنَهْيِكَ لَطَفَ قَلْبِكَ مِنْ  
غَيْرِ مَالِكَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ أَنْ يَصْطَادَكَ شَيْءٌ أَوْ

بڑھنا جائز نہیں نہیں نہیں اس میں تیری کچھ عزت نہیں۔ جب یہ  
بندہ اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا وہ  
موجود نابود ہو جاتا ہے اُس کا باطن اُنٹوں کے اُنٹے کے  
متغیر نہیں ہوتا ہے وہ امر و نہی الہی کے اُنٹے کے وقت  
موجود کر دیا جاتا ہے پس امر کو بجالاتا ہے اور نہی سے باز  
رہتا ہے نہ کسی شے کی وہ تمنا کرتا ہے اور نہ وہ کسی شے  
پر حرصیں ہوتا ہے۔ اُس کے قلب کی طرف تکوین وارد ہوتی  
ہے اور تمام اشیاء میں تصرف کا اختیار اُس کے حوالہ کر دیا جاتا  
ہے تم میں اور ان میں اسے علم و عمل میں خیانت کرنے والوں  
اسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اللہ  
عز و جل کے مخصوص بندوں سے قطع تعلق کرنے والوں  
کیا نسبت ہے تو تو ظاہری ظلم و ظاہری نفاق میں مبتلا ہو رہا  
ہے یہ نفاق کب تک کرے گا اے عالموں اے زہدوں  
تم کب تک بادشاہوں اور حاکموں کے لیے نفاق برتتے  
رہو گے جب تک کہ اُن سے دنیا کا اسباب اور اُس کی شہوتیں  
اور لذتیں پاتے رہو گے۔ تم اور اس زمانے کے اکثر بادشاہ  
ظالم اور اللہ و بندوں کے مال میں خیانت کرنے والے ہو  
اے اللہ تو منافقوں کی شوکت و بددہ کو توڑ دے اور اُن کو  
ذلیل کر دے یا اُن پر تویر ڈال دے اور ظالموں کا قلع قمع  
کر دے اور زمین کو اُن سے پاک کر دے یا اُن کی اصلاح  
فرما دے آمین۔ اے بادشاہوں اے رعایا اے ظالموں  
اے منافقوں اور اے مخلصوں دنیا ایک مدت تک ہے  
اور آخرت ہمیشہ کے لیے تو ماسوائے اللہ سے اپنی ریاضت و  
زہد کے ذریعے بھلائی کر لے اپنے قلب کو غیر اللہ سے  
صاف و پاک کر لے اس سے ڈر کر تیرا کوئی شکار نہ کرے یا

يَجْسَدُ شَيْءٌ يُوقِفُكَ شَيْءٌ عَنْ مَوْلَاكَ عَزَّ  
وَجَلَّ فَإِذَا جَاءَتْ الْأَقْسَامُ تَنَادَ لَهَا بَيِّدِ  
الْأَمْرِ بَيِّدِ الْمَوَافَقَةَ عَلَى قَدَمِ الزُّهْدِ فِيهَا  
لَا بَيِّدِ إِلَّا خَيْرًا لَهَا وَالْحُبَّ لَهَا الزُّهْدُ إِذَا  
دَامَ عَيْلٌ فِي الْبَدَنِ فَيُورِثُ فِي الْقَلْبِ حُزْنَ  
وَفِي الْبَنِيَّةِ نُحُولًا فَإِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْحُزْنُ  
وَالنُّحُولُ جَاءَ الْفَرْحُ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
بِالْفَرْحِ بِهِ وَالْمَعْرِفَةِ لَهُ فَيَذْهَبُ الْحُزْنُ  
وَالْهَمُّ الْمُؤْمِنُ مُنْقَطِعٌ الْقَلْبُ عَنِ الْخَلْقِ  
وَعَنِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالرَّكِبِ وَاتِّمَامُ تَشَاغُلِ  
يَوْمٍ وَقَلْبُهُ مُنْتَظِرٌ لِمَجِيئِ رَسُولِ الْمَلِكِ وَصَلَ  
بَابَ الْبَلَدِ وَقَدْ دَخَلَ أَهْلُهُ وَهَوَّاتِ عَدُوُّ  
بَيْنَهُمُ الْمُؤْمِنُ أَبَدًا أَمُودًا هُوَ بَيْنَ الْخَلْقِ  
وَقَدْ دَخَلَ عَمَلُهُ دُورًا مَعَ الْخَلْقِ وَحَبْلُهُ  
مَعَ الْخَالِقِ إِذَا وَقَرَ التَّوْحِيدُ فِي الْقَلْبِ  
صَحَّ الْعَمَلُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ لَا تَهَيَّسْ  
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا غِنَاكَ وَفَقْرَكَ أَقْبَالَ  
الْخَلْقِ وَإِذَا رَهِمُ دَمَهُمْ لَكَ وَمَدَحُهُمْ  
كَيْفَ لَا تُخْرِجُهُمَا وَقَدْ صَافَتْ مُصْغَتُكَ  
عَنْهُمَا بِمَا رَحِبَتْ وَامْتَلَأَ قَلْبُكَ بِأَلَلِهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَبِذِكْرِهِ وَالشُّوقِ إِلَيْهِ  
فَجِيئْ هُنَاكَ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ الْحَقِّ طَبِيعُ  
مُحِبِّ أَحَقَّ عَالِمًا مُعَلِّمًا حَكِيمًا مُحْكَمًا  
قَرِيبًا مُقَرَّبًا أَدْنَى مُؤَدَّبًا مُعْنَى عَنْ  
الْخَلْقِ يُغْنِي مَكْفِيًا عَنْهُمْ بِكَفَايَةِ

تجھے قیدی بنا لے یا تجھے کوئی چیز تیرے مولیٰ تعالیٰ سے  
روک دے۔ جب تیرے مقسوم حصہ تیرے پاس آئیں تو ان  
کو حکم و موافقت الہی کے ہاتھوں سے زہد کے قدم پر کھڑے  
ہو کر لے کر اختیار اور محبت و نیوی کے ہاتھوں سے زہد  
کی ہمیشگی بدن میں کام کرتی ہے قلب میں غم اور بدن میں کمزوری  
و دُبلایں پیدا کر دیتی ہے جب یہ غم اور کمزوری متحقق ہو جاتی  
ہے تب حتی عزوجل کی طرف سے اس کو فرحت آجاتی ہے  
اس کی فرحت و معرفت الہی اس کے رنج و غم کو نازل کر دیتی  
ہے۔ ایمان والا خلق و اہل و عیال سے مال و اولاد سے  
دل برداشتہ رہتا ہے بدن سے ان کے ساتھ مشغول  
رہتا ہے اس کا قلب بادشاہ کے قاصد کے آنے کا  
منتظر رہتا ہے۔ وہ شہر کے دروازہ پر پہنچ گیا ہے اہل و  
عیال سے رخصت ہو چکا ہے اگرچہ ان میں بیٹھا ہوا ہے  
ایمان والا خلق کے درمیان میں رہتا تو تاہم ان سے رخصت  
ہو گیا ہے۔ اس کی بود و باش خلق کے ساتھ ہے اور اس کی  
اصل رگ خالق کے ساتھ۔ جب توحید قلب میں جگہ پر طبعی  
ہے کیوں کہ توحید الہی تیرے ظاہر و باطن تیری امیری و  
فقیری خلق کی توجہ و رو کو دانی اور ان کی برائی و بھلائی کو برابر کر  
دیتی ہے تو ان کو اپنے قلب سے کیسے نہ نکال دے  
گا جب کہ تیرا مضغہ گوشت ان سے باوجود وسعت تنگ  
ہو چکا ہے اور اس میں اللہ عزوجل اور اس کا ذکر اور اس کا  
اشتیاق بھر گیا ہے پس اس وقت تو بمصدق آیہ کریمہ  
هَذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ سِجَا حُبِّ عَالَمِ اُتَادِ حَكِيمًا قَرِيبًا  
و مقرب ادیب و مؤدب۔ مخلوق سے بے نیاز کفایت  
کے ساتھ ان سے باز رکھا گیا اور مستغنی بنا دیا جاتا ہے

يَا جَاهِلُ تَعْلَمُ مَنْ جَهْلِكَ إِنَّكَ قَدْ  
تَرَكْتَ التَّعْلَمَ وَاسْتَفَلْتَ بِالتَّعْلِيمِ  
لَا تَتَّعَبْ وَمَا يَجِيئُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلَا  
يُعْلِمُ عَلَى يَدَايِكَ أَحَدٌ لَآ تَنْ لَّا  
يُحْسِنُ أَنْ تَكُونَ مَعْلَمَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ  
يَكُونُ مَعْلَمَ غَيْرِهِ -

يَا قَوْمُ لَا تَعْجَزُوا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
قَدَرًا فَتَدَحُّقُوا بِالْكَفَّارِ اعْمَلُوا  
بِالْحُكْمِ حَتَّى يُدَحِّقَكُمْ ذَلِكَ الْعَمَلُ  
بِالْعِلْمِ فَإِذَا تَحَقَّقَ عِنْدَكُمْ الْعَمَلُ  
رَأَيْتُمُ الْقَدَرَةَ فَحِينَئِذٍ يُجْمَلُ التَّكْوِينُ  
فِي أَيْدِي قُلُوبِكُمْ وَإِسْرَارُكُمْ إِذَا  
لَمْ يَبْقَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ  
مَنْ حَيْثُ قَلْبُكَ أَقْدَرَاكَ عَلَى  
التَّكْوِينِ وَأَطْلَعَكَ عَلَى خَزَائِنِ  
سِرِّهِ وَأَطْعَمَكَ طَعَامَ فَضْلِهِ  
وَسَفَّكَ شَرَابَ الْأُنْسِ وَأَقْعَدَكَ  
عَلَى مَا بَدَدَهُ الْقُرْبُ مِنْهُ وَكُلُّ  
هَذَا شَمَاهُ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  
إِعْمَلْ بِهِمَا وَلَا تَخْرُجْ عَنْهُمَا حَتَّى  
يَأْتِيَنَّكَ صَاحِبُ الْعِلْمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
فَيَأْخُذَكَ إِلَيْهِ إِذَا شَهِدَا لَكَ  
مَعْلَمُ الْحُكْمِ بِالْحَدِثِ فِي  
كِتَابِهِ نَقَلَكَ إِلَى كِتَابِ الْعِلْمِ  
فَإِذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ أَرْقِيَهُ قَلْبُكَ

اسے جاہل تو جہالت چھوڑ علم پڑھ تحقیق تو نے خود کھنڈا پڑھا  
چھوڑ دیا اور تعلیم دینے میں دوسروں کو مشغول ہو گیا ہے  
تو شقت نہ اٹھا تجھے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ  
کوئی تیرے ہاتھ پر فلاح پائے گا۔ کیونکہ جو خود اپنے نفس  
کا معلم و استاد نہیں ہو سکتا پس وہ دوسروں کا استاد کیسے  
بنے گا۔

اسے قوم تم اللہ کی قدرت کو عاجز نہ سمجھو وہ قادر و عزیز  
ہے ورنہ تم کافروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم حکم الہی کے  
مطابق عمل کرو تا کہ یہ عمل تم کو علم سے ملا دے۔ پس جب  
تمہارے پاس علم متحقق ہو جائے گا۔ تم قدرت کو دیکھ  
لو گے۔ اس وقت تمہارے قلوب و اسرار کے ہاتھوں  
میں مرتبہ تکوین دے دیا جائے گا تم جو چاہو گے وہ ہونے  
لگے گا۔ جب تمہارے اور خدا کے درمیان میں قلبی حیثیت  
سے کوئی حجاب باقی نہ رہے گا تا کہ مطلق تمہیں تکوین پر قدرت  
دیدے گا اور اپنے بھید کے خزانوں پر تجھے خبردار کر دے  
گا اور اپنے فضل کے طعام سے تجھے کھانا دے گا اور  
اپنے انس کا شربت تجھے پلا دے گا اور خجہ کو اپنے قرب  
کے دسترخوان پر بٹھائے گا یہ سب کاسب قرآن و حدیث  
کے علم اور اس پر عمل کا نتیجہ و ثمرہ ہے تو ان دونوں پر عمل کر  
اور ان سے علیحدہ نہ ہو یہاں تک کہ تیرے پاس علم کا مالک  
اللہ عز و جل آجائے پس تجھ کو اپنی طرف لے لے۔ جب  
شریعت کا استاد اپنی طرف میں تیرے ماہر ہونے کی  
گواہی دے دے گا تب وہ تجھ کو کتاب علم طریقت  
کی طرف منتقل کرے گا۔ پس جب تو اس میں بھی پورے طور  
سے ماہر ہو جائے گا اس وقت تیرے قلب و باطن کو

قائم کر دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن دونوں کا ہاتھ پکڑے ہونے سے ہمراہ ہوں گے اور ان کو بادشاہِ حقیقی علم کے مالک کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور اُن سے فرمائیں گے اب تم دونوں ہو اور تمہارا رب تعالیٰ وہ جانے اور تم۔

وَمَعَنَّاكَ وَالنَّبِيَّ فِي صُحْبَتِهِمَا اخِذْ  
بَايْدِيهِمَا وَيَدْخُلُهُمَا إِلَى الْمَلِكِ وَ  
يَقُولُ لَهُمَا هَا أَنْتُمَا وَرَبُّكُمَا۔

## باونویں مجلس

## المجلس الثاني والخمسون

### خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بیان میں

۳ رمضان ۱۲۸۵ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت

مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

اے قوم والو تم اللہ عز و جل کی طرف دوڑو اور تمام مخلوق و دنیا اور ماسوائے اللہ سے قطع تعلقی کر کے اُسی کی طرف بھاگو فی الجملہ اپنے قلوب سے اُسی کی طرف سیر کرو چلو کیا تم نے ارشادِ الہی نہیں سنا۔ خبردار ہو جاؤ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔

اے غلامِ مخلوق کی طرف بقا کی آنکھ سے نزدیک بلکہ اُن کی طرف ننا کی نظر ڈال کر سب فانی ہیں۔ اُن کی طرف نفع اور نقصان کی آنکھ سے نزدیک بلکہ قرآن کی طرف عاجزو ذلیل نگاہ سے متوجہ ہو کہ خدا کے مقابل سب عاجز و ذلیل ہیں خدا کو ایک جان اور اُسی پر بھروسہ کر اور جس سے فراغت حاصل کر لی ہے۔ اُس میں بکواس نہ کر دینا اور جو کچھ دنیا میں ظاہر ہو گا اُس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے مخلوق

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُكَوَّةُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ  
ثَلَاثَ شَهْرٍ مَضَىٰ سَنَةٌ خَمِيسَ قَارِيَعَيْنِ وَخَمِيسَاتِهِ  
يَا قَوْمُ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
أَهْرُبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْدُنْيَا وَ  
مِمَّا سِوَاهِ فِي الْجُمُعَةِ سِيرُوا إِلَى اللَّهِ  
يَقْلُوبُكُمْ أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ  
إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔

يَا عِبَادَ اللَّهِ لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْخَلْقِ يَعْينَ  
الْبَقَاءُ بَلْ أَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَعْينَ الْفَنَاءُ  
لَا تَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَعْينَ الضَّرَّ وَ  
السَّعْيَ بَلْ أَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَعْينَ الْوَعْدَ  
وَالذِّكْرَ وَحَدِّ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَلَا تَهْدَىٰ فِيمَا قَدْ فَرَّغَ مِنْهُ  
الدُّنْيَا وَجَمِيعَ مَا يَطُفُّ فِيهَا قَدْ فَرَّغَ

مِنْهُ وَالْخَلْقُ وَجَمِيعُ مَا يَنْقَلِبُونَ فِيهِ  
 قَدْ فَارَغَ مِنْهُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَارِعٌ مِّنْ  
 هَذَا كَلِّهِ لَا سَبَبَ إِذَا كَانَ مُتَجَرِّدًا  
 عَنِ الْأَسْبَابِ فَهُوَ أَكْدُ بِحَالِهِ  
 وَإِنْ جَاءَتْهُ الْأَسْبَابُ وَالْعِيَالُ  
 فَيَعَانُ عَلَيْهِمْ وَيُعْطَى الْقُوَّةُ عَلَى  
 مُقَاسَاتِهِمْ فَقَلْبُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ  
 فَارِعٌ عَمَّا سِوَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 لَا يَبْرُمُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَا يَزُولُ لَا  
 يَطْلُبُ مِنْهُ التَّغْيِيرُ وَالتَّجْدِيدُ لِأَنَّهُ  
 يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي قَدْ فَضَى لَا يَتَغَيَّرُ  
 وَالْقَسَمُ قَدْ فَارَغَ مِنْهُ لَا يَزِيدُ وَلَا  
 يَنْقُصُ فَلَا يَطْلُبُ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانًا لَا يَطْلُبُ  
 تَأْخِيرَ قَسِيدِهِ وَلَا إِسْرَاعَ فِي جَمِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ  
 تَحَقَّقَ أَنَّ لَهُ وَقْتًا مُّثَقَّدًا  
 مَّخْصُوصًا فَهُوَ أَمْتَالُهُ هُمْ  
 الْعُقُلُ مِنَ الْخَلْقِ وَالْقَالِبُونَ  
 لِلزِّيَادَةِ وَالتَّنْقِصَانِ وَالْإِسْرَاعِ  
 وَالتَّأْخِيرِ هُمْ الْمُبْجَانِينَ مَن  
 رَّحِمَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَافْتَقَ  
 فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَفِي غَيْبِهِ  
 أَحَبَّهُ وَعَرَفَتْهُ إِيَّاهُ وَاسْتَصْحَبَتْهُ  
 بَقِيَّةَ عُمْرِهِ عَلَى جَادَةِ مَرَادِهِ  
 بِوَقْفِهِ ثُمَّ يَقْرَبُهُ وَيَقُولُ لَهُ أَنَا رَبُّكَ عِنْدَ  
 تَحْبِيرِهِ وَتَقْطِيعِهِ كَمَا قَالَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن کے تمام انقلابات و تغیرات سے فراغت حاصل  
 کر لی گئی ہے۔ مسلمان کا قلب ان سب جھگڑوں سے  
 خالی ہے۔ خاص کر حجب کو وہ تمام سببوں سے خالی و سبب  
 ہو جائے پس وہ اپنی حالت میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔  
 اگر اس کے پاس سبب اور اہل و عیال آجاتے ہیں پس اُن  
 پر اس کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے تحمل و برداشت کی اس  
 کو قوت عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس کا قلب تمام حالتوں  
 میں ماسوے اللہ سے فارغ اور ہمیشہ مخلوق سے غائب  
 اور دور رہتا ہے وہ اس سے تغیر و تبدل کا خواہشگاہ نہیں  
 ہوتا کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جو شے مقدر ہو چکی ہے وہ بدل  
 نہیں سکتی۔ اور مقسوم سے فراغت ہو چکی ہے اُس میں کبھی شے  
 نہ ہوگی پس وہ نہ زیادتی کو طلب کرتا ہے اور نہ کمی کو اس  
 میں تاخیر چاہتا ہے اور نہ اُس کے آنے میں جلدی کا خواہش  
 ہوتا ہے کیوں کہ ہر شے کے لیے ایک وقت مخصوص ہے  
 گا ہونا متفق ہو گیا ہے پس یہ اور اس جیسے دوسری مخلوق میں  
 سے وہی مائل و موثر یا نہیں اور زیادتی و کمی جلدی اور  
 تاخیر کے طلب گار مجنون پاگل ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل  
 سے راضی ہوگا وہ اپنی اور غیر کی تمام حالتوں میں اُس کی  
 موافقت کرے گا اور اس کو اپنا محبوب بنے گا۔ اور وہ اپنی معرفت اُس کو عطا  
 فرمائے گا اور باقی عمر اس کی راہ تصور پر اس کا ساتھ دے گا۔ اولاً وہ اُس کو توفیق  
 دیتا ہے پھر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اُس کی حیرت و  
 پریشانی کے وقت فرماتا ہے اَنَا رَبُّكَ مَن تَعْبُدُ  
 جیسا کہ اُس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ اَنَا رَبُّكَ  
 يَا اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنِي تَعْلِيكَ تَحَقُّقِ مَن تَعْبُدُ  
 پس تو اپنی جو تیریاں اُتار ڈال رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام

سے بظاہر طور سے ارشاد فرمایا تھا اور اس عارف کے قلب سے بطور باطن ارشاد فرماتا ہے اس بندہ پر رحمت و لطف کے طریقہ سے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مجاہد کی وجہ سے ارشاد فرمایا بھی دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کراہتیں باطن اور اس کی شیاطین انس و جن سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو تو اللہ عزوجل اور اس کے رسولوں سے جاہل ہے علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے ناواقف۔ اسے منافقیت تھے کیسے معلوم ہو کہ اولیاء اللہ کس حالت اور کس مرتبہ پر ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کیا پڑھتا ہے تو عمل کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ یہ کہنا تو بغیر اخت کی دنیا ہے پھر تو اولیاء اللہ پر اعتراض کرتا ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ تو عقلمند بن اور ادب سیکھ اور توبہ کر اور گونگا بن جلد تجھے خدا عزوجل سے خبر ہے اور اس کے رسولوں سے اور اس کے اولیاء سے اور اس کے عمل سے خبر ہے

کہ وہ تیرے اور مخلوق کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو توبہ کو لازم پکڑو اور سکون اختیار کرو اور اپنی عزت کے مطابق قبر میں جانے کو سوچا کرو۔ شریعت کے مطابق عمل کریں تاکہ تو علم سیکھ لے اللہ عزوجل کے ساتھ معاملہ کرتا کہ وہ تجھ کو ایسا نور عطا فرمادے جس کے ذریعہ سے تو دنیا و آخرت دونوں کو دیکھنے لگے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو تم قبول کرو اور اس میں کوشش کرتے رہو۔ اور جو کچھ تقدیر میں سا بٹا ہو چکا ہے اس میں نفق و غم چھوڑ دو کیوں کہ یہ محض تمہاری ہوس اور کمی کا باعث اور کاہل کی حجت ہے۔ ہمارے اوپر لازم

أَنَا رَبُّكَ وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْتَمِلْ تَعْلِيكَ قَالَ  
مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَسَى أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ظَاهِرًا أَوْ يَقُولُ  
لِقَلْبِ هَذَا الْعَارِفِ يَا بَاطِنًا يُسْمِعُهُ ذَلِكَ  
رَحْمَةً لَهُ وَلُطْفًا بِهِ وَكَرَامَةً لِنَبِيِّهِ  
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعْجَزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ  
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ظَاهِرَةٌ وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ  
بَاطِنَةٌ هُمْ الْوَارِثُونَ لِلْأَنْبِيَاءِ يُقِيمُونَ  
دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْفَظُونَ دِينَ  
شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ أَنْتَ جَاهِلٌ  
يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُذْهِبُ مَا بِهِمْ  
يُذِيرُكَ يَا مُنَافِقُ مَا الْقَوْمُ فِيهِ وَ  
عَلَيْهِ أَنْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَا تَدْرِي مَا  
تَقْرَأُ أَعْمَلُ وَمَا تَدْرِي أَيْشَ تَعْمَلُ ذَلِكَ  
دُنْيَا بِلَا آخِرَةٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْرِضُ عَلَيْهِمْ  
كُنْ عَاقِلًا وَتَأَذَّبْ وَتُبْ وَأَخْرِسْ مَا  
عِنْدَكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَبَرٌ وَلَا  
مِنْ سُلَيْمٍ خَبَرٌ وَلَا مِنْ أَوْلِيَاءِهِ  
خَبَرٌ وَلَا مِنْ عَلَيْهِمْ فِيكَ وَفِي خَلْقِهِ  
خَبَرٌ أَلِزِمِ التَّوْبَةَ وَالسَّكُوتَ وَتَفَكَّرْ  
فِي مَوْتِكَ وَكَوْنِكَ إِلَى الْقَبْرِ مَحْمُولًا  
حَتَّى تَعْلَمَ الْعِلْمَ رَاعِمٌ مَعَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ حَتَّى يُعْطِيكَ نَوْرًا اسْتَضَى بِهِ  
دُنْيَا وَآخِرَةً أَقْبَلُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاجْهَدُوا  
فِيهِ وَدَعُوا الْفُلُقَ بِالسَّابِقَةِ فَإِنَّهُ هُوَ وَمَنْ  
وَحَظَّ وَحُجَّةُ الْكُسَالَى مَا عَلَيْنَا مِنْ

ہے کہ ہم تقدیر میں حصص بیس نہ کریں بلکہ ہم کریں باندھیں اور کوشش کر کے عمل کیا کریں اور یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں کہا اور ایسا کیوں اور کس واسطے کیا چوں و چرا چھوڑ دیں اور علم الہی میں دخل نہ دیں ہمارا کام کوشش سے عمل کرنا ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ارشاد الہی ہے اُس کے کسی فعل پر سوال نہ ہو گا مخلوق سے سوال ہوں گے۔ جب تیرا یہ معاملہ ختم ہو جائے اور حق عزوجل تیرے قلب کو اپنی طرف نزدیک کر لے اور تیرا زہد دنیا میں صحیح ہو جاوے اور آخرت میں تو رغبت کرنے لگے تو تیرا نام قرب الہی کے دروازہ پر لکھا ہوا ملے گا فلاں شخص فلاں کا بیٹا اللہ عزوجل کے آزاد شدہ بندوں میں سے ہے پس یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ کسی قسم کا تغیر ہو گا اور نہ تبدل اور نہ اس میں کمی کی جائے گی۔ اس حالت میں تیرا شکر پروردگار کے لیے اور بہتری کے کام اور طاعتیں اُس کے حضور میں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ میں تو اپنے قلب سے خدا کے خوف کو نہ چھوڑ اور نہ اُس کی قدرت کو عاجز سمجھ اور ارشاد الہی کو بحوالہ باریتہ الامیر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے محض کتاب جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے اور اُسی کے پاس اصل کتاب ہے اور لایسا لایسا مافیعل کو پڑھ اور غور کر۔ جس مکتوب کو اُس نے لکھ لیا ہے اُس پر پھرنے جا کیوں کہ جس نے اُس کو لکھا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اُس بنے ہوئے کو بگاڑ دے وہ اُس کے توڑ ڈالنے پر غالب ہے۔ تو ہمیشہ طاعت اور خوف اور دہشت اور بجاؤ کے قدم پر کھڑا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آجائے اور تو دنیا سے بخیر سلامتی کے ساتھ آخرت کی طرف چلا جائے پس اُس وقت مجھے تغیر و تبدل سے امن و امان ہو جائے گا

السَّابِقَةِ بَلْ نَشْتَدُّ الْأَوْسَاطَ وَنَجْتَهِدُ وَنَعْمَلُ وَلَا تَقُولُ قَالَ وَقُلْنَا وَلِمَ وَكَيْفَ لَا نَدْخُلُ فِي عِلْمِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ نَجْتَهِدُ وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ط إِذَا أَنْتَهَى أَمْرُكَ وَقَرَّبَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَكَ إِلَيْهِ وَصَحَّ لَكَ هَذَا زَهْدُكَ فِي الدُّنْيَا وَرَغَبَتُكَ فِي الْآخِرَةِ لَقِيتَ إِسْمَكَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ قُرْبِكَ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُدَّ ابْنِ فَلَانٍ مِنْ عِتْقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَزِيدُ فَحِينَئِذٍ يَزِدَادُ شُكْرَكَ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَفِعْلُكَ لِلْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَتَرَكُ الْخَوْفَ مِنْ يَدِ قَلْبِكَ وَلَا تَعْجُزْ قُدْرَتَهُ وَأَقْبِرْ أَقْوَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ لَا تَقِفْ مَعَ ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ فَإِنَّ الَّذِي كَتَبَهُهُ الْقَادِرُ عَلَى مَحْوِهِ الَّذِي بَنَاهُ هُوَ الْقَاهِرُ عَلَى تَقْصِيهِ كُنْ أَبَدًا عَلَى قَدَمِ الطَّاعَةِ وَالْخَوْفِ وَالْوَجَلِ وَالْحَذَرِ إِلَى أَنْ تَيَّا تَبِكَ الْمَوْتُ وَتَعْبُرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ عَلَى قَدَمِ السَّلَامَةِ فَحِينَئِذٍ تَأْمَنُ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ

اے اپنی جمالت اور نفاق اور دنیا طلبی اور اس کی کشمکش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مزاحمت کرنے والے تو حرام کھارہا ہے پھر تجھے قلب کی نورانیت اور باطن کی صفائی اور کلام کی دانائی کے ساتھ کرنے کی کیسے تمنا اور آرزو ہے۔ او لیاء اللہ کا کلام ضرورہ ہوتا ہے اور ان کی نیند ڈوبنے والوں کی سی اور ان کا کھانا بیماریوں کا سا کھانا ہوتا ہے پس وہ اپنی موت کے آنے کے وقت تک اسی حالت پر رہتے ہیں۔ اُن کو اُن فرشتوں کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خدا کے حکموں میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور اُس کے حکموں کو بجالاتے رہتے ہیں مشابہ ہو گئے ہیں۔ یہ فرشتوں سے مشابہ ہو کر فرشتوں سے بڑھ گئے ہیں فرشتے اُن کے خادم ہیں اور وہ فرشتے دنیا و آخرت میں اُن کی ناشیہ برداری میں رہیں گے۔

اے قوم اگر میری گفت کو تمہارے حال کے موافق نہ ہو پس تم اس کو ایمان و تصدیق کے ساتھ سنو میری گفتگوں کے لیے باعث عزت و وجاہت ہے تم اس کو اپنے قلوب و باطن سے سنا کرو۔ تمہارے ظاہر و باطن راحت پائیں گے اور تمہارے نفسوں اور خواہشوں کی شوکت ٹوٹ جائے گی اور تمہاری شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی۔ سب بد تمہارے حق میں شہوتیں جو کہ تمہارے لیے دنیا کو دوست بناتی ہیں اور فقر کو تمہارے لیے دشمن ٹھہراتی اور تم کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کہ تقوایے کی حقیقت یہ ہے کہ تحقیق تو اگر تمام اُن چیزوں کو جو تیرے قلب میں ہیں جمع کرے اور اُس کی ایک کھلے ہوئے طباق میں رکھ کر تمام کے تمام کو بازار میں پھرائے

يَا مَنْ يُزَاحِمُ بِجَهْلِهِ وَيَفْاقِهَ وَطَلَبِهِ  
لِلدُّنْيَا وَمَزَاحَمَتِهِ عَلَيْهَا تَأْكُلُ الْحَرَامَ  
كَيْفَ تَقْطَعُ فِي نُورِ الْقَلْبِ وَصَفَاءِ السِّرِّ  
وَالْتَّطَبُّقِ بِالْحِكْمَةِ الْقَوْمُ كَلَامُهُمْ  
صُرُورَةٌ وَنَوْمُهُمْ نَوْمُ الْعَزْزِ أَكَلُهُمْ  
أَكَلَ الْمَرْضَى فَمَنْ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ  
يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحَلَّهُ قَدْ شَبَّهُوا الْمَلَائِكَةَ  
الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهِمْ لَا  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ شَبَّهُوا بِهِمْ وَمَا أُدْأُوا عَلَيْهِمْ  
فَالْمَلَائِكَةُ غُلَمًا نُهُمْ يَحْمِلُونَ الْغَوَاشِيَ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ دُنيَا وَآخِرَةً.

يَا قَوْمُ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ كَلَامِي حَالَكُمْ  
فَاسْمَعُوهُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّصَدِيقِ كَلَامِي وَجْهٌ  
لِلْقُلُوبِ فَاسْمَعُوهُ يَفْقَهُوكُمْ وَأَسْرَارَكُمْ  
وَقَدْ تَرَوْا حَتَّى طَوَّاهُمْكُمْ وَبَوَّاهُمْكُمْ  
وَتَنَكَّرُ شَوْكَةُ نَفْسِكُمْ وَأَهْوَيْتَكُمْ  
وَتَنَطَّطِي نِيرَانُ شَهْوَايَكُمْ أَشْرَ عَلَيْكُمْ  
الشَّهَوَاتُ الَّتِي تَحْبِبُ إِلَيْكُمْ الدُّنْيَا  
وَتُبْغِضُ إِلَيْكُمْ الْفَقْرَ وَتَوْقِعُكُمْ فِي  
الْمَهَالِكِ عَنْ بَعْضِهِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ حَقِيقَةُ التَّقْوَى أَنَّكَ  
لَوْ جَمَعْتَ مَا فِي قَلْبِكَ وَتَرَكْتَهُ فِي  
طَبَقٍ مَكْشُوفٍ وَطَفَّتْ بِهِ فِي السُّوقِ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَحْيِي مِنْهُ يَا جَاهِلٌ مَا  
يَكْفِيكَ أَتَكَ غَيْرَ مُتَّقٍ حَتَّى إِذَا قِيلَ لَكَ  
إِذَنْ اللَّهُ تَغَضَّبَ إِذَا قِيلَ لَكَ الْحَقُّ  
تَسْمَعُ وَتَنْتَهَا وَنُ شَمَّ إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْكَ  
مُنْكَرٌ تَغْتَاطُ عَلَيْهِ وَ تَشْفِي غِيظَكَ  
مِنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ابْنِ  
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
أَنَّهُ قَالَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَا يَشْفِي  
غِيظُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي  
بَعْضِ كَلَامِهِ كُنْتُ أُحِبُّكُمْ لَمَّا  
أَطَعْتُمُونِي فَكَمَا عَصَيْتُمُونِي  
بَغَضْتُكُمْ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكُمْ  
لَا لِحَاجَةٍ إِلَيْكُمْ بَلْ رَحْمَةٌ  
لَكُمْ فَهُوَ يُحِبُّكَ لَكَ لَا لَهُ  
يُحِبُّ طَاعَتَكَ لَهُ لَا أَنْ تَفْعَلَهَا  
عَابِدٌ إِلَيْكَ عَلَيْكَ يَا لَا شَيْعَالٍ  
وَالْأَقْبَالِ عَلَى مَنْ يُحِبُّكَ  
وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ يُحِبُّكَ لَهُ  
الْمُؤْمِنُ نَسِيَ كُلَّ الْأَشْيَاءِ وَ  
ذَكَرَ مَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ فَحَصَلَ لَهُ  
قُرْبُهُ وَالْحَيَاةُ بِهِ وَ مَعَهُ  
صَمَتٌ تَوَكَّلُهُ فَلَا جَرَمَ كَفَاةُ  
الْمَهَامِ دُنْيَا وَ آخِرَةً إِذَا صَمَتَ  
تَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُ وَ تَوَحَّيْدُهُ  
عَامِلُهُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا عَمِلَ

تو اُس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس سے تو شرمندہ ہو اسے  
جاہل کیا تیرے لیے غیر متقی ہونا کفایت نہیں کرتا یہاں تک کہ  
جب تجھ سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈر تو تو غصہ کرتا ہے۔  
غضب میں آجاتا ہے جب تجھ سے حق بات کہی جاتی  
ہے تو تو اسے سن کر سستی کرتا ہے پھر جب کوئی تجھ پر  
اعتراف کرتا ہے تو تو اُس پر غیظ و غضب کرتا ہے اور اپنا  
غصہ اُس سے نکالتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علیؓ خطاب  
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپؓ نے فرمایا جو کوئی اللہ  
سے ڈر کر نہا ہے تو وہ اپنا غصہ و بغا نہیں نکالا کرتا ہے۔  
اللہ عزوجل نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے میں  
تمہاری اطاعت کی وجہ سے تمہیں دوست رکھتا تھا پس  
جب تم نے میری نافرمانی کی میں تم سے نفص رکھنے لگا۔  
حق عزوجل تمہیں اپنی رحمت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے  
نہ کہ کسی حاجت و غرض کی وجہ سے۔ اُس کی محبت تمہارے  
ہی لیے ہے نہ کہ اپنے لیے کروہ۔ تمہاری اطاعت کو  
جو کہ اُس کے لیے کرتے ہو دوست رکھتا ہے کیوں کہ  
اُس کا نفع تمہاری طرف لوٹنے والا ہے۔ مجھے چاہیے  
کہ تو ایسے کی طرف مشغول و متوجہ ہو جو کہ مجھے تیرے ہی لیے  
دوست رکھتا ہو اور ایسے اعراض و روگردانی کر جو کہ تجھے  
اپنے لیے دوست رکھتا ہو۔ ایمان دار نے سب کو جھکا کر  
خدا کے لیے کوئی یاد کیا پس اُس کو قرب الہی اور اُس کے  
ساتھ زندگی حاصل ہو گئی اُس کا خدا کے ساتھ توکل و دردت  
ہو گیا پس دارین کے مصائب سے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ  
ضامن بن گیا اور کفایت کی جب مسلمان کا توکل اور توحید و دردت  
ہو جاتی ہے تب خدا اُس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کہ

بِهِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعْطِيهِ  
مَعْنَاهُ وَحَالَهُ لَا لَقَبَهُ يُطْعِمُهُ مِنْ  
طَعَامِهِ وَيَسْقِيهِ مِنْ شَرَابِهِ وَ  
يَسْكُنُهُ فِي دِهْلِيَزِ دَارَاهُ لَا اَنْتَهُ  
يُعْطِيهِ عَيْنِ مَقَامِهِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ  
شَبَبُهُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا  
مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ اَمَّا تَسْتَحْيِ  
فَقَدْ حَمَلَكَ حِرْصُكَ عَلَى اَنْتَكَ  
تَخْدِمُ الظُّلْمَةَ وَتَاْكُلُ الْحَرَامَ  
اِلَى مَا تَتَاْكُلُ وَتَخْدِمُ الْمُلُوكَ  
الَّذِينَ تَخْدِمُهُمْ يَزُولُ مُلْكُهُمْ  
عَنْ قَرِيبٍ وَتَتَوَلَّى خِدْمَةَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَا يَزُولُ كُنْ عَاقِلًا  
وَاقْنَعْ بِالْيُسَيْرِ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى  
يَأْتِيَكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْاٰخِرَةِ تَنَادَلُ  
الْاَفْسَامُ بِبَيْدِ نَهْدِكَ وَ يَكُونُ  
تَنَادُلُكَ عَلَى بَابِ مَوْلَاكَ عَزَّ وَ  
جَلَّ بِبَيْدِ قُدْرَتِهِ وَ فِعْلِهِ وَمَعَهُ  
لَا مَعَ الدُّنْيَا وَبَيْدِهَا وَ لَا عَلَى  
اَبْوَابِ السَّلَاطِيْنِ فِي حُصْبَةِ الطَّبَعِ وَ  
الْهَوَى وَ الشَّيْطَانِ وَ الْعَوَامِ اِذَا تَنَادَلَتْ  
الدُّنْيَا وَ قَبْلُكَ عَلَى بَابِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
تَكُونُ الْمَلِكَةُ وَ اَرْوَاحُ الْاَنْبِيَاءِ حَوْلَكَ فَتَشَانُ  
مَا بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ وَ الْحَالَيْنِ الْقَوْمُ عَقَالٌ قَالُوا لَا  
نَاْكُلُ اَفْئَامًا مِنَ الدُّنْيَا فِي الطَّرِيقِ وَ لَا فِي مَوْتِنَا

اُس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اُس کو خدا ابراہیم علیہ  
السلام کے سے معنی و حالت عطا فرمادیتا ہے ذکر اُن کا لقب  
اور ہم کو اپنے طعام و شراب سے ویسا ہی کھلاتا اور پلاتا ہے  
اور اپنے آستانہ کی دہلیز پر ویسے ہی رکھتا ہے کہ اُن کو کھلایا  
پلایا ٹھہرایا تھانہ دیکر وہ اُن کو عین مقام ابراہیمی عطا فرمادیتا ہے  
پس اُس وقت اُس مومن کی نسبت اپنے معنی صحیح ہو جاتی ہے  
نہ کہ بہ حیثیت صورت و حقیقت کیا تجھے شرم نہیں آتی تجھے تیری  
حرص نے یقیناً ظالموں کا خدمت گار بنا رکھا ہے اور تو حرام  
کھائے چلا جاتا ہے تو کب تک حرام کھاتا رہے گا اور اُن  
بادشاہوں کی جن کی حکومت عنقریب زائل ہو جائے گی۔  
خدمت گاری کرتا رہے گا اور حق عزوجل کی خدمت سے  
جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں تو بیٹھ پھیرتا رہے گا۔ ذرا  
عاقل بن اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرتا رہتا کہ تجھے آخرت  
کا کثیر حصہ ملے اپنے مقسوم حصول کو زہد کے ہاتھ سے کھاتا  
رہ۔ اور آستانہ الہی کے دروازہ پر تیرا کھانا بیٹا قدرت الہی  
اور اس کے فعل کے ہاتھ سے ہو اسی کی معیت میں نہ کر دنیا  
کی معیت میں دنیا کے ہاتھ سے اور نہ بادشاہوں کے  
دروازوں پر طبیعت اور خواہش اور شیاطین و عوام کے ہاتھ  
رکھ کر ہوتا ہے۔ جب کر تو دنیا کو ایسی حالت میں لے گا  
اور اُس سے خوردنوش کرے گا کہ تیرا قلب آستانہ الہی کے  
دروازہ پر ہو گا تو فرشتہ اور ارواح انبیاء کرام علیہم السلام تیرے  
ارگردار ہیں گے۔ پس ان دونوں مرتبوں اور حالوں کے  
درمیان میں کس قدر بڑا فرق ہے قابل غور ہے اولیاء اللہ  
بڑے عقلمند ہیں انھوں نے کہہ دیا ہے ہم اپنے دنیوی  
حصہ راستہ میں اور اپنے گھروں میں نہ کھائیں گے ہم تو

وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا عِنْدَهُ الْزَّاهِدُونَ يَأْكُلُونَ  
 فِي الْجَنَّةِ وَالْعَارِفُونَ يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ  
 وَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْمُحِبُّونَ لَا  
 يَأْكُلُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ  
 طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ أُنْسُهُمْ وَ  
 قُرْبُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 نَظَرُهُمْ إِلَيْهِ بَاعُوا الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
 ثُمَّ بَاعُوا الْآخِرَةَ بِوَجْهِهِ وَآرَادُوا  
 دُونَ غَيْرِهِ فَلَمَّا تَمَّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ  
 غَلَبَ الْكِرَامُ فَزَادَ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا وَ  
 الْآخِرَةُ مَوْهَبَةً وَأَمَرَهُمْ بِتَنَاقُلِهَا  
 فَآخَذُوا هَمًّا بِمَجَرَّدِ الْأَمْرِ مَعَ  
 الشَّيْبِ بَلْ مَعَ التَّخَمُّمَةِ وَالْغِنَى عَنْهُمَا  
 فَعَلُوا ذَلِكَ مَوَافَقَةً لِلْقَدَرِ وَحُسْنَ  
 آدِبٍ مَعَ الْقَدَرِ قِيلُوا وَآخَذُوا وَهُمْ  
 يَقُولُونَ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ تَعْلَمُ  
 أَنْ قَدْ رَضِينَا بِكَ دُونَ غَيْرِكَ وَ  
 رَضِينَا بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْعُرَى  
 وَالذَّلَالِ وَالْمُهَانَةِ وَأَنْ تَكُونَ عَلَيَّ  
 بِأَبِكَ مَطْرُوحِينَ لَمَّا رَضُوا بِذَلِكَ  
 وَقَرَّرُوا مَعَ نَفْسِهِمُ الظَّمَانَيْنَةَ  
 عَلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِمْ نَظَرَ الرَّحْمَةِ  
 فَأَعَزَّهُمْ بَعْدَ ذُلِّهِمْ وَأَغْنَاهُمْ  
 بَعْدَ فَقْرِهِمْ وَمَنَحَهُمْ بِفَقْرِهِمْ  
 مِنْهُ دُنْيَا وَآخِرَةً.

اسی کی حضوری میں اُس کے سامنے کھائیں گے۔ نراہ جنت  
 میں کھاتے ہیں اور عارف باللہ اُس کے حضوری میں حالانکہ  
 وہ دنیا ہی میں سکون پذیر ہوتے ہیں اور محبوبان الہی نہ دنیا میں  
 کھاتے ہیں اور آخرت میں کھائیں گے اُن کا کھانا اور پینا  
 پروردگار عالم جل جلالہ سے اُن کا قرب و انس اور اُسی کی  
 طرف دیکھتے رہنا ہے انھوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے  
 بعدہ آخرت کو قرب رب تعالیٰ سے جو کہ دنیا و آخرت کا مالک  
 ہے فروخت کر دیا ہے۔ جو لوگ کہ محبت الہی میں پختے ہیں۔  
 انھوں نے دنیا و آخرت کو خدا کے واسطے فروخت کر دیا ہے  
 اور اُسی کو چاہتے ہیں غیر سے انھیں تعلق ہی نہیں پس جب کہ اُن  
 کی خرید و فروخت ختم و پوری ہوگئی بخشش الہی نے عطا کیا اور  
 اُن پر دنیا و آخرت کو بطور ہبہ واپس دے دیا اور اُن کو دونوں  
 کے لیے لینے کا حکم دیا پس ان محبان الہی نے اُن کو محض حکم کی  
 وجہ سے باوجود پیٹ بھرے اور پیٹے ہونے بلکہ تخمہ کے  
 ہونے کی صورت میں اور عدم حاجت کی صورت میں تعملاً  
 للحکم قبول کر لیا تقدیر کے ساتھ موافقت و حسن ادب  
 کر کے قبول کیا اور لے لیا اور کہتے رہے کہ تحقیق تو ہمارے  
 ارادوں کو جانتا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں تیرے غیر  
 سے راضی نہیں اور بھوک و پیاس اور بربکی اور ذلت و  
 رسوائی سے جو تیری طرف سے پہنچے اُس پر ہم راضی ہیں اور  
 اس سے رضا مند کہ تیرے ہی دروازہ پر پڑے رہیں جب  
 وہ اس پر راضی ہو گئے اور اُن کے نفس اس پر مطمئن ہو گئے تو  
 رب تعالیٰ نے اُن کی طرف نظر رحمت فرمائی اور بعد اُن  
 کی ذلت کے اُن کو عزیز بنا دیا اور بعد فقری کے اُن کو غنی  
 کر دیا اور دنیا و آخرت میں اپنے قرب سے اُن کو معزز فرمایا۔

مومن دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے پس وہ زہد اس کے باطن کے میل کچیل اور خرابی کو زائل کر دیتا ہے اس وقت آخرت آجاتی ہے جس سے اس مومن کا قلب سکون کر لیتا ہے اس کے بعد یہ غیرت ظاہر ہو کر آخرت کو قلب مومن سے زائل کر دیتا ہے اور غرور کر دیتا ہے کہ آخرت قرب الہی سے روکنے والی چیز ہے اس وقت یہ مومن فی الجملہ مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے اور احکام شریعہ کو بجالاتا ہے اور ان حدود کی جو کران کے اور عوام کے درمیان میں منترک ہیں حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس سے وہ اپنے نفس اور مخلوقات کے عیبوں کو دیکھنے لگتا ہے اور غیر اللہ کی طرف وہ نہ سکون کرتا ہے اور نہ وہ غیر کی بات پر کان دھرتا ہے اور نہ غیر اللہ کو سمجھتا ہے اور نہ اس کے سوا دوسروں کے وعدوں سے مطمئن ہوتا ہے اور نہ اس کے غیر کی دہمکی سے ڈرتا ہے اللہ کے ساتھ مشغول ہو کر غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ مسلمان یہ کمالات حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو کہ انہوں نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزرا ہے۔

اسے غلام اولاً تو اپنے نفس کی طرف مشغول ہو پہلے تو اپنے نفس کو نفع دے پھر دوسروں کو تو مثل شمع کے ذبن کہ وہ خود کو جلاتا ہے۔ اور غیر کو روشن کرتا رہتا ہے تو کسی شے میں اپنی خودی اور خواہش و نفس کے ساتھ داخل نہ ہو کر حق عز وجل جب تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو تجھ کو اس امر کے لیے مستعد کرے گا اگر اس کا ارادہ تجھ سے مخلوق کو نفع پہنچانا ہو گا تو وہ تجھ کو ان کی

الْمُؤْمِنِينَ يَزُهِدُ فِي الدُّنْيَا فَيُزِيلُ  
الزُّهْدَ وَسَخَّ بَاطِنَهُ وَدَرَنَهُ وَكَدَّرَهُ  
فَيَأْتِي الْآخِرَةَ فَيَسْكُنُ قَلْبُهُ شُحَّةً  
تَأْتِي يَدَ الْغَيْرَةِ فَتُزِيلُهَا عَنْ قَلْبِهِ  
وَتُعَلِّمُهُ أَنَّ حِجَابَ عَنْ قُرْبِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ يَتْرُكُ الْإِشْتِغَالَ  
بِالْمَخْلُوقِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَمْتَنِثِلُ أَفَامِرَ  
الشَّرِّ وَيَحْفَظُ حُدُودَ الْمُشْتَرَكَةِ  
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَوَامِ تَنْفَعَتِهِمْ عَيْنًا  
بَصِيرَتِهِ فَيَبْصُرُ عُيُوبَ نَفْسِهِ وَ  
عُيُوبَ الْمَخْلُوقَاتِ فَلَا يَسْكُنُ إِلَى  
غَيْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَسْمَعُ مِنْ  
غَيْرِهِ وَلَا يَعْقِلُ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا  
يَسْكُنُ إِلَى غَيْرِهِ وَعَدِيدَ مَا  
يَخَافُ مِنْ غَيْرِهِ وَعِيدَ مَا يَتْرُكُ الشُّغْلَ  
بِغَيْرِهِ وَيَشْتَغِلُ بِهِ فَإِذَا اسْتَهْذَأَ أَفْهَرُ  
فِيهَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ  
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ

يَا غُلَامُ اسْتَغْلِ بِنَفْسِكَ لِنَفْعِ  
نَفْسِكَ ثُمَّ عَيِّرَكَ لَا تَكُنْ كَالشَّمْعَةِ  
تُحْرِقُ هِيَ نَفْسَهَا وَتُضِيءُ لِغَيْرِهَا  
لَا تَدْخُلْ فِي شَيْءٍ يَكُ وَبَهْوَاكَ  
وَنَفْسِكَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا  
أَرَادَكَ لِأَمْرٍ هَيَّاكَ لَهُ إِنْ أَرَادَكَ  
لِنَفْعِ الْخَلْقِ مَرَدَكَ إِلَيْهِمْ وَأَعْطَاكَ

نُبَاتًا وَمُدَارَةً لَهُمْ وَقُوَّةً عَلَى مَقَاسِهِمْ  
يُوسِّعُ قَلْبَكَ لِلْخَلْقِ وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ  
وَيَعِزُّ فِيهِ الْحِكْمَ يَلْحِظُ بَاطِنَكَ  
وَيُسِّرُ إِلَى سِرِّكَ فَجِيئْنِيذًا يَكُونُ هُوَ  
لَا أَنْتَ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ  
يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ  
إِعْتِزْ قَوْلَهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً مَا  
قَالَ أَنْتَ جَعَلْتَ نَفْسَكَ فَالْقَوْمُ لَا  
إِرَادَةَ لَهُمْ وَلَا إِحْتِيَازَ بَلْ هُمْ فِي  
مُجَرَّدِ أَمْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَفِعْلِهِ  
وَتَدْبِيرِهِ وَإِرَادَتِهِ يَا مَنْعَزِلًا  
عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَا تَحْتَجُّ  
بِشَيْءٍ فَمَا لَكَ حُجَّةٌ الْجَادَّةُ بَيْنَ  
يَدَايِكَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ  
مَا أَوْقَحَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَا أَقَلَّ خَوْفَكَ مِنْهُ مَا أَكْثَرَ  
تَهَاقُوكَ بِرُؤْيَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَفْتُ  
مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ  
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ  
يَرَاكَ أَهْلُ الْيَقَظَةِ سَأَوْا  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَلُوكِهِمْ  
فَأَجْتَمَعَ شَتَا شَهَا إِنْ سَكَبَتْ  
فَضَائِلُ شَيْئًا وَاحِدًا  
تَتَسَاقَطُ الْحَبَابُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ

ہر طرف لوٹا دے گا اور تجھ کو ثابت قدمی اور اُن کے ساتھ  
مدارات اور اُن کی تکلیفوں کی برداشت کرنے کی قوت عطا  
فرما دے گا تیرے قلب میں مخلوق کے لیے وسعت دے  
دے گا اور تیرے سینہ کو کشادہ کر دے گا اور اس کے اندر  
حکمت و دانائی بھر دے گا وہ تیرے باطن کا ملاحظہ فرماتا  
رہے گا اور تیرے باطن کی رازداری کرے گا پس اُس  
وقت وہی وہ ہو جائے گا نہ کہ تو کیا تو نے ارشاد الہی نہ سنا  
يَا دَاوُدُ الْاِيَه اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں تحقیق  
خلیفہ بنا دیا۔ اے مخاطب تو قول الہی انا جعلناك الخ  
ہم نے تحقیق تم کو خلیفہ بنایا پر غور کی نظر سے دیکھ یوں نہیں  
فرمایا کہ تو نے اپنے نفس کو خود خلیفہ بنایا پس او ایسا اللہ کا نہ  
کوئی ذاتی ارادہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اختیار بلکہ وہ تمام کام  
امر و فعل و تدبیر و ارادہ الہی کے ماتحتی میں کیا کرتے ہیں۔  
اے سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے تو کبھی  
شے کے ساتھ جہت نہ پکڑ پس تیرے لیے اس کمی کی کوئی  
دلیل نہیں ہے شاہراہ تیرے سامنے ہے۔ حلال و حرام  
دونوں واضح ہیں۔ تو اللہ پر کس قدر بے جیاب بن گیا ہے۔ تیرا  
خوف خدا سے کس قدر کم ہو گیا ہے کون سی چیز نے تجھے  
نڈر بنا دیا ہے اُس کی رویت و نظر کو تو کس قدر ہلکا سمجھے  
ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے  
کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ عز و جل سے ایسا ڈر کر گویا  
تو اُس کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اُس کو نہیں دیکھتا ہے پس وہ  
تجھے دیکھتا ہے۔ بیدار لوگوں نے اللہ عز و جل کو اپنے  
دلوں سے دیکھ لیا پس اُن کی پر اگندگی مجتمع ہو گئی پھیل کر  
ایک ہی چیز بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے درمیان سے

مُحِيتِ الْمَبَالِیْ وَبَقِیَّتِ الْمَعَانِیْ وَتَقَطَّعَتْ  
الْاَوْصَالُ وَانْخَلَعَتْ الْاَرْبَابُ فَلَمْ یَبْقَ  
لَهُمْ سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا کَلَامَ لَهُمْ  
وَلَا حَرَاکَةَ وَلَا فَرْحَ شَیْءٍ حَتّٰی یَصِیْرَ  
کُلُّهُمْ هَذَا فَاِذَا صَمَّتْ فَقَدْ نَمَّ الْاَمْرُ فِی حَقِیْقَتِهِ  
اَوَّلَ مَا خَرَجُوا مِنْ رَدِّ الدُّنْیَا وَالْعُبُوْدِیَّةِ  
لَهَا ثُمَّ مِمَّا سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِی  
الْجُمْلَةِ لَا یَزَالُوْنَ فِی مَعَاصِلَتِهِ وَفِی تَقْصِیْهِ  
فِی ابْتِلَاءٍ لِّیَنْظُرَ کَیْفَ یَعْمَلُوْنَ فَالِیْسَرُّهُوَ  
الْمَلِکُ وَالْقَلْبُ وَزَیْرُهُ وَالنَّفْسُ وَاللِّسَانُ  
وَالْجَوَارِحُ خَدَمٌ بَیْنَ اَیْدِیْهِمَا اَلِیْسَرُّ  
یَسْتَقِیُّ مِنْ بَحْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْقَلْبُ  
یَسْتَقِیُّ مِنَ السِّرِّ وَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تَسْتَقِیُّ  
مِنَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ یَسْتَقِیُّ مِنَ النَّفْسِ وَ  
الْجَوَارِحُ تَسْتَقِیُّ مِنَ اللِّسَانِ اِذَا كَانَ  
اللِّسَانُ صَادِحًا صَدَحَ الْقَلْبُ وَاِذَا كَانَ  
فَاسِدًا فَسَدَ یَحْتَاجُ لِسَانُكَ اِلَى لِحَاظِ  
التَّقْوٰی وَتَوْبَةٍ عَنِ الْکَلَامِ بِالْیَهُدِیَّانِ  
وَالْبِقَاقِ فَاِذَا دُمَّتْ عَلَیْكَ الْفَقْلَبُ فَصَاحَةُ اللِّسَانِ  
اِلَى فَصَاحَةِ الْقَلْبِ فَاِذَا تَمَّتْ لَهُ هَذِهِ اَتَنَوَّرَ  
وَاَظْهَرَ النُّوْرُ مِنْهُ اِلَى اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ  
وَجَبِیْئًا یَبْکُوْنُ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ الْمُقَرَّبِ وَ  
فِی حَالَتِهِ قَرِیْبَهُ لَا لِسَانَ لَهُ لَا دُعَاءَ لَهُ  
وَلَا ذِکْرَ لَهُ الدُّعَاءُ وَالذِّکْرُ وَالْکَلَامُ فِی  
الْبُعْدِ اَمَا فِی الْقُرْبِ السُّکُوْنُ وَالْجُمُوْدُ وَ

پردہ گر گئے بنیادیں مٹ گئیں اور معانی باقی رہ گئے جو پورے  
منقطع ہو گئے اور درست جدا ہو گئے پس اُن کے لیے سوا  
رب تعالیٰ کے کچھ باقی نہ رہا۔ نیز اس کے زمان کے لیے کچھ  
کلام تھانہ حرکت نہ کسی شے سے خوشی یہاں تک کہ اُن کا یہ  
معاطر درست ہو گیا پس جب یہ معاطر اُن کا درست ہو گیا  
تو یہ کامل بن گئے۔ اول یہ دنیا کی غلامی اور بندگی سے باہر  
نکلنے کی الجھ پھر تمام ماسوسے اللہ سے علیحدہ ہو گئے  
یہ لوگ خدا کے معاطر اور ذات میں ہمیشہ امتحان میں ہی رہتے  
ہیں تاکہ خدا ان کے عملوں کو دیکھے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں پس  
باطن کو یا بادشاہ ہے اور قلب اس کا وزیر اور نفس و زبان اور  
دیگر اعضا ان دونوں کے حاضر باش و خادم۔ باطن دریا راہی  
سے سیراب ہوتا ہے اور قلب باطن سے اور نفس مطہر قلب  
سے۔ اور زبان نفس سے سیرابی حاصل کرتی ہے اور اعضاء  
زبان سے۔ جب زبان صالح ہو جاتی ہے قلب صالح  
ہو جاتا ہے اور جب زبان فاسد ہوتی ہے قلب بھی فاسد  
ہو جاتا ہے۔ تیسری زبان تقولے کی لکام اور فضول و ففاق  
کی باتوں سے توبہ کی محتاج ہے۔ پس جب تو اس پر  
مداومت کرے گا تو زبان کی فصاحت قلب کی فصاحت  
کی طرف لوٹ آئے گی پس جب قلب کو یہ کمال حاصل ہو  
جائے گا وہ منور ہو جائے گا اور قلب سے زبان اور اعضا  
کی طرف وہ نور ظاہر ہو جائے گا تو اسی حالت پر پہنچ کر  
قرب والی زبان سے بولا کرے گا اور اس کی قرب کی حالت  
میں نہ اُس کی زبان ہوگی اور نہ اُس کی دعا اور نہ ذکر دعا و ذکر  
کلام تو دور ہی کی حالت میں ہوتا ہے لیکن قرب کی حالت میں  
تو محض سکون اور گرم نامی اور نظارہ اور اُس سے نفع حاصل

کرنے میں قناعت ہو کر تھی ہے اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں سے  
کر دے جو تجھ کو دنیا میں قلب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور  
آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہم کو دنیا و آخرت میں  
بھلائیاں دے اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ آمین۔

الْفَنَاءَةَ بِالنَّظَرِ وَالتَّمَتُّعَ بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا  
مِمَّنْ يَرَاكَ فِي الدُّنْيَا يَعْنِي قَلْبَهُ وَلَا فِي  
الْآخِرَةِ يَعْنِي رَأْسَهُ وَاتِّنَافِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

## ترسینویں مجلس

## المجلس الثالث والخمسون

### امتحان وابتلا کے بیان میں

۱۰ رمضان ۱۲۵۵ھ کو منگل کے دن شام کے وقت  
مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

بغیر آزمائش و جانچ پڑتال کے چارہ کار نہیں خصوصاً  
دعوائے کرنے والوں کے لیے۔ اگر جانچ پڑتال آزمائش کا  
معاملہ نہ ہوتا تو بہت مخلوق ولایت کی مدعی ہو جاتی۔ اسی  
واسطے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا ہے ولایت پر بلاؤ اور آزمائش  
کو مسلط فرمایا گیا ہے تاکہ عموماً ولایت کا دعویٰ نہ کیا جائے  
منجھولی کی علامتوں کے ایک علامت اُس کا مخلوق کی ایذا  
رسانی پر صبر کرنا اور اُن سے درگزر کرنا ہے۔ اولیاء اللہ جو کچھ  
حالات مخلوق سے دیکھتے ہیں اُن سے اندھے بن جاتے  
ہیں اور جو کچھ اُن سے سنتے ہیں اُس سے بہرے بن جاتے  
ہیں بہ تحقیق انھوں نے مخلوق کے لیے اپنی ابروؤں کو ہمہ کر  
رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ تیرا کسی شے کو محبوب رکھنا اندھا  
اور بہرا بنا دیا کرتا ہے اولیاء اللہ نے حق عزوجل کو اپنا  
محبوب بنالیا پس وہ غیر اللہ سے اندھے اور بہرے ہو

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِثَّةُ الثَّلَاثَاءِ فِي الْمَدْرَسَةِ  
سَابِعَ عَشَرَ مَضَانِ سَنَةِ خَمْسِينَ أَلْفَيْنِ وَخَمِيسَةَ  
لَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِبَارِ وَالْإِبْتِلَاءِ  
وَلَا يَسْبِقُهَا لِلْمُدَّعِينَ كَوْلَا الْإِبْتِلَاءِ  
وَالْإِخْتِبَارِ مَا لَا ذَعَى الْوِلَايَةِ خَلْقٌ  
كَثِيرٌ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَلَّ  
الْبَلَاءُ بِالْوِلَايَةِ كَى لَا تُدْعَى  
وَمِنْ جُمْلَةِ عَلَامَةِ الْوَلِيِّ صَبْرُهُ  
عَلَى إِذْيَةِ الْخَلْقِ وَالتَّجَاوُزُ عَنْهُمْ  
الْأَوْلِيَاءُ يَتَعَامُونَ عَمَّا يَرَوْنَ  
مِنَ الْخَلْقِ وَ يَتَطَارَشُونَ عَمَّا  
يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ قَدْ وَهَبُوا  
لَهُمْ أَعْدَاءَ صَدْرَهُمْ حُبَّكَ الشَّيْءُ  
يُعِينِي وَيُصِمُّ أَحَبُّوا الْحَقَّ  
عَمَّ وَجَلَّ كَعَمُوا وَصَمُّوا عَنْ غَيْرِهِ

يَلْقَوْنَ الْخَلْقَ بِالْكَلامِ الطَّيِّبِ وَالرِّفْقِ  
وَالْمَدَارَةِ وَتَارَةً يَغْضَبُونَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَوَافَقَةً فِي  
عَظَمَتِهِ هُمْ أَطْبَاءٌ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ  
مَرِيضٍ دَوَاءٌ الطَّيِّبُ لَا يَدَاوِي كُلَّ  
الْمَرِيضِينَ يَدَاوِي دَوَاءَهُ وَاحِدٌ هُمْ مِنْ حَيْثُ  
قُلُوبُهُمْ وَمَعَانِيهِمْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كَمَا صَحَابُ الْكَهْفِ أُولَئِكَ كَانُوا  
جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْلِبُهُمْ وَهُوَ لَا يَدُ  
يَدُ الْقُدْرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ يَقْلِبُهُمْ  
يَدُ الْمَحَبَّةِ تُقَلِّبُ قُلُوبَهُمْ وَتَنْقُلُهُمْ  
مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ دُنْيَا هُمْ لَطَائِلُ الدُّنْيَا  
وَأُخْرَاهُمْ لَطَائِلُ الْآخِرَةِ وَرَبُّهُمْ  
عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَبْخُلُونَ بِشَيْءٍ إِذَا طَلَبَتْ  
الدُّنْيَا مِنْهُمْ وَهِيَ عِنْدَهُمْ بَدَلُ لَوْهَا  
وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُمْ ثَوَابُ الْآخِرَةِ بَدَلُ لَوْهُ  
يُعْطُونَ الدُّنْيَا لِلْفَقْرَاءِ مِنْهُمْ وَ  
يُعْطُونَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ لِلْمُقَصِّرِينَ  
فِي طَلِبِهَا يَتَرَكُونَ الْمُحَدَّثَاتِ  
لِلْمُحَدَّثَاتِ وَيَتَرَكُونَ الْمُحَدَّثَاتِ لَهُمْ  
يَهْبُونَ الْقَشْرَ لِأَنَّ مَا سِوَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ قَشْرٌ وَالطَّلَبُ لَهُ وَ  
الْقَرَبُ مِنْهُ هُوَ اللَّبُّ عَنْ بَعْضِهِمْ  
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصْحَكَ  
فِي وَجْهِهِ الْفَاسِقُ إِلَّا الْعَارِفُ نَعَمْ

گئے ہیں اُن کی ملاقات مخلوق سے شیریں کلامی اور نرمی اور  
مدارات کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور کبھی اللہ واسطے کی  
غیرت کر کے غضب الہی سے متعلق ہو کر مخلوق پر غصہ و غضب  
بھی کرتے ہیں۔ اویاء اللہ طیب ہیں انھوں نے ہر مرض  
کی دوا کو پہچان لیا ہے طیب ہر ایک مرض کا علاج ایک  
ہی دوا سے کیا کرتا ہے اویاء اللہ مثل اصحاب کعبہ کے  
قلب اور معنی کی حیثیت سے پروردگار عالم کی حضوری میں  
رہا کرتے ہیں اُن کو جبرئیل علیہ السلام کوٹھلانے ہیں اور اُن کو  
قدرت و رحمت و لطف کا ہاتھ لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے  
محبت کا ہاتھ اُن کو پٹتا ہے اُن کے دلوں کو پلٹ دیتا  
ہے اور اُن دلوں کو ایک حالت سے دوسری حالت کی  
طرف منتقل کرتا ہے۔ اُن کی دنیا دنیا کے طلب گاروں  
کے لیے ہے اور اُن کی آخرت آخرت کے طلب گاروں  
کے لیے اُن کا مالک جل مجدہ اُن سے کسی چیز کا بخل نہیں کرتا  
ہے جو چاہتے ہیں وہ دیتا رہتا ہے۔ جب تو اُن سے  
دنیا طلب کرتا ہے اور وہ اُن کے پاس ہوتی ہے تو وہ  
اُس کو خرچ کر دیتے ہیں اور جب اُن سے آخرت کا ثواب  
طلب کیا جاتا ہے تب وہ اُس کو خرچ کر دیتے ہیں۔  
فقر اہل البان دنیا کو دیا عطا کرتے رہتے ہیں اور جو دنیا کی  
طلب میں کمی کرنے والے ہیں اُن کو ثواب آخرت عطا کرتے  
رہتے ہیں۔ مخلوق کو مخلوق کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خالق  
کو اپنے لیے چھلکے کو ہبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ماسوے اللہ  
چھلکا ہے اور طلب مولیٰ اور قرب الہی اُن کے نزدیک  
مغز ہے۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا  
ناسخ کے منہ پر عارف ہی ہنسا کرتا ہے ہاں کبھی اُس کو

يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ وَيَتَحَمَّلُ أَذَاهُ وَلَا يَقْدِرُ  
 عَلَى هَذَا إِلَّا الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ أَمَّا الزُّهَادُ وَالْعَبَادُ وَالْمُرِيدُونَ  
 لَا كَيْفَ لَا يَرْحَمُونَ الْعَصَاةَ وَهُمْ  
 مَوْضِعُ الرَّحْمَةِ مَقَامُ التَّوْبَةِ وَالْإِعْتِزَارِ  
 الْعَارِفُ خُلُقُهُ مِنْ أَخْلَاقِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
 جَلَّ فَهُوَ يَجْتَهِدُ فِي تَخْلِيصِ الْعَاثِي  
 مِنْ يَدِ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ وَ الْهَوَى  
 إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ وَلَدًا أَسِيرًا فِي  
 يَدِ كَافِرٍ أَلَيْسَ يَجْتَهِدُ فِي تَخْلِيصِهِ  
 فَلِهَذَا الْعَارِفُ الْخَلْقُ جَمِيعُهُمْ  
 كَالْأَوْلَادِ يُخَاطِبُ الْخَلْقَ بِلِسَانِ الْحُكْمِ  
 ثُمَّ يَرْحَمُهُمْ لِإِظْلَاجِهِ عَلَى الْعِلْمِ  
 فَإِنِّي أَفْعَالِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ  
 يَنْظُرُ إِلَى خُرُوجِهِ الْأَقْصَى وَالْأَقْدَامِ  
 مِنْ بَابِ الْحُكْمِ وَالْعِلْمِ وَلِكِنَّهُ  
 يَكُفُّ ذَلِكَ يُخَاطَبُ الْخَلْقَ بِالْحُكْمِ  
 الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَلَا يُخَاطَبُهُمْ  
 بِالْعِلْمِ الَّذِي هُوَ السِّرُّ الْحَقُّ عَزَّ وَ  
 جَلَّ أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ وَ  
 حَدَّثَنَا وَأَنْذَرَنَا لَتَرْكِبِ الْحُجَّةِ عَلَى  
 الْخَلْقِ وَعِلْمُهُ فِيهِمْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَا  
 يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحُكْمُ فِيهِ كَرُّ وَقَرُّ وَالْعِلْمُ  
 فِيهِ ثَبَاتٌ وَتَحْتَابُ إِلَى الْحُكْمِ الْمَشْتَرِكِ لَكَ  
 وَلِغَيْرِكَ وَتَحْتَابُ إِلَى الْعِلْمِ الْخَافِضِ لَكَ

حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے اور وہی اس کی تکلیف کو برداشت  
 کرتا رہتا ہے اور اس پر عارف باللہ ہی قادر ہیں لیکن زہاد  
 عابد و مرید ایسے نہیں۔ یہ اللہ والے عاصیوں پر کیسے رحم کریں  
 وہ بیچارے تو رحم کے قابل تو یہ معذرت کے مقام میں ہی  
 ہیں۔ عارف باللہ کے اخلاق مجملہ اخلاق الہی کے ہوتے  
 ہیں۔ پس وہ گناہ گار کو شیطان اور نفس و خواہش کے ہاتھ سے  
 چھوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب تم میں سے  
 کوئی اپنے بچہ کو کسی کافر کے ہاتھ میں قید دیکھتا ہے  
 تو اس کے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ پس اس  
 عارف کے لیے تمام مخلوق مثل اولاد کے ہوتی ہے وہ اولاً  
 مخلوق سے بزبان شریعت خطاب کرتا ہے احکام بتاتا  
 ہے۔ پھر علم ازلی پر آگاہ ہونے کی وجہ سے ان پر رحم کرتا  
 ہے۔ ان میں افعال الہی کو جاری و ساری دیکھتا ہے۔ وہ  
 قضاء و قدر کے امور کے صادر ہونے کی طرف جو کہ علم الہی  
 کے دروازہ سے نکلتے ہیں نظر رکھتا ہے اور لیکن اس کو چھپاتا  
 رہتا ہے اور مخلوق سے موافق شرع امور ہی کے ساتھ خطاب  
 کرتا رہتا ہے اور اس علم کے ساتھ جو کہ سیر الہی ہے  
 مخلوق سے خطاب نہیں کرتا حتیٰ عز و جل نے رسولوں  
 کو علیہم السلام بھیجا اور کتابیں نازل کیں اور ڈرایا دہم کیا کہ  
 خلق پر حجت قائم ہو جائے رہا ان کے بارے میں علم الہی تو  
 اس میں نہ تو دخل دیا جاسکتا ہے اور نہ خدا پر اس کے بارے  
 میں اعتراض کیا جاسکتا ہے حکم کے اندر کہ و فر ہے اور علم کے  
 اندر محض ثبات و استتعال۔ تو لکھی حکم کی طرف محتاج ہے  
 جو کہ تیرے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہے اور تو  
 اپنے لیے فقط ایسے علم خاص کا محتاج ہی ہو کہ تیرے لیے

فَحَسْبُ رَاذَاعٍ اَعْمَلْ اَحَدَكُمْ بِالْعِلْمِ  
الظَّاهِرِ ذَقَهُ الرَّسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ يَزُقُّهُ  
الْحُكْمُ الْبَاطِنُ كَمَا يَزُقُّ الطَّيْرُ بَوْلُهَا  
يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَهُ لَا جَلَّ تَصْدِيقُهُ وَ  
عَمَلُهُ يَقُولُ الظَّاهِرِ وَهُوَ شَرِيعَتُهُ  
ابْنُ اٰدَمَ اِذَا صَامَ فَلَا صَاحِبِيَّةَ مِثْلَهُ  
اِذَا صَفَا فَلَا صَفَاءَ مِثْلَهُ اِذَا اقْرَبَ  
فَلَا قَرِيبَ مِثْلَهُ اَلْجَاهِلُ يَنْظُرُ بِعَيْنِ  
رَاسِهِ وَالْعَاقِلُ يَنْظُرُ بِعَيْنِ عَقْلِهِ  
وَالْعَارِفُ يَنْظُرُ بِعَيْنِ قَلْبِهِ مَجْهُوًّا  
عَالِمًا فَيَلْقَاهُ الْخَلْقُ بِاَسْرِهِمْ فَيَسْتَوْنَ  
فِيهِ لَا يَبْقَى عِنْدَهُ شَيْءٌ سِوَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ يَقُولُ هُوَ  
الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  
يَصِيرُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ ظَاهِرًا  
وَبَاطِنًا وَاَوَّلًا وَاٰخِرًا وَصُورَةً  
وَمَعْنًا لَا شَيْءَ غَيْرُهُ عِنْدَهُ فَحِينَئِذٍ  
يُذَرِّيهِمْ صُحْبَتَهُ مَعَهُ دُنْيَا وَاٰخِرَةٌ  
مُؤَافَقًا لَهُ فِي جَمِيعِ الْاَحْوَالِ يَخْتَارُ  
بِمَرْضَاهُ وَسَخَطِ غَيْرِهِ لَا تَأْخُذُهُ  
فِيهِ لَوْمَةٌ لَا تَكْفِي كَمَا قَالَ  
بَعْضُهُمْ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَفِيقَ اللّٰهُ

مقدور کو چکا ہے جب تم میں سے کوئی علم ظاہر پر عمل کرتا ہے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علم باطن سے ہی چکا دیتے  
ہیں جیسے کہ پرند اپنے بچہ کو چکا دیتا ہے حضور کا فعل اس  
بندہ کے ساتھ محض اس کی تصدیق اور شریعت ظاہری پر  
عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن آدم جب صحیح و  
درست ہو جائے پس اس کی مثل کوئی صحیح و درست نہیں  
اور جب وہ صفائی حاصل کر لے تو اس کے مثل کوئی!  
صفائی حاصل کرنے والا نہیں اور جب وہ قریب و مقرب  
ہو جائے تو کوئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں۔ جاہل اپنے  
سر کی آنکھ سے دیکھا کرتا ہے اور عاقل اپنی دل کی آنکھ سے  
اور عارف اپنے قلب کی آنکھ سے ظاہر طور سے علم کے  
ساتھ دیکھا کرتا ہے۔ تمام مخلوق اس کا لقمہ بن جاتی ہے  
سب کے سب اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس  
کے پاس سوی عز و جل کے کوئی دوسری شے باقی نہیں  
رہتی پس وہ اسی وقت کہتا ہے وہی اول ہے اور وہی  
آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اس کے ظاہر و باطن  
اور اول و آخر اور صورت و معنی میں حق عز و جل ہی جلوہ گر ہوتا  
ہے اس کے نزدیک غیر اللہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی ہے  
اسی حالت میں یہ بندہ ہمیشہ دنیا و آخرت میں خدا کی معیت  
میں اور تمام مانتوں میں اسی کے موافق رہتا ہے خدا کی  
رضامندی اور اس کے غیر کے غصہ کو پسند کرتا ہے۔ کسی  
لامت کرنے والے کی لامت اس کو نہیں پکڑتی ہے  
بعض اہل اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو اللہ عز و جل کی ہی!  
سہ یعنی تو شرعی حکم کا بھی ما جہت ہے جو کہ تیرے اور دوسرے مکلفین کے درمیان مشترک ہے اور اپنے  
اپنے محض حکم تقدیری کا منہ قادری مغرور

عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تَوَافِقِ الْخَلْقَ  
 فِي اللَّهِ تَعَالَى اِنْكَسَرَ مِنَ اِنْكَسَرَ وَاجْتَبَرَ  
 مِنْ اَنْجَبَرَ شَيْطَانُكَ وَهُوَ اَكْ وَطَبَعُكَ  
 وَاقْرَأْ اَنَّكَ السُّوءُ اَعْدَاؤُكَ فَاحْذَرُهُمْ  
 حَتَّى لَا يُؤَقِعُوا فِي الْهَلَاكِ تَعَلَّمَ  
 الْعِلْمَ حَتَّى تَعْلَمَ كَيْفَ تَعَادِيَهُمْ وَ  
 تَحْذَرُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ تَدْرِي كَيْفَ تَعْبُدُ  
 رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اَلْبَاهِلُ لَا يَقْبَلُ  
 مِنْهُ عِبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِجَهْلٍ  
 كَانَ مَا يَفْسُدُ أَكْثَرُ مِمَّا يَصْلِحُ اَلْبَاهِلُ  
 لَا تَسْوِي عِبَادَتَهُ شَيْئًا بَلْ هُوَ فِي فَسَادٍ  
 كُلِّي وَظُلْمَةٍ كُلِّيَّةٍ وَالْعِلْمُ لَا يَنْفَعُ  
 إِلَّا بِإِلَاحْلَاصٍ فِيهِ كُلُّ عَمَلٍ بِإِلَاحْلَاصٍ  
 إِخْلَاصٍ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ عَامِلِهِ  
 إِذَا عَمِلَتْ وَلَمْ تَعْمَلْ كَانَ الْعِلْمُ  
 حُجَّةً عَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْبَاهِلُ يُعَذَّبُ مَرَّةً  
 وَالْعَالِمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَلْبَاهِلُ لِيَمَيَّنَّ تَعْلَمُ  
 وَالْعَالِمُ لِيَمَيَّنَّ تَعْمَلُ يَعْلِمُ تَعْلَمُ  
 وَاعْمَلْ وَاعْلَمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُ لَكَ  
 الْخَيْرَ بِأَسْرِهِ إِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً مِنْ  
 الْعِلْمِ وَعَمِلْتَ بِهَا وَعَلِمْتَهَا غَيْرَكَ كَانَ  
 لَكَ ثَوَابَانِ ثَوَابُ الْعِلْمِ وَثَوَابُ التَّعْلَمِ  
 الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ وَالْعِلْمُ نُورٌ فِيهَا

موافقت کر اور اللہ کے بارے میں خلق کی موافقت نہ کرے  
 جو ٹوٹے اور جڑے جو جڑے تو کسی کی پروا نہ کر تیرا شیطان  
 اور تیری خواہش اور تیری طبیعت اور تیرے برے ہم نشین  
 سب تیرے دشمن ہیں ان سے بچتا رہ تاکہ یہ تجھ کو ہلاکت میں  
 نہ ڈال دیں۔ تو علم سیکھ تاکہ تو ان سے دشمنی کرے اور ان سے  
 بچاؤ کا طریقہ جان لے بعد ازاں یہ معلوم کر سکے کہ خدا کی کیسے  
 عبادت کرتے ہیں تبھی کیسے عبادت کرنا چاہیے جاہل کی  
 عبادت قبول نہیں کی جاتی حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے  
 مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کہ اللہ کی عبادت جاہل  
 سے کرتا ہے اس کے مفسداات اصلاح سے زیادہ ہوا کرتے  
 ہیں جاہل کی عبادت کچھ بھی قدر نہیں رکھتی بلکہ وہ سرتاپا فساد اور  
 پوری ظلمت میں ہوتا ہے اور علم بھی بغیر عمل کے نفع نہیں  
 دیتا اور عمل بھی بغیر اخلاص کے نافع نہیں ہوتا۔ کوئی عمل بغیر  
 اخلاص کے نفع نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے والے سے  
 وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جب تو علم پڑھے اور اس پر عمل نہ  
 کرے تو علم تیرے اوپر حجت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جاہل ایک  
 درجہ عذاب دیا جائے گا اور عالم سات درجہ زیادہ جاہل  
 سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ سیکھا اور عالم سے سوال ہوگا  
 کہ علم پر کیوں نہ عمل کیا۔ تو اولاً علم پڑھ اور عمل کر اور دوسروں  
 کو علم سکھا۔ یقیناً تیرے لیے تمام بھلائیوں کو جمع کر دیں  
 گی۔ جب تو ایک کلمہ علم کا سنتے گا اور اس پر عمل کرے گا  
 اور دوسروں کو سکھا دے گا تو تیرے لیے دو ثواب ہوں  
 گے ایک ثواب سیکھنے کا اور ایک  
 ثواب سکھانے کا۔ دنیا تاریکی ہے۔ اور علم دنیا میں نور۔

فَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي هَذِهِ  
الظُّلُمَةِ وَيُفْسِدُ أَكْثَرِمَا يَصْلِحُ يَا مَنْ  
يَدْعِي الْعِلْمَ لَا تَأْخُذْ مِنْ يَدِ نَفْسِكَ  
وَطَهْرِكَ وَشَيْطَانِكَ لَا تَأْخُذْ مِنْ يَدِ  
وَجُودِكَ لَا تَأْخُذْ مِنْ يَدِ رِيَايِكَ وَ  
يَفَاقِكَ وَمِنْ هَذَا ظَاهِرٌ وَمَا عُبْتُكَ  
بَاطِنٌ هَذَا زُهْدٌ بَاطِلٌ أَنْتَ مُعَاقِبٌ  
عَلَيْهِ تَدْلِسُ عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ  
يَعْلَمُ مَا فِي خُلُوتِكَ وَمَا فِي جَلُوتِكَ وَمَا  
فِي قَلْبِكَ لَيْسَ عِنْدَكَ خَلْوَةٌ وَلَا جَلْوَةٌ  
وَلَا سَتْرٌ قُلْ وَاحْيَاءُ هُوَ وَأَوَّلًا هُوَ  
وَأَفْضَلُ حَتَّى لَا تَكَيْفَ يَطْلِعُ الْحَقُّ عَزَّ وَ  
جَلَّ عَلَى جَمِيعِ أَفْعَالِي فِي لَيْلِي وَنَهَارِي  
وَهُوَ نَظَرٌ وَأَنَا لَا أَسْتَحْجِي مِنْ تَنْظِيرِهِ  
تُبُّ مِنْ وَقَاتِكَ عَلَيْهِ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ  
يَا دَاءَ الْفُرْأَيْضِ وَالْإِنْتِهَاءِ عَنِ النَّوَاهِي  
أُتْرِكَ الدُّنُوبَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ وَ  
أَفْعَلِ الْخَيْرَاتِ الظَّاهِرَةَ فَبِذَلِكَ تَصِلُ  
إِلَى بَابِهِ وَتَقَرَّبُ مِنْهُ وَيُحِبُّكَ دُونَ  
خَلْقِهِ ثُمَّ يَنْقُلُ ذَلِكَ إِلَى خَلْقِهِ  
إِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ  
أَحَبَّكَ جَمِيعُ الْخَلْقِ سِوَى  
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فَذَلِكَ  
لَا يُؤَافِقُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي حُبِّكَ كُلُّ مَنْ رَفِيَ قَلْبُهُ

پس جسے علم نہیں ہے پس وہ اس تاریکی میں متحیر پھرتا رہتا  
ہے اور اُس کے فساد اُس کی اصلاح سے بہت زیادہ  
ہوتے ہیں اسے علم کے دعوے دار تو دنیا کو اور مافیہا  
کو اپنے نفس و طبیعت اور اپنے شیطان اور اپنے وجود  
کے ہاتھ سے نہ لیا کر نہ اپنے ریا و نفاق سے لے۔ تیرا  
زہد صرف ظاہری ہے اور تیری رغبت باطنی ایسا زہد لغو ہے  
تجھے اُس پر عذاب دیا جائے گا تو غمزہ دل پر فریب و مکر کرتا  
ہے حالانکہ وہ تیری خلوت و جلوت کے معاملات اور اُن  
چیزوں کو جو کہ تیرے دل کے اندر ہیں سب کو جانتا ہے  
اُس کے پاس نہ خلوت ہے اور نہ جلوت اور نہ پردہ و حجاب  
سب برابر ہیں۔ کہو ہائے شرم ہائے انسو ہائے  
رسوائی اُمِّ اللہ تعالیٰ دن رات میرے تمام افعال کو کس  
طرح دیکھتا رہتا ہے اور اس پر خبر دار ہے اور میں اس  
کی نظر سے نہیں شرماتا۔ تو خدا پر اپنی بے حیائی سے شرم  
کرا اور فرائض ادا کرنے اور ممنوعات سے باز رہنے کے  
ساتھ اُس سے نزدیکی حاصل کر مقرب بن جا ظاہری و  
باطنی گناہوں کو چھوڑ دے اور کھلی ہوئی بھلائیاں کرتا رہ پس  
اُس سے تو اُس کے دروازہ تک پہنچ جائے گا اور اُس  
سے نزدیک ہو جائے گا اور وہ تجھے مخلوق کی طرف اپنا  
دوست بنائے گا اور تجھ سے محبت کرنے لگے گا پھر اُس  
کو اپنی مخلوق کی طرف نقل کر دے گا۔ جب اللہ اور اُس کے  
فرشتے تجھے اپنا محبوب بنالیں گے تو تمام مخلوق کافروں  
و منافقوں کے سوا تجھ سے محبت کرنے لگے گی تحقیق کافر  
و منافق تیری اس محبت میں اللہ سے موافق نہیں گے۔ ہر  
وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے ایمان والوں کو دوست

نِفَاقٍ يُبْغِضُهُ فَلَا تَنْكَرُهُ بِبُغْضِ  
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالشَّيَاطِينَ  
وَالْأَبَالِسَةِ الْمُنَافِقُونَ وَالْكَافِرُونَ  
هُمْ شَيْئَاتٌ طِينٌ إِلَّا نَسِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَقِّنُ  
الْعَارِفُ فِي مَعَزِلٍ عَنِ الْخَلْقِ يَقْلِبُهُ  
وَسِرِّهِ وَمَعْنَاهُ يَصِلُ إِلَى حَالَةٍ لَا  
يَقْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرًّا وَ  
لَا نَفْعًا يَجْلِبُ عَلَيْهَا يَصِيرُ مُسْتَظَرًّا  
بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَبْقَى  
لَهُ حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ فَإِذَا صَحَّ لَهُ  
هَذَا جَاءَهُ الْخَيْرُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ  
لَا تَزَاحِمُ الْقَوْمَ يَمْجَرِدُ الدَّعْوَى  
وَالْتَّخَلَّى وَالتَّسَمَّى مَا يَجِيءُ مِنْ  
هَذَا شَيْءٍ لَا كَلَامَ حَتَّى تَعْلَى عَنْ  
الْأَسْبَابِ لَا كَلَامَ حَتَّى تَزَمَنَ وَ  
تَنْقُطِعَ رَجْلَاكَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى أَبْوَابِ  
النَّاسِ لَا كَلَامَ حَتَّى يَنْقَلِبَ قَلْبُكَ  
وَعَقْلُكَ وَوَجْهُكَ عَنِ الْخَلْقِ إِلَى  
الْخَالِقِ فَيَصِيرُ ظَهْرُكَ إِلَى الْخَلْقِ وَوَجْهُكَ  
إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَصِيرُ ظَاهِرُكَ وَ  
صُورَتُكَ إِلَى الْخَلْقِ وَبَاطِنُكَ وَكُنُكَ  
وَمَعْنَاكَ إِلَى الْخَالِقِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ قَلْبُكَ  
كَقُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ وَالتَّيِّبِينَ يُطْعَمُ قَلْبُكَ  
وَيَسْقَى مِنْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ هَذَا أَمْرٌ تَتَعَلَّقُ  
بِالْقُلُوبِ وَالْأَسْرَارِ وَالْمَعَانِي لَا بِالظُّوْرِ وَاللَّمَّ طَبِيبُ

رکھتا ہے اور ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق ہے ایمان والوں  
سے دشمنی رکھتا ہے پس تو کافروں اور منافقوں اور شیطانوں  
اور ابلیسوں کی دشمنی کو برامت سمجھ منافق و کافر انسانوں میں کے  
شیطان ہیں۔ ایمان دار یقین رکھنے والا عارف باللہ مخلوق  
سے اپنے قلب و سر و باطن سے علیحدہ رہا کرتا ہے اسی حالت  
پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس سے نقصان کے دفع کرنے  
پر اور اس کی طرف نفع کھینچنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے  
خدا کی حضوری میں برابر پڑا رہتا ہے اس کو کسی قسم کی طائف و  
قوت باقی ہی نہیں رہتی جب اس کا خدا کے ساتھ یہ معاملہ  
درست ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ہر طرف سے خیر ہی  
خیر آنے لگتی ہے۔ تو اسے مخاطب اہل اللہ سے محض دعویٰ  
اور خلوت نشینی اور آرزو کی وجہ سے مزاحمت نہ کران کی صفت  
میں نہ محض دعویٰ اور آرزو سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا تجھے  
بات چیت مناسب نہیں جب تک کہ تو بسوں سے اٹھا  
نہ ہو جائے اور اپاہج نہ بن جائے اور تیرے دونوں پیر  
آدمیوں کے دروازوں کی طرف دوڑنے سے کٹ دجائیں  
اور تیرا قلب اور تیری عقل اور تیرا چہرہ مخلوق کی طرف سے  
پورے طور سے خالق کی طرف پھرنے جائے۔ تیری پیٹھ مخلوق  
کی طرف ہو جائے اور تیرا چہرہ حتیٰ عز و جل کی طرف  
ظاہر اور تیری صورت مخلوق کی طرف ہو جائے اور تیرا  
باطن و مغز حقیقت خالق کی طرف پس اس حالت پر پہنچ کر  
تیرا قلب فرشتوں اور نبیوں کا سا قلب بن جائے گا علیہم السلام  
تیرے قلب کو انھیں کے طعام و شراب سے کھانا پانی عطا  
فرمایا جائے گا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کا تعلق قلوب و اسرار و  
معانی سے ہے نہ کہ صورتوں سے۔ اے اللہ تو ہمارے

قُلُوبَنَا وَاخْلَعْ عَلَيَّ اسْرَارَنَا وَصِفْ  
عُقُوبَنَا فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ  
عُقُوبِ الْخَلْقِ وَعُقُوبِنَا  
عَجَبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
إِنِّي أَنَا ظُرِّي فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ فَكَيْفَ  
فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ اَللَّهُمَّ اغْنِنِي عَنِ  
الْكُلِّ اَغْنِنِي بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ عَنِ  
الْمُعْلَمِ وَعَنِ الصُّبْيَانِ وَعَمَّا فِي بُيُوتِهِمْ  
وَاجْعَلْ دَارَكَ دَارَ السَّعَادَةِ مَعَ التَّعْلِيمِ  
اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ قَدْ  
عَلَبَ عَلَيَّ فَأَعِذْهُ فِيَّ فِيهِ جَا مَكْنِي قَدْ  
تَمَّتْ وَحَصَلْتُ لِي مِنْكَ بَقِيَّةُ جَا مَكْنِي  
الْأَطْفَالِ وَالْإِتْبَاعِ وَالظُّوَارِقِ فَاسْأَلُكَ  
تَسْهِيلَ ذَلِكَ مَعَ طَيْبَةِ قَلْبِي وَصَفَاءِ  
سِرِّي۔

قلوب کو پاکیزہ کر دے اور ہمارے اسرار کو خلعت معرفت  
عطا کر اور ہماری عقول کو اُن حالتوں میں جو کہ ہمارے اور  
تیرے درمیان میں ہیں وہ صفائی عطا کر جو کہ ہماری اور تمام  
مخلوق کی عقول سے ماوراء ہو۔ آمین۔ تعجب ہے کہ قیامت کے  
دن میں منافقوں کے حق میں بحث و مناظرہ کروں گا پھر سائلوں  
کے حق میں کیوں کرنے جھگڑوں گا غور کرو اسے اللہ تو مجھے تمام  
مخلوق سے غنی کر دے مجھے اپنے ساتھ رکھ کر تمام ماسوا  
سے بے نیاز بنا دے معلم سے بچوں سے اور ہر اس  
چیز سے جو کہ اُن کے گھروں میں ہے بے نیاز کر دے اور  
میرے گھر کو تعلیم کے ساتھ جہان خانہ بنا دے اسے  
اللہ پر تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے غلبہ مال میں کل  
گیا ہے پس اس میں مجھے معذور رکھ میرا پیالہ پر ہو گیا ہے  
اور تیری طرف سے مجھ کو بچوں اور خادموں اور مہمانوں کے  
پیالوں کا بقیہ ہی حاصل ہو گیا ہے کہ اُن کو بھروں پس میں تجھے  
اُس کے اُسلان کرتے کا قلب و باطن کی پاکیزگی و صفائی کے ساتھ  
سائل ہوں۔

اے قوم تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تم سے لیتا ہوں  
اور میں تم کو کچھ دیکھتا ہوں نہیں اس میں کوئی گرامت نہیں ہے  
میں تو اللہ ہی سے لیتا ہوں نہ کہ تم سے بلکہ وہی تمہارے ہاتھوں  
پر جاری کرنے والا اور متصرف ہے۔ جب تک کہ میں تمہارے  
ساتھ تھا تم کو پہچانتا ہی نہیں پس جب کہ میں تم سے علیحدہ ہو  
گیا تم کو پہچاننے لگا تحقیق میں منافقوں کا کھوج لگانے والا  
اور عار قوں کا جانچنے والا ہوں۔ میں منافقوں کو منہ پر بات  
کہہ کر اُتاتا ہوں نہ کہ دُکھ دے سے میرا سترِ خزان تمہارے  
لیے کشادہ ہے اور میرا کھانا تمہاری فراغت کے بعد ہوگا۔

يَا قَوْمِ تَتَنُوتُونَ إِنِّي أَخَذْتُ مِنْكُمْ وَ  
أَنَا أَرَاكُمْ لَا وَلَا كَرَامَةٍ رَأَيْتُمَا أَخَذْتُ  
مِنَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ لَا مِنْكُمْ بَلْ هُوَ  
مُنْفَعٌ عَلَيَّ أَيْدِيَكُمْ لَمَّا كُنْتُ  
مَعَكُمْ مَا كُنْتُ أَعْرِضُكُمْ فَلَمَّا خَرَجْتُ  
مِنْكُمْ عَرَفْتُكُمْ إِنِّي دَاخِرُ الْمُنَافِقِينَ  
وَحُبَّةُ الْعَارِفِينَ لَا أَضْرِبُ  
الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِقَطَا طَيْسٍ لَا يَقْضِي  
سِمَاطِي لَكُمْ وَأَكْلِي بَعْدَ فَرَاغِكُمْ

لِي نَوَالَةٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ لِي طَبَقٌ بَعْدَ  
خُرُوجِكُمْ مِّنْ صَاحِبِي الَّذِي أَنَا قَدَّامُهُ  
أَحْدِمُهُ أَمَا تَرَوْنَ يَا أَهْلَ الْبَصَائِرِ  
كَيْتِي مُشَمَّرًا وَوَسْطِي مُشْدَدًا سَأَلَ  
سَائِلٌ فَقَالَ رَسُولُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
إِلَى أَنْبِيَائِهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمِنْ  
رَسُولِهِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَقَالَ هُوَ رَسُولُهُ  
إِلَيْهِمْ رِبَاً وَاسْطَةً بِرَحْمَتِهِ وَ  
نُطْفَةٍ وَمِنْهُ وَإِنْهَا مِهْ وَنَظَرَاتِهِ  
إِلَى قُلُوبِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَتَحْتِنِهِ  
عَلَيْهِمْ يَرُونَهُ يَقْظَةً وَمَتَاعًا بِأَعْيُنِ  
قُلُوبِهِمْ وَصَفَاءِ أَسْرَارِهِمْ وَدَوَامِ  
يَقْظَتِهِمْ۔

يَا قَوْمِ إِنَّمَا يَقْطَعُكُمْ عَنْ مَعْرِفَةِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِهِ حُبُّكُمْ  
لِلدُّنْيَا وَحِرْصُكُمْ عَلَيْهَا حُبُّ التَّكْثِيرِ  
بِهَا وَمِنْهَا أَذْكُرُوا الْآخِرَةَ وَدَعَوْا  
الدُّنْيَا اللَّهُمَّ إِنَّ حُسْنَ الْكُرَمِ وَحُسْنَ  
الْجُودِ مِنْ صِفَاتِكَ وَنَحْنُ عَبْدُكَ  
فَاعْطِنَا ذِكْرًا مِنْهُمَا آمِينَ۔

میرے لیے نواہ تمہارے غیر سے ہے۔ میرے لیے  
طبیق تمہارے چلے جانے کے بعد اس میرے دوست  
کی طرف سے آتا ہے جس کے روبرو میں رہتا ہوں اور اس  
کی خدمت کرتا ہوں اسے اہل بصیرت کیا تم نہیں دیکھتے کہ  
میری آستین چڑھی راتی ہے اور میری کمر بندھی ہوئی راتی ہے  
کسی سائل نے آپ سے سوال کیا کہ خدا کا پیغام رساں  
انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جبریل علیہ السلام ہیں پس ادیاء اللہ  
کی طرف اس کا پیغام پہنچانے والا کون ہے ارشاد فرمایا ادیاء  
کی طرف وہ بلا واسطہ خود ہی پیغام رساں ہے وہ اس کی رحمت  
ولطف و احسان والہام اور اس کی توجہات مخصوصہ سے  
جو کہ وہ ادیاء کے قلوب و اسرار کی طرف رکھتا ہے اور  
اُن پر مہربانیاں فرماتا ہے خدا کو خواب و بیداری میں  
اپنے قلوب کی آنکھوں اور اپنے باطن کی صفائی اور ہر  
وقت کی بیداری سے برابر دیکھتے رہتے ہیں۔

اسے قوم تم کو تمہاری دنیا کی محبت اور اس پر حرص  
اور اس کی زیادتی و بڑھانے کی الفت خدا تعالیٰ اور اس  
کے ادیاء اللہ کی معرفت سے روکتی رہتی ہے۔ تم  
آخرت کو یاد کرو اور دنیا کو چھوڑ دو۔ اسے  
اللہ تحقیق حسن کرم و سخاوت تیری صفوں میں سے ہے  
اور ہم تیرے بندے ہیں پس تو ہم کو اُن دونوں میں سے  
ایک ذرہ عطا فرما دے آمین۔

## الجلس الرابع والخمسون

## چونویں مجلس

اس بیان میں کہ دنیا و آخرت دو قدم ہیں

دوہیں رمضان المبارک ۱۲۵۵ھ کو مدرسہ قادریہ میں صبح کے وقت بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا :

اسے غلام دو قدم میں اٹھیں تو نے اٹھایا اور پہنچا۔ ایک قدم دنیا سے اور دوسرا آخرت سے ایک قدم اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے۔ تو اس غلام کو چھوڑ دیتا تو باطن تک پہنچ جائے گا۔ ہر کام کے لیے ابتداء ہوتا ہے تو ابتداء کما تھا پر پہنچا دینا خدا کا کام ہے۔ تیرا کام شروع کرنا ہے اور اللہ کا کام آتھا پر پہنچانا توڑ کر دینا چھوڑے اور عمل کے دروازہ پر جا کر بیٹھ جائے گا کہ جب تجھے ڈھونڈا جائے تو تو کام لینے والے سے نزدیک ہو۔ تو تو اپنے بچھرنے پر لحاظ میں دبا ہوا پردوں قفلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے پھر عمل اور عمل کی طرف بلائے جائے کو طلب کر رہا ہے تو اپنے دل کو نصیحت سے قریب کر اور اس کو نیاست کا دن یاد دلا اور پورانی دوسرے قیروں پر نگاہ ڈال کر سوچ بچار کر۔ اس کو سوچ کر حق عزوجل تمام مخلوق کو نیاست کے دن کیسے جمع کرے گا اور اپنے رب بروان کو کیسے کھڑا کرے گا جب تو اس پر ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے گا تو تیرے دل کی قساوت دور ہو جائے گی۔ اور اس کی کدورت سے صفائی حاصل ہو جائے گی۔ جب عمارت بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ پائیدار و مضبوط رہتی ہے اور جس رقت وہ بنیاد پر نہیں بنائی ہے تو

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَكْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ عَاشِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ وَخَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بَعْدَ كَلَامٍ يَا غُلَامُ خُطُوتَانِ وَقَدْ وَصَلْتَ خُطْوَةً عَنِ الدُّنْيَا وَخُطْوَةً عَنِ الْآخِرَى خُطْوَةً عَنِ نَفْسِكَ وَخُطْوَةً عَنِ الْخَلْقِ اُنْتُزِعَ هَذَا الظَّاهِرَ وَقَدْ وَصَلْتَ إِلَى الْبَاطِنِ بَدَايَةِ نَهْيَايَةِ اسْتَبْدْعِي اَنْتَ وَالتَّمَامُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النِّهَايَةُ خُذِ الْمَرْوَ الزَّيْنِيلَ وَاَقْعُدْ عَلَى بَابِ الْعَمَلِ حَتَّى اِذَا اطْلُبْتَ تَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْتَعْمِلِ وَلَا تَقْعُدْ عَلَى فِرَاشِكَ وَتَحْتَ لِحَافِكَ وَمِنْ وَرَاءِ اَغْلَاقِ بَيْتِكَ تَطْلُبُ الْعَمَلَ وَالْاِسْتِعْمَالَ اَدْنَى قَلْبِكَ مِنَ الذِّكْرِ وَذِكْرُهُ يَوْمَ النُّشُورِ تَفَكَّرْ فِي الْقُبُورِ الدَّوَارِيسِ تَفَكَّرْ كَيْفَ يَحْشُرُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ وَيُقِيمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ اِذَا دُمَّتْ عَلَى هَذَا التَّفَكُّرِ اَلَّتْ قَسَاوَةُ قَلْبِكَ وَصَفَاءٌ مِنْ كَدِّ رَمَاهُ اِذَا كَانَ الْيَسَاءُ عَلَى اَسَاسٍ ثَبَتَ وَرَسَنَهُ وَاِذَا الْمَكِينُ عَلَى اَسَاسٍ

تَعَجَّلْ وَقُوعُهُ إِذَا بَنَيْتَ حَالَكَ عَلَى أَحْكَامِ  
الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ عَلَى  
تَقْضِيهِ وَإِذَا لَمْ تَبْنِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَثْبُتْ لَكَ حَالٌ  
وَلَا تَصِلَ إِلَى مَقَامٍ وَلَا تَزَالَ قُلُوبُ الصَّادِقِينَ  
تَمُوتُكَ وَتَتَمَتَّى أَنْ لَا تَرَكَ -

وَيَحِلُّكَ يَا جَاهِلُ الدِّينِ لِعَبِّ هُوَ  
تَبْيِيسٌ هُوَ لَا وَلَا كَرَامَةٌ لِقَفَاكَ  
يَا مُتَبَيِّسٌ قَدْ أَهَلَّتْ نَفْسُكَ لِلْكَلامِ  
عَلَى الْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيَّةٍ فَبِكَ إِثْمًا  
يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَادٍ مِنَ النَّاسِ أَفْرَادٍ  
مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْأَفْرَادِ لَخَرَسَ دُؤْبُهُمْ  
وَالْإِشَارَةُ لَهُمْ دُونَ الْكَلَامِ أَتَا دِءُ  
مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمَرُ بِالنُّطْقِ فَيَتَكَلَّمُ  
عَلَى الْخَلْقِ عَلَى الْكُرْهِ مِنْهُ بَعْدَ كَلَامِ  
يَصِيرُ الْخَبَرُ مَعَايِنَةً يَتَقَلَّبُ الْأَفْرَادُ إِضَافَةً  
إِلَى قَلْبِكَ وَصَفَاءِ سِرِّكَ وَلِهَذَا قَالَ  
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ  
تَعَالَى وَجْهَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ لَوْ كُشِفَ الْغُطَاءُ  
مَا أُرْدَدْتُ يَقِينًا وَقَالَ لَا أَعْبُدُ رَجُلًا  
كَمَا أَسَاكَ وَقَالَ أَسَا أُنِي قَلْبِي رَبِّي يَا  
جُهَّالُ خَالِطُوا الْعُلَمَاءَ وَاخْذِ مِنْهُمْ  
وَتَعَلَّمُوا مِنْهُمْ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ مِنْ أَفْوَاهِ  
الرِّجَالِ جَالِسُوا الْعُلَمَاءَ بِحُسْنِ  
الْأَدَبِ وَتَمَزَّكُ الْإِعْتِزَالُ عَنْ عُلَمَائِهِمْ وَطَلَبِ  
الْفَائِدَةِ مِنْهُمْ كَيْتَا لَكُمْ مِنْ عُلُومِهِمْ وَتَعَوُّدُ

وہ جلد کرنے کے قابل ہوتی ہے جب تو اپنے حال کی عمارت  
کو حکم ظاہر پر تعمیر کرے گا کوئی مخلوق میں سے اُس کے توڑ ڈالنے  
پر قابو نہ پائے گا اور جب اُس کی تعمیر ایسی نہ ہوگی تو تیرا حال ثابت  
نہ رہے گا اور نہ تو کسی مرتبہ پر پہنچ سکے گا۔ اور صدیقین کے قلوب  
ہمیشہ تجھ پر غصہ کرتے رہیں گے اور اُرزو کریں گے کہ وہ تجھے  
نہ دیکھیں۔ اسے جاہل تیرے اوپر انسو لیا دین کھیل کود  
اور مکاری ہے کیا وہ کھیل ہے نہیں نہیں۔ اس میں تیرے  
بھکنے سے تیری گردن کو کوئی عزت نہیں اسے مکاری تو نے  
اپنے نفس کو بغیر اہلیت کے مخلوق سے وعظ کہنے کا اہل سمجھ  
لیا ہے۔ یہ اہلیت تو صالحین میں سے بھی آگاہوں کو لوگوں کو ہی  
ہوتی ہے۔ ورنہ اُن کا طریقہ تو گونا گوارہنا اور اشارہ سے  
بات کرنا ہے نہ کہ بولنا۔ ان میں سے وہ نادر ہے جس کو بولنے  
کا حکم دیا جاتا ہے پس وہ مجبوراً اگرانی خاطر کے ساتھ مخلوق کو  
وعظ کرنے لگتا ہے۔ بعد کچھ کلام کے فرمایا خیر معاشرہ بن جاتی  
ہے باعتبار تیرے نسبت قلب اور صفائی باطن کے امر  
مقتلب ہو جاتا ہے اور اسی واسطے حضرت امیر المومنین علی  
ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر پردہ  
اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی اور نیز فرمایا  
میں جب تک اُس کو دیکھ نہیں لیتا، توں رب تعالیٰ کی  
عبادت نہیں کرتا، توں۔ نیز فرمایا میرے قلب نے میرے  
رب کو مجھے دکھا دیا ہے۔ اسے جاہلوں، عالموں سے ملو  
اور اُن کی خدمت کرو اُن سے علم حاصل کرو علم مردوں کے منہ پر  
ہی سے حاصل کیا جاتا ہے تم علماء کی صحبت میں حسنِ ادب  
کے ساتھ اور اُن پر اعتراض چھوڑ کر اور اُن سے فائدہ لینے کے  
لیے بیٹھا کرو تا کہ تم کو اُن کے علموں سے فائدہ ملے اور اُن کی

عَلَيْكُمْ بَرَكَاتُهُمْ وَتَشْمِكُمْ قَوَائِدُهُمْ  
وَجَالِسُوا الْعَارِفِينَ بِالصَّمْتِ وَجَالِسُوا  
الزَّاهِدِينَ بِالرَّعْبَةِ فِيهِمُ الْعَارِفُ هُوَ  
فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مِمَّا كَانَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا رَفِيَ  
كُلُّ سَاعَةٍ يَتَجَدَّدُ خُشُوعُهُ لِرَبِّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَذَلِكَ لَهُ يَخْشَعُ مِنْ حَاضِرٍ لَا  
مِنْ غَائِبٍ زِيَادَةُ خُشُوعِهِ عَلَى قَدَرِ  
زِيَادَةِ قُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
زِيَادَةُ خَرَسِهِ عَلَى قَدَرِ زِيَادَةِ  
مُشَاهَدَةِ هِدَايَتِهِ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ  
جَلَّ خَرَسَ لِسَانُ نَفْسِهِ وَطَبَعُهُ وَ  
هَوَاهُ وَعَادَتُهُ وَوُجُودُهُ أَمَّا  
لِسَانُ قَلْبِهِ وَسِرِّهِ وَحَالِهِ وَمَقَامِهِ  
عَظَائِهِ فَيَنْطِقُ بِأَطْهَارِ التَّعْبِيدِ الَّتِي عِنْدَهُ فَلِهَذَا  
يَجَالِسُونَ بِالصَّمْتِ لِيَنْتَفِعُوا بِهِمْ وَيَشْرَبُوا  
مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي يَنْضَمُّ مِنْ قُلُوبِهِمْ  
مَنْ أَكْثَرُونَ مُخَالَطَةَ الْعَارِفِينَ يَا اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ عَرَفَ نَفْسَهُ ذَلَّ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلِهَذَا إِذْ قِيلَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ هِيَ  
الْحِجَابُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ  
عَرَفَ نَفْسَهُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
وَلِخَلْقِهِ إِذَا عَرَفَهَا حَذَرَهَا وَاسْتَغْلَلَ  
بِشُكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَعْرِفَتِهَا وَعَلِمَ  
أَنَّهُ مَا عَرَفَهَا إِلَّا هَا أَلَا وَهُوَ يُبْدِلُهُ الْخَيْرَ دُونَهَا

برکتیں تمہاری طرف عود کریں اور اُن کے فائدے تمہیں شامل  
ہوں۔ اور تم عارفین کی صحبت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو اور  
زاہدین کے پاس رغبت کے ساتھ عارف کا قرب ہر ساعت  
میں برنبت پہلی ساعت کے بڑھتا رہتا ہے ہر ساعت میں اُس  
کا خشوع و خضوع رب عزوجل کے ساتھ جدید و تازہ ہوتا رہتا ہے  
وہ حاضر سے دُرتا رہتا ہے و ک غائب سے جس قدر اُس کے  
قرب میں زیادتی ہوتی جاتی ہے اُتنا ہی اُس کا خشوع بڑھتا رہتا  
ہے جس قدر اُس کے مشاہدہ میں ترقی ہوتی ہے اُتنا ہی اُس کا گونگا  
پن زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اُس کے  
نفس و طبیعت اور خواہش اور عادت و وجود کی زبان ستر پانچ گونگی  
ہو جاتی ہے لیکن اُس کے قلب و باطن اور حال و مقام اور عطا و  
بخشش کی زبان پس گویا ہو جاتی ہے وہ اس سے انعام الہی  
کو جو اُس کو عطا ہوا ہے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ پس اسی واسطے  
اُن کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھا جائے تاکہ اُن سے نفع حاصل  
کیا جائے اور اُس شراب وحدت سے جو اُن کے سینوں سے  
جوش مارے پیا جائے جو کوئی عارف باللہ لوگوں کے پاس دیدار  
اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور رب تعالیٰ  
کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے جو کوئی  
اپنے نفس سے واقف ہو گیا پس تحقیق اُس نے اپنے رب  
عزوجل کو پہچان لیا۔ نفس ہی بندہ اور اُس کے رب کے درمیان  
میں ایک بڑا حجاب ہے جو اپنے نفس سے واقف ہو جائے  
گا وہ اللہ اور اُس کی مخلوق کے واسطے تواضع کرنے لگے گا۔  
جب وہ نفس سے واقف ہو جائے گا اس سے بچنے لگے گا اور  
اُس واقفیت پر خدا کے شکر میں مشغول ہو جائے گا اور یہ جان  
لے گا کہ اس کی معرفت کرا دینے میں رب تعالیٰ نے اُس کے لیے

وَآخِرُهُ قَظَاهُ كَمَا مَشْغُولٌ بِشُكْرِهِ وَبَاطِنُهُ  
مَشْغُولٌ بِحَمْدِهِ ظَاهِرُهُ مُتَعَرِّفٌ وَبَاطِنُهُ  
مُجْتَمِعٌ فَرَحُهُ فِي بَاطِنِهِ وَحُزْنُهُ فِي  
ظَاهِرِهِ سِتْرًا لِلْحَالِ وَالْعَارِفُ عَلَى الْعَكْسِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ حُزْنَهُ فِي قَلْبِهِ وَبَشَرُهُ  
فِي وَجْهِهِ هُوَ عَلِيمٌ وَآقِفٌ عَلَى الْبَابِ  
لَا يَدْرِي مَا يَرَاؤُهُ هَلْ يَقْبَلُ أَوْ يَرُدُّ  
هَلْ يَفْتَحُ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يَدْوُمُ  
غَلْقُهُ فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ الْمُؤْمِنُ  
صَاحِبُ مَقَامٍ وَ الْمَقَامُ ثَابِتُ الْمُؤْمِنِ خَائِفٌ  
مِنَ انْتِقَالِ حَالِهِ وَتَوَالٍ إِيْمَانِهِ فُحْزْنُهُ  
دَائِمٌ فِي قَلْبِهِ وَبَشَرُهُ دَائِمٌ فِي وَجْهِهِ  
سَائِرُ لَحْزْنِهِ تَكَلُّمُهُ يَتَبَسَّمُ فِي وَجْهِهِ  
وَقَلْبُهُ يَتَقَطَعُ بِحُزْنِهِ وَالْعَارِفُ حُزْنَهُ  
فِي وَجْهِهِ لَا تَنَالُهُ يَلْقَى الْخَلْقَ بِوَجْهِهِ التَّذَاوُرِ  
يُحَدِّثُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ بِنْيَابَةٍ  
عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ الْقَوْمُ عَمِلُوا بِمَا سَمِعُوا أَفْقَرًا بِهِمْ  
الْعَمَلُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي عَمِلُوا  
لَهُ فَسَمِعُوا مَوَاعِظَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةِ  
بِاسْمَاعٍ فَتَوَلَّوْهُمْ ذَٰلِكَ عِنْدَ الْغَيْبَةِ  
وَالنُّومَةِ عَنِ الْخَلْقِ وَالْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ  
بِالْخَالِقِ إِذَا صَبَّ قَلْبُكَ كُنْتَ أَبَدًا فِي غَيْبَةٍ  
عَنِ الْخَلْقِ وَنَوْمَةٍ عَنْهُمْ وَيَقْظِيهِ بِالْخَالِقِ

دُنیا و آخرت کی بہتری چاہی ہے۔ پس اس بندہ کا ظاہر اس کے  
شکر میں مشغول ہو گا اور اس کا باطن حمد الہی میں اس کا ظاہر پر اللہ ہو گا اور باطن متقین اس کی سمرت  
باطن میں ہوگی اور غم ظاہر میں حال چھپا رہے عارف کا حال مومن کے  
برعکس ہوتا ہے کیوں کہ اس کا غم قلب میں ہوتا ہے اور سمرت  
چہرہ پر۔ وہ تو ایک ادنیٰ غلام ہے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے یہ بھی  
نہیں جانتا کہ اس سے مقصود کیا ہے آیا مقبول کیا جائے گا یا نواہی  
جائے گا یا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا یا ہمیشہ بند ہی رہے  
گا۔ پس جو اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس مومن سے  
تمام حالتوں میں برعکس ہو جاتا ہے۔ مومن صاحب حال ہوتا ہے  
اور حال الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور عارف صاحب مقام ہوتا  
ہے اور مقام ثابت رہتا ہے مومن اپنے حال کے منتقل ہونے  
اور ایمان کے چلے جانے سے ہر وقت خائف رہتا ہے پس  
ہمیشہ اس کا قلب تلکین رہتا ہے اور وہ چہرہ پر غم چھپانے کے  
لیے خوشی ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس کا کلام تیرے ساتھ ہم  
کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا قلب غم کی وجہ سے ٹوٹے ٹوٹے  
ہوتا رہتا ہے۔ برخلاف عارف کے کہ اس کا غم چہرہ پر ہوتا  
ہے کیوں کہ وہ خلق سے ڈرانے والے چہرہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے  
اور ان کو ڈراتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کی نیابت میں ان کو شرعی احکام و شرعی منوعات بتاتا رہتا ہے  
اولیاء اللہ نے سُننے پر عمل کیا پس ان کے عمل نے ان کو حق عزوجل  
سے قریب کر دیا انھوں نے اللہ کے واسطے عمل کیا پس بلا واسطہ  
خدا کے وعظ اپنے قلب کے کانوں سے ایسی حالت میں کہ  
مخلوق غائب اور سونے والی تھی اور یہ خالق کی حضوری میں بیدار  
تھے۔ یعنی جب تیرا قلب صحیح و درست ہو جائے گا تو تو ہمیشہ  
خلق سے غائب اور بے خبر اور خالق سے باخبر ہو کر بیدار رہے گا

جلوت میں بھی تو غلط نشین ہی ہو گا اور ہمیشہ حق عزوجل کے  
واردات کرم اور اس کی حکمت تیسرے باطن پر نازل ہوتی ہے  
گی اور تیسرا باطن اس کو قلب پر ظاہر کرتا رہے گا۔ اور قلب  
نفس مطمئنہ پر اور نفس مطمئنہ زبان پر اور زبان اس کو مخلوق پر ظاہر  
کر دے گی جو مخلوق سے اس حالت سے کلام کرے وعظ  
کے ور نہ ہرگز کلام وعظ نہ کرے۔ اولیاء اللہ کا جنون مشہور  
ہے وہ طبعی عادتوں کا نفسانی خواہشوں کے فعلوں کا چھوڑ دینا اور  
لذتوں اور شہوتوں سے اندھا ہو جانا ہے نہ یہ کہ ان کو ایسا جنون  
ہو جاتا ہے جیسا کہ مجنونوں کو جن کی عقلیں جاتی رہتی ہیں، ہوتا ہے۔  
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر تم اولیاء اللہ کو دیکھو  
البتہ کہہ دو کہ یہ مجنون ہیں اور اگر وہ تم کو دیکھیں تو البتہ کہیں کہ یہ لوگ  
ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ تیسری خلوت  
صحیح و درست ہی نہیں ہوتی کیوں کہ خلوت تو اسے کہتے ہیں کہ انسان  
قلبی حیثیت سے تمام چیزوں سے برہنہ ہو جائے۔ تیسرا باطن  
کلیدِ خالی ہو جائے محض برہنہ بغیر دنیا و بلا آخرت اور بغیر  
ماسوے اللہ کے ہو جاوے اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی  
نہ رہے اور یہی راستہ اگلے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا اور  
اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کا رہا ہے۔ میرے نزدیک ہزار  
عابدوں سے جو کہ خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے  
والے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ پسندیدہ ہے۔  
تو اپنے نفس کی نظر کو نیچا کر لے اور اس کو کم  
کر لے تاکہ وہ نظر ملاکت نفس کا سبب نہ بن جائے مگر جب کہ  
نفس قلب و باطن کا تابع ہو کر مغلجہ ان کے تابع اور عادموں  
کے بن جائے کوئی رائے نفس کی دونوں کے خلاف نہ کہے  
اور نفس ان دونوں کے ساتھ متحد ہو جائے نفس اور ان

فَلَا تَزَالُ فِي الْخُلُوعِ وَأَنْتَ فِي الْجُبُوعِ فَلَا تَزَالُ  
مَوَارِدُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَحِكْمَتُهُ تَرِدُ عَلَيْكَ عَلَى السِّرِّ  
وَالسُّرِّيِّ عَلَى الْقَلْبِ وَالْقَلْبِ يُمِيلُ  
عَلَى النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ وَالنَّفْسِ تُمِيلُ عَلَى  
اللِّسَانِ وَاللِّسَانُ يُمِيلُ عَلَى الْخَلْقِ مَنْ تَكَلَّمَ  
عَلَى الْخَلْقِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَإِلَّا فَلَا يَتَكَلَّمُ  
جُنُونُ الْقَوْمِ تَرَكُوا الْعَادَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَ  
الْأَفْعَالِ النَّفْسِيَّةِ الْهَوَايَةِ وَالْتَعَايِ عَيْنِ  
الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ لَا تَنْفَعُ جُنُونُ الْجُنُونِ  
الْمَجْرَانِينَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ عَقُولُهُمْ قَالَ الْحَسَنُ  
الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ دَانِيَمُوهُمْ لَقَلَّمُ  
مَجَانِينَ وَلَوْ رَأَوْهُمْ لَفَتُوا مَا آمَنُوا هُوَ لَاءِ  
بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرَفَهُ عَيْنِ خُلُوتِكَ مَا صَحَّتْ  
لَاَنَّ الْخُلُوعَ عِبَارَةً عَنِ التَّعَرُّي مِنْ حَيْثُ  
الْقَلْبُ عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ يَتَعَرَّى بِأُطْنُكِ  
فَيَكُونُ مَتَجَرِّدًا إِيْلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةً وَلَا مَا  
سَرَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا هُوَ  
جَادَّةٌ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَالْأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ إِلَّا مَرِيًّا لِمَعْرُوفٍ وَ  
الَّذِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَلْفِ  
عَابِدٍ فِي الصَّوَامِ نَظَرَ النَّفْسِ أَغْبَضَهُ  
وَقَصْرُهُ وَمَرَدَّةٌ حَتَّى لَا يَكُونَ نَظَرُهَا  
سَبَبًا لِهَلَاكِهَا إِلَّا أَنْ تَصِيرَ تَابِعَةً  
لِلْقَلْبِ وَالسِّرِّ مِنْ جُمْلَةٍ أَتْبَاعِهَا لَا تَخْرُجُ  
لَهَا عَنْ رَأْيٍ وَتَتَّخِذُ مَعَهَا فَلَا يَكُونُ

بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا حَرْقٌ تَأْمُرُ بِمَا يَأْمُرُ  
 بِهِ وَتَنْهَى عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ وَيَخْتَارُ  
 مَا يَخْتَارُ أَيْنَهُ وَحِينَئِذٍ تَصِيرُ نَفْسًا  
 مُطِئَةً فَيَتَوَافَقُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ  
 وَمَقْصُودٍ وَاحِدٍ إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ  
 إِلَى هَذَا الْحَالِ اسْتَحَقَّتِ التَّقْصِيرَ  
 مِنْ مُجَاهِدَتِهَا لَا تُنَازِلُ الْحَقَّ عِزًّا  
 وَجَلًّا فِيمَا يَفْعَلُ فِيكَ وَفِي الْخَلْقِ  
 أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا  
 يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ هُ  
 آيَنَ مُتَابِعَةُ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا مِنْكَ  
 إِنْ لَمْ تُحْسِنِ الْأَدَبَ وَإِلَّا أُخْرِجَتْ  
 مِنَ الدَّارِ مُهَانًا وَإِنْ أَحْسَنْتِ  
 الْأَدَبَ وَوَافَقْتَ أَقْعَدْتَ وَأَكْرَمْتَ الْحَبِيبَ  
 لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَيْفٌ عِنْدَكَ وَالضَّيْفُ لَا  
 يَتَخَيَّرُ عَلَى أَصْحَابِ الدَّارِ مَا كُؤِلَ وَ  
 مَشْرُوبَهُ وَمَلْبُوسِهِ وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِ  
 بَلْ لَا يَزَالُ مُوَافِقًا صَابِرًا رَاضِيًا فَلَا جَرَمَ  
 يُقَالُ لَهُ ابْشُرْ بِمَا تَرَى وَتَكْفَى مَنْ عَرَفَ  
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَابَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ  
 وَمَا سِوَى الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا عَنْ قَلْبِهِ  
 يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ كَلَامُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 جَلًّا وَإِلَّا فَالْخَرَسُ أَحَبُّ إِلَيْكَ لِتَكُنْ  
 حَيًّا نَكَّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا فَالْمَوْتُ  
 أَحَبُّ إِلَيْكَ أَلَا هَذَا أَحْيَا فِي طَاعَتِكَ وَاحْتِرَامِ

دونوں کے درمیان میں فرق نہ رہے جس کا یہ دونوں حکم دیں  
 نفس بھی وہی حکم دے جس سے یہ منع کریں نفس بھی اسی سے  
 منع کرے اور جس کو یہ دونوں پسند کریں نفس بھی اسی کو پسند کرے  
 پس ایسی حالت میں نفس مطیع بن جائے گا اور تینوں کی طلب  
 اور مقصود ایک ہی ہو جائے گا۔ جب نفس اس حالت پر پہنچ جائے  
 گا اپنے مجاہدوں میں کمی کر دینے کا مستحق بن جائے گا تیرے  
 ساتھ اور مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی خدا نے تعالیٰ معاملہ کرے  
 اس میں تو خدا سے منافی نہ کرے تو نے اللہ عزوجل کا قول  
 نہیں سنا لایسال الا یہ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے اس میں اُس  
 سے پوچھ گچھ نہیں اور مخلوق سے پوچھ گچھ کی جائے گی اگر تو نے  
 حسن ادب کا برتاؤ نہ کیا تو تیری تابعداری خدا کے لیے کب  
 صحیح ہوگی بغیر برتاؤ حسن ادب کے تجھے ذلیل کر کے گھر سے  
 نکال دیا جائے گا اور اگر تو حسن ادب کرے گا اور تقدیر کے  
 ساتھ موافقت کرے گا تجھے عزت کے ساتھ بٹھایا جائے  
 گا اللہ کا محبوب خدا کا مہمان ہے اور مہمان اپنے کھانے اور پینے  
 اور لباس میں اور اپنی تمام حالتوں میں گھر والوں پر اپنا اختیار نہیں  
 چلاتا ہے خود مختار نہیں بنتا ہے بلکہ ہمیشہ اُن سے راضی موافقت  
 کرنے والا صابر بن رہتا ہے پس ایسی حالت میں اس سے  
 یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اور پاتا ہے اُس سے  
 خوش رہ جو کہ اللہ عزوجل کو پہچان لیتا ہے اُس کے قلب سے  
 دنیا و آخرت اور اس سے اللہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔  
 تیرے اوپر واجب ہے کہ تیری گفتگو اللہ عزوجل ہی کے لیے  
 ہو ورنہ سکوت تجھے پسند نہ آتا چاہیے۔ تیری زندگی اللہ عزوجل  
 کی اطاعت میں ہی ہو ورنہ تجھے موت محبوب ہوئی چاہیے  
 اسے اللہ تو تم کو اپنی اطاعت میں زندہ رکھنا اور اپنے تابعداروں

أَهْل طَاعَتِكَ أَمِينٌ (وَقَالَ رَحِمَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ) الْمُؤْمِنُ هَا جَرَّ لِنَفْسِهِ يَصْحَبُ شَيْخًا يُؤَدِّبُهُ وَيُعَلِّمُهُ لَا يَزَالُ فِي التَّعْلِيمِ مِنْ حَالٍ صَغِيرَةٍ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فِي أَذَلِّ حَالِهِ الْمَقَرَّرِ يُحْفِظُهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي ثَانِي حَالِهِ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ ذَلِكَ التَّوْفِيقَ مُلَازِمٌ لَهُ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ فَيَقَرُّ بِهِ الْعَمَلُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا مَالَهُ يَعْلَمُ يُعَلِّمُ الْقَلْبَ عَلَى قَدَمِيهِ وَالْإِخْلَاصَ يُقَرِّبُ مِنْهُ خَطَاهُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا عَمِلْتَ وَمَا آيَتْ أَنْ قَلْبُكَ لَا يَدْنُو مِنْ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجِدُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ وَالْأُنْسَ فَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَامِلٍ وَأَنَّكَ مَحْجُوبٌ لِأَجْلِ الْخَلَلِ الَّذِي فِي عَمَلِكَ مَاذَا! الرِّيَاءُ وَالنِّفَاقُ وَالْعُجْبُ يَا عَامِلُ عَلَيْكَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْأَفْلا تَتَعَبُ عَلَيْكَ بِالْمُرَاقَبَةِ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخُلُوةِ وَالْجَلُوتَةِ الْمُرَاقَبَةِ فِي الْجَلُوتَةِ لِلْمُنَافِقِينَ وَفِي الْجَلُوتَةِ وَالْخُلُوةِ لِلْمُخْلِصِينَ.

وَرَحَكَ إِذَا رَأَيْتَ مُسْتَحْسِنًا أَوْ مُسْتَحْسَنَةً فَعِدْ مِنْ عَيْنِكَ وَعَيْنِي نَفْسِكَ وَهَوَاكَ طَبِيعَكَ وَادْكُرْ نَظَرَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ وَاقْدُرْ مَا تَكُونُ فِي شَأْنِ الْآلِيَةِ

کے ساتھ میں ہمارا شکر کرنا! میں نے اپنے نفس کو چھوڑنے ہوئے شیخ کامل کی خدمت میں رہتا ہے وہ اُس کو ادب سکھاتا اور تعلیم دینا رہتا ہے۔ وہ بچپن کے شروع سے موت کے وقت تک ہمیشہ علم سکھنے ہی میں رہتا ہے ابتدائی حالت میں حافظ اُس کو قرآن مجید پڑھاتا حفظ کراتا ہے بعدہ دوبارہ دوسری حالت میں اُس کو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کی تعلیم دینا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ توفیق خیر اُس کے لازم رہتی ہے وہ علم پر عمل کرتا رہتا ہے پس اُس کا عمل اُس کو حق تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ عزوجل اُس کو ایسے علم کا جو کہ اس کو معلوم نہیں ہے وارث بنا دے گا جو کہ اس کے قلب کو قدموں کے بل کھڑا کر دے گا اور اخلاص اس کے قدموں کو حق عزوجل سے قریب کر دے گا۔ جب تو عمل کرے اور اپنے قلب کو تو حق عزوجل سے نزدیک نہ دیکھے اور عبادت و انس کی شیرینی تجھے حاصل نہ ہو پس تجھے جانا چاہیئے کہ تحقیق تو عامل نہیں ہے بلکہ تو کسی ایسے عمل کی وجہ سے جو کہ تیرے عمل میں ہے محبوب ہے وہ عمل کیا ہے ریا۔ نفاق اور خود پسندی۔ اس عمل کرنے والے تو اخلاص کو لازم پکڑو ورنہ تو اپنے آپ کو شقت میں نہ ڈال تو حق عزوجل کے یہ غلوت و جلوت میں مراقبہ کو لازم پکڑ جلوت میں مراقبہ کرنا منافقین کا طریقہ ہے اور جلوت و خلوت دونوں میں مراقبہ کرنا اخلاص والوں کا طریقہ ہے۔

تجھ پر افسوس ہے جب تو کسی حسین مرد یا حسین عورت کو دیکھے پس تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت کی آنکھ کو بند کرے اور خدا کی نظر جو کہ تیری طرف پیا د کر اور آئہ کریمہ و مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ آخر تک پڑھ (جس کا مطلب یہ ہے

إِحْدَ دَمِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَضِصَ عَيْنَيْكَ  
عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمِ وَإِذْ كُرْ نَظَرَ مَنْ لَا  
تُبْرَحُ مِنْ تَنْظِرِهِ وَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ تُنَاطِرِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ تُنَازِعْهُ تَدَّتْ عُيُودُ يَتِّكَ  
لَهُ وَصِرَتْ عَبْدًا أَحَقًّا وَتَدَخَّلُ فِي رُمُورِهِ  
مَنْ قَالَ فِي حَقِّهِمْ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ  
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ إِذَا تَحَقَّقَ شُكْرُكَ لِلَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ أَلْهَمَ قُلُوبَ الْخَلْقِ وَأَلْسِنَتَهُمْ  
بِالشُّكْرِ لَكَ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْكَ وَحَيْثُ دَخَلَ  
طَرِيقُ لِلشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ عَلَيْكَ تَرَكُ  
الدُّعَاءَ عَزِيزِيَّةً ۚ وَالْإِسْتِغَاثَ بِهِ مُخَصَّصَةً  
الدُّعَاءَ نَفْسُ لِلْغَرِيقِ وَرَدُّ مَنَافِعَهُ لِلْمُحِبِّينَ  
إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الْقَرَارُ مِنَ الْحَبْسِ وَاللُّحُولِ  
عَلَى أَلْيَدِكَ كُونُوا عُقَدَاءَ أَنْتُمْ مَا تُحْسِنُونَ  
تَتَرَكُونَ الدُّعَاءَ وَلَا تُحْسِنُونَ تَدْعُونَ  
مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَعَقْلِ  
وَعِلْمٍ وَارْتِبَاعٍ لِمَنْ يَعْرِفُ أَنْتُمْ مَا  
تَعْقِلُونَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عِنْدَ  
عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَلِهَذَا أَسَأْتُمْ ظَنُّوْكُمْ  
فِيهِمْ لَا تُخَاطِرُوا بِرُؤْسِ أَدْيَانِكُمْ وَ  
أَحْوَالِكُمْ مَعَهُمْ لَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ  
تَصَادِيقِهِمْ إِذَا لَمْ يَعْتَرِضَنَّ الشَّرُّ عَلَيْهِمْ  
لَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ هُمْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَ  
الْبَاطِنِ مَا يَسْكُنُ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْخَوَافِ

کہ تو کبھی شان میں بھی ہو تیرا رب تجھ کو دیکھتا ہے تو حق عزوجل  
سے ڈرا اور اپنی آنکھوں کو لازم طور پر حرام چیز پر نظر ڈالنے سے بچھکا  
لے اور اس کو یاد کر جس کی نظر و علم سے تو کبھی جدا نہیں ہو سکتا  
ہے جب تو حق تعالیٰ سے مناظرہ و جھگڑا کرنا ترک کر دے گا۔  
تیر ہی بندگی اس کے لیے پوری ہو جائے گی اور تو اس کا سچا  
بندہ بن جائے گا اور اس گروہ میں داخل ہو جائے گا جن کے  
حق میں فرمایا گیا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي الْأَيُّهُ اسے شیطان  
میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں جب نیزا شکر کرنا خدا  
کے لیے متحقق ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ مخلوق کے قلوب  
اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری و دوستی کا الہام کر دے گا  
پس اس وقت میں شیطان اور اس کے مددگاروں کو تیرے اوپر  
کوئی راستہ نہ رہے گا۔ دعا کا چھوڑ دینا عزیمت (بڑا درجہ)  
ہے اور اس میں مشغول ہونے کی اجازت ہے دعا کرنا ڈوبتے کا  
سہارا ہے اور قیدی کا روشن دان یہاں تک کہ وہ قید سے رہائی  
پالے اور اس کو بادشاہ کی حضوری حاصل ہو جائے تم عقلمند بنو۔  
تم تو نہ اچھے طور سے دعا کا چھوڑنا جانتے ہو اور نہ دعا کا کرنا۔  
کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کرنیت اور عقل اور علم کی محتاج نہ  
ہو نیز اس کی پیروی کی جس کا کہ پہچاننا لازم ہے۔ تم ہی نہیں سمجھتے  
کہ خدا کے نیک بندوں کے پاس کیا کیا ہے اور اسی وجہ سے  
ان کے بارہ میں تمہارے بُرے خیالات ہیں۔ تم اپنے  
دین اور حالتوں کے سروں کو ان کے ساتھ الجھ کر خطرہ  
میں نہ ڈالو تم ان کے تمام تصرفات میں ان پر کسی قسم کا اعتراض  
نہ کرو جب ان پر شرع مقدس اعتراض نہ کرے تم بھی ان پر  
اعتراض نہ کرو۔ وہ بحیثیت ظاہر و باطن کے خداوند عزوجل کی  
حضوری میں رہتے ہیں ان کے قلب کو خود سے جب تک کہ خدا

حَتَّىٰ تُبَيِّنَ وَيُضْمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ تَعَالَوْا يَا  
 عِبَادَ اللَّهِ عَتَرُ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ وَيَا ذَهَادَهَا تَعَالَوْا  
 شَيْئًا مَا عِنْدَكُمْ مِنْهُ خَيْرٌ أَدْخُلُوا كِتَابِي حَتَّىٰ  
 أَعْلِمَكُمْ شَيْئًا لَا تَجِدُونَ عِنْدَكُمْ لِلْقُلُوبِ  
 كِتَابٌ وَلَا سِرَّ أَرَكِتَابٌ وَلِلْفُتُوسِ كِتَابٌ  
 وَلِلْجَوَارِحِ كِتَابٌ هِيَ دَرَجَاتٌ وَمَقَامَاتٌ  
 وَأَقْدَامٌ مَعْدُودَةٌ الْقَدَمُ الْأَوَّلُ مَا  
 صَحَّ لَكَ كَيْفَ نَصَلَ إِلَى الشَّانِ الْإِسْلَامِ  
 مَا صَحَّ لَكَ فَكَيْفَ نَصَلَ إِلَى الْإِيمَانِ الْإِيمَانُ  
 مَا صَحَّ لَكَ فَكَيْفَ نَصَلَ إِلَى الْإِيْقَانِ الْإِيْقَانُ  
 مَا صَحَّ لَكَ فَكَيْفَ نَصَلَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَ  
 الْوَلَايَةِ كُنْ عَاقِلًا مَا أَنْتَ عَلَى شَيْءٍ كُلِّ  
 مِنْكُمْ يُطَلَّبُ الرِّيَاسَةُ عَلَى الْخَلْقِ بِإِلَهِ  
 فِيهِ إِتِمَاتًا تَصِفُ الرِّيَاسَةُ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ  
 الزُّهْدِ فِيهِمْ وَفِي الدُّنْيَا وَالنَّفْسِ وَالْهَوَىٰ  
 وَالصَّبْرِ وَالْإِرَادَةِ الرِّيَاسَةُ مِنَ السَّمَاءِ  
 تَنْزِلُ مِنَ الْأَرْضِ الْوَلَايَةُ مِنَ الْحَقِّ  
 عَتَرُ وَجَلَّ لَا مِنْ الْخَلْقِ كُنْ أَبَدًا  
 تَابِعًا لَا مُتَبَوِّعًا صَاحِبًا لَا مَصْحُوبًا أَرْضِ  
 بِالذِّلِّ وَالْخُضُوعِ فَإِنْ كَانَ لَكَ عِنْدَ  
 الْحَقِّ عَتَرُ وَجَلَّ صَدُّ ذَلِكَ فَهُوَ حَيْثُكَ  
 فِي وَقْتِهِ عَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّغْوِيضِ  
 وَتَرْكِ حَوْلِكَ وَهُوَ تَيْكَ وَاعْتِزَّ بِكَ  
 وَشَرِّكَ بِالْخَلْقِ وَبِنَفْسِكَ  
 عَلَيْكَ بِصِحَّةِ الْعُبُودِيَّةِ وَهِيَ إِمْتِثَالُ

کی طرف سے تسکین نہ دی جائے اور ان کی سلامتی کی ضمانت نہ  
 مل جائے بے قراری رہتی ہے۔ اسے تمام روئے زمین  
 پر رہنے والے بندو اور زایدو اور وہ چیزیکھو جس کی تمہیں  
 کچھ خبر نہیں تم میرے مکتب میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تم کو  
 ایسی تعلیم دوں جس سے تمہارے دل خالی ہیں دلوں کا مکتب  
 جدا ہے اور باطن کا مکتب جدا اور نفوس کا علیحدہ اور اعضاء  
 کا علیحدہ ان کے لئے علیحدہ علیحدہ چند درجہ اور مقام اور قدم  
 ہیں۔ ابھی تو تیرا پہلا ہی قدم درست نہیں ہوا ہے دوسرے  
 قدم تک تو کیسے پہنچے گا۔ تیرا اسلام ہی درست نہیں ہوا ہے  
 تو ایمان تک کیسے پہنچے گا۔ تیرا ایمان ہی درست نہیں ہوا ہے  
 تو ایقان تک کیسے پہنچے گا۔ تیرا ایقان ہی درست نہیں ہوا ہے  
 تو معرفت و ولایت تک کیسے پہنچے گا۔ تو غفلت مند۔ تو کچھ بھی  
 نہیں ہے۔ تم میں سے ہر ایک بغیر سامان و اسباب کے مخلوق  
 پر حکومت و سرداری کا طالب بنا ہوا ہے مخلوق پر حکومت و  
 ریاست جب ملتی ہے جب کہ ان میں دنیا و نفس و خواہش و طبعیت  
 ارادہ میں بے رغبتی ہو تو پہلے زاہد بن پھر حکومت ملے گی۔ ریاست  
 حکومت آسمان سے اتر کر قی ہے ذکر زمین سے ولایت حق  
 عزوجل کی طرف سے مل کر قی ہے نہ کہ مخلوق کی جانب سے  
 تو ہمیشہ تابعدار اور سناٹھی بنارہ نہ کہ متبوع و مصحوب (مقتدا و امام)  
 تجھے ذلت و گمنامی پر راضی رہنا چاہیے اگر علم الہی میں تیرے  
 لئے اس کی ضد مقدار ہوئی ہے پس وہ اپنے وقت پر یقیناً  
 جائے گی۔ تو اپنے کو خدا کے حوالہ و سپرد کر دے اور اپنی  
 طاقت و قوت کو چھوڑ دے اور تیرا کوئی اعتراض خدا پر نہ  
 ہو اور مخلوق کو اور اپنے نفس کو خدا کا شریک نہ بنا انھیں لازم پکڑ  
 اور اپنی بندگی خدا کے لئے درست کر اور وہ کیا ہے خدا کے

الرَّامِرَ وَالْإِنْتِهَاءِ عَنِ الذَّهْيِ وَالصَّبْرِ عَلَى  
الْأَقَاتِ أَسَاسٌ هَذَا الْأَمْرُ الشَّجِيرُ الثَّابِتُ وَالْيَمَانَةُ  
عَلَيْهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ الْأَسَاسُ مَا  
أَحْكَمَتْهُ عَلَى آتِي شَيْءٍ تَبَيَّنَ الْإِنِّيَّةُ مَا  
صَحَّحَتْ لَكَ كَيْفَ تَتَكَلَّمُ سَكُونُكَ  
مَا تَمَّ نَدَّ كَيْفَ تَنْطِقُ هَذَا الْكَلَامُ  
عَلَى الْخَلْقِ نِيَابَةٌ عَنِ الرَّسُولِ لِأَهْلِهِمْ  
هُمْ الَّذِينَ كَانُوا خُطَبَاءَ الْخَلْقِ فَلَمَّا  
ذَهَبُوا أَقَامَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ الْعُلَمَاءَ  
الْعُمَّالَ يَعْلَمُهُمْ مَقَامَهُمْ وَجَعَلَهُمْ  
وَمَرَاتِهِمْ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي  
مَقَامِ الرَّسُولِ يَكُونَ أَطَهَرُ مِنَ الْخَلْقِ  
فِي دَمَانِهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَعَلَيْهِ تَحْسَبُونَ أَنَّ هَذَا  
الْأَمْرَ هَيْئًا وَيَلْجَأُونَ بِاللَّهِ وَيَرْسُلُهُ  
وَأَوَّلِيَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ  
يَا جُفَاءً يَتَفَرَّدُ بِهِمْ وَطَبَاعِهِمْ وَ  
دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَيَحْكُمُ إِخْرُسُوا  
وَأَسْكُتُوا حَتَّى تَنْطَقُوا وَتَنْعَشُرُوا  
وَتَقَامُوا وَتَحْيُوا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ  
فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ كَيْفَ لَا يَكُونُ نَافِعًا وَقَدْ  
أَعْلَقَ أَبْوَابَ الْخَلْقِ وَقَدْ بَابَ الْحَقِّ عَزَّ  
جَلَّ الْإِدْيَ هُوَ الْبَابُ الْأَكْبَرُ فَاصْحَ هَذَا الْفَلَقُ  
وَالْفَتْحُ لِعَبْدٍ ذَهَبَتْ عَنْهُ الرَّحْمَةُ وَجَاءَتْهُ الْخَلَّةُ  
جَاءَتْهُ الْخَلَّةُ إِلَى قَلْبِهِ وَالتَّشَادُّ عَلَيْهِ جَاءَتْهُ اللَّغَائِبُ

حکوں کا بجالانا اور اُس کے ممنوعات سے باز رہنا اور انہوں پر  
صبر کرنا۔ ان کی بنیاد و توحید اور اُس پر ثابت رہنا ہے۔ اور اُس کی  
عمارت اعمالِ صالحہ ہیں ابھی تو نے بنیاد کو تو مضبوط ہی نہیں کیا  
ہے عمارت کس چیز پر بنائے گا۔ تیری نیت درست ہی نہیں  
ہوئی ہے تو کلام کیسے کرے گا۔ تیرا سکوت تمام ہی نہیں ہوا  
ہے تو گفتگو کیسے کرے گا۔ یہ وعظ و کلام مخلوق سے کرنا پیغمبریں  
کی نیابت کا انجام و نیا ہے کیوں کہ پیغمبر علیہم السلام خلق کے لیے  
خطیب و واعظ تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے  
تب حق عزوجل نے علماءِ عالمین کو اُن کا قائم مقام بنادیا اور  
علماءِ عالمین کو اُن کا وارث قرار دے دیا جو اُن کا قائم مقام  
بنا چاہے اُس کا تمام مخلوق سے اپنے زمانہ میں زیادہ پاکیزہ  
ہونا اور احکام و علم الہی کا زیادہ جاننے والا ہونا چاہیے۔  
اے اللہ در رسول اور اُس کے اولیاء اور نیک بندوں سے  
جاہلو! تم نے تو سمجھ لیا ہے کہ تحقیق و وعظ و معرفت و ولایت  
آسان کام ہے۔ اپنے نفسوں اور طبعیوں اور اپنی دنیا و آخرت  
سے جاہلو! تمہارے اوپر انہوں سے تم تو گونگے بن جاؤ اور  
اس وقت تک سکوت اختیار کرو کہ تمہیں بلوایا جائے اور اٹھایا  
جائے اور کھڑا کیا جائے اور تم زندہ کئے جاؤ جس کا علم اُس  
کی خواہش پر غالب آجائے پس یہ علم نافع علم ہے۔ اور کیوں کہ  
یہ علم نافع نہ ہو گا اس علم نے تو مخلوق کے دروازوں کو بند کر دیا  
ہے اور حق عزوجل کے دروازہ کو جو کہ بہت بڑا دروازہ ہے  
کھول لیا ہے۔ جب یہ بند کرنا اور کھولنا کسی کے لیے درست  
ہو جاتا ہے اس سے کلمہ زحمت جاتی رہتی ہے اور اسے  
ظنوتِ نفسی مل جاتی ہے اُس کے قلب کی طرف طلعت آنے  
لگتی ہیں اور اُس پر پنچا اور سونے لگتی ہے اُس کو کنبیاں دے

تَنَازَعْنَهُ الْقُسُورُ وَبَقِيَ اللَّذِّبُ السَّدَّ طَرِيقُ  
الْهُدَى وَانْقَلَبَ وَانْقَهَرَ وَانْقَتَحَتْ الطَّرِيقُ  
إِلَى الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ هِيَ جَادَّةٌ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ مَا تِلْكَ  
الْجَادَّةُ جَادَّةُ الصَّفَاءِ بَلَا كَدَرٍ جَادَّةُ  
التَّوْحِيدِ بَلَا شُرْكَ جَادَّةُ الْإِسْلَامِ بَلَا  
مُنَادَعَةٍ جَادَّةُ الصِّدْقِ بَلَا كَذِبٍ جَادَّةُ  
الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ بَلَا خَلْقٍ جَادَّةُ الْمُسَبِّبِ  
بَلَا سَبَبٍ هَذِهِ الْجَادَّةُ الَّتِي عَلَيْهَا مَرَاءُ  
الَّذِينَ وَسَلَا طِبْنُ الْمَعْرِفَةِ وَمُلُوكُهَا  
الَّذِينَ هُمْ رِجَالُ الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ وَأَصْلِيَّةُ  
وَنُجَبَاؤُهَا النَّاصِرُونَ لِدِينِهِ الْمَعَادُونَ  
فِيهِ وَالْمُحِبُّونَ.

دی جاتی ہیں اُس سے چپکے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور مغز ہی مغز  
باقی رہ جاتا ہے۔ خواہشات کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور  
ٹوٹ جاتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق عزوجل کی  
طرف راہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور شاہراہ جو کہ اس کی مراد  
مقصود کا اصل راستہ اور اگلے لوگوں حضرات انبیاء و مرسلین  
علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم رحمۃ اللہ کا راستہ ہے ظاہر ہو جاتا ہے  
یہ شاہراہ کیا ہے بغیر کدورت کے صفائی کا راستہ بغیر شرک  
توحید کا راستہ بغیر منازعت کے سر جھکا دینے کا راستہ بغیر  
جھوٹ کے سچائی کا راستہ بغیر مخلوق کے خالق کا راستہ بغیر  
سبب کے سبب پیدا کرنے والے کا راستہ یہی وہ شاہراہ  
ہے جس پر دین کا دار مدار ہے اور جس پر ہمیشہ معرفت کے  
وہ سلاطین و بادشاہ جو کہ مردانِ خدا اور اُس کے برگزیدہ و  
منتخب اور دین الہی کے مددگار اور دین کے واسطے محبت و  
دشمنی رکھنے والے تھے چلا گئے ہیں۔

تجھ پرانوس ہے کہ تو ان حضرات کے راستہ پر چلنے کا  
مدد ہے حالانکہ تو اپنے نفس کو اور مخلوق میں سے دوسروں  
کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہے تیرے پاس ایمان  
ہی نہیں جب تک کہ تو کسی زمین والے سے خائف و امیدوار  
بن رہے۔ تجھے زہد ہی نہیں جب تک کہ تو دنیا میں کسی چیز  
کو چاہتا رہے۔ تجھے توحید کا ذائقہ ہی نہیں جب تک کہ تو  
خدا کے راستہ میں کسی غیر پر نظر ڈالے۔ عارف تو دنیا و آخرت  
میں مسافر اور ان دونوں اور ماسوے اللہ سے بے رغبتی کرنے  
والا ہوتا ہے فی الجملہ اُس کو غیر اللہ کی طرف رغبت ہی نہیں  
ہوتی ہے۔

اے قوم تم میری باتیں سنو اور اپنے دلوں سے میرے

وَبِحَاكْ كَيْفَ تَدْعِي طَرِيقَ  
هُوَ لَا آءِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ وَبَغِيرُكَ  
مِنَ الْخَلْقِ لَا إِيْمَانُ لَكَ وَعَلَى وَجْهِ  
الْأَرْضِ مَنْ تَخَافُهُ وَتَرْجُوهُ لَا زُهْدَ  
لَكَ وَفِي الدُّنْيَا شَيْءٌ تُرِيدُكَ لَا  
تَوْحِيدَ لَكَ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَكَ  
فِي طَرِيقِكَ إِلَيْهِ الْعَارِفَاتُ غَرِيبٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَنَاهِدٌ فِيهِمَا وَفِيهِمَا  
يَسُوِي الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ فِي الْجُمْلَةِ لَا رَغْبَةَ  
لَهُ فِي غَيْرِهِ.

يَا قَوْمِ اسْمَعُوا مِنِّي وَارْزِلُوا التَّهْنِئَةَ لِي

مَنْ قُلُوْ بِكُمْ كَيْفَ تَتَّبِعُوْنِيْ وَتَقْتَابُوْنِيْ  
وَ اَنَا شَافِیْقٌ عَلَیْكُمْ اَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ وَ  
اَخِیْطُ فُتُوْیْ اَعْمَالِكُمْ وَ اَشْفَعُ اِلٰی حَسَنَاتِكُمْ  
وَالْتَّجَا وَ رَا عَنْ سَیِّئَاتِكُمْ مَنْ عَرَفْنِیْ مَا  
یَبْرَحُ مِنْ عِنْدِیْ اِلٰی اَنْ یَّمُوْتَ یَجْعَلْنِیْ  
شَهِیْدًا لِّهِ وَ لَدَّ اِیَّهِ وَ طَعَامًا وَ شَرَابًا  
وَلِبَاسًا یَسْتَعْنِیْ بِیْ عَنْ غَیْرِیْ -

اور پتہ دھرنے کو نکال دو میں تو تمہارا شفیع ہوں پھر تم مجھ پر کیسے  
تہمت رکھتے ہو اور میری غیبت کرتے ہو میں تو تمہارے  
بوجھ اٹھاتا اور تمہارے عملوں کی پھٹنوں میں بخیہ لگا رہتا ہوں  
ہوں اور تمہاری خوبیوں کے قبول کرنے اور تمہارے برائیوں  
کے دفع فرما دینے کی حق عزوجل سے سفارش کرتا رہتا ہوں  
جس نے مجھے پہچان لیا ہے وہ میرے پاس سے مرنے  
کے وقت تک نہیں ملتا۔ اُس نے اپنی خواہشیں اور لذتیں  
اور اپنا کھانا پینا اور لباس مجھ کو بنا رکھا ہے میری وجہ سے دوسروں  
سے بالکل مستغنی ہے۔

یَا غُلَامُ کَيْفَ لَا تُحِبُّنِیْ وَ اَنَا  
اُرِیْدُكَ لَكَ لَا لِیْ اُرِیْدُكَ مِّنْفَعَتِكَ وَ  
تَعْلِیْقِكَ مِنْ یَدِ الدُّنْیَا الْقَتَالَةِ الْغَدَاةِ  
اِلٰی مَتٰی تَعْدُوْنَ خَلْفَهَا عَنْ قَرِیْبٍ  
تَلْتَفِتُ اِلَیْكُمْ وَ تَقْتُلُكَ الْحَقُّ عَزَّ  
وَجَلَّ لَا یَبْرُکُ مُجِیْبُهُ مَعَ الدُّنْیَا  
وَلَحْظَةً لَا یَاْمَنُهَا عَلَیْهِمْ وَ لَا  
یَبْرُکُهُمْ مَعَهَا وَ لَا مَعَ غَیْرِهَا  
فِی الْجُمْلَةِ بَلْ هُوَ مَعَهُمْ وَ هُمْ  
مَعَهُ قُلُوْبُهُمْ اَبَدًا لَّہٗ ذَاکِرَةٌ  
بَیْنَ یَدَیْهِ حَاصِرَةٌ وَ عَنْ غَیْرِہِ  
مُعْرِضَةٌ وَ عَلَیْہِ مُقْبِلَةٌ فَهُوَ مَعَهُمْ  
حَافِظٌ لَّهُمْ وَ لَهُمْ مُؤْنِسٌ اَللّٰهُمَّ  
اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَ احْفَظْنَا کَمَا  
حَفِظْتَهُمْ وَ اِنْتَنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً  
وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ

اے غلام تو مجھے کیوں محبوب نہ بنائے گا میں تو تجھے تیرے  
ہمیشہ سے چاہتا ہوں نہ کہ اپنی منفعت کی غرض سے تیری منفعت  
کا خواستگار ہوں اور تجھے دنیا کے ہاتھ سے جو کہ تجھے قتل کر ڈالنے  
والی دھوکہ دینے والی ہے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے  
پیچھے کب تک دوڑتا رہے گا۔ عنقریب دنیا تیری طرف متوجہ  
ہوگی اور وہ تجھے قتل کر دے گی۔ حق عزوجل اپنے محبوبوں کو  
دنیا کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ دنیا  
سے ان پر مطمئن نہیں ہے وہ اسی وجہ سے اپنے دوستوں کو دنیا اور  
غیر اللہ کے ساتھ فی الجملہ نہیں چھوڑتا ہے۔ بلکہ وہ اُن کی معیت  
میں اور یہ اُس کی معیت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے قلوب  
ہمیشہ خدا کے ذکر کرنے والے اس کے روبرو حاضر اور غیر اللہ  
سے اعراض کرنے والے اور خدا کی طرف متوجہ رہنے والے  
ہیں پس خدا اُن کا ساتھی اور اُن کا محافظ اور اُن سے اُس پر کرنے  
والا ہے اے اللہ تو ہم کو انھیں میں سے کرے اور ہماری  
ویسی ہی حفاظت فرما جیسی کہ تو نے اُن کی حفاظت فرمائی ہے  
اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے اور ہم کو دوزخ کے

عذاب سے بچائیں۔ اسے منافق اللہ عزوجل ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے وہی ان کو مخلوق پر شہرت دیتا ہے وہی مخلوق کے قلوب پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جمع کر دینے والا اور تابدار بنادینے والا ہے۔ تو اپنے نفاق کی چال سے مخلوق کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اس سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔

اسے غلام تو اپنی شہوتوں کو اپنے ندموں کے نیچے چھوڑنے اور پورے طور سے اپنے قلب کو ان سے موڑ لے اگر ان میں سے کوئی شے علم الہی میں تیرے لیے ساقی ہو چکی ہے پس وہ یقیناً اپنے وقت پر تیرے پاس آجائے گی کیوں کہ تقدیر امر میں نہ ہر دست نہیں ہوتا ہے اور علم الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے تیرا مقدر مقسوم اپنے وقت مقدر پر خوش گواری و کفایت و پاکیزگی کی حالت میں تجھے پہنچے گا پس تو اس کو عزت کے ہاتھ سے لے گا نہ کدورت کے ہاتھ سے اور باوجود اس کے تجھے اللہ کے نزدیک سے اس میں زہد کا ثواب ملے گا۔ اور وہ تیری طرف کرامت کی نظر سے دیکھے گا اس لیے کہ تو نے مقسوم شے کی طلب میں حرص اور الحاح نہیں کیا ہے۔ جتنا بھی تو مقسوم و مقدرات سے بھاگے گا وہ تجھے چٹیں گے اور تیرے پیچھے دوڑیں گے لہذا اس میں زہد کرنا صحیح و درست نہیں۔ لیکن ان سے قبل ان کے آنے کے اعراض ضروری ہے تو مجھ سے زاہد بننا اور لینا دینا سیکھا بھی جہالت کے ساتھ اپنے گوشہ میں نہ بیٹھ۔ دینی مسئلہ سیکھ پھر گوشہ نشین بن حکم خداوندی سیکھ اور اس پر عمل کر پھر سب سے رش پھیر لے اور علیحدہ ہو جا کر چند علماء ربانی میں سے متارہ پس ان سے تیرا ملنا اور ان کا کلام سننا تیری گوشہ نشینی سے زیادہ اچھا ہے۔ جب تو ان علماء میں سے کسی ایک کو بھی دیکھے پس اس کو

النَّارُ وَقَالَ رَحِمَى اللّٰهُ عَنْهُ يَا مَنَافِقُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ هُوَ الْمُنَادِي عَلَيْهِمْ هُوَ الْجَامِعُ لِقُلُوبِ الْخَلْقِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ مِنْ عِبَادِهِ هُوَ الْمُسَخِّرُ تَرِيدُ أَنْتَ بِفَعَالِكَ قَدْ تَجَمَّعَ قُلُوبُ الْخَلْقِ عَلَيْكَ لَا يَجِيءُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ يَا غُلَامُ أَتُرَى شَهَوَاتِكَ تَحْتَ أَقْدَامِكَ وَأَعْرِضُ عَنْهَا بِكُلِّ قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ لَكَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي سَابِقَةِ عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ يَجِئُكَ فِي وَقْتِهِ لَا تِ السَّابِقَةِ لَا يَصْنَعُ الزُّهْدَ فِيهَا وَعِلْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ يَجِئُكَ الْقَسْمُ فِي وَقْتِهِ مَهْنَاءً مُّكْفًى مُّطِيبًا فَتَأْخُذُكَ بَبِيدُ الْعَزْ لَا يَبِيدُ الذَّلَّ وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ حَصَلَ لَكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابُ الزُّهْدِ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الْكَرَامَةِ لِأَنَّكَ لَمْ تَشْرَكَ وَتَلَجَّ فِي طَلَبِهِ كَمَا هَرَبْتَ مِنَ الْقَسَامِ تَعَلَّقَتْ بِكَ وَعَدَتْ خَلْفَكَ فَالزُّهْدُ فِيهَا أَلْيَمُّ وَلَكِنْ لَا يَبْدَأُ مِنَ الْأَعْرَاضِ عَنْهَا قَبْلَ حُجِّيَّتِهَا لَعَلَّ مَتَى الزُّهْدُ وَالْتِنَاوَلُ لَا تَقْعُدُ فِي رِوَايَتِكَ مَعَ جَهْلِكَ تَفَقَّهُ ثُمَّ اعْتَزَلُ تَفَقَّهُ فِي حُكْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْلَ بِهِ ثُمَّ اعْزَلَ عَنِ الْكُلِّ إِلَّا أَحَادَ أَفْرَادٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلَ طَبَقَكَ لَهُمْ وَسَمَاعَكَ مِنْهُمْ أَفْضَلُ مِنْ إِنْغِرَالِكَ إِذَا آيَتٌ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَالزُّمُ

وَعَلَّمَهُ مِنْهُ الْقِتَّةَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَرَفَةَ  
بِهِ نَفْسَهُ فِيهِ يَسْمَاعُكَ لَهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمُ الْعِلْمُ  
يُؤْخَذُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ مَنْ هُوَ لَآءِ الرِّجَالِ  
الْعِلْمَاءُ بِحَاكِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِمْ فَإِذَا  
صَمَّ لَكَ ذَلِكَ انْعَزَلُ وَحَدِّثْ بِكَ لَنْفُسِ شَيْطَانِ  
وَهَوَى وَطَبِيعٍ وَعَادَةٍ وَمُؤَيَّةٍ لِلْخَلْقِ إِذَا  
صَمَّ لَكَ هَذَا إِلَّا نِعَزَالُ كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ  
وَأَرْوَاحُ الصَّالِحِينَ وَهَمَّهُمْ حَرْلُكَ إِنْ  
انْعَزَلْتَ عَنِ الْخَلْقِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَارَآ  
فَانْعَزَلْكَ رِفَاقٌ وَتَضَيُّعُ زَمَانِكَ فِي لَا شَيْءٍ  
وَتَكُونُ فِي النَّارِ دُنْيَا وَآخِرَةً فِي الدُّنْيَا  
فِي تَارِ الْأَقَاتِ وَفِي الْآخِرَةِ فِي النَّارِ الْمُعَذَّةِ  
لِلْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ عَفْوًا وَ  
عَفْرًا أَسْتَغْنَى وَتَجَاوَزًا وَتَوْبَةً لَا تَهْتِكُ  
أَسْتَارَنَا لَا تُوْخِذْ بِذُنُوبِنَا يَا اللَّهُ بَا  
كِرِيمُ أَنْتَ قُلْتَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ  
عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُزُّوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ تُبَّ عَلَيْنَا  
وَأَعَفُّ عَنَّا وَآمِينَ

وَيَحْكُ تَدْعِي الْعِلْمَ وَتَفْرَحُ كَفَرَجِ  
الْجَهَّالِ وَتَغْضَبُ كَغَضَبِهِمْ فَزَحْكَ يَالدُّنْيَا  
وَأَقْبَالَ الْخَلْقِ عَلَيْكَ يُنْسِيكَ الْحِكْمَةُ  
وَيُنْسِي قَلْبِكَ الْمُؤْمِنُ لَا يَفْرَحُ إِلَّا بِاللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ لَا يَغْيِرُهُ إِنْ كَانَ وَلَا بَدُّ مِنْ  
الْفَرَجِ فَافْرَحْ إِذَا كَانَ دُنْيَا وَبَدَلَتْهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ تَنْفَعُ بِهَا خَدَامُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ

لازم پڑے اور علم و معرفت الہی میں اُسی سے تفقہ حاصل کر۔ اُن  
کے مومنوں سے احکام اُن کو فقیرین۔ علم مردوں کے مومنوں سے  
لیا جاتا ہے یہ مرد کون ہیں۔ اللہ عزوجل کے حکم و علم کے بانی  
والے۔ پس جب یہ حالت تیری درست ہو جائے اُس وقت  
تو تنہا بغیر نفس اور بغیر شیطان اور بغیر خواہش و طبیعت و عادات  
اور بغیر مخلوق کی طرف نظر کرتے کے گوشہ میں بیٹھ جا۔ جب یہ  
گوشہ نشینی تیری درست ہو جائے گی اُس وقت فرشتہ ترا درواج  
صالحین اور اُن کی بہنیں تیرے ارد گرد ہوں گی۔ اگر مخلوق سے  
تیری تنہائی و علیحدگی و گوشہ نشینی اس قاعدہ پر نہ ہو تو بہتر ہے ورنہ  
یہ سب نفاق اور فضولیات میں زمانہ کا ضائع کرنا ہے اور دنیا و  
آخرت میں تو اگ میں رہے گا۔ دنیا میں اُنہوں کی اگ میں اور آخرت  
میں اُس اگ میں جو کہ منافقوں اور کافروں کے لیے بنائی گئی ہے  
اے اللہ میں معافی اور مغفرت اور پردہ پوشی اور تجاوازا و توبہ  
کو طلب کرتا ہوں۔ تو ہماری پردہ دری نہ کر نہ ہمارے گناہوں  
پر مواخذہ فرمانا۔ اے اللہ اے کریم تو نے ارشاد فرمایا ہے۔  
وهو الذي يقبل التوبة الاية ده خلا الیسا ہے جو کہ  
بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے  
تو ہم پر توبہ ڈال دے اور معاف کر دے۔ تجھ پر انوس ہے  
تو علم کا دعوے کرتا ہے اور جاہلوں کی سی خوشی کرتا ہے اور  
اُن کا سامعہ و غضب کرتا ہے تیری دنیا کے ساتھ خوشی اور مخلوق  
پر نیز امتوجہ ہونا تجھے حکمت و دانائی بھلا دے گا اور تیرے دل کو  
سخت کر دے گا مومن سوائے خدا کے کسی سے خوشی اور شادماں  
نہیں ہوتا۔ اگر تیرے لیے بغیر شادمانی چارہ ہی نہیں ہے پس تو اُس  
وقت خوشی کہ جب تک تیرے پاس دنیا ہو اور تو اُس کو اللہ عزوجل  
کی اطاعت میں صرف کرے اُس سے تو خدا محض کو نفع پہنچائے

وَلَيُعَيِّنَنَّهُمْ عَلَى طَاعَاتِهِمْ أَلْزِمَ الْخَوْفَ فِي لَيْلِكَ  
وَنَهَارِكَ حَتَّى يُقَالَ بِقُلُوبِكَ وَسِرِّكَ لَا  
تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى كَمَا قَالَ  
ذَلِكَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَا  
أَنْتَ مِنْهُمْ لَأَنْ مَعَكَ حِفْظُ الْعِلْمِ بِمَا عَمِلَ  
فَلَا جَرَمَ لَا تَكُونُ وَارِثًا أَوْ رَاشِدًا إِنَّمَا  
نَصَبْتَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْإِحْلَاصِ إِنْ عَرِفْتَ  
قُدْرَكَ وَلَا تَتَطَاوَلُ إِلَى شَيْءٍ لَمْ يُقَسِّمْ  
لَكَ وَافِقَ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ فِي مَقْدُورِهِ  
فَلَا جَرَمَ يُؤَافِقُكَ وَيَكْطِفُ بِكَ وَ  
يُحْمِلُ عَنْكَ الْأَثْقَالَ وَيَرْفُقُ بِكَ  
دُنْيَا وَآخِرَةً الْمُؤْمِنُ إِذَا قَوِيَ  
إِيْقَانُهُ سَيِّئَ مُوقِنًا ثُمَّ إِذَا قَوِيَ إِيْقَانُهُ  
سَيِّئَ عَارِفًا ثُمَّ إِذَا قَوِيَ مَعْرِفَتُهُ  
سَيِّئَ عَالِمًا وَإِذَا قَوِيَ عِلْمُهُ سَيِّئَ مُحِبًّا  
وَلَا إِذَا قَوِيََتْ مَحَبَّتُهُ سَيِّئَ مُحَبُّبًا وَ  
إِذَا صَبَرَ لَكَ ذَلِكَ سَيِّئَ غَنِيًّا مُقَرَّبًا  
مُسْتَأْنَسًا يَسْتَأْنِسُ بِقُرْبِ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ يَطْلُبُهُ عَلَى أَسْرَارِهِ حِكْمِهِ وَ  
عِلْمِهِ وَسَائِقِيَّتِهِ وَلَا حِقَّتِهِ وَآمِرِهِ  
وَقَدِيرِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى قَدَرِهِ  
خَوْصَلَةٍ وَمَا يُعْطِيهِ مِنْ قُوَّةٍ  
قَلْبِيهِ وَسَعَتِهِ قَائِمٌ مَعَ تَرِيهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ تَخَارِجُ بِقُلُوبِهِ عَنِ الْخَلْقِ إِذَا  
جَاءَ عِلْمُهُ تَرِيَهُ عَمَّا وَجَلَّ السَّابِقُ

اور اُن کی طاقتوں پر تو اُن کی مدد کرے۔ تو شب و روز خوف الہی  
لازم پکڑ لیں تاکہ اگر تجھے مثل موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے کہا  
جائے۔ لہٰذا تخافا اننی معکم الا یہ تم دو طرفہ دست  
میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا ہوں تو تو اُن ڈرنے  
والوں میں سے نہیں ہے کیوں کہ تیرے پاس تو محض علم کا رٹ لینا  
بغیر عمل کے ہے۔ پس یقیناً تو وارث انبیاء نہیں ہو سکتا وراثت تو  
جب درست ہو سکتی ہے جب علم و عمل و اخلاص سب ہوں۔ تو  
اپنے مرتبہ کو پہچان اور کئی ایسی چیز کی طرف جو تیرے مقسم میں نہیں  
ہے پیش قدمی نہ کر۔ حتیٰ عزوجل کی مقدر فرمائی، کوئی چیزوں میں حتیٰ  
تعالیٰ سے موافقت کر وہ تیری موافقت کرے گا اور وہ تیرے  
ساتھ مہربانی فرمائے گا اور تجھ سے بوجہ اٹھلے گا اور تیرے  
ساتھ دنیا و آخرت میں نرمی کرے گا مسلمان کا جب ایمان قوی ہو  
جاتا ہے اُس کو مومن صاحب ایقان کہا جاتا ہے پھر جب اُس  
کا ایقان قوی ہو جاتا ہے اُس کا نام عارف رکھا جاتا ہے۔ پھر  
جب اُس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے اُس کا عالم نام رکھا جاتا ہے  
پھر اُس کا علم قوی ہو جاتا ہے اُس کا محبوب نام رکھا جاتا ہے اور  
جب اُس کی محبت قوی ہو جاتی ہے اُس کو محبوب کہہ کر پکارا  
جاتا ہے اور جب وہ صحیح معنوں میں محبوب ہو جاتا ہے اُس کا  
نام غنی و مقرب و مستانس رکھا جاتا ہے۔ وہ قرب الہی سے انس  
پکڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کو اپنی محنتوں اور علم اور اپنے  
اگلے پچھلے لکھے ہوئے اور اپنی قضاء و قدر کے بھیدوں پر  
مطلع فرما دیتا ہے اور یہ مطالبی اُس کے حوصلہ اور اُس قوت قلبی  
اور وسعت کے جو کہ اُس کو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے ہوا  
کرتا ہے۔ وہ اپنے رب عزوجل کی محبت میں قائم اور مخلوق سے  
قلباً فارغ ہوتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کا علم سابق آتا ہے اور

وَمَعَهُ قِسْمٌ مِّنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ  
وَالْمَلُوبِسِ وَالْمَتَكُونِ لَا يَجِدُ مَن يَتَنَوَّلُهُ  
مِنَهُ لَغَيْبَةِ السُّفْدِ بِهِ فَيُوجِدُهُ الْحَقُّ  
عَزَّ وَجَلَّ لِيَتَنَوَّلَ لَيْلًا يَبْطُلَ عَلَيْهِ وَ  
يَتَنَحَّى فَيَخْلُقُهُ خَلْقًا آخَرَ وَيُنْشِئُهُ  
لَيْلًا يَنْتَقِضُ مَا بَنَاهُ فِي سَابِقِ عَلَيْهِ  
فَيَبْتَلِقُهُ الْأَقْسَامُ كَمَا يُبْلِقُ الصَّبِيَّ  
الصَّغِيرُ وَكَمَا تَضَعُ الْأُمُّ الدِّبْسَ فِي  
فَمٍ وَلَدِهَا الرَّضِيعُ تَنْزِلُ الْأَقْسَامُ فِي  
فِيهِ وَيَكْزُمُ بِأَكْلِهَا كَمَا يَكْزُمُ الْمَرْيَضُ  
بِتَنَاوُلِ الْأَشْرَبَةِ وَيَحْفَظُ قُوَّتَهَا  
بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهُ فِي ذَلِكَ بَلِ السَّابِقَةُ  
تُرَبِّيَ هَذَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤَقِّنَ الْعَارِفَ  
الْعَارِيَّ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِلَى نَفْسِهِ  
وَدَفْعِ الْمَصَارِعِ عَنْهَا يَدُ الرَّحْمَةِ  
تَقْلِبُهُ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشِّمَالِ  
بَلِ اللَّطْفِ يُشِيلُهُ وَيَحْطُهُ يَا خَيِّبَةُ  
مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ  
يَتَعَلَّقْ بِدَيْلِ مَحْمِيَّتِهِ يَا خَيِّبَةُ  
مَنْ لَمْ يُعَاوِلْهُ وَيَنْقُطِعْ إِلَيْهِ  
بِقَلْبِهِ وَيَتَعَلَّقْ بِهِ بِسِرِّهِ وَيَتَمَسَّكُ  
بِلُطْفِهِ وَمِنْهُ -

يَا قَوْمَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَلَّى تَرْبِيَةَ  
قُلُوبِ الصِّدِّيقِينَ مِنْ حَالِ صُغُرِهِمْ إِلَى كِبَرِهِمْ  
كُلَّمَا اخْتَبَرَهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَلَايَا وَمَا

اُس کے ہمراہ کھانے پینے لباس و نکاح کا حصہ ہوتا ہے اور اُس  
کو بے سبب اُس کے غائب ہونے کے نہیں پاتا ہے پس  
حق تعالیٰ اُس کے لینے کے لئے اپنے اس محبوب کو ظاہر و  
پیدا کرتا ہے تاکہ علم ازلی باطل و محو ہو جائے پس حق تعالیٰ  
اُس کو دوسری زندگی کے ساتھ پیدا فرماتا ہے تاکہ تقدیری  
بنی ہوئی عمارت مہند نہ ہو جائے پس اُس محبوب کو اُس کے  
مقسوم حصہ کے ایسے لقمہ کھلائے جاتے ہیں جیسے کچھوٹے  
بچہ کو لقمہ دیئے جاتے ہیں اور جیسے کہاں اپنے شیر خوار بچہ کے  
منہ میں چھوارے کا شیرہ لگا دیتا ہے۔ اُس کے منہ میں اُس کو  
مقسوم رکھ دیتے ہیں اور وہ اُسے ایسے کھاتا رہتا ہے جیسے  
کو مریض شربتوں کو پیتا ہے اور اُن کے ذریعہ سے اپنی قوت کی  
بغیر اپنے اختیار کے حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ سابقہ تقدیر الہی  
ایسے مومن صاحب الیقان عارف باللہ فانی کی جو کہ اپنی طرف نفع  
کھینچنے اور اپنے سے مفرت رساں چیزوں کے دفع کرنے  
سے قنا کو چکا ہے پرورش فرماتا ہے۔ رحمت کا ہاتھ اسے  
دائیں بائیں کوٹ دلاتا رہتا ہے اور مہربانی کا ہاتھ اسے اٹھاتا  
بٹھاتا رہتا ہے دامنے ناکافی اُس شخص کی جس نے کہ اللہ عز و جل  
کو نہ پہچانا اور اُس کے دامن رحمت سے نہ پہچاوائے ناکافی  
اس کی جس نے خدا سے معاملہ نہ کیا اور وہ اس کی طرف اپنے قلب  
سے متوجہ نہ ہوا اور اپنے سر سے اُس کے ساتھ اُس نے  
تعلق پیدا نہ کیا اور احسانات و لطف خداوندی سے وابستہ  
نہ ہوا۔

اے قوم صدیقین کے قلوب کی ترتیب کا اُن کے صغریٰ  
سے اُن کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ ضامن و کفیل رہتا ہے جب  
ہی کسی بلا سے اُس کو جانچتا ہے امتحان لیتا ہے اور اُس پر

صَبَرَهُمْ اَزْدَادَ قُرْبِهِمْ مِنْهُ الْبَلَايَا  
لَا تَقْهَرُهُمْ وَلَا تُلْحِقُهُمْ كَيْفَ  
تُلْحِقُهُمْ وَرَهَى مَا شِئْتَ وَقُلُوبُهُمْ  
عَلَى اَجْنَحَةِ الطُّيُورِ الطَّائِرَةِ يَا  
خَبِيَّةٌ مَنْ يُوْذِي قُلُوبَهُمْ يَا مَقَّتْ  
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَا غَضَبَ اللّٰهِ عَزَّ  
وَجَلَّ لَهُ يَا حُزْمَانَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لَهُ

يَا غُلَامُ كُنْ غُلَامَ الْقَوْمِ وَارْضَا  
لَهُمْ وَخَادِمًا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ فَاِذَا  
مُتَّ عَلَى ذٰلِكَ صِرْتَ سَيِّدًا  
مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
لِعِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ رَفَعَهُ اللّٰهُ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِذَا احْتَمَلْتَ  
الْقَوْمَ وَخَدَمْتَهُمْ مَا فَعَلَ اللّٰهُ  
اِيْهِمْ وَجَعَلَكَ رَئِيسَهُمْ فَكَيْفَ  
اِذَا خَدَمْتَ خَوَاصَّهُ مِنْ خَلْقِهِ  
اللّٰهُمَّ اَجِرْ الْخَيْرَاتِ عَلَى اَيْدِيْنَا  
وَالسِّنِّيْنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ  
لُطْفِكَ وَعِنَايَتِكَ

اُن کا صبر معائنہ کرتا ہے اُن کی نزدیکی اُس سے زیادہ ہوتی  
ہے۔ مصیبتیں نہ ان کو مغلوب کرتی ہیں اور نہ اُن تک پہنچتی ہیں  
مصیبتیں ان کو کیسے لاحق ہوں جب کہ مصیبتیں تو پیادہ ہیں  
اور ان اولیاء الہی کے دل اڑانے والے پرندوں  
کے بازوؤں پر ہوتے ہیں۔ واسطے ناکامی اُس کی  
جو کہ ان کے دلوں کو شلئے ہائے اللہ عزوجل کا غصہ اس کے لیے ہائے اللہ عزوجل  
کا عذاب اُس کے لیے ہوا اور یہ نہ سمجھے اسے واسطے اس  
کی محرومی پر جو کہ اللہ کی جانب سے ہے۔

اسے غلام تو اولیاء اللہ کا غلام و خادم اور اُن  
کے سامنے کی خاک پا بن جا۔ پس جب تو اس پر ہنسی  
کرے گا تو سردار بن جائے گا۔ جو کوئی اللہ عزوجل اور  
اُس کے نیک بندوں کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ  
اُس کو دنیا و آخرت میں بلند دیتا ہے جب عام قوم کی  
خدمت کرے گا اور تکلیفیں برداشت کرے گا۔ تو تجھ  
کو اللہ اُن پر بلند کر دے گا اور تجھ کو اُن کی سرداری  
عطا فرمائے گا۔ پس کیا حالت ہوگی اُن کی جو کہ مخلوق  
میں سے خواص اولیاء اللہ کی خدمت کرے گا۔ یا  
اللہ ہمارے ہاتھوں پر اور زبانوں پر نگوئیوں کا  
اجرا فرما اور ہم کو اپنے لطف و عنایت کا اہل بنا  
لے۔ آمین۔

## پچنیویں مجلس

## المجلس الخامس والخمسون

## رضاء الہی کے بیان میں

۱۷ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ کو مدرسہ قادریہ میں صبح کے وقت ارشاد فرمایا:

کچھ کلام کے بعد فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے اُس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے کیوں کہ موت کا ذکر مصیبتوں اور آفتوں کو آسان کر دیا کرتا ہے اور اپنے نفس اور مال اور اولاد کے متعلق تقدیر پر تمہمت نہ لگا بلکہ یہ کہا کر کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتے والا ہے پس خجب تو اسی حالت پر ہنسی کرے گا تجھے رضا و موافقت الہی کی لذت حاصل ہو جائے گی تمام آفتیں مع اپنے فروع و اصول کے چلی جائیں گی اور اس کے بدلہ میں نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں تیرے پاس آئیں گی جب بھی تو حالت بلا میں رضا الہی سے موافقت کرے گا اور اس سے لذت پکڑے گا تجھے ہر جانب سے نعمتیں آنے لگیں گی۔ تجھ پر اسے غافل انسووس ہے تو غیر اللہ کی طلب میں اللہ سے لاپرواہی نہ کر اللہ تعالیٰ سے اُس کے غیر کی طلب نہ کر۔ ترک تک اُس سے وسعت رزق پاہتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ یہ طلب تیرے لیے فتنہ ہوا اور تجھے علم نہ ہو۔ جب تجھے یہ خبر نہیں کہ بھلائی کس چیز میں ہے۔ پس سکوت اختیار کر اور تقدیر سے موافقت کر اور خدا سے اُس کے افعال پر رضامندی کی اور تمام مانتوں میں شکر کی طلب کرتا رہے شکر نہ ہونے کی صورت میں وسعت رزق فتنہ ہے اور صبر نہ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَكْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ سَابِعَ عَشْرَةَ هَذَا رَمَضَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بَعْدَ كَلَامٍ مِّنْ أَرَادَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ عَمَّ وَجَلَّ فَلْيُذِمُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّ ذِكْرَهُ يُهَيِّئُ الْمَصَائِبَ وَالْأَفَاتِ لَا تَنُفِهُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى قَالِكَ وَعَلَى وَلَدِكَ بَلْ قُلْ سَمِعْتُ أَعْلَمُ بِمِثْلِي فَإِذَا دُمْتُ عَلَى ذَلِكَ جَاءَتْكَ لَذَّةُ الرِّضَا وَالْمُوَافَقَةِ فَتَذْهَبُ الْأَفَاتُ بِأُصُولِهَا وَفُرُوعُهَا وَيَجِيئُكَ بَدَلُهَا التَّحَمُّ وَالطَّيِّبَاتُ لَهَا وَافَقَتْ وَتَلَذَّذْتَ بِالرِّضَا فِي حَالِ الْبُكَاءِ جَاءَتْكَ النِّعَمُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ وَيُحَكِّ يَأْخَاذُ بِهَا عَنْهُ لَا تَشْتَغِلُ عَنْهُ بِطَلَبِ غَيْرِهِ كَمَا تَطْلُبُ مِنْهُ سَعَةَ الرِّزْقِ وَلَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَا تَدْرِي الْخَبِيرَةُ فِي آيٍ شَيْءٌ فَاسْكُتْ وَوَارِقْ وَأَطْلُبْ مِنْهُ الرِّضَا بِأَفْعَالِهِ وَالشُّكْرَ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ سَعَةُ الرِّزْقِ فِتْنَةٌ مَّعَ عَدَمِ الشُّكْرِ وَصَبْقُ الرِّزْقِ فِتْنَةٌ مَّعَ عَدَمِ الصَّبْرِ

ہونے کی صورت میں رزق کی تنگی فتنہ ہے شکر تیری نعمتوں کو  
 بڑھائے گا اور تجھے رب عزوجل سے نزدیک کر دے گا اور  
 اور صبر تیرے قلب کے قدموں کو ثابت قدمی دے گا اور اس کی  
 مدد و تائید کرے گا اور منظر و منور بنائے گا انجام کار صبر کا دنیا و  
 آخرت میں عمدہ و محمود ہے حق عزوجل پر اعتراض کرنا حرام ہے  
 اس سے قلب و چہرہ دونوں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تجھ پر انفسوں ہ  
 جس اعتراض میں تو اپنے نفس کو مشغول کر رہا ہے اس کے عوض  
 حق عزوجل سے سوال کرنے میں اسے مشغول کر اسی مشغولیت نفس  
 کو لگاتا کہ تیری بلاؤں کے وقت ٹل جائیں اور آفتوں کی آگ بجھ  
 جائے۔ اور تو اسے طلب الہی کے بدلے اور اس کے محبت  
 کے خزانوں پر خبردار ہونے والے سب تک راستہ میں  
 رہے اس کی طرف پہنچنے سے پہلے اس سے سوال کرتا رہ  
 جب تو راستہ میں متحیر ہو کہو اسے حیرت زدہ لوگوں کے رہنما  
 میری رہنمائی کر۔ اور جب تو مصیبت میں مبتلا کیا جائے اور صبر  
 سے عاجز ہو کہو اسے اللہ میری مدد کر اور مجھے صابر بنا اور اس  
 مصیبت کو مجھ سے کھول دے۔ اور لیکن جب تو منزل مقصود  
 پر پہنچ جائے اور تیرے قلب کو بارگاہ الہی میں داخل دے دیا  
 جائے اور قرب کا درجہ مل جائے تو اس وقت نہ سوال ہو اور  
 نہ زبان بلکہ محض سکوت و مشاہدہ ہو۔ تو جہاں ہی جائے گا اور جہاں  
 کسی چیز کا خواہاں نہیں ہو کرتا ہے بلکہ حسن ادب کا برتاؤ کی کرتا  
 ہے اور جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اسے کھاتا ہے اور جو کچھ دیا جاتا ہے اسے لیتا  
 ہے۔ مگر جب کہ میزبان کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ  
 فرمائش کر پس اس وقت وہ بتیل کم بغیر خود اختیار کی کے فرمانش  
 کر دیتا ہے۔ دوری کے وقت سوال اور قرب کے وقت  
 سکوت لازم ہے۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں

الشُّكْرُ يَزِيدُكَ مِنَ التَّعَمُّ وَ يُقَرِّبُكَ  
 إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّبْرُ يُثَبِّتُ  
 أَقْدَامَ قَلْبِكَ وَيَبْصُرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ وَ  
 يُظْفِرُهُ وَعَاقِبَتُهُ مَحْمُودَةٌ دُنْيَا وَ  
 آخِرَةً الْإِعْتِرَاضُ عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 حَرَامٌ يُظْلِمُ بِهِ الْقَلْبَ وَالْوَجْهَ  
 وَيُحَاكِي يَا جَاهِلٌ بَدَلٌ مَا تَشْغُلُ  
 نَفْسَكَ يَا لِعِزَازِ أَشْنَدَ لَهَا يَا لِسُؤَالِ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ شَاغِلَهَا بِهِ حَتَّى تَذْهَبَ  
 أَوْقَاتُ الْبَلَايَا وَتَنْظِفِيءَ رِيْرَانِ  
 الْآفَاتِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا مُدَّعِي إِرَادَةَ  
 الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُطْلِعُ عَلَى خَزَائِنِ  
 رَحْمَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ فَسَلِّهِ إِذَا كُنْتَ فِي  
 الطَّرِيقِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ إِذَا  
 تَحَيَّرْتَ قُلْ يَا ذَلِيلٌ وَعَجَزْتُ عَيْنِ  
 الصَّبْرِ قُلْ إِلَهِي أَعِزَّنِي وَصَبِّرْنِي وَ  
 اكْشِفْ عَنِّي وَأَمَّا إِذَا وَصَلْتَ وَ  
 أَدْخَلَ قَلْبَكَ وَقَرَّبَ مِنْهُ فَلَا  
 سُؤَالَ وَلَا لِسَانًا بَلْ سَكُوتًا وَمُشَاهَدَةً  
 لِّصَيْدِ ضَيْفًا وَالضَّيْفُ لَا يَتَشَهَّى بَلْ  
 يُحْسِنُ الْأَدَبَ وَيَأْكُلُ مَا يُقَدَّمُ  
 لَهُ وَيَأْخُذُ مَا يُعْطَى إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ  
 تَشَهَّى فَيَتَشَهَّى إِمْتِنَالٌ أَمْرٌ لَا اخْتِيَارًا  
 مِنْهُ السُّؤَالُ عِنْدَ الْبُعْدِ وَالسُّكُوتُ عِنْدَ  
 الْقُرْبِ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ عَيْرَ الْحَقِّ

پہنچاتے ہیں ان کے یار و احباب ان سے منقطع ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے سب اسباب جدا ہو جاتے ہیں اگر ان سے کھانا پینا چند دنوں یا چند مہینوں بند کر دیا جاوے جب وہ پروانہ کریں اور نہ ان میں تغیرات پیدا ہوں کیوں کہ حق عزوجل ان کا غذا دینے والا ہے جو چاہتا ہے ان کو غذا دیتا رہتا ہے۔ جو کوئی محبت الہی کا دعویٰ کرے اور اللہ سے غیر اللہ کو طلب کرے پس وہ یقیناً اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ہاں جب کہ وہ سچا محبوب واصل الی اللہ بھان و مقرب بارگاہ الہی ہو جائے گا اُس سے کہا جاتا ہے مانگ اور خواہش کرو اور جو کچھ تو چاہے وہ کہو کیوں کہ عزت دے دیا گیا ہے محب حالت قبض میں ہوتا ہے اور محبوب حالت بسط میں اور محب ناکافی میں اور محبوب عطا میں ہوتا ہے جب تک بندہ محب بنا رہتا ہے پس وہ حیرت انگیز اور پراگندگی میں اور گزراوقات کے لئے فکرمعاش میں رہتا ہے۔ اُس کے بعد جب حالت بطنی ہے اور وہ محبوب بن جاتا ہے تو اُس کے حق میں معاملہ پلٹا جاتا ہے ناز و نیاز اور فراخ عیشی اور اطمینان اور وسعت رزق اور مخلوق کا مسخر ہو جانا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کل اُس کے صبر اور حالت محبت میں ثابت قدمی کی برکت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بندہ کی خدا سے مصاحبت اور خدا کی بندہ سے محبت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ جیسی کہ مخلوق کی محبت مخلوق سے۔ ہمارے رب عزوجل کی مانند مشابہ کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اُس نے مثالیں تو آدمیوں کے واسطے بیان فرمائی ہیں تم اس سے فہم و دانش اور اُس کی معیت میں خوش دلی کو طلب کرو پس بر تحقیق وہ جس کے لئے چاہتا ہے خوش دلی کو وسیع کر دیتا ہے دلوں

عَزَّ وَجَلَّ تَقَطَّعَتِ الْأَرْبَابُ عَنْهُمْ وَ  
انْخَلَعَتِ الْأَسْبَابُ مِنْ قُلُوبِهِمْ كَوَانْقَطَعُ  
عَنْهُمْ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ أَيَّامًا وَ أَشْهُرًا  
لَّا يَبَالُونَ وَلَا يَغَيِّرُونَ لِأَنَّ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
مُعَذِّيرُهُمْ يُغْذِيهِمْ بِمَا يُرِيدُ مِنْ أَدْعَى  
مَحَبَّتِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَطَلَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ  
فَقَدْ كَذَبَ فِي مَحَبَّتِهِ أَمَّا إِذَا صَارَ مُحِبُّوًّا  
وَاصِلًا ضَيْفًا مُقَرَّبًا يُقَالُ لَهُ اُطْلُبْ وَتَشْتَدِ  
وَقُلْ مَا تَرِيدُ فَإِنَّكَ مُمَكِّنُ الْحَبِثِ مَقْبُوضِ  
وَالْمُحِبُّوْبِ مَبْسُوطِ الْحَرَمَانِ لِلْمَحَبِّ  
وَالْعَطَاءِ لِلْمُحِبُّوْبِ مَا ذَا أَمَّ الْعَبْدُ مُحِبًّا  
فَهُوَ فِي الْهَيْمَانِ وَالتَّقْطُعِ وَالتَّمَرُّقِ وَ  
الْكَسْبِ لِأَجْلِ الْقُوْتِ فَإِذَا انْقَلَبَتِ  
التَّوْبَةُ فَصَارَ مُحِبُّوًّا انْقَلَبَ الْأَمْرُ  
فِي حَقِّهِ وَجَاءَ الدَّلَالُ وَالِزْفَانِيَّةُ  
وَالسُّكُونُ وَسَعَةُ الرِّزْقِ وَتَسْخِيرُ  
الْخَلْقِ كُلِّ هَذَا بِبَرَكَهٖ صَبْرِهِ وَتَبَاتُّهِ  
فِي حَالِ مَحَبَّتِهِ صُحْبَةِ الْعَبْدِ لِلَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ لَبِيسَتْ  
كَمَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ  
كَمَثَلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ه  
أَضْرَبَ الْأَمْثَالَ لِلتَّائِسِ اُطْلُبُوا مِنْهُ  
الْفَهْمَ عَنْهُ اُطْلُبُوا مِنْهُ طِبَّةُ الْقُلُوبِ عَلَى  
مَنْ كَيْشَاءُ يَكْثُرُ أَمَّا زَاقُ الْقُلُوبِ

عہ قبض و بسط دونوں تصوف کی اصطلاحیں ہیں اول کا تعلق خوف سے دوسرے کا تعلق رحمت و وسعت سے ہوتا ہے۔

لَسَنَ تَشَاءُ الْوَاحِدُ مَنْ لَهُ لَاءُ الْقَوْمِ  
يَسْمَعُ قَلْبُهُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَصِيرُ قَلْبُهُ كَعَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
كَانَتْ عَصَا مُوسَى فِي ابْنِ آدَمَ أَمْرَهَا  
حِكْمَةٌ ثُمَّ صَارَتْ قُوَّةً كَمَا كُنْتَ  
تَحْمِلُ نَزَاكَ إِذَا لَمْ يَتَذَرْ عَلَى  
حَمْلِهِ وَيَرْكَبُهَا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ  
وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْأَذَى وَهُوَ قَائِدٌ  
وَنَائِبٌ وَتُشِيرُ لَهُ شِمَارًا مِنْ كُلِّ  
جَنْسٍ وَتُظِلُّ عَلَيْهِ إِذَا قَعَدَ أَمَّا  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرْتَأَى فِيهَا  
فَاسْتَأْنَسَ بِالْقُدْرَةِ بِرَاسِطَةِ الْعَصَا  
فَلَمَّا جَعَلَهُ نَبِيًّا وَقَرَّبَهُ وَكَلَّمَهُ  
وَكَلَّفَهُ قَالَ مَا يَتْلُكَ بِمِيزَانٍ يَا  
مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا  
وَأَهْشُرُ بِهَا عَلَى غَنِيِّ دَلِيٍّ فِيهَا  
مَا رَبُّ الْخَرَى فَقَالَ لَهُ أَلْقِهَا  
يَا مُوسَى هُ فَالْقَاهَا فَصَارَتْ حَبَّةً  
عَظِيمَةً فَهَرَبَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ الْحَقُّ  
عَزَّ وَجَلَّ خُذْهَا وَكَأ تَخْفُ  
سَتُعِيدُهَا فَكَانَ الْقَصُودُ مِنْ ذَلِكَ  
أَنْ يُطْلِعَهُ عَلَى الْقُدْرَةِ حَتَّى  
يُهَيِّجَ فِي عَيْنَيْهِ مُلْكُ فِرْعَوْنَ  
وَيُعَلِّمَهُ الْحَرْبَ لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ  
هَبَّاهُ لِيَقَاتِلَهُمْ وَأَطْلَعَهُ عَلَى خَرَقِ

رزقوں کو جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ اویام اللہ  
میں سے ہر ایک کے قلب میں تمام آسمان وزمین والوں کی گنجش  
ہوا کرتی ہے اُن کا قلب مثل عصا موسوی کے ہو جاتا ہے علیہ السلام  
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابتداء حال میں حکمت تھا بعدہ  
سہرا یا قدرت بن گیا تھا۔ وہی عصا جب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے  
توڑ کر داٹھا سکتے تھے اُس کا حال بن جانا تھا۔ اور وہی عصا  
آپ کی سواری بن جانا تھا جب کہ آپ چلنے سے عاجز ہو جاتے  
تھے اور آپ کے بیٹھنے اور سونے کی حالت میں وہی عصا  
تمکین دہ چیزوں کو رفع کرتا رہتا تھا۔ اور وہی بوقت ضرورت  
درخت بن کر آپ کے لیے ہر قسم کے پھل پیش کر دیتا تھا۔ اور  
جب آپ بیٹھا کرتے تھے تو آپ پر سایہ کو بٹاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ  
نے عصا میں اُن کو اپنی قدرت کا ملاحظہ کرا کر بواسطہ عصا کے  
اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو انوس بنایا اور اُن سے کلام  
فرمایا اور اُن پر احکام جاری کئے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیرے  
ہاتھ میں کیا ہے جواب دیا وہ میرا عصا ہے جس پر میں نیکی لگایا  
کرتا ہوں اور اُس سے اپنی بچیوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں  
اور اس میں میرے لیے دوسری ضروریات بھی ہیں۔ پس ارشاد  
الہی ہوا اے موسیٰ ذرا اس کو ہاتھ سے ڈال دو پس اُس وقت  
عصا کو ہاتھ سے گر دیا اُس وقت وہ بڑا اثر دیا بن گیا پس موسیٰ  
علیہ السلام اُس سے ڈر کر بھاگنے لگے تب ارشاد الہی ہوا کہ اے  
موسیٰ اُس کو ہاتھ میں لے اور ڈر مت۔ اس سے مقصود یہ  
تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قدرت پر خبردار کر دیا جاوے تاکہ وہ  
نگاہ موسوی میں حکومت فرعون کو ذیل کرے اور اُن کو فرعون  
اور اُس کے لشکر سے بڑا ناسکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام  
کو فرعونوں کے قتال کے لیے آمادہ کر دیا اور اُن کو خرق عادت

كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ضَيْقُ الْقَلْبِ وَ  
الضَّدُّ بِرَأْسِهِ وَسَعَةُ قَدْبِهِ وَاعْطَاكَ  
الْحُكْمَ وَالشُّرَّةَ وَالْعِلْمَ .

يَا جَاهِلُ مَنْ هَذِهِ قُدْرَتُهُ  
يُسْئِي وَيُعْطَى لَا تَنْسَ مَنْ لَا يَنْسَاكَ  
وَلَا تَغْفُلْ عَنْ مَنْ لَا يَغْفُلُ عَنْكَ اذْكُرِ  
الْمَوْتَ فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ مُؤَكَّلٌ  
بِأَرْوَاحِهِمْ لَا يَعْرِفُكَ شَبَابُكَ وَمَلَكَ  
وَجَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ قَرِيبٌ يُوْخِذُ  
مِنْكَ جَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ وَتَذَكَّرُ  
تَفْرِيطَكَ وَتَضَيِّعَكَ لِهَذِهِ الْآيَاتِ  
فِي الْبَطَالَاتِ فَتَتَذَكَّرُ وَلَا يَنْفَعُكَ النَّدَمُ  
عَنْ قَرِيبٍ تَمُوتُ وَتَذَكَّرُ كَلَامِي وَنُصْحِي  
لَكَ تَتَمَسَّحُ فِي قَبْرِكَ أَنْ تَكُونَ عِنْدِي  
وَتَسْمَعُ مِنِّي اجْتَهِدْ أَنْ تَقْبَلَ قَوْلِي  
وَتَعْمَلَ بِهِ حَتَّى تَكُونَ مَعِيَ دُنْيَا وَآخِرَةً  
أَحْسِنْ ظَنِّكَ بِي حَتَّى تَنْتَفِعَ بِقَوْلِي  
أَحْسِنْ ظَنِّكَ بغيرِكَ وَاسْتَفِمْ ظَنِّكَ بِنَفْسِكَ  
إِنْ فَعَلْتَ هَذَا انْتَفَعْتَ وَانْتَفَعْتَ غَيْرُكَ بِكَ  
مَا دُمْتُ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْتَ فِي  
هَمٍّ وَعَجْهِ وَشِدْكِ وَتَقِيلُ أَخْرِجْ مِنْ  
الْخَلْقِ بِقَلْبِكَ وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَقَدْ رَأَيْتَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا  
يَخْطُرُ عَلَى قَلْبٍ نَبْشُهُ هَذَا الَّذِي أَنْتَ فِيهِ لَا يَصْنَعُ  
وَلَا يَكْتُمُ لِأَنَّهُ أَسَاسُهُ وَإِذَا مَا هُوَ مُحْكَمٌ هُوَ

پر مطلع کر دیا اور ابتدا میں قلب و سینہ کی تنگی مٹی پھر رب العزت نے  
اُس کے قلب و سینہ میں وسعت دے دی۔ اور اُن کو شہادت و  
ثابت قدمی عطا فرمادی اور اُن کے ہاتھ میں قدرت رکھ دی  
اُن کو حکم و نبوت و علم عطا کر دیا۔ اسے جاہل جس کی قدرت ایسی ہو  
کیا وہ مجھلا دینے اور نافرمانی کے قابل ہے تو اسے نہ مجھلا ہو کہ  
تجھے نہیں مجھلاتا اور تو اس سے غافل نہ ہو جو کہ تجھ سے غفلت نہیں  
فرماتا ہے موت کو یاد کئے جا کیوں کہ ملک الموت روحوں پر  
مسلط کر دیئے گئے ہیں تیرا اسباب اور تیرا مال اور جو کچھ بھی تیری  
ملکیت میں ہے تجھے دھوکہ میں نہ ڈال دے عنقریب یہ سب  
تجھ سے لے لیا جائے گا۔ اور تو اپنی تصور داری اور ان ایام کی  
فطریات میں ضائع کر دینے کو یاد کر کے نادم و شرمندہ ہو گا اس  
وقت کی ندامت تجھے کچھ نفع نہ دے گی۔ عنقریب تو مرے گا اور  
میرے وعظ و نصیحت کو یاد کرے گا اور اپنی قبر میں تنہا کرے گا  
کہ تو میرے پاس ہی ہوتا اور میرے وعظ کو مجھ سے سنتا تو اس  
بات کی کوشش کہ تو میرے قول کو قبول کرے اور اُس پر عمل کرے تاکہ  
تو دنیا و آخرت میں میرے ساتھ رہے۔ تو میرے ساتھ کن گن  
رکھ تاکہ تجھ کو میرا قول نفع دے۔ دوسروں کے ساتھ تو نیک گن  
رکھ اور اپنے نفس سے بد گن رہ اگر تو ایسا کرے گا تو خود بھی  
نفع پائے گا دوسرے بھی تجھ سے نفع پائیں گے۔ جب تک تو  
غیر اللہ کی معیت میں رہے گا پس تو رنج و غم اور شرک و گناہ میں مبتلا  
رہے گا تو دل سے مخلوق سے علیحدہ ہو جا اور حق عزوجل سے  
مل جا اس حالت میں تو وہ دیکھے گا جو کہ نہ اُنکھتے دیکھا ہے۔  
اور نہ کانوں سے سنا ہے اور جو نہ کسی انسان کے قلب میں خطرہ  
بن کر گزرا ہے جس حالت میں کہ تو ہے یہ تو درست و تمام ہی نہیں رہا  
پر مٹی ہے کیوں کہ اُس کی بنیاد سست و کمزور ہے مضبوط نہیں وہ

تو گر جانے والی ہے تو نے تو اونچے ٹیلہ پر عمارت بنا رکھی ہے  
تو اللہ کی طرف رجوع لا تو برک اور اس حالت کی جس میں کہ تو ہے۔  
بدل دینے کی خدا سے تمنا کر دنیا کی طلب اور آخرت سے روگردانی  
جو دل میں گھسی ہوئی ہے اُسے وہ دور کر دے۔

تجھ پر انسوس ہے خدا نے تیرے لیے محتاجی کو پسند کیا  
ہے اور تو اُس سے امیری طلب کرتا ہے کی تو نے نہ جانا کہ وہ  
جسے تیرے لیے پسند کرتا ہے تو اُس کو ناپسند کر رہا ہے۔ تو خدا کے  
پسند کی ہوئی چیز کو ناپسند ٹھہرا رہا ہے۔ تیرا نفس اور تیری خواہش اور  
تیری طبیعت اور تیرا شیطان اور تیرے بسے ہم نشین سب کے  
سب اختیار الہی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس تو اُن کی موافقت نہ کر اور  
نہ تو اُن کی طرف متوجہ ہو اور نہ تو اُن کے اعتراض اور خدا پر غصہ  
کی طرف متوجہ کر۔ تو قلب و باطن کے حکم کو فقط سنا کر کیوں کر یہ دونوں  
خیر کا حکم دیتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں۔ تو اپنی محتاجی پر راضی  
رہ کیوں کہ اُس پر تیری رضامندی وہی بعینہ امیری و دولت ہے۔ یہ  
بھی منجملہ حفاظت الہی کے ہے کہ تو غلات تقدیر پر قدرت نہیں  
رکھتا ہے کیوں کہ جس وقت رب تمنا لے اس پر تجھے قدرت ملے  
دیتا تو غالب و ظاہر تری ہی ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب سے  
ہلاک ہو جاتا ہے اور جب کہ اُس نے تجھے محتاج و عاجز بنا دیا ہے  
تو غالب و ظاہر تری ہی ہے کہ وہ تیرے گناہوں سے محافظت  
فرما رہا ہے پس جب تو خدا کے اختیار پر صبر اختیار کر لے گا تو تیرے  
لیئے اُس کے پاس اسنا ثواب ہو گا کہ تو اور تمام زمین والے اُس  
کے شمار کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے تو تو جلد باز ہے اور  
جلد باز کے ہاتھ میں اُس کے خواہشات میں سے کچھ بھی نہیں آتا  
جلد بازی شیطان کا کام ہے اور اطمینان و توقف رحمن کی طرف  
سے ہوتا ہے۔ جب کہ تو جلد بازی کرے گا تو تو شیطان کے لشکر سے

مُزِيلُهُ وَقَدْ بَنَيْتَ عَلَى رُبُوبَةٍ ثُبَّ إِلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْأَلْهُ تَغْيِيرَ مَا أَنْتَ  
عَلَيْهِ وَفِيهِ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَالْإِعْرَاضِ  
عَنِ الْآخِرَةِ  
وَيُحَكِّمُ قَدِ اخْتَارَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
لَكَ الْفَقْرَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْغِنَى أَمَا عَلِمْتَ  
أَنَّهُ يَخْتَارُ لَكَ وَأَنْتَ كَارِهٌ إِشْمَاكَ تَكْرَهُ  
إِخْتِيَارَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَكَ وَهُوَ الْكَ  
وَطَبْعُكَ وَشَيْطَانُكَ وَأَفْرَانُكَ الشُّعُوبُ جَمِيعٌ  
هُوَ لَا يَكْرَهُونَ إِخْتِيَارَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
فَلَا تُؤَافِقُهُمْ وَلَا تَتَلَفِتْ إِلَيْهِمْ وَإِلَى اعْتِرَاضِهِمْ  
وَتَسْخِطُهُمْ عَلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ اسْمِعْ مَا  
يَأْمُرُ بِهِ الْقَلْبُ وَالسِّرُّ فَإِنَّهُمَا يَأْمُرَانِ  
بِالْخَيْرِ وَيَنْهَيَانِ عَنِ الشَّرِّ إِنْ رَضِيَ بِفَتْرِكَ  
فَإِنْ رَضَاكَ بِهِ هُوَ الْغِنَى بَعِينُهُ مِنَ الْعِصْمَةِ  
أَنْ لَا تَقْدِرَ لَاتَهُ إِذَا أَخَذَكَ الْعَالِبُ وَالْأَظْهَرُ  
أَنَّكَ تَهْلِكُ بِمَعَاصِيهِهِ وَإِذَا أَفْقَرَكَ وَاجْعَلَكَ  
الْعَالِبُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَعِصُكَ مِنْ  
الْمَعَاصِي فَإِذَا صَبَرْتَ عَلَى إِخْتِيَارِهِ كَانَ  
لَكَ عِنْدَهُ ثَوَابٌ لَا تَقْدِرُ أَنْ تُحْصِيَهُ  
أَنْتَ وَآهْلُ الْأَرْضِ أَنْتَ مُسْتَعَجِلٌ وَ  
الْمُسْتَعَجِلُ لَا يَقَعُ بِبَيِّدِهِ شَيْءٌ  
مِنَ الَّذِي يُرِيدُ الْعُجْكَ مِنَ  
الشَّيْطَانِ وَالشُّؤْدُودَةِ مِنَ الرَّحْمَنِ  
إِذَا اسْتَعَجَلْتَ كُنْتَ مِنْ جُنْدِ الشَّيْطَانِ

وَمَعَهُ وَإِذَا تَرَفَعْتَ وَتَبْتَ وَقَدْ بَتَّ  
وَصَبَرْتَ كُنْتَ مِنْ جُنْدِ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ  
حَقِيقَةُ التَّوَلَّى فَعَلْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ بِفِعْلِهِ وَتَزَكَّ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِتَزَكُّهِ  
وَالصَّبْرَ عَلَى أَعْمَالِهِ وَمَقْدُورَاتِهِ وَسَائِرِ  
بَلَايَاهُ وَأَوَاقِيَتِهِ أَنْتُمْ خُصُّ كُلِّ نَفْسٍ كُلِّ  
هُوَى كُلِّ غَيْبَةٍ كُلِّبَةٍ كُلِّ مَا عِنْدَكُمْ  
مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مِنَ الْعَارِفِينَ بِهِ  
خَبَرًا أَنْتُمْ مَجَانِبِينَ بِالْإِصْنَاءِ إِلَيْهِمْ هُمُ  
الْعُقَدَاءُ إِذَا تَمَجُّنُونَ مَجُنُونِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ حَانَ خُرُوجُهُ مِنَ الْجُنُونِ الْحَرَكَةُ  
بَدَايَةُ وَالسُّكُونُ نِهَايَةُ يَزُولُ الدَّرَجُ  
وَيَتَّبِعُهُ حَسْمَةٌ

يَا غُلَامُ أَنْتَ قَارِعٌ مِنَ الْآخِرَةِ  
مَلَانُ بِاللَّيْنِ وَيَعْمَلُ حَالُكَ وَيَعْمَلُ  
فِرَاقُكَ الصَّالِحِينَ وَالْأَوَّلِيَاءُ وَتَزَكُّ  
مَجَالِسَتِهِمْ وَاسْتِغْنَاؤُكَ بِرَأْيِكَ  
أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ  
ضَلَّ مَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةٍ  
عِلْمِهِ مَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَغَيْرُهُ أَعْلَمُ مِنْهُ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَوْتَيْنَاكَ مِنَ  
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا عَلَيْكَ بِالْجَمِّ هُوَ عَلَيْكَ  
بِالْجَوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالْجَوَادِ

اور اس کا ساتھی ہو جائے گا اور جب کہ تو توقف کرے گا اور توبہ  
کرے گا اور ادب بجالائے گا اور صبر کرے گا تو تو خدا کے لشکر  
میں سے اور اُس کا ساتھی ہو گا۔ حقیقت نقول یہ ہے کہ جن باتوں  
کا خدا نے حکم کیا ہے اُن کو کیا جائے اور جن سے بچنے کا حکم دیا  
ہے اُن کو چھڑ دیا جائے اور اُس کے افعال و مقدرات اور تمام  
بلاؤں اور آفات پر صبر کیا جاوے۔ تم سرتاپا خلق اور نفس اور  
خواہش اور سرتاپا غیر حاضر اور محض طبیعت بن گئے ہو تمہیں اللہ  
اور اُس کے سبحان والوں سے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تم تو باعتبار  
اُن کے بالکل پاگل و مجنون جیسے ہو وہ تو عاقل ہیں جب خدا کے  
دیوانہ کا جنوں کامل ہو جاتا ہے تو اُس کا دیوانہ پن سے نکلنے کا وقت  
قریب آ جاتا ہے۔ ابتداء حرکت ہوتی ہے اور انتہاء سکون ملی  
اُس کا مرض زائل ہو جاتا ہے اور حکمت اُس کی تابعدار بن  
جاتی ہے۔

اے غلام تو تو آخرت سے خالی اور دنیا سے بھرا ہوا  
ہے اور مجھ کو تیرا حال اور تیری صاحبین و اولیاء اللہ سے بدائی  
اور تیرا اُن کی خدمت میں حاضر نہ رہنا اور اپنی رائے پر تیرا بھروسہ  
کر کے بے پروا ہو جانا غم میں ڈالتا رہتا ہے۔ کیا تو نے یہ نہ  
جانا چچا نا کہ جو اپنی رائے کو کافی سمجھ کر اُس پر بھروسہ کرتا ہے۔  
گمراہ ہو جاتا ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں جو کہ علم کی زیادتی کا محتاج  
نہیں ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس سے اُس کا غیر زیادہ علم  
والانہ ہو۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔ وَمَا أَوْتَيْنَاكَ مِنَ  
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تو بہت ٹھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو صہور کے اتباع کو لازم  
پکڑ تو بڑی جماعت سے علیحدہ نہ ہو تو شاہراہ اعظم کو پکڑے راہ

ف۔ سواد اعظم کا اتباع لازمی ہے۔

عَلَيْكَ بِالْمُتَابَعَةِ وَتَرْكِ الْمَفَارِقَةِ لَا دَاءَ  
الطَّرِيقِ إِلَّا التَّبَعُ وَلَا تَبْتَدِعُوا أَهْلَ لِقَائِكُمْ  
هَذِهِ الطَّرِيقُ لَا تُسَلِّكُ مَعَ النَّفْسِ الْهَوَى  
بَلْ مَعَ الْحُكْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِ الْحَوْلِ  
وَالْقُوَّةِ وَالْجَلَادَةِ وَأَخْذِ الْإِسْنَسِلَامِ  
وَالْإِسْطِطْرَاحِ وَتَرْكِ الْعُجْجَلَةِ وَأَخْذِ  
التَّوَدُّدَةِ هَذَا شَيْءٌ لَا يَجِيءُ بِعُجْجَلَتِكَ  
يَحْتَاجُ إِلَى جَبَالٍ وَرَجَالٍ وَصَبْرٍ وَمُعَانَاةٍ  
وَمُجَاهَدَةٍ وَأَنْ تَصْحَبَ بَعْضَ مُلُوكِ  
الْمَعْرِفَةِ حَتَّى يَدُلَّكَ وَيُعْرِفَكَ وَيَحْمِلَ  
عَنْكَ ثِقْلَكَ تَمْشِي فِي رِكَابِهِ فَإِذَا تَعَبْتَ  
أَمَرَ بِحَمْلِكَ أَوْ أَرَدَ فَكَ خَلْفَهُ إِنْ كُنْتَ  
مُحِبًّا أَرَدَ فَكَ خَلْفَهُ وَإِنْ كُنْتَ مُحِبُّوًّا  
أَرَكَبَكَ فِي سَرْجِهِ وَرَكِبَ هُوَ خَلْفَكَ مَنْ  
ذَاقَ هَذَا أَفْقَدَ عَرَفَةَ الْقُعُودَ مَعَ أَهْلِ  
الْأَهْلِيَّةِ نِعْمَةً وَمَعَ الْأَغْيَا وَالْمُكْذِبِينَ  
الْمُتَأَفِّقِينَ نِقْمَةً عَلَيْكَ يَا لِمَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ وَالْمُطَالَبَةَ لِنَفْسِكَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا  
مِنْ حَقُوقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقُوقِ خَلْقِهِ  
إِنْ أَرَدْتَ الْخَيْرَ دُنْيَا وَآخِرَةً فَارْقُبْ  
عِلْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبِكَ وَطَالِبِ نَفْسِكَ  
بِالْعَمَلِ تُطَالِبُهَا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
تَنْهَاهَا عَنْ إِرْتِكَابِ مَعَاصِيهِ تَلْزِمُهَا  
بِالصَّبْرِ عِنْدَ بَحْيِ الْأَفْئَاتِ وَالرِّضَا عِنْدَ  
مَرِيحِ الْأَقْضِيَةِ وَالْإِقْدَارِ وَالشُّكْرِ

تو شریعت کی تابعداری کو اور اس سے جدا نہ ہونا اللہ تعالیٰ تمہیں  
رسانی ہوگی تم سب اتباع کرو اور بدعت کے راستے نہ نکالو  
پس تم یقیناً مقصود پاؤ گے۔ اس راستہ پر نفس و خواہش کی معیت  
میں چلنا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حکم کی معیت میں عمل کر کے اپنی  
طاقت و قوت اور بہادری کو اور سر تسلیم جھکا کر اور سر اٹھانے کی  
اختیار کر کے جلدی بازی چھوڑ کر استیغاثی اختیار کر کے  
یہ راستہ طے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے تیری جلد بازی  
سے آجائے۔ یہ تو بڑی کھیل اور مردان خدا کی معیت اور  
صبر اور شقت و مجاہدہ سے اس بات سے کہ تو بعض باطنیان  
معرفت الہی کے دربار میں رہے تاکہ وہ تجھے راستہ بتائیں اور  
معرفت کا سبق دیں اور تیرے بوجھ کو تجھ سے اٹھالیں تو  
ان کی ہر کامیابی میں پہلے پس جب تو تھک جائے وہ تیرے  
اٹھالینے سوار کرنے کا حکم دیں اور اپنے پیچھے لے لیں حاصل  
ہو سکتا ہے۔ اگر تو محب ہو گا تو تجھے اپنی زین پر سوار کر کے  
خود تیرے پیچھے سوار ہو کر چلیں گے۔ جس نے یہ ذائقہ کھچا پس  
اُس نے اُس کو پہچانا۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا جو اس کے اہل  
ہیں ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور  
منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ تو اللہ کے واسطے مراقبہ اور اپنے  
نفس سے ان چیزوں کا مطالبہ جو کہ اُس پر حقوق الہی اور حقوق العباد  
سے واجب ہیں لازم پکڑ۔ اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا  
ہے پس تو علم الہی میں جو کہ تجھ سے متعلق ہے مراقبہ کیا کر اور اپنے  
نفس سے عمل طلب کر اس کا مطالبہ کر کہ وہ نفس امر الہی کو بجالائے  
اور گناہ اختیار کرنے سے باز رہے۔ اور آفت نازل ہونے  
کے وقت اُس پر صبر کو اور احکام تنہا و تندر آترنے کے  
وقت رضا مندی کو اور نعمت ملنے کے وقت اُس پر شکر

عِنْدَ مَبِیْحَى النَّعَمِ فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا زَالَتْ  
عَنْكَ الْمَوَانِعُ وَاسْتَقَامَتْ لَكَ الصُّلَحَةُ  
مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ بِالرَّفِیقِ فِي  
الطَّرِیقِ وَوَقَعَتْ بِالْعَیْنِ وَلَجِجْتَ  
بِالْكُزِّ الَّذِی یَتَّبِعُكَ أَبْنَمَا تَوَجَّهْتَ لَا  
تُبَالِیْ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ حَلَلْتَ لِأَنَّكَ أَيْنَمَا  
سَقَطْتَ لُقِطْتَ بِخِدْمَةِ الْحَكَمِ وَالْعِلْمِ  
وَالْقَدَرِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ  
يَخَافُ مِنْكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا عَتَاكَ إِلَهُ عَزَّ  
وَجَلَّ مَنْ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَافَ  
مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ أَخَافَهُ  
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَنْ خَدَمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
أَخْدَمَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسَهُ لَا يُهْنِمُ  
مِنْ عَمَلٍ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ ذَرَّةً كَمَا تَدِينُ  
قَدَانٌ كَمَا تَكُونُوا يَوْمَ عَذَابِكُمْ  
اللَّهُمَّ عَزِّمْنَا بِكَ مِلَكَ وَاحْسَانِكَ  
وَتَجَاوِزِكَ وَطُفِكَ بِنَا فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَابْتِنَا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ ۝

کو لازم کر دے پس جب توبہ کرے گا تجھ سے موانعات  
زائل ہو جائیں گے اور تیری مصاحبت اللہ عزوجل کے ساتھ  
درست ہو جائے گی اور راستہ میں تجھے تیرا رفیق مل جائے  
گا اور حقیقہ معرفت پائے گا اور ایسا خزانہ تیرے ہاتھ آجائے  
گا کہ جہاں کہیں تو جائے گا وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تو  
اس کی کچھ پروا نہ کرے گا کہ کہاں اُترا کیوں کہ تو جہاں کرے  
گا اُٹھایا جائے گا۔ حکم و علم و قدر اور انسان اور فرشتہ  
سب تیرے خادم بن جائیں گے۔ تجھ سے ہر چیز ڈرنے  
لگے گی کیوں کہ تو اللہ عزوجل سے ڈرنے والا بن گیا ہے اور  
ہر چیز تیری فرمانبرداری کرنے لگے گی کیونکہ تو اللہ عزوجل کا  
فرمانبردار ہو گیا ہے جو کہ اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے ہر چیز  
اُس سے ڈرنے لگتی ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اُس کے  
دل میں ہر چیز سے خوف ڈال دیا جاتا ہے جو کوئی اللہ کا خادم  
بن جاتا ہے ہر چیز کو خدا اس کا خادم بنا دیتا ہے اس واسطے  
کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کا ذرہ بھر بھی عمل ضائع نہیں فرماتا  
جیسا کہ تو کرے گا بدلہ پائے گا جیسے تم ہو گے ویسا ہی تم پر  
حاکم مسلط کیا جائے گا اسے اللہ تو دنیا و آخرت میں ہم سے  
اپنے کرم و احسان اور درگزر کرنے اور لطف کے ساتھ  
معاملہ فرمانا اور ہم کو دنیا و آخرت کی نیکیاں دینا اور عذاب  
دوزخ سے بچانا آمین۔

## پچھنویں مجلس

## المجلس السادس والخمسون

## موت کے یاد کرنے کے بیان میں

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۵۵ھ کو خاتما شریف میں ارشاد

فرمایا:

اے غلامِ تحقیق میں تیرے کاروبار کو ان لوگوں کے خلاف پاناہوں جو خدا کا دھیان رکھنے والے اُس سے ڈرنے والے ہیں تو اہل شر و فساد سے ملتا جلتا ہے اور اولیاء اللہ اور برگزیدہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے تو نے اپنے قلب کو حق عزوجل سے خالی کر لیا ہے اور اُس کو دنیا اور اہل دنیا اور اسباب دنیا کی خوشی سے پر کر لیا ہے کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ خوفِ الہی قلب کا کو تو ال ہے اور وہی اس کو نورانی کرنے والا اور اس کی وضاحت و تفسیر کرنے والا۔ اگر تو نے اس حالت پر چڑھ کر کوئی پس یقیناً تو نے دنیا و آخرت میں سلامتی کو رخصت کر دیا۔ اگر تو موت کو یاد کرتا رہتا تو دنیا کے ساتھ تیری مسرت کم ہو جاتی اور تیرا زہد اُس میں بڑھ جاتا جس کا انجام کاموت ہے وہ کسی چیز سے کیسے خوش ہو سکتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر سعی کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کی غایت و انتہا موت ہے۔ آخر و انجامِ خوشیوں اور غموں اور امیری و فقری اور سختی اور نرمی اور مرضوں اور درویشوں کا موت ہی ہے جو سراسر اُس کی نیامت قائم ہو گئی اور جو چیز اُس کے حق میں بعید تھی قریب ہو گئی۔ تمام وہ چیزیں جن میں تو مبتلا ہے سر نہاپا ہوئیں۔ تو ان سب سے اپنے

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُكَرَةُ الْأَحْدَفِ فِي الرِّبَاطِ تَاسِعَ عَشَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ يَا غُلَامُ إِنِّي أَرَى تَصَارِيْفَكَ عَيْرَ تَصَارِيْفِ الْمُرَاقِبِينَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْخَائِفِينَ مِنْهُ تَوَاصِلُ أَهْلِ الشَّرِّ وَالْفُسَادِ وَتَفَارِقُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ قَدْ فَرَعْتَ قَلْبَكَ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائَتِهِ مِنَ الْفَرَجِ بِاللُّبِّ وَأَهْلِهَا وَحُطَّامِهَا مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْخَوْفَ شَحْنَةٌ فِي الْقَلْبِ وَمُتَوَسِّرٌ لَهُ وَمُبَيِّنٌ وَمُقَسِّرٌ إِنْ دُمْتَ عَلَى هَذَا فَقَدْ دَعَوْتَ السَّلَامَةَ دُنْيَا وَآخِرَةً لَوْ ذَكَرْتَ الْمَوْتَ قَلَّ فَحَلْكَ بِاللُّبِّ وَكَثُرَتْ هَذَلِكَ فِيهَا مِنْ أَخْرَجَ الْمَوْتَ كَيْفَ يَفْرَحُ بِشَيْءٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ سَاعٍ عَايَةٌ وَعَايَةُ كُلِّ حَيٍّ الْمَوْتُ اخْرِجِيهِمُ الْآخِرَانِ وَالْأَوَّلَانِ وَالْغَنَى وَالْفَقْرُ وَالْبَشَادَةُ وَالرَّخَاءُ وَالْأَمْرَاضُ وَالْأَوْجَاعُ الْمَوْتُ مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ وَقَرَّبَ الْبَعِيدُ فِي حَقِّهِ جَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ هَوَسٌ تَفَرَّ دُعَا أَنْتَ فِيهِ جَمِيعَةٌ

بِقَلْبِكَ وَسِرِّكَ وَبَاطِنِكَ الدُّبِّيَّ إِلَى أَمَدٍ  
مَعْلُومٍ وَالْآخِرَةَ إِلَى أَبَدٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ

إِجْهَدْ أَنْ تَكُونَ كُلَّكَ  
طَاعَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ صِرْتَ بِجُحُودِكَ  
لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْصِيَةَ وَجُودُ النَّفْسِ  
وَالطَّاعَةِ فَقَدْ أَتَاهَا تَنَاوُلُ الشَّهَوَاتِ  
وَجُودُ النَّفْسِ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنْهَا فَقَدْ أَتَاهَا  
إِمْتِنَاعٌ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَلَا تَنَاقُ لَهَا إِلَّا مُوَافَقَةٌ  
لِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاخْتِيَارِكَ وَشَهَوَاتِكَ  
تَنَاوُلُ الشَّهَوَاتِ بِيَدِ الزُّهْدِ فِيهَا فَهَرَا  
وَجَبَرًا تَحَوَّلَ يَدُ الزُّهْدِ فَتَنَاقُ وَبِ  
الشَّهْوَةِ فَتَبْلَغُهَا إِلَى النَّفْسِ الزُّهْدُ لَا بُدَّ  
مِنْهُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِحَالَاتِكَ  
الزُّهْدُ فِي الظُّلْمَةِ وَالتَّنَاوُلُ وَالرَّغْبَةُ  
فِي الصَّبِيَاءِ ذَلِكَ ظُلْمَةٌ فَأَخْرِجْ عَنْكَ  
فَقَدْ رَأَيْتِ الصَّبِيَاءَ الْقَدَرَةَ ظُلْمَةٌ وَوَقُولُكَ  
مَعَ الْمَقْدَرِ صَبِيَاءَ أَوَّلَ أَمْرِكَ ظُلْمَةٌ فَإِذَا  
جَاءَ الْكُشْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَثَبَّتْ  
بَيْنَ يَدَيْهِ مَارَ أَمْرَكَ صَبِيَاءَ إِذَا جَاءَ  
نُورُ قَمَرِ الْمَعْرِفَةِ كُشِفَ ظُلْمَةُ بَيْلَةِ الْقَدَرِ  
فَإِذَا طَلَعَتِ شَمْسُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
ذَلَّتِ الْأَكْدَارُ وَالظُّلْمَةُ فِي الْجُمْلَةِ يَتَبَيَّنُ  
لَكَ مَا حَوْلَكَ وَمَا هُوَ بَعِيدٌ عَنْكَ بَيِّنٌ لَكَ  
وَيَبْصُرُ مَا كَانَ مُشْكِكًا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

قلب دسرو باطن کے ساتھ علیحدہ ہو جا۔ دنیا کا تینام ایک معین  
مدت تک ہے اور آخرت ابد الابد تک کے لیے جس کی کوئی  
مدت معین نہیں ہے تو اس کی کوشش کر کہ تو سراپا طاعت بن  
جاے پس تو ایسا کرے گا تو تو پورے طور سے رب عزوجل  
کا بن جاے گا۔ نفس کا وجود معصیت ہے اور اس کا کام کر  
دینا طاعت خواہشوں پر عمل کرنا نفس کا وجود ہے اُن سے  
باز رہنا نفس کا کام کر دینا ہے۔ تو خواہشات نفسانیہ سے  
باز رہ اور بغیر موافقت اور تقدیر الہی کے خواہشات کو حاصل  
ہی نہ کر تو اپنی خود مختاری سے اور نہ اپنی خواہشوں سے تو زہد  
کے ہاتھ سے جبراً تہراً خواہشوں کو استعمال کرتا رہ۔ زہد و  
یہ رغبتی کے ہاتھ کو ہا کہ مقدر خواہشات کو حاصل کر کے  
اُن کو نفس تک پہنچا دے زہد بغیر چارہ نہیں اپنی حالت پر مطلع  
ہونے سے قبل اُس کی ضرورت و حاجت ہے زہد بے نتیجی  
تاریکی کی حالت میں ہوتی ہے اور رغبت و زہد روشنی کی  
حالت میں۔ یہ ابتدائی حالت تاریکی ہے پس تو اس کو اپنے  
سے دور کر دے روشنی نظر آنے لگے گی۔ قدرت تاریکی ہے  
اور تیرا قدرت والے کے ساتھ ٹھہرنا روشنی تیرا اول معاملہ  
تاریکی ہے پس جب اندر عزوجل کی طرف سے اُس کا کشف  
ہو جائے گا اور تو اُس کے روبرو ثابت قدم ہو کر ٹھہر جائے  
گا جب تیرا معاملہ روشن ہو جائے گا جب عمر معرفت  
کی روشنی ظاہر ہوتی ہے شب قدر کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے  
پس جب معرفت الہی کا آفتاب چمک جائے گا تمام کدوتیں  
اور اندھیریاں زائل ہو جائیں گی۔ فی الجملہ تمام وہ چیزیں جو  
تیرے ارد گرد ہیں اور جو کہ تجھ سے دور ہیں تجھ پر ظاہر ہو  
جائیں گی اور جو حالات کہ اس کے قبل تجھ پر مشکل تھے سب کے سب

يُمَيِّزُ لَكَ بَيْنَ الْخَبِيثِ وَالطَّيِّبِ مَا  
لِغَيْرِكَ وَمَا لَكَ تُفَرِّقُ بَيْنَ مُرَادِ الْخَلْقِ  
وَمُرَادِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ تَرَى بَابَ  
الْخَلْقِ وَبَابَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرَى  
هَذَا لَكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ  
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَيَا كُلَّ  
قَلْبِكَ مِنْ طَعَامِ الْمُسَاهَدَةِ وَيَشْرَبُ  
مِنْ شَرَابِ الرُّنُسِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ خَلْعُ  
الْقَبُولِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى الْخَلْقِ لِمَصَالِحِهِمْ  
وَرَدُّهُمْ مِنْ ضَلَالِهِمْ وَهَجْرَهُمْ لِرَبِّهِمْ  
عَزَّ وَجَلَّ وَعِصْيَانِهِمْ لَهُ يُرَدُّ مَعَ  
الْحَصَنِ الْحَصِينَ وَالْحَفِظِ الدَّائِمِ  
وَالسَّلَامَةِ الدَّائِمَةِ يَا مَنْ لَا يَعْقِلُ  
هَذَا وَلَا يُؤْمِنُ بِهِذَا أَنْتَ قَسْرٌ بَلَا  
لَيْتَ خَشْيَةً مُسْتَدَّةً تَخِرُّهُ تَصْلَحُ لِلنَّاسِ  
إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَتُؤْمِنَ وَ  
تُصَدِّقَ -

وَيُحَاكِي إِنْ تَبَّتْ وَآمَنْتَ وَ  
صَدَّقْتَ وَوَأَفَقَّتْ فِي فَنِيَّتِكَ تَجِدُ الْخَيْرَ  
وَالسَّلَامَةَ وَالْحَلَالََةَ وَإِنْ لَمْ  
تَفْعَلْ تَجِدْ فِيهِ الرُّجَاةَ بَعْدَ طَمٍ  
بِسَاكَ وَتَهْوَاتِكَ وَكِبْدَكَ إِقْبَلْ  
قَرِيءِي فَإِنِّي فِي حَبَا لَكَ  
أَقْبَلُ إِقْبَلْ لَا تَعْلَوِيْنِي فَأَيْشَ بَيْنِي  
وَبَيْنَكَ مِنَ الْعَدَاوَةِ أَنَا

واضح ہو جائیں گے تجھے خبیث و پاک میں تمیز ہو جائے گی  
اور دوسروں کے اور اپنے معاملات میں فرق معلوم ہو جائے  
گا تو مخلوق و حق عزوجل کی مراد میں فرق کرنے لگے گا مخلوق و  
خالق کے دروازہ کو علیحدہ علیحدہ دیکھے گا۔ پس تو خالق  
کے دروازہ پر وہ چیزیں دیکھے گا جو کہ آنکھ نے دیکھیں  
اور نہ کانوں نے سُنیں۔ اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر  
گزرے۔ تیرا قلب وہاں مشاہدہ الہی کے طعام کو کھائے گا  
اُنس کی شراب پئے گا اور اُسے قبول کے غلت عطا فرمائے  
جائیں گے۔ پھر اُس کو مخلوق کی مصلحتوں کے لیے اور اُن کو  
مگر ابھی سے واپس لانے کے لیے اور رب کے چھوٹنے  
سے لوثانے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے  
لیے مخلوق کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اس کا یہ لوٹنا سخت  
مضبوطی اور حفاظت و سلامت دائمی کے ساتھ ہوتا ہے۔  
اسے ان امور سے جاہل اور ان پر ایمان نہ رکھنے والے تو تو  
بغیر مغز کا چھلکا ہے اور محض ایک ٹیک کی کوڑی ہے کوڑی بھی  
بوسیدہ جو فقط جلنے کے ہی قابل ہے مگر توبہ کرنے اور اس پر  
ایمان لانے اور تصدیق کرنے سے نجات ہو سکتی ہے نتیجہ  
پراسوس اگر توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور تصدیق  
کرے گا اور تقدیر کے ساتھ موافقت کرے گا پس تو اپنی  
طرف میں بھلائی اور سلامتی اور شیرینی پائے گا اور اگر تونے  
ایسا نہ کہا تو تو اُس میں شیشہ کے ٹکڑے پائے گا اور جو کہ تیری  
زبان کو کاٹ ڈالیں گے اور تیرے تالو اور جگر کو پارہ پارہ  
کر دیں گے۔ تو میری بات کو مان لے پس تحقیق میں تیری  
رسیوں میں بل دیتا ہوں۔ میری بات مان مجھ سے دشمنی نہ کر  
میرے اور تیرے درمیان میں دشمنی کی کیا وجہ ہے۔ میں تو

مَسْجِدًا يَصَلُّونَكَ وَلَا نَمَالَهَ نَجَاسَتِكَ  
وَأَوْسَاخِكَ أَطْرُقُ لَكَ الطَّرِيقُ  
وَأَهْدِي لَكَ فِيهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ  
أَفْعَلْ ذَلِكَ مَعَكَ وَلَا أُرِيدُ مِنْكَ  
جَزَاءً عَلَى ذَلِكَ جَائِزَةً عَلَى غَيْرِكَ  
شُعْلَى خِدْمَةٍ الطَّالِبِينَ لِلْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ إِذَا صَدَّ طَلَبُكَ لِلْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ سَتَحَرْتُ لِخِدْمَتِكَ إِذَا تَمَّ قَصْدُ  
الْعَبْدِ وَطَلَبُهُ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ  
الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مُسْتَحَرَّةً لَهُ.

تیری عبادت اور تیری نجاست اور سیلوں کے دور کرنے کے  
لیے ایک مسجد میں ہوں تیرے لیے راستہ صاف کرتا ہوں  
اور تیرے لیے اُس میں کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہوں  
میں تیرے ساتھ ہر سب کچھ کرتا ہوں اور میں تجھ سے اس  
کا کچھ معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں میری ضروری !  
میرے پیالہ کا بھرنے تو کسی دوسرے پر ہے نہ کہ تجھ پر  
میرا مشغلہ تو طالب علموں کی خدمت محض اللہ واسطے  
ہے۔ جب تیری حق عزوجل کے لیے طلب درست  
ہو جائے گی تو میں تیری خدمت کے لیے مسخر کر دیا  
جاؤں گا۔ جب بندہ کا قصد اور اُس کی طلب اللہ کے  
لیے کامل طور پر ہو جاتی ہے تو تمام چیزیں اُس کی مسخر کر  
دی جاتی ہیں۔

اے غلام تو خود اپنے نفس کا واعظ و ناصح بن  
اور میرا اور کسی دوسرے کا حاجت مند نہ بن۔ میرا واعظ  
تیرے ظاہر کی بنا پر ہو گا اور تیرا خود واعظ تیرے باطن  
کے حال پر۔ تیرا واعظ نفس سے یوں ہو کہ ہمیشہ تو موت کو  
یا دیکھا کر اور تمام علاقوں اور سببوں سے قطع تعلق کرے  
تمام ماکول کے مالک پیدا کرنے والے عظیم و عظیم سے  
تعلق رکھ اُسی کے دامن رحمت سے اور اسی کی رافت سے  
چٹا رہ تو اُس کی غیر کی طرف توجہ نہ کر وہ غیر تجھ کو اُس سے  
دور ڈال دے گا۔ تم میں سے ایک بھی اگر میرے ہاتھ  
پر فلاح پالیتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں اور جب میں کسی کو  
نقصیت کرتا ہوں اور وہ اُسے قبول نہیں کرتا ہے تو میں  
اُس پر غمگین ہوتا ہوں مسلمان مجھ سے قریب ہوتا ہے اور  
منافق مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اے منافق تو اللہ عزوجل

يَا غُلَامُ كُنْ أَنْتَ وَاعِظْ نَفْسِكَ  
وَلَا تَحْتَبِ رَأْيِي وَلَا إِلَى غَيْرِي  
وَعِظِي عَلَى ظَاهِرِكَ وَوَعِظُكَ عَلَى  
بَاطِنِكَ عِظْ نَفْسَكَ بِدَوَامِ ذِكْرِ  
الْمَوْتِ وَقَطِّعِ الْعَلَائِقَ وَالْأَسْبَابَ  
تَعَلَّقْ بِرَبِّ الْأَرْبَابِ الْخَلَائِقِ الْعَظِيمِ  
الْعَلِيمِ تَعَلَّقْ بِذِيلِ رَحْمَتِهِ وَتَعَلَّقْ  
بِرَأْفَتِهِ لَا تَشْتَغِلْ بِغَيْرِهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ  
يَحْجُبُكَ عَنْهُ إِذَا أَفْلَحَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ  
عَلَى يَدَيَّ فَرَحْتُ لَهُ وَإِذَا أَقْلَتْ لَهُ  
وَلَمْ يَقْبَلْ حَزَنْتُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مِنْ  
يَدَيَّ وَمَتَّى وَالْمَنَافِقُ يَهْرُبُ مِنِّي يَا  
مَنَافِقُونَ أَنَا مَنَافِقُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي

غَضَبِهِ عَلَيْكُمْ قَدْ جَعَلَنِي نَارًا مُوقَدَةً  
عَلَيْكُمْ فَإِنْ تَبُتُمْ وَقَبِلْتُمْ مَا أَقُولُ  
لَكُمْ وَصَبَّوْنَهُ عَلَى خُشُونَةٍ كَلَّا هِيَ  
كُنْتُ عَلَيْكُمْ بَرْدًا وَسِلًا مَّا وَيْلَكُمْ  
مَّا تَسْتَحْيُونَ طَاعَتَكُمْ طَاهِرَةً  
وَمَعَاصِيَكُمْ بَاطِلَةً أَنْتُمْ عَنْ  
قَرِيبٍ مَّا خُودُونَ بِبِدَا الْمَوْتِ  
وَالسَّقَمِ ثُمَّ تَسْجَنُونَ فِي سِجْنِ  
نَارِ اللَّهِ عَذْرًا وَجَلَّ وَأَنْتُمْ يَا مَعْصِرُونَ  
فِي الْأَعْمَالِ مَا تَسْتَحْيُونَ قَدْ رَضِيتُمْ  
بِالْبَطَالَةِ فِي نَهَارِكُمْ وَيَكُمُ تَرِيدُونَ  
مَّا عِنْدَ اللَّهِ عَذْرًا وَجَلَّ مَعَ التَّفْصِيرِ  
اهْجُمُوا عَلَى الْأَعْمَالِ وَتَدَّ  
تَمَوَّدَتْهَا تُفُوسُكُمْ يَكُلَّ دَاخِلِ  
دَهْشَةٍ وَفِي الْآخِرِ تَصِفُونَ  
وَتَزُولُ الْأَكْدَادُ إِذَا اتَيْتُمْ لَا  
بَدَّ بَدَايَةٍ وَنَهَايَةٍ يَا أَبَاقُ  
عَنْ خِدْمَةِ سَيِّدِهِمْ يَا مُسْتَفْتِينَ  
يَا رَأَيْتُمْ عَنْ رَأْيِ الْأَصْفِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ يَا وَاثِقِينَ  
بِالْخَلْقِ دُونَ الْحَقِّ عَذْرًا وَجَلَّ أَمَّا  
سَمِعْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَانَتْ ثِقَتُهُ  
بِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ لَا تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَلَا  
تَغْضَبُ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ قَلْبَكَ

سے اُس کے غضب میں موافقت کرنے والا ہوں۔ اُس نے  
مجھے تمہارے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیا ہے پس اگر تم توبہ  
کرو گے اور جو کچھ میں کہوں اُسے قبول کرو گے اور میری  
سخت کلامی پر صبر کرو گے تو میں تمہارے اوپر سلامتی کے  
ساتھ ٹھنڈا بن جاؤں گا۔ تم پراسوس ہے تمہیں شرم نہیں آتی  
تمہاری اطاعت و تابعداری ظاہر میں ہے اور تمہارے  
گناہ باطن میں۔ تم عنقریب موت اور بیماری کے پنجہ میں  
گر گرفتار کیے جاؤ گے بعدہ تم دوزخ کے قید خانہ میں قید  
کر دیئے جاؤ گے۔ تم اسے علموں میں تفصیر کرنے والو!  
ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو تے دن رات تمہیں فضول باتیں  
بیکاری پسندیدہ ہے اور باوجود عمل کی تصور داری کے  
حق تعالیٰ کی نعمتوں کے طلب گار بنے ہوئے ہو تم علموں  
پر جمع ہو جاؤ تمہارے نفس علموں کے عادی ہو جائیں گے  
ابتداء ہر کام میں داخل ہونے والے کے لئے دہشت  
ہوتی ہے آخر میں تم صاف و خالص ہو جاؤ گے اور تمام  
کدورتیں تمہاری زائل ہو جائیں گی۔ اور جب تم آؤ گے تو اس  
کے لئے ابتداء و انتہا دونوں کی ضرورت ہے معرفت الہی  
کے میدان میں آؤ مقرب بن جاؤ گے۔ اسے اپنے سردار  
کی خدمت سے بھاگنے والو اسے اصفیا و انبیاء اور رسولوں  
اور صالحوں کی رائے سے بوجہ اپنی راؤں کے بے پروا  
ہونے والو! اسے خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ کرنے  
والو! کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
فرمایا ہے جس میں کسی کا بھروسہ اپنے جیسے مخلوق پر ہو وہ ملعون  
ہے ملعون ہے۔ تو دنیا کو طلب کر اور دنیا میں سے کسی  
چیز کے واسطے غصہ کر کیوں کر یہ تیرے قلب کو ویسے ہی خراب

کر دے گا جیسے کہ سرکشند کو غراب کر دیتا ہے۔ تجھ پر انوس  
ہے کہ تو نے دنیا کی محبت اور غرور دونوں کو جمع کر لیا ہے یہ  
دونوں خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر اس خصلت والے نے توبہ نہ کی تو  
نجات نہیں ملے گی۔ تو ماعقل بن تو ہے کون اور کیا چیز ہے اور  
کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے سوچ۔ تو غرور نہ کر غرور تو دہی  
کر تا ہے جو کہ اللہ و رسول اور اللہ کے نیک بندوں سے  
جاہل ہوتا ہے۔ اسے کم عقل تو غرور سے ہندی کا خواہشمند  
ہے۔ معاملہ کو برعکس کر تو بند ہی پاسے گا۔ تحقیق نبی صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی اللہ کے لیے تواضع  
کر تا ہے اسے بند کر دیتا ہے اور جو کوئی غرور کر تا ہے  
اسے پسند کر دیتا ہے۔ جس نے سخت کو پسند کیا وہ  
پہلی جماعت میں ہوا اور جس نے تھوڑے کو پسند کیا اس کو  
بہت کچھ ملا جس نے ذلت پر رضامندی لی اس کو عزت  
حاصل ہوئی تو کم تر درجہ کو پسند کر لے معاملہ تیرے حق میں  
پلٹ جائے گا۔ جو تقدیر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور  
اس پر راضی ہوتا ہے اللہ عز وجل اس کو بند کر دیتا ہے جو کہ  
تمام چیزوں پر قدرت والا ہے۔ تواضع اور حسن ادب  
تجھ کو خدا سے نزدیک کر دے گا اور غرور بے ادبی تجھے خدا  
سے دور کر دے گی اطاعت فرمانبرداری تیری اصلاح کرے  
گی اور تجھے مقرب بنا دے گی اور معصیت تجھے خراب کر  
دے گی اور قرب الہی سے دور ڈال دے گی۔

اے غلام تو دین کو ایک انجیر کے عوض فروخت نہ کر تو  
اپنے دین کو بادشاہوں حاکموں امیروں کے انجیر اور لقمہ حرام  
کے عوض فروخت نہ کر۔ جب تو دین کے عوض دنیا خرید کر  
کھائے گا تو تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور تیرا دل کیسے سیاہ پڑے گا

كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ وَيَحْكُ قَدْ  
جَمَعْتَ بَيْنَ حُبِّ الدُّنْيَا وَبَيْنَ التَّكْبُرِ  
وَهَانَانِ خَصَدَتَانِ لَا يُبْلِيَهُمَا صَاحِبُهُمَا  
إِنْ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهُمَا كُنْ عَاقِلًا مَتَى  
أَنْتَ مِنْ آتِي شَيْءٍ خُلِقْتَ وَلَا آتِي شَيْءٍ  
خُلِقْتَ لَا تَتَكَبَّرْ فَمَا يَتَكَبَّرُ إِلَّا جَاهِلٌ  
يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْسُولِهِ وَالصَّالِحِينَ  
مِنْ عِبَادِهِ يَا قَلِيلَ الْعَقْلِ تَطْلُبُ الرِّفْعَةَ  
بِالتَّكْبُرِ عَكِيسُ نَصَبٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ  
رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ تَكَبَّرَ  
وَضَعَهُ اللَّهُ مِنْ رَضِيَ بِالْآخِرَةِ صَارَ فِي  
الْأُولَى وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَبِيلِ جَاءَهُ الْكَثِيرُ مَنْ رَضِيَ  
بِالذُّلِّ جَاءَهُ الْغِنَى أَرْضُ الْيَاكُونِ حَتَّى يُقْلَبَ الْأَمْرُ  
فِي حَقِّكَ مَنْ ذَلَّ لِلْقَدَرِ وَرَضِيَ بِهِ  
رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَادِرُ عَلَى  
جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ التَّوَّاضَعُ وَحُسْنُ  
الْأَدَبِ يُقَرِّبُكَ وَالتَّكْبَرُ وَسُوءُ  
الْأَدَبِ يُبْعِدُكَ الطَّاعَةُ تُصْلِحُكَ وَ  
تُقَرِّبُكَ وَالْمَعْصِيَةُ تُفْسِدُكَ وَتُبْعِدُكَ

يَا غُلَامُ لَا تَبِعِ الدِّينَ بِالدِّينِ لَا  
تَبِعْ دِينَكَ بِدِينِ السَّلاطِينِ وَالْمُلُوكِ  
وَالْأَعْيَانِ وَكَهْلَةِ الْحَرَامِ إِذَا  
أَكَلْتَ بِدِينِكَ إِسْوَدَّ قَلْبُكَ وَكَيْفَ لَا يَسْوَدُّ

وَأَنْتَ تَعْبُدُ الْخُلُقَ يَا مَخْدُودُ لَوْ كَانَ فِي  
قَلْبِكَ شَوْءٌ تَفَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَرَامِ وَالشَّهْوَةِ  
وَالْبُكَارِ وَبَيْنَ مَا يَسُودُ قَلْبَكَ وَيُنْزِرُهُ وَ  
بَيْنَ مَا يُفَرِّبُ قَلْبَكَ وَيُبْعِدُهُ يَا جَاهِلُ  
مَا أَعْرِفُ إِلَّا الْكَسْبَ أَوِ التَّوَكُّلَ عَلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْأَخْذُ بِالْكَسْبِ فِي بَدَايَةِ  
الْإِيمَانِ لَنَحْرَ عِنْدَ قُوَّةِ الْإِيمَانِ الْأَخْذُ  
مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ اذِ تَفَاعُلِ الْوَسَائِطِ  
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِذَا قَوِيَ الْقَلْبُ أَخَذَ مِنَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَيْدِي الْخُلُقِ يَا مَرْ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْنَى قَوْلِي اذِ تَفَاعُلِ  
الْوَسَائِطِ يَعْنِي اذِ تَفَاعُلِ وَقُوفِ الْقَلْبِ مَعَ  
الْوَسَائِطِ وَالشَّرْكَ بِمَا يَمْتَثِلُ أَمْرَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَتَطَارَشُ عَنْ  
مَنْدِهِمْ وَذَمِّهِمْ وَقُبُولِهِمْ وَرَدِّهِمْ إِنْ أُعْطُوا  
رَأَى فِعْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَإِنْ مَنَعُوا كَذَلِكَ  
الْقَوْمُ مَصْرُفٌ بِكُمْ عَنِّي عَنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ مَا عِنْدَهُمْ إِلَّا هُوَ نَا صِرْهُمُ وَخَاذِلُهُمْ  
مُعْطِيَهُمْ وَمَا نِعْمُ مَنَّا لَهُمْ وَنَا فِعْمُ عِنْدَهُمْ  
لَبَّ لَا قِشْرَ صِفَاءً وَلَا كَدْرَ صِفَاءً عَلَى صِفَاءٍ طَيِّبٍ عَلَى طَيِّبٍ  
فَذَلِكَ الَّذِي يُخْرِجُ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَا  
يَبْقَى فِيهَا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَبْقَى فِيهَا الذِّكْرُ  
الْحَقُّ لَهُ لَا يَغْيِرُهُ اللَّهُمَّ اذْهَبْ قُلُوبَكَ  
وَيَحْكُ اِنَّكَ تَطْلُقُ اِنَّكَ تَقْشِرُ  
تَبْهَرُجْ عَلَى كَوْلَا الْحُكْمِ لَنَزَلَتْ اِلَيْكَ يَا

تو تو خلق کا پجاری ہو گیا ہے۔ اسے رسوا و ذلیل اگر تیرے دل  
میں نور ہو تا تو حرام و مشتبہ اور مباح میں اور اس چیز میں جو کثیر  
دل کو سیاہ اور روشن بنانے والی اور اس کو خدا سے نزدیک  
دور کرنے والی ہے فرق و جدائی کر سکتا ہے۔ اسے جاہل  
میں تو رسوا و کسب یا تو کل علی اللہ کے دوسری چیز کو پہچانتا  
ہی نہیں ہوں۔ ابتدا ایمان میں بذریعہ کسب لین دین ہوتا ہے  
بعدہ ایمان کے مضبوط ہو جانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے اُن  
واسطوں کے اٹھ جانے کے جو کثیرے اور اس کے درمیان  
میں حائل ہیں۔ جب قلب مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کے  
ہاتھ پر خدا سے بحکم خداوندی لیا کرتا ہے۔ اور میرے  
قول ارتفاع الوسط کے معنی یہ ہیں کہ دل کا ٹھہراؤ و وسائط و شرک  
کی معیت میں نہ رہے۔ اللہ عزوجل کے حکم کو بجالائے پس  
اللہ کے بندوں سے لین دین کرے اور اُن کی تعریف و برائی  
اور قبول و رد سب سے بہرہ اُن جائے۔ اگر وہ دیں تو بھی اُن  
میں وہ اس کو فعل الہی سمجھے۔ او یا اللہ تو غیر اللہ سے گونگے  
بہرے ہیں اُن کے نزدیک تو صرف اللہ ہی مخلوق کا مددگار  
اور رسوا کرنے والا ہے دینے والا نقصان پہنچانے والا اور  
نفع دینے والا ہے۔ اُن کے پاس تو بلا چھلکے کا مغز اور بغیر  
کدورت کی صفائی صفائی پر صفائی پاکیزگی پر پاکیزگی ہے پس  
یہی بات ہے جو کہ تمام مخلوق کو اُن کے قلوب سے نکال  
باہر کر دیتی ہے اُن کے قلوب میں سوا حق عزوجل کوئی باقی ہی  
نہیں رہتا۔ اُن کے قلوب میں صرف خدا ہی کا ذکر خفی باقی رہتا  
ہے نہ کہ غیر اللہ کا۔ اسے اللہ تو ہم کو اپنی معرفت عطا فرما  
تجھ پر افسوس تو یہ گمان کرتا ہے کہ اپنی کھوٹ کے چلانے  
پر تو میرے اوپر قادر ہے اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو اسے

مُنَافِقٌ وَفَضَحْتُكَ لَا تُخَاطِبُ بِرَأْسِكَ مَعِيَ  
فَإِنِّي لَا أَسْتَجِي إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ  
عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ الْعَبْدُ إِذَا عَرَفَ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ سَقَطَ الْخَلْقُ عَنْ قَلْبِهِ وَ  
تَنَاشَرُوا عَنْهُ كَمَا يَتَنَاشَرُ الرِّمَاقُ

الْيَابِسُ مِنَ الشَّجَرِ فَيَبْقَى بِلَا خَلْقٍ فِي  
الْجُمْلَةِ يَعْنِي عَنْ دُونِهِمْ وَيَصُحُّ عَنْ  
سَمَاعِهِمْ كُلِّهِمْ مِنْ حَبِثِ قَلْبِهِ وَسِرِّهِ  
إِذَا صَادَتِ النَّفْسُ مُطْمَئِنَّةً سَلِمَ إِلَيْهَا  
حِفْظُ الْجَوَارِحِ ثُمَّ يُسَافِرُ الْقَلْبُ إِلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ ثُمَّ  
تَأْتِي الدُّنْيَا فَتَصِيرُ سَائِسَةً لِلنَّفْسِ  
قَائِمَةً بِمَصَالِحِهَا هَذَا دَابُّ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَصُنْعُهُ فِي حَقِّ الظَّالِمِينَ لَهُ  
تَأْيِيهِمْ الدُّنْيَا وَقَدْ اسْتَيْفَلُوا  
الْأَقْسَامَ فِي صُورَةٍ عُجُوزٍ شَمُطَاءٍ  
شَعْرَهَا فَتُوقِيهِمْ أَقْسَامُهُمْ تَكُونُ  
خَادِمَةً سِرِّيَّةً يَأْخُذُونَ مِنْهَا  
مَا لَهُمْ عِنْدَهَا وَلَا يَلْتَفِتُونَ  
إِلَيْهَا

يَا غُلَامُ فَرَّغْ قَلْبَكَ لِرَبِّكَ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَاشْغُلْ جَوَارِحَكَ وَنَفْسَكَ بِالْكَدِّ  
عَلَى الْعِبَالِ فَتَعْمَلْ بِأَمْرِهِ وَتَكْتَسِبَ عَلَيْهِمْ  
بِفِعْلِهِ السُّكُوتَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَتَرْكُ السُّؤَالِ لَهُ مَعَ الصَّبْرِ وَالرِّضَا

منافقی میں تیری طرف اُترتا اور تجھے رسوا کر دیتا۔ تو میرے ساتھ  
الُجھ کر اپنے سر کو خطرہ میں نہ ڈال کیوں کہ میں اللہ عزوجل اور اس  
کے نیک بندوں کے سوا کسی سے شرم و حیا نہیں کرتا ہوں  
بندہ مخصوص جب خدا کو پہچان لیتا ہے تو تمام مخلوق اُس کے  
قلب سے گر جاتی ہے اور سب اُس سے ایسے جھڑ جاتے  
ہیں جیسے کنشک پتہ درخت سے موسم خزاں میں۔ پس وہ  
تہنابغی مخلوق کے رہ جاتا ہے وہ اُن کے دیکھنے سے  
ناہینا اور ان کی بات سننے سے اپنے قلب و باطن کے  
اعتبار سے بہرہ ہو جاتا ہے۔ نفس جب کو اطمینان والا ہو جاتا  
ہے تو اس کی طرف اعضاء کی حفاظت سپرد کر دی جاتی ہے  
بعدہ قلب حق عزوجل کی طرف سفر کر جاتا ہے اور جو چیزیں  
اُس کے پاس ہیں اُس کو طلب کرتا ہے۔ پھر دنیا اُس کی  
طرف آتی ہے اور نفس کی خادم بن کر اُس مصلحتوں کے لیے  
قائم ہو جاتی ہے۔ جو خدا کے طالب ہیں اُن کے واسطے  
یہی برتاؤ اور طریقہ اللہ عزوجل کا ہوتا ہے اپنے مقسوم  
حاصل کرنے کے ذمت دنیا اُن کے پاس بشکل بڑھیا  
کی شکلیں بال بکھیرے ہوئے آتی ہے اور اُن کو اُن کے  
پورے حصہ دے جاتی ہے اور اُن کی خادمہ و لوٹدی بن  
جاتی ہے وہ اولیاء اللہ دنیا سے اپنے مقسوم کو لیتے رہتے  
ہیں۔ اور اس کی طرف مطلق التفات نہیں کرتے ہیں۔

اے غلام تو اپنے قلب کو اپنے رب عزوجل کے  
واسطے فارغ کر لے اور اپنے اعضاء اور نفس کو بال بچوں  
پر شفقت و محنت کے لیے مشغول کر دے پس یہ اُس کے حکم  
کے مطابق عمل کرے اور اُس کے فعل سے اُن کے لیے  
کمائی کرے۔ اللہ کے روبرو سکون اور صبر و رضا کے ساتھ

أُولَىٰ مِنَ الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ وَالْإِحْجَاحِ أُمَّ  
عَلِمَكَ لِعِلْمِهِ وَنَتِجَ تَدْبِيرِكَ لِتَدْبِيرِهِ  
دَاقَطَمَ إِرَادَتَكَ لِإِرَادَتِهِ وَاعْزَلَ عَقْلَكَ  
عِنْدَ مَجِيئِ اقْتَضِيَّتِهِ وَاقْتَدَارَهُ إِفْعَلَ  
ذَلِكَ مَعَهُ إِنْ أَرَدْتَ رَبُّنَا وَ مُعِينُنَا وَ  
مُسْلِمًا عَلَيْكَ بِالسُّكُونِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنْ  
أَرَدْتَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ اتَّحَدَّثَ  
خَوَاطِرُهُ وَهَمَمُهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ سِوَا  
خَاطِرٍ يَخْطُرُ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى  
قَلْبِهِ وَهُوَ دَاقَطَمَ عَلَىٰ بَابِ قُرْبِهِ مِنْ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَمَكَّنْتَ مَعْرِفَتَهُ  
لَهُ فَتَسَحَّ الْبَابُ فِي وَجْهِهِ فَحَصَلَ مِنْ  
قَرَائِنِهِ قَرَأَىٰ مَا لَا يَفْقَهُ عَلَىٰ وَصْفِهِ  
الْخَاطِرُ لِلْقَلْبِ وَالْإِشَارَةُ كَلَامُ خَفِيِّ  
لِللَّسَنِ الْغَائِي عَنْ نَفْسِهِ وَهَوَاؤِهِ وَ  
أَحْلَاقِهِ الْمَذْمُومَةِ وَعَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ  
فِي عَافِيَةٍ وَطَبِيبَةٍ وَنِعْمَةٍ هُوَ مُتَلَبِّ  
مَصْرُوفٍ فِيهِ كَأَصْحَابِ الْكَرْهِفِ قَالَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّهِمْ وَ لُقِّبَتْهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ  
وَذَاتُ الشِّمَالِ ۝

يَا غَلَامُ اسْمُكَ هَذَا وَآمِنْ بِهَذَا  
لَا تُكْذِبْهُ لَا تَحْرِمْ نَفْسَكَ الْخَيْرَ مِنْ كُلِّ  
وَجْهِ ۝

سوال کا ترک کر دینا دعا و سوال اور الحاح سے بہتر ہے۔ تو  
اپنے علم کو اُس کے علم کے سامنے محو کر دے اور اپنی تدبیر  
کے آگے علیحدہ رکھ دے اور اپنے ارادہ کو اُس کے ارادہ کے  
واسطے منقطع کر دے اور اپنی نقل کو اُس کی قضاء و قدر کے نازل  
ہونے کے وقت علیحدہ کر دے۔ تو خدا کو اگر پروردگار اور  
مددگار اور سلامتی دہندہ سمجھتا ہے تو تو اُس کے ساتھ بھی معاملہ  
کر اُس کے روبرو تجھے سکوت لازم ہے اگر تو اُس تک پہنچنا چاہتا  
ہے مومن کا دل اُس کے خیالات و مقاصد متعدد رہتے ہیں اُس  
کے پاس سواء اُس خیال کے جو کہ اُس کے قلب پر اللہ عز و جل  
کی طرف سے اُترتا ہے کوئی خیال بھی باقی نہیں رہتا ہے وہ  
قرب الہی کے دروازہ پر اطمینان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔  
پس جب معرفت الہی اس کے دل میں شکن ہو جاتی ہے تو اُس  
کے سامنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے پس وہ اندر داخل ہو  
کر وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جس کے بیان پر قدرت نہیں۔  
خطرہ و خیال قلب کے نیلے ہے۔ اور اشارہ ایک کلام مخفی ہے  
باطن کے واسطے جو شخص کو اپنے نفس و خواہش اور بداخلاقیوں  
اور تمام مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے وہ بڑے آرام اور  
خوشی و نعمت میں رہتا ہے۔ اور اُسے اس حالت میں ویسی  
ہی کروٹیں دلائی جاتی ہیں جیسے کہ اصحاب کہف کو جی کے  
بارے میں ارشاد الہی ہے وَفَقَلْبُكَ هَادٍ إِلَيْهِ هُمْ اُنْ  
کو سیدھی اور اٹھی طرف کروٹیں بدلائے رہتے ہیں۔

اے غلام تو میرے کلام کو سن اور اُس پر ایمان لا اور اُس  
کی تکذیب نہ کر اپنے نفس کو ہر طریقہ سے بھلائی سے محروم نہ  
رکھ۔

## ستاو نویں مجلس

## المجلس السابع والخمسون

## سچائی اور قناعت اور توکل کے بیان میں

۲۴ رمضان المبارک ۱۴۵۵ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا:

اولاً کچھ کلام کیا بچہ فرمایا اسے غلامو! میرے اوپر ایک ذرہ سچائی کا صدقہ کرو باقی تمہارے تمام مال اور وہ چیزیں جو کہ تمہارے گھروں میں ہیں تمہیں سب معاف ہیں میں تم سے صرف صدقہ و اخلاص ہی چاہتا ہوں اور اس کا نفع تمہارے ہی لئے ہے۔ میں تم کو تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے لیے تم اپنی ظاہری و باطنی زبانوں کے لفظوں کو مفید کر لو کیوں کہ تمہارے اوپر نگہبان مقرریں۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگہبانی کرتے ہیں اور حق عزوجل تمہارے باطنوں کی نگہبانی فرماتا ہے۔ اسے دنیا میں محل اور گھر بنانے والے اور اسے وہ شخص جس کی عمر دنیا کی عمارت میں جا رہی ہے تو کوئی عمارت بغیر نیت صالحہ کے نہ بنا۔ پس دنیا میں عمارت کی بنیاد نیک نیتی ہے تیری عمارت نفس و خواہش کی موافقت میں نہ ہوتی چاہیے۔ دنیا میں جاہل بموافقت نفس و خواہش طبعیت عادت بغیر حکم شرعی اور بلا موافقت قضا و قدر الہی کے عمارت بنالیا کہ تلہ پس یقیناً اس کے لیے نیت صالحہ درست نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے اس کی عمارت مبارک ہوتی ہے اور اس میں دوسرے لوگ بسیں گے۔ اور اس بنانے والے سے قیامت دن کہا جائے گا کہ یہ عمارت کیوں

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَكَرَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدِينَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بَعْدَ كَلَامِهِ يَا عَلِمَانُ تَصَدَّقُوا عَلَيَّ بِذَرَّةٍ مِنَ الصَّدَقِ أَنْتُمْ فِي حَرٍّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَمَتَّافٍ بِبُيُوتِكُمْ مَا أَسْرَيْدُ مِنْكُمْ إِنْكَارَ الصَّدَقِ وَالْإِخْلَاصِ وَنَعْتُهُ ذَلِكَ لَكُمْ مَرِيدُكُمْ لَا يَفِيدُ وَالْفَاطِطُ السَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ وَابْنُ طَنْجَةَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ رُقَبَاءَ أَسْلَافِكُمْ يُرَاقِبُونَ طَوَاهِرَكُمْ وَالْحَقُّ عَزَّوَجَلَّ يَرِاقِبُ بَوَاطِنَكُمْ يَا مَنْ يُبْنِي الْقُصُودَ وَالْأَدْوَارَ وَيَذْهَبُ عَمَّا فِي عَمَّا مَرَّةَ الدُّنْيَا لَا تَبْنِ شَيْئًا بَغَيْرِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ فَاسَاسُ الْبِنَاءِ فِي الدُّنْيَا النِّيَّةُ الصَّالِحَةُ لَا يَكُونُ بِنَاؤُكَ بِنَفْسِكَ وَلَكِنَّكَ الْجَاهِلُ يَبْنِي فِي الدُّنْيَا بِنَفْسِهِ وَهُوَ أَهْلُ وَطَبْعِهِ وَعَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحُكْمِ وَمُؤَافَقَةِ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَفَعَلِهِ فَلَا جَرَمَ كَأَنْ تَصِفَ لَهُ نِيَّةً صَالِحَةً وَلَا يَتَهَنَّأُ بِمَا بَنَاهُ وَكَيْسَكُنَّ غَيْرُهُ وَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ

بَنِيَتْ وَمِنْ آيِنَ انْفَقَتْ وَلِمَ انْفَقَتْ  
يُحَاسِبُ عَلَى الْجَمِيعِ اُطْلُبُ الرِّضَا وَ  
الْمُوَافَقَةَ وَاقْنَعْ بِفَقْسِكَ وَلَا تَطْلُبْ  
مَا لَمْ يُقَسِّمْ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَشَدُّ عُقُوبَاتِ اللَّهِ عَذْرَ  
وَجَلَّ لِعَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا طَلْبُهُ مَا لَمْ  
يُقَسِّمْ لَهُ (وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)  
تَجِدُنِي إِلَى وَمَا عِنْدَكَ حُسْنُ ظَنٍّ فِيَّ فَمَا  
تُفْلِحُ بِكَلَامِي -

وَبِحُكِّكَ تَدْعِي إِنَّكَ مُسْلِمَةٌ قَابَتْ  
مُعْتَرِضٌ عَلَى اللَّهِ عَذْرَ وَجَلَّ وَ عَلَى  
الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ كَذَبَتْ فِي دَعْوَاكَ  
الْإِسْلَامُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِسْتِسْلَامِ لِقَضَاءِ  
اللَّهُ عَذْرَ وَجَلَّ وَقَدْرًا وَ الرِّضَا بِأَفْعَالِهِ  
مَعَ حِفْظِ حُدُودِ كِتَابِهِ وَسُنَنِهِ دَسُؤِلِهِ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَيْنِدُ يَهْمُ  
لَكَ الْإِسْلَامُ شَوْمٌ طُولِ الْأَمَلِ هُوَ الَّذِي  
يُوقِعُكَ فِي مَعَاصِي اللَّهِ عَذْرَ وَجَلَّ وَ  
مُخَالَفَتِهِ مَتَى مَا قَصُرَتْ أَمَلُكَ جَاءَكَ  
الْخَيْرُ فَمَسَّكَ بِهِ إِنْ أَرَادَتْ الْفَلَاحُ  
الْمُسْلِمُ أَيْ شَيْءٌ جَاءَ بِهِ الْقَدَرُ أَخَذَهُ  
مِنْ يَدِهِ وَرَضِيَ بِهِ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ وَ  
رِضَا عَنْهُ لَا نَفْسَ لَهُ وَلَا هَوَى وَلَا  
طَبَعَ لَهُ وَلَا شَيْطَانَ أَعْيَى أَنَّهُ قَدْ أُعِينَ  
عَلَيْهِمْ لَا أَنَّهُمْ قَدْ أُنْعِدَ مُؤَامِنٌ كُلِّ وَجْهِ

بنائی تھی اور کہاں سے اور کیوں اس پر خرچہ کیا تھا تمام چیزوں  
پر حساب لیا جائے گا۔ اسے بندہ خدا تو رضاء و موافقت الہی  
طلب کر اور اپنے مقصود پر رقاعت کو اور جو چیز کو تیرے مقصود  
کی نہیں ہے اسے طلب نہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تحقیق سخت تر عذاب  
اللہ کا دنیا میں بندہ کے واسطے اس چیز کا طلب کرنا ہے جو  
اس کے مقصود میں نہیں حضور و سنگیر عالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا  
تو تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ تجھے میرے  
ساتھ سُن ظن نہیں پس تو میرے کلام سے کیا فلاح پا سکتا  
تجھ پر افسوس تو مسلمان ہونے کا مدعی ہے حالانکہ تو  
اللہ عزوجل اور اس کے نیک بندوں پر مقرر ہے۔  
تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسلام تو استسلام  
سے بنایا گیا ہے جس کے معنی میں تضاد و قدر کا ماننا اور اللہ  
کے افعال پر قرآن و حدیث کی حدوں کی حفاظت کے  
ساتھ راضی رہنا۔ پس اس وقت جب کہ تو ایسا کرے  
گا تو تیرا اسلام صحیح ہو گا نیز ہی آرزو کی درازی کی نحوست  
جیسے اللہ تعالیٰ کے گنہگاروں میں اور اس کی مخالفت میں  
گرا رہی ہے۔ جب کہ تو آرزو کو کم کرے گا تیرے پاس  
بھلائی آجائے گی پس تو اگر فلاح چاہے تو اس پر چنگل مار  
لینا۔ مسلمان کے پاس جب کوئی چیز مقدرات سے آتی  
ہے وہ اس کو تقدیر کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور  
موافقت شریعہ اور رضامندی کے ساتھ اس پر راضی  
ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے نفس ہو تا ہے اور نہ خواہش اور  
نہ طبیعت اور نہ شیطان۔ یعنی ان سب پر مسلمان کی مدد  
کی جاتی ہے نہ یہ کہ وہ سب ہر طرح سے معدوم ہی ہو سکے

لَيْسَ لَنَا مَعْصُومٌ بَعْدَ ذَهَابِ الْأَنْبِيَاءِ  
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةٌ وَهُوَ أَهْلُ  
مَغْلُوبٍ وَنَائِرَةٌ طَبِيعُهُ مَحْمُودَةٌ وَ  
تَشَبُّهُهُ حَائِشٌ مَا يَقَعُ بِيَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ  
يُطَوِّفُ عَلَيْهِ لَا يَجِدُهُ التَّوَكُّلُ لَيْسَ فِيهِ  
وُقُوفٌ مَعَ سَبَبٍ وَالتَّوْحِيدُ لَيْسَ فِيهِ  
رُويَةُ الصَّبْرِ وَالنَّفْعُ مِنْ أَحَدٍ أَنْتَ نَفْسُ  
كَلْبَةٍ هُوَ كُلُّ عَادَةٍ كَلْبَةٍ مَا عِنْدَكَ  
مِنَ التَّوَكُّلِ وَالتَّوْحِيدِ خَيْرٌ مَرَارَةً ثُمَّ  
حَلَاوَةً ثُمَّ كَسْرَةً جَبْرُ ثُمَّ مَوْتٌ  
ثُمَّ حَيَاةٌ دَائِمَةٌ ذُلٌّ ثُمَّ عِزٌّ فَقَرُّ ثُمَّ  
غِنَى رِغَامٌ ثُمَّ رَاجِدٌ بِهِ لَا يَكُ إِنْ  
صَبَرْتَ عَلَى هَذَا صَبَرْتَ لَكَ مَا تَرِيدُ  
مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا فَمَا يَصْنَعُ لَكَ  
شَيْءٌ كُلُّ مَا اشْتَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
فَهُوَ عَلَيْكَ مَسْئُومٌ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ وَ  
الصَّلَاةُ بَعْدَ آدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسَّنَةِ  
إِذَا آذَيْتَ الْفَرَصَ مِنَ الصَّوْمِ ثُمَّ  
اشْتَغَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ فِي  
صَوْمِ النَّافِلَةِ عَنْ حُضُورِ قَلْبِكَ بَيْنَ  
يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَرَأَةِ لَهُ  
وَطِيبَةِ الْعَيْشِ بِهِ وَمَعَهُ الدَّائِرَةُ عَلَى  
مُحِبَّةٍ وَالْقُرْبُ مِنْهُ أَنْتَ عَبْدُ الْحِجَابِ عَبْدُ  
الْخَلْقِ وَنَفْسِكَ وَهُوَ الْكَارِفُ قَائِمٌ مَعَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ لَوَاءِ قُرْبِهِ مَعَ عِلْمِهِ

ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہم  
میں کوئی بھی معصوم رہے گا نہیں ہے۔ مسلمان کا نفس مطمئن اور  
اُس کی خواہش مغلوب اور اُس کی طبیعت کا جوش بچھا ہوا ہوتا  
ہے اور اُس کا شیطان مقید رہتا ہے۔ اُس کے ہاتھ میں  
اس مرد مسلمان سے کوئی چیز بھی نہیں آتی شیطان ہر چند اُس پر  
چکر لگاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ توکل میں سبب کے  
ساتھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے اور توحید میں کسی سے نفع و  
نقصان کا معاوضہ اور غیر اللہ پر نظر رکھنا نہیں ہوتا ہے۔  
تو تو سراپا نفس اور سرتاسر خواہش اور عادت بنا ہوا ہے۔  
تجھے نہ توکل کی کچھ خبر ہے اور نہ توحید سے اڑا کر واپس  
پل ہے پھر مٹھاس پھر ٹوٹنا پھر جڑنا پھر مرنے کی ہمشکی کی!  
زندگی اول ذلت ہے پھر عزت ہے اول محتاجی ہے  
پھر امیری۔ اول ناپید ہوتا ہے پھر ذات حق سے وجود  
پانا کر اپنے اختیار سے اگر تو اس پر صبر کرے گا تو جو  
کچھ تو خدا سے چاہے گا وہ تیرے لیے صحیح و درست  
ہو جائے گا ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ہر وہ چیز جو کہ تجھ کو اللہ عزوجل  
کی طرف سے روکے وہ تیرے لیے منحوس ہے خواہ  
ادامہ افراط و تفریط کے بعد روزہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ جب  
تو فرض روزہ ادا کر لے۔ پھر اُس کے بعد نفل کے روزہ  
میں تجھے بھوک اور پیاس نیز سے قلب کو اللہ عزوجل کی!  
حضور ہی اور اُس کے مراقبہ اور اُس کے ساتھ خوش عیشتی  
سے روک دے جس پر کہ صحبت و قرب الہی کا دار مدار  
ہے پس تو حجاب کا بندہ خلقی اور انہی خواہش و نفس کا بندہ  
ہے نہ کہ بندہ خدا۔ عارف باللہ تو اللہ عزوجل کی معیت میں  
اُس کی قوت کے چھنڈے کے نیچے اپنے علم و باطن کے

وَسِيرَهُ يَدُومَ مَعَ قَضَاءِهِ وَقَدَرِهِ  
 إِذَا عَجَزَ دُورُ بِلَا تَدْوِيرٍ مِنْهُ حُرْكَ  
 بِلَا تَحْرِيلٍ مِنْهُ سَكَنٌ بِلَا تَسْكِينٍ  
 مِنْهُ بَصِيرٌ مِنْ جُمْلَةِ الَّذِينَ قَالَ  
 اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ وَتَقَبُّهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ  
 وَذَاتِ الشِّمَالِ هُ لَمَّا جَاءَ الْعِجْزُ مِنْهُمْ  
 حَزَبُوا الْحَرْكَهَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالسُّكُونِ  
 وَالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الْعِجْزِ الْحَرْكَهَ عِنْدَ  
 وَجُودِكَ وَالسُّكُونِ عِنْدَ فَعْدِكَ الْحَرْكَهَ  
 فِي الْحَكْمِ وَالسُّكُونِ فِي الْعِلْمِ إِنَّمَا نَصَبُ  
 قَلْبِكَ بَعْدَ خُرُوجِكَ مِنَ التَّفَنُّسِ وَ  
 الْهُوَى وَالطَّبْعِ وَالْخَلْقِ فِي الْجُمْلَةِ  
 لَا تَتَقَيَّدُ بِالْخَلْقِ فَمَا يَمْلِكُ  
 حَزْرَكَ وَكَأَنْفَعَكَ وَكَأَنْفَعَكَ  
 غَيْرُ مَرَاتِكَ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ أَبَدًا  
 فِي طَاعَتِهِ وَآمَرِهِ وَنَهْيِهِ  
 لَا يَبْقَى بِبَيْدِكَ شَيْءٌ سِوَى  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَصِيرُ آعْنَى  
 الْخَلْقِ وَاعْزَاهُمْ فَتَصِيرُ  
 بَكَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرَ  
 الْأَشْيَاءِ بِالسَّجْدِ لَهُ وَهَذَا  
 مِنْ ذُرَاةِ عَقُولِ الْخَلْقِ  
 الْعَوَامِ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ  
 مِنَ الْخَوَاصِّ فَهُوَ ذَرَّةٌ  
 أَدَمَ مِنْ جُودَةِ لَبِّهِ يَأْتِلِيلُ الْعِلْمِ تَفَقَّهُ

ساتھ کھڑا رہتا ہے اسی کی قضاء و قدر کے ساتھ گھومتا ہے  
 اور جب کروہ عاجز ہو جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ وہ خود گھومتا  
 گھوایا جاتا ہے بغیر اس کی تحویل کے اور بغیر اس کی  
 حرکت کے اس کو تحویل و حرکت دی جاتی ہے۔ بغیر  
 اس کے سکون کے اس کو سکون عطا فرمایا جاتا ہے وہ منجملہ  
 ان لوگوں کے ہو جاتا ہے جن کے حق میں ارشاد الہی ہے۔  
 وَنُقَلِّبُهُمْ أَلَا يَسْمَعُونَ اُن کو سیدھی اور الٹی جانب  
 کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں جب کہ ان کا عاجز ہونا ظاہر  
 ہوا ان کو منجانب اللہ حرکت دی گئی۔ حرکت قدرت کی  
 میعت میں ہوتی ہے اور سکون و تسلیم عاجزی کے وقت  
 حرکت تیرے وجود کے وقت ہوتی ہے اور سکون تیرے  
 گم ہو جانے کے وقت۔ حرکت شروع کی مانتی میں ہے  
 اور سکون علم میں کفایہ و قدر میں و مزارے۔ تیرا قلب جب  
 درست ہو گا جب کہ تو اپنے نفس و خواہش اور طبعیت اور  
 تمام خلق سے علیحدہ ہو جائے گا۔ تو فی الجملہ مخلوق کا مقید نہ  
 بن۔ سوائے رب تعالیٰ کے کوئی بھی تیرے نقصان و نفع  
 اور رزق کا مالک نہیں ہے تو ہمیشہ اسی کی اطاعت اور امر و نہی  
 کی بجا آوری میں مشغول رہ تیرے ماتھے میں سوائے حق عزوجل  
 کے کچھ باقی نہ رہے پس تو اس وقت تمام مخلوق سے زیادہ  
 امیر اور زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس وقت تیری  
 مثال آدم علیہ السلام جیسی ہو جائے گی کہ اللہ نے تمام  
 چیزوں کو ان کے سامنے بھگنے اور سجدہ کا حکم دیا تھا۔  
 اور یہ بات عام مخلوق اور بہت سے خاص لوگوں کی عقل  
 سے بھی پر ہے۔ عارف باللہ آدم علیہ السلام کا ایک  
 ذرہ اور انھیں کا خلاصہ ہے۔ اسے کم علم پہلے علم دین سیکھ

ثُمَّ أَعَزَّلَ النُّرْمَ تَفْقَهُوا ثُمَّ اعْتَزَلُوا  
عَنِ الْخَلْقِ يَقُولُ بِهِمْ ظَوَاهِرُهُمْ  
مَعَ الْخَلْقِ لِإِصْلَاحِهِمْ وَبَوَاطِنُهُمْ  
مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي خِدْمَتِهِ وَ  
صُحْبَتِهِ فَهُمْ كَانُوا بَايَعُونَ  
كَانُوا مَعَ الْخَلْقِ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا  
عَنْهُمْ يَقُولُ بِهِمْ بَابِنَهُ مُعْتَزِلَةً  
عَنِ الْأَشْيَاءِ جَمِيعًا شَغْلُهُمْ فِي  
الظَّاهِرِ أَحْكَامُ الْحُكْمِ كُلِّهَا يَدْنُسُ ثَوْبَهُمْ  
غَسَلُوهُ وَطَيَّبُوهُ بَخْرُوهُ كُلَّمَا تَخَرَّقَ  
مِنْهُ شَيْءٌ رَفَعُوهُ وَخَيَّطُوهُ هُمْ  
رُؤَسَ الْخَلْقِ ذُرَّةً مِنْهُمْ كَالْجِبَالِ  
الرَّوَايَةُ قُلُوبُهُمْ مَعَ سَرَابِهِمْ  
عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَطَرِّحُونَ بَيْنَ  
يَدَيْهِ مُرَاقِبُونَ لَهُ عَائِضُونَ فِي  
عِلْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ غَدَاؤَنَا ذِكْرَكَ  
وِغْنَانًا قُرْبَكَ أَمِينٌ أَنْتَ مَيْتُ الْقَلْبِ  
وَصُحْبَتُكَ أَيْضًا لِمَوْتِ الْقُلُوبِ عَلَيْكَ  
بِالْأَحْيَاءِ النُّجَبَاءِ الْبُدَلَاءِ أَنْتَ  
قَبْرُ تَائِي قَبْرًا مِثْلَكَ أَنْتَ مَنْ  
يَقُودُكَ مَنْ مِثْلَكَ أَعْمَى  
يَقُودُكَ أَعْمَى مِثْلَكَ أَصْغَبُ  
الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ  
وَأَصْغَبُ عَلَى كَلَامِهِمْ وَ  
أَقْبَلُهُ وَأَعْمَلُ بِهِ وَقَدْ أَفْلَحْتَ

بدلہ گوشتہ نشینی اختیار کر لیا اور اللہ نے پہلے علم دین سیکھا  
پھر اپنے قلوبوں سے مخلوق سے جدا کر لی ان کے ظاہر  
مخلوق کی اصلاح کے لیے مخلوق کی معیت میں رہے اور  
ان کے باطن حق عزوجل کی معیت میں اُس کی خدمت و صحبت  
میں مشغول رہے پس اور لیا اللہ موجود بھی ہیں جدا و علیحدہ بھی  
حکم میں مخلوق کے ساتھ موجود ہیں اور اپنے قلبی تعلقات  
سے ان سے جدا و علیحدہ ان کے قلب تمام چیزوں سے  
جدا اور کنار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظاہر میں ان کا  
مشغلہ حکم شرع کا مضبوط بنانا ہے۔ جب کبھی ان کے  
کپڑے میلے ہو جاتے ہیں وہ اُس کو خود دھو لیتے اور  
پاک کرنے اور خوشبو میں بسا لیتے ہیں جب ان کے کپڑے  
کا کوئی حصہ پھٹ جاتا وہ اُس میں پوند لگا لیتے اور اُس کو  
وہ سخی لیتے ہیں۔ وہی مخلوق کے سردار ہیں ان میں سے ایک ذرہ  
مثل بلند پہاڑوں کے ہے۔ ان کے دل خدا کی معیت میں  
اُس کے روبرو پھڑپھڑے ہوئے اُس کے خیال میں ڈوبے  
ہوئے اُس کے علم میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ اسے اللہ  
ہماری غذا اپنا ذکر اور اپنا قرب ہماری تو مگر ہی نادے  
آمین۔ تو مردہ دل ہے تیری صحبت ہی مردہ دلوں سے  
ہے تو زندہ دلوں نے جلا و ابدا کی صحبت اختیار کر۔ تو قبر  
ہے اپنی جیسی قبر کے پاس آمد و رفت کرتا ہے تو مردہ ہے  
اپنے جیسے مردہ کے پاس آتا جاتا ہے تو پاہنج ہے  
تجھے تجھ جیسا پاہنج کھینچ کر لے جاتا ہے تو اندھا ہے  
تجھے تجھ جیسا اندھا کھینچتا ہے۔ تو مسلمانوں یقین رکھنے  
والو الیک لوگوں کی صحبت میں رہ اور ان کے کلام پر صبر کر  
اور اس کو قبول کر کے اُس پر عمل کر تو نجات پائے گا۔ تو

لَسْمَعُ قَوْلِ الشَّيْطَانِ وَاعْمَلْ بِهِ وَ  
 احْتَرَمْهُمْ إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ كَانَ رِي  
 شِيخٌ كُلَّمَا أَشْكَلَ عَلَى وَخَطَرَ بِقَلْبِي  
 يُحَدِّثُنِي بِهِ وَلَا يُخَوِّجُنِي إِلَى الْكَلَامِ  
 فَكَانَ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِي وَحُسْنِ آدَبِي مَعَهُ  
 مَا صَحِبْتُ قَطُّ الشَّيْخَ إِلَّا بِالِاحْتِرَامِ  
 وَحُسْنِ الْأَدَبِ الصُّوفِيِّ لَا يَكُونُ بِخِيَلًا  
 لِأَنَّهُ مَا بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ يَبْخُلُ بِهِ وَفَدَا  
 ادَّعَى تَرْكَ الْكُلِّ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ  
 لِغَيْرِهِ لَا لَهُ قَدْ صَنَعَ قَلْبُهُ عَنِ الْمَوْجُودَاتِ  
 وَالْمُصَوِّرَاتِ إِنَّمَا يَبْخُلُ مِنْ لَهُ مَالٌ وَ  
 الصُّوفِيُّ قَدْ صَارَتْ الْأَشْيَاءُ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ  
 يَبْخُلُ بِمَالٍ غَيْرِهِ لَا عَدُوَّ لَهُ وَلَا صَدِيقَ  
 وَلَا إِلَهَاتٍ إِلَى سَمَاعِ الْحَمْدِ وَالذِّمْرِ  
 لَا يَرَى الْعَطَاءَ وَالْمَنْعَ وَالضَّرَّ وَالنَّفْعَ  
 مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَفْرَحُ بِالْحَيَاةِ  
 وَلَا يَحْزَنُ بِالْمَوْتِ مَوْتُهُ سَخَطُ رَبِّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَحَيَاتُهُ رِضَا عَنْهُ  
 وَحَشَانَتُهُ فِي الْجَلْوَةِ وَأُنْسُهُ فِي الْخَلْوَةِ  
 طَعَامُهُ ذِكْرُ مَرَاتِبِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَشَرَابُهُ مِنْ  
 شَرَابِ الْأَنْبِيَاءِ لَا جَرَمَ لَا يَكُونُ بِخِيَلًا  
 بِحُطَامِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِأَنَّهُ عِنْدَهُ غِنًى  
 عَنِ الْجَمِيمِ رَبَّنَا إِنَّمَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ  
 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ قَبِلْنَا عَذَابَ  
 النَّارِ

مشائخوں کے قول کو سن اور اس پر عمل کرو اور ان کا احترام سجالا اگر  
 تجھے اپنی فلاح مقصود ہے یہ کہ ایک شیخ تھے جب کبھی  
 مجھ پر شکل پڑتی اور میرے دل میں خطرہ گزرتا تھا وہ خود بخود  
 مجھ سے بیان کر دیا کرتے تھے اور مجھے بات چیت !  
 کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے یہ اس لیے تھا کہ میں ان  
 کا احترام اور ان کے ساتھ حسن ادب ملحوظ رکھتا تھا میں کبھی  
 مشائخ کی صحبت میں بغیر احترام اور حسن ادب کے نہ رہا صوفی جمیل  
 نہیں ہوتا ہے کیوں کہ جب اس نے ہر چیز کے چھوڑ دینے  
 کا دعویٰ کیا اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی جس سے بخل  
 کرے اگر اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ اس کو دوسروں  
 کے لیے لے لیتا ہے نہ اپنے لیے اس کا دل تو تمام موجودات  
 اور صورتات سے پاک ہو چکا ہے۔ بخل تو وہ کرے جس کے  
 پاس مال ہو اور صوفی کی تو تمام چیزیں غیر کی ملک ہو جاتی ہیں پس وہ  
 غیر کے مال میں کیسے بخل کرے۔ نہ اس کا کوئی دشمن ہوتا ہے۔  
 اور نہ کوئی دوست اور اس کی تو ہر کسی سے تعریف و بُرائی سُننے  
 کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ وہ عطاء و منع کو بجز خدا کے کسی اور  
 کی طرف سے نہیں خیال کرتا ہے نہ وہ زندگی سے خوش ہے اور  
 نہ اسے موت کا غم اس کی موت اللہ کا اس پر غصہ و ناراض  
 ہونا ہے اور اس کی زندگی خدا کا اس سے راضی ہونا ہے۔  
 جلوت میں اسے وحشت رہتی ہے اور خلوت میں اسے  
 انس رہتا ہے خدا کا ذکر اس کی غذا ہے اور شراب  
 انس الہی اس کا پانی ایسی حالت میں وہ یقیناً دنیا و مافیہا  
 سے کیسے بخل کر سکتا ہے کیوں کہ اس کے نزدیک تو تمام  
 چیزوں سے لاپرواہی ہے اسے رب تو ہم کو دنیا و آخرت  
 میں ٹھوکیاں عطا فرماتا۔ اور عذاب دوزخ سے بچا دیتا۔

## المجلس الثامن والخمسون

## اٹھاونویں مجلس

علم پڑھ کر اس پر باخلاص عمل کرنے کے بیان میں !

یکم ثوال ۱۵۴۵ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ

قادریہ میں ارشاد فرمایا :

کب تک تو علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا تو علم کے دفتر کو لپیٹ دے پھر عمل کے دفتر کے کھولنے میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہو جاوے نہ تجھے فلاح نہ ملے گی تو تو محض علم سیکھنے میں مشغول ہے تو اپنے فعلوں سے اللہ عزوجل پر دلیر بنا ہوا ہے تو نے اپنی دونوں آنکھوں پر سے حیا کا پردہ اتار دیا ہے اور خدا کی نظر کو بہ نسبت دوسرے ناظرین کی نظر سے ہلکا جان لیا ہے تو اپنی خواہش سے لین دین کرنے والا اور اپنی خواہش سے منع کرنے والا اور حرکت کرنے والا ہے پس یقیناً تیرا خواہش تجھے ہلاک کر دے گی۔ تو تمام حالتوں میں اللہ عزوجل سے حیا کر اور اس کے حکم پر عمل کر۔ جب تو ظاہر علم پر عامل بن جائے گا تو وہ عمل تجھ کو معرفت الہی کے قریب کر دے گا۔ اسے اللہ تو ہم کو غافلوں کی خواب سے بیدار فرما دے آمین جب کہ تو گناہ کرے گا تجھ اُنقیتیں آکر گر پڑیں گی پس اگر تو توبہ کرے گا اور اپنے رب سے اُن گناہوں سے مغفرت چاہے گا اور اس سے مدد طلب کرے گا تو وہ اُنقیتیں تیرے سے علیحدہ تیرے آس پاس گریں گی۔ نہ کہ تجھ پر۔ تیرے اوپر ہلاک آنا ضروری ہے پس تو خدا سے دعا کر کہ وہ مصیبت کے ساتھ تجھ کو صبر و موافقت عطا فرما دے

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَكَرَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ مُسْتَهْلَةً  
سُئِلَ سَنَةَ خَمْسٍ قَامَ بَعِيْنٌ وَخَمْسٍ مِائَةٍ  
بَعْدَ كَلَامِهِمْ كَمْ تَتَعَلَّمُ وَلَا تَعْمَلُ أَطْبِ  
دِيَوَانَ الْعِلْمِ ثُمَّ اسْتَعْلِفَ بِنَشْرِ دِيَوَانِ  
الْعَمَلِ مَعَ الْإِحْلَاصِ وَإِلَّا فَلَا فَلَاحَ لَكَ  
تَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فَحَسْبُ أَنْتَ مُجْتَرِدٌ  
عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَا فَعَالِكَ قَدْ أَقْبَيْتَ  
جُنُبَابَ الْحَيَاءِ مِنْ عَيْنَيْكَ وَقَدْ جَعَلْتَهُ  
أَهْوَنَ النَّاطِرِينَ إِلَيْكَ أَنْتَ أَخَذَ بِهِوَكَ  
وَمَارِنَهُ بِهِوَكَ وَمُنْتَحَرَكُ بِهِوَكَ فَلَا  
جَرَمَ بِهَيْلِكَ هَوَاكَ اسْتَجَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ وَاعْمَلْ بِحُكْمِهِ  
إِذَا عَمِلْتَ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ أَدْنَاكَ  
الْعَمَلُ إِلَى الْعِلْمِ يَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُمَّ  
نَبِّهْنَا مِنْ رَقَدَةِ الْغَافِلِينَ أَمِينٍ  
إِذَا ارْتَكَبْتَ الذُّنُوبَ جَاءَتْ الْأَفَاتُ  
وَوَقَعَتْ عَلَيْكَ فَإِنْ تَبَّتْ وَاسْتَغْفَرْتَ  
رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعْنَتْ بِهِ وَقَعَتْ  
حَوَالِيكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ بَلِيَّةٍ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ  
وَجَلَّ أَنْ يَأْتِيَكَ مَعَهَا بِالصَّبْرِ وَالْمُوَافَقَةِ

حَتَّى يَسْلَمَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ  
 فِي الْقَلْبِ لَا فِي الْقَلْبِ فِي الظَّاهِرِ لَا فِي الْبَاطِنِ  
 فِي الْمَالِ فِي الدِّينِ فَحَيْثُ تَكُونُ الْبَلِيَّةُ  
 نِعْمَةً لَا نِقْمَةً يَا مُنَافِقُ قَدْ قَنَعَتْ مِنْ  
 اتِّبَاعِكَ لِلَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ بِالْإِسْمِ  
 لَا بِالْعَمَلِ ذَلِكَ كَذِبُ ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ  
 فَلَا جَرَمَ أَنْتَ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 الْعَاصِي ذَلِيلٌ فِي نَفْسِهِ وَالْكَذَّابُ ذَلِيلٌ  
 فِي نَفْسِهِ يَا عَالِمًا لَا تَدْرُسُ عِلْمَكَ عِنْدَ  
 آبَاءِ الدُّنْيَا لَا تَتَّبِعْ عَزِيزًا بِذَلِيلِ الْعَزِيزِ  
 الْعِلْمُ وَالذَّلِيلُ هُوَ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ  
 الدُّنْيَا الْخَلْقُ لَا يَفْقِدُونَ أَنْ يُعْطَوْكَ  
 مَا لَيْسَ لَكَ مَقْسُومًا إِنَّمَا قَسَمَكَ يَجُوزُ  
 عَلَى أَيْدِيهِمْ فَإِذَا صَبَرْتَ جَاءَ قَسَمُكَ  
 عَلَى أَيْدِيهِمْ وَأَنْتَ عَزِيزٌ وَبِحُكْمِكَ مَنْ  
 يَزِيدُ لَا يَزِيدُ مَنْ يُعْطَى لَا يُعْطَى سَتَقِيلُ  
 بِطَاعَةِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَاتْرُكِ الظَّلْبَ  
 مِنْهُ فَمَا يَحْتَاجُ تَعْلَمُهُ وَتَعْرِضُ بِهِ مَصْلِحَتَكَ  
 قَالَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ  
 مَنْ شَعَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أَعْطَيْتُهُ  
 أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ ذِكْرُ اللِّسَانِ  
 يَلَا قَلْبَ لَا كَرَامَةَ وَلَا عِزَّ أَذَقَكَ لَكَ بِهِ  
 أَلَّا كُرْهُهُ ذِكْرُ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ ثُمَّ ذِكْرُ  
 اللِّسَانِ إِذَا صَمَّ ذِكْرُ الْحَقِّ عِزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ  
 ذِكْرُ الْحَقِّ كَمَا قَالَ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ

تاکہ وہ معاملہ جو کہ تیرے اور خدا کے درمیان میں ہے محفوظ رہے  
 پس اُس وقت خدشہ بدن پر ہو گا نہ کہ قلب میں ظاہری ہو گا نہ کہ  
 دین میں پس اُس وقت وہ مصیبت نعمت ہو جائے گی نہ کہ  
 عذاب۔ اسے منافق تو نے خدا اور رسول کے اتباع میں صرف  
 نام پر قناعت کر لی ہے۔ تو تحقیقت و معنی سے لاپرواہ ہے  
 یہ تیرا ظاہر و باطن بھوٹ ہے پس تو اس وجہ سے دنیا و آخرت  
 میں یقیناً ذلیل ہے۔ گناہ گاری فی غمہ ذلیل ہے اور بھوٹ بولنے  
 والا بھی اسے عالم تو اپنے علم کو اہل دنیا کے روبرو مبہل کھیلانہ  
 کر تو عزیز شے کو ذلیل شے کے عوض فروخت نہ کر علم عزیز ہے  
 اور وہ دنیا جو کہ دنیا داروں کے ہاتھ میں ہے ذلیل ہے مخلوق  
 میں یہ قدرت نہیں کہ وہ تجھے وہ چیز جو کہ تیرے مقسوم میں نہیں  
 ہے دے سکیں تیرا مقسوم بے شک اُن کے ہاتھوں سے تجھے  
 پہنچتا ہے پس جب تو صابر بنا رہے گا تیرا مقسوم اُن کے  
 ہاتھوں سے تجھے پہنچے گا اور تو عزیز کا عزیز بنا رہے گا۔  
 تجھ پر انوس جو کہ خود رزق دیا جاوے گا وہ دوسروں کو رزق  
 نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ عزوجل کی اطاعت میں مشغول نہ ہو  
 اور اُس سے مانگنا چھوڑ دے پس وہ اس کا محتاج نہیں ہے  
 کہ تو اُس کو اپنی مصلحت بنلائے اور پہنچوائے۔ اللہ تعالیٰ  
 نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے جس کو میرا ذکر مجھ سے  
 سوال کرنے سے باز رکھے گا میں اُس کو اُس سے زیادہ دوں  
 گا۔ جتنا کہ مانگنے والوں کو دوں گا۔ بغیر قلب کے ذکر کے محض  
 زبانی ذکر میں کوئی کرامت ہے اور نہ تیری کوئی بزرگی ذکر الہی  
 قلب و باطن کا ذکر ہے پھر زبان کا ذکر جب کسی بندہ کا ذکر الہی  
 درست ہو جاتا ہے پس حق عزوجل اُس کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ  
 اُس نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا

اَشْكُرُوْنِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ هُ اَذْكُرْهُ حَتّٰى  
يَذْكُرَكَ اَذْكُرْهُ حَتّٰى يَحْطَ الدَّكْرُ  
عَنْكَ اَوْزَا اَذْكُ تَبْقٰى خَالِيًا عَنْ وَرَثَةٍ  
تَصِيْرُ طَاعَةً بِلَا مَعْصِيَةٍ فَيَحْبِبْنِيْ  
يَذْكُرَكَ فَيَمْنُ يَذْكُرْ فَتَشْتَغِلُ بِهِ  
عَنْ خَلْقِهِ وَ يَشْتَغِلْ ذِكْرَهُ عَنْ مَسْئَلَتِهِ  
يَصِيْرُ كُلُّ مَقْصُوْدِكَ هُوَ فَتَشْتَغِلُ  
عَنْ جَمِيْعٍ مَّقَاصِدِكَ اِذَا صَارَ هُوَ كُلُّ  
مَقْصُوْدِكَ جَعَلَ مَعَايِيْخَ خَزَائِنِ الْمَلِكِ  
فِيْ يَدِ قَلْبِكَ مَنْ اَحَبَّ اِلَهَ عَزَّ وَ جَلَّ  
لَا يُحِبُّ غَيْرَهُ يُزِيْلُ مِنْ قَلْبِهِ حُبَّ  
مَا سِوَاهُ اِذَا تَمَكَّنَ حُبُّ الْحَقِّ عَزَّ  
وَ جَلَّ مِنْ قَلْبٍ عَبْدٍ خَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ  
حُبُّ غَيْرِهِ بَيِّنٌ اَعْصَاءُهُ وَ يَشْتَغِلُ  
بِهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ صَوْمَتُهُ وَ مَعْنَاهُ  
فِيْهِمِيْمُهُ وَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْعَادَةِ  
وَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْعُمَرَانِ فَاِذَا تَحَقَّرَ  
لَهُ هَذَا اَحَبَّهُ اِلَهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَمَّا لَكَ  
عَقْلٌ تَنْظُرُ بِهِ وَ تَعْقِلُ بِهِ اَمَّا  
حَصْرَتَ مَزُوْلًا بِهِ فَطَطَّ  
سَتَائِيْكَ نَوْبَتِكَ وَ يَفْرَعُ  
مِنْكَ مَلِكُ الْمَوْتِ بَابَ حَيَاتِكَ  
فَيَقْلَعُهَا مِنْ مَكَانِهَا وَ يَفْرِقُ  
بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَهْلِكَ وَ مَحَارِيْقِ  
اَجْتِهَادِكَ اَنْ لَا تُقْبَضَ وَ اَنْتَ كَايَا

شکر کرو اور ناشکری نہ کرو تو خدا کا ذکر یہاں تک کر کہ وہ تیرا ذکر  
کرے تو اُس کا ذکر یہاں تک کر کہ ذکر کی وجہ سے تیرے سب  
گناہ جھڑ جائیں تو گناہ سے خالی باقی رہ جائے اور طاعت  
بلا معصیت ہو جائے پس وہ اس وقت نیز انجملہ ان لوگوں کے  
جن کا کہ وہ ذکر کرتا ہے ذکر کرے گا پس تو اُس کی مخلوق سے  
غافل ہو جائے گا اور اُس کا ذکر نچھ کو اُس کے سوال سے باز  
رکھے گا تیرا کل مقصود ہی ہو جائے گا اور تو اپنے تمام مقاصد  
سے غافل ہو جائے گا جب کہ خدا تیرا کل مقصود ہو جائے گا  
وہ تیرے قلب کے ہاتھ میں اپنی حکومت کے خزانوں  
کی کنجیاں دیدے گا جو کوئی اللہ عزوجل کو دوست رکھتا ہے  
اور اُس کے غیر کو دوست نہیں رکھتا اللہ عزوجل اُس کے قلب  
سے اپنے ماسوا کی محبت کو زائل کر دیتا ہے جب کسی بندہ  
کے دل میں حق عزوجل کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو اُس کے  
دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اُس کے تمام اعضاء  
میں اس وجہ سے مسرت پیدا ہو جاتی ہے اُس کا ظاہر و باطن صورت  
و معنی خدا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں پس خدا اُس کو دیوانہ  
بنالیتا ہے اور اُس کو اُس کی عادت آبادی سے باہر کر دیتا  
ہے پس جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے خدا اُس کو  
اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ کیا تجھے عقل نہیں ہے جو تو دیکھے  
اور سمجھے۔ کیا تو کبھی ایسے شخص کے پاس حاضر نہ ہوا جس پر  
موت اتاری گئی ہو تو قریب ہے کہ تیری بھی نوبت آئے گی  
اور ملک الموت تیری زندگی کے دروازہ کو اکڑٹھوٹھکیں گے  
اور اُس کو اُس کی جگہ سے اکھیر پھینکیں گے وہ تیرے اور  
تیرے اہل و عیال اور دوستوں میں تفریق و جدائی کر دیں گے  
تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرا قبض روح اس حال میں نہ ہو کہ تو

لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَ مَّا لَكَ إِلَى الْآخِرَةِ  
وَأَنْتَظِرِ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ تَرَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ خَيْرًا مِمَّا تَرَاهُ فِي الدُّنْيَا. رَبَّنَا آتِنَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ ۝

لقاء الہی کو ناپسند کرنے والا ہو تو اپنا مال آخرت کی طرف پہلے  
سے روانہ کر دے۔ اور موت کا انتظار کر۔ تحقیق تو اللہ عزوجل  
کے پاس اُس سے بہتر معاملہ دیکھے گا جو کہ تو نے دنیا میں دیکھا ہے  
اے رب ہمارے ہیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب کر  
اور دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ آمین۔

## انسٹھویں مجلس

## المجلس التاسع والخمسون

### لاچی کے وعظ کے بیان میں

۹ رجب ۱۲۷۶ ہجری کو بعد کچھ کلام کے مدرس  
قادریہ میں ارشاد فرمایا:

طمع کرنے والے کا کلام دو وعظ خود غرض اور مد اہمت  
سے خالی نہیں ہوتا اُس کو مخالفت سامعین کی طاقت نہیں!  
حق گوئی غیر ممکن ہے اُس کا کلام خالی بلا مغز کا چھلکا اور لفظ  
بلا معنی ہوا کرتا ہے جس طرح طمع کے حرف نقطوں سے خالی ہیں  
ایسے ہی لفظ طامع (یعنی لالچی شخص) خالی ہے طمع کے حرف  
ط۔ م۔ ر۔ ع۔ میں ان میں ہر ایک نقطہ سے خالی ہے۔ اے اللہ  
کے بندو! تم بھی بول بے شک فلاح پا لو گے سچے کی  
ہمت آسمان میں بلند ہے اُس کو کسی قائل کا قول ضرر نہیں دیتا  
ہے تحقیق اللہ عزوجل اپنے امر پر غالب ہے جب وہ تجھ سے  
کسی امر کا ارادہ کرے گا تجھ کو وہ اُس کے لیے تیار کر دے گا  
کسی بے ادب سے کچھ کلام نکلا اور یہ اس کا جواب ہے  
تمہاری حالتوں کی سچائی مجھے گویا کر دیتی ہے اور تمہارا جھوٹ  
مجھے ساکت کر دیتا ہے تمہاری خریداری کے مطابق میں تم

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَاسِعَ رَجَبٍ مِنْ  
سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ (بَعْدَ كَلَامِ)  
كَلَامُ الطَّامِعِ لَا يَخْلُو مِنْ دَرَجَةٍ وَ  
مُدَاهَنَةٍ لَا يَبْكِيهِ الْمُعَالَفَةُ يَكُونُ  
كَلَامُهُ قَشْرًا فَارِعًا لَا لَبَّ فِيهِ مَوْرَثٌ وَلَا  
مَعْنَى الطَّامِعُ فَارِعٌ كَالطَّمْعِ لِأَنَّ حُرُوفَ  
الطَّمْعِ كُلَّهَا فَارِعَةٌ الطَّاءُ وَالْيَمِيمُ  
وَالْعَيْنُ يَا عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدُقُوا  
وَقَدْ أَفْلَحْتُمْ الصَّادِقُ يَهْتَمُّ عَلَيْهِ  
فِي السَّمَاءِ لَا يَصْرُكَ قَوْلُ قَائِلٍ إِنَّ اللَّهَ  
عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ عَلَى أَمْرِهِ إِذَا أَرَادَكَ  
لَا مَرَهِيًا لَكَ لَهُ كَلَامٌ جَرَى مِنْ سَيِّئِ  
الْأَذْيَابِ وَهَذَا جَوَابُهُ صِدْقُ  
أَحْوَالِكُمْ تُنْطِقُنِي وَكَذِبُكُمْ  
يُسْكِنُنِي عَلَى قَدَرٍ مَا تَشْتَرُونَ

اَبِيعُكُمْ

فروخت کرتا ہوں۔

يَا غُلَامُ كَوْنْكَانَ عِنْدَكَ شَرَّةُ الْعِلْمِ  
وَبَرَكَتُهُ لِمَا سَعَيْتَ إِلَىٰ أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ  
فِي حُطُوطِ نَفْسِكَ وَشَهَوَاتِهَا الْعَالِمُ لَا  
يُجَلِّينَ لَهُ يَسْعَىٰ بِهِمَا إِلَىٰ أَبْوَابِ الْخَلْقِ وَ  
الزَّاهِدُ لَا يَكْدِينُ لَهُ يَأْخُذُ بِهِمَا أَمْوَالُ  
النَّاسِ وَالْمُحِبُّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا عَيْنَيْنِ  
لَهُ يُنْظَرُ بِهِمَا إِلَىٰ غَيْرِهِ أَتُحِبُّ الصَّادِقَ  
فِي مَحَبَّتِهِ كَوَيْفَى الْخَلْقِ كُلَّهُمْ مَا حَلَّ لَهُ  
النَّظَرُ إِلَيْهِمْ لَا يُنْظَرُ إِلَىٰ غَيْرِ مَحْبُوبِهِ  
لَا تَكْبُرُ فِي عَيْنِي رَأْسُهُ الدُّنْيَا وَلَا تَكْبُرُ  
فِي عَيْنِي قَلْبُهُ الْآخِرَىٰ وَلَا يَكْبُرُ فِي  
عَيْنِي سِرُّهُ غَيْرُ الْمَوْلَىٰ كَوْنُوا عَقْلَاءَ  
مَا أَنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرُ مِنْكُمْ يَتَّبِعُونَ  
كُلَّ نَرَاعِي وَنَاعِي الْأَكْثَرُ مِنْ  
الْمُتَكَلِّمِينَ كَلَامُهُمْ مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ  
لَا مِنْ قُلُوبِهِمْ نَرَعَقَاتُ الْمُنَافِقِ  
مِنْ لِسَانِهِ وَرَأْسِهِ وَنَرَعَقَاتُ الصَّادِقِ  
مِنْ قَلْبِهِ وَسِرُّهُ قَلْبُهُ عَلَىٰ بَابِ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسِرُّكَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ  
لَا يَزَالُ يَصْرُخُ عَلَىٰ الْبَابِ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الدَّارَ  
أَنْتَ كَذَّابٌ وَاللَّهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ مَا تَعْرِفُ  
الطَّرِيقَ إِلَىٰ بَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ تَدُلُّ عَلَيْهِ  
أَنْتَ أَعْنَىٰ كَيْفَ تَقُودُ غَيْرَكَ فَتَدَا أَعْمَاكَ  
هُوَ أَعْنَىٰ وَطَبْعُكَ وَمَتَابَعَتُكَ لِنَفْسِكَ

اے غلام اگر تیرے پاس علم کا پھل اور اُس کی برکت  
ہوتی تو تو ہرگز اپنے حطوط و خواہشات نفسانی کے لئے بادشاہوں  
کے دروازوں پر نہ دوڑتا عالم کے پاس وہ دوپیر ہی نہیں ہوتے  
جن سے وہ مخلوق کے دروازوں پر دوڑے اور زاہد کے پاس  
وہ دو ہاتھ ہی نہیں ہوتے جن سے وہ آدمیوں کا مال لے۔  
اور اللہ کے محب کے پاس وہ دوا نکھیں ہی نہیں ہوتی ہیں  
جن سے وہ غیر اللہ کی طرف دیکھے۔ سچا محب جو کہ اپنی محبت  
میں سچا ہے اگر تمام مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو  
مخلوق کی طرف اُس کو نظر کرنا ملال نہ ہو وہ تو اپنے محبوب کے  
سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے اُس کے سر کی آنکھوں میں دنیا کی  
اور اُس کے قلب کی آنکھوں میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی ہے  
اور نہ اُس کے باطن کی آنکھوں میں خدا کے سوا کسی کی عظمت و  
قدر ہوتی ہے۔ تم قاتل بنو تمھاری کچھ حقیقت نہیں ہے تم  
میں سے اکثر چھیننے چلانے والوں کا اتباع کرنے لگتے ہیں۔  
بہت سے واعظوں کا وعظ زبانی ہوتا ہے دلوں سے  
نہیں ہوتا منافق کی سردائیں زبان و سر ہوتی ہیں اور سچے  
شخص کی اُس کے قلب و باطن سے۔ سچے شخص کا قلب رب عزوجل  
کے دروازہ پر اور اُس کا باطن اُس کے روبرو ہوتا ہے وہ  
ہمیشہ اُس کے دروازہ پر چمچ چمکار کرنا رہتا ہے یہاں تک  
کہ وہ چیتے چیتے گھس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو تو قسم بخدا  
اپنی سب حالتوں میں جھوٹا ہے تو اللہ عزوجل کے دروازہ  
کا راستہ بھی نہیں سمجھتا ہے تو دوسروں کو اُسی پر کیسے  
رہنمائی کرے گا۔ تو خود اندھا ہے دوسروں کا ہاتھ کیسے  
پکڑے گا۔ تجھے تیری خواہش و طبیعت اور نفس کی تابعداری

وَمَحَبَّتِكَ لِدُنْيَاكَ وَيَا سَتِكَ وَ  
شَهْوَاتِكَ كَفَقْتُمْ إِلَى مَا دَامَ الْمَعَاصِي  
عَلَى ظَاهِرِكَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى قَلْبِكَ  
فَتَصِيرُ مُصْذَرًا ثُمَّ يَنْتَقِلُ الْأَصْرَارُ فَيُصَيِّرُ  
كُفْرًا مَنْ تَحَقَّقَتْ طَاعَتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَعِبُودِيَّتُهُ لَهُ قَدَرًا عَلَى سَمَاعٍ كَلَامِهِ  
وَذَكَرَ السَّبْعِينَ الْمُخْتَارِينَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى  
لِسَمَاعٍ الْكَلَامَ وَقَالَ فَخَاطَبَهُمُ الْحَقُّ عَزَّ  
وَجَلَّ فَصَوِّقُوا لَهُمْ وَيَقِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
وَحْدَهُ وَلَمَّا أَحْيَا هُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا  
لَا طَاقَةَ لَنَا عَلَى سَمَاعٍ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ فَكُنْ أَنْتَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ  
فَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى وَهُوَ  
يَسْمَعُهُمْ وَيُعِيدُ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ إِنَّمَا قَدَرُ  
عَلَى سَمَاعٍ كَلَامِهِ لِقُوَّةِ إِيْمَانِهِ وَتَحَقُّقِ  
طَاعَتِهِ وَعِبُودِيَّتِهِ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَسْمَعُوا  
مِنْهُ لِضَعْفِ إِيْمَانِهِمْ فَلَوْ أَقْبَلُوا مِنْهُ مَا  
جَاءَهُمْ بِهِ فِي التَّوَمُّاتِ وَأَطَاعُوا فِي الْأَمْرِ  
وَالنَّهْيِ وَتَادَبَوْا وَلَمْ يَتَجَرَّؤْا عَلَى مَا قَالُوا  
لَقَدَرُوا عَلَى سَمَاعٍ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
(وَقَالَ رَبِّي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) إِنِّي مُسَلِّطٌ عَلَى كُلِّ  
كَذَّابٍ مُنَافِقٍ دَجَالٍ مُسَلِّطٌ عَلَى كُلِّ عَاصٍ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكْبَرُهُمْ إِبْلِيسُ وَأَصْغَرُهُمْ  
الْقَاسِقُ إِنِّي مُحَارِبٌ لِكُلِّ ضَالٍّ مُضِلٍّ  
ذَائِعٍ إِلَى الْبَاطِلِ مُسْتَعِينٌ

اور دنیا و ریاست اور شہوتوں کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے تو  
میرے سامنے آجب تک کہ گناہ تیرے ظاہر پر ہی ہیں۔ اس  
سے قبل کہ وہ گناہ تیرے قلب تک پہنچیں بڑھو ورنہ تو گناہ پر  
اصرار کرنے والا ہو جائے گا پھر وہ اسرار منتقل ہو کر کفر بن جائے  
گا۔ جس کی تابعداری اور بندگی خدا کے لیے مستحق ہو باقی ہے  
وہی خدا کے کلام سننے پر قدرت پالیتا ہے۔ اس کے بعد  
اپنے ساتھ ان موسائیوں کا جن کو کلام الہی سننے کے لیے منتخب  
کیا گیا تھا ذکر کیا اور فرمایا پس اللہ نے ان موسائیوں سے خطاب  
کیا وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور تنہا موسیٰ علیہ السلام  
باقی رہ گئے پھر جب ان بے ہوشوں کو اللہ عز و جل ہوش میں لایا  
کہنے لگے ہم میں کلام الہی سننے کی طاقت نہیں ہے اے موسیٰ  
تم ہمارے اور خدا کے درمیان میں واسطہ بن جاؤ پس موسیٰ  
علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے کلام کیا اور وہ ان لوگوں کو کلام  
الہی سناتے تھے اور اُس کا قول ان پر لوٹتے تھے موسیٰ علیہ السلام  
بسبب اپنی قوت ایمانی اور حقیقی طاعت و عبودیت الہی کے  
ذریعہ سے کلام باری سننے پر قادر ہوئے۔ اور یہ موسائی اپنے  
ضعف ایمان کی وجہ سے اُس پر قدرت نہ پاسکے۔ اگر وہ موسیٰ  
علیہ السلام کے احکام کو جو کہ قوریت میں تھے قبول کر لیتے اور اُدا  
نواہی میں ان کی اطاعت کر لیتے اور ادب و لے بن جلتے  
اور اپنے خود ساختہ اُفوال پر حجرات نہ کرتے تو البتہ یہ کلام الہی  
کے سننے پر قدرت پالیتے اور آپ نے ارشاد فرمایا تحقیق  
میں ہر جھوٹے منافق و جال پر مسلط ہوں۔ ہر اندک گناہ کا زامان  
پر میں مسلط ہوں۔ منافقوں میں سب سے بڑا ابلیس ہے۔  
اور ان سب کا چھوٹا قاتل ہے تحقیق میں ہر گمراہ اور گمراہ کن  
باطل کی طرف دعوت دینے والے سے لڑائی کرنے والا اور

اس پر بلا حول و قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ  
مدد چاہنے والا ہوں نفاق تیرے دل میں جما ہوا ہے تو اسلام  
اور توبہ کرنے اور زنا کفر کے ٹوڑ ڈالنے کا محتاج ہے اسے قطع کر  
تو برک کے مسلمان بن جس مشغلہ میں میں ہوں اگریر اللہ عزوجل کی طرف  
سے ہے پس یہ مقرب بزرگ و کثیر عظمت والا ہو جائے گا  
اور اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گا اور اپنے بازوؤں سے خلق  
کی چھتوں پر اڑے گا اور ان کے گھروں میں داخل ہو گا۔ اور وہ اس  
کو اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اگر میرے مشغلہ  
مناہب میں سے نفس و خواہش و طبیعت کے اور میں سے شیطان و باطل  
کی طرف سے ہے پس اس کے لیے خرابی و دوری ہوگی اور مقرب  
چھوٹا پڑ جائے گا اور پھل جائے گا اور لوٹ جائے گا اور  
متفرق و منقطع ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ عزوجل جھوٹے کی مدد و  
تائید اور منافق کی مدد گاری نہیں فرماتا ہے اور منکر کو کچھ نہیں دیتا  
ہے اور ناشکر کی نعمت کو نہیں بڑھاتا ہے۔ ہر وہ نفس کہ جس  
کے دل میں کچھ حصہ بھی نفاق کا ہے اس سے کوئی کام بھی نہیں  
ہو سکتا ہے بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جلا دینے کا سبب  
بن جائے گا۔ اسے میرے مریدوں میں سے تو کبہ دیا اور لیکن  
تم بھاگ رہے ہو تم سنتے ہو اور عمل نہیں کرتے۔ میرا نام تمام  
شہروں میں گونگا مشہور تھا میں مجنون اور گونگا اور خاموش بنا ہوا  
تھا لیکن یہ بات نبھہد سکتی قضا و قدر نے نکال کر تمہاری طرف  
ڈال دیا۔ میں ترخانوں میں تھا تقدیر نے باہر نکالا اور مجھ کو کسی  
پر لاکر بٹھا دیا۔ تو جھوٹ زبول تیرے پاس دو دل نہیں ہیں  
بلکہ ایک ہی دل ہے وہ کبہ چیز سے بھی بھرا بھرا اس میں دوری  
چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا اللہ  
نے کسی مرد کے لیے دو دل نہیں بنائے۔ ایک ہی قلب

عَلَى ذَلِكَ بِلَا حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ  
الْعَظِيمِ الَّتِي تَقَاتُ تَبَتَّ عَلَى قَلْبِكَ  
تَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّوْبَةِ وَ قَطْعِ  
الرِّيَاءِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسَيَكْبُرُ وَيَكْثُرُ وَيَعْظُمُ  
وَعَلَى رَجُلِيهِ يَقُومُ وَيَأْخُذُ بِطَبِيرِ عَلَى  
سُطُوحِ الْخَلْقِ وَيَدْخُلُ دُورَهُمْ وَ  
يَرُونَهُ بِعُيُونِهِمْ وَفُلُوبِهِمْ وَإِنْ كَانَ  
مِنْ نَفْسِي وَهَوَايَ وَطَبْعِي وَشَيْطَانِي وَ  
بَاطِلِي فَسُحْقًا وَبُعْدًا عَنْ قَرِيبٍ تَصْغُرُ  
وَيَذُوبُ وَيَنْقَلِبُ وَيَتَفَرَّقُ وَيَنْقَطِعُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُؤَيِّدُ كَذَّابًا وَلَا  
يَنْصُرُ مُنَافِقًا وَلَا يُعْطِي جَائِدًا وَلَا يُزِيدُ  
تَارِكًا لِلشُّكْرِ مَكْرًا مَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ  
مِنَ النِّفَاقِ لَا يَجِيءُ مِنْهُ شَيْءٌ بَلْ يَكُونُ  
نِفَاقُهُ سَبَبَ إِحْتِرَاقِ دِينِهِ يَا  
مُرِيدُ ذَنْ فَتَدْ تَطَقَّتْ وَلَكِنْ أَتَيْتُمْ  
تَهْمُ بُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ إِسْمِي فِي سَائِرِ  
الْبِلَادِ آخِرُ سَ كُنْتُ أَتَجَانُّ وَ  
أَتَخَارَسُ وَأَتَعَاَجَمُ وَلَكِنْ مَا صَحَّ  
لِي أَخْرَجَنِي وَأَقْعَدَنِي عَلَى الْكُفْرِي لَا  
تَكْذِبُ فَمَا لَكَ قَلْبَانِ بَلْ هُوَ فَتَلَبَّ  
وَاحِدٌ يَا بَنِي شَيْءٍ اِمْتَلَا فَمَا يَسَعُ شَيْئًا  
أَخْرَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ  
لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي حَيَاتِهِ هَ قَلْبُ

يُحِبُّ الْخَائِقَ وَالْخَلْقَ لَا يَصِفُ قَلْبُ  
 تَكُونُ فِيهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لَا يَصِفُ  
 إِذَا كَانَ الْقَلْبُ لِلْخَائِقِ وَالْوَجْهَ إِلَى  
 الْخَلْقِ يَجُوزُ لَفْتُهُ إِلَى الْخَلْقِ نَظَرًا فِي  
 مَصَارِيحِهِمْ وَرَحْمَةً لَهُمْ يَجُوزُ  
 الْجَاهِلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرَأِي وَيُنَافِقُ  
 وَالْعَالِمُ بِهِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا حَقَّقُ  
 يَعِصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَاقِلُ يُطِيعُهُ  
 الْحَرِيصُ عَلَى جَمِيعِ الدُّنْيَا يَرَأِي وَ  
 يُنَافِقُ وَالْقَصِيرُ فِي الْمَلِكِ لَا يَفْعَلُ  
 ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَيَتَحَبَّبُ  
 إِلَيْهِ بِالتَّوَافُلِ وَاللَّهُ عِبَادٌ لَا تَوَافُلَ  
 لَهُمْ بَلْ يَأْتُونَ الْفَرَائِضَ ثُمَّ يَفْعَلُونَ  
 التَّوَافُلَ وَيَعُولُونَ هَذِهِ فَرَائِضُ عَالِمِنَا  
 لِجَلِّ أَقْدَارِنَا عَلَيْهَا لِنَتَعَالَمَنَا بِالْعِبَادَةِ  
 أَبَدَ الدَّاهِرِ فَرَضٌ عَلَيْكَ لَا يَعْدُونَ  
 لِنَفْسِهِمْ نَافِلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مَنِيَّةٌ يَنْبَغُهُمْ مَعَهُمْ  
 يَعْلَمُهُمْ يَهَيِّئُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ  
 أَسْبَابُ التَّعَلُّمِ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَانِ الْمُؤْمِنِ عَلَى  
 قَلَّةٍ جَبَلٍ لَقِصَصَ اللَّهُ لَهُ عَالِمًا يَعْلَمُهُ  
 لَا تَسْتَعِزُّ كَلِمَاتِ الصَّالِحِينَ وَتَتَكَلَّمُ  
 بِهَا وَتَدْعُهَا لِنَفْسِكَ الْعَارِيَّةُ

خالق و مخلوق دونوں کو دوست رکھے ہو نہیں سکتا ایک ہی قلب میں  
 دنیا و آخرت دونوں جمع ہو جائیں ہو نہیں سکتا جب کہ قلب خالق  
 کی طرف ہو اور چہرہ مخلوق کی طرف ایسا ہو سکتا ہے خلق کی طرف متوجہ  
 ہونا بہ نظر ان کی مصلحتوں کے اور بغرض ان پر رحمت کے جائز ہے  
 دل کا لگاؤ خالق ہی سے رہے جو اللہ سے جاہل ہے وہ ریاکاری  
 کرتا ہے اور لفاق برتا رہتا ہے اور جو کہ اللہ کا جاننے والا ہے وہ  
 ایسا نہیں کرتا ہے الحق اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے۔ ریاکار  
 منافق بنتا ہے اور عالم کی شان سے یہ بعید ہے الحق اللہ کی  
 نافرمانی کیا کرتا ہے اور عاقل اُس کی تابعداری کرتا ہے اور دنیا  
 جمع کرنے پر حریص ریاکاری کرتا اور لفاق برتا رہتا ہے اور جو حریص  
 نہیں امید کو کوتاہ کرنے والا ہے وہ ایسا نہیں کرتا مومن فرض  
 ادا کر کے اللہ عزوجل سے قریب ہو جاتا ہے اور نفلیں پڑھ  
 کر اُس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ عزوجل کے کچھ ایسے  
 بند بھی ہیں جو کہ نفلوں کو جانتے بھی نہیں بلکہ وہ فرض ادا کرتے  
 ہیں پھر نفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر اس وجہ سے  
 فرض ہے کہ ہم کو ان کے پڑھنے پر قدرت عطا فرمادی ہے  
 ہمارا ہمیشہ عبادت میں مشغول رہنا ہم پر فرض ہے وہ فی الجملہ اپنے  
 حق میں کسی چیز کو نفل نہیں سمجھتا ہر عبادت کو فرض ہی سمجھتا ہے۔  
 اولیاء اللہ کے لئے ایک آگاہ کر دینے والا ہے جو ان کو آگاہ  
 کرتا رہتا ہے ایک معلم ہے جو ان کو تعلیم دیتا رہتا ہے حق  
 عزوجل ان کے لئے تعلیم و تعلم کے سبب مہیا فرماتا رہتا ہے۔  
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی  
 مسلمان پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے اللہ عزوجل اُس کے لئے ایک  
 بتاؤں والا مقرر کر دیتا ہے جو اُس کو سکھاتا رہتا ہے۔ تو اچھے  
 لوگوں کے کلمے لے کر ان سے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے

لَا تُخْفِي أَكْتَسَ مِنْ مَّا لَكَ لَا مِنَ الْعَارِيَةِ  
 إِذْ مَرَّ الْقُطْنُ بِبَيْدِكَ وَاسْقِهِ بِبَيْدِكَ  
 وَتَرَبَّ بِجَهْدِكَ ثُمَّ السُّجَّةُ وَخَيْطُهُ  
 وَالبُسَّةُ لَا تَفْرَحُ بِمَالٍ غَيْرِكَ وَثِيَابُ  
 غَيْرِكَ إِذَا أَخَذَتْ كَلَامَ غَيْرِكَ وَ  
 تَكَلَّمَتْ بِهِ وَادَّعَيْتَهُ مَقْتَتَكَ قُلُوبُ  
 الصَّالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ فِعْلٌ  
 فَلَا قَوْلٌ كُلُّ الْأَمْرِ مُعَلَّقٌ عَلَى الْعَمَلِ  
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ  
 يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَجْتَهَدُوا فِي  
 تَحْصِيلِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا  
 غَيْبَةٌ مَعَهُ وَرَقِيَّامٌ مَعَ قُدْرِهِ وَقُدْرَتِهِ  
 وَعَلَيْهِ هِيَ فَنَاءٌ كُلِّيٌّ فِي أَفْعَالِهِ وَ  
 قَضَايَا كُلِّ مَكَ يَدُلُّ عَلَى مَا فِي  
 قَلْبِكَ اللِّسَانُ تَرْجُمَانُ الْقَلْبِ فَإِذَا  
 كَانَ الْقَلْبُ مُخْتَلِطًا فَتَارَةً يَصِحُّ  
 الْكَلَامُ وَتَارَةً يَبْطُلُ تَارَةً لَا تَقْدِرُ  
 تَعْبُرُ الشَّيْءَ عَمَّا هُوَ وَأُخْرَى تَعْبُرُ  
 وَإِذَا زَالَ تَخْلِيْطُهُ صَحَّ اللِّسَانُ وَ  
 إِذَا اشْرَكَ بِقَيْدٍ بِالْخَلْقِ وَتَغَيَّرَ  
 وَتَبَدَّلَ وَتَعَثَّرَ وَكَذَّبَ مِنْ  
 الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَنْ قَلْبِهِ وَ  
 مِنْهُمْ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَنْ سِرِّهِ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَ  
 شَيْطَانِهِ وَعَادَاتِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

اور اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے خود کچھ فائدہ نہیں لیتا سنگینی کی چیز چھپتی  
 نہیں ہے تو اپنے مال کا لباس پہن نہ کر عاریت و تنگی کا اپنے ہاتھ  
 سے کپاس بوا اور اسے پانی دے اور اپنی کوشش و محنت سے  
 اس کی پرورش کر پیچڑیں کو بن اور سخی اور پہن غیر کے مال پر اور غیر  
 کے کپڑوں پر خوش نہ ہو۔ جب کہ تو دوسروں کے کام کو لے کر کام کرے  
 گا اور اس کو اپنا بتائے گا تیرے اور نیک لوگوں کے قلب  
 غصہ کریں گے جب تجھ سے عمل نہ ہو سکے پس کچھ کہہ بھی مت  
 ہر امر عمل پر متعلق ہے اللہ عزوجل نے فرمایا ہے اپنے عمل کے  
 باعث جنت میں داخل ہو جاؤ (یہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا)  
 تم معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو معرفت الہی اس کے ساتھ  
 غائب ہو جانے اور اس کے تضاد و قدر اور علم و قدرت کے  
 ساتھ قائم ہو جانے کا نام ہے۔ معرفت افعال و مقدرات  
 الہی میں فنا ہو جانا ہے۔ تیرا کلام اس چیز پر جو کہ تیرے دل میں  
 ہے رہنمائی کرے گا زبان قلب کی ترجمان ہے پس جب قلب  
 اختلاط والا ہو گا حق و باطل میں تمیز نہ کرے گا پس کبھی کلام درست  
 نکلے گا اور کبھی باطل۔ کبھی نورشے کی کہ حقہ حقیقت کو بیان کر  
 سکے گا اور کبھی اس پر قدرت نہ پائے گا اور جب قلب کا یہ  
 اختلاط جاتا رہے گا زبان ٹھیک ہو جائے گی جب قلب سے  
 شرک جاتا رہے گا زبان ٹھیک ہوگی اور جب وہ شرک  
 کرنے والا ہوگا تو وہ مخلوق کے ساتھ پابند ہوگا اس میں تغیر و  
 تبدل ہوتا رہے گا لغزش واقع ہوگی جھوٹ بڑے گا۔ بعض  
 واعظین کلام کرنے والوں میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے قلب سے  
 کلام کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے سر و باطن سے کلام کرتے  
 ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے نفس و خواہش و شیطان  
 اور عادت کی پیروی سے کلام کرتے ہیں اسے اللہ تو ہم کو

مُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مَثَافِقِينَ إِذَا  
وَقَعَ حُبُّ رَجُلٍ وَبُغْضُ آخَرَ فَلَا  
تُحِبُّ هَذَا وَتُبْغِضُ هَذَا يَنْفُسَكَ  
وَيَطْبِعَكَ بَلْ حَكَمَهُمَا كِلَيْهِمَا عَلَى  
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ وَافَقَا الَّذِي  
أَحَبَبْتَهُ فَدُمُ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَإِنْ  
خَالَفَا فَارْجِعْ عَنْ مَحَبَّتِهِ وَإِنْ  
خَالَفَا الَّذِي أَبْغَضْتَهُ فَارْجِعْ عَنْ  
بُغْضِهِ وَإِنْ وَافَقَا فَدُمُ عَلَى  
بُغْضِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَعَكَ ذَلِكَ  
وَلَمْ يَبَيِّنْ لَكَ فَارْجِعْ إِلَى قُلُوبِ  
الصَّادِقِينَ وَسَلِّ عَنْهُمَا إِرْجِعْ  
إِلَى قُلُوبِهِمْ فَهِيَ الصَّحِيبَةُ لِأَنَّ  
الْقُلُوبَ إِذَا صَحَّ كَانَ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقُلُوبُ إِذَا عَمِلَتْ  
بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَرُبَتْ وَإِذَا قَرُبَتْ  
عَلِمَتْ وَأَبْصَرَ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَمَا لِلَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لِعَبِيدِهِ وَمَا لِلْحَقِّ  
وَمَا لِلْبَاطِلِ إِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ لَهُ  
نُورٌ يَنْظُرُ بِهِ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ  
لِلصَّادِقِ وَالْمَقَرَّبِ الْمُؤْمِنِ لَهُ  
نُورٌ يَنْظُرُ بِهِ وَلِهَذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ نَظَرَهُ فَقَالَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ  
فَاتَّةً يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ایمان والا بنانہ کہ منافقوں میں سے آئین۔ جب کہ قلب میں ایک  
شخص کی محبت اور دوسرے کی عداوت واقع ہو جاوے  
پس تو اس سے دوستی اور اس سے دشمنی اپنے نفس و طبیعت  
کی پیروی نہ کر بلکہ اُن دونوں کے معاملہ میں کتاب و سنت کو  
حکم بناوے پس اگر وہ دونوں تیرے محبوب کی موافقت کریں  
پس تو ہمیشہ اس کی محبت میں ڈٹا رہو اور اگر وہ دونوں اس کی مخالفت  
کریں پس تو اس کی محبت سے علیحدہ ہو جا۔ اور اگر وہ دونوں تیرے  
دشمن کی جس کو تو نے دشمن سمجھا ہے مخالفت کریں پس تو اس کے  
بغض سے علیحدہ ہو جا اور اگر وہ دونوں اس کی موافقت کریں پس تو  
اس کی دشمنی پر ڈٹا رہو اور اگر اس سے تجھے ناسعت حاصل نہ ہو اور  
معاملہ واپس نہ ہو پس تو صدیقین کے قلوب کی طرف رجوع لا اور  
ان سے دریافت کرو فیصلہ فرمادیں گے۔ تو انھیں کے قلوب  
کی طرف رجوع کر پس ہی قلب درست ہیں کیوں کہ جب قلب  
درست ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف تمام چیزوں سے زیادہ  
قریب ہو جاتا ہے۔ قلب جب قرآن و حدیث پڑھ کر  
لگتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ سے  
قریب ہو جاتا ہے تو وہ دانا و بصیر ہو جاتا ہے تمام وہ چیزیں  
جو کہ اس کے نفع و نقصان کی ہیں اور جو چیزیں اللہ کے واسطے اور  
غیر اللہ کے واسطے ہے اور جو کہ حق و باطل ہے وہ سب کو  
پہچان لیتا ہے جب کہ ایمان دار کے لیے ایسی نظر حاصل  
ہو جاتی ہے پس صدیقین و مقربین کی کیا حالت ہوگی۔ کامل!  
ایمان دار کے لیے منجانب اللہ ایک نور ہوتا ہے جس سے  
وہ دیکھا کرتا ہے اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
نے اس کی نظر سے ڈرایا ہے اور ارشاد فرمایا مسلمان کی فراست  
سے ڈرا کرو کیوں کہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے اور ہر ایک

وَالْعَارِفُ الْمُقَرَّبُ يُعْطَى أَيْضًا نَوْرًا يَرَى  
بِهِ قُرْبَهُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرَى  
أَرْوَاحَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَقُلُوبَ  
الصَّادِقِينَ وَآرَ وَاحِهِمْ يَرَى أَحْوَالَهُمْ  
وَمَقَامَاتِهِمْ كُلُّ هَذَا فِي سُورَةِ آءِ قُلُوبِهِ  
وَصَفَاءِ سِرِّهِ هُوَ أَبَدًا فِي قَرَحِهِ  
مَعَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ وَاسِطَةٌ  
يَأْخُذُ مِنْهُ وَيُفَرِّقُ عَلَى الْخَلْقِ مِنْهُمْ  
مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ الْقَلْبُ الْكَفَرُ  
اللِّسَانُ وَامَّا الْمُنَافِقُ فَهُوَ عَلَيْهِمُ اللِّسَانُ  
أَكُنَّ الْقَلْبُ كُلُّ عَلَيْهِ فِي لِسَانِهِ وَ  
لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُنَافِقٌ  
عَلَيْهِمُ اللِّسَانُ لَا تَغْتَرَّ بِشَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلِهَذَا الْحِكْمِيُّ عَزَّ  
بَعْضُ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ زَادَ أَخَاكَ فِي  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ يَا أَخِي تَعَالَى  
حَتَّى نَبْكِ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ فَيُنَا مَا  
أَحْسَنَ مَا قَالَ هَذَا الصَّالِحُ قَدْ كَانَ  
عَارِفًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِ  
أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا  
ذِرَاعٌ أَوْ بَاعٌ فَتُدْرِكُهُ الشَّقَاوَةُ فَتَصِيرُ مِنْ  
أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى

کو تار بیتا ہے اور عارف مقرب کو بھی ایک نور و عطا فرمایا جاتا  
ہے جس سے وہ اپنے قرب الہی کو دیکھتا ہے اور اس قرب کی  
وجہ سے وہ اپنے قلب سے فرشتوں اور نبیوں کی روحوں اور  
صدقین کے قلوب و روحوں کا ملاحظہ کرتا ہے اور ان کے احوال و  
مقامات دریافت کرتا رہتا ہے یہ تمام چیزیں اس کے سوا  
قلب اور صفائی باطن کے اندر ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ فرحت کے  
ساتھ معیت الہی میں بسر کرتا رہتا ہے۔ وہ خالق و مخلوق کے درمیان  
ایک واسطہ ہو جاتا ہے خالق سے لے کر مخلوق میں تقسیم کرتا رہتا ہے  
بعض اُن میں سے زبان و قلب دونوں کے دانا ہو جاتے ہیں اور بعض  
اُن میں سے قلب کے دانا ہوتے ہیں اور اُن کی زبان کنت والی  
ہوتی ہے لیکن منافق پس پردہ زبان زور ہوتا ہے اور اس کا قلب کنت  
والا ہوتا ہے اس کا تمام علم زبان ہی پر ہوتا ہے اور اسی واسطے  
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے زیادہ  
خوفناک جس سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں منافق زبان زور  
طرا ہے۔ تو کسی چیز پر غور نہ کر کیوں کہ اللہ عزوجل جو چاہتا ہے وہ  
کرتا ہے۔ اور اسی واسطے بعض صالحین سے حکایت ہے کہ انھوں  
نے اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کی پس اس سے کہا ہے  
برادر! تو کیا ہم اس علم الہی کے بارے میں جو تمہارے متعلق ہو چکا  
ہے روئیں۔ اس نیک بندہ نے کیا ہی اچھا قول کہا۔ بے شک  
عارف باللہ تھا اور اس نے تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کا قول سنا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے تم میں سے ایک شخص جنتیوں  
کا سامع کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان  
میں صرف ایک ہاتھ یا ایک گز سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہیں رہتا  
ہے پس اس کی شفاعت غالب آتی ہے اور وہ دوزخی ہو جاتا  
ہے اور تم میں سے ایک شخص اہل دوزخ کے ملکہ ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ

لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ بَاعٌ  
فَتَذَرِكُهُ السَّعَادَةُ فَيَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  
قِيلَ لِبَعْضِ الصَّالِحِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ  
فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَسَاءَ لَقَطَعْتُ مَكَانِي إِنْ  
قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَرَاهُ فَاقُولُ إِذَا خَرَجَ  
الْخَلْقُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ  
سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيهِ وَيَقْدِرُ بِهِ  
كَمَا يَشَاءُ يُرِيهِ بَاطِنًا كَمَا أَرَى عَلَيْهِ  
ظَاهِرًا يُرِيهِ كَمَا أَرَى بَيْنَنَا مُحْتَدًا  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ لَيْلَةً  
الْبُعْدَاجِ كَمَا يَرَى هَذَا الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَ  
يُقَرِّبُهُ وَيُحَدِّثُهُ مَنَا مَا قَدْ يُحَدِّثُ  
قَلْبُهُ إِلَيْهِ يَقْطَعُهُ يُغَمِّصُ عَيْنِي  
وَجُودُهُ فَيَرَاهُ بِعَيْنَيْهِ كَمَا هُوَ  
عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَيُعْطِيهِ  
مَعْنَى آخَرَ فَيَرَاهُ بِهِ يَرَى قُرْبَهُ  
يَرَى صِفَاتِهِ يَرَى كَرَامَاتِهِ وَفَضْلَهُ  
وَأَحْسَانَهُ وَاللَّطْفَ بِهِ يَرَى بَرَّكَ  
وَكَفَّةً مَنْ تَحَقَّقَتْ عِبُودِيَّتُهُ وَ  
مَعْرِفَتُهُ لَا يَقُولُ أَرِنِي وَلَا لَا تُرِنِي  
لَا أَعْطِنِي وَلَا لَا تُعْطِنِي يَصِيرُ  
فَإِنِّي مُسْتَغَرٌّ وَ بِهِذَا  
كَانَ يَقُولُ بَعْضُ مَنْ وَصَلَ  
إِلَى هَذَا الْمَقَامِ أَلَيْشَ عَلَيَّ  
مِثِّي أَحْسَنَ مَا قَالَ أَنَا

کے درمیان میں ایک ہاتھ یا ایک گز سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہیں  
رہتا ہے پس اُس کی سعادت غالب آتی ہے اور وہ منجربندیوں  
کے ہو جاتا ہے۔ بعض صالحین سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم نے  
اپنے رب کو دیکھا ہے پس جواب دیا کہ اگر میں اُس کو نہ دیکھ لیتا  
تو البتہ میں اپنی جگہ پر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا اگر کوئی سائل دریافت  
کرے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے پس میں اُس کا جواب دوں گا  
کہ جب بندہ کسے دل سے خلق نکل جاتی ہے اور اُس میں اللہ  
کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طور سے چاہتا  
ہے اپنے کو اُسے دکھا دیتا ہے اور نزدیک کر لیتا ہے جس  
طرح اُس کو اور چیزیں ظاہر دکھاتا ہے اور اُسے اپنے کو بالظن  
دکھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
وہم کو شب معراج میں اپنی زیارت کرائی جیسے چاہی۔ جیسے کہ  
یہ بندہ اُس کی ذات کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس سے نزدیک  
ہو جاتا ہے اور بات چیت کرتا ہے یونہی کبھی اس کا قلب خدا  
سے بیداری میں بات چیت کرتا ہے اور اسی کی طرف نزدیک  
ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے وجود کی دونوں آنکھیں بند کر لیتا ہے پس خدا  
جس حالت پر کہو ہے بحیثیت ظاہر اپنی دونوں آنکھوں سے  
دیکھ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو ایک مننوی صفت عطا فرماتا  
ہے جس سے یہ بندہ اُس کو دیکھتا ہے اُس سے قریب ہو جاتا ہے  
اس کی صفوں اُس کی کرامتوں اور فضل و احسان اور اُس کے لطف و  
نعمت کو اور برود و شفقت و بندہ نوازی کو دیکھتا رہتا ہے۔ جس کی  
معرفت و عبودیت الہی متفق ہو جاتی ہے وہ اُرنی اور لا ترنی  
دکھا۔ نہ دکھا اور اعطی دے اور لا تعطی نہ دے کچھ نہیں کہتا ہے  
وہ تو فانی و مستغرق ہو جاتا ہے اور اسی واسطے بعض واصیلین الی اللہ  
نے فرمایا ہے مجھ پر مجھ سے ہے ہی کیا۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا میں تو

عَبْدُكَ وَلَيْسَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدٍ إِحْتِيَاءٌ  
وَلَا إِرَادَةٌ اسْتِثْنَى رَجُلٌ مَمْلُوكًا وَكَانَ  
ذَلِكَ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ  
فَقَالَ لَهُ يَا مَمْلُوكُ أَيُّشْ تُرِيدُ تَأْكُلُ  
فَقَالَ مَا تُطْعِمُنِي فَقَالَ لَهُ مَا أَلَدِي تُرِيدُ  
أَنْ تَلْبَسَ فَقَالَ مَا تَلْبِسُنِي فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ  
تُرِيدُ أَنْ تُقْعَدَ مِنْ دَارِي فَقَالَ مَوْضِعَ مَا  
تُقْعَدُنِي فَقَالَ لَهُ مَا أَلَدِي تُحِبُّ أَنْ  
تَعْمَلَ مِنَ الْأَشْغَالِ فَقَالَ مَا تَأْمُرُنِي  
فَبَكَى الرَّجُلُ فَقَالَ طُرِبِي لِي لَوْ كُنْتُ مَعَهُ رَبِّي  
عَمَّ وَجَلَّ عَمَّا أَنْتَ مَعِي فَقَالَ الْمَمْلُوكُ  
يَا سَيِّدِي وَهَلْ لِلْعَبْدِ مَعَ سَيِّدٍ  
إِرَادَةٌ وَإِحْتِيَاءٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ  
لَوْ جِئَهُ اللَّهُ وَأَمْرًا أَنْ تُقْعَدَ عِنْدِي  
حَتَّى أَخْذِمَكَ بِنَفْسِي وَمَالِي كُلِّ مَنْ  
عَرَفَ اللَّهُ عَمَّ وَجَلَّ لَا يَبْقَى لَهُ إِرَادَةٌ وَلَا  
إِحْتِيَاءٌ وَيَقُولُ أَيُّشْ عَنِّي لَا تُزَاجِمُ  
الْقَدَرَ فِي أُمُورِهِ وَلَا فِي أُمُورِهِ غَيْرِهِ  
أَحَادُ أَفْرَادٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَمَّ وَجَلَّ  
يَرْهَهُ فِي الْخَلْقِ وَيَسْتَأْذِنُونَ بِقِرَاءَةِ  
الْمُزَانِ وَبِقِرَاءَةِ كَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَلَا جَرَمَ تَصِيرُ لَهُمْ قُلُوبٌ مُسْتَأْذِنَةٌ بِالْخَلْقِ  
فَرَأَيْتَ مِنْهُ يَرُونَ بِهَا نَفْسَهُمْ وَلَفُوسَ غَيْرِهِمْ  
تَصِيرُ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَحِثُّ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِمَّا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ يَتَكَلَّمُونَ عَلَى خَوَاطِرِكُمْ وَيُخَبِّرُونَكُمْ

خدا کا بندہ ہو کر اپنے سید و مولیٰ کے ساتھ اختیار و ارادہ ہی کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام خرید لیا اور برہنہ دیندار ٹھکانو کار لوگوں میں سے ٹھکانہ پس خریدار نے غلام سے کہا اے غلام تو کیا کھانا چاہتا ہے اُس نے جواب دیا ہونو کھلائے پس دریافت کیا تو کیا پہننا چاہتا ہے جواب دیا جو کچھ کہو پہنا دے پس دریافت کیا میرے گھر میں تو کہاں بیٹھنا چاہتا ہے پس جواب دیا جہاں کہیں کہو مجھے بٹھا دے پس دریافت کیا تو کس کام کرنے کو اور کس مشغلو کو پسند کرتا ہے پس جواب دیا جو کچھ کہو مجھ کو اُس کا حکم دے پس یہ کہ مالک رو دیا اور کہا میرے لیے کیا ہی مبارک ہوتا اگر میں خدا کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تو میرے ساتھ ہے یہ سن کر غلام نے کہا اے میرے آقا کیا غلام کو اپنے آقا کے ساتھ کچھ ارادہ و اختیار ہوتا ہے۔ پس آقا نے جواب دیا واللہ واسطے آزاد ہے بل جلد درم نوالہ ادریں چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس بیٹھتا کہ میں تیری خدمت کروں اپنا مال و جان تجھ پر قربان کروں ہر وہ شخص جو کہ اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اُس کے لیے کوئی ارادہ و اختیار باقی ہی نہیں رہتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر مجھ سے ہے ہی کیا۔ وہ اپنے اور غیروں کے معاملہ میں قصار و تدر کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا ہے بندگان الہی میں سے اکا و دکا ہی بندہ ہی جو کہ مخلوق میں بے رغبتی کرتے ہیں اور مخلوق میں اُس پر ہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی نزالت سے مانوس ہوتے ہیں پس ایسی حالت میں اُن کے قلب حق کے ساتھ مانوس ہو کر اُس سے قریب ہو جاتے ہیں اُن سے وہ اپنے اور غیروں کے نفسوں کو دیکھنے لگتے ہیں اُن کے قلب صمیم و درست ہو جاتے ہیں پس تمہارے امور میں سے اُن پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے۔ وہ تمہارے خطرات نام کو بتا دیتے اور جو چیزیں تمہارے گھروں

بِمَا فِي دِينِكُمْ

وَبِحَاك كُنْ عَاقِلًا لَا تُزَاجِرِ الْقَوْمَ  
بِحُكْمِكَ بَعْدَ مَا خَرَجْتَ مِنَ الْكِتَابِ  
صَدَقَتْ تَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ هَذَا أَمْرٌ  
يَحْتَاجُ زَوْاحِمًا الظَّاهِرَ وَالْحَاكِمَ  
الْبَاطِنَ لَمْ يُغْنِ عَنِ الْكُلِّ ثُمَّ يَخْتَارُ أَنْ  
تَقَعُ فِي ضَرْوٍ مَرْتَبِينَ أَلَا وَبِأَنَّ لَا يَبْقَى فِي بَدَنِكَ  
غَيْرُكَ فَتَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ ضَرْوَةً وَالْآخَرَى  
أَنَّكَ تُوَمِّرُ بِالْكَلامِ مِنْ حَيْثُ قَلْبُكَ تَحْيِيذُ  
تَرْقِي إِلَى هَذَا الْمَقَامِ لِرَدِّ الْخَلْقِ إِلَى  
الْخَالِقِ

وَيْلَكَ تَدْعِي إِلَيْكَ صُوفِيًّا وَأَنْتَ  
كَدُّ الصُّوفِيٍّ مَنْ صَفَا بَاطِنُهُ وَظَاهِرُهُ  
يَسْتَأْتِيهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُئِلَ  
رَسُولُهُ فَكَلَّمَا أَدَا صَفَا وَكَأَخْرَجَ  
مِنْ بَحْرِ وَجُودِهِ وَيَتْرُكُ إِرَادَتَهُ وَ  
إِحْتِيَاسَهُ وَمَشِيئَتَهُ مِنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ  
أَسَاسُ الْخَيْرِ مُتَابَعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ كُلِّمَا  
صَفَا قَلْبُ الْعَبْدِ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ يَا مُرَّةَ بِشَىءٍ وَيَوْمَهَا  
عَنْ نَمِيٍّ يَصِيرُ كُلُّهُ قَلْبًا وَتَنْعُولُ بِنَيْتِهِ  
يَصِيرُ سِرًّا بِإِجْهَرٍ صَفَا بَلَاكَ دَرِيتَنِي عَنْهُ فَشَرَّ ظَاهِرًا  
إِلَى نَاحِيَةٍ وَيَبْقَى بُنَايَلًا وَشَرَّ يَصِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ يَتَرَفَّى قَلْبُهُ مَعَهُ

میں ہوتی ہیں اس سے تمہیں خبر دے رہے ہیں۔

تمہ پر انوس مائل بن اپنی جمالت کی وجہ سے ادب سے  
مزا حمت دیکھا کہ مکتب سے نکلنے ہی تو نمبر پر چڑھ بیٹھا لوگوں کو دنا  
کنے لگا۔ اسے سوچ یہ ایسا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں  
کے استحکام کا محتاج ہے پھر ہر ایک سے فناء ہو جانے کا اس کے  
بعد و ضرورتوں میں سے ایک ضرورت واقع ہونے کا اس  
دلت تجھے وعظ گوئی جائز ہوگی پہلی ضرورت یہ ہے کہ تیرے  
سوا تیرے گھیر میں کوئی داعیہ نہ رہے پس تو اس وقت ضرورت لوگوں  
سے وعظ کہہ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ منجانب قلب تجھے  
وعظ گوئی کا سہ دیا جاوے پس اس وقت تو نمبر پر مطلق کو خالق  
کی طرت لوٹانے کے لیے چڑھ اور وعظ کہہ

تمہ پر انوس مائل رہوئے تو یہ ہے کہ تحقیق تو صوفی ہے اور  
ہے تو سہرا پاکہ درت۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا باطن ظاہر تران  
و حدیث کی تابعداری کی وجہ سے بالکل سفا ہر اس کی قدر اس کی  
صفائی بڑھتی جائے وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے  
اور اپنی صفائی قلب سے اپنے اختیار و ارادہ اور اپنی چال و حال  
کو چھوڑتا جائے بھلائی کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  
اُن کے تمام اقوال و افعال میں پیروی کرنا ہے۔ جب کسی بندہ کا  
قلب سات ہو جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب  
میں دیکھے گا کہ وہ اُس کو بعض چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور  
بعض چیزوں سے منع فرما رہے ہیں وہ شخص ستر ہا یا قلب بن جائے  
گا اور اُس کا جسم ایک کنارہ ہو جائے گا اور وہ سر بلا جہر اور صفائی  
بلا کہ درت ہو جائے گا اُس سے ظاہر کا چسکا علیحدہ ہو جائے  
گا اور وہ ستر ہا یا مغربا رہ جائے گا۔ وہ معنوی لحاظ سے حضور کی  
معیت میں رہنے لگے گا اور اُس کا قلب حضور کی معیت میں آپ کے

وَبَيْنَ يَدَيْهِ يَصِيرُ يَدَهُ فِي يَدِهِ يَكُونُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَاطَبُ  
عَنْهُ الْحَاجِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِخْرَاجُ الْكُلِّ  
مِنَ الْقَلْبِ قَلْعُ الْجِبَالِ الرَّوَّاسِي يَحْتَاجُ  
إِلَى مُعَاوِلِ الدُّجَاهَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى  
أُمُكَدَاتِ وَتُرُوجِ الْأَفَاتِ لَا تَطْلُبُوا مَا  
لَا يَفْعُ بِأَيْدِيكُمْ هُوَ لَكُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ بِهَذَا  
السَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ وَكُنْتُمْ مُسْلِمِينَ طُوبَى  
لَكُمْ تَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمَرَةِ الْمُسْلِمِينَ  
وَلَا تَكُونُوا فِي زُمَرَةِ الْكَافِرِينَ طُوبَى  
بِالْفَعُولِ فِي أَرْضِ الْجَنَّةِ أَوْ عَلَى بَابِهَا وَلَا  
تَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ كَاتِ تَوَاضَعُوا  
وَلَا تَتَكَبَّرُوا التَّوَاضَعُ يَرْفَعُ وَالتَّكَبُّرُ يَضَعُ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ إِذَا دَامَ الْقَلْبُ عَلَى  
ذِكْرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ جَاءَتْ إِلَيْهِ الْمَعْرِفَةُ  
وَالْعِلْمُ وَالتَّوْحِيدُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْإِعْرَاضُ  
عَمَّا سِوَاهُ فِي الْجُمْلَةِ دَوَامُ الذِّكْرِ سَبَبُ  
لَدَوَامِ الْخَيْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِذَا حَمَّ  
الْقَلْبُ صَارَ الذِّكْرُ دَائِمًا فِيهِ يُكْتَبُ  
فِي جَوَانِبِهِ وَعَلَى جُمْلَتِهِ فَتَنَامُ عَيْنَاهُ  
وَقَلْبُهُ ذَاكِرٌ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُ ذَلِكَ  
عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
بَعْضُ الصَّالِحِينَ يَتَكَلَّفُ النَّوْمَ فِي بَعْضِ  
الَلَّيْلِ وَيَتَهَيَّأُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى

رد و ترتیب پائے گا اور اُس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو گا نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اُس کی جانب سے مخاطب اور اُس کے  
رد برو واجب و نگہبان ہوں گے کل کا قلب سے نکل ڈالنا  
مضبوط سپاٹوں کا اکھاڑنا ہے جس کے لیے مجاہدوں کے کدوں  
اور مشتقوں اور آفتوں کے نازل ہونے پر بڑے صبر کرنے کی  
حاجت و ضرورت ہے جو سب تمہارے ہاتھ نہ لگے تم اُس کی  
جستجو نہ کرو۔ اگر تم اس سیاہی پر جو کہ پسیدہ پر ہے یعنی لکھے ہوئے  
پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوش خبری ہے تم مسلمان ہو جاؤ  
گے۔ تمہارے لیے مبارک ہے کہ تم قیامت کے دن  
مسلمانوں کے گروہ میں ہو اور کافروں کے گروہ میں نہ ہو تمہارے  
سب کے لیے مبارک ہے کہ تم جنت کی زمین میں یا اُس کے  
دروازہ پر ہو اور تم و جنوں میں سے نہ ہو۔ تم تواضع فروختی کرو  
اور تکبر و غرور نہ کرو تواضع سر بلند کرتی ہے اور تکبر پست و ذلیل کر  
دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو تواضع  
کرے گا اللہ اُس کو سر بلند کر دے گا جب قلب ذکر الہی پر  
مداومت کرتا ہے تو اُس کو معرفت الہی اور علم خداوندی اور توحید  
و توکل اور ماسوے اللہ سے روگردانی حاصل ہو جاتی ہے  
فی الجملہ ذکر الہی پر مداومت کرنا دنیا و آخرت میں ہمیشہ مہلکی  
حاصل ہونے کا سبب ہے۔ جب قلب صحیح ہو جاتا ہے  
تو اُس میں ذکر ہمیشگی کر لیتا ہے اُس کی تمام طرفوں اور تمام بدن پر  
وہی لکھ دیا جاتا ہے پس اُس کی دونوں آنکھیں سویا کرتی ہیں اور  
اُس کا قلب ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ یہ اُس کو نبی صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم سے دراثم حاصل ہو جاتا ہے۔ صالحین میں سے  
کوئی بزرگ رات میں نہ تکلف سویا کرتے اور بغیر حاجت  
کے اُس کے لیے تیار ہی کیا کرتے تھے اُن سے اُس کا سبب

دریافت کیا گیا پس جواب دیا کہ میرا قلب اس حالت میں خدا کو دیکھا کرتا ہے وہ اپنے اس قول میں پیچ بولا کیوں کہ سچا خواب منجانب اللہ وحی ہوا کرتا ہے۔ لہذا اس کی آنکھ کی ٹھنڈک میند میں ہی تھی

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَرَى قَلْبِي رَجِي عَزَّ وَجَلَّ  
صَدَقَ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَنَامَ الصَّادِقَ وَحْيٌ  
مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ قُرَّةَ عَيْنِهِ فِي نَوْمِهِ

## ساٹھویں مجلس

## المجلس الستون

### بے فائدہ چیزوں کے چھوڑ دینے کے بیان میں

۱۳ رجب ۱۲۶۶ھ کو منگل کے دن شام کے وقت

ارشاد فرمایا :

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے میں بے فائدہ چیز کا چھوڑ دینا ہے جس کسی کا اسلام محسن و متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدہ کی چیزوں پر راغب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کر لیتا ہے بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہونا بیکار ہوا موسیٰ لوگوں کا مشغلہ ہے اپنے مولے کی رضامندی سے وہ محروم ہے جو اس کے حکم پر عمل نہ کرے اور اس کام میں مشغول ہو جائے جس کا اسے علم نہیں

دیا گیا ہے۔ یہی اصل محرومی اور اصلی موت اور اصلی چٹکار ہے۔ تیرا دنیا میں مشغول ہونا نیک مٹی کا محتاج ہے ورنہ تیرے اوپر غضب الہی اترے گا۔ اولاً تو اپنے قلب کی طہارت میں مشغول ہو کیوں کہ یہ ایک بڑا فرض ہے بعد ہ معرفت کی طرف قدم بڑھانا۔ جب کہ تو اصل کو ضائع کر دے گا تیرا فزع کے ساتھ مشغول ہونا تجھ سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یا وجود نجاست قلب کے اعضا کی طہارت تجھے کیا فائدہ دے گی۔ تو اپنے اعضا کو حدیث کے ساتھ اور اپنے قلب

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشِيَّةِ الثَّلَاثَةِ ثَالِثَ عَشَرَ شَهْرٍ  
رَجَبٍ مِّنْ سَنَةِ سِتٍّ وَارْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الْمَدِينَةِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَسَنِ إِسْلَامٍ الْمَرْءُ تَرْكُهُ  
مَا لَا يَعْنِيهِ كُلُّ مَنْ حَسَنَ إِسْلَامُهُ  
وَتَحَقَّقَ أَقْبَلَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَأَعْرَضَ  
عَمَّا لَا يَعْنِيهِ إِلَّا شَتَّغَالَ بِمَا لَا يَعْنِي  
شُغْلُ الْبَطَالِينِ الْمُهَوِّسِينَ الْمَحْرُومِ  
رِضًا مَوْلَاهُ مَنْ لَّمْ يَعْمَلْ بِمَا أَمَرُوا  
اشْتَغَلَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ هَذَا هُوَ الْحَرَمَانُ  
بَعِيْنُهُ وَالْمَوْتُ بِعَيْنِهِ وَالظُّرْدُ بِعَيْنِهِ  
اشْتَغَالَكَ يَا لَلْهَيْبَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ صَالِحَةٍ  
وَالْأَفَانَتِ مَقْشُورَةٍ اشْتَغَلَ بِطَهَارَةِ قَلْبِكَ  
أَوَّلَ فَإِنَّهُ فَرِيضَتُهُ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلْمَعْرِفَةِ  
إِذَا صَبَّغْتَ الْأَصْلَ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا اشْتَغَالَ  
بِالْفَرِيضَةِ لَا تَنْفَعُ طَهَارَةُ الْجَوَارِيهِ مَعَ تَجَاسُّةِ  
الْقَلْبِ طَهَّرْ جَوَارِحَكَ بِالسُّنَّةِ وَقَلْبَكَ

بِالْعَمَلِ بِالنَّهْرِ ابِ احْفَظْ قَلْبَكَ حَتَّى  
تَذْخِرَ جَوَارِحَكَ كُلَّ إِنْسَاءٍ يَنْصَحُ بِهَا  
فِيهِ أَمْرٌ شَيْءٌ كَانَ فِي قَلْبِكَ يَنْصَحُ مِنْكَ  
عَلَى جَوَارِحِكَ كُنْ عَاقِلًا مَا هَذَا عَمَلٌ  
مَنْ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيُوقِنُ بِهِ مَا هَذَا  
عَمَلٌ مَنْ يَزُقُّ قَلْبَ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
يَخَافُ مِنْ مُحَاسَبَتِهِ وَمُنَا فَشْتِهِ الْقَلْبُ  
الْمُصْرِحِيَّةُ مُمْتَلِئَةٌ تَوْحِيدًا وَتَوْكَلًا وَ  
يَقِينًا وَتَوْفِيقًا وَعِلْمًا وَرَأْيَانًا وَمَنْ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَرُبًا يَرَى الْخَلْقَ كُلَّهُمْ  
بَعَيْنِ الْعَجْزِ وَالذِّلِّ وَالْفَقْرِ وَمَعَ ذَلِكَ  
لَا يَتَكَبَّرُ عَلَى طَائِفٍ صَغِيرٍ مِنْهُمْ يَصِيرُ  
كَالسَّبْعِ وَقَتِ لِقَاءِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ  
وَالْعَصَاةِ غَيْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَصِيرُ  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَقِطْعَةً لَحْمٍ مُلْقَاةً وَتَوَاصُّ  
وَيَدُلُّ لِلصَّالِحِينَ الْمُتَّقِينَ الْوَسْرَعَيْنِ وَقَدْ  
وَصَفَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَاتُهُمْ فَقَالَ  
أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ ۝

وَيْلَكَ يَا مُبْتَدِعُ مَا يَعْتَدِرُ  
أَنْ يَقُولَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبَّنَا  
عَزَّ وَجَلَّ مُتَكَلِّمًا لَيْسَ  
بِأَخْرَسٍ وَبِهَذَا أَكَدَّ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ الْأَمْرَ فِي كَلَامِهِ  
لِمُوسَى فَقَالَ وَكَلَّمَ اللَّهُ  
مُوسَى تَكْلِيمًا لَهُ كَلَامٌ

کو قرآن پر عمل کے ساتھ پاک کر تو اپنے قلب کی یہاں تک حفاظت  
کو کر تیرے اعضا کی حفاظت کی جائے ہر برتن میں جو کچھ نیک ہے  
وہی اُس سے ٹپکا کر لے جو نئی چیز تیرے قلب میں ہو گی وہی تیرے  
اعضا پر ٹپکے گی۔ تو عاقل و ہوشیار بن جو موت پر ایمان لاتا ہے  
اور اس پر یقین کرتا ہے اُس کے لیے عمل نہیں ہوتے جو عقائد الہی  
کا منتظر رہتا ہے اور اُس کے محاسبہ و مناظرہ سے ڈرتا ہے  
اُس کے لیے عمل نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح قلب تو حیدر اور توکل اور  
یقین و توفیق اور علم و ایمان اور قرب الہی سے پُر ہو کر رہتا ہے۔  
یہ تمام مخلوق کو عاجزی اور ذلت اور محتاجی کی آنکھ سے دیکھا کرتا  
ہے اور باوجود اس کے ان میں سے ایک چھوٹے پچھریں بھی بکھر  
نہیں کیا کرتا ہے جس وقت کافروں اور منافقوں اور گناہگاروں  
سے ملتا ہے تو وہ غیرت الہی کے ان پر مثل و رندہ کے ہو جاتا  
ہے اور یہ سب اُس کے روبرو مثل گوشت کے پڑے ہوئے  
ٹکڑے کے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ک صالح منتفی پر ہیزگار  
ہوتے ہیں اُن کے روبرو تو وضع کرتا ہے اور اپنے کو ذلیل  
بنالیتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اُن قوم والوں کی جن کی مصیبتیں ہیں  
تو بہت فرمائی ہے پس ارشاد فرمایا کافروں پر سختی ہو آپس میں رحمت  
مشقت کرنے والے ہیں۔

اے بدعتی تیرے اوپر افسوس ہے تو اس بات پر تیار  
نہیں ہے کہ کہے اے انا اللہ۔ میں ایسا خدا ہوں کہ میرے  
سوا کوئی معبود نہیں یہ نشان تو خدا کی ہی ہے۔ ہمارا رب عزوجل  
کلام فرمانے والا ہے گونگا نہیں ہے اور اسی واسطے اپنے  
کلام کے بارے میں جو کہ اُس نے موسیٰ علیہ السلام سے  
کیا تھا تاکید فرمائی۔ پس ارشاد کیا و کَلَّمَ اللَّهُ الْإِسْمَاعِيلَ  
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی کلام کیا خدا کے لیے

يُسْمِعُ وَيُفْهِمُ قَالَ لِمُوسَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا  
 اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْنِي يَقُولُهُ أَنَا اللَّهُ رَبِّي  
 لَسْتُ بِمَلِكٍ وَلَا جِنِّي وَلَا إِنْسِي رَبُّ الْعَالَمِينَ  
 أَيْ كَذَبَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْلِهِ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى  
 وَفِي إِدْعَائِهِ إِلَهِيَّةَ دُونِي أَنَا اللَّهُ مَا إِلَهُكُمْ  
 فِرْعَوْنُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْخَلْقِ لَمَّا وَقَعَ مُوسَى  
 فِي ذَلِكَ الْكَرْبِ وَالصَّبْرُ بِرَأْيَانِهِ وَإِقَانُهُ  
 لَمَّا وَقَعَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ الْعَمَةِ عَلَى  
 الرَّوْحَةِ لِاجْتِدَادِ الْكَرْبِ الَّذِي هِيَ فِيهِ أَظْهَرَ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ نُورًا أَفْقَالَ وَرَعِيَالِهِ  
 وَحَوْلِهِ وَفُتُوتِهِ وَاسْبَابِهِ امْكُثُوا إِنِّي  
 أَنَسْتُ نَارًا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ نُورًا أَفْقَادًا عَلَى  
 سِرِّي وَقَلْبِي مَعْنَايَ وَلَبِّي نُورًا قَدْ جَاءَتْهُ  
 سَابِقَتِي وَهَدَايَتِي وَجَاءَ فِي الْغَيْثِ عَرْنُ  
 الْخَلْقِ جَاءَتْهُنَّ الْوَلَايَةُ وَالْخِلَافَةُ  
 جَاءَ فِي الْأَصْلِ وَذَهَبَ عَنِّي الْفَرْعُ  
 جَاءَ بِنِي الْمَلِكِ وَذَهَبَ إِلَيْكَ ذَهَبُ الْخَوْفِ  
 مِنْ فِرْعَوْنَ وَانْتَقَلَ الْخَوْفُ إِلَيْهِ  
 وَدَعَا أَهْلَهُ وَسَلَّمَهُمْ إِلَى رَيْبِهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَسَامًا فَلَا جَرَمَ خَلَفَهُ فِيهِمْ  
 هَكَذَا الْمُؤْمِنُ إِذَا اقْرَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَدَعَا إِلَى قُرْبِهِ يَنْطَرُقُ قَلْبُهُ يَمِينًا  
 وَشِمَالًا وَوَسْرَاءً وَآمَامًا فَبَرَى الْجَهَاتِ  
 كُلَّهَا مَسْدُودَةً غَيْرَ جِهَةٍ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ فَيُخَاطَبُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

کلام ہے جو سنا اور سمجھا جاسکتا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام  
 سے فرمایا اے موسیٰ متیقن میں رب العالمین ہوں یعنی اس نے  
 اپنے کلام سے کہا کہ بلا شک میں ہی خدا ہوں نہ کوئی فرشتہ اور جن اور  
 آدمی نہیں ہوں تمام جہان کا پروردگار ہوں۔ یعنی فرعون اپنے قول  
 میں اناد بحکم الاعلیٰ (میں تمہارا بڑا رب ہوں) اور خدائی  
 دعوے میں جھوٹا ہے۔ خدا مہود و برحق میں ہی ہوں مخلوق میں سے  
 فرعون وغیرہ کوئی تمہارا مہود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس  
 مصیبت زدگی میں پڑے تو ان کا ایمان و ایقان ظاہر ہوا۔ جب  
 وہ اپنی بیوی کے اس کرب کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی  
 یعنی دروزہ وغیرہ لات اور غم کی اندھیری میں مبتلا ہوئے اللہ عزوجل  
 نے ان کے واسطے اپنا نور ظاہر کیا پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے  
 اہل و عیال اور قوت و اسباب سے کما تم یہاں ٹھہرے  
 رہو تحقیق میں نے آگ روشن دیکھی ہے یہ تحقیق میں نے ایک نور  
 دیکھا ہے میرے باطن و قلب اور حقیقت اور مغز نے ایک نور  
 دیکھا ہے۔ سابقہ ازلی اور ہدایت میرے روبرو آئی ہے۔  
 غلغلی سے لاپرواہی مجھے حاصل ہو گئی ہے ولایت و خلافت مجھے  
 ملی ہے فرع ہا کر اصل آگئی ہے۔ ملکیت ہا کر مجھ سے بادشاہ  
 مل گیا ہے فرعون کا خوف چلا گیا ہے اور اس کی طرف خوف منتقل  
 ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو گئے اور  
 ان سب کو رب عزوجل کی طرف پیر کر دیا اور پل دیئے۔ پس  
 بلا شک ان کے متعلق رب عزوجل نے کار خلافت انجام دیا۔  
 اسی طور پر جب مسلمان کو اللہ عزوجل اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور  
 وہ اس کو اپنے قرب کے دروازہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ  
 مسلمان دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالتا ہے پس تمام جہتوں کو  
 وہ سوا درجہت الہی کے بند پاتا ہے اس وقت وہ اپنے نفس

وَجَوَارِحَهُ وَعَادَتَهُ وَاهْلَهُ وَجَمِيعَ مَا  
كَانَ عَلَيْهِ اِنِّي اَنْسَتُ نُوْرَ الْقُرْبِ مِنْ رَقِيٍّ  
عَزَّ وَجَلَّ فَانَا سَاوُوْا اِلَيْهِ وَرَاٰنَ كَانَ لِيْ  
عَوْدَةً رَّجَعْتُ اِلَيْكُمْ يُوَدِّعُ الدُّنْيَا وَمَا  
فِيْهَا وَالْاَسْبَابَ وَالشَّهَوَاتِ يُوَدِّعُ الْخَلْقَ  
كُلَّهُمْ يُوَدِّعُ كُلَّ مُحَدِّثٍ وَكُلَّ  
مَصْنُوْعٍ وَيَسِيْرُ اِلَى الصَّارِعِ فَلَا جَرَمَ  
يَتَوَلَّى الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ اَهْلَهُ وَوَلَدَهُ  
وَجَمِيعَ اَسْبَابِهِ مِنَ الْحَالِ مَا يَكُنْتُمْ  
عَنِ الْبُعْدِ اَعْرَ لَا عَيْنَ الْقُرْبَاءِ عَنِ الْمُبْخِضِيْنَ  
لَا عَيْنَ الْمُحِيْبِيْنَ يَكُنْتُمْ عَنِ الْاَعْدِبِ لَا عَيْنَ  
التَّادِيْرِ هَذَا الْقَلْبُ اِذَا صَحَّ وَصَفًا سَمِعَ  
مُنَادَاةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جِهَاتِ الْبَسِيْتِ  
يَسْمَعُ مُنَادَاةَ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُوْلٍ وَوَصِيْدِيْنِ  
وَوَلِيٍّ فَحَيْنِيْدِيْنِ يَقْرُبُ مِنْهُ فَيُصَيِّرُ حَيَاتُهُ  
الْقُرْبَ مِنْهُ وَمَوْتُهُ الْبُعْدَ عَنْهُ يَصِيِّرُ رِضَاةً  
فِيْ مَنْ جَاتِهِ لَهٗ يَقْنَعُ بِذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا  
يُبَالِيْ بِذَهَابِ الدُّنْيَا عَنْهُ لَا يَبَالِيْ بِالْجُوعِ  
وَالْعَطَشِ وَالْعُرْيِ وَكُسْرِ الْأَعْرَاجِ  
رِضًا لِّمُرِيْدٍ فِي الطَّاعَاتِ وَرِضًا لِّلْعَارِفِ  
الْمُرَادِ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا  
مُتَصَبِّعُ مَا هَذَا مَا اَنْتَ عَلَيْهِ مَا يَكُنْتُمْ  
هَذَا اَلَا مُرَبِّصِيَّامُ التَّهَارِ وَرَقِيَّامُ  
النَّسِّ وَالتَّخَشُّشِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ  
مَعَ لَبُوْدِ النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ بِالطَّبْعِ

اور خواہش و اعضا اور عادت اور اہل و عیال اور تمام چیزوں سے  
جن سے اس کا تعلق تھا خطاب کرتا ہے کہ میں نے رب تعالیٰ  
کا نور قرب دیکھ لیا ہے پس میں اُس کی طرف جانے والا  
ہوں اگر لوٹنے کی اجازت ملی تو تمھاری طرف لوٹوں گا۔ وہ  
دنیا و مافیہا اور تمام اسباب و شہوتوں کو رخصت کر دیتا ہے  
وہ تمام مخلوق اور ہر ممکن مصنوعی چیز کو رخصت دے دیتا ہے اور  
صانع کی طرف راستہ لے لیتا ہے پس یقیناً حق عزوجل اُس کی  
جو رد و بال بچوں اور اسباب کی نگہداشت فرماتا ہے اور اُن کا  
متولی ہو جاتا ہے بعض حال وہ ہیں جو دوری رکھنے والوں سے  
چھپائے جانے ہیں نہ کہ نزدیک ہونے والوں سے دشمنوں  
سے چھپائے جاتے ہیں نہ کہ دوستوں سے۔ اکثر لوگوں سے مخفی  
رہتے ہیں نہ کہ نادر لوگوں سے۔ یہ قلب جب درست و صاف  
ہو جاتا ہے تو چھوٹ جانے سے حق عزوجل کی پکار و دعوت کو سنتا  
ہے ہر نبی و رسول اور صدیق و ولی کی آواز دینے کو سنتا ہے پس  
ایسی حالت میں یہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے قرب الہی اس  
کی زندگی بن جاتی ہے اور اُس سے دوری موت ٹھہرتی ہے  
خدا سے مناجات کرنے میں اس کی رضامندی ہوتی ہے  
وہ اُسی پر ہر چیز سے تناعت کر لیتا ہے۔ اُسے دنیا کے  
چلے جانے کی پروا نہیں ہوتی ہے نہ وہ بھوک و پیاس اور  
ٹنگے ہونے کی پروا کرتا ہے اور نہ اسے اپنی اُبر و ریزی  
کی پروا ہوتی ہے۔ مرید کی رضا طاعات میں ہوتی ہے اور  
عارف کی رضا جو کہ مرادیں گاہے قرب الہی میں۔ جل جلالہ اسے  
بناوٹی زاہدیر کمال تیری موجودہ حالت سے حاصل نہیں ہو سکتا  
اور نہ یہ امر دن کے روزہ اور رات کے قیام کرنے اور ٹوٹا  
سوٹا کھانے اور پہننے سے نفس و طبیعت و جہالت اور مخلوق

پر نظر ہونے کے ساتھ تمام ہو سکتا ہے اس سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

وَالْجَهْلِ وَرُؤْيَا الْخَلْقِ لَا يَجِيْ بِهَذَا شَيْءٌ

وَيْلَكَ اَخْلَصَ وَتَخَلَّصَ اُصْدَقَ وَقَدْ وَصَلْتَ وَ قَرُبْتَ عَلَيَّ هَمَّتَكَ وَقَدْ عَلَوْتَ سَلِمَ وَقَدْ سَلِمْتَ وَافِقٌ وَقَدْ وَفَّقْتَ اَرْضَ وَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ اِشْرَعُ اَنْتَ وَقَدْ تَمَّ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَوَلَّ اُمُورَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَكِلْنَا اِلَى نَفْسِنَا وَلَا اِلَى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ قَالِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْبِرِيْلُ يَا جِبْرِيلُ اَنْتُمْ فُلَانًا وَ اَقِمَّ فُلَانًا هَذَا عَلَيَّ وَ جَهَّيْنِ اَنْتُمْ فُلَانًا الْمُحِبَّ وَ اَنْتُمْ فُلَانًا الْمُحْبُوْبَ هَذَا قَدْ اَدْعَى مَحَبَّتِيْ لَا بُدَّ اَنْ اُنْاَقِشَهُ وَاُقِيْمَهُ مَعًا مَهْ حَتَّى يَنْسَاقَ عَنْهُ اَوْ رَاقٍ وَجُوْدُهُ مَعَ غَيْرِيْ اَقِمَّهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ بُرْهَانُ دَعْوَاهُ حَتَّى نَتَحَقَّقَ مَحَبَّتَهُ وَ اَنْتُمْ فُلَانًا لِاَنَّهٗ مَحْبُوْبٌ طَالَ مَا تَوَبَّ مَا بَقِيَتْ عِنْدَكَ بَقِيَّةٌ مِّنْ غَيْرِيْ اَتَحَدَّثُ مَحَبَّتَكَ لِيْ وَ تَحَقَّقْتَ دَعْوَاهُ وَ بُرْهَانُهُ وَ قَدْ اَوْكَأَ يَعْقِدِيْ جَاءَتْ التَّوْبَةُ اِلَيَّ

تیرے اوپر افسوس ہے تو اخلاص پیدا کر اور سب سے علیحدہ ہو جا۔ صبح بول اس مقام پر پہنچ جائے گا اور مقرب الہی بن جائے گا اپنی ہمت کو بلند کر تو ترقی پائے گا۔ احکام الہی کو مان لے تجھے سلامتی مل جائے گی۔ تضاد قدر سے موافقت کر تجھے توفیق دے دی جائے گی تو راضی برضا ہو جا تجھ سے رضامندی کر لی جائے گی شروع تو کر دے اتمام پر ترقی عزوجل پہنچا دے گا۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں تو ہمارے امور کا متولی بن با اور اپنی مخلوق میں سے کسی کے اور ہمارے نفسوں کی طرف ہمیں سپرد نہ کر آئین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل فلاں شخص کو سلا دے اور فلاں شخص کو بیدار کر دے اس کے دو مطلب و شرح ہیں۔ ایک یہ کہ اے جبریل فلاں محب کو عبادت کے لیے بیدار کر دے اور فلاں محبوب کو سلا دے۔ اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے اس لیے ضرور ہے کہ میں اس کی آزمائش کروں اور اس کو اس کی جگہ پر اس وقت تک کھڑا رکھوں کہ اس کے دعوے کے پتے میرے غیر کے ساتھ میں جھڑ جائیں۔ تو اس کو کھڑا رکھ تا کہ اور اس کے دعوے کی دلیل ظاہر ہو جائے اور اس کی حقیقی محبت ثابت ہو جائے اور اے جبریل تو فلاں کو سلا دے کیوں کہ وہ محبوب ہے اس نے دراز مدت تک مشقت اٹھائی ہے اور اس کے پاس کوئی چیز میرے سوا باقی نہیں رہی ہے اس کی محبت میرے ساتھ متحد ہو چکی ہے اور اس کا دعویٰ و دلیل اور میرے ہمد کا پورا کر دینا پایہ ثنوت کو پہنچ لیا ہے اب میری باری اور میرے

وَوَقَاتِيْ رِبْعِيْةٍ هُوَ صَيِّفٌ وَ الصَّيْفُ لَا يَسْتَحْدِمُ وَيَتَعَبُ اَرْنَمُهُ فِي حَجَرٍ لُّطْفِيْ وَ اَقْعِدَاهُ عَلَى مَائِدَةٍ فَضَلِيْ اَنْتَهُ بِقُرْبِيْ وَ غِيْبُهُ عَنْ غَيْرِيْ قَدْ صَحَّتْ مَوَدَّتُهُ فَاِذَا صَحَّتِ الْمَوَدَّةُ زَالَ التَّمَكُّتُ الْوَجْهَ الْاٰخِرَانِمَ فَلَا نَا فَاِنِّيْ اَكْرَهُ مَوْتَهُ وَ اَنْتَ وَ لَنَا فَاِنِّيْ اُحِبُّ سَمَاعَ صَوْتِهِ اِنَّمَا يَصِيْرُ الْمُحِبُّ مَحْبُوْبًا اِذَا طَهَّرَ قَلْبُهُ عَمَّا سِوَى مَوْلَاهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا نَسَّ تَرْجِيْدَهُ وَ تَوَكَّلَهُ وَ اِيْمَانَهُ وَ اِيْتَانَهُ وَ مَعْرِفَتَهُ صَارَ حَيْنَعِيْنٍ مَحْبُوْبًا يَذْهَبُ الشَّقَاءُ وَ تَحْيِيَّتُهُ الرَّاحَةُ مَنْ اَحَبَّ بَعْضَ الْمُلُوْكِ وَ بَيْتَهُ مُسَافَهَةً بَعِيْدَةً غَلَبَ عَلَيْهِ الْحُبُّ حَرَجَ هَارِئًا عَلَى وَجْهِهِ قَاصِدًا اِلَى بَيْدِهِ بُرَاصِلُ الصَّبِيَاءِ بِالظَّلَامِ فِي السَّيْرِ يَتَحَمَّلُ الشَّقَاةَ وَ النِّحَاوَةَ لَا يَهْنَأُ بِاَكْلٍ وَ لَا شُرْبٍ حَتَّى يَصِلَ اِلَى بَابِ دَارِهِ وَ عِنْدَ الْمَلِكِ خَبْرٌ بِحَالِهِ فَيُخْرِجُهُ لَهٗ غِلْمَانُهُ فَيُرْجَبُوْنَ بِهِ وَ يُحْمِلُوْنَهُ اِلَى الْحَمَامِ وَ يُزِيلُوْنَ وَ سَخَهُ وَ يُلْبِسُوْنَهُ اَحْسَنَ الثِّيَابِ وَ يُطَيَّبُوْنَهُ وَ يُحْضِرُوْنَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

پورا کرنے کا وقت ایسا ہے وہ میرا ہاں ہے اُس سے خدمت نہ لی جائے اور اُس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اس کو تو میری لطف کی گودیں سلاوے اور میرے فضل کے دسترخوان پر بٹھاوے اور اس کو میرے قرب سے مانوس کر دے اور اُس کو میرے غیر سے غائب کر دے اُس کی دوستی صحیح ہو چکی ہے پس جب دوستی صحیح ہوئی تکلیف میں ڈالنا زائل ہو گیا۔ دوسری شرح یہ ہے کہ اسے جبریل نلال کو سلاوے کیوں کہ میں اُس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں اور نلال کو بیدار کر دے کیوں میں اُس کی آواز سننے کو درست رکھتا ہوں جب محب اپنے قلب کو ماسوے اللہ سے پاک کر لیتا ہے اُس میں غیر اللہ باقی نہیں رہتا ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے جب اُس کی توحید اور اُس کا توکل اور ایمان و ایقان اور معرفت پوری ہو جاتی ہے اُس وقت وہ محبوب ہو جاتا ہے شقاوت زائل ہو کر اُس کے پاس راحت آ جاتی ہے جب کوئی شخص بعض بادشاہوں کو درست رکھتا ہے اور اُن دونوں کے درمیان میں مسافت بعید ہوتی ہے تو اُس پر محبت غالب آ جاتی ہے اور اس کو سرا سیم و حیران بنا کر اس بادشاہ کے شہر کی طرف متوجہ کر دیتی ہے یہ دن کو رات سے ملتا ہوا برابر چلا جلتا ہے مشقتیں اور خطرات جھیلنا رہتا ہے اُس کو کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس بادشاہ کے دروازہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے پس اس بادشاہ کے خدمت گار اُس عاشق کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور مرجا کہتے ہوئے اُس کو حمام کی طرف لے جاتے ہیں اور اُس کی میل کھیل دور کرتے ہیں اور اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں پس وہ اس

فِيَوْمَ أُنسَ وَبُكِّيَهُمْ وَيَسْأَلُهُ لَهَ عَنْ حَالِهِ  
وَيُزَوِّجُهُ يَا حَسَنَ جَوَارِيَهُ وَيُنْعِمُ عَلَيْهِ  
مِنْ مُلْكِهِ وَيَصِيرُ مُحِبُّوهُ فَهَلْ يَبْقَى  
بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفٌ أَوْ تَعَبٌ أَوْ يَتَمَتَّى  
الْعُودَ إِلَى بَلَدِهِ كَيْفَ يَتَمَتَّى فِرَاقَهُ  
وَقَدْ صَامَ عِنْدَهُ مِثْلَنَا أَمِينًا هَذَا  
الْقَلْبُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
صَامَ مِثْلَنَا مِنْ قَرْبِهِ وَ مُنَاجَاتِهِ  
أَمِنًا عِنْدَهُ فَلَا يَتَمَتَّى الرَّجُوعَ عَنْهُ  
إِلَى غَيْرِهِ وَ دُخُولَ الْقَلْبِ إِلَى هَذَا  
الْمَقَامِ يَأْذَنُ الْفَر\_الْبُخْ وَالصَّبْرُ عَنِ  
الْحَرَامِ وَالشَّهَوَاتِ وَتَنَادُلِ الْمُبَاحِ وَ  
الْحَلَالِ لَا يَأْهْوَى وَالشَّهْوَةَ وَالْوُجُودَ  
وَاسْتِعْمَالِ التَّوْبَةِ الشَّافِي وَالزُّهْدِ الْكَامِلِ  
وَهُوَ تَرْكُ مَا يَسُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَالُفَةُ  
النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَطَهَارَةُ  
الْقَلْبِ مِنَ الْخَلْقِ فِي الْجُبْدَةِ وَاسْتِوَاءُ  
الْحَمْدِ وَالذِّمِّ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ وَالْحَجَرِ  
وَالْمَدَارِ أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْتِهَاءُ وَاسْتِوَاءُ الْحَجَرِ وَالْمَدَارِ  
مِنْ صَدَقَ قَلْبُهُ وَانْصَلَّ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَوَى  
عِنْدَهُ الْحَجَرُ وَالْمَدَارُ وَالْحَمْدُ وَالذِّمُّ السَّقَمُ  
وَالْعَارِفِيَةُ الْغَنَى وَالْفَقْرُ اقْبَالَ الدُّنْيَا وَ  
إِدْبَارُهَا مَنْ صَدَقَ لَهُ هَذَا أَمَاتَتْ نَفْسُهُ وَ  
هَوَاهُ وَانْخَدَعَتْ نَائِرَةُ طَبِيعِهِ وَذَلَّ شَيْطَانُهُ

سے انس پکڑتا بات چیت کرتا ہے اور اُس کا حال دریافت  
کرتا ہے بعدہ اپنی حسین سی حسین لونڈی سے اس کا نکاح کر  
دیتا ہے اور اُس کو ملک سے جاگیر عطا فرماتا ہے اور وہ  
اس کا محبوب بن جاتا ہے پس آیا اس کے بعد کچھ خوف یا  
تکلیف باقی رہے گی یا وہ اپنے شہر کی طرف لوٹنے کی تمنا  
کرے گا۔ یہ جانے والا اُس بادشاہ کی جدائی کیوں کر چاہے  
گا وہ تو اُس کے دربار کا مقرب اور صاحب مرتبت و متمتع  
چکا ہے۔ اسی طرح یہ قلب جب کہ حق عزوجل کی طرف پہنچ جاتا  
ہے تو وہ قرب الہی اور اُس کی مناجات سے صاحب مرتبہ  
اور اس دالہ ہو جاتا ہے پس اُس کی طرف سے اُس کے غیر کی  
طرف رجوع کرنے کی تمنا نہیں کرتا۔ اور اس مقام تک قلب  
کا پہنچنا فراموشی کے ادا کرنے سے اور علم اور شہوات سے  
صبر کرنے مباح و حلال کے لینے سے ہو گا نہ خواہش و شہوت  
و وجود سے اور کامل تقویٰ اور پورے زہد سے ہو گا اور  
یہ ماسو سے اللہ کا چھوڑنا اور نفس و خواہش اور شیطان کی مخالفت  
کرنا اور قلب کا فی الجملہ مخلوق سے پاک کر لینا اور اچھائی و برائی  
اور عطا و منع اور پتھر اور ڈھیلے کا اُس کے نزدیک برابر ہونا  
ہے۔ ابتداء زہد و ورع کی خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے  
اور اُس کی انتہا اس کی نظر میں پتھر و ڈھیلے کا برابر ہونا ہے  
جس کا قلب صحیح ہو جاتا ہے اور جو اپنے رب عزوجل سے  
متصل ہو جاتا ہے اُس کے نزدیک پتھر اور ڈھیلہ اور تعریف  
برائی بیماری و عافیت امیری و فقری اور دنیا کی توجہ اور  
اعراض سب برابر ہو جاتے ہیں جس کی حالت درست ہو  
جاتی ہے اُس کا نفس و خواہش مر جاتی ہے اور اُس کی طبیعت  
کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور اُس کا شیطان ذلیل ہو جاتا ہے

لَهُ تَحْتَقِرُ الدُّنْيَا وَآرِبَابُهَا عِنْدَ قَلْبِهِ  
وَتَعْظُمُ الْآخِرَةُ وَآرِبَابُهَا عِنْدَكَ لَمْ  
يَعْرِضْ عَنْهُمَا وَيُقِيلْ عَلَى مَوْلَاهُ عَزَّ  
وَجَلَّ يَصِيرُ لِقَلْبِهِ دَرَكٌ فِي وَسْطِ  
الْخَلْقِ يَجُوزُ فِيهِ إِلَى الْحَقِّ يَنْفَرُ دُونَ  
لَهُ يَكِينًا وَشِمَالًا يَتَنَحَّوْنَ  
وَيُخْشَوْنَ الطَّرِيقَ لَهُ يَفْتَرُونَ  
مِنْ ثَارِ صِدْقِهِ وَهَيْبِهِ سِرَّهُ  
مَنْ صَنَعَ لَهُ لَا يَرُدُّكَ مَرَادٌ وَلَا  
يَصُدُّكَ صَادٌ عَنْ بَابِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ لَا تَوَدُّ رَأْيَتَهُ وَلَا يَهْزَمُ  
جَيْشُهُ وَلَا يُسْكِنُ طَلَبُهُ وَلَا  
يَكِلُ سَيْفُ تَوْحِيدِهِ وَلَا تَعْيَا  
حُطَرَاتُ اخْلَاصِهِ وَلَا يَعْسُرُ عَلَيْهِ  
أَمْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَابٌ  
وَلَا عَلَقٌ تَطِيرُ الْأَبْوَابُ وَ  
الْأَعْلَاقُ وَتَنْفَتِحُ الْجِهَاتُ  
لَا يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ  
حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ  
فَهَذَا يَلْطَفُ إِلَيْهِ وَيُنَوِّمُهُ فِي  
حِجْرِهِ فَيُطَوِّمُهُ الْفَضْلَ وَكَيْسِقِيهِ  
الْأَنْسَ فَحِينَئِذٍ تَرَى مَا لَا عَيْنٌ  
رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ  
عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ رَجُوعُ هَذَا الْعَبْدِ إِلَى  
الْخَلْقِ سَبَبٌ هَذَا يَتَرَمَّ وَمُلْكُهُمْ وَتَعْيَمُهُمْ

اُس کے قلب میں دنیا اور رب دنیا والے خفیہ ہو جاتے ہیں اور  
آخرت اور اہل آخرت اُس کے نزدیک با عظمت بن جاتے  
ہیں پھر وہ ان دونوں سے اعراض کر لیتا ہے اور اپنے مولیٰ  
عزوجل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اُس کے قلب کے لیے  
خلق کے درمیان میں راستہ ہو جاتا ہے وہ اُس پر سے گزرتے  
ہوئے حتی عزوجل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ مخلوق اُس کے  
واسطے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور کنارہ ہو کر اُس کے لیے  
راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اُس کی سچائی کی آگ اور اس کے باطن  
کی ہیبت سے بھاگتے ہیں۔ جس کی ایسی حالت درست ہو  
جاتی ہے اُس کو کوئی ٹوٹنے والا اللہ کے دروازہ سے لوٹا  
نہیں سکتا اور نہ کوئی روکنے والا اس کو روک سکتا ہے اور نہ  
اُس کا جھنڈا پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے لشکر کو شکست  
دی جاتی ہے اور نہ اُس کی طلب کو کون ہو سکتا ہے۔ اور نہ اُس  
کی توحید کی تلوار کند ہوتی ہے اور نہ اُس کے اخلاص کے قدم  
تھکتے ہیں اور نہ اُس کے کسی امر میں ٹکی ہوتی ہے نہ اُس کے  
روبرو کوئی دروازہ اور قفل قائم رہ سکتا ہے دروازہ اور قفل  
سب اڑ جاتے ہیں اور تمام جہتیں کشادہ ہو جاتی ہیں اُس کے  
روبرو کوئی چیز بھی نہیں ٹھہرتی یہاں تک کہ اُس کے روبرو  
قرب الہی اکھٹرا ہو جاتا ہے پس لطف الہی اُس کو اپنی طرف  
کھینچ لیتا ہے اور اُس کو اپنی گویں میں سلا لیتا ہے اور اپنے  
خزان فضل سے اُس کو کھانا کھلاتا اور شراب اُنس سے اُس کو  
سیراب کرتا ہے اس وقت میں یہ وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں  
جو کہ انکھول نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنین اور نہ کسی  
بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزریں۔ اس بندہ کا مخلوق کی طرف  
لوٹنا اُن کی ہدایت اور اُن کی بادشاہت اور نعمت کا سبب

مَلَاكَ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ وَ  
الَّذِي نَاهَهُ وَمَا سِوَاهُ شَعْلُ الْخَلْقِ بَصِيرُ  
مُطَرِّقًا لِلْخَلْقِ جَهْدًا سَفِيرًا دَا إِلَى  
بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ يُدْعَى  
فِي الْمَلَكُوتِ عَظِيمًا يَكُونُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ  
تَحْتَ أَقْدَامِ قَلْبِهِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّهِ  
لَا تَهْدِي أَنْتَ تَدْعِي مَا لَيْسَ لَكَ وَمَا  
لَيْسَ عِنْدَكَ أَنْتَ نَفْسُكَ مُسْتَوَلِيَّةٌ  
عَلَيْكَ وَالْخَلْقُ وَالْدُنْيَا كُلُّهَا فِي  
قَلْبِكَ الْكَبِيرِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتَ  
خَارِجٌ عَنْ حِدِّ الْقَوْمِ وَعَدِيهِمْ إِنْ  
أَرَدْتَ الْوُصُولَ إِلَى مَا أَشَرْتَ إِلَيْهِ  
فَأَسْتَعِزَّ بِطَهَارَةِ قَلْبِكَ عَنِ الْأَشْيَاءِ  
كُلِّهَا أَمْتِثِلِ الْأَمْرَ وَأَنْتَ عَرَبُ  
النَّوَاهِي وَاصْبِرْ مَعَ الْقَدَرِ وَآخِرُجْ  
الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ وَبَعْدَ هَذَا تَعَالَى إِلَى  
حَتَّى أَتَكَلَّمَ مَعَكَ وَأُخْبِرَكَ بِمَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ إِنْ فَعَلْتَ هَذَا حَصَلَ لَكَ الَّذِي  
تُرِيدُ وَقَبِلْ هَذَا فَالْكَلَامُ هَذَا يَنْ

وَيَحْكُ أَنْتَ تُعَوِّزُكَ لِقَمَّةٍ تَضَيِّعُ  
مِنْكَ حَبَّةً أَوْ يَنْكَسِرُ لَكَ عِرْصُ  
تَقُومُ قِيَامَتِكَ وَتَعْتَزُّ عَلَى  
اللَّوَعَةِ وَجَلَّ تُخْرِجُ غَيْظَكَ فِي  
ضَرْبِ رُوحَتِكَ وَوَلَدِكَ وَنَسَبِ

بن جاتا ہے۔ اس بندہ کی جو کہ اللہ کی طرف پہنچ چکا ہے اور اس کو  
اور اس کے ماسوا کو دیکھ چکا ہے بادشاہت خلق کی ہدایت میں  
مشغول ہوتا ہے وہ خلق کے لیے ایک آلہ کار اور نہایت  
باخبر سفیر و رازہ الہی کی طرف رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے  
پس اسی حالت میں وہ ملکوت اعلیٰ میں عظیم کے نام سے  
! (بڑا عظمت) پکارا جاتا ہے تمام مخلوق اس کے قلب کے  
قدروں کے ماتحت ہو جاتی ہے اور اس کے سایہ سے  
سایہ لینے لگتے ہیں۔ اسے نالائق و اعظ تو جو اس نہ کر تو ایسی  
چیز کا مدعی ہے جو تجھے حاصل نہیں ہے اور نہ وہ تیرے پاس  
ہے تیرے اوپر تو تیرا نفس غالب ہے۔ اور خلق و دنیا تیرے  
قلب میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں تیرے دل میں (معاذ اللہ)  
اللہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں تو تو دیا اللہ کی صدا در ان کے  
شمار سے خارج ہے اگر اس چیز کی طرف جس کا میں نے اشارہ  
کیا تیرا پہنچنے کا ارادہ ہے پس تو تمام چیزوں سے اپنے  
قلب کو پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤ اور مگر بجالا اور نواہی  
سے بچو اور فضلا و قدر پر صبر کرو اور دنیا کو اپنے قلب سے نکال  
دے۔ اس کے بعد میرے پاس آتا کریں تجھے سے بات  
چیت کرو اور اس سے پرے کی باتیں تجھے بتاؤں۔  
اگر تو یہ کام کرے گا اس وقت تجھے تیرا مقصود حاصل ہو جائے  
گا اس سے پہلے تیرا کلام کرنا ہدیان و بجا اس ہے۔

تجھ پر افسوس اگر تیرے پاس ایک لقمہ نہ پہنچے یا تیرے  
پاس سے ایک دانہ جاتا رہے یا تیرا آبرو میں کچھ بٹھ لگے  
تو تیرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور تو اللہ عز و جل  
پر اعتراض کرنے لگتا ہے اور تیرا غصہ بیوی اور بچوں کی  
مار دھاڑ میں اتر آتا ہے اور تو اپنے دین و نبی کو گالیاں دینے

دِيْنِكَ وَنَبِيِّكَ لَوْ كُنْتَ عَاقِلًا مِّنْ أَهْلِ  
الْيَقْظَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ لَخَرَسْتَ بَيْنَ يَدَيِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَرَأَيْتَ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ  
نِعْمَةً فِي حَقِّكَ وَنَظَرًا لَّكَ إِذَا وَقَفْتَ  
وَلَمْ تُتَنَارِعْ وَتَشْكُرْ وَلَمْ تَكْفُرْ وَ  
رَضِيَتْ وَلَمْ تَسْخَطْ وَسَكَتَ وَلَمْ  
تَشْكُ يُقَالُ لَكَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَهُ  
يَا مُسْتَعِجِلُ إِصْبِرْ وَقَدْ أَكَلْتَ طَيِّبًا  
هَبِيئًا أَنْتَ مَا تَعْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ  
عَرَفْتَهُ وَمَا شَكُوتَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ لَوْ  
عَرَفْتَهُ لَخَرَسْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ تُطَلِّبْ  
مِنْهُ وَلَمْ تُدِلِّمْ عَلَيْهِ يَدَ عَاثِكَ بَلْ كُنْتَ  
تَوَافِقُهُ وَتَصْبِرُ مَعَهُ كُنْ عَاقِلًا مَا حَتَّاجُ  
إِلَى تَرْكِيهِ كُلُّ فِعْلِهِ مَصْلَحَةٌ يَبْتَغِيكَ  
لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُ يَحْتَبِرُكَ هَلْ أَنْتَ  
وَأَتَتْ بِوَعْدِهِ هَلْ أَنْتَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ نَاطِقٌ  
إِلَيْكَ وَعَدِيمٌ بِكَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الزُّكَاةَ  
إِذَا كَانَ فِي دَارِ مَلِكٍ وَطَلَبَ الثَّرَاكَ كَانَ  
سَفَاهَةً مِنْهُ وَشَرَّهَا يُخْرِجُ فِي الْحَالِ  
مِنَ الدَّارِ وَيُقَالُ لَهُ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى  
الطَّلَبِ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِمَانِ الْمُؤْمِنِ وَفِي قَلْبِهِ  
حِرْصٌ وَلَا شَرَّةٌ وَلَا طَلَبٌ وَلَا مَنَ بَخَائُهُ وَيَرْجُوهُ  
مِنَ الْخَلْقِ هَذَا يَصِفُ لَهُ بِالْفِكْرِ الدَّائِمِ  
وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَصُولِ وَالْمُرُوءِ بِالْفِكْرِ فِي  
أَحْوَالِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالضَّالِّينَ

لکتا ہے۔ اگر تو عاقل و ہوشیار صاحبِ مراتب ہو تا تو تجھے خدا کے  
روبرو گونگا بنانا چاہیے تھا اور تو اس کے تمام فعلوں کو اپنے  
حق میں نعمت سمجھتا اور باعثِ شفقت بانجا جب تو قضا و  
قدر کے ساتھ موافقت کرتا اور جھگڑا نہ کرتا نا شکوہ نہ مبتلا راضی  
برضا ہو جاتا اور غصہ نہ کرتا سکوت کرتا اور دل میں شک نہ لاتا  
تیرے لیے کہا جاتا۔ ایسا اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ  
اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسے جلد باز صبر کر۔  
تجھے خوشگوار نعمت ملے گی۔ تو نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے  
اگر تو اس کو پہچان لیتا تو تو اس کی شکایت اس کے غیر سے نہ  
کرتا۔ اگر تو اس کو پہچان لیتا تو تو اس کے روبرو بے زبان بن  
جاتا اور اس سے کچھ طلب نہ کرتا اور اپنی دعائیں اس کے روبرو  
نہ گڑ گڑاتا بلکہ تو اس کی موافقت کرتا اور اس کے ساتھ صبر کرتا تو عاقل  
بن جب تک کہ تو ترکیب نفس کا محتاج ہے۔ اس کا ہر فعل سراپا  
مصلحت ہے وہ تجھے آزماتا ہے تاکہ وہ تیرے کثرت  
دیکھے۔ وہ تجھے جانچ رہا ہے کہ آیا تو اس کے وعدہ پر بھروسہ  
کرنے والا ہے یا نہیں آیا تو اس بات کا جاننے والا ہے  
یا نہیں کہ وہ تیرے حال سے دانا اور تیری طرف دیکھنے والا  
ہے۔ آیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ تحقیق جب ضرورت پڑی  
میں کام کو رہا ہو اور ضروری طلب کرے تو یہ اس کی جمالت  
اور حرص بھی جاتی ہے۔ اور وہ فوراً اس عمل سے نکال دیا جاتا  
ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جگہ تقاضا کی محتاج تھی  
جب کہ مومن کے دل میں حرص و طمع اور غلو سے خوف و ہراس  
تو اس کا ایمان درجہ کمال پر نہیں پہنچتا ہے یہ بات خود دائمی  
اور اصول و فردع میں کامل غور و غوض کرنے اور انبیاءِ رسل اور  
اربابِ ائمہ کے حالات میں توجہ سے حاصل ہوا کرتی ہے۔

وَكَيْفَ اسْتَفْقَدَهُمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ  
 اَيْدِي الْأَعْدَاءِ وَنَصَرَهُمْ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ  
 لَهُمْ مِنْ أُمُورِهِمْ فَرَجًا وَ مَخْرَجًا  
 بِالْفِكَرِ الصَّاحِبِ يَصْرِفُ التَّوَكُّلَ  
 وَ تَغْيِبُ الدُّنْيَا عَنِ الْقَلْبِ وَيُنْشِئُ  
 الْحَقُّ وَالْإِنْسَ وَالْمَلَكُ وَ جَمِيعُ  
 الْخَلْقِ وَ يَذْكُرُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ  
 يَصِيرُ صَاحِبُ هَذَا الْقَلْبِ كَأَنَّهُ لَمْ  
 يُخْلَقْ غَيْرُهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ أَلَمَّا مَرَّرَ  
 دُونَ الْخَلْقِ كَأَنَّهُ الْمُنْهَيُّ دُونَهُمْ  
 هُوَ الْمُتَعَمُّ عَلَيْهِ دُونَهُمْ كَانَ  
 التَّكَلُّفُ كُلُّهَا عَلَى عُنُقِ سِرِّهِ وَ  
 قَلْبِهِ يَرَى جِبَالَ التَّكَلُّفِ عَلَى  
 اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا أَتَّهَى بِهَا سَالَةً  
 مِنَ الْمَكَلِّفِ فَيَحْمِلُهَا تَحْقِيقًا  
 لِلْعُبُودِيَّةِ وَالطَّرَاعِيَّةِ يَصِيرُ حَامِلًا  
 لِلْخَلْقِ وَالْخَالِقِ يَحْمِلُهُ يَصِيرُ طَيِّبًا  
 لَهُمْ وَرَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبُهُ يَصِيرُ  
 بَابُ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 سَفِيرًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَصِيرُ شَمْسًا  
 يَسْتَضِيئُونَ بِهِ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَيْهِ يَصِيرُ  
 طَعَامَ الْخَلْقِ وَشَرَابَهُمْ فَلَا يَغْيِبُ عَنْهُمْ  
 يَصِيرُ كُلُّ هَيْبَةٍ مَصَالِحَهُمْ وَيُنْشِئُ نَفْسَهُ  
 يَصِيرُ كَأَنَّهُ لَا نَفْسَ لَهُ وَلَا طَعْمَ وَلَا هَوَى يَنْشِئُ  
 كُلَّ مَكَّةٍ وَشَرَابَهُ وَ لِبَاسَهُ يَصِيرُ نَاسِيًا لِنَفْسِهِ

اور اس غور کرنے سے کہ خدا نے ان دشمنوں کے ہاتھوں سے  
 کیسے بچایا اور ان پر ان کی کیسے مدد فرمائی اور ان کے لیے ان کے  
 تمام امور میں کیسے کشادگی اور وسعت عطا فرمائی صحیح فکر و غور سے  
 توکل درست ہوتا ہے اور دنیا قلب سے غائب ہو جاتی ہے  
 اور وہ جن و انسان اور فرشتوں اور تمام مخلوق کو بھلا دیتا ہے  
 اور صرف خدا کی یاد میں شامل و ذرا کرتا ہے ایسے قلب اپنے  
 کی گویا ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی پیدا ہی  
 نہیں کیا گیا ہے۔ گویا وہی صرت باسور رہے اور وہی ہی عزت و  
 دوسرے مخلوق اسی پر انعام کیا گیا ہے نہ اوروں پر۔ گویا تمام  
 تکلیفوں کا بوجھ اسی کے باطن و قلب کی گردن پر ہے وہ تمام  
 تکلیف کے پہاڑوں کو باوجود مختلف الاجناس ہونے کے  
 یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تکلیف دینے والے کی طرف سے پیغام  
 ہیں پس یہ ان تمام تکلیف کو اپنی بندگی و فرمان برداری ثابت  
 کرانے کے لیے برداشت کرتا ہے یہ خلق کا حامل بن جاتا  
 ہے اور خالق اس کا حامل ہو جاتا ہے یہ مخلوق کا طیب ہو جاتا  
 ہے اور رب عز و جل اس کا طیب ہوتا ہے یہ مخلوق کے لیے  
 حق عز و جل کی طرف پہنچانے کا دروازہ اور مخلوق و خالق کے  
 درمیان کا سفیر ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے مثل اُنْتَاب  
 کے ہو جاتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی راہ رومی میں خدا  
 تک پہنچنے میں روشنی حاصل کرتے ہیں یہ مخلوق کا کھانا پینا بن جاتا  
 ہے ان سے کسی وقت غائب نہیں ہوتا۔ اس کی ساری فکر  
 مخلوق کی مصلحتوں کے لیے ہوتی ہے اور اپنے نفس کو قطعاً بھلا  
 دیتا ہے۔ یہ اسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے واسطے  
 نفس و طبیعت و خواہش کچھ ہے ہی نہیں یہ اپنے کھانے پینے  
 اور لباس سب کو بھول جاتا ہے۔ یہ اپنے نفس کو بھلا کر صرف

ذَكَرَ الْخَلْقَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُجُ بِقَلْبِهِ  
عَنْ نَفْسِهِ وَالْخَلْقُ وَيَقِي بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
كُلُّ طَلَبٍ نَفْعَ الْخَلْقِ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى  
يَدِ قَضَاءِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ نَاحِيَةٌ عَنْهُ  
بِكَلِّيَّتِهِ هَذِهِ صِفَةٌ مَنْ يُرِيدُ الْوُقُوفَ  
فِي اسْتِجْلَابِ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ أَنْتَ مُهَيَّوْسٌ جَاهِلٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَبِرَسُولِهِ وَأَوْلِيَايِهِ وَخَوَاصِيهِ مِنْ خَلْقِهِ  
تَدَّعَى الرُّهْدَ وَأَنْتَ رَاغِبٌ زُهْدَكَ نَرَمُ  
لَا قُدَامَ لَهُ كُلُّ رَغْبَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْخَلْقِ  
لَا رَغْبَةَ لَكَ فِي سَرِيكَ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ وَ  
الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَيَّ قَدْ مَحْسِنُ الظَّنِّ وَالْأَدَبِ  
حَتَّى أَدُلَّكَ عَلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْرِفَكَ  
الطَّرِيقَ إِلَيْهِ ائْزَعْ عَنْكَ لِبَاسَ الْكِبَرِ وَالْبَسْ  
لِبَاسَ التَّوَاضُّعِ ذَلِكَ حَتَّى تُعَرِّكَ وَتَوَاضَّعْ  
حَتَّى تَرْتَفِعَ جَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ وَعَلَيْهِ  
كُلُّهُ هَرَسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ  
هَذَا الْأَمْرُ لَا يَجِيءُ بِأَعْيَالِ الْجَسَدِ بَيْنَنَا  
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ  
الرُّهْدُ هَهُنَا التَّقْوَى هَهُنَا الْإِحْلَاصُ هَهُنَا  
وَيَسِيرُ إِلَى صَدْرِهِ مَنْ أَرَادَ الْفَلَاحَ  
فَلْيَصِرْ أَرْضًا تَحْتَ أَقْدَامِ  
الشَّيْوَرِ مَا صِفَتُهُ هُوَ لَا يَأْخُذُ الشَّيْوَرِ  
هُمْ التَّارِكُونَ لِلدُّنْيَا وَالْخَلْقِ  
الْمُؤَدِّعُونَ لَهَا الْمُؤَدِّعُونَ

خدا کا یاد کر کے واللہ جاتا ہے۔ قلباً اپنے نفس اور تمام مخلوق  
سے علیحدہ ہو کر صرف اپنے رب عزوجل کے ساتھ باقی رہ  
جاتا ہے ہر وہ شخص جو کہ مخلوق کی منفعت طلب کرے گا۔  
اپنے نفس کو قضاء و قدر الہی کے ہاتھوں میں حوالہ کر دے گا۔  
اور اپنے آپ سے بالکل جدا و کنارا ہو جائے گا۔ جو مخلوق  
کو خدا کے دروازہ کی طرف کھینچنا چاہے اس میں یہ تمام صفات  
ہونا لازمی ہیں۔ تو تو بولنا ہو کہ ہے۔ تو تو اللہ عزوجل اور اس کے تمام  
رسولوں اور اولیاء اور اس کے مخصوص بندوں سے جاہل ہے  
تو دعوے تو زہد کا کرتا ہے اور تو سراپا رغبت بنا ہوا ہے۔  
بیزاد ہوا پابج ہے جس کے پیرو نہیں ہیں۔ تیری تمام تر رغبت  
دنیا و مخلوق میں ہے نہ کہ رب تعالیٰ کی طرف۔ تو میرے رد و  
حسن ظن اور حسن ظن کے قدم سے کھٹا ہونا لازم پکڑ تا کہ میں  
تیری تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تجھ کو اس کا راستہ  
بتا دوں۔ تو اپنے بدن سے غرور و تکبر کے لباس کو اتار دے  
اور تواضع و انکسار کا لباس پہن لے تو پست ہو جاتا کہ تو عزت  
پائے اور تواضع کرتا کہ تو بلند کیا جاوے۔ تمام وہ چیزیں جس میں  
کہ تو مبتلا ہے اور جس حالت پر کہ تو ہے تمام کی تمام ہو میں  
ہیں کہ حق تنہا اُن کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ کام صرف  
بدنی عملوں سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ پہلے قلبی عمل ہوں  
بعدہ بدنی عمل۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا  
کرتے تھے۔ زہد اس جگہ ہے۔ تقوا اس جگہ ہے اخلاص  
اس جگہ ہے اور سبب کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ جو  
کوئی شخص فلاح و نجات چاہے وہ ایسے مشائخ کرام کے  
قدموں کی خاک بن جائے۔ جن مشائخ کی یہ حالت ہو کہ وہ دنیا  
و مخلوق کے چھوڑنے والے ہوں اور اُن دونوں کے رخصت

لِمَا نَحْتِ الْعَرْشِ إِلَى الثَّرَى الَّذِينَ تَرَكُوا  
الْأَشْيَاءَ وَوَدَّعُوهَا وَدَاعَ مَنْ لَا يَعُودُ  
إِلَيْهَا قَطُّ وَدَعَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ وَكَفَّوْهُمْ  
مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَجُودَهُمْ مَعَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ  
فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ كُلُّ مَنْ يَطْلُبُ  
مَحَبَّةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَجُودِ  
نَفْسِهِ فَهُوَ فِي هَوَاسٍ وَهَذَا يَكُنِ الْكَثَرُ  
مِنَ الْمُتَزَهِّدِينَ الْمُتَعَبِّدِينَ عَبْدُ الْخَلْقِ  
مُشْرِكُونَ بِهِمْ لَا تَتَّكِلُوا عَلَى الْأَسْبَابِ  
وَتُشْرِكُوا بِهَا وَتَعْتَمِدُوا عَلَيْهَا فَيَغْضَبُ  
عَلَيْهِمْ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُوَ مُسَبِّبُ  
الْأَسْبَابِ الْخَالِقُ لَهَا الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا  
إِعْتِقَادُ الْمُتَبِعِينَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّ السَّيْفَ لَا يَقْطَعُ بِطَبْعِهِ بَلِ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ يَقْطَعُ بِهِ وَإِنَّ النَّارَ لَا تُحْرِقُ  
بِطَبْعِهَا بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُحْرِقُ بِهَا وَ  
إِنَّ الطَّعَامَ لَا يَشْبَعُ بِطَبْعِهِ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ يَشْبَعُ بِهِ وَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُرْوِي بِطَبْعِهِ بَلِ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُرْوِي بِهِ وَهَكَذَا جَمِيعُ  
الْأَسْبَابِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا وَبِهَا وَهِيَ أَلَهُ  
بَيْنَ يَدَيْهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ إِذَا كَانَ هُوَ  
الْفَاعِلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلِمَ تَرْجِعُونَ إِلَيْهِ  
فِي جَمِيعِ أُمُورِكُمْ وَتَتْرَكُونَ حَوَاجَتَكُمْ

کر دینے والے۔ زیر عرش سے لے کر فرش تک کے رخصت  
کر دینے والے ہوں تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو  
اور ایسا رخصت کیا ہو کہ یہ اُس کی طرف کبھی لوٹیں گے ہی نہیں۔  
تمام مخلوق کو رخصت کر دیا ہو اور ان کے نفس بھی انھیں میں شامل  
ہیں۔ ان کا تمام تردد و دہر حالت میں خدا ہی کے ساتھ ہو۔ جو  
کوئی اللہ کی محبت اپنے وجود و نفس کے ساتھ طلب کرے پس  
وہ سراسر اوس و ہدیٰ میں ہے۔ اکثر زاہد و عابد بننے والوں  
میں سے خلق کے بندہ اور ان کو شریک خدا سمجھنے والے ہیں  
تم سبوں پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ان کو شریک خدا بناؤ اور نہ تم ان پر  
اعتماد کرو پس وہ حق تعالیٰ کے سبب الاسباب اور تمام سببوں کا  
پیدا کرنے والا ان میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا ہے تم پر  
غضب کرے گا۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی تابعداری کرنے  
والے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ تلوار اپنی طبیعت سے کسی چیز  
کو نہیں کاٹتی ہے بلکہ حق تعالیٰ بذریعہ تلوار کے کاٹتا ہے اور  
اگ اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں جلاتی ہے بلکہ اللہ عز و جل  
ہی اُس کے ذریعے سے جلاتے والا ہے اور بر تحقیق کھانا اپنی  
طبیعت سے کسی کو سیر نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی اُس کے  
ذریعہ سے پیٹ بھر دیتا ہے اور بر تحقیق پانی اپنی طبیعت  
سے کسی کو سیراب نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی پانی سے  
سیراب کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی تمام سبب کسی جنس کے  
ہی کیوں نہ ہوں اللہ عز و جل ہی ان میں اور ان کے ساتھ تصرف  
کرنے والا ہے۔ اور سبب اُس کے حضور میں ایک آلہ و ذریعہ  
ہیں جن کے ساتھ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے جب کہ  
حقیقتہً وہی ہر کام کا کرنے والا ہے تو پھر کیوں تم اپنے  
تمام امور میں اُس کی طرف رجوع نہیں لاتے اور اپنی ضروریات

اسی پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اپنی تمام حالتوں میں تم اسی کی توحید کو لازم کیوں نہیں پکڑتے اُسے فرد دیکھتا سمجھو اُس کا معاملہ ظاہر ہے کسی عامل پر بھی منفی دلوں شیدہ نہیں ہے۔ غلام لاٹھی سے مارا جاتا ہے اور آزاد شخص کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تم اُسی کی اطاعت کرو پس وہ بے شک اپنے مطیع کو عزت دیتا ہے تم اُس کی نافرمانی نہ کرو پس تحقیق وہ نافرمان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ مدد کرنا اور محروم و رسوا کرنا اُسی کے اختیاریں ہیں جس کو وہ چاہتا مدد فرما کر عزت دے دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا محروم رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے علم کی وجہ سے عزت دے دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے جمالت سے ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قرب سے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دور رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے۔

اکسٹھویں مجلس

المجلس الحادی والستون

مختلف فوائد قطع تعلقات وزہد کے بیان میں

۲۰ رجب ۱۲۷۶ھ ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد

فرمایا:

قدرے کلام کے بعد آپ سے کسی نے خواطر یعنی اُن خطروں کے متعلق جو دل میں گزرتے ہیں سوال کیا پس آپ نے جواب دیا تو کیا جانے خواطر کیا چیز ہیں۔ تیرے دل میں شیطان اور طبیعت اور خواہش اور دنیا کی طرف سے خطرہ آتے ہیں تیری فکر وہی ہے جو تجھے غم میں رکھے۔ تیری خواطر بھی تیری

وَقَالَ رَحِمَى اللّٰهُ عَنِّي فِي الْمَدْرَسَةِ فِي عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ سَنَةِ سِتٍّ وَارْبَعِينَ وَخَمْسٍ مِّائَةٍ۔ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنِ الْخَوَاطِرِ فَقَالَ مَا يَدْرِيكَ مَا الْخَوَاطِرُ خَوَاطِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّطْبَعِ وَهَوَايَ وَالدُّنْيَا هَمُّكَ مَا أَهَمَّكَ خَوَاطِرُكَ مِنْ جُنُبٍ

فکر کی جنس سے ہیں جیسے تو عمل کرے گا ویسا ہی خطرہ پیدا ہوگا  
حق عزوجل کا خطرہ اسی دل میں آتا ہے جو کہ ماسوے اللہ سے  
خالی ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے ہم اسی کو پکڑتے ہیں جن کے  
پاس اپنا اسباب پاتے ہیں جب تیرے پاس اللہ عزوجل  
اور اُس کا ذکر ہو گا پس ضرور کرنیوالے اُس کے قرب سے بھر  
جائے گا اور شیطان اور خواہش اور دنیا کے خطرہ تیرے پاس  
سے بھاگ جائیں گے دنیا کا ایک خطرہ جدا ہے اور آخرت  
کا دوسرا خطرہ علیحدہ اور فرشتہ کا خطرہ جدا اور نفس کا خطرہ جدا اور  
قلب کا خطرہ اور حق عزوجل کا خطرہ جدا ہے سچے طلب گار  
تو تمام خطروں کے دفع کرنے اور خطرات حق کی طرف سکون  
پکڑنے کا محتاج ہے جب تو نفس اور خواہش اور شیطان و  
دنیا کے خطرات سے اعراض کر لے گا تو تیرے پاس اُس  
وقت آخرت کا خطرہ آجائے گا بعدہ فرشتہ کا خطرہ اور سب  
آخر میں حق عزوجل کا خطرہ دل میں جاگزیں ہو جائے گا اور وہی  
مقصود اصلی ہے۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو وہ  
خاطر کے پاس اگر ٹکھڑے گا۔ اور اُس سے دریافت کرے  
گا کہ تو کون سی خاطر اور کس کی طرف سے ہے۔ پس اس وقت  
جواب ملے گا میں فلاں فلاں خاطر ہوں میں خاطر حق ہوں جو کہ اُس نے  
بھیجا ہے میں تیرا خیر خواہ دوستدار ہوں حق عزوجل تجھے دوست  
رکھتا ہے۔ پس میں بھی تجھے دوست رکھتا ہوں۔ میں سفیر ہوں۔  
اور نبوت کے حالات میں سے میں تیرا حصہ ہوں۔

اسے غلام تو معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیوں کہ وہی  
ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ جب اُس کی اطاعت زیادہ کرے گا وہ  
تجھے اپنی معرفت عطا فرما دے گا۔ اور اسی واسطے نبی کا اللہ عزوجل  
نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ اللہ عزوجل کی اطاعت کرنے لگتا ہے

هَيْبَكَ مَا تَعْمَلُ خَاطِرُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا  
يَجِيءُ إِلَّا إِلَى قَلْبٍ خَالٍ عَمَّا سِوَاكَ كَمَا قَالَ  
لَا تَأْخُذْ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِذَا  
كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرُكَ عِنْدَكَ فَلَا  
جَرَمَ يَمْتَلِئُ قَلْبُكَ مِنْ قُرْبِهِ وَتَهْمُ بِ  
خَوَاطِرِ الشَّيْطَانِ وَالْهَوَى وَالْدُّنْيَا  
مِنْ عِنْدِكَ لِلدُّنْيَا خَاطِرٌ وَلِلْآخِرَةِ خَاطِرٌ  
وَلِلْمَلِكِ خَاطِرٌ وَلِلنَّفْسِ خَاطِرٌ وَلِلْقَلْبِ  
خَاطِرٌ وَلِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ خَاطِرٌ فَيَحْتَاجُ  
أَيُّهَا الصَّادِقُ إِلَى دَفْعِ جَمِيعِ الْخَوَاطِرِ  
وَالسُّكُونِ إِلَى خَاطِرِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْ خَاطِرِ النَّفْسِ وَ  
خَاطِرِ الْهَوَى وَخَاطِرِ الشَّيْطَانِ وَخَاطِرِ  
الدُّنْيَا جَاءَكَ خَاطِرُ الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَكَ  
خَاطِرُ الْمَلِكِ ثُمَّ خَاطِرُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَخِيرًا  
وَهُوَ الْغَايِبَةُ إِذَا صَبَّحَ قَلْبُكَ وَقَفَّ عِنْدَ الْخَاطِرِ  
وَقَالَ لَهُ أَيْ خَاطِرِ أَنْتَ وَمِمَّا أَنْتَ فَيَقُولُ  
لَهُ أَنَا خَاطِرُكَ ذَاكَ وَأَنَا خَاطِرُ حَقِّ مَنْ  
الْحَقِّ أَنَا نَاصِيَةٌ مُحِبَّةٌ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يُجِبُكَ  
فَإِنَّا أُحِبُّكَ أَنَا السَّيْفِيُّ أَنَا حَظُّكَ مِنْ حَالِ  
النُّبُوَّةِ۔

يَا غُلَامُ تَعَرَّضْ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
فَإِنَّهَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْ طَاعَتِهِ  
أَعْطَاكَ مَعْرِفَتَهُ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

أَعْطَاهُ مَحْفَظَةً وَيَهْدَاهُ وَقَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا تَرَكْتَ كَلَامَ عَتَّةٍ لَمْ  
يَسْلُبْهَا مِنْهُ بَلْ يَبْقِيَهَا فِي قَلْبِهِ لِيُحْيِيَهُ  
بِهَا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ لَهُ  
مَمِّزْتُكَ بِمَعْرِفَتِي وَتَفَضَّلْتُ عَلَيْكَ  
بِهَا لَمْ لَمْ تَعْمَلْ بِمَا عَلِمْتُ

يَا غُلَامَ مَا يَفْعُ بَيْدٍ مِنَ الْحَقِّ  
عَتَّةً وَجَلَّ كَتَمِيءٌ بِنِعَاقِكَ وَفَصَاحَتِكَ  
وَبَلَاغَتِكَ وَتَصْفِيرِ وَجْهِكَ وَتَرْفِيعِ  
مَرْقَعَتِكَ وَجَمْعِ أَكْتَافِكَ وَ  
تَبَاكُكِكَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ  
وَشَيْطَانِكَ وَشُرُكَكَ بِالْحَقِّ  
وَحَلَبِ الدُّنْيَا مِنْهُمْ - (وَبَعْدُ  
كَلَامٌ) أَحَقَرُ نَفْسِكَ وَأَكْثَمُ  
أَمْرَكَ وَكُنْ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ  
يُقَالَ لَكَ تَحَدَّثْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
كَانَ ابْنُ شَمْعُونَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
إِذَا جَاءَتْهُ الْكِرَامَةُ يَقُولُ هَذِهِ  
خَدَعَةٌ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَدَامَ عَلَى  
ذَلِكَ حَتَّى قِيلَ لَهُ مَنْ أَنْتَ وَمَنْ أَبُوكَ  
تَحَدَّثْ بِنِعْمَتِنَا عَلَيْكَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ  
السَّلَامُ فِي مَنْجَاتِهِ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبِّ  
أَوْصِنِي فَقَالَ لَهُ أَوْصِيكَ بِي وَبِطَلَبِي

وہ اس کو اپنی معرفت عطا فرمادیتا ہے۔ اور بھی اسی واسطے  
آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے پس جب بندہ خدا  
کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس معرفت کو اس سے چھینتا  
نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے دل میں باقی رکھتا ہے تاکہ اس کے  
ذریعہ سے قیامت کے دن اس پر حجت قائم کرے اس سے  
فرمائے کہ میں نے تجھے اپنی معرفت سے ممتاز کیا تھا اور اس  
کے ذریعہ سے تجھے فضیلت دی تھی پھر تو نے اپنے اس علم بڑے  
کیوں نہ کیا۔

اے غلام تیرے نفاق اور تیری فصاحت و بلاغت  
اور چہرہ کے زرد بنانے اور تیرے پیوند گانٹھ لینے اور موٹا ہونے  
کے ٹیکر لینے اور رونے و دلانے سے خدا سے تیرے ہاتھ  
کچھ نہ اٹے گا یہ باتیں ساری تیرے نفس اور تیرے شیطان اور  
مخلوق کو شریک خدا سمجھنے اور ان سے دنیا طلبی کے سبب سے  
پیدا ہو گئی ہیں خدا سوچ۔ اور آپ نے بعد کچھ کلام کے ارشاد  
فرمایا اللہ ان سے راضی ہو اور ہم سے وہ ان کو راضی کر دے  
اور ان کا قرب لمحہ بہ لمحہ موٹے عزوجل کے نزدیک زیادہ ہو  
تو اپنے نفس کو حقیر سمجھ اور اپنے امر کو معنی رکھ اور اس پر تو یہاں  
تک قائم رہ کہ تجھ سے کہا جائے کہ تو اپنے رب کی نعمت کو  
بیان کر۔ ابن شمعون رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کرامت ظاہر  
ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دھوکا ہے یہ شیطان کی طرف  
سے دوسوہ ہے اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان سے  
کہا گیا کہ تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے تو ہماری نعمتوں کا جو  
تجھ پر ہوا کریں انہار کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات  
میں اپنے رب عزوجل سے کہا کہ اے رب مجھے کچھ وصیت  
فرما پس ارشاد الہی ہوا میں تم کو اپنی اور اپنی طلب کی وصیت کرتا

ہوں چار مرتبہ جو سید علیہ السلام نے یونہی عرض کیا اور ہر مرتبہ میں یہی جواب جو کہ اول مرتبہ ملا تھا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سے یوں نہ فرمایا کہ تم دنیا طلب کرو اور نہ یہ فرمایا کہ تم آخرت طلب کرو گویا ہر مرتبہ یہی ارشاد ہوتا تھا کہ میں تم کو اپنی اطاعت کرنے اور نافرمانی کے چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں میں اپنے قرب کے طلب کرنے کی اور اپنی توحید اور اپنے لیے عمل کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں اور میں تم کو اپنے ماسوا سے رذالت کی وصیت کرتا ہوں۔ جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور قرعہ حق عزوجل کو پہچان لیتا ہے تو وہ غیر اللہ کو برا سمجھتا ہے اس کے ساتھ اُنس پر کھل لیتا ہے اور غیر اللہ سے متوجش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معیت میں راحت پاتا ہے اور اُس کے غیر کی معیت میں تکلیف اٹھاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ رہ کہ میں تیرے بندوں کی نصیحت کرنے میں مبالغہ کرنے میں اُن کی اصلاح و بھلائی میں کوشش کرنے والا ہوں۔ میں تمام اُن چیزوں میں جس میں کہ میں مشغول ہوں بحیثیت منی و باطن کے اُس سے ویسے ہی خارج و علیحدہ ہوں ویسے کہ تم میرے لیے اس میں کوئی کلامت نہیں ہے کہ میں کسی چیز میں اُس کی تدبیر و تصرفات میں سے اُس کے ساتھ رہوں۔ اسے خائف ہوں میں اور گوشوں میں بیٹھنے والو اور میرے کلام و وعظ میں سے اگرچہ ایک ہی حرف کا ہر مزاج کچھ جاوے۔ تم میری صحبت میں ایک دن یا ہفتہ بھر کرنا کہ تم اپنے نفس کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔

تم پانفوس تم میں سے اکثر تو سراپا ہوس ہی ہوس ہو تم انہی خائف ہوں میں بیٹھ کر خلق کی پوجا کرتے رہتے ہو یہاں معرض خلوتوں میں بیٹھنے سے جہالت کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتا ہے جہالت چھوڑو۔

وَكُذِّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ رَيْبِيَّةٌ مِثْلُ الْأَوَّلِ مَا قَالَ لَهُ أَطْلُبِ الدُّنْيَا وَلَا أَطْلُبِ الْآخِرَةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ أَوْصِيكَ بِطَلَبِ قُرْبِي أَوْصِيكَ بِتَوْحِيدِي وَالْعَمَلِ فِي أَوْصِيكَ بِالْإِعْمَارِ مِنْ عَمَائِ سِوَايَ إِذَا صَحَّ الْقَلْبُ وَعَرَفَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَرَ غَيْرَهُ وَاسْتَأْنَسَ بِهِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتَرَامَ مَعَهُ وَتَعَبَ مَعَ غَيْرِهِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ لِي أَنِّي مُبَالِغٌ فِي مَوَاعِظِ عِبَادِكَ مُجْتَهِدٌ فِي صَلَاحِهِمْ أَنَا نَاحِيَةٌ عَنْ جَمِيعٍ مَا أَنَا فِيهِ أَنَا خَارِجٌ عَنْهُ كَخُرُوجِكُمْ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالسِّرِّ لَا كَرَامَةٍ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ تَدْبِيرِهِ وَتَصَارُيفِهِ يَا أَصْحَابَ الصَّوَامِ وَالزَّوَايَا تَعَالَوْا ذُقُوا مِنْ كَلَامِي وَكُوْحَرًا وَاحِدًا أَصْحَابُوْنِي يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا لَعَلَّكُمْ تَتَعَلَّمُونَ شَيْئًا يَنْفَعُكُمْ۔

وَيَحْكُمُ الْأَكْثَرُ مِنْكُمْ هَوًى فِي هَوًى تَعْبُدُونَ الْخَلْقَ فِي صَوَامِعِكُمْ هَذَا الْأَمْرُ لَا يَجِيءُ بِمَجْدِدِ الْقَعُودِ فِي الْخَلَوَاتِ مَعَ الْجَهْلِ۔

وَبَلَّكَ اُمِّشَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَ  
 الْعُلَمَاءُ الْعَمَالِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيكَ شَيْءٌ اِمِّشَ  
 حَتَّى لَا يُطَاوِعَكَ شَيْءٌ قَالَ يَا ذَا عَجَزَتِ  
 فَاَقْعُدْ سِرِّطَاهِرَكَ لَنُفْعٍ بِقَلْبِكَ وَ  
 مَعْنَاكَ اِذَا عَيَّيْتَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَ  
 وَفَّقْتَ جَاءَكَ الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ وَ الْوُصُولُ اِلَيْهِ اِذَا اِنْقَطَعَتْ  
 خُطُوَاتُ قَلْبِكَ وَ ذَهَبَتْ قُتُوَاكُ فِي  
 السَّيْرِ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً قُرْبِكَ  
 مِنْهُ فَحِينَئِذٍ سَلِّمْ وَاسْتَطِرْحْ اَمَّا يَبْنِي  
 لَكَ صَوْمِعَةً فِي الْبَرِيَّةِ اَوْ يُفْعِدُكَ فِي  
 الْخَرَابِ اَوْ يَرْدُكَ اِلَى الْعُمَرَانِ وَيُوقِفُ  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالْإِنْسَ وَ  
 الْمَلَائِكَةَ وَالْأَرْوَاحَ فِي خِدْمَتِكَ اِذَا صَحَّ  
 الْقُرْبُ لِعَبْدٍ اَتَتْهُ الْوِلَايَةُ وَالنِّيَابَةُ  
 وَعُرِضَ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا فِي الْخَزَائِنِ وَ  
 كُنُفِهِ لَكَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَمَنْ فِيهِمَا  
 لِمَكَانِهِ مِنَ الْمَلِكِ وَلِصَفَاءِ بَاطِنِهِ وَ  
 سِرِّهِ وَ نُورِ قَلْبِهِ لَا يَكُونُ عِنْدَكَ عَارِيَةً  
 بِهَذَا يَكْثُرُ خَوْفُكَ وَصَوْمُكَ وَصَلَوَاتُكَ  
 وَ سَهْرُكَ بِهَذَا اَهَامَ الْقَوْمُ عَلَى وَجْهِهِمْ  
 وَالتَّحَقُّوْا بِالْوَحْشِ وَمَا أَحْمُوهُمْ  
 فِي حَشَائِشِ الْأَرْضِ وَ مَاءِ  
 الْغُدَمَانِ وَصَامَ ظِلُّهُمْ الشَّمْسِ  
 وَ مِصْبَاحُهُمُ الْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ دَعَا

تیرے اور پراسوس تو علم اور علماء عالمین کی تلاش میں اتنا  
 چل کر تجھیں طاقت رفتار باقی نہ رہے یہاں تک تو اس راستہ میں  
 چل کر کوئی چیز بھی تیری مطاوعت نہ کرے سب کو تھکا دے  
 اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا پس جب تو عاجز ہو جائے  
 پس بیٹھ جا۔ اولاً اپنے ظاہر سے سیر کر پھر قلب و منی سے سیر  
 کر جب تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے تھک جائے ٹھہر جا  
 تیرے پاس قرب الی اللہ جائے گا اور تو اس کی طرف پہنچ  
 جائے گا جب چلتے چلتے تیرے قلب کے قدم تھک جائیں  
 اور چلنے میں تیری قوتیں ختم ہو جائیں تو تیری اللہ سے نزدیکی  
 کی علامت ہے۔ پس اس مقام پہنچ کر تو اپنے آپ کو اس  
 کے سپرد کر دے اور اس کے دروازہ پر ٹھہر ا رہ۔ وہ تیرے  
 لیے جگہ میں یا ناکھانہ بنا دے۔ یا تجھے دیران میں بٹھا دے یا  
 وہ تجھ کو پھر آبادی کی طرف پٹا دے اور دنیا و آخرت اور جن و  
 انس اور فرشتوں اور روحوں کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دے  
 جب بندہ کا قرب صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو ولایت مہیبت مل  
 جاتی ہے۔ اور جو چیزیں تمامی خزانوں میں ہیں وہ اس کے دربر پیش  
 کر دی جاتی ہیں اور آسمان و زمین اور ان کے رہنے والے اس  
 کے سفارشی بن جاتے ہیں کیوں کہ اس کو بادشاہی قرب کا مرتبہ  
 اور باطن و حقیقت کی صفائی اور قلب کی نورانیت حاصل ہو چکی  
 ہے۔ تو قلب کی صفائی حاصل کر تا کہ اسلام و ایمان تیرے  
 پاس محض عاریت ہی نہ ہوں اس سے تیرا خوف اور روزہ نماز  
 اور شب بیداری بڑھ جائے گی۔ اس سے او ایاء اللہ ملے گی  
 ہو کر مزہ کے بل کرے اور وحشی جانوروں میں جا لے۔ اور جنگلوں  
 کی گھاس اور غول کے پانی میں اُن کے ساتھی بن گئے۔ آفتاب  
 اُن کا سایہ بن گیا اور چاند تارے اُن کا چراغ بن گئے تم بہت

سے ہدیان اور بے فائدہ قیل و قال اور مال کے ضائع کرنے کو  
چھوڑ دو تمھاری بہت سی بیٹھک بلا سبب پڑوسیوں اور دوستوں  
اور اہل و معرفت کے ساتھ نہ ہو کیوں کہ محض اس سے اکثر  
جھوٹ اور غیبت و آدمیوں کے جمع ہونے سے ہوتی ہے اور  
میت بھی دو آدمیوں کے درمیان میں پوری ہوا کرتی ہے  
تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے خواہاں کی  
مصلحت کے متعلق ہو یا اس کے اہل و عیال کے متعلق ہو باہر نہ  
نکلنا کرے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ ابتداء کلام تیری جانب سے  
نہ ہو کرے بلکہ تیرا کلام جواب میں ہو کرے جب کبھی تجھ سے  
کوئی سائل کچھ پوچھے پس اگر اس کے جواب میں تیری یا اس کی!  
مصلحت ہو تو جواب اُس کا دیدے ورنہ جواب دینے  
کی بھی ضرورت نہیں اہل اللہ تمام حالتوں میں خدا سے ڈرتے  
رہتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہی رہتے  
ہیں۔ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ اچانک نہ پکڑ لیے  
جائیں اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اُن کے پاس ایمان محض  
عاریت کا نہ ہو۔ اُن میں سے اکابر کا وہی ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ  
کی طرف سے احسانات و انعامات اطمینانی ہوتے ہیں اور اُن  
کے قلب استانہ الہی کے دروازوں پر داخل ہو جاتے ہیں  
اُن کو اندر داخل ہو جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے  
خدا اُن کا ولی مددگار بن جاتا ہے اور اُن کو سر داری دے دیتا  
ہے اُن کو اپنے اولیاء و اہل و مخصوص بندوں میں سے بنالیتا  
ہے اُن کو اپنے بندوں کا شیخ اور بادشاہ قرار دے دیتا ہے  
اُن کو زمین میں اپنا نائب و خلیفہ بنا دیتا ہے وہ کاہن و خلافت انجام  
دیتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ اُن کو اپنے منتخب بندوں میں سے  
کر لیتا ہے اور اُن کو اپنے علم سے تعلیم اور اُن کو اپنے علم سے

اَلْكَرَّ الْهَذْيَانِ وَالْقَالَ وَالْقِيلَ وَ  
اِصْاعَةَ الْمَالِ لَا تُكْثِرُوْا مِنَ الْقُعُوْدِ  
مَعَ الْجِيْرَانِ وَالْاَصْدِقَاءِ وَالْمَعَارِفِ  
يَنْبَغِي سَبَبٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ اَكْثَرُ  
مَا يَجْرِي الْكُذْبُ وَالْغِيْبَةُ بَيْنَ  
اَتْنَيْنِ وَالْمَعْصِيَةِ اِثْمًا تُتَمُّ بَيْنَ  
اَتْنَيْنِ لَا يَخْرُجُ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ  
بَيْتِهِ اِلَّا اِلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ  
مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ اَهْلِهِ اِجْتِهَدُ  
اَنْ لَا تَبْدَأَ بِالْكَلَامِ بَلْ يَكُوْنُ كَلَامُكَ  
جَوَابًا اِذَا سَاَلَكَ سَاعِلٌ عَنْ شَيْءٍ  
فَاِنْ كَانَ جَوَابُهُ مَصْلَحَةً لَكَ وَلَهُ  
وَاِلَّا فَلَا تُجِبْهُ اَلْقَوْمُ يَخَافُوْنَ  
رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ  
يُؤْتُوْنَ مَا اُتُوْا وَ قَسُوْا بِهِمْ وَجَلَّةٌ  
يَخَافُوْنَ اَنْ يُؤْخَذُوْا عَلٰى غَرَّةٍ يَخَافُوْنَ  
اَنْ يَكُوْنُوا اِلَّا اِيْمَانٌ عِنْدَهُمْ عَارِيَةٌ  
اَحَادٌ اَقْرَادٌ مِنْهُمْ يَأْتِيَهُمْ مِنَ اللّٰهِ  
مِنْهُ وَ نِعْمَةٌ فَتَدْخُلُ قُلُوْبُهُمْ فِيْ  
بَابٍ قَرِيْبٍ يُوْذَنُ لَهُمْ بِالْاَدْخُلِ عَلَيْهِ  
يُوَلِّيهِمْ وَيَتَوَلَّاهُمْ بِصِيْرَتِهِمْ مِنْ اَوْلِيَآئِهِ  
وَابْدَالِهِ  
مِنْ شِيُوْرِهِ عِبَادَهُ وَ سَلَطِيْنِهِمْ يَسْتَلِيْمُهُمْ  
فِي الْاَرْضِ وَ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِيْهَا وَ  
يَجْعَلُهُمْ مِنْ مَّمَرٍ دِيْهِ يَعْلَمُهُمْ

تعلیم دیتا ہے اور ان کو اپنی حکمتوں سے گویا کر دیتا ہے اور اپنی کرامت سے ان پر تاج کرامت رکھ دیتا ہے اپنی امداد سے ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو نفع و نقصان کی تمام چیزیں پہنچا دیتا ہے اور ان کے ایمان کے دلوں کے اندر قدم ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے اور ان کے ایمان کے سر پر تاج معرفت رکھ دیتا ہے تقدیر ان کی خادم بن جاتی ہے ہے اور اس دین اور فرشتے ان کے آگے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے قلوب و لواطن کی طرف فرمان خدا وندی آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فی نفسہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اپنے سر پر مملکت پر بیٹھا ہوا رہتا ہے اور اصلاح خلق کے لیے اپنے لشکر کو زمین میں شیطان کے فعل کو شکست دینے کے لیے منتشر کرتا رہتا ہے۔

اسے قوم تم و لیاہ اللہ کے قدم پر قدم چلو۔ تمہارا مقصد محض کھانا اور پینا اور پسنا اور نکاح کرنا اور دنیا کا جمع کرنا ہی نہ ہونا چاہیے کیوں کہ یہ بہت ذلیل و کمینہ مقصد ہے۔ عبادت عادت کے چھوڑنے کا نام ہے تم اللہ کا دروازہ تلاش کرو اور وہیں خیر ڈال دو تم انہی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے دروازہ سے بھاگا نہ کرو وہ تم کو بلا دانت و مرض اور دردی بھیج کر اس بات پر آگاہ کرے گا کہ رہنا ہے کہ تم اس کو طلب کرتے رہو اور اس کے دروازہ سے نہ ہٹو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کہ خط کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حق نازلے ان سے کس چیز کو چاہتا ہے تم اس کی عبادت کرو پھر اس کی عبادت میں تم غلام پیدا کرو یہ کیا تم نے ارشاد نہیں نہیں سنا کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت الہی کے لیے جب تم نے اس حق کو سمجھ لیا ہے اور سچا جان لیا ہے پس تم کیوں عبادت الہی کو چھوڑتے ہو اور اس کے راستہ میں مضطرب و مضبوط الحواس بنتے ہو ہر وہ شخص جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت

مِنْ عِلْدِهِ وَيَنْطَقُهُمْ بِحُكْمِهِ وَيَكْرِهُهُمْ بِكَرَامَتِهِ وَيَمُدُّهُمْ بِإِمْدَادِهِ يَعْرِضُهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ يُرْسِخُهُمْ قَدَمَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَجْعَلُ تَابَهُ الْمَعْرِفَةِ عَلَى رَأْسِ إِيْمَانِهِمُ الْقُدْرُ يُخْرِجُهُمْ وَالْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ قِيَامَ يَبَيِّنُ أَيْدِيَهُمُ التَّوَابِعُ تَأْتِي إِلَى قُلُوبِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَلِكٌ فِي نَفْسِهِ قَائِدٌ عَلَى سِرِّ سِدَّةٍ مَمْلُوكَةٍ وَبَيْتٌ جُنْدُهُ فِي الْأَرْضِ لِإِصْلَاحِ الْخَلْقِ مِنْ قَضَاةٍ لِيُفْعَلَ إِبْلِيسُ .

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَتَارَ الْقَوْمِ لَا يَكُنْ هَمُّكُمْ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَاللَّبْسُ وَالنِّكَاحُ وَجَمْعُ الدُّنْيَا فَإِنَّ هَذِهِ دَنَى الْعِبَادَةِ وَتَرْكُ الْعَادَةِ أَطْلُبُوا بَابَهُ وَخَصِمُوا هَذَا لَا تَهْرَبُوا مِنْ بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لِأَجْلِ الْأَفَاتِ فَإِنَّهُ يَنْتَبِهُكُمْ بِالْبَلَاءِ وَالْأَفَاتِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ لِيَتَطَلَّبُوهُ وَلَا تَبْرَحُوا مِنْ بَابِهِ لَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُونَ وَلَا يَدْرُونَ مَا يُرِيدُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ أَعْبُدُوهُ ثُمَّ أَخِصُّوا فِي عِبَادَتِهِ أَمَا سَمِعْتُمْوهَا كَيْفَ قَالَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ قَدْ تَحَقَّقْتُكُمْ وَعَلِمْتُكُمْوهَا فَلِمَ تَتْرَكُونَ عِبَادَتَهُ وَتَتَخَبَّطُونَ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ

نہیں کرتا ہے پس وہ اُن لوگوں میں سے ہے جو کہ اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھتے کیوں پیدا کئے گئے ہیں۔ جو لوگ تحقیق و تحقیق کے قدم پر ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور تحقیق وہ مریں گے پھر وہ زندہ کئے جائیں گے۔ لہذا وہ عبادت کر کے بندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔

اے غلام اس کے بعد امور باطنی ہیں جو کہ بغیر اس کے کھلا کی طرف پہنچنا ہوا اور اس کے دروازہ پر ڈیرہ ڈال دیا جاوے اور اس کے منتخب بندوں سے اور نابالوں سے جو کہ وہاں! کھڑے رہنے والے ہیں ملاقات کی جائے منکشف نہیں ہو سکتے جب تو حق عزوجل کے دروازہ پر پہنچ جائے گا۔ اور حسن ادب کے ساتھ ہمیشہ سر جھکائے وہاں کھڑا رہے گا تو تیرے لیے قلب کی طرف قرب کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کیچنے والا اُس کو کیچنے لے گا اور مقرب بنانے والا اُس کو مقرب بنائے گا۔ اور سلا دینے والا اُسے سلا دے گا اور آراستہ کرنے والا اُس کو آراستہ کر دے گا اور سر مبارک لگانے والا اُس کو سر بیگیں بنادے گا اور زیور پہنانے والا اُس کو زیور پہنادے گا اور کشادگی دینے والا اُس کو کشادگی عطا فرمائے گا اور امن دینے والا اُسے امن دے گا اور اس سے بات چیت کرنے والا بات چیت کرے گا اور کلام کرنے والا کلام کرے گا۔ اے نعمتوں سے غافل رہنے والو تم کہاں ہو۔ تمہارے دلوں سے اُس امر کو جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کس نے دور کر دیا ہے تم پر گمان کرتے ہو کہ تحقیق امر آسان ہے یہاں تک کہ وہ تمہیں بناوٹ اور تکلف و نفاق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ امر تو سچائی اور تقدیر کے ہتھوڑوں پر مہر کرنے کی

جَلَّ فَهَرَمَنَ الَّذِيْنَ لَا يَدْرُوْنَ لِمَ خُلِقُوْا  
الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی قَدَمِ التَّحْقِيْقِ وَالْحَقِيْقَةِ  
قَدْ عَلِمُوْا اَتَهُمْ خُلِقُوْا لِلْعِبَادَةِ وَاَنَّهُمْ  
يَمُوْتُوْنَ ثُمَّ يُحْيَوْنَ فَهُمْ يُحَقِّقُوْنَ  
الْعُبُوْدِيَّةَ۔

يَا غُلَامُ ثُمَّ اُمُوْرٌ بَاطِنٌ لَا  
تَنَكِّشُفُ اِلَّا بَعْدَ الْوُصُوْلِ اِلَى الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَقِيْقَامِ عَلٰى بَابِهِ وَ  
لِقَاءِ الْمُعَرِّدِيْنَ وَالتَّوَابِ الْوُفُوْقِ  
هُنَاكَ اِذَا وَصَلْتَ اِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَاَدْمَتِ الْوُفُوْقَ مَعَ حُسْنِ  
الْاَدَبِ وَالْاُطْرَاقِ فُتِحَ الْبَابُ  
فِي وَجْهِ قَلْبِكَ وَجَدَّ بِهِ مَنْ جَدَّبَ  
وَقَرَّبَ بِهِ مَنْ قَرَّبَ وَتَوَمَّهَ مَنْ تَوَمَّ  
وَنَفَثَ مَنْ نَفَثَ وَكَحَلَهُ مَنْ كَحَلَ  
وَحَلَّاهُ مَنْ حَلَّى وَفَرَّجَهُ مَنْ فَرَّجَ  
وَاَمَنَّهُ مَنْ اَمَّنَ فَحَدَّثَكَ مَنْ  
حَدَّثَكَ وَكَلَّمَهُ مَنْ كَلَّمَ يَا غُلَامُ فَيَلِيْنِ  
عَنِ النَّعِيْمِ اَيْنِ اَنْتُمْ مَا اَبَعَدَ قُلُوْبَكُمْ  
عَنِ اَلْاُمْرِ الَّذِيْ اُشِيرُ اِلَيْهِ  
تَتَطَنُّوْنَ اَنَّ الْاَمْرَ سَهْلٌ حَتَّى  
يَحْضُلَ لَكُمْ بِالتَّصْنُوعِ وَالتَّكَلُّفِ  
وَالنِّفَاقِ يَحْتَاجُ هَذَا الْاَمْرُ اِلَى  
الصِّدْقِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَطَارِيْقِ الْقُدْرِ

إِذَا كُنْتَ غَنِيًّا مُعَاوَاً مَسْتَعْوِلًا بِمَعْصِيَةِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتُبْتَ عَنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي  
وَالزَّلَّاتِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَصَرْتَ  
فِي الصَّحَارَى وَالْبَرَارَى وَطَلَبْتَ وَجْهَ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَاءَكَ الْإِخْتِيَارُ جَاءَكَ تِلْكَ  
الْبَلَايَا فَتَطْلُبُ نَفْسَكَ مَا كَانَتْ فِيهِ  
مِنَ الدُّنْيَا وَالْعَافِيَةِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا دُ  
تُعْطِيهَا ذَلِكَ فَإِنْ صَبَرْتَ حَصَلَ لَكَ  
مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ لَمْ تُصْبِرْ  
كَانَتْ ذَلِكَ يَا تَائِبُ انْثَبُتْ وَأَخْلِصْ وَقَوِّدْ  
مَعَ نَفْسِكَ الْإِقْلَابَ الْأَمْرَ وَمَجِئِ الْبَلَايَا قَرِّدْ  
مَعَهَا إِنَّ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ يُبْهِمُ لَيْلَهَا وَ  
يُظْهِرُ نَهَارَهَا وَيُوقِعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَهْلِ  
وَالْحَيَّرَانَ وَالْأَصْدِقَاءَ وَالْمَعَارِفَ وَأَنَّ  
لَا يَفْقَهُ بِهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يَدْرُوْنَ مِنْهَا أَمَّا  
سَمِعْتَ قِصَّةَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا  
أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحَبَّتَهُ وَاصْطَفَاهُ  
وَأَنَّ لَا يَبْقَى لِعَبْدٍ فِيهِ حَظٌّ كَيْفَ  
أَخْرَجَهُ عَنْ مَالِهِ وَآهْلِهِ وَوَلَدِهِ  
وَأَتْبَاعِهِ وَأَقْعَدَهُ فِي كُوْنِهِ عَلَى  
مَرْبُكَةٍ خَارِجًا عَنِ الْعُمَرَانِ وَلَمْ  
يَبْقَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ سِوَى  
زَوْجَتِهِ تَخْدُمُ النَّاسَ وَ  
تَأْتِيهِ بِقُوْتِهِ ثُمَّ إِذْ هَدَبَ  
لَحْمَهُ وَجَلَدَهُ وَوَوَّتَهُ وَ

طرت حاجت مند ہے جب تو غنی ہو کر عاقبت و تندرستی میں  
میں رہ کر معصیت الہی میں مشغول رہے پھر تو تمام گناہوں اور ظاہر  
باطن کی لغزشوں سے توبہ کر لے اور جنگوں اور بیانیوں میں جگر پیوستے  
اور ذرات الہی کو طلب کرے اس وقت تیرے امتحان کا وقت  
آجائے گا تیرے اوپر بلائیں آئیں گی۔ پس اس وقت تیرا نفس  
دنیاوی لذتوں کا جس میں کردہ پہلے مشغول تھا اور عاقبت کا  
خواہاں ہو گا پس تو اس کی خواہش کو قبول نہ کرنا اور نہ نفس کو اس  
کا حصہ دینا۔ پس اگر تو صبر کرے گا تو تجھے دنیا و آخرت کی حکومت  
مل جائے گی اور اگر تو نے صبر نہ کیا تو یہ امور تجھ سے فوت ہو  
جائیں گے۔ اے توبہ کرنے والے توبہ پر ثاب رہ اور اظہار  
پیدا کر اور اپنے نفس کے ساتھ انقلاب امر اور نزول بیات  
کو لازم سمجھ لے اور اس کو یہ بتا دے کہ حق عزوجل اس کو رات  
بھر جگائے گا اور دن بھر جھوکا رکھے گا اور اس کے پاس اس کے  
اہل و عیال اور ہمسایوں اور دوستوں اور اہل معرفت کے ہیمان  
میں تفرقہ ڈالے گا۔ اور ان کے دلوں میں اس کی طرف سے غصہ  
عداوت ڈال دے گا اور ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس  
نہ آئے گا۔ اور نہ اس سے نزدیکی کرے گا۔ کیا تو نے !  
حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب اللہ عزوجل نے  
ان کی محبت و برگزیدگی کی تحقیق کا ارادہ فرمایا اور اس امر کا کہ  
ان میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے اس وقت کیسے ان کو ان کے  
مال اور اہل و عیال اور بال بچوں سے علیحدہ کر دیا اور ان کو ویلانہ  
میں کوڑا گھریا بادی سے باہر پٹھا دیا اور ان کے پاس ان  
کے اہل و عیال میں سے سوائے ان کی بیوی کے کوئی نہ رہا کہ  
وہ لوگوں کی خدمت کرتی تھیں اور ان کی غذا لکڑی تھیں۔ بعد  
اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور کھال اور قوت کو لے گیا۔ اور

أَبْقَى عَلَيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَ قَلْبَهُ  
 أَرَى عَجَائِبَ قُدْرَتِهِ فِيهِ فَكَانَ  
 يَذْكُرُهُ بِلِسَانِهِ وَيُنَاجِيهِ بِقَلْبِهِ  
 وَيَرَى عَجَائِبَ قُدْرَتِهِ بِبَصَرِهِ وَرُوحَهُ  
 تَتَرَدَّدُ فِي جَسَدِهِ وَكَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي  
 عَلَيْهِ تَرَدُّدًا وَانْقَطَعَ عَنْهُ الْإِنْسُ وَانْقَطَعَ  
 بِهِ الْإِنْسُ انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْأَسْبَابُ وَ  
 الْحَوْلُ وَالْقَوَى وَبَقِيَ أَسِيرَ مَحَبَّتِهِ وَ  
 قُدْرَتِهِ وَفُتْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَسَابِقَتِهِ  
 كَانَ أَمْرُهُ سِرًّا ثُمَّ صَارَ فِي الْإِنْتِهَاءِ عِيَانًا  
 كَانَ الْأَوَّلُ مُرَآءِ صَارَ الثَّانِي حُلُوًّا طَابَ  
 لَهُ الْعَيْشُ فِي بَلَاءِهِ كَمَا طَابَ عَيْشُ  
 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَارِهِ الْقَتُومِ  
 يَتَعَوَّدُ ذَنْ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا  
 يَنْزِعُ جُودٌ مِثْلَ أَنْزَعَا جُودُ الْبَلَاءِ  
 تَخْتَلِفُ مِنْهَا فِي الْبُنْيَةِ وَمِنْهَا فِي  
 الْقَلْبِ وَمِنْهَا مَعَ الْخَلْقِ وَمِنْهَا مَعَ  
 الْخَالِقِ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْبَلَاءِ  
 خَطَاطِيئُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ نَهَمَهُ الْعُلْبُ  
 الرَّاهِدِي فِي الدُّنْيَا أَلْكَرَامَاتُ وَفِي الْآخِرَةِ  
 الْجَنَائِزُ وَنَهَمَهُ الْعَارِفُ بِقَاءِ الْإِيمَانِ  
 عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْخَلَاصُ مِنْ نَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ فِي الْآخِرَةِ لَا يَزَالُ نِعْمَتُهُ وَشَهَوَتُهُ فِي هَذَا  
 حَتَّى يَقَالَ لِقَلْبِهِ مَا هَذَا أُسْكِنُ وَأَنْبَتُ الْإِيمَانَ  
 ثَابِتٌ عِنْدَكَ وَمِنْكَ يَفْتَبِسُ الْمُؤْمِنُونَ

اُن پر اُن کے کان اور آنکھ اور قلب کو باقی رکھا اپنے عجائبات  
 قدرت اُن میں ظاہر کر کے دکھائے پس ایوب علیہ السلام خدا  
 کا ذکر زبان سے کیا کرتے تھے اور قلب سے اُس سے  
 مناجات کیا کرتے تھے اور اُس کی قدرت کے عجائبات  
 کو اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ اور آپ کی روح آپ کے  
 بدن میں مضطرب رہتی تھی اور فرشتے آپ پر درود پڑھتے  
 تھے اور ملائکہ کو آتے تھے اور انسان اُن سے جدا ہو گئے  
 تھے اور انس اُن سے متصل ہو گیا تھا اسباب اور قوت اور  
 تمام قوا اُن سے منقطع ہو گئے تھے اور وہ خود اسیر محبت اسیر  
 تقدیر و قدرت و ارادۃ الہی اور سابقۃ الہی باقی رہ گئے تھے۔  
 ابتداء میں آپ کا معاملہ بطور صبر تھا انتہا میں ظاہر طور ہو گیا تھا  
 ابتداء میں کڑوا تھا پھر انتہا میں شیریں ہو گیا تھا۔ تکلیف و بلا کی  
 زندگی آپ کے لیے ایسی لذت بن گئی تھی جیسے کہ ابراہیم  
 علیہ السلام کے لیے نار غرود۔ لذت تھی۔ اور یاء اللہ بلا پر  
 صبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور تمھاری مانند وہ مضطرب  
 و بے قرار نہیں ہوتے بل انہیں قسم قسم کی ہوتی ہیں بعض جسمانی  
 اور بعض قلبی اور بعض اُن میں سے مخلوق کے ساتھ جس کسی کو  
 تکلیف نہیں پہنچتی ہے اُس میں خیر نہیں ہوتی ہے بل حاجی عزوجل  
 کے مکر ہے۔ مابدوا ہد کا مقصود دنیا میں کرامتیں ہوتی  
 ہیں اور آخرت میں نیتیں۔ اور عارف کا مقصود دنیا میں بقا  
 ایمان ہوتا ہے اور آخرت میں نارا الہی سے نجات و خلاص  
 وہ ہمیشہ اسی نعمت و شہوت میں رہتا ہے یہاں تک کہ  
 منجانب اللہ اُس کے قلب سے کہا جاتا ہے یہ کیا حالت  
 بنائی ہے سکون کو اور ثبات قدمی کو ایمان تمھارے پاس  
 قائم ہے اور تجھ سے دوسرے مسلمان اپنے ایمان کے لیے

نُورًا إِلَّا يَمَانُهُمْ وَأَنْتَ عَدَا مُشَفَّعٌ  
مَقْبُولُ الْقَوْلِ تَكُونُ سَكْبًا لِحَدَاثِ خَلْقِ  
كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَي نَبِيِّكَ  
الَّذِي هُوَ سَيِّدُ الشَّاافِعِينَ اِسْتَنْغِلْ  
بِعَفْرِ هَذَا هَذَا تَوْقِيْعٌ بِبَقَاءِ  
الْإِيْمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالسَّلَامَةِ  
فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَشْرِى مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ الَّذِينَ  
هُمْ الْخَوَاصُّ مِنَ الْخَلْقِ فَكَلَّمَا  
كَرَّرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ ارْدَادًا خَوْفًا  
وَحُسْنِ آدَبٍ وَزِيَادَةً مِّنَ  
الشُّكْرِ الْقَوْمُ عَقَلُوا مَعْنَى قَوْلِهِ  
عَزَّ وَجَلَّ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ هُوَ  
قَوْلُهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ  
هُمْ يُسْأَلُونَ هُوَ وَقَوْلُهُ مَا تَشَاؤُنَ  
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
عَقَلُوا أَنَّهُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ  
لَا يَمَّا يُرِيدُ الْخَلْقَ وَ أَنَّهُ كُلَّ  
يَوْمٍ فِي شَأْنٍ يُعَدِّمُ وَ يُؤَخِّرُ  
وَيَرْفَعُ وَ يَصْنَعُ وَ يُعِزُّ وَ يُذِلُّ  
وَيُعِزِّلُ وَ يُؤَيِّسُ وَ يُمِيتُ وَ  
يُحْيِي وَ يُعِنِّي وَ يُفْقِرُ وَ يُعْطِي  
وَيَمْنَعُ لَا قَرَارَ لِقُلُوبِ الْقَوْمِ  
مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُغَيِّرُهُمْ وَ  
يَبْدِلُهُمْ يُقَرِّبُهُمْ وَ يُبْعِدُهُمْ

نور حاصل کرتے ہیں اور تیری کل قیامت کے دن سفارش  
قبول کی جائے گی نیز اقوال مقبول ہوگا تو بہت سی مخلوق کے  
لیے دوزخ سے خلاص و نجات کا سبب بنے گا اور تو اپنے  
نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حضوری میں جو کہ تمام سفارش  
کرنے والوں کے سردار ہیں رہے گا۔ بیشغل چھوڑ کر دوسرے  
شغل میں لگ۔ یہ تیرے لیے ایمان و معرفت کی بقاء کا اور  
عاقبت میں سلامتی کا اور انبیاء و مسلمین اور صدیق لوگوں کے  
ساتھ چلنے کا جو کہ مخلوق میں سے خدا کے خاص بندہ ہیں زبان  
ہے پس جس قدر اس پر زیادتی ہے اس کا خوف اور حُسنِ  
ادب اور شکر کی زیادتی بڑھتی جاتی ہے اور یہ اللہ نے  
قول الہی (یفعل ما یرید) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور  
قول الہی لا یسأل الا یرید اس سے جو کچھ بھی کرے!  
سوال نہ کیا جائے گا اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ اور قول الہی  
و ما یشاءون الا الایہ۔ تم بغیر خدا کی مشیت کے کچھ  
چاہ بھی نہیں سکتے۔ معنی سمجھ لیے ہیں۔ انہوں نے یہ پہچان لیا  
ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا  
ہے اور تحقیق خدا ہر ایک دن جدا شان میں ہے وہی کسی کو  
پیچھے کر دیتا ہے کسی کو بلند کر دیتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے  
اور کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلیل بنا دیتا ہے اور کسی کو  
معزول کر دیتا ہے اور کسی کو حاکم بنا دیتا ہے اور کسی کو مارتا  
ہے اور کسی کو زندہ کر دیتا ہے اور کسی کو امیر بنا دیتا ہے اور کسی  
کو فقیر کر دیتا ہے اور کسی کو دیتا ہے۔ اور وہی کسی کو منع کر دیتا  
ہے۔ اور یہ الہی کے قلوب کو اللہ کے ساتھ قرار ہی نہیں  
ہو تا ڈرتے رہتے ہیں وہ ان میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے  
کبھی ان کو نزدیک کر لیتا ہے اور کبھی ان کو دور کر دیتا ہے۔

يُقْبِلُهُمْ وَيَقْعِدُهُمْ يُعْزِّهِمْ وَيُذِلُّهُمْ  
يُعْطِيهِمْ وَيَسْنَعُهُمُ الْأَحْوَالُ تُتَغَيَّرُ عَلَى الْقَوْمِ  
وَهُمْ عَلَى قَدَمِ تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُسْنِ  
الْأَدَبِ وَالْإِطْرَاقِ اللَّهُمَّ ارْمُقْنَا حُسْنَ  
الْأَدَبِ مَعَكَ وَمَعَ خَوَاصِكَ مِنْ خَلْقِكَ  
لَا تَبْتَلِنَا يَا لَتَعْلُنِي يَا لَسَبَابِ وَالْإِعْتِمَادِ  
عَلَيْهَا نَبَيْتَ عَلَيْنَا تَوْحِيدَنَا لَكَ وَتَوَكَّلْنَا  
عَلَيْكَ يَقِينًا بِكَ وَمَا دَاخِلُ الْخَوَائِجِ إِلَيْكَ  
لَا تَبْتَلِنَا يَا خَوَالِنَا وَأَعْمَالِنَا وَلَا تَوَاجِدْنَا  
بِهَآءِ عَامِلِنَا بِكَرَمِكَ وَتَجَاوُزِكَ وَمَسَاحَتِكَ  
أَمِينِ طَرِيقِ الْحَقِّ لَيْسَ فِيهَا خَلْقٌ لَيْسَ فِيهَا  
سَبَبٌ لَيْسَ فِيهَا مَعْلُومٌ لَيْسَ فِيهَا جَهَّةٌ  
وَبَابٌ لَيْسَ فِيهَا وَجُودٌ الْخَلْقِ الْبَيْتِ مَعَ  
الدُّنْيَا وَالْقَلْبِ مَعَ الْآخِرَى وَالسِّرِّ مَعَ الْمَوْلَى  
السِّرِّ حَاكِمٌ عَلَى الْقَلْبِ وَالْقَلْبِ حَاكِمٌ  
عَلَى النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ وَالنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ  
حَاكِمَةٌ عَلَى الْبَيْتِ وَالْجَوَارِحِ حَاكِمَةٌ  
عَلَى الْخَلْقِ إِذَا صَحَّتْ هَذَا وَتَمَّ لِلْعَبْدِ  
صَادَ الْجَنُّ وَالْإِنْسُ وَالْمَلَكُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ  
فَيَصِيرُ الْكُلُّ قِيَامًا وَهَوَاقِعُهُ فِي دَسْتِ  
الْقُرْبِ يَا مَنْ أَفَى مَا يَقَعُ هَذَا بِبَيْدِكَ  
بِنَفَاكَ وَتَصْنُوعِكَ أَنْتَ تَرَبَّى نَامُوسَكَ تَرَبَّى  
قُبُولِكَ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ تَرَبَّى قُبُولِكَ أَنْتَ  
مَشْهُومٌ عَلَى نَفْسِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَلَى مَنْ  
تَرَبَّى بِهِ وَتَأْمُرُهُ بِاتِّبَاعِكَ أَنْتَ مُدْرَأٌ دَجَالٍ وَنَصَابٍ

کبھی کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی اُن کو بٹھا دیتا ہے کبھی عزت دیتا  
ہے اور کبھی ذلت کبھی عطا سے سرفراز کرتا ہے اور کبھی انھیں  
کو منع فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ پر جانیں اُلٹ پلٹ ہوتی رہتی  
ہیں اور وہ سچی بندگی اور حسن ادب کے قدم پر سرچھوکائے آستانہ الہی پر  
جھے رہتے ہیں اسے اللہ ہم کو اپنے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے  
مخصوص بندوں کے ساتھ میں حسن ادب عطا فرما۔ ہم کو اسباب کے  
ساتھ متعلق ہو جانے میں اور اُن پر اعتماد کر لینے میں مبتلا نہ کر دینا اپنے لیے  
ہماری توجہ اور اپنے اوپر ہمارے بھروسہ اور یقین کو اور اپنی  
طرف حاجتوں کے لوٹانے کو ثنابت رکھنا اور ہم کو ہمارے  
اقوال و اعمال میں مبتلا نہ کر دینا اور اُن کے سبب سے ہم پر پوراغزہ  
نہ کرنا اور ہمارے ساتھ اپنے کرم و تجاؤز اور چشم پوشی سے معاملہ  
فرمانا آمین۔ اللہ عزوجل کے راستہ میں نہ مخلوق ہے نہ سبب  
نہ اپنی و انقیست نہ جہت اور نہ کوئی دروازہ نہ خلق کا وجود نہ  
دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قلب آخرت کے ساتھ اور باطن  
مولیٰ کے ساتھ۔ باطن حاکم ہے قلب پر اور قلب حاکم ہے نفس مطمئنہ  
پر اور نفس مطمئنہ حاکم ہے بدن پر اور اعضاء حاکم ہیں خلق پر۔ جب  
بندہ کا یہ معاملہ صحیح و درست اور کامل ہو جاتا ہے جن و انسان  
اور فرشتہ اس کے زیر قدم ہو جاتے ہیں۔ سب دست بستہ  
اُس کی حضور می میں کھڑے رہتے ہیں اور وہ خود دست و قرب پر بیٹھنے  
والا ہوتا ہے۔ اسے یہ امر تیرے نفاق اور بناوٹ سے  
تیرے ہاتھ نہائے گا تو اپنے ننگ و ناموس کو پال رہا ہے  
تو اپنی مقبولیت کو مخلوق کے قبول میں پال رہا ہے تو اپنی دست بردی  
کرانے کے خیال کو پال رہا ہے تو ایسی حالت میں اپنے نفس اور  
اُن سب کے لیے جن کی تو پرورش کر رہا ہے اور اُن کو اپنے  
اتباع کا حکم دے رہا ہے مخوس ہے تو ریا کار اور دجال اور لوگوں

عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ لِأَجْرٍ مَّا لَا تَكُونُ لَكَ  
دَعْوَةٌ مَّتَجَابَةٌ ذَٰلِكَ مَوْضِعٌ فِي قُلُوبِ  
الصَّادِقِينَ قَدْ أَضَلَّكَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ  
سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَحَى الْعُبَّارُ أَفْسَسَ كَانَتْ تَحْتَكَ أَمْ جَاءَهُ  
تَرَى رِجَالًا لَحِقَ عَمَلُهُمْ وَجَلَّ عَلَى الْخَبِيرِ وَالْبُخْتِ وَ  
أَنْتَ عَلَى حِمَايَا مُكَيَّدَةٍ مَدَّ ذَا رَيْبِهِمْ  
يَا خُذْكَ دَعَاؤُ الشَّيَاطِينِ وَالْأَبَالِسَةِ  
اجْتَمَعُوا أَنَا لَا يُغْنِي عَنْ قُلُوبِكُمْ بَابُ  
قُرْبِهِ كُونُوا عَقْلَاءَ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ  
إِصْحَبُوا الشَّيْخَ عَالِمًا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَعِلْمِهِ يَدُلُّكُمْ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَرَى الْمُنْظَرِ  
لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَصْحَبُ الْعُلَمَاءَ الْعُمَمَالِ  
فَهُوَ مِنْ بَيْضِ التُّرَابِ لَا دِيكَ لَهُ وَلَا  
أَمَّ لَهُ إِصْحَبُوا مَنْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ إِذَا اجْتَمَعَتِ اللَّيْلُ وَ  
نَامَ الْخَلْقُ وَسَكَتَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَذَيْقُهُ وَ  
لَيْتَوْضًا وَلَيْصَلْ رُكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ  
ذَلِّجْنِي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْمُقَرَّبِينَ  
حَتَّى يَدُلَّنِي عَلَيْكَ وَيُعَرِّقَنِي طَرِيقَكَ السَّيِّبِ  
لَا يُدَمِّنُهُ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَادِرًا عَلَى أَنْ  
يَهْدِيَ إِلَيْهِ بِلَا أَنْبِيَاءَ كُونُوا عَقْلَاءَ مَا  
أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ تَنْتَبَهُوا مِنْ غَفْلَةٍ نَكَمُ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ فَتَيْشَ عَلَى  
مَنْ يَكُونُ مِرَاةً لَوَجْهِهِ دِينَكَ

کے مالوں پر نظر رکھنے والا ہے ضرور کہ تیری دعا مقبول نہ ہوگی۔ اور  
نہ صدیقین کے دلوں میں تیری کچھ وقعت ہوگی۔ باوجود علم کے خدا  
نے تجھے گمراہ بنا دیا ہے۔ جب غبار دور ہو جائے گا۔  
عنقریب تو دیکھ لے گا۔ ایتنی سی نیچے گھوڑا اتھایا لگھا۔  
جب غبار دور ہو جائے گا تو اللہ والوں کو گھوڑوں اور ختی  
اونٹوں پر سوار اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے ایک شکستہ گدھے  
پر سوار دیکھے گا۔ تجھ کو شیطانوں اور ابلیسوں کے شر پر دس کرش کپڑ  
لیں گے۔ تم بات کی کوشش کرو کہ تمہارے دلوں سے قرب  
الہی کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ تم کسی ایسی چیز پر نہیں ہو جو کتاب اللہ  
ہو۔ تم کسی ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرو جو کہ علم و حکم الہی کا اظہار  
ہو وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ جو کسی فلاح والے کو نہ دیکھے  
گا خود فلاح نہ پائے گا۔ جو علماء ماطلین کی صحبت میں نہ رہے گا  
پس وہ خاکی انڈا ہو گا جس کے لیے مرنا اور مرنے والی بات کچھ بھی  
نہیں ہے۔ تم ایسے کی صحبت میں بیٹھو جو کہ حق عزوجل کی صحبت  
میں بیٹھنے والا ہو۔ تم میں سے ہر ایک جب کہ اس کو رات کی  
اندھیری چھپالے اور مخلوق سو جائے اور ان کی اکوازیں ٹھہر  
جائیں کھڑے ہو کر وضو کرے اور دو رکعتیں پڑھے اور دعا  
مانگیں یا رَبِّ دَلَّنِي الْخَاسِے رب تو اپنے مقرب  
بندوں میں سے کسی ایسے بندہ کی طرف میری رہنمائی کر جو  
مجھے نیرے اوپر مطلع کر دے اور مجھے تیرا راستہ بتا دے  
آمین۔ سبب ایک ضروری امر ہے درنہ اللہ عزوجل اس بات پر قادر  
ہے کہ بنا دینا۔ تم عقلمند بنو۔ تم کسی اچھی حالت پر نہیں ہو تم اپنی فطرت  
سے ہوشیار ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
ہے۔ جس نے اپنی رائے پر استغناء کیا گمراہ ہوا۔ تو ایسے شخص کی  
تلاش کر جو کہ تیرے دین کے چہرہ کے لیے آئینہ ہو۔ لڑائی میں

ویسے ہی دیکھ جیسے کہ آئینہ میں دیکھتا ہے اور اپنے ظاہری چہرہ کو اور عامر اور بالوں کو درست کر لینا ہے سنوار لینا ہے تو عقلمند بن یہ ہوس کیسی اور کیا ہے تو کتنا ہے میں تعلیم دینے والے کا محتاج نہیں ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے جب مسلمان کا ایمان درست و راست ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے وہ اپنے دین کے چہروں کو اُس کے گفتگو کے آئینہ میں اُس کی ملاقات و قرب کے وقت دیکھتے ہیں یہ ہوس کیسی ہے تم ہر گھڑی اللہ عز و جل سے یہ سوال کرتے رہتے ہو کہ وہ تمہارے کھانے اور پینے اور لباس اور نکاح اور رزقوں کو زیادہ کر دے یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ذرہ بھر کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی چیز ہے جس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اُس میں تم مشغول رہو اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اُن سے تم باز رہو۔ تم اُن چیزوں کی طلب میں مشغول نہ ہو جن کا خود بخود نا ضروری ہے کیوں کہ وہ خود تمہارے لیے اُن کے آنے کا ضامن ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر تمہارے مقصود حاصل کر دیے ہوں یا خبری تم اُن کو پسند کر دیا یا پسند ضرور نہیں گے اللہ والے ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں اُن کے لیے دعا باقی رہتی ہے اور نہ سوال نہ وہ تحصیل منافع کا سوال کرتے ہیں اور نہ مضر توں کے دفع کا۔ اُن کی دعائیں صرف تعمیل حکم باعتبار قلب کبھی اپنے لیے اور کبھی مخلوق کے لیے باقی رہ جاتی ہیں پس ضرور وہ کلمات دعائے اُس سے غائب رہ کر زبان سے نکالتے ہیں۔

اے اللہ ہم کو تمام حالتوں میں اپنے ساتھ رکھ کر ادب نصیب فرما آمین۔ روزہ اور نماز اور ذکر اور تمام لامعتیں ان کی

کَمَا تَنْظُرُ فِي الْيَمَاءِ آتَةً وَتُسَوِّي دَجَّةَ ظَاهِرِكَ وَ عَمَامَتِكَ وَ شَعْرَكَ كُنْ عَاقِلًا أَيْشَ هَذَا الْهَرَسُ تَقُولُ مَا احْتَاجُ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُنِي وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِينَ صَدْرُ مِرَاةٍ لِلْخَلْقِ جَبِينُهُمْ يَبْصُرُونَ وَجْهَهُ أَدْيَانُهُمْ فِي مِرَاةٍ كَلَامُهُ وَقَتَ رُؤْيِيهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ أَيْشَ هَذَا الْهَرَسُ كُلُّ سَاعَةٍ تَسْأَلُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزِيدَكُمْ فِي مَالِكُمْ دَمَشْرُورِهِمْ وَمَلْبُوسِكُمْ وَمَنْكُوحِكُمْ وَارْزَاقَكُمْ هَذَا شَيْءٌ لَا يَزِيدُ

وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ ذَرَّةَ هَذَا شَيْءٌ مَعْرُودٌ مِنْهُ اسْتَغْلُوبًا أَمْرُكُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ عَامَّةً يَنْهَبُهُمْ عَنْهُ لَا تَسْتَغْلُوبًا لِمَا لَا بُدَّ مِنْ مَحِيئَتِهِ لَكِنَّهُ يَصْمَنُ لَكُمْ مَحِيئَتَهُ الْأَقْسَامُ تَجِيءُ فِي أَوْقَاتِهَا الْمُؤَدَّةُ الْحُلُومُ مِنْهَا وَالسُّرْمَةُ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تَكْرَهُونَ الْقَوْمُ يَصِلُونَ إِلَى حَالَةٍ لَا يَبْقَى لَهُمْ فِيهَا دُعَاءٌ وَلَا سُؤَالٌ لَا يَسْأَلُونَ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَلَا دَفْعِ الْمَصَارِي يَصِيرُ دُعَاءُ وَهُمْ بِأَمْرٍ مِنْ حَيْثُ قُلُوبُهُمْ تَارَةً لَا جَلِيمَ وَ تَارَةً لَا جَلِيلَ الْخَلْقِ فَيَنْطِقُونَ بِاللُّغَاءِ وَهُمْ فِي غَيْبِهِ عَنْهُ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَسَنَ الْأَدَبِ مَعَكَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَصِيرُ الصُّومُ وَالصَّلَاةُ وَالذِّكْرُ وَجَمِيعُ الطَّاعَاتِ

عادت ہو جاتی ہیں اس کے گوشت اور خون میں گھل مل جاتی ہیں  
بعد ان کی تمام حالتوں میں اللہ عزوجل کی حفاظت اس کے پاس  
آ جاتی ہے اور حکم شرعی کی قید ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے  
جدا نہیں ہوتی ہے اور یہ اس سے پرے ہی رہتا ہے۔ حکم  
شرعی اس کے لیے مثل ایک سواری کے بن جاتا ہے وہ اس میں بیٹھ  
ہوئے قدرت الہی کے دریا میں سیر کرتا رہتا ہے اور اس میں نہرت  
چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ سیر کرتے کرتے آخرت کے کنارے  
پر جو کہ لطف اور دست قرب کے سمندر کا کنارہ ہے پہنچ جاتا ہے  
پس وہ کبھی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا چین و آرام خالق کے  
ساتھ ہوتا ہے وہیں راحت لیتا ہے۔

اے منافق تجھ پر افسوس تجھے تو اس میں سے کچھ بھی  
خیر نہیں ہے۔

تجھ پر افسوس تیرے معاملات میں تو اس میں سے  
کچھ بھی نہیں ہے۔ اے خائفانوں میں اسی حالت میں بیٹھتے  
والو! کہ مخلوق ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے تم تو میری آواز کو  
ہی کر اسے لازم پکڑو اور اس سے بچو نہیں سستے تم تو یقیناً میرے بن  
گئے ہو اٹھو کھڑے ہو جاؤ میرے پاس آؤ جو ہوا کو امضا لکھ نہیں میں  
تمہاری بے ادبی اور بدفیلیوں پر نظر کر کے تم سے معاملہ خطاب  
نہ کروں گا بلکہ خدا کی نرمی و شفقت کے ساتھ میں تم سے نرمی کا  
معاملہ اس کے حکم سے برتنوں گا۔ تم میری سخت کلامی سے بھاگو  
مت پس یہ میری طرف سے نہیں ہے میں یہ تحقیق وہی گفتگو کرتا ہوں  
جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔

اے تو م اللہ والے عبادت الہی میں خوف و امید نشیہ کے  
قدم پر کھڑے رہ کر دن کو رات سے ملا دیتے ہیں باوجود رات  
دن کی عبادت کے خائف و امید نشیہ ناک ہی رہتے ہیں وہ

جَبِيلَةٍ مَّحْتَلَطَةٍ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ ثُمَّ  
يُجِئُهُ الْحَقُّظُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ  
أَحْوَالِهِ لَا يُفَارِقُهُ قَيْدُ الْحُكْمِ وَلَا لَحْظَةُ  
وَهُوَ مِنْ وَرَاءَ ذَلِكَ يَصْنُرُ الْحُكْمُ كَالْمَرْكَبِ  
وَهُوَ قَاعِدٌ فِيهِ يَسِيرُ فِي بَحْرِ قُدْرَةِ مَا بَيْنَ  
عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَزَالُ يَسِيرُ فِيهِ حَتَّى يَصِلَ  
إِلَى سَاحِلِ الْآخِرَةِ إِلَى سَاحِلِ بَحْرِ اللُّطْفِ  
وَيَدُ الْقُرْبِ فَهُوَ تَارَةً مَعَ الْخَلْقِ وَتَارَةً  
مَعَ الْخَالِقِ  
مَعَ الْخَالِقِ

وَيْلَكَ يَا مُنَافِقُ مَا عُنْدَكَ مِنْ  
هَذَا خَبَرٍ

وَيْلَكَ لَيْسَ فِي أُمُورِكَ مِنْ هَذَا  
شَيْءٌ يَا قَعُودًا فِي الصَّوَامِ مَعَ الْخَلْقِ  
مِرَّةً قُلُوبُهُمْ مَا تَسْمَعُونَ صَرَخِي  
عَلَيْكُمْ وَآلَيْكُمْ لَأَنْتُمْ صَمَمُ قَوْمُوا  
تَعَالَوْا لَا بَأْسَ مَا أَعَامِلُكُمْ وَأُخَاطِبُكُمْ  
يَسُوءُ أَدَبَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ بَلْ أَرَفَقُ  
بَكُمْ يَرْفُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ذُنُوبَهُ  
وَلَا تَهْرَبُوا مِنْ خُشُونَتِهِ كَلَّا هِيَ  
قَمَا ذَلِكَ مِمَّنِّي إِنِّي أَنْطِقُ بِمَا أُنْطِقُ  
بِهِ

يَا قَوْمُ الْقَوْمِ يَوَاصِلُونَ الصَّبِيَاءَ  
بِالظَّلَامِ فِي عِبَادَةِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَهُمْ عَلَى قَدَمِ الْخَوْفِ وَالْحَذَرِ

يَخَافُونَ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ جَاهِلُوا عِلْمَهُ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَعَاقِبَةُ أَمْرِهُمْ قَوَّاصِلُوا  
الصَّيَاءَ بِالظَّلَامِ حُزْنًا وَكَابَةً وَبُكَاءَ مَعَ دَوَامِ  
الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَجَمِيعِ الطَّاعَاتِ  
ذَكَرُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ وَمَا أَلَسَّتُمْ بِهِمْ  
فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْآخِرَةِ دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَدَاوُدُ  
وَجَّهَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَّامَتَهُ لَهُمْ مَحْمُودَةٌ  
عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ  
عَنَّا الْحُزْنَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادُكَ وَهُمْ  
أَسَاءَتُهُ هُوَ لَا يَزَالُ يُبَيِّنُ لَهُمْ دُرُوسًا وَهُمْ  
أُمَرَاؤُهُمْ وَمُلُوكُهُمْ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ إِذَا  
وَصَلَّتْ قُلُوبُهُمْ إِلَى بَابِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ  
فَصَادَفُوهُ مُفْتُوْحًا وَالْمَوَاقِبُ مُزْدَحِمَةٌ  
لَهُمْ قِيَامٌ مُصْطَفُونَ مُنْتَظَرُونَ لِمَنْ يُجِئُهُمْ  
يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ وَيَطْرُقُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَيَدْخُلُونَ  
إِلَى دَارِ الْقُرْبِ فَيَرَوْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَكَأَنَّ  
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ  
يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ  
حَزْنَ الْبُعْدِ حَزْنَ الْحِجَابِ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ كَيْفَ مَا اشْتَغَلْنَا بِالْأُمُورِ وَالْآخِرَةِ  
وَالْخَلْقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اصْطَفَاكَ  
لِنَفْسِهِ وَاخْتَارَنَا لِقُرْبِهِ وَأَذْهَبَ  
عَنَّا حَزْنَ الْإِلْتِطَاعِ عَنْهُ حَزْنَ  
الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اپنے انجام کار کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اپنے بارے  
میں اور اپنے خاتمہ کے متعلق جو کچھ علم الہی سے ناواقف ہیں پس  
انہوں نے باوجود نماز روزہ اور حج اور تمام طاعتوں پر مداومت  
کے دلی کوراتوں سے غم اور حزن اور بکاہ و گریہ کے ساتھ ملا  
دیا ہے اپنے قلوب و زبان سے ذکر الہی کیا پس جب یہ آخرت  
میں پہنچیں گے جنت میں داخل ہوں گے اور دیدار الہی سے  
مشرف ہوں گے اور کرامت الہی کا ماحظ کریں گے اس پر خدا کی حمد کریں  
گے اور کہیں گے الحمد للہ الذی اذہب سب تعریف  
اُس عبود برحق کو جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اور خدا کے  
کچھ ایسے بندہ بھی ہیں وہ ان کے استاذ اور شیخ اور سردار  
اور امیر اور بادشاہ ہیں جو کہ یہ کہیں گے کہ سب تعریف اُس عبود  
کو ہے جو کہ ہم سے قبل آخرت کے دنیا ہی میں غم کو لے گیا اور  
دور کر دیا جب اُن کے قلب رب عز و جل کے دروازہ پہنچیں گے  
پس اُس کو کھلا ہوا اور وسیع پائیں گے اور شکر استقبالی کو جو ہم  
کیے ہوئے صفت بستمہ کھڑے ہوئے اپنے آنے کا منتظر  
پائیں گے ان پر سلام کریں گے اور سب ان کے روبرو غم  
کر دیں گے۔ پس یہ منزل قرب میں داخل ہوں گے اور چہ چیزیں  
دیکھیں گے جو کہ نہ کبھی آنکھ نے دیکھی اور کانوں نے سنی ہوں  
اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزریں ہوں۔ اور کہیں گے  
سب تعریف اُس خدا کو جس نے ہم سے غم کو جو کہ دوری اور  
حجاب کا غم تھا دور فرما دیا سب تعریف اُس خدا کو کہ اُس نے  
جیسے چاہا ہم کو دنیا و آخرت اور خلق کے ساتھ مشغول رکھا سب  
تعریف اُس خدا کو جس نے ہم کو اپنی ذات اور قرب کے لیے  
منتخب فرمایا اور ہم سے اُس نے غم کو دور کر دیا جو کہ اُس کے  
غیر کے ساتھ مشغول ہونے کا غم تھا سب تعریف اُس خدا کو

الَّذِي رَزَقَنَا الْإِقْطَاعَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ  
شَكُورٌ

يَا غَلَامُ إِذَا أَحْكَمْتَ الْإِيمَانَ وَ  
صَلْتَ إِلَى دَارِ الْمَعْرِفَةِ ثُمَّ إِلَى وَادِي  
الْعِلْمِ ثُمَّ إِلَى وَادِ الْفَنَاءِ عَنْكَ وَعَيْنِ  
الْخَلْقِ ثُمَّ إِلَى الْوُجُودِ بِهِ لَا يَكُ وَكَأ  
بِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَزُولُ حَزَنُكَ فَالْحِفْظُ  
يَخْدُمُكَ وَالْحِمِيَّةُ تَحُوطُكَ وَالتَّوَفُّيقُ  
يَطْرُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُكْمِلُنِي  
حَوْلَكَ وَالْأَمْرُ وَاحِدٌ تَأْتِيكَ تُسَلِّمُ عَلَيْكَ  
وَالْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكَ الْخَلْقَ  
وَنَظَرَانَهُ تَرَعَاكَ وَتَجْزِبُكَ إِلَى دَارِ  
قُرْبِهِ وَالْأَنْسُ بِهِ وَالْمُنَاجَاةُ لَهُ  
حَابٌ مَنْ قَعَدَ عَنِّي مِنْ غَيْرِ عُدَّةٍ

وَيْلَكَ تَزَاحِمُنِي فِي مَفَاهِي الَّذِي  
قَدْ أَقْبَمْتُ فِيهِ مَا تَقْدِرُ مَا يَقَعُ بِيَدِكَ  
شَيْءٌ بِمُزَاحِمَتِكَ هَذَا شَيْءٌ يَنْزِلُ  
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا  
خَزَائِنُهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  
الْغَيْثُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ  
يُظْهِرُ مِنْهَا الثَّبَاتُ هَذَا الْأَمْرُ يَنْزِلُ مِنَ  
السَّمَاءِ إِلَى أَرْضِ الْقُلُوبِ فَتَهْتَرُ وَ  
تَنْبُتُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَنْبُتُ الْأَسْرَارُ وَالْحُكْمُ  
التَّوْحِيدُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْمُنَاجَاةُ وَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ

جس نے ہم کو اپنے ساتھ کیوں عطا فرمائی ہے شک ہمارا رب  
بخشنے والا اور قابل شکر ہے۔

اسے غلام جب تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا تو تورا  
معرفت کی طرف پہنچ جائے گا پھر وادی علم کی طرف پھر وادی  
فنا کی طرف جہاں پہنچ کر تو خودی اور تمام مخلوق سے فنا ہو جائے  
گا پھر توجہ وادہی کی طرف پہنچ جائے گا جہاں وہی وہ ہو گا۔  
نہ تو اور نہ اور مخلوق۔ پس اس وقت میں تیرا غم زائل ہو جائے  
گا۔ حفاظت الہی تیری خدمت کرے گی۔ اور حمیت تیرا احاطہ  
کرے گی اور توفیق تیرے سامنے برچھکے گی۔ اور فرشتے  
تیرے ارد گرد چلیں گے۔ اور پاک رومیں اگر تجھے سلام کریں گی  
اور حق عزوجل مخلوق پر تیرے ساتھ فخر کرے گا۔ اس کی نگاہیں  
تیری نعمداشت کریں گی اور تجھے اس کے قرب و انس کے گھر  
اور مناجات کی جانب کھینچیں گی۔ اس نے نقصان اٹھایا جو بغیر  
عذر کے میرے پاس آنے سے بیٹھ رہا۔

تجھ پر افسوس کہ تو مجھ سے میرے اس مقام میں جہاں کہ  
میں کھڑا ہوں مقابلہ و مزاحمت کرتا ہے تجھے قدرت نہیں ہے  
اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا تیری مزاحمت کچھ فائدہ  
نہ دے گی۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اترتا  
کرتی ہے ارشاد الہی ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جس  
کے خزانہ ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم ہر چیز کو معین اندازہ  
کے ساتھ اُتار کر کرتے ہیں آسمان سے میلہ زمین کی طرف اترتا  
ہے پھر اس پیداوار ظاہر ہوتی ہے۔ یہ امر ولایت آسمان سے  
قبول کی زمین کی طرف اترتا ہے پس وہ ہر قسم کی بھلائی سے  
اُگنے ہیں لہذا نہ ملکتے ہیں۔ اس سے اسرار اور حکمتیں اور  
توحید و توکل اور مناجات اور قرب الہی کے درخت اُگتے

وَجَلَّ يَصِيرُ هَذَا الْقَلْبُ فِيهِ أَشْجَارٌ  
وَأَشْمَارٌ يَصِيرُ فِيهِ كِبَافٌ وَقَفَاءٌ وَ  
يَحَارٌ وَأَنْهَارٌ وَجِبَالٌ يَصِيرُ مَجْمَعُ  
الْأَنْبَسِ وَالْحَيْنِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالْأَرْوَاحِ  
هَذَا شَيْءٌ مِنْ دَرَجَاتِ الْعُقُولِ قَدْ مَرَّ  
مَحْصَنُهُ وَإِرَادَةُ وَعِلْمُهُ كَيْسَاتُ رُوحِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَرَادُ مِنْ خَلْقِهِ  
اجْتَهَدُوا أَنْ تَقْعُوا فِي شَبَكَةِ كَلَامِي  
قُعُودِي وَكَلَامِي شَبَكَةُ أَنْتَظِرُ وَتُؤَمِّرُ  
وَاحِدٌ مِنْكُمْ فِيهَا إِنَّا هُوَ السَّمَاوَاتِ لِلْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ لَا سَمَاطِي أَرْجِيؤُنِي رَحِمَكُمُ  
اللَّهُ إِنِّي بَعُونِي حَتَّى أَحْمِلَكُمُ إِلَى بَابِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ أَلَصِدْقُ دَارِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ وَالْكَذِبُ دَارِ الشَّيْطَانِ  
الْحَقُّ شَيْءٌ وَالْبَاطِلُ شَيْءٌ وَيَلَا هُمَا ظَاهِرَانِ عِنْدَ  
كُلِّ مُؤْمِنٍ يَنْظُرُ بِنُورِ إِيْمَانِهِ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَدْعُونَ  
الْعِلْمَ وَالرُّكَاةَ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الرُّكَاةَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ  
أَنْتُمْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ الْحَقُّ  
مِنَ الْمُبْطِلِ هَرَّ تَكْذِبِكُمْ عَارِدٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَا لَا  
أُبَالِي بِذَلِكَ أَلَمْ يَدْلُحْ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُ  
جَنَّتَهُ وَلَا يَخَافُ مِنْ تَارِهِ بَلْ يُرِيدُ وَجْهَهُ  
وَحَسْبُ يَرْجُو قُرْبَهُ مِنْهُ وَيَخَافُ مِنْ بَعْدِهِ  
عَنْهُ أَنْتَ أَسِيرُ الشَّيْطَانِ وَالْهَوَى وَالنَّفْسِ  
وَالدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ وَمَا عِنْدَكَ خَبَرٌ  
قَلْبِكَ فِي قَيْدٍ وَمَا عِنْدَكَ خَبَرُ اللَّهِ

ہیں اس قلب میں طرح طرح کے جھاڑ اور پھل و پھول نکلتے ہیں اس  
میں بڑے بڑے جنگل اور چٹیل میدان اور دریا اور نہریں اور  
پہاڑ ظاہر ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ اور فرشتوں اور رُوحوں کا مجمع  
بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ عقول سے پر محض قدرت  
اور صرف ارادہ و علم ہے جس کو اللہ عزوجل اختیار فرماتا ہے  
اور اس کی مخلوق میں سے اکادو کا وعظا ہو جاتا ہے۔ تم اس بات  
کی کوشش کرو کہ تم میرے وعظ کے جال میں پھنس جاؤ میرا بیٹھنا اور  
میرا وعظ کتنا ایک جال ہے میں منتظر رہتا ہوں کہ اس میں تم میں سے  
کوئی آپھنسے۔ یہ دسترخوان خدا کا دسترخوان ہے نہ کہ میرا۔ تم  
میرے پکارنے کو سن کر اس پر عمل کرو میں اللہ کی طرف سے  
پکارنے والا ہوں اللہ تم پر رحم کرے تم میرا کتنا سونو می پیروی  
کرو تا کہ میں تم کو خدا کے دروازہ کی طرف اٹھا کر بے چلوں سپائی  
خدا کا داعی ہے اور جھوٹ شیطان کا داعی حتیٰ ایک چیز ہے اور  
باطل دوسری چیز اور یہ دونوں ہر مسلمان کے روبرو ظاہر ہیں جو کہ  
اپنے نور ایمان سے دیکھا کرتا ہے۔ اسے اہل عراق تم علم و ذکا  
کے مدعی ہوئے تم ذکا کا دعوے تو کرتے ہو حالانکہ تم پر میرا سختی  
ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے حتیٰ پر کون ہے اور باطل پر  
کون تمہیں حتیٰ و باطل میں تمیز نہیں تمہارے جھٹلانے کا نقصان  
تمہیں پر لوٹنے والا ہے اور مجھے اس کی پروا نہیں ہے۔ خدا  
کا چاہنے والا اس کی جنت کا چاہنے والا اور اس کی دوزخ  
سے خائف نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو اسی کی صرف ذات کو چاہتا  
رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کا قرب اسی سے چاہتا ہے اور اس کی  
دوری سے ڈرتا رہتا ہے تو شیطان اور خواہش اور نفس اور  
دنیا اور شہوتوں کا قیدی بنا ہوا ہے اور تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔  
تیرا قلب قیدی ہے اور تجھے کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ اے اللہ

خَلِّصْهُ مِنْ إِسْرِهِ وَخَلِّصْنَا أَمِينَ عَدِيكُمْ  
بِالْعَزِيمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الرَّخْصَةِ مَنْ  
لَزِمَ الرَّخْصَةَ وَتَرَكَ الْعَزِيمَةَ لِلرِّجَالِ  
لَا تَهَارُ كُؤُوبُ الْخَطَرِ وَالْأَشَقُّ وَالْأَمِيرُ  
وَالرَّخْصَةُ لِلصَّبِيَّانِ وَالنِّسْوَانِ لَا تَهَارُ  
الْأَسْهَلُ

تو اس کو اس کی قید سے رہائی دے اور ہم کو بھی اُس سے نجات  
دے اُمین تم عزیمت پر عمل اور رخصت سے اعراض کو لازم پکڑ  
جس نے رخصت کو لازم پکڑا اور عزیمت کو چھوڑ دیا اُس پر اُس کے  
دین کی ہلاکت کا خوف ہے۔ عزیمت مردوں کے لیے ہے  
کیوں کہ وہ خطرات اور مشکل اور کڑی چیزوں کا اختیار کرنا ہے  
اور رخصت بچوں اور عورتوں کے لیے ہے کیوں کہ اُس میں!  
آسانی ہے۔

اے غلام تو اول صفت کو لازم پکڑ کیوں کہ وہ بہادر مردوں کی  
صفت ہے اور پچھلی صفت سے جدائی اختیار کر کیوں کہ وہ نامردوں  
کی صفت ہے تو اس نفس کو خدمت گزار بنادے اور اُس کو  
عزیمت کا عادی کر کیوں کہ تو جس قدر اُس پر بوجھ لادے گا وہ  
اُس کو اٹھائے گا۔ تو اُس پر سے لاٹھی نہ اٹھا پس تحقیقی وہ سوجائے  
گا اور اپنے اوپر سے بوجھ کو گرا دے گا۔ تو اُس کو اپنے دانتوں  
کی اور آنکھوں کی پلیدی نہ دکھانہ مذاق کر نہ بیار کی نگاہ سے دیکھ  
وہ نہایت خراب غلام ہے بغیر ڈنڈے کے کام نہ کرے  
گا۔ تو اُسے پیٹ بھر کر کھانا نہ دے مگر جب کہ تو یہ جان  
لے کہ شکم میری کے کام کرے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ  
عبادت بھی بہت کرتے تھے اور کھاتے بھی تھے پیٹ بھر لے  
پڑا بیان کیا کرتے تھے تو حشیشی کا پیٹ بھر اور اُس سے بہت  
محنت لے جنائیں نیست کہ جتنی گدھا ہے۔ پھر عبادت  
کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے پس اُس سے پورا حصہ لیتے  
تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری کا کھانا دیکھا  
یہاں تک کہ میں اُن پر غصہ کرنے لگا پھر انہوں نے نماز پڑھی  
اور بہت روئے یہاں تک کہ مجھ کو اُن کے حال پر رحم آگیا۔  
تو زیادہ کھانے میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی نہ کر بلکہ کثرت

يَا غَلَامُ عَلَيْكَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاقَتْ  
صَفُّ الرِّجَالِ الشُّجْعَانِ وَقَارِبِي الصَّفِّ  
الْآخِرِ فَإِنَّهُ صَفُّ الْأَجْبَانِ اسْتَخْدِمْ  
هَذِهِ النَّفْسَ وَعَوِّدْهَا الْعَزِيمَةَ فَإِنَّهَا  
مَا حَمَلَتْهَا تَتَحَدَّلُ لَا تَرْفَعِ الْعَصَا فَإِنَّهَا  
تَنَامُ وَتُلْقِي الْأَحْمَالَ عَنْهَا لَا تُرْكَهَا بَيَاضَ  
أَسْنَانِكَ وَبَيَاضَ عَيْنَيْكَ هِيَ عَبْدٌ  
سَوْءٌ لَا يَعْمَلُ إِلَّا شُغَالًا إِلَّا بِالْعَصَا لَا  
تُشْبِعُهَا إِلَّا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّبْعَ لَا  
يُطْعِمُهَا وَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي مُقَابَلَةِ شَبْعِهَا  
كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
كَثِيرَ الطَّاعَةِ كَثِيرَ الْأَكْلِ وَكَانَ  
يَتَشَلَّى إِذَا شَبِعَ شَبْعَ الرَّنَجِيِّ وَكَدَّكَ إِنَّمَا  
الرَّنَجِيُّ حِمَاءٌ ثُمَّ يَقُولُ إِلَى الْعَبَادَةِ  
فَيَأْخُذُ مِنْهَا حَظًا وَأَفْرَأَ عَنْ بَعْضِهِمْ  
أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَكَلَ حَتَّى  
مَقَّتَهُ ثُمَّ صَلَّى وَبَكَى حَتَّى رَجِمَهُ لَا تَقْتَدِرْ  
بُسْفِيَانَ فِي كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَاقْتَدِرْ بِهِ فِي كَثْرَةِ

عِبَادَتِهِ فَلَسْتُ سَفِيَانٍ لَا تُشْبِعُ نَفْسَكَ كَمَا كَانَ  
بُنْيَعُهَا فَلَسْتُ تَمْلِكُهَا كَمَا كَانَ هُوَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ  
رَاجَتْ هَذِي فِي هَجْرِ الْحَرَامِ وَالتَّقَلُّبِ مِنَ الْحَلَالِ اِذْ هَذَا  
فِي الْكُلِّ عِنْدَ قُوَّةِ اِيْمَانِكَ وَ اِيْقَانِكَ فَتَصَيِّرُ مِنْ  
عِبَادِ اللَّهِ عَمْرًا وَجَلَّ

لَا مِنْ عِبَادِ الْخَلْقِ وَالْاَسْبَابِ لَا مِنْ عِبَادِ  
الدُّنْيَا وَالْمَحْظُوظِ وَاللَّهْوَاتِ وَالشَّيَاطِينِ اِلَّا مِنْ عِنْدِ  
حُبِّ الْحَاكِمِ عِنْدَ الْخَلْقِ وَالتَّقْيِيدِ بِاِقْبَالِهِمْ وَاِدْبَارِهِمْ  
وَحَمْدِهِمْ وَذَمِّهِمْ هَذَا شَيْءٌ لَا يَصْلِحُهُ مَا يَشْتَبِي قَبْلَهُ  
اِلَى بَابِ الْحَقِّ عَمْرًا وَجَلَّ خُطُوَةٌ وَاحِدَةٌ وَاَنْتَ مَعَ  
نَفْسِكَ فِي بَيْتِ طَبْعِكَ وَهَؤُلَاءِ اِنِّي اَرَاكَ اَبَدَ الدَّهْرِ  
مُعْتَدًا بِالْخَلْقِ وَالْاَسْبَابِ هَذَا اِلَى مَقَرِّ تَعْلَمُ مِنْ الْاَعْلَانِ  
مِنْ قِيُودِهِمْ يَبْجَاهُ لَا كَيْفَ يَرَى قَلْبُكَ الْحَقَّ عَمْرًا وَجَلَّ  
وَهُوَ مَلَانٌ بِالْخَلْقِ كَيْفَ تَرَى بَابَ الْجَامِعِ وَاَنْتَ قَاعِدٌ  
فِي بَيْتِكَ اِذَا خَرَجْتَ مِنْ دَارِكَ وَاَهْلِكَ وَوَلَدِكَ  
رَأَيْتَ بِالْجَامِعِ لَمَّا اسْتَخْلَفْتَ الْكُلَّ وَرَأَى ظَهْرَكَ  
رَأَيْتَ هَكَذَا مَا دُمْتَ مَعَ الْخَلْقِ وَلَا تَرَى الْخَالِقَ مَا  
دُمْتَ مَعَ الدُّنْيَا لَا تَرَى الْاٰخِرَةَ مَا دُمْتَ مَعَ الْاٰخِرَةِ لَا  
تَرَى رَبَّ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِذَا خَرَجْتَ عَنِ الْكُلِّ لَيْقَى  
بِرُؤُكَ رَبَّكَ عَمْرًا وَجَلَّ لَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ بَلْ  
مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْعَمَلُ يَلْقُوبُ وَالْمَعْنَى  
لِلْاَسْرَارِ الْعَوْمُ اَعْرَضُوا عَنْ اَعْمَالِهِمْ نَسُوا جَمِيعَ  
حَسَنَاتِهِمْ وَلَمْ يَطْلُبُوا الْيَعُوضَ عَلَيْهَا فَلَا

عبادت میں اُن کی پیروی کر کیوں کر تو سفیان نہیں ہے تو اپنے نفس  
کو ویسا جیسا کہ وہ پر کیا کرتے تھے پُر کر کیوں کر تو اُس کا ویسا جیسے  
کہ وہ مالک تھے مالک نہیں ہے تو حرام کے چھوڑ دینے اور حلال  
سے تقبیل پر کوشش کر قوت ایمان و ایقان کے ہوتے ہوئے ہر  
چیز میں بے رغبتی کر پس تو اللہ کے بندوں میں سے ہو جائے گا  
نہ کہ خلق و اسباب کے بندوں سے نہ دنیا اور مظلوظ اور شہوات  
اور شیطان کے بندوں سے نہ مخلوق کے نزدیک حب و جاہ  
اور اُن کی توجہ و عدم توجہ اور اُن کی تعریف و برائی کے بندوں سے  
یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تیرا قلب اس حالت میں کہ تو نفس کی معیت  
میں اپنی طبیعت و خواہش کے گھر میں رہے ایک قدم بھی اتار دالہی  
کے دروازہ کی طرف نہ چلے گا تحقیق میں تو تجھے ہمیشہ سے نفق و سبب  
کا قیدی بنا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ قید کب تک۔ تم اپنی قیدوں سے  
خلاصی مجھ سے کیجو۔ جلد رہائی حاصل کرو اسے جاہل تیرا قلب اس  
حالت میں کہ اُس میں مخلوق بھری ہوئی ہوگی حق عزوجل کو کیسے دیکھ سکتا  
ہے۔ تو گھر بیٹھے ہوئے جامع مسجد کا دروازہ دیکھ سکتا ہے۔  
جب تو اپنے گھر اور اہل اور اولاد سے نکلے گا تو تو جامع مسجد کو  
دیکھ سکے گا جب تو سب کو اپنی پیٹھی پیچھے چھوڑ دے گا تو تو اُس  
کو دیکھے گا اسی طور سے جب تک کہ تو خلق کے ساتھ رہے گا خالق  
کو نہیں دیکھ سکے گا جب تک کہ تو دنیا کے ساتھ رہے گا۔  
آخرت کو نہ دیکھ سکے گا۔ جب تک تو آخرت کے ساتھ ہے  
گا تو دنیا و آخرت کے رب کو نہ دیکھ سکے گا۔ جب تو سب سے  
علیحدہ ہو جائے گا تو تیرا باطن رب عزوجل سے ظاہری نہیں بلکہ  
معنوی ملاقات کرے گا عمل واسطے قلوب کے ہے اور معانی  
واسطے اسرار کے اللہ والوں نے اپنے عملوں سے اعراض کر لیا  
اپنے تمام حسنات کو بھلا دیا اور اس پر بدلہ طلب نہ کیا پس یقیناً

جَرَمَ أَحَدُهُمْ إِذَا الْمُقَامَةُ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَسْتَمُّ  
فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْتَمُّ فِيهَا نَعُوبٌ وَلَا انْقِطَاعٌ  
وَلَا ضَعْفٌ لَيْسَ فِيهَا كَسْبٌ وَلَا مَوْنَةٌ قَالَ  
بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا نَصَبٌ  
يَعْنِي هَمَّ الْخُبْرِ وَتَحْصِيلِهِ وَمَوْنَةُ الْعِيَالِ  
الْجَنَّةُ فَضْلٌ كُلُّ خَيْرٍ كُلُّ رَاحَةٍ كُلِّبَتْ  
عَطَاءٌ بِلَا حِسَابٍ كُلُّ الدَّائِرَةِ عَلَى حُضُورِ  
قَلْبِكَ لِلَّهِ لَا يَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا  
يَخْلُقُهُ حُضُورٌ قَلْبِكَ عَمَّ وَجَلَّ لَا يَصْنَعُهُ إِلَّا  
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالتَّحْقِيقُ لِيُذَكِّرَهُ إِنْ تَنَظَّرْتَ  
نَظَّرْتَ إِلَى الْمَوْتِ وَإِنْ سَمِعْتَ سَمِعْتَ الْمَوْتَ  
ذِكْرُ الْمَوْتِ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِالْيَقْظَةِ التَّامَّةِ يُغْفِرُ  
كُلَّ شَيْءٍ وَتَقِفْ فِي وَجْهِهِ كُلِّ فَرْحَةٍ أَذْكَرُوا  
الْمَوْتَ فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُ قُوَّةٌ إِذَا صَحَّ الْقَلْبُ  
نَسِيَ مَا سِوَى الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَّ الْقَلْبُ يَوْمَ  
الْآزِمِ الدَّائِمِ الْآبِدِ كُلُّ مَا سِوَاهُ  
مُحْدَثٌ إِذَا صَحَّ الْقَلْبُ صَادَ الْكَلَامُ  
الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ صَوَابًا حَقًّا حَتَّى لَا  
يُرَدَّ كَادًا يُخَاطِبُ الْقَلْبُ الْقَلْبُ السِّرُّ  
السِّرُّ الْخُلُوعُ الْخُلُوعُ الْمَعْنَى الْمَعْنَى اللَّبُّ  
اللَّبُّ الصَّوَابُ الصَّوَابُ فَجَيْنَعِدْ يَكُونُ الْكَلَامُ  
مِنْهُ إِلَى الْقُلُوبِ كَالْبَدْرِ فِي رُفْنِ كَلْبِيَّةٍ غَيْرِ  
سَبْحَةٍ يَنْبُتُ إِذَا صَحَّ الْقَلْبُ صَارَ شَجَرَةً  
تَهَا عَصَانٌ وَأَوْدَانٌ وَشِمَاءٌ يَصِيرُ فِيهِ مَنَافِعُ  
لِلْخَلْقِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَلْبِ

خدا نے اُن کو اپنے فضل سے ایسی جگہ پر آمادہ جہاں اُن کو نہ غم لاحق  
ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا رنج و تکلیف اور نہ انقطاع اور نہ کمزوری نہ  
وہاں کسی قسم کا کسب ہے اور نہ محنت و مزدوری بعض مفسرین  
نے قول الہی لایستأذن فیہا نصب کی تفسیر فرمائی یعنی وہاں اُن کو نہ زور  
کاظم ہو گا اور نہ اُس کے حاصل کرنے کا اور نہ بال بچوں کے لیے  
محنت و مزدوری کا جنت تو سر بے فضل اور خیر اور کثیر راحت  
ہے اور عطا بلا حساب کا تمام دار مدار اللہ کے واسطے تیرے  
قلب کے حضور پر ہے جو کہ دنیا اور آخرت اور مخلوق کی غرض  
و علت سے ورہا ہو۔ اللہ کے لیے حضور قلب بغیر موت کے  
اور بغیر اُس کی سچی یادداشت کے صحیح و درست نہیں ہو سکتا ہے  
اگر تو دیکھے تو موت کو دیکھے اگر تو سنے تو موت ہی کو سنے۔  
حقیقت موت کی یاد پوری بیداری کے ساتھ ہر خواہش کو دشمن  
بنالیتی ہے اور ہر خوشی کے پاس اگر ٹھہر جاتی ہے۔ تم موت کو  
یاد کیا کرو اُس سے تمہیں بچاؤ نہیں ہے۔ جب قلب درست  
ہو جاتا ہے تو وہ ماسوے اللہ کو بھول جاتا ہے وہ تو قدیم و  
ازلی و ہم وابدی ہے تمام چیزیں اُس کے ماسوا حادث و  
نوپیدائیں جب قلب درست ہو جاتا ہے تو اُس سے جو  
کلام نکلتا ہے حق و صواب ہی ہوتا ہے کوئی رد کرنے والا کسے  
رد نہیں کر سکتا ہے قلب قلب سے سر سر سے علوت خلوت سے  
معنی معنی سے مغز مغز سے صواب صواب سے خطاب  
کیا کرتا ہے اُس وقت اُس کا کلام تلبوں میں ایسا بیٹھ جاتا ہے  
جیسے کنج عمدہ نرم زمین غیر کھار میں جمتا ہے۔ جب قلب  
درست ہو جاتا ہے تو وہ ایسا جھاڑ بن جاتا ہے جس میں  
شاخیں اور پتے اور پھل سب کچھ ہوتے ہیں اُس میں تمام  
خلق اس دین اور فرشتوں کے لیے نفع ہوتے ہیں جب قلب

صَحَّةٌ فَهَلْ كَفَّلُوا الْحَيَوَانَاتِ صَوْرَةً  
بَلَا مَعْنَىٰ اِنْ يَهُ بَلَا مِلْءٌ شَجَرَةً بَلَا  
شَمْرَ قَفْصٍ بَلَا طَائِرٌ دَامٌ بَلَا سَاكِنٌ كُنْزٌ  
مَجْمُوعٌ فِيهِ دَرَاهِمٌ دَنَانِيرٌ وَجَوَاهِرٌ  
بَلَا مُتَّفِقٌ جَسَدٌ بَلَا رُوحٌ كَلَّا جَسَادٌ  
الَّتِي مَسِيخَتْ اَحْجَارًا فَهِيَ صَوْرَةٌ بَلَا  
مَعْنَىٰ الْقَلْبُ الْمُعْرِضُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ الْكَافِرُ بِهِ مَمْسُومٌ وَلِهَذَا شَبَّهَهُ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحَجَرِ فَقَالَ نَعَمْ قَسَتْ  
قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ  
اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً لِّمَا لَمْ يَعْمَلْ بَنُو اِسْرَآئِيلَ  
بِالْتَّوَرَةِ مَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَهُمْ  
حِجَارَةً وَطَرَدَهُمْ مِّنْ بَابِهِ هَكَذَا  
اَنْتُمْ يَا مُحَمَّدٌ بَيْنَ اِذَا لَمْ تَعْمَلُوا  
بِالتَّوَرَانِ وَتُحْكِمُوا اَحْكَامَهُ يَبْسُخُ  
قُلُوبُكُمْ وَيَطْرُدُهَا مِنْ بَابِهِ لَا تَكُونُوا  
مِمَّنْ اَصْلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  
عِبَادِهِ اِذَا تَعَلَّمْتَ لِلْخَلْقِ عَمِلْتَ  
لِلْخَلْقِ وَ اِذَا تَعَلَّمْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمِلْتَ  
لَهُ اِذَا تَعَلَّمْتَ لِلدُّنْيَا عَمِلْتَ لِلدُّنْيَا وَ اِذَا  
تَعَلَّمْتَ لِلاٰخِرَةِ عَمِلْتَ لِلاٰخِرَةِ الْفَرْغُ تَبْنِي  
عَلَى الْاَصُولِ كَمَا تَبْنِي تَدَانُ كُلُّ اِنَا يَنْضَمُّ  
بِمَا فِيهِ تَضَعُ فِي اِنَا يَكُ نَفْطًا وَ تَوَيْدُ  
اَنْ يَنْضَمَّ مِنْهُ مَاءُ التَّوَمِدِ لَا كَرَامَةِ  
لَكَ تَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا

کے لیے محنت نہ ہو پس وہ مثل قلوب حیوانات کے ہے بغیر  
معنی کی صورت بغیر مٹی کا برتن بغیر پھل کا درخت بغیر پرند کا  
پنجرہ بغیر مکیں کا مکان۔ ایسے خزانہ کی طرح جس میں بہت درہم  
و دینار اور جواہر جمع کئے گئے ہوں اور کوئی خرچ کرنے والا نہ  
ہو۔ ایسا جسم جس میں روح نہ ہو مثل اُن جسموں کے جو مسخ ہو کر پتھر  
بن گئے۔ پس ایسے دل صورت بلا معنی ہیں جو قلب کر اللہ سے  
اعراض کرنے والا اور اُس کے ساتھ کفر کرنے والا ہو مسخ کیا  
گیا ہے اسی واسطے اللہ نے اُس کو پتھر سے تشبیہ دی ہے  
جیسا کہ ارشاد فرمایا پھر اُس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے  
پس وہ مثل پتھر کے ہیں یا اُن سے بھی زیادہ سخت جب کہ بتی  
اسرائیل نے توریت پر عمل دیکھا اللہ عزوجل نے اُن کے دلوں  
کا مسخ پتھر کے ساتھ کر دیا اور اُن کو اپنے دروازہ سے ہانک  
دیا۔ ایسے ہی اے امت محمدیہ جب کہ تم قرآن پر عمل نہ کرو  
گے اور اُس کے حکموں کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑو گے تو اللہ  
تمہارے قلوب کو بھی مسخ کر دے گا اور اُن کو اپنے دروازہ  
سے ہانک دے گا۔ تم اُس جماعت سے نہ ہو جو کو باوجود  
علم اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جب تو خلق کے لیے علم سکھے گا تو تیرا  
عمل خلق کے لیے ہو گا اور جب تو علم اللہ کے واسطے سکھے گا  
تو تیرا عمل خدا کے لیے ہو گا جب تو علم دنیا کے لیے سکھے گا تو  
تیرا عمل خدا کے لیے ہو گا اور جب تو علم آخرت کے لیے سکھے  
گا تو تیرا عمل آخرت کے لیے ہو گا شاخوں کی بنیاد جڑوں  
پر ہو کر تی ہے جیسا کہ کرسے گا و یسا بدلہ پائے گا۔ ہر برتن  
سے وہی ٹپکے گا جو کہ اُس کے اندر ہو گا۔ تو اپنے برتن ہی بد بوار  
روغن رکھ کر یہ چاہے کہ اُس سے گلاب ٹپکے یہ کیسے ہو سکتا  
ہے۔ تیری کوئی عزت نہیں تو دنیا میں دنیا اور اہل دنیا کے لیے

وَلَا بَنَاتُهَا وَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ لَكَ الْاِخْوَةُ  
عَدَا لَا كَرَامَةً لَكَ عَمِلْتَ لِلْحَقِّ وَتُرِيدُ  
أَنْ تَكُونَ لَكَ الْخَالِقُ عَدَا وَالْقُرْبُ  
مِنْهُ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ لَا كَرَامَةً لَكَ  
هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَالْأَعْلَى وَإِنْ  
أَعْطَاكَ هُوَ تَقْصِدًا بِغَيْرِ عَمَلٍ فَذَلِكَ إِلَيْهِ  
الطَّاعَةُ حَمَلُ الْجَنَّةِ وَالنَّعْصِيَّةُ  
عَمَلُ النَّارِ وَبَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ  
إِنْ شَاءَ أَشَابَ وَاحِدًا مِمَّا يَغْيِرُ  
عَمَلٍ أَوْ عَاقَبَ وَاحِدًا مِمَّا يَغْيِرُ عَمَلٍ  
فَذَلِكَ إِلَيْهِ فَتَعَالَى لِمَا يُرِيدُ لَا يُسْأَلُ  
عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ كَوَا ذُخْلُ  
وَاحِدًا مِمَّنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ النَّكَارُ  
كَانَ عَادِلًا وَكَانَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  
يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ صَدَقَ الْأَمْرُ وَ  
لَا نَقُولَ لَهُ وَكَيْفَ هَذَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ  
وَكَوَا كَانَ عَنْ عَدْلٍ وَحَقٍّ وَهُوَ شَيْءٌ لَا  
يَكُونُ وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِمَّنْ ذَلِكَ اسْمَعُوا  
مِنِّْي وَاعْقِلُوا مَا أَقُولُ فَإِنِّي غَلَامٌ مِمَّنْ تَقَعَّدَمُ  
أَقْبَبَ بَيْنَ آبَائِهِمْ وَأَنْشُرَ أُمَّتَهُمْ وَأَنَادِي  
مَعَهُمْ وَلَا أَخُوهُمْ فِيهَا وَلَا أَدْعِيهَا مِمَّا أَبْدَأُ  
بِكَلَامِهِمْ وَأُنْفِي بِكَلَامِي وَأَطْلُبُ الْخَيْرَ مِنْ عِنْدِهِمُ وَالْبَرَكَهَ مِنْ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
بِبَرَكَاتٍ مُتَابِعَتِي لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَبِرِّي بِوَالِدِي وَوَالِدَتِي

عمل کرتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ کل تجھے آخرت ملے تیری کوئی  
عزت نہیں تو عمل تو خلق کے لیے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تجھے  
کل خالق مل جائے اور اس کا قرب و توجہ نصیب ہو تیری کوئی  
عزت نہیں ظاہر و اغلب تو یہی ہے۔ اگر وہ تجھ کو بغیر عمل کے  
اپنے فضل سے عطا فرمادے تو اس کا اختیار اسے ہے۔  
طاہریت جنت کا عمل ہے اور گناہ و دوزخ کا عمل ہے اس  
کے بعد اختیار اللہ عز و جل کو ہے اگر وہ چاہے ہم میں سے  
کسی کو بغیر عمل کے ثواب عطا فرمادے یا وہ ہم میں سے کسی  
کو جسے چاہے بغیر عمل کے عذاب دیدے پس اس کا اختیار  
اسی کو ہے جو چاہے وہ کرے اُس سے باز پرس نہیں  
اور مخلوق سے باز پرس کی جائے گی۔ اگر وہ (فرما) انبیاء کرام  
و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ  
عادل ہے اور یہ اُس کی حجت بالغہ ہوگی۔ ہم پر تو یہی واجب  
ہے کہ ہم کہیں معاملہ و حکم پہلے اور ہم چوں و چل نہ کریں ایسا  
ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اور اگر ہو گا حق بجانب ہو گا اور سزا پا  
انصاف ہو گا یہ ایسی بات ہے جو ہوگی نہیں۔ اور نہ وہ اس میں  
سے کوئی بات کرے گا تم میرا کلام سنو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں  
اسے سمجھو تحقیقی میں متقدمین کا غلام ہوں اُن کے روبرو کھڑا ہوا  
ہوں اُن کے اسباب کو کھولتا پھیلاتا ہوں اور اس پر اُوار لگاتا ہوں  
اور اس میں اُن کی نیابت نہیں کرتا ہوں اور نہ اس کو اپنا مالوک  
مال بتاتا ہوں۔ میں ابتداء اُن کے کلام سے کرتا ہوں اور پھر اُس  
اُس کو اپنی طرف سے دہرا دیتا ہوں اور اُن سے بھلائی  
طلب کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے برکت چاہتا ہوں۔  
اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری  
کی وجہ سے اور اپنے والدین کے ساتھ اللہ اُن دونوں پر

رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَدَيَّ ذَهَبًا فِي الدُّنْيَا  
مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَالْيَدَيَّ وَافَقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ  
وَدَحِيبَتٍ يَفْعَلُهُ كَانَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ  
الْيَدَيَّانِ وَالشَّفَقَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَمَا عَلَى  
مَنْهُمَا وَلَا مِنَ الْخَلْقِ انْتَبَهَتْ إِلَى الرَّسُولِ  
وَالْمُرْسَلِ بِهِمَا أَنْجَمَ كُلَّ خَيْرِي وَيَعْمُرِي  
مَعَهُمَا وَعِنْدَهُمَا مَا أُرِيدُ مِنَ الْخَلْقِ  
سِوَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَمِنْ الْأَرْبَابِ غَيْرِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يَا  
عَالِمُ كُلُّ مَلِكٍ مِنْ لِسَانِكَ لَا مِنْ قَلْبِكَ مِنْ  
مُرَرَّتِكَ لَا مِنْ مَعْنَا لِي الْقَلْبُ الصَّحِيحُ  
يَهْرُبُ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اللِّسَانِ  
دُونَ الْقَلْبِ فَيَصِيرُ وَقْتُ سَمَاعِهِ كَالظَّيْرِ  
فِي الْفَقِصِ وَكَالْمُخَافِ فِي السَّجْدِ إِذَا اتَّفَقَ  
وَاحِدٌ مِنَ الصِّدِّيقِينَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنَ  
الْعُلَمَاءِ الْمُتَافِقِينَ كَانَتْ كُلُّ أُمْنِيَّتِهِ الْخُرُوجُ  
رَمْنَهُ لِلْقَوْمِ عِلَامَتٌ فِي وَجْهِهِ الْمُرَائِيْنِ الْمُتَافِقِينَ  
الَّذِينَ جَالَيْنِ الْبُيُوتِ عَيْنِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَأَعْدَاءِ رَسُولِهِ عِلَامَتُهُمْ فِي وَجْهِهِمْ  
وَفِي كَلَامِهِمْ يَفْرَغُونَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ  
كَمَا إِيَّاهُمْ مِنَ الْأَسَدِ هُمْ يَخَافُونَ  
أَنْ يَحْتَرِقُوا بِأَنْبَارِ قُلُوبِهِمُ الْمَلَأُوكَهُ  
تَرْفَعُهُمْ مِنَ الصِّدِّيقِينَ  
وَالصَّالِحِينَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ  
الْعَوَامِ كَبِيرٌ وَعِنْدَ الصِّدِّيقِينَ

رحمت فرمائے نگوئی کی وجہ سے کلام کا اہل بنا دیا ہے میرے  
والد ماجد نے باوجود دنیا پر قادر ہونے کے اُس سے بے رغبتی  
کی اور میری والدہ ماجدہ نے اس پر اُن کی موافقت کی اور وہ  
اُن کے فعل پر راضی رہیں۔ وہ دونوں اہل صلاح و دیانت اور  
خلق پر شفقت کرنے والوں سے تھے اور میرے اوپر اُن  
دونوں سے اور مخلوق سے کوئی احسان نہیں ہے میں تو رسول  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے پیچھے والے کی طرف الیا ہوں  
انہیں دونوں سے فوز و فلاح پاتا ہوں۔ میری ہر بھلائی اور نعمت  
انہیں دونوں کی معیت میں اور انہیں دونوں کے پاس ہے میں  
مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور ارباب میں سے  
اپنے رب عزوجل کے سوا کسی کو نہیں چاہتا ہوں۔

اے عالم نیز اوعظ محض زبان سے ہے دتیرے قلب سے  
تیری صورت سے تجیرے معنی سے نہیں ہے صحیح قلب اُس کلام  
سے جو کہ زبان سے ہوتا ہے ذکر دل سے بھاگتا ہے نفرت کرتا ہے  
پس وہ ایسے کلام کے سننے کے وقت ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ  
پرندہ پتھر میں اور منافق مسجد میں۔ جب اتفاقاً کوئی شخص صدیقین  
میں سے منافق عاملوں کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اُس کی کامل  
آرزو وہاں سے نکل جانے کی ہوتی ہے ریاکاروں منافقوں و  
دجالوں بدعتیوں کی چہروں کی علامتیں جو کہ اللہ اور اُس کے رسولوں  
کے دشمن ہیں اللہ والوں کو معلوم ہیں۔ اُن کی علامتیں اُن کے  
چہروں اور اُن کے کلام میں ظاہر ہوتی ہیں وہ صدیقین سے ایسے  
بھاگتے ہیں جیسے کہ شیر سے اُن کے قلوب کی آگ سے جل جانے  
کا خوف کرتے ہیں فرشتے اُن کو صدیقین و صلحا کی جماعت  
سے دھکے دے کر ہٹا دیتے ہیں ایسا مکار عالم عوام کے  
نزدیک بڑا اور بزرگ ہوتا ہے اور صدیقین کے نزدیک

ذیل وحقیقہ عوام کے نزدیک وہ آدمی ہوتا ہے اور صدیقین کے  
 نزدیک بلی اُن کی نگاہوں میں اس کی کچھ قدر ہی نہیں ہوتی ہے۔  
 صدیق نور الہی سے دیکھا کرتا ہے نہ کا اپنی آنکھوں کے نور سے  
 اور نہ آفتاب و قمر کے نور سے یہ اللہ کا عام نور ہے اور اس صدیق  
 کے لیے ایک خاص نور ہے جو کہ اس کو اللہ عز و جل حکم کے  
 مضبوط کر دینے اور اُس کے ایقان کے بعد جو کہ کتاب و سنت  
 ہے عطا فرمادیتا ہے وہ اُن پر عمل کرتا ہے پس اُس کو نور علم عطا  
 فرمادیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم کو اپنا حکم اور اپنا  
 علم اور اپنا قرب عطا فرما آمین۔

اے منافقو! اللہ تمہیں برکت نہ دے پس تم بھرت  
 ہو۔ تمہارا تمام مشغلہ اپنے اور خلق کے درمیان کے معاملات  
 کو سنوارنا اور اپنے اور خدا کے درمیان کے معاملات کو خراب  
 کر دینا ہے۔ اے اللہ تو مجھ کو اُن کے اوپر مسلط کر دے  
 تاکہ میں زمین کو اُن کے وجود سے پاک کر دوں اس زمین میں!  
 منافقوں کے نفاق کی علامت یہ ہے کہ وہ میری طرف اور  
 میرے پاس نہیں آتے ہیں اور نہ وقت ملاقات وہ مجھ سے  
 سلام کرتے ہیں پس وہ اگر ایسا کرے گا تو اُس کا یہ کرنا بھی بھلن  
 ہو گا۔ یہ دین بستی پر ہے جس کی دیواریں گر رہی ہیں۔ اے اللہ  
 مجھ کو اس کے بنانے کے لیے مددگار عطا فرما۔ آمین

اے منافقو! یہ عمارت تمہارے ہاتھوں نہ بنے گی  
 تمہارے لیے کچھ عزت نہیں تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں پر بن  
 سکے تم بنا بھی کیسے سکتے ہو نہ تمہیں بنانے کا کام آتا ہے اور  
 نہ تمہارے پاس اُس کے ہتیار ہیں۔

اے جاہلو! تم اپنے دین کی دیواروں کو بناؤ پھر تم  
 دوسروں کی عمارت کے بنانے میں مشغول ہو جب تم مجھ سے

حَقِيقَةً عِنْدَ الْعَوَامِ اَدْعٰی وَعِنْدَ الصِّدِّیْقِیْنَ  
 یَسْتَوِیْ لَا وَرَمَنْ لَّهٗ عِنْدَہُمْ الصِّدِّیْقُ یَنْظُرُ یُنَوِّرُ  
 اللہ عَزَّ وَجَلَّ لَا یُنَوِّرُ عِیْنِیْہِ وَلَا یُنَوِّرُ الشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ هٰذَا نُوْرُ اللہِ الْعَامُّ وَلَہٗ نُوْرٌ خَاصٌّ  
 اَعْطٰی اللہُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا النُّوْرَ بَعْدَ اَحْکَامِ  
 الْحُكْمِ وَرَدِّ تَقَاتِیْہِ وَہُوَ اَنْیَکَابُ وَالسُّنَنُہُ  
 عِیْلِ بِہِمَا فَاعْطٰی نُوْرَ الْعِلْمِ اَللّٰھُمَّ  
 اَرْزُقْنَا حُكْمَکَ وَعِلْمَکَ وَفَرْجَکَ اٰمِیْنَ  
 لَا بَارَکَ اللہُ فِیْکُمْ۔

یَا مَنَافِقُوْنَ فَمَا اَکْثَرُکُمْ کُلُّ شُغْلِکُمْ  
 فِیْ عِمَارَةِ مَا بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الْخَلْقِ وَتَخْرِیْبِ  
 مَا بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ اَللّٰھُمَّ سَلِّطْہِیْ  
 عَلٰی رُؤُوسِہُمْ حَتّٰی اُطْلِمَ الْاَرْضُ مِنْہُمْ  
 عَلَآ مَہٗ یَفَاقِ الْمُنَافِقِ فِیْ هٰذَا الزَّمَانِ اَنْ  
 لَا یَدْخُلَ عِیْنِیْ وَلَا یُسَلِّمَ عَلٰی اِذَا لَقِیْنِیْ  
 فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِکَ کَانَ تَکْلِفًا مِنْہُ هٰذَا  
 الدِّیْنِ اَوْ دٰی تَتَوَاقَعُ حِیْطَانُہُ اَللّٰھُمَّ  
 اَرْزُقْنِیْ اَعْوَانًا عَلٰی بِنَائِہِ مَا یَبْنِیْ  
 عَلٰی اٰیْدِیْکُمْ۔

یَا مَنَافِقُوْنَ لَا کَرَامَہٗ لَکُمْ حَتّٰی یَبْنِیْ عَلٰی  
 اٰیْدِیْکُمْ کِیْفَ تَبْنُوْنَ وَلَیْسَتْ لَکُمْ صَّوْعَةُ الْیَمَانِ  
 وَلَا الْتَمَّہٗ۔

یَا جُهَالُ اَبْنُوا حِیْطَانَ اَدِیَا بَیْنَکُمْ  
 ثُمَّ تَفْرَعُوْا لِیَسَارِہٖ غَیْرِکُمْ اِذَا

إِذَا عَادَ يَتَوَفَّى فَفَتَدَّ عَادَ يَتَمُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَرَسُولُهُ لَا يَفِي قَائِلُهُ بِنَصْرِ نَهْمَا لَا تَبْعُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ إِبْجَهْدَ إِحْسَوهُ  
يُوسَفَ عَنِّي السَّلَامُ عَلَى قَتْلِهِ فَكَمْ يَتَبَدَّرُوا  
كَيْفَ كَانُوا يَفْتَدِرُونَ وَهُوَ مَلِكٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَنَبِيُّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ حَمِيدٌ يَتَى مِنْ  
صِدِّيقِيهِ وَقَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْرَعَ  
مَصَالِحَ الْخَلْقِ عَلَى يَدَيْهِ هَكَذَا أَنْتُمْ يَا  
مُتَأَفِّفِي هَذَا الزَّمَانِ تُرِيدُونَ أَنْ تُهْلِكُونِي  
لَا كَرَامَةَ لَكُمْ أَيْدِيكُمْ تَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ لَوْ  
لَا الْحُكْمَ لَعَيَّنْتُ عَلَيْكُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا الْحُكْمُ  
هُوَ أَسَاسُ الْأَمْرِ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ مَعَ الْحُكْمِ  
وَفِي حَالَةِ الْقِيَامِ مَعَ الْعِلْمِ الْقَوْمُ لَا يَخَافُونَ  
مِنَ الْخَلْقِ لَا تَهْمُ فِي جَنْبِ آمِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَتَوَلَّيْهِ وَحِفْظُهُ لَا يَبَالُونَ بِأَعْدَائِهِمْ  
لَا تَهْمُ عَنْ قَرِيبٍ يَرَوْنَهُمْ مُقْطَعِينَ الْأَيْدِي  
وَالْأَسْرَجِلَ وَالْأَلْسُنَ عَلِيمُوا وَكَحَقَّقُوا أَنَّ  
الْخَلْقَ عَجَزٌ عَدَمٌ لَا هُلْكَ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا  
مُلْكٌ لَا غِنَى بِأَيْدِيهِمْ وَلَا فَتْرٌ لَا  
مَنْزِلَ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا نَفْعٌ وَلَا مَلِكٌ عِنْدَهُمْ  
إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا قَادِرَ عَلَيْهِ وَلَا  
مُعْطَى وَلَا مَانِعَ وَلَا ضَارَّ وَلَا نَافِعَ  
غَيْرَهُ وَلَا مُحِجِّ وَلَا مَصِيبَتَ غَيْرَهُ هُمْ  
فِي رَاحَةٍ مَنْ تَقْدِرُ الشَّرُّ لَهُمْ  
فِي رَاحَةٍ مَنْ تَقْدِرُ الشَّرُّ لَهُمْ

دشمنی کرو گے پس تحقیق تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرو گے  
کیوں کہ میں اُن دونوں کی مدد کے ساتھ قائم ہوں تم بغاوت  
نہ کرو بے شک اللہ عزوجل اپنے امر پر غالب ہے۔  
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے قتل کے لیے  
کوشش کی پس قدرت نہ پائی۔ قدرت پاتے بھی کیسے وہ تو  
اللہ کے نزدیک بادشاہ اور اس کے نبیوں میں سے ایک  
نبی اور اس کے مدد یقوں میں سے ایک صدیق تھے اور سابقہ  
الہی میں اُن پر یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ اُن کے ہاتھوں پر خلق اللہ  
کی مصلحتیں پوری ہوں گی اسی طور سے تم اسے اس زمانہ کے  
منافقو! میری ہلاکت کے خواہشمند ہو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔  
تمہارے لیے کوئی بزرگی نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ اس سے  
قاصر رہیں گے۔ اگر احکاماتِ نبوی حکمتیں نہ ہوتیں تو میں البتہ ہر ایک کو  
یقین کے ساتھ بتا دیتا کہ فلاں فلاں دشمن ہے حکمِ اولیٰ  
کے ساتھ قائم رہنے میں ہر امر کی بنیاد و حکمتیں ہیں اہل اللہ مخلوق  
سے نہیں ڈرا کرتے ہیں کیوں کہ وہ امن اور حفاظت اور سرپرستی  
الہی کے پہلو میں رہا کرتے ہیں انھیں اپنے دشمنوں سے پروا  
ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اُن کو عنقریب ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا  
اور زبان بریدہ دیکھ لیں گے انھیں تحقیقی طور پر معلوم ہو گیا ہے  
کہ مخلوق عاجز و معدوم ہیں۔ نہ اُن کے ہاتھ میں ہلاکت ہے  
اور نہ حکومت نہ اُن کے ہاتھ میں امیر ہے اور نہ فقیر نہ اُن  
کے ہاتھ میں نسیان ہے اور نہ نفع اُن کے نزدیک تو خدا  
کے سوا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے نہ اس کے سوا کوئی قدرت  
والا ہے اور نہ دینے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ کوئی  
ضرر و نفع پہنچانے والا۔ نہ کوئی اس کے سوا زندگی و موت دینے  
والا ہے وہ تو شرک کے بوجھ سے راحت میں ہیں وہ نوزل کے

برگزیدگی و انتخاب کے مقام میں خدا کے ساتھ اُس میں اور راحت میں رہتے ہیں۔ وہ تو اُس کی راحت و لطف اور اُس کی مناجات سے لذت حاصل کرنے والے ہیں دنیا ہو یا نہ ہو آخرت ہو یا نہ ہو انھیں کچھ پروا ہی نہیں۔ خیر و شر ہو یا نہ ہو انھوں نے ابتداء امر میں دنیا اور مخلوق اور شہوتوں کے متعلق زہد میں تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر جب اُس پر انھوں نے مداومت کی اللہ عزوجل نے اُن کے تکلف کو اُن کی طبیعت اور عظیم الہی بنادیا اُن کا زہد واقعی زہد اور اُن کی طبیعت واقعی طبیعت بن گئی تم اُن سے تعلیم حاصل کرو۔ طاعات الہی میں تکلیف و تکلف برداشت کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو اور بری باتوں سے علیحدہ ہو جاؤ یہ تکلف و تکلیف انجام کار میں طبیعت بن جائے گا۔ تم اپنے رب عزوجل کے کلام کو سمجھو اور اُس پر عمل کرو اور اپنے عمل اخلاص کے ساتھ کرو۔

اے غلام تو تو سراپا نفس اور طبیعت اور خواہش بن گیا ہے تو اجنبی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے مجھے اُن کی پروا نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے فطریعت و عمل اس میں تیری موافقت نہیں کرتی۔ تو آگ کو آگ سے لکڑی کو لکڑی سے ملائے چلا جاتا ہے پس یقیناً تیرے دین و ایمان کا گھر جل اٹھے گا شعلہ پذیر ہو گا انکار شرٹ اس بات میں عام ہے فطریعت نے اس میں کسی کا اشتیاق نہیں کیا ہے اولاً ایمان اور معرفت اور قوت اور قرب الہی پیدا کر پھر اُس کی نیابت میں مخلوق کا طبیب بن جاؤ اُن کا علاج کرو۔

تجھ پر انھوں نے تو سانپوں کو کیسے چھوڑا اور اُلٹ پلٹ کر تباہی حالانکہ تو نہ تو سانپ پکڑنے والوں کا ہنر جانتا ہے اور نہ تو نے تریاق کھایا ہے۔ تو خود اندھا ہے آدمیوں

فِي اَصْطِفَاءٍ وَالْاجْتِبَاءِ فِي اُنْسٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي رَاحَةٍ مَّعَهُ مُتَلَذِّذُونَ بِرُوحِهِ وَطُفَيْهِ وَمُنَاجَاتِهِ لَا يَبْكُونَ كَانَتْ الدُّنْيَا اَوْ لَمْ تَكُنْ كَانَتْ لِلْآخِرَةِ اَوْ لَمْ تَكُنْ كَانَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ بَدَايَةِ اَمْرِهِمْ تَكَلَّفُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا وَالْخُلُقَ وَالشَّهْوَاتِ فَلَمَّا دَامُوا عَلَى ذٰلِكَ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّفَهُمْ طَبْعًا وَ مَوْهَبَةً صَارَ الزُّهْدُ زُهْدًا وَالطَّبْعُ طَبْعًا تَعَلَّمُوا مِنْهُمْ تَكَلَّفُوا الطَّاعَاتِ وَ اَتْرَكُوا الْمَعَاصِيَ وَالْمُنْكَرَاتِ وَقَدْ صَارَتْ التَّكَلُّفُ طَبْعًا تَفَهَّمُوا كَلَامَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْمَلُوا بِهِ وَ اَخْلَصُوا فِيْ اَعْمَالِكُمْ.

يَا عَلَامَ اَنْتَ نَفْسٌ وَطَبْعٌ وَهَوًى تَقْعُدُ مَعَ النَّسْوَانِ الْاَجَانِبِ وَالصَّبِيَّانِ ثُمَّ تَقُولُ لَا اُبَالِي بِهِمْ كَذِبْتَ لَا يُوَافِقُكَ الشَّرْعُ وَلَا الْعَقْلُ تُضَيِّفُ نَارًا اِلَى نَارٍ حَظْبًا اِلَى حَظْبٍ فَلَا جَرَمَ يَسْتَنْعِلُ دَارُ دِيْنِكَ وَ اِيْمَانِكَ اِنْكَارُ الشَّرْعِ لِهَذَا عَامٌ لَّكُمْ يَسْتَنْفِنُ فِيْهِ اَحَدًا اَحْصَى الْاِيْمَانُ وَالْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُوَّةُ الْقُرْبِ ثُمَّ اَصْبَحَ طَبِيبًا لِلْخَلْقِ نِيَابَةً عَنِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ.

وَيْلَكَ كَيْفَ تَمَسُّ الْحَيَاتِ وَ تَقْدِبُهَا وَ اَنْتَ مَا تَعْرِفُ صُنْعَةَ الْحَوَاِ وَ لَا اَكَلْتَ التَّرْيَاقَ اَعْمٰى

کی آنکھوں کا تو کیا علاج کرے گا۔ تو بہرہ ہے آدمیوں کو کیسے تعلیم دے گا۔ جاہل ہے تو دین کی کیا درستی کرے گا۔ جو کہ دربان نہیں ہے وہ شاہی دروازہ کی طرف لوگوں کو کیسا بڑھائے گا تو اللہ عزوجل اور اُس کے قرب اور مخلوق کے متعلق اس کی سیاست سے جاہل ہے یہ ایسی چیز ہے جو نہ میری عقل میں آسکتی ہے اور نہ تمہاری عقل میں نہ میں اُس کا ضبط کر سکتا ہوں اور نہ تم اُس کی حقیقت و تفسیر خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے تم استنوا اور قبول کرو برحق میں بادشاہ کی طرف سے منادی اور تم میں اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں میں دین کے بارے میں سب مخلوق سے زیادہ بے شرم ہوں۔ میں خدا اور اُس کے رسول کی طرف داری میں تم میں سے کسی سے حیا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اُن دونوں کا کارندہ اُن کی پیشی میں کام کرنے والا اُن دونوں کی طرف نسبت رکھنے والا ہوں یہ دنیا فانی ہونے والی جلی جانے والی ہے۔ یہ آفتوں اور بلاؤں کا گھر ہے اس میں کسی کو خوش عیشی نصیب نہیں ہے خصوصاً دانا و عاقل کے لیے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں دانا اور موت کے یاد کرنے والے کی آنکھ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے جس کے مقابلہ میں درندہ منہ کھولے ہوئے اُس سے قریب ہو گا اُسے کیسے قرار پڑے گا اُس کی آنکھ کیسے سوتے گی۔

اے غافلو! برابر اپنا منہ کھولے ہوئے ہے موت کا درندہ اور اژدھا دونوں اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں بادشاہ قضا و قدر کا جلا اپنے ہاتھ میں تلواریں حکم کا منتظر کھڑا ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آدھ ہی ایسا ہو گا جو اس حکمت پر خبردار اور بغیر غفلت کے بیلاں ہوا تہ اندام میں کوئی ایسی صنعت و کاری گری سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعہ

كَيْفَ تَدَاوَى اَعْيُنَ النَّاسِ اَخْرَسَ كَيْفَ تَعْلَمُ النَّاسُ جَاهِلٌ كَيْفَ تُنْقِصُ الدِّينَ مَنْ لَيْسَ يَخَاجِبُ كَيْفَ يُقَدِّمُ النَّاسُ اِلَى بَابِ الْمَلِكِ اَنْتَ جَاهِلٌ يَا لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِقُدْرَتِهِ وَفَرْبِهِ وَبِسِيَاسَتِهِ لِيَخْلُقَهُ مَا لَا يُعْقَلُ لِي وَمَا يُعْقَلُ لَكُمْ مَا لَا يَصْبِطُ لِي وَمَا يَصْبِطُ لَكُمْ مَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ اِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَسْمَعُوا وَاقْبَلُوا فَاِنِّي دَاعِي الْمَلِكِ نَائِبُ رَسُولِهِ فِيكُمْ اَوْقَمُ الْخَلْقِ فِي الدِّينِ لَا اَسْتَحْيِي مِنْكُمْ فِي جَانِبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَانِبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا عَامِلُهُمَا رُوَاكِرِي بَيْنَ اَيْدِيهِمَا مُنْتَسِبٌ اِلَيْهِمَا هَذِهِ الدُّنْيَا فَاَيُّهُ ذَا هِبَةٍ هِيَ دَارُ الْاَفَاةِ وَالْبَلَايَا مَا يَصْفُو رَا حِدٍ فِيهَا عَيْشٌ لَا سِيَمَاءَ اِذَا كَانَ حِكْمًا كَمَا قِيلَ الدُّنْيَا لَا تَقَرُّ فِيهَا عَيْنٌ حَكِيمٌ عَيْنٌ ذَا كِرَالِ الْمَوْتِ مَنْ كَانَ السَّبْعُ بِحِذَائِهِ فَاتِحًا فَتَاهُ قَرِيبًا اِلَيْهِ كَيْفَ يَسْتَقِرُّ قَرَاهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ

يَا غَافِلُونَ الْقَبْرَ فَاتِحٌ فَتَاهُ سَبْعُ الْمَوْتِ وَتُعْبَانُهُ فَاتِحًا حَرَنَ فَتَاهُمَا سَيَّافُ سُلْطَانِ الْقَدْرِ بِيَدِهِ السَّيْفُ وَهُوَ مُنْتَظَرُ الْأَمْرِ مِنْ كُلِّ أَلْفِ أَلْفٍ وَاحِدٌ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ مُسْتَقِظٌ يَلَا غَفْلَةً لَا يَبْدُ فِي بَدَايَةِ أَمْرِكَ مِنْ صُنْعَةٍ تَكْتَسِبُ بِهَا

وَتَا كُلُّ مِنْهَا حَتَّى يَقْوَىٰ إِيْمَانُكَ فَإِذَا  
دُمْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَثَبَّتْ أَخْرَجَكَ الْحَقُّ  
عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الشَّوْكَلِ فَيُطْعِمُكَ مِنْ  
غَيْرِ سَبَبٍ يَا مُشْرِكًا بِسَبَبِهِ لَوْ دُفِنْتَ  
الْأَكْلَ بِالشَّوْكَلِ لَمَّا أَشْرَكَتَ وَ  
لَقَعَدْتَ عَلَىٰ بَابِهِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ وَانْفَعًا  
بِهِ مَا أَعْرِفُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ إِلَّا مِنْ  
شَيْئَيْنِ إِمَّا بِالْكَسْبِ مَعَ مَلَا نَرْمَةِ  
الشَّرْعِ أَوْ بِالشَّوْكَلِ

وَبَيْكَ مَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ تَتْرُكُ كَسْبَكَ وَتَكْذِبِي مِنَ النَّاسِ  
الْكَسْبُ بَدَايَةٌ وَالشَّوْكَلُ نِهَآيَةٌ فَمَا  
أَرَىٰ لَكَ بَدَايَةَ وَلَا نِهَآيَةَ إِنْ أَقُولُ  
لَكَ الْحَقَّ وَلَا أَسْتَحْيِي مِنْكَ إِسْمَعُ وَأَقْبَلُ  
وَلَا تُنَازِعْ مُنَازَعَةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
إِنِّي أَنَا هَدَى الْخَلْقَ فِيكُمْ وَفِيهِمَا فَيُؤَيِّدُكُمْ  
وَفِي حَمْدِكُمْ وَذَمِّكُمْ إِنْ أَخَذْتُ مِنْكُمْ  
أَخَذْتُ لِغَيْرِي لَا لِي كَلَامِي عِنْدَكُمْ ضَرْبَةٌ  
لَا ذِبَّ أَمَرْتُ بِهِ بِطَرِيقِ أَعْرِفْهَا أَقْطَعُ  
بِصِحَّتِهَا لَيْسَ لِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
نَاسِخٌ يَنْسُخُهُ وَلَا مَا يَنْعَى يَمْنَعُهُ

وَبِحَاكٍ لَا يَغْفِرُكَ مَقَارَاتُ  
النَّاسِ أَنْتَ تَعْرِفُ أَمَّا أَنْتَ فِيهِ  
وَعَلَيْهِ قَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ

سے تو کسب کرے اور خورد و نوش کرے یہاں تک کہ تیرا  
ایمان قوی ہو جائے پس جب تو اس پر مدد و دست کرے گا  
اور ثابت قدمی دکھائے گا تو حق عز و جل تجھ کو توکل کی طرف  
لے جائے گا اور وہ بغیر سبب کے تجھے کھانا کھلائے گا۔  
اے مشرک اپنے سبب کے ساتھ شرک کرنے  
والے اگر توکل کے کھانے کا ذائقہ چکھ لیتا تو تو کبھی شرک  
دکرتا اور تو اس کے دروازہ پر توکل بن کر اس پر بھروسہ کر کے  
بیٹھ جاتا۔ میں صرف دو طریقوں سے خورد و نوش کو جانتا ہوں  
یا پابندی بشرع کے ساتھ کسب کرنے سے یا توکل سے۔

تجھ پر افسوس تو تو خدا سے بھی نہیں شرماتا ہے کئی!  
چھوڑ کر تو آدمیوں سے گداگری کرتا ہے کسب و کمائی ابتدائی  
امر ہے اور توکل انتہائی امر پس میں تیرے لیے نہایت پاتا  
ہوں اور نہ انتہا۔ میں بر تحقیق تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور  
تجھ سے شرم نہیں کرتا ہوں۔ سن اور قبول کر اور خدا کے معاملہ  
میں جھگڑا نہ کریں تمہاری ذات اور تمہارے مال و متاع اور  
تمہاری تعریف و خدمت میں ساری مخلوق سے زیادہ زاہد ہوں  
اگر میں نے تم سے کچھ لیا بھی ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ  
دوسروں کے واسطے لیا ہے۔ تمہارے روبرو میرا کلام  
وغض ایک کاری ضرب و جملہ ہے جس کا مجھے ایسے طریقہ سے  
حکم دیا گیا ہے جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی صحت پر یقین رکھتا  
ہوں اللہ عز و جل کے حکم کے لیے کوئی ناسخ نہیں جو اسے  
منسوخ کر کے اور نہ کوئی مانع ہے جو اسے روک سکے

تجھ پر افسوس ہے تجھے دوسرے آدمیوں کی باتیں!  
دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ آیا تو اپنے نفع اور نقصان کی باتوں کو  
جس میں تو مبتلا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے بلکہ

إِلَّا نَسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ ۖ مَا أَحْسَنَكَ  
عِنْدَ الْعَوَامِ وَمَا أَقْبَحَكَ عِنْدَ الْخَوَاصِّ  
يَا رَاغِبِينَ فِي الدُّنْيَا فَرِحِينَ بِهَا وَهُمْ  
يَدْعُونَ الْعَقْلَ وَالصَّبْرَ أَمَا سَمِعْتُمْ  
قَوْلَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ اذْكُرُوا أَنَّمَا أُحْيَوُكُمْ  
الَّذِينَ لَعِبُوا وَلَهُمْ زِينَةٌ ۖ وَاللَّعِبُ وَاللَّهْوُ  
الزَّيْنَةُ لِلصَّابِرِينَ الْجَهْلُ لِلرَّجَالِ  
الْعُقْلَاءِ — قَدْ أَعْلَمَكُمْ أَنَّهُ لَمْ  
يَخْلُقْكُمْ لِلْعِبَالَةِ الشَّتَوِ بِالدُّنْيَا  
رَأَيْتُمُ الْمُتَنَبِّهِينَ بِهَا ذَوْنَ الْآخِرَةِ قَدْ  
قَنَعُوا بِغَيْرِ شَيْءٍ جَمِيعُهُ مَا تُعْطِيكُمْ  
الدُّنْيَا حَيَاتٍ وَعَقَارٍ وَسُوءٍ  
إِذَا أَخَذْتُمُوهَا بِأَيْدِي النَّفُوسِ وَ  
الْأَهْوِيَةِ وَالشَّهْوَةِ اسْتَعْلُوا بِالْآخِرَةِ  
وَارْجِعُوا بِقُلُوبِكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  
وَاسْتَعْلُوا بِهِ ثُمَّ خُذُوا أَفْسَامَكُمْ قَوْمًا بِأَقْدَامِ قُلُوبِكُمْ  
إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعْلُوا بِهِ ثُمَّ خُذُوا مَا بَاتِيَكُمْ  
بِهِ مِنْ يَدِ فَضْلِهِ تَفَكَّرُوا فِي الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ وَرَجَّحُوا بَيْنَهُمَا لَوْ تَعَلَّمْتُمْ أَيْ  
شَيْءٍ تَعَلَّمْتُمْ كَأَن عِنْدِي أَكْثَرُ مِنْهُ  
زَمَرَعِي قَدْ بَلَغَ وَتَحْتَلَّ وَنَزَعَكُمْ كُلَّمَا  
نَبَتَ أَحْوَقُ كُنْ عَاقِلًا دَعِرْ يَلَسْتِكَ وَتَعَالَى  
أَقْعُدْ هَهُنَا كَوَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ حَتَّى يَرْسَمَ  
كَالِي فِي أَرْضِ قَلْبِكَ لَوْ كَانَ لَكَ عَقْلٌ لَقَعْدَتْ  
فِي صُحْبَتِي وَقَعْنَتْ مِنِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ بِقِيَمَةٍ

انسان اپنے نفس پر بصیر ہے۔ تجھے عوام کی نظروں میں کس نے  
اچھا بنا دیا ہے اور کس نے تجھے خواص کی نظروں میں بُرا بنا دیا  
ہے۔ اے دنیا میں رغبت کرنے والو! اے دنیا سے  
خوش ہونے والو! اور عقل و ضبط کے دعوے دارو! کیا تم  
نے اپنے رب عزوجل کا قول نہیں سنا۔ تم جانتے ہو دنیا کی  
زندگی کھیل کو اور زینت ہے کھیل کو اور زینت نادان بچوں  
کا کام ہے نہ کہ قلمند مردوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق تم کو یہ  
خبر دی کہ اُس نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔  
دنیا میں مشغول ہونے والا کھیل کود کرنے والا ہے جس نے  
آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر قناعت کر لی اُس نے ناچیز شے  
پر قناعت کی دنیا تمام وہ چیزیں جو تم کو دے گی سانپ  
اور بھجور اور زہریلوں کے جب کہ تم اُس کو نفس و خواہشات اور  
شہوت کے ہاتھوں سے لو گے۔ تم آخرت کے ساتھ مشغول  
ہو اور اپنے قلوب سے اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع کرو  
پھر اپنے حصے اُس کے فضل کے ہاتھ سے لو۔ تم اپنے قلب  
کے قدموں سے رب عزوجل کی طرف کھڑے ہو اور اُس کی  
طرف مشغول ہو پھر جو کچھ بھی وہ تمہیں دے تم اسے اُس کے  
فضل کے ہاتھ سے لو تم دنیا و آخرت میں تفکر کرو اور  
اُن دونوں کے درمیان میں ترجیح دو اگر تو کوئی چیز بھی سیکھے گا تو  
میرے پاس اُس سے بہت زیادہ پائے گا میرا کھیت  
پک گیا ہے اور اُس نے جمال حاصل کر لیا ہے اور تمہارا کھیت  
جب جتنا ہے جلا دیا جاتا ہے تو عاقل بن اپنی ریاست  
کو چھوڑ اور ادھر آ کر اور لوگوں کی طرح یہیں بیٹھ جاتا کہ میرا کلام  
نیرے قلب کی زمین میں جم جائے۔ اگر تجھے عقل ہو تو توازن نہ  
میری صحبت میں بیٹھتا اور روز کے ایک لقمہ سے جو میری طرف

سے تجھے ملتا قناعت کر لیتا اور میری سخت کلامی پر صبر کرتا جس کے پاس ایمان ہو گا وہ ثابت قدم رہے گا اور پھلے پھولے گا اور جس کے پاس ایمان نہ ہو گا وہ میری صحبت سے بھاگے گا

وَصَبَرْتَ عَلَى خُسُوفٍ كَلَامِي كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ  
إِيمَانٌ يَثْبُتُ وَيَنْبُتُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ إِيمَانٌ  
يَهْرَبُ مِنِّي ط

## باسطھویں مجلس

## المجلس الثاني والستون

### توحید و زہد کے بیان میں

۳۰ رجب ۵۴۶ھ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت

مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا :

توحی عزوجل کی توحید کو اپنے قلب میں آنا جا کر تیرے قلب میں مخلوق میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے نہ تجھے کوئی گھر نظر آئے اور نہ کوئی شہر۔ توحید کل کو قتل نیست و نابود کر دے تمام تر دوا اللہ عزوجل کی توحید اور دنیا کے سانپ سے اعراض کر لینے میں ہے۔ تو اس سانپ سے اس وقت تک بھاگ کر تیرے پاس کوئی سپیرا اُجھائے اور وہ اس کے دانت اُکھٹیر دے اور اس کے زہر کو دفع کر دے اور تجھے اس کے نزدیک کر دے اور اس کا ہنر تجھے بتا سکھا دے اور اس کو تیرے سپرد کر دے اور اس میں کچھ اذیت باقی نہ رہے پس تو اسے اٹھا پٹا کرے اور وہ تیرے ڈسنے پر قدرت نہ پا سکے۔ جب توحی عزوجل کو محبوب بنا لے گا اور وہ تجھے محبوب کرے گا تو یہ تجھے دنیا اور شہوات و لذات اور نفس و خواہش اور شیطانوں کے شر سے کفایت کرے گا پس تو اپنے حصہ بغیر ضرر اور بغیر کدورت کے حاصل کرتا ہے گا نہ بغیر گواہ کے مدعی تو باوجود شرک توحید کا کب تک دلاوی

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَكْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدْرَسَةِ  
سَلَخَ شَهْرَ رَجَبِ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ  
وَجَدَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى لَا تَبْقَى  
فِي قَلْبِكَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ ذَرَّةٌ لَا تَرَى دَارًا  
وَلَا دِيَارًا التَّوْحِيدُ يَقْتُلُ الْكُلَّ كُلَّ الدَّوَاءِ  
فِي التَّوْحِيدِ يُلْحِقُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي الْأَعْرَاضِ  
عَنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا أَهْرَبَ عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ  
إِلَى أَنْ يَجْهِيَكَ الْحَوَاءُ فَيَقْلَعُ آخِرَ سَهْمًا  
وَيَنْزِلُ سَهْمًا وَيَقْرِبُكَ إِلَيْهِ وَيَعْرِفُكَ  
صَنْعَتَهُ وَيُسَلِّمُهَا إِلَيْكَ وَمَا بَقِيَ فِيهَا  
أَذْيَةٌ فَتَنْصَرِفُ فِيهَا وَهِيَ لَا تَقْدِرُ تَلْسَعُكَ  
إِذَا أَحْبَبْتَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْبَبَكَ  
كَفَاكَ شَرُّ الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ  
وَالنَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْءِ طَيِّبٍ فَتَأْخُذُ  
أَفْسَا مَكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا كَدٍ  
يَا مُدَّعِيًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ كَمْ  
تَدَّعَى التَّوْحِيدَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ

کرتا رہے گا کیجئے اس بات کی قدرت ہے کہ تو میرے  
ساتھ رات میں نکل کر دہشت ناک جگہوں میں چلے میں بغیر ہتیار کے  
ہوں اور تو اپنے ہتھیاروں سے سجا بنا ہوا ہے پھر دیکھ کون  
ڈرتا ہے میں یا کہ تو کون دوسرے کے کپڑوں میں چھپتا ہے میں  
یا کہ تو نے نفاق میں تربیت پائی ہے۔

اے قوم تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو نا کہ وہ تم کو کچھ  
دیدے۔ اور دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے تاکہ  
وہ کچھ اُن کو دیدے دنیا اُن کے سامنے سر جھکا کے کھڑی  
رہتی ہے تو اپنے نفس کو توحید کی تلوار سے مار دے اور اس کو  
توفیق کی خود پسند دے۔ اور اُس کے لیے مجاہدہ کا نیزہ اور  
تقویٰ کی ڈھال اور یقین کی تلوار ہاتھ میں لے لے پس کبھی نیزہ  
بازی ہو اور کبھی تلوار مار۔ ہمیشہ تو اُس وقت تک ایسا ہی  
کرتا رہ کر تیرا نفس تیرے سامنے پست ہو جائے اور تو اُس  
پر سوار ہو جائے۔ اُس کی لگام ہاتھ میں لیے ہوئے تو اُس  
پر جھگ و دریا کا سفر کرتا پھر سے اُس وقت خدا تیرے سبب  
سے اُن لوگوں پر نحر کرے گا جو کہ اپنے نفسوں کے ساتھ  
باقی ہیں اور نفس سے نجات نہیں پاسکے ہیں۔ جس نے اپنے  
نفس کو پہچانی لیا اور اُس پر غالب ہو گیا نفس اُس کی سواری بن  
جاتا ہے اور اُس کی بار برداری کرتا ہے اور اُس کے حکم  
کی مخالفت نہیں کرتا ہے جب تک کہ تو اپنے نفس کو پہچانے  
گا اور تو اُس کو اُس کی خواہش سے نڈر کرے گا اور اُس کو حق  
اداکرے گا۔ تجھ میں بہتری نہ ہوگی ایسا کرنے کے بعد تجھ  
کو قلب کی طرف قرار ہوگا اور قلب سر کی طرف اور سر حق  
عز وجل کی طرف قرار پکڑے گا۔ تم مجاہدہ کی لکڑی کو اپنے  
نفسوں سے جدا ٹھاؤ۔ تم اُس کی مصیبتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ

تَقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ مَعِيَ بِاللَّيْلِ تَمْشِي فِي  
الْمَوَاضِعِ الْفَرَعَةِ أَنَا يَلَا سَلَامَ وَأَنْتَ يَسْلَامُ  
ثُمَّ تَنْظُرُ مَنْ يَفْرَعُ أَنَا وَأَنْتَ مَنْ يَدْخُلُ تَحْتَ  
نِيَابِ الْآخِرِ أَنَا وَأَنْتَ أَنْتَ تَرْبِّيَتْ فِي الْفِتَانِ  
أَنْتَ تَرْبِّيَتْ فِي الْإِيمَانِ.

يَا قَوْمُ أَنْتُمْ تَعْدُونَ خَلَفَ الدُّنْيَا  
حَتَّى تُعْطِيَكُمْ وَهِيَ تَعْدُو وَاخْلَفَ أَوْلِيَاءُ  
اللَّهِ حَتَّى تُعْطِيَهُمْ تَقِفُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَرَأْسُهَا  
مُطَاطَعِيٌّ رَضِرْبُ نَفْسِكَ يَصْصَا مِرَّةً  
الشَّوْحِيدِ وَالْبَسَ لَهَا خَوْذَةً الشَّوْفِيْقِ  
وَاخْذُلْهَا رُمَحَ الْمَجَاهِدَةِ وَتُرْسَ  
التَّقْوَى وَسَيْفَ الْيَقِينِ فَتَسَارِعْ  
مُطَاعَتَهُ وَآخِرَى مُصَادَبَهُ لَا تَزَالُ  
كَذَلِكَ حَتَّى تَذِلَّ لَكَ وَتَصِيرَ رَاكِبًا  
لَهَا لِبَاحِهَا بِبَيْدِكَ تُسَافِرُ بِهَا بَرًّا  
وَبَحْرًا فَحِينَئِذٍ يَبَاهِي بِكَ رَبُّكَ عَزَّ  
وَجَلَّ ثُمَّ تَقْدَمُ الَّذِينَ يَقَوْمُ نَفْسِهِمْ  
وَلَمْ يَتَخَلَّصُوا مِنْهَا مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ  
وَعَلَبَهَا صَارَتْ رَاكِبَةً لَهُ تَحْمِلُ أَثْقَالَهُ  
وَلَا تَخَالِفُهُ فِي أَمْرِهِ لَا خَيْرَ فِيكَ حَتَّى  
تَعْرِفَ نَفْسَكَ وَتَدْنِعَهَا حَظَهَا وَتُعْطِيَهَا  
حَقَّهَا فَحِينَئِذٍ تَطْبِئُ إِلَى الْقَلْبِ وَيَطْبِئُ  
الْقَلْبُ إِلَى السِّرِّ وَيَطْبِئُ السِّرُّ إِلَى  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَرْفَعُوا عَصَا الْمَجَاهِدَةِ  
عَنْ نَفْسِكُمْ لَا تَفْتَرُوا بَدَا وَاهِيَهَا

لَا تَغْتَرُوا بِمَنَّا وَمِنَ السَّيِّئِ فَاِنَّهُ يَرْيِكُمْ اَنَّهُ  
 نَآئِمٌ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لِّعَرِيسَةٍ يَفْتَرِسُهَا هَذِهِ  
 النَّفْسُ تُظْهِرُ الظَّاهِرِيَّةَ وَالذَّلَّ وَالْتَوَاضِعَ  
 وَالْمُوَافَقَةَ فِي الْخَيْرِ وَهِيَ تُبْطِنُ بِخِلَافِ  
 ذَلِكَ كُنْ عَلَى حَذَرٍ مِمَّا يَكْتُمُ مِنْهَا بَعْدَ  
 ذَلِكَ اَلْعَوْمُ عِنْدَهُمْ شَذَلٌ عَنِ الْخَلْقِ  
 لَكِنْ يُكْمِنُونَ النَّظَرَ اِلَيْهِمْ وَالْفُجُودَ  
 مَعَهُمْ لَا مَرَهُمْ وَنَهْيِهِمْ مَثَلُ الْقَرَمِ مَعَ  
 الْخَلْقِ مَثَلُ قَوْمٍ اَرَادُوا اَنْ يَعْْبُرُوا بَحْرًا  
 وَيَمْضُوا اِلَى مَلِكٍ فَعَرَفَ بَعْضُهُمْ  
 طَرِيقًا فَعَبَرُوا فَكَمًا حَصَلُوا وَعِنْدَهُ  
 رَأَى الْمَلِكُ بَقِيَّةَ الْقَوْمِ يَتَخَبَّطُونَ وَ  
 يَكَادُونَ اَنْ يَعْرِقُوا وَلَمْ يَعْرِفُوا الطَّرِيقَ الَّذِي  
 سَلَكَهَا اِلَّا وَائِلٌ فَاَمَرَ مَنْ وَصَلَ اِلَيْهِ اَنْ  
 يَّعُودُوا اِلَيْهِمْ لِيَعْرِفُوهُمْ الطَّرِيقَ  
 الَّذِي جَاءُوا مِنْهَا فَجَاءُوا فَوْقُوا عَلَى  
 السَّيْرِ وَنَادَوْهُمْ الطَّرِيقُ هَهُنَا  
 فَجَعَلُوا يَدُلُّوهُمْ فَلَمَّا قَامُوا مِنْهُمْ  
 اخَذُوا بِاَيْدِيهِمْ اَصْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى  
 وَقَالَ الَّذِي اَمَّنْ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اِهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ه  
 فَالْعَاقِلُ مِنْكُمْ لَا يَقْرَهُ بِالْذُّنْيَا وَلَا بِالْاَوْلَادِ وَ  
 الْاَهْلِ وَالْاَمْوَالِ وَالْمُؤَكَّدَاتِ وَالْمَلَابِسِ وَ  
 الْمَمَآكِبِ وَالْمَتَآكِبِ كُلُّ هَذَا هَوَسٌ

تم اس کی چال بازی کی نیند سے دھوکہ میں نہ پڑو تم درندوں کی  
 بنادٹی نیند سے قریب میں نہ آؤ پس تحقیق وہ تم پر یہ ظاہر کرتا ہے  
 کہ وہ سو رہا ہے اور حقیقتہً وہ تم پر حملہ کا منظر ہوتا ہے۔ یہ نفس بھلائی  
 میں موافقت اور اطمینان اور انکار اور تواضع کا اظہار کرتا ہے  
 اور باطن میں وہ اس کے خلاف پر ساعی ہوتا ہے۔ تجھے انجام  
 کار پر جو کہ اس سے پورا ہونے والا ہے نظر کر کے اس سے  
 پر خذر رہنا چاہیے۔ اولیاء اللہ مخلوق سے اعراض رکھتے ہیں  
 لیکن اُن کی طرف نظر کرنے اور بیٹھنے کی تکلیف اس لیے  
 اٹھاتے ہیں کہ انھیں امر و نہی کرتے رہیں۔ اولیاء اللہ کی مثل  
 مخلوق کے ساتھ اس قوم کی سی ہے جس نے دریا عبور کر کے  
 ایک بادشاہ کی طرف جانا چاہا۔ اُس مں سے بعض راہ جانتے  
 تھے پس وہ عبور کر گئے جب وہ بادشاہ کے دربار پہنچے بادشاہ  
 نے بقیہ قوم کو دیکھا کہ حالت اضطراب میں ڈوبنے کے قریب ہے  
 اور وہ راہ جس پر پہلی جماعت چل کر آئی تھی نہیں جانتے ہیں اس لیے  
 بادشاہ نے اُن پہنچ جانے والوں کو اُن کی طرف لوٹنے کا حکم  
 کیا تاکہ جا کر اُن کو وہ راستہ جس سے یہ آئے ہیں بتا دیں پس یہ  
 لوگ واپس آئے اور شاہراہ پر آکر کھڑے ہو کر ان راہ بھولے  
 ہوؤں کو امدادی کر رہا یہ ہے اُن کی رہنمائی شروع کی۔ پس جب  
 وہ لوگ ان سے قریب ہو گئے تو ان رہبروں نے اُن کے  
 ہاتھ پکڑ لیے اس کی اسل ارشاد الہی ہے اور ایمان لانے والے  
 نے کہا۔

اے میری قوم والو میرا اتباع کرو میں تم کو ہدایت کا  
 راستہ بتاؤں گا پس تم میں سے عاقل وہ شخص ہے جو کہ سبب  
 دنیا اور اولاد اور اہل و مال اور کھانے پینے اور سواروں  
 اور عورتوں کے خوش نہ ہو یہ سب بوالہوسی ہے۔ مسلمان

فَرَحَ الْمُؤْمِنِينَ بِقُوَّةِ إِيْمَانِهِ وَيَتَيَّنُهُ  
وَوُضُوءِ قَلْبِهِ إِلَى بَابِ قَرَابِ رَّبِّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ أَلَا إِنَّ مَلُوكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
هُمْ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَالِمُونَ  
لَهُ.

يَا غُلَامَ مَتَى يَصِفُوكَ قَلْبُكَ وَ  
يَصِفُوكَ سِرُّكَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ بِالْخَلْقِ  
وَكَيْفَ تَقْدِمُ وَأَنْتَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تُعَيِّنُ  
عَلَى مَنْ تَضَعِي إِلَيْهِ وَتَشْكُوا إِلَيْهِ  
وَتَكْذِبِي مِنْهُ كَيْفَ يَصِفُوكَ قَلْبُكَ  
وَهُوَ فَارِعٌ مِنَ التَّوْحِيدِ مَا فِيهِ  
ذَرَّةٌ مِنْهُ التَّوْحِيدُ نُورٌ وَالتَّشْرِكُ  
بِالْخَلْقِ ظُلُمَاتٌ كَيْفَ تَقْدِمُ وَقَلْبُكَ  
فَارِعٌ مِنَ التَّقْوَى مَا فِيهِ ذَرَّةٌ أَنْتَ  
مَحْجُوبٌ عَنِ الْخَالِقِ بِالْخَلْقِ مَحْجُوبٌ  
بِالْأَسْبَابِ عَنِ الْمَسَبِّبِ مَحْجُوبٌ  
بِالتَّوَكُّلِ عَلَى الْخَلْقِ وَالثَّقَلِ بِهِمْ  
أَنْتَ دَعَايَ مُجَرَّدَةٌ بَاقَةٌ بِقَلْبِ مَا  
تُعْطَى بِالدَّعَايِ بِلَا بَيِّنَةٍ هَذَا الْأَمْرُ  
إِنَّمَا يَصِحُّ بِوَجْهَيْنِ ائْتِنِ الْآوَلُ هُوَ  
الْمُجَاهِدَةُ وَالْمُكَابَدَةُ وَحَمْلُ الْأَشَقِّ  
وَالْأُتْعَبِ وَهُوَ الْغَالِبُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ  
الصَّالِحِينَ وَالثَّانِي مُوَهِّبَةٌ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ  
وَهُوَ نَادِرٌ لِأَحَادِ الْخَلْقِ يَهْبُ لَوْ أَحَدٌ  
مَعْرِفَةً وَالْمَحَبَّةَ لَهُ يَأْخُذُكَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ

کی خوشی اُس کی قوت ایمانی و قوت یقینی میں اور اس کے قلب  
کی آستانہ الہی کے دروازہ سے نزدیک ہو جانے میں ہے  
خبردار ہو جاؤ کہ دنیا و آخرت کے بادشاہ عارت بالند اور  
وہ لوگ ہیں جو خوشنودی الہی کے لیے عمل کرنے والے  
ہیں۔

اے غلام تیرا قلب اور تیرا باطن کب صاف ہو گا تو  
تو خلق کے ساتھ مشرک ہے۔ تجھے کیسے فلاح مل سکتی ہے  
حالانکہ تو ہرات میں جس کی طرف تو جاتا ہے اُس سے مدد  
مانگتا ہے اور اُس کی طرف جا کر شکایت کرتا ہے اور اُس سے  
گداگری کرتا ہے۔ تیرا قلب ایسی حالت میں کہ توحید سے  
بالکل خالی ہے اُس میں ایک ذرہ بھی توحید کا نہیں ہے کیسے  
صاف ہو سکتا ہے توحید نور ہے اور خلق کے ساتھ مشرک  
کننا تاریکی و اندھیرا ہے جب کہ تیرا دل تقویٰ سے خالی ہو  
گا۔ اور اُس میں

ایک ذرہ بھی تقویٰ سے کا نہ ہو گا کیسے فلاح پائے گا۔ تو خالق سے  
خلق کے ساتھ ذرہ کہ حجاب میں پڑا ہوا ہے۔ تو سبب پیدا  
کرنے والے سے سببوں میں الجھ کر حجاب میں پڑا ہوا ہے  
تو مخلوق پر توکل و بھروسہ کر کے حجاب میں پڑا ہوا ہے۔ محض  
دعویٰ سے کیا حاصل ہو گا۔ معرفت الہی صرف دو ہی صورتوں  
سے حاصل ہو سکتی ہے اول مجاہدہ اور ریاضت اور مشقتوں  
اور مصیبتوں کے برداشت کرنے سے یہ بات صالحین میں  
غالب و مشہور ہے دوسرے بغیر مشقت برداشت کئے محض  
عطا الہی سے وہ بہت نادر ہے خلق میں سے ایک دو  
کو ہی یہ عطا ملتی ہے۔ رب تعالیٰ جس کو اپنی معرفت و محبت  
عطا فرماتا ہے اُس کے اہل و عیال اور اُس کے

کام کاج سے جدا کر دیتا ہے اور اُس میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیتا ہے اُس کو ڈاکو پن سے جدا کر کے عبادتِ خدادی کی طرف چڑھا دیتا ہے اور اُس کے تلب سے مخلوق کو نکال دیتا ہے اور اُس کی طرف اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو یہودہ گوئی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کو ادنیٰ چیز بھی کافی ہو جاتی ہے وہ اُس کو فہم و دانش اور غلبہ عزت عطا فرما دیتا ہے ہر وہ چیز جس کو برد بختا اور مستجاب ہے اُس سے نصیحت پکڑتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو کہ اُس کو خدا کی طرف مقرب بنانا چاہا جائے۔ خدا کے لئے ہدایت و عنایت و کفایت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے جدا نہ ہو۔ اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ حق عزوجل نے یوسف علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے۔ كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ الْاِیْسَ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم یوسف سے بُرائی اور گناہوں کو دور رکھیں بر تحقیق وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اسی طرح خدا اس مقرب بندہ سے بُرائی اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور توفیق کو اُس کا خدمت گار بنا دیتا ہے اللہ سے محبت رکھنے والا اور اُس کو پہچاننے والا خلق کو ہر طرح اور ہر طریقہ سے نصیحت کیا کرتا ہے کبھی اس حیثیت سے اُن کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں اور کبھی اس حیثیت سے کہ وہ نہیں جانتے۔

اے غلام تو اپنے ضعف ایمان کے وقت خاص اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو۔ اسی حالت میں تیرے اوپر تیرے اہل اور پڑوسی اور پڑوسن اور تیرے شہر اور تیرے ملک والوں کی اصلاح کا حق نہیں۔ پس جب میرا ایمان قوت پکڑے تو پہلے اپنے اہل و اولاد کی طرف اور اُن کی اصلاح کو

وَصَنِيعَتِهِ وَيُطَهِّرُ فِيهِ قَدَرَتَهُ يَأْخُذُهُ  
مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَيَرْجِعْهُ إِلَى الصُّومَعَةِ  
وَيُخْرِجُ الْخَلْقَ مِنْ قَلْبِهِ وَيَفْتَحُ إِلَيْهِ  
بَابَ قُرْبِهِ وَيَأْخُذُكَ مِنَ الْهَدْيَانِ حَقِّ  
يَكْفِيهِ أَذْنِي شَيْءٍ يَرْنُفُهُ فَهَمًّا وَ  
حُكْمًا وَعِزًّا يَصِيرُ كُلُّ مَا يَرَا لَا يَتَّعِظُ  
بِهِ كُلُّ مَا يَسْمَعُهُ يَتَّعِظُ بِهِ وَلَا  
يَعْمَلُ إِلَّا بِمَا يُقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ يَأْمُرُ  
الْهَدَايَةَ وَالْعِنَايَةَ وَالْكَفَايَةَ لَا  
يَنْقُطِعُونَ عَنْهُ يَصِيرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ فِي حَقِّ يُوسُفَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ  
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا  
الْمُخْلِصِينَ يُزَيِّرُهُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ  
وَيَجْعَلُ التَّوْفِيقَ فِي خِدْمَتِهِ الْمُحِبُّ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَارِفُ بِهِ يَعِظُ  
الْخَلْقَ بِكُلِّ فَنٍّ يَعِظُهُمْ تَأَمَّرَ

يَعِظُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُدْرِكُونَ وَمِنْ  
حَيْثُ لَا يُدْرِكُونَ

يَا غُلَامُ عَلَيْكَ بِخَوَاصِّ نَفْسِكَ عِنْدَ  
ضَعْفِ إِيْمَانِكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِكَ  
وَجَارِكَ وَجَارَتِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ  
وَأَقْلِيمِكَ فَإِذَا قَوِيَ إِيْمَانُكَ  
فَابْرَأْ إِلَى أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ ثُمَّ رَأَى

الْخَلْقِ لَا تَبْرُرُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَذَرَعَ  
 بِدِرْعِ التَّقْوَىٰ وَتَتَوَكَّلَ عَلَىٰ رَأْسِ قَلْبِكَ  
 خَوْدَةَ الْإِيمَانِ وَبَيْدَكَ سَيْفُ التَّوْحِيدِ  
 وَفِي جَمْعَيْنِكَ سِرَّهُمَا إِبَاحَةُ الدُّعَاءِ وَ  
 تَرْكُ حِصَانِ التَّوْفِيقِ وَتَعَلُّمُ الْكُرْوَةِ  
 الْفَرِّ وَالصَّغَرِ وَالطَّعَانِ ثُمَّ تَحْمِلُ عَلَى  
 أَعْدَاءِ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا فَحِينَئِذٍ تَجِيئُكَ  
 النَّصْرَةُ وَالْمُعَوْنَةُ مِنْ جِهَاتِكَ السَّيِّئَةِ  
 وَتَأْخُذُ الْخَلْقُ مِنْ أَيْدِي الشَّيْطَانِ وَ  
 تَحْمِلُهُمْ إِلَىٰ بَابِ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا تَأْمُرُهُمْ  
 بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُحَذِّرُهُمْ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ  
 النَّارِ كَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ عَرَفْتَ الْجَنَّةَ  
 وَالتَّائِبِينَ عَنْ أَعْمَالِهِمَا مَنْ وَصَلَ إِلَىٰ هَذَا الْمَقَامِ  
 كَشِفَتْ الْحُجُبُ عَنْ عَيْنِ قَلْبِهِ كَيْفَ انْفَتَحَتْ بَابُهَا  
 السَّيِّئَةِ أَخْرَقَ نَظْرُهُ وَلَمْ يَحْجُبْ عَنْهُ يَرْفَعُ رَأْسَ  
 قَلْبِهِ فَيَرَى الْعَرْشَ وَالسَّمَوَاتِ وَإِذَا أَطْرَاقَ يَرَى  
 أَطْبَاقَ الْأَرْضِ وَمَسَاكِينَهَا مِنَ الْجِنِّ كُلُّ هَذَا  
 سَبِيلُهُ إِلَىٰ إِيمَانٍ وَالْمَعْرِفَةُ لِلْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا مَعَ الْعِلْمِ  
 بِالْحُكْمِ إِذَا وَصَلْتَ إِلَىٰ هَذَا الْمَقَامِ فَادْعُ  
 الْخَلْقَ إِلَىٰ بَابِ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا وَقَبْلَ هَذَا  
 لَا يَجِيئُ مِنْكَ شَيْءٌ إِذَا دَعَوْتَ الْخَلْقَ وَلَسْتَ  
 عَلَىٰ بَابِ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا كَانَ دُعَاؤُكَ  
 لَهُمْ وَبَالَكَ عَلَيْكَ كُلُّمَا تَحَرَّكَتْ بَرَكَتٌ  
 كُلُّمَا طَلَبْتَ الرِّفْعَةَ انْقَضَتْ مَا عِنْدَكَ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ خَبَرٌ أَنْتَ لَقَلَقَهُ أَنْتَ

بعدہ دوسری مخلوق کی طرف نکل تو ان کی طرف بغیر اس کے کہ  
 تو تقویٰ کے زیرہ پن لے اور اپنے قلب کے سر پر ایمان کی  
 خود اور اپنے ہاتھوں میں توحید کی تلوار اور اپنے ترکش میں توحید  
 دھار کے تیر لے اور توفیق کے تیز رو گھوڑے پر سوار ہو جائے  
 اور گردن اور تلوار و نیزہ کا مارنا سیکھ لے نہ نکل بعدہ خدا کے دشمنوں  
 پر حملہ کر پس اس وقت میں نصرت و مدد الہی تیرے لیے چھ جانوں  
 سے آئے گی تو مخلوق کو شیطان کے ہاتھوں سے چھڑا لے گا  
 اور ان کو اکتانہ الہی کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ تو ان کو بہت  
 دالوں کے عمل کا حکم دے گا اور دوزخ و اولوں کے عمل سے  
 ڈرائے گا۔ تیری یہ حالت کہوں کہ نہ لوگ حالانکہ تو جنت و  
 دوزخ دونوں کو پہچان چکا ہے اور ان دونوں کے عملوں کو  
 تو نے جان لیا ہے جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی  
 قلب کی آنکھ سے پردے دور کر دیئے جاتے ہیں یہ چھوٹوں  
 جہتوں میں سے جدھر بھی توجہ کرتا ہے اپنی نظر کو اس کے پار پہنچا  
 دیتا ہے اور کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی ہے اپنے  
 قلب کے سر کو اٹھا کر عرش و آسمان سب کو دیکھ لیتا ہے اور  
 سر کو نیچے جھکا جاتا ہے تمام زمین کے طبقات اور ان کے رہنے والوں  
 جن کو دیکھ لیتا ہے۔ ان سب امور کا سبب ایمان اور معرفت  
 الہی ہے جس کے ساتھ علم و حکمت دونوں ہوں جب تو اس مقام  
 پر پہنچ جائے پس اس وقت مخلوق کو آستانہ الہی کی طرف دعوت  
 دے اس سے پہلے تجھ سے کچھ بھی نہ ہو گا۔ جب تو مخلوق کو  
 ایسی حالت میں دعوت دے گا کہ تو خود حق عزوجل کے دروازہ  
 پر نہ ہو گا تو تیری دعوت تجھ پر وبال ہوگی جب تو حرکت  
 کرے گا کہ جائے گا جب تو بندی پاتا ہے گا پست ہو گا۔  
 تیرے پاس نیک بندوں کی کچھ خبر بھی نہیں ہے تو محض

لِسَانٌ بِلَا حَنَانٍ أَنْتَ ظَاهِرٌ بِلَا بَاطِنٍ جَلَوَةٌ  
بِلَا خَلَوَةٍ جَوْلَةٌ بِلَا صَوْلَةٍ سَيْفُكَ مِنْ  
خَشَبٍ وَسَهْمُكَ مِنْ كِبَرِيَّتِ أَنْتَ جَبَّارٌ  
لَا تَسْجَاعَةٌ لَكَ أَذْنِي سَهْمٍ يَقْتُلُكَ بَقَّةٌ  
تَقِيْمُ عَلَيْكَ قِيَامَتَكَ .

اللَّهُمَّ قَدْ آدَيَانَا وَإِيْمَانَنَا وَأَبَدَانَا  
بِقُرْبِكَ ، وَإِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةٌ وَقَدْ عَذَابُ النَّارِ

زبان دراز اور بلا قلب کے نیلای زبان ہے تو بغیر باطن کا ظاہر اور  
بغیر خلوت کے جلوت اور بغیر قوت کے بہادر بنا ہوا ہے۔  
تیزی تو اور کڑھی کی ہے اور تیرا تیرا کن حک کا ہے تو بغیر شجاعت  
کے بہادر بنا ہوا ہے۔ تجھے چھوٹا سا تیرا قتل کر دے گا۔ ایک  
چھوٹا سا مچھر تجھ پر قیامت کر دے گا۔

اے اللہ ہم کو اپنا قرب عطا فرما کہ ہمارے دینوں  
اور ایمان اور بدنوں کو مضبوط بنا دے اور ہم کو دنیا و آخرت  
میں نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے بچالے آمین۔



## ملفوظات شریف

اول تو میں کسی کے پاس بیٹھتا اٹھتا نہ تھا پھر اگر بیٹھتا بھی تھا  
تو دو تین اُن احباب کے پاس جو یقین رکھنے والے اور میری  
موافقت رکھنے والے تھے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ  
کیوں کہ ان کی صفوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کی طرف  
دیکھتے ہیں اور اُس کی طرف اپنی توجہ مبذول فرماتے ہیں تو اُس کو  
زندگی عطا فرمادیتے ہیں اگرچہ وہ شخص جس کی طرف ان کی نظر پڑی  
ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ مسلمان ہوتا ہے  
تو اس کا ایمان اور یقین و ثابت قدمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب  
قلب صحیح و درست ہو جاتا ہے تو نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے جب  
قلب صحیح ہوتا ہے پس وہ حق عزوجل سے نزدیک ہو جاتا ہے  
اور جب وہ کسی پر نظر ڈالتا ہے تو نگاہِ قرب و معرفت سے نظر  
ڈالتا ہے اس کی نظر منجانب اللہ ہوتی ہے اور اُس کا قرب اُس

مَا كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ أَحَدٍ ثُمَّ إِنْ  
قَعَدْتُ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ  
مِنَ الْمُؤَقِنِينَ الْمُوَافِقِينَ إِلَى أَصْحَابِ  
الْقَوْمِ فَإِنَّ مِنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا  
نَظَرُوا إِلَى شَخْصٍ وَجَعَلُوا هِمَّتَهُمْ إِلَيْهِ  
أَحْيَوْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ  
يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا وَإِنْ  
كَانَ مُسْلِمًا إِذَا دَرَأِمَاكَ وَ يَفِيْنَا وَ  
تَغَبَّنَا إِذَا صَحَّ الْقَلْبُ صَحَّ النَّظَرُ إِذَا صَحَّ  
الْقَلْبُ فَقَدْ قَرَّبَ مِنَ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ وَإِذَا  
نَظَرَ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْمَعْرِفَةِ يَصِيرُ نَظْرُهُ  
مِنَ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَّ وَتَصِيرُ الْقُرْبُ

سَحَابًا فِي قَلْبِهِ وَالنَّظَرُ بَرْقَةً وَالْوَعْدُ  
مَطَرًا يَعْبُرُ لِسَانَهُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ يَصِيرُ  
لِسَانُهُ قَلَمًا يَسْتَمِدُّ مِنْ دَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ  
وَبَحْرِ الْعِلْمِ يَصِيرُ كَلَامُهُ نَوْراً وَحِكْمُهُ  
وَنَظَرُهُ بَرْقٌ مَا فِي قَلْبِهِ إِلَّا هُمْكَ يَظْهَرُ  
عَنْ أَصْلِ قِيَمَتِي مِنْ جَانِبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَنْ تَحَقَّقَ فِي امْتِنَالِ الْإِمَامِ وَالْإِنْتِهَاءِ مِنَ التَّوَاهِي وَالْإِدْرَاكِ لِلرَّسُولِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إِنْ بَقِيَتْ فِيهِ بَقَايَا  
فِيهِمْ عَلَى وَجْهِهِ فِي طَلَبِ الْكَامِلِ  
الرَّسُولِ الْأَصْلِ حَتَّى تَذْهَبَ بَقَايَا  
وَيَزِيدَ عِلْمُهُ وَقُرْبُهُ الصِّدْقُ فِي  
طَلَبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ شَرَكَةُ الْأَعْمَالِ  
الصَّالِحَةِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مَا صَلَّاهُ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرِيكٌ  
الْعَمَلُ الصَّالِحُ يُوقِعُكَ عَلَى جَادَةِ  
مُرَادِهِ مِنْكَ فَتَسِيرُ فِيهَا لَا يَبِينُ وَلَا  
نِسْأَلًا بِحُطُوبِ قَلْبِكَ قَسِيرًا وَمَعْنَاكَ  
تَنْفَرِدُ عَنِ الْكُلِّ لَامَةً الْخَلْقِ وَلَا مَعَ الدُّنْيَا  
وَلَا مَعَ الْآخِرَةِ تَصِيرُ مِنَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ وَتَقُولُ كَمَا قَالَ مُوسَى وَخَلَّتْ  
إِلَيْكَ رَأْيَ لِرَضَايَ مَنْ طَلَبَ رِضَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَوَجْهَهُ صَامًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ فِي حَقِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ  
حَرَّمَ مَعَالِيهِ الْمَاضِ مِنْ قَبْلِ يُحَرِّمُ

کے قلب میں ایک بادل بن جاتا ہے اور اُس کی نظر بجلی اور اُس کا  
وعظ بارش جو کچھ اُس کے دل میں ہوتا ہے وہ اُس کو اپنی زبان  
سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی زبان قلم بن جاتی ہے جو کہ معرفت  
کی دوات اور علم کے سمندر سے بیاہی لیتا ہے اور لکھتا  
ہے۔ اُس کا وعظ نور و حکمت بن جاتا ہے اور اس کی نظر قلبی،  
حالت کی بجلی۔ یہ دونوں اللہ عز و جل کی جانب سے ایک مضبوط  
جرٹ سے ظاہر ہوتے ہیں جو محکوم کے بچا لانے اور نعمات  
سے باز رہنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
راضی کر لینے میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اُس کو یہ معرفت و قرب  
حاصل ہوتا ہے اگر اُس میں کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے پس وہ حکم دینے  
والے کی طلب میں جو کہ اصل بھیجنے والا ہے چہرہ کے بل پر حیران  
و سرسیمہ پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اُس کی خرابیاں و نقصان دور  
ہو جاتے ہیں اور اس کا علم و قرب بڑھ جاتا ہے۔ طلب حق میں  
سچائی اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتی ہے عمل صالحہ وہ ہے جو کہ اللہ عز و جل  
کے لیے ہو اور اُس میں کوئی شریک نہ ہو۔ عمل صالح تجھ کو تیری مژدہ  
کی شاہراہ پر لاکر ڈال دے گا۔ اُس میں تو دوا میں بائیں سیر نہ  
کمرے کا بلکہ تو اپنے قلب و سر معنی کے قدموں سے مخلوق،  
اور دنیا و آخرت سب سے علیحدہ ہو کر اُس راستہ میں سیر کرے  
گا۔ اور اُس جماعت سے ہو جائے گا جو کہ محض ذات الہی کا  
ارادہ کرنے والی ہے۔ اور تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے  
کے گا کہ اے رب میں نے تیری طلب میں اس لیے جلدی کی ہے تاکہ  
تو مجھ سے راضی ہو جائے جو کوئی رضا الہی اور اس کی ذات الہی  
کا طالب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے  
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام  
پر پہلے ہی سے دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھیں۔ ایسے ہی

عَلَى قَلْبٍ هَذَا الْمُحِبِّ الصَّادِقِ مُرَضِعٌ  
كُلِّ مُحَدِّثٍ مَخْلُوقٍ يَكُونُ بَعْدَ  
أَنْ لَمْ يَكُنْ يُنْصَبُ لَكِنْ جَمِيعُ  
الْمَاضِيَةِ فِي حَقِّهِ لِلْغَيْرَةِ إِلَّا لِهَيْبَةِ  
أُنْصَبَ الْجَمْعُ أَرْزِيلُ الْكُلِّ عَنْ  
قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَنْقَبِذَ شَيْءٌ عَنْ  
مَحْبُوبِهِ مَا يَزَالُ هَذَا الْمُؤْمِنُ  
الْعَارِفُ يُرْضِي الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَمَلِ مَعَهُ حَتَّى  
يَسْتَأْذِنَ لِقَائِهِ عَلَى سَرِّهِ عَمَّا وَجَلَ  
يَكُونُ كَالْعَلَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا  
طَلَتْ خِدْمَتُهُ قَالَ لَهُ يَا أَسْتَاذُ  
أَرَأَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ أَشْغَلْنِي مَعَهُ  
أَوْ قَفْنِي مَوْضِعًا أَرَأَاكَ أَتْرُكُ  
يَكُونُ فِي خَلْقَةِ بَابِ قُرْبِهِ  
فَتَأْخُذُ مَعَهُ وَتَقْرِبُهُ مِنْ  
الْبَابِ قِيلَ لَهُ مَا مَعَكَ

اس محب صادق کے قلب پر ہر نو پیدا مخلوق کا دودھ یعنی اُس  
سے تربیت پانا حرام کر دیا جاتا ہے۔ وہ نئی کے بعدستی میں اُ  
جاتا ہے۔ تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ اُس کے  
حتیٰ میں غیرت الہی کی وجہ سے خشک کر دیئے جاتے ہیں۔ اور  
سب چیزیں اُس کے قلب سے زائل کوئی جاتی ہیں (وہ صرف بید  
قدرت سے تربیت پاتا ہے) تاکہ وہ کسی غیر کے ساتھ اپنے  
محبوب کے سوا مقید نہ ہو جائے۔ یہ مومن عارف ہمیشہ ہمیشہ  
اپنے عمل صالح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت  
میں رہ کر آپ کو راضی کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اُس کے  
قلب کے لیے اپنے رب عزوجل سے حضور کی اجازت طلب  
فرماتے ہیں یہ عارف حضور کی خدمت میں مثل غلام کے کہ خدمت  
باندھے حاضر رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی خدمت کے بعد آپ سے  
عرض کرتا ہے کہ اے میرے استاد مجھے بادشاہ کا دروازہ دکھا  
دیجئے اُسی کے ساتھ مجھے شغل کر دیجئے ایسے موقع پر مجھے بٹھا دیجئے  
کہیں وہاں سے اُس کو دیکھ لوں۔ میرا ہاتھ اس کے قرب کے  
دروازہ کی زنجیریں لگا دیجئے پس حضور اُس کو اپنی معیت میں لے کر  
استاذ الہی کے دروازہ کے قریب لے جاتے ہیں اور اُٹھا الہی  
ہوتا ہے۔

اے میرے محبوب اے سفیر اے رہنما اے معلم و استاد  
تیرے ساتھ کون ہے آپ جواب دیتے ہیں۔ اے رب تو  
تو جانتا ہے۔ ایک ناتواں و کمزور مستی ہے جس کو میں نے پالا  
اور تربیت کیا ہے اور اُس کو اس آستانہ کی خدمت کے لیے  
منتخب کر لیا ہے۔ پھر آپ اس عارف کے قلب سے ارشاد  
فرماتے ہیں کہ اب تو ہے اور تیرا رب جیسا کہ جبلی علیہ السلام نے  
حضور سے شب معراج میں جب کہ حضور کے ساتھ آسمان پر

يَا سَفِيرًا يَا دَلِيلًا يَا مُعَلِّمًا  
فَيَقُولُ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَرِيحُ  
فَقَدْ رَأَيْتُهُ وَمَا ضَيْقُهُ لِيَخْدُمَهُ  
هَذَا الْبَابُ ثُمَّ يَقُولُ لِقَائِهِ  
هَآ أَنْتَ وَمَا بَلَكَ كَمَا قَالَ  
جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا  
لَمَّا رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ

چڑھے اور حضور کو مقامِ اُنی فتدے الٹک پہنچا دیا عرض کیا نخاب یہاں  
آپ ہیں اور آپ کا رب۔

اے غلام تو اپنی آرزو کو کوتاہ کر اور اپنی حرص کو کم کر رخصت  
ہونے والے کی سہ نماز پڑھا کر یعنی آخری نماز سمجھ کر کسی مومن کو  
بغیر اس کے سونا سنرا وار نہیں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اُس  
کے سر کے نیچے نہ رکھی ہو۔ پس اگر اُس کو حق عز وجل بحالت  
عافیت بیدار کر دے۔ مبارک ہو۔ ورنہ اُس کے گھر والے  
وصیت لکھی ہوئی تو پالیں گے جس سے اُس کی موت کے بعد نفع  
لیں گے اور اُس پر دمار رحمت کریں گے۔

اے غلام تیرا کھانا بیٹا تیرا اپنے اہل و عیال میں رہنا سہنا  
اور تیرا اپنے دوستوں سے ملنا ملنا مثل رخصت ہونے والے  
کے ہونا چاہیے جس کی تمام باتیں غیر کے قبضہ میں ہوں اُس کا حال  
کیوں ایسا نہ ہو جنہاں نیست کو مخلوق میں سے اکا دو کا ہی ایسے  
لوگ ہیں کہ جو کچھ اُن کے واسطے پردہ غیب میں ہوتا ہے اور جو کچھ  
اُن سے سرزد ہو گا اور یہ کب مریں گے یہ ان سب امور کو جانتے  
ہیں اور وہ ان کے قلب کے خزانہ میں مخفی ہوتے ہیں وہ ان تمام  
امور کو ظاہر ظہور اس طور سے دیکھتے ہیں جیسے کہ تم اس آفتاب  
کو دیکھتے ہو ان کی زبانیں ان کا اظہار نہیں کرتی ہیں۔ اول اس کی  
اطلاعات باطن کو ہوتی ہے بعدہ باطن قلب کو پھر قلب نفس مطمئنہ  
کو اس پر مطلع کر دیتا ہے اور وہ اُس سے پوشیدہ رکھنے کو کہہ دیتا  
ہے۔ نفس اس امر پر مؤدب ہونے اور قلب کی خدمت گزاری  
اور اُس کی معیت میں رہنے کے بعد خبردار ہو اکتاہے۔ اور  
وہ بعد مجاہدوں اور نکالیف برداشت کرنے کے اس کا اہل ہو  
جاتا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پس وہ حق عز وجل کا  
نائب اور زمین میں اُس کا خلیفہ بن جاتا ہے وہ اسرار الہی کا

وَدَنَا هُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَا أَنْتَ  
وَرَبُّكَ ۔

يَا غُلَامُ قَصِّرْ أَمْلَكَ وَقَلِّلْ حِرْصَكَ  
صَلِّ صَلَوةً مُؤَدِّعَةً لَا يَنْبَغِي دِيمُومِينَ أَنْ  
يَنَامَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ نَحْتِ رَأْسِهِ  
فَإِنْ يَقْظُهُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَافِيَةٍ  
كَانَ مُبَارَكًا وَإِلَّا فَيَجِدُ أَهْلَهُ وَصِيَّتَهُ  
يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِ

يَكُونُ أَكْلُكَ أَكْلَ مُؤَدِّعٍ وَوُجُودُكَ كَيِّينَ  
أَهْلِكَ وَوُجُودُ مُؤَدِّعٍ وَلِقَاءُ وَلَوْ لِحْوَائِكَ  
لِقَاءُ مُؤَدِّعٍ كَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ مَنْ  
أَمَرَكَ فِي يَدٍ غَيْرِهِ إِنَّمَا أَحَادُ أَفْرَادٍ  
مِّنَ الْخَلْقِ يَطْلِعُونَ عَلَى مَا يَكُونُ لَهُمْ  
وَمِنْهُمْ وَآمَى وَقَبْتَ يَمُوتُونَ وَهُوَ  
مَحْزُونٌ فِي قُلُوبِهِمْ يَرَوْنَ ذَلِكَ عَيْنًا  
كَمَا تَرَوْنَ أَنْتُمْ هَذِهِ الشَّمْسُ لَا تَغْبِرُ  
عَنْ السَّنَةِ أَوَّلُ مَا يَطْلُعُ عَلَى ذَلِكَ  
السِّرِّ وَيَطْلُعُ السِّرُّ الْقَلْبُ وَيَطْلُعُ الْقَلْبُ  
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ وَيَسْتَكْتُمُ ذَلِكَ  
تَطْلُعُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ تَأْدِيرِهَا  
وَحَدْمَتِهَا لِلْقَلْبِ وَقِيَامِهَا مَعَهُ  
تَوْهِيلُ لِيَذَلِكَ بَعْدَ الْمَجَاهِدَاتِ  
وَالْمُكَابَلَاتِ مَنْ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ هُوَ  
نَائِبُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ وَخَلِيفَتُهُ فِيهَا هُوَ

دروازہ ہوتا ہے جن کے پاس اُن قلیوں کے خزانوں کی کنجیاں  
جو کہ حق عزوجل کے خزانہ میں آجاتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو  
مخلوق کی سمجھوں سے ورے ہے عارف باللہ میں تمام وہ  
باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں پس وہ خدا کے پہاڑ کا ایک ذرہ اور  
اُس کے دریا کا ایک قطرہ اور اُس کے آفتاب کا ایک چراغ،  
ہوتی ہیں۔

اے خدا میں ان اسرار کے متعلق کلام کرنے سے  
معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف عذر پیش کرتا ہوں اور تو  
جانتا ہے کہ میں مغلوب الیٰکھذ پیش کرتا ہوں بعض اہل اللہ نے فرمایا  
ہے جس امر سے تجھے عذر خواہی کرنا پڑے اُس سے اپنے  
کو بچانا چاہیے۔ لیکن میں تو جب اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں تو  
میں تم سے غائب ہو جاتا ہوں اور میرے قلب کے روبرو  
وہ باقی ہی نہیں رہتا جس سے کہ میں عذر چاہوں اور جس کے  
سبب سے تم پر کلام کرنے سے غیرت کر دوں میں تمہارے  
پاس سے ایک مرتبہ بھاگا اور تمہیں میں پھر اُڑا۔ میں نے عزم  
بالجزم کر لیا تھا کہ ہر رات نئی جگہ گزاروں اور ایک شہر سے دوسرے  
شہر کی طرف اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف سیر  
کرتا پھر میں اور حالت مسافرت میں پوشیدہ رہوں یہاں تک کہ  
موت آجائے۔ یہ تو میرا ارادہ تھا اور اللہ عزوجل کا ارادہ اس  
کے برخلاف تھا جو کہ ہوا پس میں جس سے بھاگا تھا وہیں اُڑا یہ  
قلب جب صحیح ہو جاتا ہے اور اُس کے قدم آستانہ الہی پر چمکتے  
ہیں تو وہ توحید کے میدان اور اُس کے جنگوں اور دریاؤں میں  
چاہڑتا ہے کبھی اُس کا سر انجام اُس کے کلام سے ہوتا ہے  
اور کبھی اس عارف کی ہمت سے اور کبھی اُس کی توجہ سے اللہ  
عزوجل کا فعل بن جاتا ہے اور یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ فنا ہو

بَابُ الْإِسْرَارِ عِنْدَكَ مَعَاتِيْعُ خَزَائِنِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا شَيْءٌ مِّنْ سَرَّاءِ  
مَعْقُولِ الْخَلْقِ جَمِيعُ مَا يَظْهَرُ فِيهِ فَهُوَ  
ذَرَّةٌ مِّنْ جَبَلِهِ وَقَطْرَةٌ مِّنْ بَحْرِهِ وَ  
مُصْبَاحٌ مِّنْ شَمْسِهِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْتَذِرُ اِلَیْكَ  
مِنَ الْكَلَامِ فِيْ هَذِهِ الْاَسْرَارِ وَ اَنْتَ  
تَعْلَمُ اِنِّیْ مُغْلُوْبٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ  
اَيَّاكَ وَ مَا يُعْتَذِرُ مِنْهُ وَلَیْكِیْ اِذَا صَعِدْتُ  
اِلٰی هَذَا الْكُرْسِیِّ اَغِیْبْ عَنْكَ وَ لَا یَبْقِیْ  
یَحْذَرُ اَعْقَلِیْ مَنْ اَعْتَذِرُ اِلَیْهِ وَ اَتَحْفَظُ  
مِنْهُ مِنَ الْكَلَامِ عَلَیْكَ هَآبِتٌ مِنْكُمْ مَّرَّةً  
وَ فِیْكُمْ وَ قَعْتُ عَزَمْتُ اِنِّیْ اَبِیْتُ كُلَّ  
لَیْلَةٍ فِیْ مَوْضِعٍ وَ اَسْبِرُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰی بَلَدٍ  
وَ مِنْ قَرْیَةٍ اِلٰی قَرْیَةٍ وَ اَكُوْنُ مُتَغَرِّبًا  
مُّتَحَقِّقًا اِلٰی اَنْ اَمُوْتُ هَذَا مَا اَرَادْتُ  
وَ اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخِلَافِهِ فَوَقَعْتُ  
فِیْ وَ سَطِ مَا هَآبِتٌ مِنْهُ هَذَا الْقَلْبُ  
اِذَا صَحَّ وَ ثَبَتَ اَقْدَامُهُ عَلٰی  
بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ قَعَّ فِیْ تِیْهِ  
التَّكْوِیْنِ وَ فِیْ اَوْ دِیْتِهِ وَ فِیْ بَحْرِ  
یَكُوْنُ تَارَةً بِكَلَامِهِ وَ تَارَةً  
بِهَمَّتِهِ وَ تَارَةً بِنَظَرِهِ یَصِیْرُ فِعْلَ  
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ یَنْعَزِلُ هُوَ یَفْعَلُ

وَهُوَ يَتَى الْقَلِيلُ مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِذَا  
وَالْأَكْثَرُ مِنْكُمْ مَنْ يُكَذِّبُ بِهِ الْإِيمَانُ  
بِهَذَا وَالْعَمَلُ بِهِ نَهَايَهُ مَا يَجْحَدُ  
أَحْوَالِ الصَّالِحِينَ الْأَمَنَاتُ دَجَالُ رَاكِبٍ  
لَهُوَ هَذَا الْأَمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِعْتِقَادِ  
الصَّحِيحِ ثُمَّ الْعَمَلُ مَنْ عَمِلَ بِطَاهِرٍ الْحَكِيمِ  
أَوْ مَنَّهُ الْعَمَلُ الْمَعْرِفَةُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَالْعِلْمُ بِهِ يَصِيرُ الْحُكْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
الْخَلْقِ وَالْعِلْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
تَصِيرُ أَعْمَالُهُ الظَّاهِرَةُ ذَرَّةً بِإِلَاضَةِ  
إِلَى أَعْمَالِهِ الْبَاطِنَةِ تَسْكُنُ جَوَارِحُهُ وَ  
قَلْبُهُ لَا يَسْكُنُ عَيْنًا رَأْسَهُ تَنَامُ وَحِينَ  
قَلْبُهُ لَا تَنَامُ يَعْمَلُ قَلْبُهُ يَدُورُ وَهُوَ نَائِمٌ  
حُكْمٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ سَبِيحَةٌ  
يُسَبِّحُ بِهَا فَتَنَامُ ثُمَّ أَتَتْهُ فَرَأَى السَّبِيحَةَ  
تَدُورُ فِي يَدِهِ وَلسَانُهُ يَدُورُ مَرَّةً عَزَّ وَ  
جَلَّ يَوْمَ هَذَا الْقَلْبُ فَيَعْمَلُ وَيَوْمَ مَرَّ هَذَا  
السُّورُ فَيَعْمَلُ أَعْمَالًا بَاطِنَةً وَكَمِهِمْ أَعْمَالُ  
مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ هَ الْأَعْمَالُ  
الظَّاهِرَةُ لِلْعِبَادِ مِنْ حَيْثُ الْجَوَارِحُ وَ  
الْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ لِلْأَحْوَاصِ مِنْ حَيْثُ  
الْقُلُوبُ وَالْأَسْرَارُ سِرُّ السِّرِّ بَيْنَهُمْ  
وَبَيْنَهُ وَقُوَّةٌ عَلَى قَدَمِ الْخَوْفِ مَعَ  
قُدْرِهِمْ يَخَافُونَ تَقْلِيلُ الْأَغْيَا  
فِي تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَالزُّوَالِ عَنِ الْمَقَامِ

جاتا ہے اور وہی وہ باقی رہتا ہے تم میں سے کم لوگ وہ ہیں  
جو اس کی تصدیق کریں گے اکثر تو تکذیب ہی کرنے والے ہیں  
اس کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی مرتبہ ہے۔ صالحین  
اہل اللہ کے حالات کا وہی انکار کرتا ہے جو کمنافق و دجال  
اور اپنی خواہش پر سوار ہوتا ہے یہ امر اعتقاد صحیح زال بعد عمل  
کرنے پر مبنی ہے۔ جو کوئی ظاہر شرع پر عمل کرتا ہے اور اس  
کو معرفت الہی کا وارث بنا دیا کرتا ہے اور اُس سے واقف  
کر دیتا ہے حکم اُس کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے اور علم اُس کے اور  
اُس کے رب کے درمیان میں اُس کے اعمال ظاہری بمقابلہ اعمال باطنی کشل  
ایک ذرہ کے ہو جاتے ہیں۔ اُس کے اعضاء سکون کر لیتے ہیں اور اس کا  
قلب سکون نہیں کرتا اُس کے سر کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور اُس  
کا قلب عمل کرتا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے۔ بعض اہل اللہ  
سے حکایت ہے کہ ان کے ہاتھ تین تیس تھی جس پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ  
اچانک سو گئے پھر جاگے پس تسبیح کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ تین تیس  
رہی ہے اور ان کی زبان۔ رب تعالیٰ کا برابر ذکر کر رہی ہے  
اس کے قلب کو عمل کا حکم دیا جاتا ہے پس عمل کرتا ہے اور  
اس کے باطن کو بھی حکم دیا جاتا ہے پس وہ باطنی عمل کرتا رہتا  
ہے۔ ارشاد الہی ہے اللہ والوں کے لیے سوا اس کے اور  
بھی عمل ہیں جس پر وہ عامل رہتے ہیں۔ ظاہری عمل اعضاء کی  
حیثیت سے عام بندوں کے لیے ہیں اور باطنی عمل قلوب و  
اسرار کی حیثیت سے خاص بندوں کے لیے اندرونی راز و  
نیاز ان کے اور خالق کے درمیان میں ہوتے ہیں یہ جانیں اور  
وہ یہ باوجود اتنے قرب کے یہ خوف کے قدم پر کھڑے  
ہوئے ڈرتے رہتے ہیں خوف کرتے ہیں کہ کہیں شل دوسروں  
کے ان کے حالات متغیر نہ ہو جائیں اور کہیں یہ قرب کے مرتبہ

يَخَافُونَ مَسَّهَ الْقُلُوبِ يَخَافُونَ  
 أَنْ تَمَسَّهُ قُلُوبُهُمْ وَأَنْ تَنْكَيْفَ  
 شَمْسُهُمْ وَآفَتَا رُحْمَهُمْ وَأَنْ تَزِيلَ  
 أَفْئِدَامَهُمْ يَتَعَلَّقُونَ أَبَدًا بِحَلَقَةٍ  
 بَابِ قَرْيَةٍ وَيَتَمَسَّكُونَ بِذَيْلِ حَصْبَةٍ  
 يَتَأَشَدُّونَ رَبَّنَا لَا تَرْيِدْ رَمْذَكَ  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بَلْ تَرْيِدْ الْعَفْوَ  
 وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ تَرْيِدْ بَقَاءَ  
 الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةَ تَصَدَّقْ عَيْنَا  
 بِذَلِكَ فَتَدْتَمَسَّكُنَا بِذَيْلِ رَحْمَتِكَ  
 فَلَا تُخَيِّبْ ظَنَّنَا فِيكَ كَوْنٌ لَنَا ذَلِكَ فَإِنَّكَ  
 إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا قُلْتَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْقَوْمَ فِي أَقْوَامِهِمْ  
 وَافْعَالِهِمْ اخْذُوا مِنْهُمْ وَتَقَرَّبُوا  
 إِلَيْهِمْ بِأَقْوَابِهِمْ يَا مَوَالِيكُمْ  
 وَالنَّفْسُكُمْ جَمِيعٌ مَا تَعْطُونَهُمْ  
 هُوَ لَكُمْ مَحْفُوظٌ عِنْدَهُمْ عَدَا  
 يُسَلِّمُونَ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ تَتَشَى سَعَةِ  
 الْيَرْزُقِ وَقَدْ سَبَقَ الْعِلْمُ بِضَيْقِهِ  
 فَانْتِ مَعَاذِي مَقْرُوتٌ لَا تَكُ  
 تَطْلُبُ مَا لَمْ يُقَسِّمْ لَكَ كَمْ تَسْعَى  
 فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَتَحْرُصُ وَلَيْسَ لَكَ  
 مِنْهَا إِلَّا مَا قَدْ قَسَّمْ لَكَ الْقَوْمُ عَلَى  
 عَلَى قَدَمِ الطَّاعَةِ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَ  
 أَنْتُمْ عَلَى قَدَمِ الْعَصِيَّةِ وَقُلُوبُكُمْ أَمْتَةٌ

سے ہڑا دیئے جائیں قلوب کے مسخ سے ڈرتے رہتے  
 ہیں کہ کہیں اُن کے قلب مسخ نہ کر دیئے جائیں۔ اور ان کے  
 چاند سورج کہیں گرہن میں نہ آجائیں اور کہیں ان کے پاؤں پھسل  
 نہ جائیں۔ یہ اسی خیال میں ہمیشہ اتنا نہ قرب الہی کی زنجیر میں لٹکے  
 ہوئے اور اس کے دامن رحمت کو پکڑے ہوئے خدا سے  
 عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم تجھ سے  
 دنیا و آخرت کچھ نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم دین میں غفرو عافیت  
 چاہتے ہیں۔ اور ہم ایمان و معرفت کی بقا کے طالب ہیں  
 تو بطور صدقہ یہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم نے تیری رحمت کے  
 دامن کو پکڑ لیا ہے پس تو ہم کو ہمارے اس گمان میں جو کہ ہم نے تیرے ساتھ کر  
 لیا ہے غائب و غاسر نہ کر دینا۔ تو ہماری اس مراد کو کن فرما کر اسے کیونکر جب تو  
 کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو تو اس سے کن فرما دیتا ہے پس وہ ہو جاتا ہے

اے میری قوم والو! تم او بیارائے اُن کی اُن کے اقوال و  
 افعال میں پیروی کرو اُن کی خدمت میں رہو اور اپنی جانوں  
 اور مالوں سے اُن سے نزدیکی حاصل کرو۔ تمام وہ چیزیں  
 جو کہ تم اُن کو دو گے وہ اُن کے پاس تمہارے لیے محفوظ رہیں  
 گی۔ کل وہ تمہاری وہ امانتیں تمہارے سپرد کر دیں گے۔ تو  
 وسعت رزق کی تمنا کرتا ہے حالانکہ علم الہی میں اُس کی تنگی  
 سابق میں مقدّر ہو چکی ہے۔ پس اس لیے تو عقاب و غصہ کیا گیا  
 ہے کیوں کہ تو ایسی چیز کو طلب کرتا ہے جو کہ تیرے مقسوم  
 میں نہیں ہے۔ تو کب تک دنیا کی طلب میں کوشش و حرص  
 کرے گا۔ حالانکہ تجھے قسمت سے زیادہ لکھا ہوا ملنے والا  
 نہیں ہے۔ او بیارائے اللہ قدم طاعت پر کھڑے رہتے ہیں۔  
 اور اُن کے دل غوث زدہ رہتے ہیں اور تم معصیت کے  
 قدم پر کھڑے ہو اور تمہارے دل بالکل بے غوث ہیں۔

هَذَا هُوَ عَيْنُ الْإِغْتِرَا بِإِحْدَى رُفَا أَنْ  
يَأْخُذَ كُمْ عَلَى غَيْرَةِ عَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِسْتَعِينُوا عَلَى  
كُلِّ صَنْعَةٍ بِصَاحِبِ أَهْلِهَا هَذِهِ الْعِبَادَةُ  
صَنَعَةٌ وَصَاحِبُهَا أَهْلُهَا الْمُخْلِصُونَ  
فِي الْأَعْمَالِ الْعَالِمُونَ يَا لِحُكْمِ  
الْعَامِلُونَ بِهِ الْمُؤَدِّعُونَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ  
بِهِ الْهَارِبُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ  
وَأَوْلَادِهِمْ وَجَنَائِبِ مَا سِوَى رَبِّهِمْ  
عَمَّ وَجَلَّ بِأَقْدَامِ قُلُوبِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ  
مَبَايِنِهِمْ فِي الْعَمَلِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَ  
قُلُوبِهِمْ فِي الْبَرَاءَةِ وَالْفَقَارِ لَا يَزَالُونَ  
عَلَى ذَلِكِ حَتَّى تَتَرَبَّى قُلُوبُهُمْ وَتَقْوَى  
أَجْنِحَتُهُمْ وَتَطِيرَ إِلَى السَّمَاءِ عُلَّتْ هِمَّتُهُمْ  
وَطَارَتْ قُلُوبُهُمْ وَصَارَتْ عِنْدَ الْحَقِّ عَزَّةً  
وَجَلَّ فَصَارُوا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
جَلَّ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّهُمْ عِنْدَ الْبَيْنِ الْمُصْطَفَيْنِ  
الْأَحْيَاءِ إِذَا صَارَ الْإِيمَانُ يَقِينًا وَالْبَقِيَّةُ  
مَعْرِفَةً وَالْمَعْرِفَةُ عِلْمًا حَيْثُ نَصَبُوا  
جَهْدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَأْخُذُ مِنْ بَدَنِ الرَّغِيْبَاءِ  
وَتُعِيدُ إِلَى الْفُقَرَاءِ تَصْبِيرُ صَاحِبِ  
الْمُطْبِخِ تَجْرِي الرِّزَاقُ عَلَى يَدِ  
قَلْبِكَ وَسِرِّكَ لَا كَرَامَةَ  
لَكَ

يَا مُنَافِقُ حَتَّى تَكُونَ

یہ سراسر دھوکا ہے۔ تم اس سے ڈرو کہ وہ تم کو کہیں اچانک  
نہ پکڑے تم دھوکہ ہی میں پڑے رہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا ہے تم ہر  
کام میں اس کام کے لائق اور صالح لوگوں سے مدد کیا کرو یہ  
عبادت ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کے لائق و اہل  
وہ ہیں جو کہ عملوں میں اخلاص کرنے والے احکام شریعہ کے  
جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے معرفت الہی  
کے بعد مخلوق کو رخصت کر دینے والے اپنی جانوں اور مالوں  
اور اولاد اور جمیع ماسواہی اللہ سے بھاگنے والے دربار الہی  
میں اپنے قلوب و اسرار کے قدموں سے کھڑے رہتے  
والے ہیں۔ اُن کے جسم مخلوق کے درمیان میں آبادی میں  
ہوتے ہیں اور اُن کے قلوب جنگوں میں میدانوں میں ہوتے  
ہیں۔ اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ اُن  
کے قلوب پرورش پالیتے ہیں اور اُن کے بازو مضبوط ہو  
جاتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑنے لگتے ہیں اُن کی ہمتیں  
بند ہوتی ہیں اور اُن کے قلوب اڑنے لگتے ہیں اور حق عزوجل  
کے نزدیک جا پہنچتے ہیں پس وہ اُس جماعت میں سے  
ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد  
فرمایا ہے وَاَنْهُمْ عِنْدَنَا الْاَكْبَرِ اور تحقیق وہ ہمارے  
نزدیک برگزیدہ و منتخب لوگوں میں سے ہیں جب تیرا بیان  
درجہ یقین پر پہنچ جائے گا تیری معرفت علم بن جائے گی۔  
اس وقت تو خدائی کار گزار ہو جائے گا تو غنی لوگوں کے ہاتھ  
سے لے کر فقیروں کو دیا کرے گا تو صاحبِ مطمع ہو جائے  
گا تیرے قلب و سر کے ہاتھ پر لوگوں کا رزق جاری ہو گا۔  
اے منافق جب تک تو اس حالت پر نہ پہنچے تبھی کوئی

بزرگی نہیں ہو سکتی۔

تجھ پر انفسوس ہے کہ تو نے کسی شیخ متقی سے زیادہ عالم کے ہاتھ پر جو کہ حکم و علم کا جاننے والا، تو تہذیب حاصل نہ کی۔

تجھ پر انفسوس ہے کہ تو ایسی چیز کا خواہشمند ہے جو کہ تجھے ملنے والی نہیں ہے۔ جب کہ دنیا بغیر مشقت و محنت حاصل نہیں ہو سکتی ہے پس وہ چیز جو کہ اللہ عزوجل کے پاس ہے یعنی معرفت و ولایت بغیر ریاضت کیسے ہو سکے گی۔ تجھے اُن لوگوں سے واقفیت کہاں ہے اور کیا نسبت ہے۔ جن کی کثرت عبادت کی اللہ عزوجل نے اپنے کلام حکم قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔ اور ارشاد کیا ہے وہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔

جب کہ اللہ عزوجل نے اپنی عبادت میں اُن کی سچائی کو جان لیا اُن کے لیے ایسی ایسی ہستیاں پیدا کر دیں جو کہ اُن کو خبردار کرتی رہیں اور اُن کے بچھونڈ سے ان کو اٹھاتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل جبریل علیہ السلام سے کہا کرتا ہے کہ اے جبریل تو فلاں کو اٹھا کر کھڑا کر دے اور فلاں کو سٹلا دے۔ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ فلاں کو کھڑا کر دینا کہ وہ اپنی عبادت میں سچا ہے مخلوق سے بھاگنے والا ہے۔ تو اُس سے تکلیف اور نیند کو دفع کر دے اور تو فلاں کو سٹلا دے کیوں کہ وہ نہایت جھوٹا اور منافق اور باطل در باطل اور سراسر لعنت کا مستحق ہے تو اُس پر اوٹھ کر مسلط کر دے تاکہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں میں اُس کا چہرہ نہ دکھلا دوں کہ معنی یہ ہیں کہ اے جبریل فلاں کو اٹھا کر وہ مجھ و طالب ہے اور تکلیف اٹھانا محب و محبت کی شرط ہے۔

كَذَلِكَ -

وَيْلَكَ مَا قَعَدَتْ عَلَى يَدِ شَيْخٍ  
مُتَوَسِّعٍ زَاهِدٍ عَالِمٍ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَعِلْمِهِ -

وَيْلَكَ نُرِيدُ شَيْئًا مَا يَقَعُ بِيَدِكَ  
إِذَا كَانَتْ الدُّنْيَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَعَبٍ  
فَكَيْفَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْنَ أَنْتَ  
مِنَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي  
مُحْكَمِ كِتَابِهِ بِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ فَقَالَ  
كَانُوا أَقْيِلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَ  
يَا لَأَسْعَارَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَمَّا عَلِمَهُمْ  
الْصِّدْقُ فِي عِبَادَتِهِ أَقَامَ لَهُمْ  
مَنْ يُنَبِّئُهُمْ وَيُعَيِّمُهُمْ مِّنْ  
قَدَرِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ يَا جَبْرِيلُ أَقِمْ فَلَانًا وَ  
أَيِّنْ فَلَانًا هَذَا لَهُ وَجْهَانِ أَقِمْ  
فَلَانًا فَإِنَّهُ صَادِقٌ فِي عِبَادَتِهِ  
هَارِبٌ مِّنَ الْخَلْقِ إِذْ فَمَّ عَنْهُ  
الْعَنَاءَ وَالشُّومَ وَ أَيْنِمْ فَلَانًا فَإِنَّهُ  
كَذَّابٌ مَُّتَابِعٌ بَاطِلٌ فِي بَاطِلٍ تَعْنِي  
فِي لَعْنَةٍ آتَتْ عَلَيْهِ الْكَرَى حَتَّى لَا  
أَرَى وَجْهَهُ فِي الْقَائِمِينَ أَلْوَجْهَ  
الْآخِرِ أَقِمْ فَلَانًا فَإِنَّهُ مُحِبٌّ  
طَالِبٌ وَمِنْ شَرْطِ الْمَحَبَّةِ التَّعَبُ

وَ اِنَّهُ فُلَانًا لَا تَنَالُهُ مَحَبُّوْبٌ وَ مِنْ  
 شَرِّطِ الْمَحَبُّوْبِ الرَّاحَةُ يَنْوُمُ وَ  
 يَرَاخُ لَا تَنَالُهُ وَ اَصْلُ الْقِيَاةِ يَالْظَلَامِ  
 حَتَّى وَفَى بِالْعَهْدِ وَ تَحَقَّقَ فِي مَحَبَّتِهِ  
 فَلَمَّا سَبَّحَ لَهُ ذَلِكَ جَاءَ وَقْتُ وَفَاةِ  
 عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَنَالُهُ ضَمَنَ بِكُلِّ  
 مَتَّعُوْبٍ فِيهِ الرَّاحَةُ مَعَهُ اَلْعَتْرُومُ  
 اِذَا اَنْتَهَيْتَ خُطُوَاتُ فُلُوْ بِهَمِّ اِلَى  
 رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ رَاَوْا فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ  
 يَرَوْهُ فِي الْيَقَظَةِ صَا مُوَا وَ صَلُوَا وَ  
 جَاهِدُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْجُوْرِ وَ كَسِرِ  
 الْاَعْمَارِضَ وَ وَاصِلُوَا الصَّبِيَاةَ  
 بِالْظَلَامِ وَ اَشْوَاغِ الْعِبَادَاتِ حَتَّى  
 حَصَلَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَلَمَّا حَصَلَتْ  
 لَهُمْ قِيلَ لَهُمُ الطَّرِيقُ غَيْرُ هَذَا  
 وَ هُوَ طَلَبُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَتَقَصَّيْ  
 اَعْمَالَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْقُلُوْبُ فَلَمَّا  
 وَصَلَتْ اِلَيْهِ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ مَنْ عِلْمُ  
 مَا يَطْلُبُ هَا نَ عِنْدَهُ مَا يَبْدُلُ مِنْ  
 قُوَاهُ وَ جَهْدُهُ فِي طَاعَةِ رَبِّهٖ عَزَّ  
 وَجَلَّ مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي  
 تَعَبٍ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ وَ يَذَكَّ  
 تَدْعُو اِمْرَادِي وَ تَخْبِيَا مَا لَكَ  
 عَرِي كَذِبَتْ فِي دَعْوَاكَ  
 الْمُرِيدُ لَيْسَ لَهُ قَمِيصٌ وَ لَا

اور فلاں کو سلا دے کیوں کہ وہ محبوب ہے اور محبوب کے  
 لیے راحت شرط ہے وہ سلا یا جاتا ہے اور اسے راحت  
 دی جاتی ہے۔ کیوں کہ اس نے دن کو رات سے عبادت  
 میں ملا دیا ہے اُس نے اقرار و عہد کو پورا کر دکھایا ہے اور  
 اپنی محنت کو ثابت کر دیا ہے پس جب اُس نے اپنے  
 عہد و قرار درست کر لیا اور پورا کر دکھایا اب اللہ کے عہد کے  
 پورا کرنے کا وقت آگیا ہے کیوں کہ وہ اپنے راست میں رنج کھینچنے  
 والوں کا اپنی بیعت میں راحت کا ضامن ہو گیا ہے۔ اولیاء اللہ  
 کے قدموں کا بیر جب اس راہ میں انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اُن کے  
 قدم رب عزوجل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ خواب میں وہ چیزیں  
 دیکھنے لگتے ہیں جو انہوں نے حالت بیداری میں نہ دیکھی تھیں  
 انہوں نے روزے رکھے اور نماز پڑھی اور بھوکا رہ کر اور  
 آبروریزی کر کے اپنے نفسوں سے جہاد کیا اور راتوں کو  
 دنوں سے ملا دی طرح طرح کی عبادتوں میں مشغول رہے یہاں  
 تک کہ اُن کو جنت حاصل ہو گئی۔ پس جب اُن کو جنت حاصل  
 ہو گئی اُن سے کہا گیا کہ راستہ دوسرا ہے زیر اور وہ اللہ عزوجل  
 کی طلب ہے۔ پس اُن کے عمل قلبی حیثیت سے ہو گئے پھر  
 جب طلب اُس کی طرف پہنچ گئے وہ مضبوط و راسخ قدم ہو گئے  
 اور وہاں ٹھہر گئے جو اپنے مطلوب کو جان لیتا ہے اُس پر  
 اپنی قوتوں اور کوشش کا رب عزوجل کی اطاعت میں خرچ  
 کرنا آسان ہو جاتا ہے مسلمان تا وقتیکہ خدا سے نہیں مل جاتا  
 ہے ہمیشہ رنج و مشقت میں ہی رہتا ہے۔ افسوس تو میری  
 ارادت کا ترمیمی ہے اور اپنا مال مجھ سے مخفی رکھتا ہے  
 تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ مرید کے لیے اپنے کو شیخ  
 کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔

عِمَامَةً وَلَا ذَهَبٌ وَلَا كَمَالٌ بِالْإِصْنَانَةِ  
إِلَى شَيْخِهِ إِنَّمَا يَأْكُلُ عَلَى كَلْبَةٍ  
مَا يَأْكُلُهُ يَأْكُلُهُ هُوَ فَإِنْ عَنَّهُ يَنْتَظِرُ  
أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ يَعْلِمُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ مَصَالِحُهُ عَلَى يَدِهِ وَقَتْلُهُ  
فِي حَبَالِهِ وَإِنْ أَتَيْتُمْ شَيْخَكُمْ فَلَا  
تُصَحِّبُهُ فَإِنَّهُ لَا تَصْنَعُ لَكَ صَحْبَتَهُ  
وَلَا رَأْدَتَهُ السَّارِيضُ إِذَا أَتَاهُمُ  
الطَّبِيبُ لَمْ يَبْرَأُ بِمَدَاوِنِهِ وَقَالَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ كَلَامٍ مِنْ صَدْرِهِ  
زَهْدُهُ فِي الْحَقِّ صَحَّتْ رَغْبَتُهُمْ  
فِيهِ وَانْتَفَعُوا بِكَلَامِهِ وَالنَّظَرُ  
إِلَيْهِ إِذَا عَلِمْتَ الْخَلْقَ يَعْلَمُ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ وَعَمَّا قُتِلَهُ بِمَعْرِفَتِهِ غَابَ  
عَنْكَ صِفَاتُهُمْ يَنْعَدِمُ عَنْكَ الْجَنُّ  
وَإِلَاشُ وَالْمَلَكُ يُوصَفُ قَلْبُكَ  
بِصِفَةِ أُخْرَى وَكَذَلِكَ يَشْرُكَ تَتَخَيَّرُ عَنْكَ  
قَشَرُ وَجُودِكَ قَشَرُ عَادَةِ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ يَا قِي الْحُكْمُ قِيصِيرُ قِيصَصِ عَالِيكَ  
فَتَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَلْبَسًا تَأْمُرُ نَفْسَكَ وَ  
خَلْقَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَا مِرَّةً وَيَا قِي الْعِلْمُ  
الرَّبَّانِيُّ إِلَّا إِلَهِي قِيصِيرُ قِيصَصِ عَالِيكَ  
وَسِرِّكَ الْإِزْمَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَهُوَ  
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا  
تَرَكَ نَدَقَ وَمِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ

نہ عمامہ اور نہ سونا اور نہ مال وہ سب کو اپنے شیخ کا ہی جانتا ہے  
وہ تو اسی کے طبق پر اس کے حکم سے کھاتا پیتا ہے وہ اپنی  
خودی سے فنا ہو کر شیخ کے حکم و منع کا منتظر رہتا ہے کیوں کہ  
وہ اس کو خدا کی طرف سے جانتا ہے نیز یہ سمجھتا ہے کہ مرید کی  
مصلحتیں شیخ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں اور اس کی رسی میں بل دینا  
اس کے ہاتھ میں ہے اگر تو اپنے شیخ کو تہمت لگائے پس تو  
اس کی مصاحبت میں نہ رہ اس لیے کہ اس حالت میں تیری  
صحبت اور اس سے ارادت درست و صحیح نہیں ہوگی۔  
مریض جب طبیعت کو تہمت لگائے گا اس کا متقصد نہ ہوگا کہ  
اس کے علاج سے اچھا نہ ہوگا۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے بعد  
قدر سے کلام کے ارشاد فرمایا جس کا زہد مخلوق میں درست  
ہوتا ہے مخلوق کی رغبت اس کی طرف صحیح ہو جاتی ہے اور  
وہ اس کے کلام اور اس کی طرف نظر کرنے سے فائدہ حاصل  
کرتے ہیں جب تو مخلوق کو علم و معرفت الہی سے جاننے  
پہچاننے لگے گا اس وقت تجھ سے ان کی مصفتیں غائب ہو جائیں  
گی جن و انسان اور فرشتہ سب تجھ سے معدوم ہو جائیں  
گے تیرا قلب دوسری صفت کے ساتھ متصف کر دیا جائے  
گا اور ایسے ہی تیرا باطن تیرے وجود کا پوست جو کوئی آدم  
کی عادت کا پوست ہے تجھ سے دور ہو جائے گا کہ نہ مری  
اگر تیری قمیص بن جائے گا پس تو اسے پہن کر تمام زمین میں  
پھرا کرے گا اپنے نفس اور مخلوق الہی کو احکام الہی بتائے گا۔  
اور علم ربانی اگر تیرے قلب و باطن کا پیر بن جائے گا۔  
تو اس چیز کو لازم پکڑ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے  
کر آئے ہیں اور وہ قرآن و حدیث ہے کیوں کہ جو ان دونوں  
کو چھوڑ دے گا وہ زندیق (بیدین) ہو جائے گا۔ اور اسلام

مَرَقٍ فَيَكُونُ النَّاسُ وَالْعَقَابُ مَوْجِدَةً  
 أَجَلًا وَالْمَقْتُ لَهُ عَاجِلًا يَكُونُ لِقَلْبِ  
 الْعَارِفِ شَيْءٌ آخِرٌ فِي مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ  
 الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ بَعْدَ أَحْكَامِ الْحُكْمِ  
 وَتَحْقِيقِ الْوُقُوفِ عَلَى بَابِ الْحَقِّ  
 فَذَلِكَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ أَنْ يَتَّبَعَ  
 وَيُسَمَّعَ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أُمِّعَ مِنْ إِتِّسَاعِ  
 الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ الْحُكْمَ لِأَنَّهُ شَيْءٌ  
 لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَسَاسُ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ  
 أَنَّ مَنْ أَحْكَمَهُ بِالْعَمَلِ وَالْإِخْلَاصِ  
 وَعِلْمُهُ الْخَلْقَ فَهُوَ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ وَعَلِمَ وَعَلَّمَ  
 دُعِيَ فِي الْمَلَكُوتِ عَظِيمًا لَا تَعْزَلُ  
 فِي صَوْمَعَتِكَ مَعَ الْجَهْلِ فَإِنَّ الْإِعْزَالَ  
 مَعَ الْجَهْلِ فَسَادٌ كُلِّيٌّ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَقَّهُ ثُمَّ اعْتَزَلْ لَا يَنْبَغِيكَ  
 أَنْ تَقْعُدَ فِي صَوْمَعَةٍ وَعَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ  
 أَحَدٌ تَخَافُهُ وَتَرْجُوهُ لَا يَبْقَى لَكَ سِوَايَ  
 مُخَوِّفٍ وَاحِدٍ وَمَرْجُوٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْرِفُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَالْقِيَامَ بِدِينِهِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَأَقِيمُ  
 دِينَهُ وَالْصُّرَّةَ يُوَجِّهُهُ لَا  
 يُوَجِّهُهُ غَيْرُهُ الصِّدِّيقُ سَمِعَ  
 صَرَخَ الدِّينِ نَادِي قَلْبِهِ وَسِرُّهُ

کے حلقہ سے جدا ہو جائے گا۔ آخرت میں اُس کا ٹھکانا دوزخ  
 و عذاب ہو گا اور دنیا میں عذاب الہی۔ عارف کے قلب کے  
 لیے احکام شریعی کی مضبوطی اور اتانہ الہی پر جم جانے کے  
 بعد ایک اور چیز جو کہ اُس کے اور خدا کے درمیان میں ہوتی  
 ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کے سبب سے وہ اس کا مستحق  
 ہو جاتا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے اور اُس کی بات سنی جائے  
 اور اسی واسطے اُن لوگوں کی پیروی کرنے سے جو کہ شرعی احکام  
 کے پابند نہیں ہیں منع کیا گیا ہے اس واسطے کہ یہ اتباع شرعی  
 ضروری چیز اور معرفت الہی کی جڑ ہے جس نے اُس کو عمل و اخلاص  
 سے مضبوط کر لیا اور اُس نے مخلوق کو تعلیم کیا پس وہ اللہ عزوجل کے  
 نزدیک بڑے مرتبہ والا ہو گیا۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 و سلم نے فرمایا ہے جس نے علم سیکھا اور اُس پر عمل کیا اور دوسرے  
 کو علم سکھایا وہ ملکوت اعلیٰ میں عظیم کے نام سے پکارا جائے گا۔  
 تو اپنی خانقاہ میں حیل کے ساتھ گوشہ نشین نہ ہو کیوں کہ ایسی گوشہ نشینی  
 پوری خرابی ہے۔ اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 ارشاد فرمایا ہے فقیہ بن زال بعد گوشہ نشینی کرتے رہے لیے ایسی  
 حالت میں خانقاہ میں بیٹھنا کہ زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا  
 موجود ہو جس سے تو ڈرتا ہو یا تو اس سے امید واری کرتا ہو  
 سزاوار نہیں ہے۔ تیرے لیے ایسی ذات جس کو خوف اور  
 جس سے امید واری ہو سوا اللہ عزوجل کے دوسری نہ  
 نہ ہونا چاہیے۔ میں تو اللہ عزوجل کے سوا اور اس کی  
 نزدیکی حاصل کرنے کی غرض سے اُس کے دین پر قائم  
 رہنے کے سوا کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اور اس کے  
 دین پر میرا قیام اور اس کی مدد محض ذات الہی کے لیے  
 ہے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ صدیق دین کی اُس آواز

إِذَا خَرِقَ الْعَوَامُ حَدُّوكمَا وَامْرُتَكَبُوا  
مَنَاهِيهٖ وَتَرَكَوْا أَوَامِرَكُمَا وَرَفَضُوهُ  
وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ يَسْمَعُهُ كَيْفَ يَصْرُخُ  
وَيَسْتَعِيْثُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتَشَتَّرُ  
وَيَهْفُ فِي وَجْهِهِ يُعِيْنُهُ يَا لَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ  
وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ يَنْصَحُهُ وَيَذُبُّ عَنْهُ  
يَفْعَلُ ذَلِكَ بِقُوَّةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا بِقُوَّةِ  
نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَطَبْعِهِ وَرِعْوِيَّتِهِ وَ  
جَهَالَتِهِ وَنِفَاقِهِ- الْعِبَادَةُ تَرْكُ  
الْعَادَةِ لَا كَانَتْ الْعَادَةُ حَتَّى  
تَصِيرَ مَوْضِعَ الْعِبَادَةِ أَبْطَلُوا  
التَّعَلُّقَ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ  
الْخَلْقَ وَتَعَلَّقُوا بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا تَتَبَهَّرُ جُودًا فَإِنَّ التَّوَاقُدَ بِصِيْرِ  
مَا يَأْخُذُ مِنْكُمْ إِلَّا بِمَحَلِّ الْبَهْرِجِ  
الَّذِي مَعَكُمْ إِمْرٌ مُوَايَه لَا تَعْدُوهُ  
شَيْئًا مَا يُؤْخَذُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ  
الْكَيْدَ وَيَصْنَعِي مِنَ الدَّخْلِ فَلَا تَحْسِبُوا  
أَنَّ إِلَّا مَرَّ سَهْلٌ إِلَّا كَثُرَ مِنْكُمْ  
يَكْفُرُونَ إِلَّا خُلَاصَ وَهُمْ مَنَا فَعُتُونَ  
لَوْلَا إِلَّا مُتَبَحَّانَ لَكَثَرَتِ الدَّعَاوِي  
مِنْ ادَّعَى الْحِلْمَ نَمْتَحِنُهُ بِأَرْغَضَابِ  
وَمِنْ ادَّعَى الْكِرَامَ نَمْتَحِنُهُ بِالطَّلَبِ  
مِنْهُ وَكُلٌّ مِنْ ادَّعَى شَيْئًا أَمْتَحِنُهُ  
بِضِدَّةٍ دَعُوا عَنْكُمْ الْهُوسَ

کہو کہ عوام کے حدود الہی سے تجاوز کرنے اور منوعات کا  
اختیار کرنے اور احکام کو چھوڑ دینے اور پس پشت ڈال دینے  
کے وقت دین کے قلب و باطن سے شکستہ ہوتی ہے۔  
وہ دین کی آواز اور فریادری کی کیفیت کو دریافت کر کے  
چین پکار کر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر پوری  
طور سے اُس کی مدد میں مشغول ہو کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر  
کرتا ہے وہ دین کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی طرف  
سے مدافعت کرتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ محض اپنے  
رب عزوجل کی قوت و مدد سے کرتا ہے نہ کہ اپنے نفس خواہش  
و طبیعت و عورت اور جہالت و لفاق کی قوت سے عبادت  
عادت کا چھوڑ دیتا ہے نہ کہ عادت کا موجود ہونا حتیٰ کہ وہ  
خود سراپا عبادت بن جائے۔ اہل اللہ نے دنیا و آخرت  
اور مخلوق کے تعلق کو باطل کر دیا اور حق عزوجل کے ساتھ تعلق  
پیدا کر لیا۔ تم اپنے کھوئے دام پیش نہ کرو کیوں کہ پرکھنے والا  
دانا ہے وہ بغیر کوئی پرکسے اسے نہ لے گا۔ جو کھوٹ  
تمہارے پاس ہے تم اُس کو پھینک دو تم اسے کچھ نہ گنو  
وہ لاشے ہے۔ تم سے وہی مال لیا جائے گا جو بھی میں داخل  
ہو کر میل ملاوٹ سے صاف ہو جائے گا پس تم یہ خیال مت  
کر لو کہ معاملہ آسان ہے تم میں سے اکثر اخلاص کا دعویٰ کرتے  
ہیں اور ہوتے ہیں وہ منافق اگر امتحان کا معاملہ نہ ہوتا تو بہت  
دعویٰ دار بن جاتے دعویٰ بہت ہوتے ہیں میں علم  
کے مدعی کا امتحان غصہ اور غضب میں ڈال کر لیتا ہوں اور  
کرم کے مدعی کا امتحان اُس سے کچھ طلب کر کے لیتا ہوں  
اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کا دعویٰ کرے میں اُس کا اُس کی  
خبر سے امتحان لیتا ہوں تم اپنے سے ہواؤ ہوس کو چھوڑ

وَالْزَمُوا التَّقْوَىٰ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ  
الْمُسْتَوْن لَكُمْ رَبِّ اتَّقُوا الشَّرَكَ فِي الْأَصْلِ  
وَالْمَعَاصِي فِي الْفُرْعِ ثُمَّ تَعَلَّقُوا بِحَبْلِ  
الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ وَلَا تَخْلَوْهُمَا مِنْ أَيْدِيكُمْ  
الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ لَا يَجْعَلُ عَلَى عَبْدٍ  
خَوْفَيْنِ قَدْ تَقَرَّرَ خَوْفُ الْقَوْمِ فِي الدُّنْيَا  
عِنْدَ أَكْلِهِمْ وَشُرْبِهِمْ وَكِبْسِهِمْ وَبِكَاحِهِمْ  
وَجَمِيعِ تَصَرُّفِهِمْ تَرَكُوا الْحَرَامَ وَالشُّبْهَةَ  
وَكَثِيرًا مِنَ الْحَلَالِ خَوْفًا مِنْ حِسَابِ رَبِّهِمْ  
عَزَّ وَجَلَّ وَسُوءِ عَذَابِهِمْ تَوَارَعُوا فِي  
مَا كُتِبَ لَهُمْ وَمَشَرَوْا بِهِمْ وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ  
تَرَكُوا الْأَشْيَاءَ زُهْدًا فِيهَا فَاتَمَكَّنَ الزُّهْدُ  
صَادَ مَعْرِفَهُ فَلَمَّا تَمَكَّنَتِ الْمَعْرِفَةُ جَاءَ  
الْعِلْمُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَارَ تَأَجُّجًا عَلَى  
رُؤْسِهِمْ فَلَا جَرَمَ أَنْزَوَى عَنْهُمْ الْحَرَامُ  
وَالشُّبْهَةُ وَالْمُبَاحُ وَبَقِيَ عِنْدَهُمُ الْحَلَالُ  
الطَّلُقُ الَّذِي هُوَ حَلَالُ الصَّيْدِ يَقِينُ الدِّينِ  
لَا يَهْتَمُّونَ بِهِ وَلَا يَخْطُرُ بَبَالِهِمْ إِذَا  
تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَخَدِعَ عَتَا  
سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصَلَ قَلْبُهُ فِي دَارِ  
قُرْبِهِ وَمِنْهُ وَلُطْفِهِ لَا يَكْفِيهِ تَحْصِيلُ الطَّعَامِ  
وَالشَّرَابِ وَالْبَيَاسِ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَصَالِحِهِ  
تَأَثَّرَ قَلْبُهُ عَنِ الْإِسْتِغَالِ بِذَلِكَ قُلُوبُ  
الْمُقَرَّبِينَ مَا تَرَالُ فِي كِتَابِ الْقُرْبِ وَالْعِلْمِ الْخَاصِّ  
يَعْلَمُ قُلُوبَهُمْ وَأَسْرَارَهُمْ الْقَنَاءَ عَنِ الْإِرَادَاتِ

دو اور اپنی تمام حالتوں میں تقوٰے کو لازم پکڑو۔ متقیوں کے  
لیے رب ہے تم اصل میں شرک سے اور فرع میں گناہوں  
سے بچو۔ پھر کتاب و حدیث دونوں کی رسیوں سے چپٹ جاؤ  
ان دونوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو حتیٰ عزوجل کہ یہ ہے  
وہ اپنے بندہ پر دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ تحقیق اویا دار اللہ  
کا خوف و دنیا میں کھانے اور پینے اور اُن کے پہننے اور نکاح  
اور تمام تصرفات میں مقدم ہو چکا ہے انہوں نے حرام اور  
مشتبہات اور بہت حلال چیزوں کو حساب و عذاب الہی  
کے خوف سے چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنے کھانے اور  
پینے اور تمام حالتوں میں تقوٰے اختیار کر لیا۔ دنیا میں تمام  
چیزوں کو بطریق زہد چھوڑ دیا پس جب زہد نے اُن کی طبیعتوں  
میں قرار پکڑ لیا تو وہ معرفت بن گیا پھر جب معرفت الہی نے  
قرار پکڑ لیا تو علم الہی حاصل ہو گیا اور وہ علم اُن کے سروں کا تاج  
بن گیا پس لامحالہ اُن سے حرام و مشتبہات اور مباح برطرف  
ہو گئے اور محض وہ حلال اُن کے پاس باقی رہ گیا جو کہ ان  
صدیقین کا جن کو اُس کا غم نہیں اور نہ وہ اُن کے دل میں خطرہ  
بن کر گزرتا ہے حلال ہے جب بندہ دنیا و آخرت کو چھوڑ  
دیتا ہے اور ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اُس  
کا قلب مقام قرب و احسان و لطف الہی میں پہنچ جاتا ہے۔  
تو اللہ تعالیٰ اُس کو کھانے اور پینے اور لباس یا کسی اور چیز  
کے حاصل کرنے کی جو کہ اُس بندہ کی مصلحتوں میں سے ہیں  
تکلیف نہیں دیتا ہے اُس بندہ کا قلب ان چیزوں میں  
مشغول ہونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مقررین دربار الہی کے  
قلوب ہمیشہ قرب و علم خاص کی درس گاہ میں رہتے ہیں وہاں  
اُن کے قلوب و اسرار کو تمام ارادوں سے فنا ہو جانے۔

وَالْإِسْطِطْلَاحَ بَيْنَ يَدَيْ الْحَقِّ عَمَّ وَ  
جَلَّ فَيَتَوَلَّاهُمْ وَلَا يَكِلُهُمْ إِلَى  
غَيْرِهِ مِنْ وَرَاءِ مَعْقُولِ الْخَلْقِ مِنْ  
وَرَاءِ هَذَا الظَّاهِرِ يُفَتِّهِمُ ثُمَّ إِذَا  
شَاءَ أَنْتَرَهُمْ وَرَدَّ هُمْ يَتَأَيَّدُ الْعِلْمُ  
الْأَوَّلُ بِالْبَلَمِ الثَّانِي جَهْلٌ ثُمَّ عِلْمٌ  
ثُمَّ عَمَلٌ ثُمَّ إِخْلَاصٌ ثُمَّ عِلْمٌ  
ثَانٍ وَعَمَلٌ ثَانٍ سُكُوتٌ ثُمَّ نَطَقٌ  
فَنَاءٌ عَيْنِكَ ثُمَّ وَجُودٌ بِهِ

اور اپنے آپ کو اللہ عزوجل کے روبرو ڈال دینے کی تعلیم دی  
جاتی ہے پس رب تعالیٰ خود اُن کا متولی بن جاتا ہے اور  
غیر کی طرف اُن کو حوالہ نہیں کرتا ہے یہ امور عام مخلوق کی سمجھ  
اور اس ظاہر سے پرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو فنا  
کر دیتا ہے پھر جب چاہتا ہے اُن کو زندہ کر دیتا ہے۔  
اور مخلوق کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ علم اول کی علم ثانی سے  
تائید ہوتی ہے۔ اول جمل ہے پھر علم پھر عمل  
اغلاص۔ پھر دوسرا علم اور دوسرا عمل اول کا سکوت ہے پھر گویائی  
اول تیری ہستی کا فنا ہو جاتا ہے۔ پھر اُسی کے ساتھ موجود  
ہو جاتا۔

اے مردہ دلو! میرے پاس تمہارا بیٹھنا کس کام  
کے۔

اے دنیا اور بادشاہوں کے بندو! اے امیروں  
کے غلامو! اے گرامی و ازارانی کے بندو! تمہارے اوپر  
افسوس ہے۔ اگر گہوؤں کے ایک دانے کی قیمت ایک  
دینار تک پہنچ جائے تو بھی صاحب ایمان کچھ پرواہ نہیں  
کرے گا اور نہ اُس کو اس کا رزق بسبب اُس کے یقین کی قوت  
کے اور رب تعالیٰ پر بھروسہ کی وجہ سے غم میں ڈالے گا مخاطب  
تو اپنے نفس کو مسلمانوں میں سے شمار نہ کر بہت علیحدہ ہو جاتا تمام  
چیزیں اللہ عزوجل کا شکر اور اس کا گروہ ہیں۔ مخلوق سے روگردانی  
کرنا حق ہے اور خالق کے ساتھ مشغول ہونا بہت زیادہ اور  
بڑا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم میرے کہنے کو سمجھو گے۔ تم  
پر لازم ہے کہ تم توحید کی دلیلوں کو سمجھو اور صدیقین و اولیاء کے  
کلمات پر توجہ کرو انھیں سنو۔ اُن کا کلام مثل وحی الہی کے ہے  
وہ اُسی سے بولتے ہیں۔ اللہ عزوجل اُن کو عوام کیموں کے

يَا مَوْتَى الْقُلُوبِ مَا قَعُودُكُمْ  
عِنْدِي -

يَا عِبِيدَ الدُّنْيَا وَالسَّلَاطِينِ يَا عِبَادَ  
الْأَغْنِيَاءِ يَا عِبَادَ الْغَلَاءِ وَالرَّحِصِ وَيُحْكُمُ  
تَوْبِكُمْ ثُمَّ حَبِيبٌ مِنَ الْحَبِطَةِ دِينَارًا مَا  
بَالَى الْمُؤْمِنِ وَلَا أَهَمَّتْ رِزْقُهُ لِقَرَّةٍ يَقِينِهِ  
وَأَيْتَمَالِهِ عَلَى رَبِّهِ عَمَّ وَجَلَّ لَا تَعُدُّ نَفْسَكَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انْعِزْ كُلُّ الْأَشْيَاءِ جُنْدُ  
اللَّهِ عَمَّ وَجَلَّ وَأَسْبَاطُهُ الْإِعْرَاضُ  
عَنِ الْخَلْقِ حَقٌّ وَالْإِشْتِغَالُ  
بِخَالِقِهِمْ أَحَقُّ مَا أَرَاكُمْ تَفْقَهُونَ  
مَا أَقُولُ عَلَيْكُمْ يَدَّ لَا لَاتِ التَّوْحِيدِ  
وَالْإِصْغَاءِ إِلَى كَلِمَاتِ الصِّدِّيقِينَ  
وَالْأَوْلِيَاءِ كَلَامُهُمْ كَالْوَحْيِ  
مِنَ اللَّهِ عَمَّ وَجَلَّ يَنْطِقُونَ عَنْهُ

حکموں سے جدا و علیحدہ خاص حکم دیا کرتا ہے اُن کا کلام سلام  
جیسا نہیں ہوا کرتا تو تو سراپا ہوس ہے تو کتاب سے جمع  
کر کے وعظ کرتا ہے اگر تیری کتاب ضائع ہو گئی تو تو کیا  
کرے گایا تیری کتابوں میں آگ لگ جائے یا تیرا وہ چراغ  
جس سے تو کتاب دیکھتا ہے بجھ جائے تو تو کیا کرے گا  
جب تیرا گھڑا لوٹ جائے اور اُس کا وہ پانی بہ جائے جو کہ  
اُس میں تھا تو بتا تو کیا کرے گا تیری اینٹ ٹھٹھی اور کوئلے اور دیالائی  
اور چشمہ کہاں ہے جس سے تو کام لے گا جو کوئی سیکھتا ہے اور  
اُس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو تو راہی اس کے قلب  
میں حقیقت اور چشمہ بن جاتا ہے جس سے وہ خود اور دوسرے  
روشنی حاصل کرتے ہیں۔

اے ثور و غل مچانے والو! اے نعموں اور خواہشوں  
کے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی کتابوں کے تابعدارو!  
دور ہو علیحدہ ہو جاؤ۔

تم پر افسوس ہے کہ تم خاص لوگوں سے جھگڑتے ہو۔  
تم شکست کھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے اور اپنی مراد کو نہ پہنچو  
گے۔ تمہاری کوششوں سے تقدیر و علم ازلی کیسے پلٹ  
سکتا ہے تم مومن و مسلمان بنو۔ کیا تم نے ارشاد الہی نہیں سنا  
کہ حلقی وہ ہیں جو کہ ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے  
اسلام کی حقیقت استسلام ہے جس کے معنی ہیں اپنے کو حوالہ  
کر دینے کے۔ اولیاء اللہ نے اللہ عز و جل کے روبرو  
اپنے سروں کو جھکا دیا ہے اور چوں و چرا اور کرا اور نہ کر کو  
بھلا دیا ہے وہ طرح طرح کی طاغیوں کرتے ہیں اور اُس  
کے روبرو خوف کے قدم پر ٹھہرے رہتے ہیں ہر وقت  
خوف طاری رہتا ہے اور اسی واسطے اللہ عز و جل نے ان کی

وَيَا مَرْءٍ مِنْ ذَمَّ آءِ مَا مَوَّرِ الْعَوَامِ الْخَفَامِ  
أَنْتَ هَوَسٌ تُولِفُ كَلَامَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ  
تَتَكَلَّمُ بِهِ إِنْ ضَاعَ كِتَابُكَ مَا نَضَعُ أَوْ  
وَقَعَ الْحَوِثُ فِي كُنُتِكَ أَوْ لَا نَطْعَاءُ  
مِصْبَاحِكَ الَّذِي تَبْصُرُ بِهِ إِذَا انْكَسَرَتْ  
جَوَّتُكَ وَتَبَدَّدَ الْمَاءُ الَّذِي فِيهَا آيَاتُ  
مَقْدَحَتِكَ وَحِرَاقَتِكَ وَكِبَرِيَّتِكَ وَمَعِينِكَ  
مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ وَأَخْلَصَ صَارَتْ  
الْمُقَدَّحَةُ وَالْمَعِينُ فِي قَلْبِهِ نُورًا لِلَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَيُضِيءُ بِهِ وَهُوَ غَيْرُهُ  
تَنَحَّوْا.

يَا أَبْنَاءَ اللَّقْلَقَةِ يَا أَبْنَاءَ  
الصُّحُفِ الْمُؤَلَّفَةِ بِأَيْدِي النَّفُوسِ  
وَالْأَهْوِيَةِ.

وَيَكُفُّ تَنَازُعُونَ الْمُخْصُوصُ  
تَنْقُصُونَ وَتَهْلِكُونَ وَلَا تَبْلُغُونَ  
حَظَّكُمْ كَيْفَ تَتَغَيَّرُ السَّابِقَةُ وَ  
الْعِلْمُ يَجْهَدُكُمْ كُونُوا مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ  
أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا يَا بَنَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ  
حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ الْإِسْتِسْلَامُ الْقَوْمُ  
اسْتَطَرَّ قُوا بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَنَسْأَلُكُمْ وَكَيْفَ وَإِفْعَلُ وَلَا تَفْعَلُ يَعْمَلُونَ  
أَنْوَاعَ الطَّاعَاتِ وَهُمْ وَقُوفٌ عَلَى قَدَمِ  
الْخَوْفِ وَهَذَا وَصَفُهُمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ

تعریف فرمائی پس ارشاد کیا وہ کوئی کام کریں ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں میرے احکام کو بجالاتے رہتے ہیں۔ اور میرے منوعات سے باز رہتے ہیں اور میری بلا پر صبر کرتے رہتے ہیں اور میری عطا پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اپنی جانوں اور مالوں اور اولادوں و ابرویں کو تقدیر الہی کے ہاتھوں میں حوالہ کرتے ہیں اور ان کے دل مجھ سے غافل و رزائل رہتے ہیں۔ عارف باللہ جب آخرت سے ڈھکنے لگتا ہے۔ آخرت سے کتنے توجہ سے دور ہو جائے مگر میں حق عزوجل کے دروازہ کا طالب ہوں تو اور دنیا میرے نزدیک ایک ہی ہے دنیا مجھے تجھ سے روکتی تھی اور تو مجھے رب تعالیٰ سے روکتی ہے۔ جو مجھے رب تعالیٰ سے روکے اُس میں کوئی کرامت نہیں۔ تم اُس کلام کو سنو پس تحقیق یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق سے اور ان میں اُس کے ارادہ کا خلا صد و غفر ہے اور یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء و صالحین کا واقعی حال ہے۔

اے دنیا و آخرت کے بندو! تم دیواریں ہو۔ اللہ عزوجل اور اُس کی دنیا و آخرت سے ناواقف ہو۔ تیرا بت دنیا ہے اور تیرا بت آخرت ہے اور تیرا بت مخلوق اور تیرا بت دنیا کی شہوتیں اور لذتیں اور تعریف و برائی اور قبولیت خلق ہے کہ وہ تجھے مقبول بنا لے ہر چیز اللہ کے سوا بت ہے۔ اولیاء اللہ صرف ذات باری کا ارادہ کرتے ہیں اُسی کے طالب ہیں۔ دنیا و آخرت کی نعمتیں حتیٰ عزوجل کے دروازہ پر سپرد کر دی جاتی ہیں طیب کے ہی گھر میں دونوں جہان کی نعمتیں حوالہ کر دی جاتی ہیں۔ طیب ان دونوں میں سے جو چاہتا ہے۔ بے یقینانہ رضی کو کھلاتا

فَقَالَ يُوْتُونَ مَا اَنْتَوَا قُلُوْا بِهِمْ وَجَلَّةٌ  
يَمْتَسِكُوْنَ اَوْ اَمِرِي وَيَنْتَهُوْنَ عَنِ  
مَكَارِهِي وَيَصْبِرُوْنَ عَلٰى بِلَآئِي وَيَشْكُرُوْنَ  
عَلٰى عَطَايَ وَيُسَلِّمُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ  
وَاَوْلَادَهُمْ وَاَعْرَاضَهُمْ اِلٰى يَدِ سَابِقَتِي  
وَقُلُوْا بِهِمْ وَجَلَّةٌ خَافِفَةٌ يَّمِيْنُ الْعَارِفُ  
اِذَا هَدٰى فِي الْاٰخِرَةِ يَقُوْلُ لَهَا تَنَجَّيْ عَنِّي  
فَاِنِّي طَالِبُ بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ اَنْتَ وَ  
الدُّنْيَا عِنْدِي وَاِحَدُ الدُّنْيَا كَاَنْتَ تَحْجِبُنِي  
عَنْكَ وَاَنْتَ تَحْجِبُنِي عَنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ  
لَا كَرَامَةَ لِكُلِّ مَنْ يُّحْجِبُنِي عَنْهُ اِسْعَوْا  
هٰذَا الْكَلَامَ فَاِنَّ لِيْ عِلْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
لِيْ اَرَادَتْهُ مِنْ خَلْقِهِ وَفِيْ خَلْقِهِ وَهُوَ  
حَالُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ  
وَالصَّالِحِيْنَ .

يَا عِبَادَ الدُّنْيَا يَا عِبَادَ الْاٰخِرَةِ اَنْتُمْ  
حَيْطَانُ جَهَنَّمَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدُنِيَا  
وَاٰخِرَتِهِ اَنْتُمْ حَيْطَانُ اَنْتَ صَنَمُكَ الدُّنْيَا  
وَاَنْتَ صَنَمُكَ الْاٰخِرَةُ وَاَنْتَ صَنَمُكَ الْخَلْقُ وَ  
اَنْتَ صَنَمُكَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ وَاَنْتَ صَنَمُكَ  
الْحَمْدُ وَالشَّانُ وَقَبُوْلُ الْخَلْقِ لَكَ كُلُّ مَا  
سِوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَنَمُ الْقَوْمِ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ  
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ يُوَكِّلَانِ عَلٰى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ يُوَكِّلَانِ فِيْ دَارِ الطُّبِيْبِ يَا خُذْ  
مِنْهُمَا مَا يُرِيْدُ وَيُطْعِمُ السَّرِيْعُ .

رہتا ہے۔

اے منافق! تمہیں تو اس سے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ منافق تو اس میں سے ایک حرف سننے کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اُس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ حق کے سننے پر قادر ہی نہیں ہے۔ میرا کلام حق ہے اور میں حق پر ہوں میرا کلام اللہ عزوجل کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ خود میری طرف سے جانب شرع سے ہوتا ہے نہ کہ ہواؤ ہوس سے اور یکن آفت تیری فہم سقیم کی ہے۔

تجھ پر افسوس ہے تو نے علم سیکھا اور تو نے اُس پر عمل نہ کیا پس تیرا علم تجھے کیا نفع دے گا۔ تو نے حالت جوانی میں شائخ کی خدمت نہ کی پس تو اپنے بڑھاپے کی حالت میں کیسے کیا خدمت کرے گا کوئی مسلمان نہیں ہے مگر اُس کے مرنے کے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے کھل جاتے ہیں پس وہ اُن نعمتوں کو جو کہ اُس کے واسطے جنت میں ہیں ملاحظہ کرتا ہے اُس کی طرف حور عین اور غلمان اشارہ کرتے ہیں اور اُس کی طرف جنت کی خوشبو پہنچتی ہے پس اُس کو موت اور سکرات موت بھلی معلوم ہوتی ہے اللہ عزوجل اُن کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت امیر کے ساتھ کیا تھا۔ اور بعض مسلمانوں میں سے وہ ہیں جو اس کو قبل موت کے ہی جان لیتے ہیں اور وہ مقرنین خاص اور یکتا و فرد اور مطلوب بندہ ہیں تجھ پر اے اللہ عزوجل پراستراض کرنے والے افسوس ہے۔ تو خالی ہڈیاں کی باتیں نہ بگا کر قضاۃ الہی کو کوئی رد کرنے والا رد نہیں کر سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے والا اس کو روک سکتا ہے۔ عہ قضاہ کی دو قسمیں ہیں ایک ملحق جو کہ دعا وغیرہ سے رد ہو سکتی ہے جس کے متعلق حدیث میں وارد ہے لا یدرد القضاء الا المدعا۔

دوسری قضاہ مبرم جو کہ ہرگز رد نہیں ہو سکتی اور یہاں وہی مراد ہے۔ قادر ہی مفر

يَا مُنَافِقِينَ مَا عُنْدَكُمْ مِنْ هَذَا خَبْرٌ - الْمَنَافِقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعَ حَرْفًا مِنْ هَذَا اتَّقُوا الْقِيَامَةَ عَلَيْهِ لَا تَهْ لَاقِيَدُ عَلَى سَمَاعِ الْحَقِّ كَلَامِي حَقٌّ وَأَنَا عَلَى الْحَقِّ كَلَامِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا وَهْيَ مِنَ الشَّرْعِ لَا مِنَ الْهَوَاسِ وَلَكِنْ آفَةُ فَهْمِكَ السَّقِيمِ

وَيَحَاكَ تَعَلَّمْتَ وَمَا عَلِمْتَ يَعْلَمُكَ فَكَيْفَ يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ مَا خَدِمْتَ النَّشِوْنَةَ فِي حَالِ شَبَابِكَ كَيْفَ تَخْدُمُ فِي حَالِ كِبَرِكَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ يَكْتَشِفُ عَنْ بَصَرِهِ فَيَرَى مَا لَهُ فِي الْجَنَّةِ يُشِيرُ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ وَالْوِلْدَانُ وَيَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ طَيِّبِ الْجَنَّةِ قَيْطُوبٌ لَهُ الْمَوْتُ وَالشُّكْرَاتُ يَفْعَلُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ كَمَا فَعَلَ بِأَسِيَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُمْ الْمُتَقَرَّبُونَ الْمُفَرَّدُونَ السَّامِدُونَ وَيَلُوكَ يَا مُعْتَرِضًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَهْدِي هَدْيَانَا فَتَارِعًا الْقَضَاءُ لَا يَزِيدُكَ سَادًّا وَلَا يَصُدُّكَ صَادًّا

سَلَّمَ وَقَدْ اسْتَرْحَتْ هَذَا اللَّيْلُ وَهَذَا  
 النَّهَارُ لَا يُمْكِنُكَ مَرَدُّهُمَا إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ  
 يُقْبِلُ وَأَنْتَ كَأَنَّكَ أَوْ مَرَأٍ وَ النَّهَارُ  
 كَذَلِكَ لَا هُمَا يَجِيئَانِ عَلَى رُغْمِكَ  
 هَكَذَا مَا فَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدَّرَ  
 مَالَكَ أَوْ عَلَيْكَ إِذَا جَاءَ لَيْلُ الْفَقْرِ  
 فَسَلِّمْ وَ دَعِ نَهَارَ الْغِنَى إِذَا جَاءَ  
 لَيْلُ الْفَقْرِ فَسَلِّمْ وَ دَعِ نَهَارَ  
 الْغِنَى فَإِذَا جَاءَ لَيْلُ مَا تَحْكُمُهُ  
 فَسَلِّمْ وَ دَعِ نَهَارَ مَا تُحِبُّ اسْتَقْبِلْ  
 لَيْلُ الْأَمْرِ وَالْإِسْقَامِ وَالْفَقْرِ  
 وَ كَسْرِ الْأَعْرَاضِ بِقَلْبٍ مُسْتَرِيحٍ  
 لَا تَرُدْ شَيْئًا مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَقَدَّرِهِ فَتَهْلِكَ وَ يَذْهَبَ  
 إِيْمَانُكَ وَ يَتَكَدَّرَ قَلْبُكَ وَ يَمُوتَ سُرُّكَ  
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَا اللَّهُ  
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِي  
 وَ صَبَرَ عَلَى بَلَائِي وَ شَكَرَ نِعْمَاتِي كَتَبْتُهُ  
 عِنْدِي صِدْقًا وَ مَنْ يَسْتَسْلِمُ بِقَضَائِي  
 وَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لَمْ يَشْكُرْ نِعْمَاتِي  
 فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَايَ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْقَضَاءِ  
 وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَمْ تَشْكُرْ النِّعْمَاءَ  
 فَلَا دَبَّ لَكَ الْعَيْسُ رَبًّا غَيْرَهُ وَ لَا رُبَّ  
 غَيْرِهِ إِنْ أَرَدْتَ فَارْضَ بِالْقَضَاءِ  
 وَ مَنْ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ حُلُوهُ

تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو تو راحت پائے گا  
 یہ رات اور دن ان دونوں کا رد کرنا تیرے امکان میں نہیں ہے  
 جب رات آئے گی اُجائے گی خواہ تو ناخوش ہو یا خوش۔ اور  
 ایسے ہی دن یہ دونوں تیری خلاف مرضی ضرور آئیں گے۔  
 ایسے ہی ہر وہ چیز تیرے نفع و نقصان کی جس کو اللہ عز و جل  
 نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے ضرور آنے والی ہے جب  
 محتاجی کی رات آئے پس تو اسے تسلیم کر اور امیری کے دن کو  
 رخصت کر دے جب مرض کی رات آئے پس تو اسے تسلیم  
 کر اور صحت و عافیت کے دن کو رخصت کر دے۔ اور جب وہ  
 رات آئے جس کو تو ناپسند کرتا ہے پس تو اسے تسلیم کر اور صحت  
 پسندیدگی و خوشی کے دن کو رخصت کر دے۔ تو مرضوں اور بیماریوں  
 اور محتاجی اور آبروریزی کی راتوں کا خوش دلی سے استقبال  
 کیا کر۔ قضا و قدر مقدرات الہی میں سے تو کسی چیز کو رد نہ کر  
 پس تو ہلاک ہو جائے گا اور نیز ایمان چلا جائے گا اور تیرا  
 باطن مر جائے گا اللہ عز و جل نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد  
 فرمایا ہے میں وہ معبود ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے  
 جو میری قضا کو تسلیم کرتا ہے اور میری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور  
 میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے میں اپنے پاس اس کو صد یقول میں  
 لکھ لیتا ہوں اور جو کوئی میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور میری  
 بلا پر صبر نہیں کرتا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا پس وہ میرے سوا  
 اور کوئی رب طلب کرے۔ جب کہ تو قضا پر راضی نہ ہو اور بلا  
 پر صبر نہ کرے اور تو خدا کی نعمتوں کا شکر نہ کرے پس تیرے لیے  
 کوئی رب نہیں ہے تو خدا کے سوا دوسرا رب ڈھونڈ اور خدا  
 کے سوا دوسرا رب ہے نہیں اگر تو خدا کو چاہتا ہے پس تو قضا  
 پر راضی ہو جا اور تو تقدیر کی بھلائی اور برائی اور اس کی شر نیو

وَمِنْهُ وَإِنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ  
بِالتَّحْدِيرِ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ  
بِالْجِدِّ وَالظَّلَبِ إِذَا تَحَقَّقَ لَكَ الْإِيمَانُ  
فَقَدْ مَتَّ إِلَى بَابِ الْوَلَايَةِ وَنَحْبُ نَعِيدُ  
تَصِيرُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُحَقِّقِينَ  
يَعْبُودِيَّتِهِ عِلَامَةُ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ  
مُؤَافِقًا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ  
أَحْوَالِهِ بِصَيْرُ كُلِّهِ مُوَافِقَةً مِنْ غَيْرِ  
لِمَ وَكَيْفَ مَعَ آدَاءِ الْأَوَامِرِ وَالْإِنْتِهَاءِ  
عَنِ النَّوَاهِي لَا جَرَمَ تَدْوَمُ صُحْبَتُهُ  
لَهُ يَصِيرُ فِي صُحْبَةِ قُرْبِهِ لَا يَمِينًا  
وَلَا شِمَالًا وَلَا وَرَاءَ بَلْ أَمَّا مَا فَحَسِبُ  
يَصِيرُ صَدْرًا بَلَا ظَهْرًا قُرْبًا بَلَا بَعْدَ  
صَفَاءٍ بَلَا كَدٍّ خَيْرًا بَلَا شَرٍّ أَنْتَ  
بِرَجَائِكَ الْخَلْقُ وَخَوْفِكَ مِنْهُمْ وَ  
هَذَا إِشْرَافُ بَرِيكَ عَزَّ وَجَلَّ حَمْدُكَ  
لِلْخَلْقِ عِنْدَ الْعَطَاءِ وَذَمُّكَ لَهُمْ  
عِنْدَ الْمَنْعِ وَهَذَا إِشْرَافُ بَرِيكَ عَزَّ وَجَلَّ  
وَيَحْكُ مَا إِلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَا عِنْدَكَ  
خَيْرٌ مَا عِنْدَكَ تَوْحِيدُ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ تَوْحِيدُ  
وَتَوْحِيدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَرَّ خَلْقِهِ  
تَوْحِيدُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى بَابِهِ بَعْدَ قَطْعِ  
الطَّرِيقِ إِلَيْهِ السَّبَبُ فِي الْبِدَايَةِ  
وَالنَّسَبُ فِي النِّهَايَةِ الْمُبْتَدِئُ  
يَطْلُبُ مِنَ السَّبَبِ كَالْعَرَبِ

کڑوے پن اور اس امر پر جو کہ تجھے پہنچاؤ تیرے بچاؤ پر خطا  
کرنے والا نہ تھا اور جس نے تجھ سے خطا کی تجھے نہ پہنچاؤ  
تیری کوشش و طلب سے پہنچنے والا نہ تھا ایمان لاجب تیرا  
ایمان متحقق ہو جائے گا تو تو ولایت کے دروازے پر پہنچ  
جائے گا پس اُس وقت تو اللہ عزوجل کے اُن بندوں میں سے  
ہو جائے گا جو کہ اُس کی عبودیت میں راسخ ہیں۔ ولی کی علامت  
یہ ہے کہ وہ اپنے رب عزوجل کا اپنی تمام حالتوں میں موافقت  
کرنے والا ہو۔ اور بغیر چوں و چرا کے اور امر کے بجالانے  
اور نواہی سے بچنے کے ساتھ سراسر اپا موافقت ہو جائے  
ہمیشہ اس کی صحبت میں رہے۔ اُس کا قرب کی صحبت میں وہ  
نزدائیں ہٹے نہ بائیں اور نہ پیچھے بلکہ فقط اگے ہو۔ بغیر پیچھے کا  
سینہ اور بغیر بعد کا قرب اور بغیر کدورت کی صفائی  
اور بغیر شر کے خیر بن جائے۔ تیری امید گاہ مخلوق  
ہے اور تیرا خوف انھیں سے والہ ہے اور یہ تیرا رب  
عزوجل کے ساتھ شریک ہے وقت عطا کے مخلوق کے لیے  
تیری تعریف ہوتی ہے اور وقت منع کے اُن کے لیے تیری  
بُرائی ہوتی ہے۔ اور یہ رب عزوجل کے ساتھ شریک ہے۔  
تجھ پر افسوس ہے۔ مخلوق کے پاس اس میں سے کچھ  
بھی نہیں ہے عطا و منع کا مالک دوسرا ہی ہے تجھے کچھ خبر  
نہیں نہ تیرے پاس تو حید ہے تمام چیزیں اللہ عزوجل سے  
ہی پائی جاتی ہیں اور اُسی سے مخلوق کے معاملات کے لیے  
لی جاتی ہیں۔ راستہ قطع کرنے کے بعد اُس کے دروازہ کی  
طرف رجوع کرنے سے وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔  
ابتداء میں سبب ہوتا ہے اور انتہا میں سبب پیدا کرنے والا  
بتدی بذریعہ سبب ویسے ہی طلب کرتا ہے۔ جیسے کہ پرند

يَطْلُبُ آبَاهُ دَامَتْهُ حَتَّى يَرْتَفِئَ عَلَيْهِ فَإِذَا الْبُرْ  
وَتَعَلَّمَ الطَّيْرَ أَنْ اسْتَعْنَى عَنْهُمَا عِنْدَ  
قُوَّةِ جَنَاحِهِ وَطَلَبَ الرِّزْقَ مُنْفَرِدًا  
بِنَفْسِهِ هَلْ أَكَلَ أَحَدُكُمْ قُطْلَ لَقْمَةٍ مِّنْ  
يَدِ تَوَكُّلِهِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ  
غَيْرِ حَوْلٍ وَ قُوَّةٍ وَ الْخَلْقِ وَ  
إِلَّا تَكَايَلَعْتُمْ

وَيَحْكُمُ تَدْعُونَ مَا لَيْسَ فِيكُمْ كَيْفَ  
تَدْعِي الْإِسْلَامَ وَالْإِيْقَانَ وَ الشَّوْحِيْدَ  
وَ أَنْتَ مُعْتَمِدٌ عَلَى حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ  
وَ أَسْبَابِكَ كُنْ عَاقِلًا هَذَا أَرَأَيْتَ  
يَجِيئُ بِاللَّعْوَى

وَيَحْكُ تَقَعُدُ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَعِظُ  
النَّاسَ ثُمَّ تَضْحَكُ وَ تَحْكِي حِكَايَاتِ  
مُضْحِكَةٍ لَا جَرَمَ لَا تُفْلِحُ وَلَا يُفْلِحُونَ  
أَلَا عِظُ مَعْلَمٍ وَ مُؤَذِّنٍ وَ الشَّامِعُونَ  
كَالْمُصْبِيَّانِ وَ الصَّبِيَّانِ لَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا بِالْمَشُورَةِ  
وَلَزُومِ الْحُزْمِ وَ الْعَبُوسِ وَ أَحَادٍ أَفْرَادٍ  
مِّنْهُمْ يَتَعَلَّمُونَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مُؤَهَّبَةً مِّنْ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرٌ مِّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ  
بِظَاهِرِهِ وَ يَقُولُ كَمَا قَالَ الْكُفَّارَانِ هُوَ  
إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا  
يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ قَالُوا هَذَا وَ كَثِيرٌ  
مِّنْكُمْ يَقُولُ ذَلِكَ وَ كَيْسَرُوْنَهُ يَقُولُونَ بِأَفْعَالِهِمْ  
الَّتِي قُصِدَتْ مِنْهُمْ فَتَالَهُمْ عِنْدِي

کا بچہ اپنے ماں و باپ سے طلب کرتا ہے یہاں تک کہ وہ  
دونوں اُسے رزق دیتے رہتے ہیں پس جب وہ بچہ بڑا  
ہو جاتا ہے اور اڑنا سیکھ لیتا ہے تو ماں و باپ دونوں سے  
اپنے بازو کی قوت کے وقت بے پروا ہو جاتا ہے اور  
تنہا خود رزق طلب کرنے لگتا ہے۔ آیا تم میں سے کسی نے  
ایک لقمہ کبھی اپنے رب پر توکل کے ہاتھ سے بغیر اپنی طاقت و  
قوت اور مخلوق پر بھروسہ کرنے کے کھایا ہے۔

تم پر افسوس ہے کہ تم ایسی چیزوں کا دعوے کرتے ہو  
جو تم میں موجود نہیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں کہ تیرا بھروسہ اپنی  
طاقت و قوت و اسباب پر ہے ایمان و ایقان و توحید کا کیسے  
دعوے کرتا ہے۔ تو غفلت مندین یہ امر محض دعوے سے حاصل  
نہیں ہوتا ہے۔

تبھی پر افسوس ہے کہ تو اس مقام پر بیٹھ کر لوگوں سے وعظ  
کتاب ہے پھر ان میں ہنستا ہے اور محکمہ خیر حکایتیں بیان کرتا ہے  
ایسی صورت میں یقیناً نہ تو فلاح پائے گا اور نہ وہ لوگ فلاح  
پائیں گے۔ واعظ تو معلم اور ادب سکھانے والا ہے اور سننے  
والے مثل بچوں کے۔ اور بچہ بغیر سختی اور بغیر لزوم احتیاط اور  
ترش روی کے کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ان میں سے بعض ہی افراد  
بغیر ان امور کے عطاء الہی سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ دعویٰ ان  
اسلام سے جو کہ ظاہر اسلام کا دعوے کرتے ہیں بہت ایسے  
ہیں جن کا قول مثل کفار کے ہے کہ ہمارا زندگی تو یہی دنیا  
کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کیا کرتا  
ہے ہم کو مگر زمانہ کافروں نے یہ کہا اور تم میں سے اکثر ایسا ہی  
کہتے ہیں اور اُس کو چھپاتے ہیں اور اپنے فعلوں سے جو ان  
سے قصد کیے گئے ہیں اس کے قائل ہیں۔ پس میرے نزدیک

قَدَرٌ وَلَا ذَرْئٌ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ يَكْشِفُ  
عِنْدَ الْحَقِّ عَنَّا وَجَلَّ لَا عَقْلَ لَهُمْ وَلَا  
تَمَيُّزَ عِنْدَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الضَّارِّ  
وَالنَّافِعِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ  
وَجَدْنَا مُتَاعًا عِنْدَهُ مِنْ وَجْدٍ عِنْدَ مُتَاعِ  
الْوَلَايَةِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ إِذَا صَلَحَ  
الْقَلْبُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَدْعُهُ مَعَ الْخَلْقِ  
وَالْأَسْبَابِ لَا يَدْعُهُ مَعَ الْبَيْعِ  
وَالشِّرْيِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ بِالسَّبَابِ  
يُمَيِّزُكَ وَيُقِيمُكَ مَنْ سَقَطَتْهُ وَ  
عَلَى بَابِهِ يُقْعِدُكَ وَفِي حَجَرٍ لُطْفُهُ  
يُنَوِّمُهُ۔

وَيُحَلِّقُ قَيْصُ اسْلَامِكَ مُحَرِّقٌ  
وَقَوْبُ إِيْمَانِكَ نَجَسٌ أَنْتَ عَزِيْزٌ  
قَلْبِكَ جَاهِلٌ سِرُّكَ مُكْدَرٌ صَدْرُكَ  
بِالْإِسْلَامِ غَيْرُ مَشْرُوحٍ بِاطْنِكَ خَرَابٌ  
وَضَاهِرُكَ عَامِرٌ صَحَائِفُكَ مُسَوَّدَةٌ  
دُنْيَاكَ الَّتِي تَجْمَعُهَا وَتُجِبُّهَا عِنْدَكَ  
رَاحِلَةٌ وَالْقَبْرِ وَالْآخِرَةِ مُقْبِلَانِ إِلَيْكَ  
تَنْبَتُهُ لَا مَرِكَ وَمَا تَصْنَعُ إِلَيْهِ  
عَنْ قَرِيبٍ رُبَّمَا كَانَ مَوْتُكَ الْيَوْمَ  
أَوْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ يَحَالُ بَيْنَكَ  
وَبَيْنَ أَمْوَالِكَ مَا تَأْمَلُهُ مِنَ الدُّنْيَا

ان کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ ان  
کا حال حق عز و جل کے روبرو کھلے گا انھیں نہ عقل ہے اور نہ  
تمیز جس کے ذریعے ضرر رساں اور نفع رساں چیزوں  
کے درمیان جدائی کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں  
ارشاد الہی بر نقل قول یوسف علیہ السلام ہے پناہ بخدا کہ ہم اس  
کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس کر اپنا اسباب پایا ہے  
ایسے ہی وہ شخص جس کے پاس ولایت و توحید و ایمان کی  
پونجی پائی جائے گی مستحق قرب ہو گا جب قلب اللہ عز و جل  
کے لیے صالح ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اُس کو مخلوق اور  
اسباب کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہے اور نہ اسباب کے ذریعہ  
سے خرید و فروخت اور لین دین کے ساتھ چھوڑتا ہے۔  
اُس کو دوسروں سے تمیز دے دیتا ہے اور اُس کو اس  
کی پستی سے اٹھا کر اپنے دروازہ پر بٹھالیتا ہے۔ اور اپنے  
لطف کی گود میں اُس کو سلا دیتا ہے۔

تجھ پر افسوس ہے تیرے اسلام کا کرتہ پھٹا ہوا ہے اور  
تیرے ایمان کا کپڑا نجس ہے تو برہنہ ہے تیرا قلب جاہل ہے  
تیرا باطن کدر ہے اور تیرا سینہ اسلام سے کشادہ کیا گیا نہیں ہے  
تیرا باطن خراب ہے اور تیرا ظاہر آباد ہے تیرے نامہ اعمال  
سیاہ ہیں تیری وہ دنیا جس کو کہ تو جمع کرتا ہے اور دوست رکھتا  
ہے۔ تجھ سے رخصت ہونے والی ہے اور قبر و آخرت تیری  
طرف منہ کیے ہوئے آنے کو تیار ہیں تو اپنے معاملہ اور اُس  
امر کے واسطے جس کی طرف تو عنقریب رجوع کرے گا ہوشیار  
ہو جا۔ ممکن ہے کہ تیری موت آج ہی یا اسی ساعت میں واقع  
ہو جائے۔ اور وہ تیری اور تیری آرزوؤں کے درمیان میں  
حائل کر دی جائے۔ دنیا سے جن چیزوں کا تو آرزو مند ہے

لَا تَجِدُهُ وَلَا تُلْحِقُهُ وَ مَا قَدْ نَسِيَهُ مِنَ  
 الْآخِرَةِ فَهُوَ يُلْحِقُكَ إِلَّا شَتَّعَالَ يُغَيِّرُ اللَّهُ  
 هَوَسَ وَالْخَوْفَ مِنْ غَيْرِهِ وَالرَّجَاءَ لَهُ  
 هَوَسٌ أَحَدٌ لَا يَصْنَعُ وَلَا يَنْفَعُ غَيْرُ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا  
 الْحُكْمَ وَارِدًا عَلَى السَّبَبِ إِذَا عَمِلْتَ  
 بِالْحُكْمِ بِهِ حَقَّقْتَ الْعَمَلَ بِهِ وَقَعْتَ  
 الْأَسْبَابَ عَنْكَ كَمَا تَقَعُ الْأَوَاقُ مِنَ الشَّجَرِ  
 يَظْهَرُ الْمُسَبَّبُ وَيَذْهَبُ الْأَسْبَابُ يَظْهَرُ  
 اللَّبُّ وَيَذْهَبُ الْقَشْرُ اللَّبُّ هُوَ التَّعَلُّقُ  
 بِالْمُسَبَّبِ هُوَ الْأَصْلُ هُوَ كَالشَّجَرَةِ مِنَ  
 الشَّجَرَةِ الْمَوْحِدِ يَتَّقِلُ فِي الْأَحْوَالِ يَتَّقِلُ  
 مِنَ الْقَرَابَةِ إِلَى السَّاقِيَةِ وَمِنَ السَّاقِيَةِ  
 إِلَى التَّهَرُّ وَمِنَ التَّهَرُّ إِلَى الْبَحْرِ يَتَّقِلُ مِنَ  
 الْقَرِيعِ إِلَى الْأَصْلِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدِ مِنَ  
 الْعَبْدِ إِلَى الْمَعْبُودِ مِنَ الصَّنْعَةِ إِلَى الصَّانِعِ  
 مِنَ الْعَاجِزِ إِلَى الْقَادِرِ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى  
 مِنَ الضَّعِيفِ إِلَى الْقَوِيِّ مِنَ الْقَلِيلِ إِلَى الْكَثِيرِ  
 لَا تَطْلُؤُوا عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْكُمْ قُلُوبُهُمْ فَارْعَةُ  
 مِنَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ مِنْكُمْ فِي  
 نَفْسِهِ فَلْيَلِجْهَا بِلِجَامِ السُّكُوتِ وَحُسْنِ  
 الْأَدَبِ وَيَذْهَبْ عَنْهَا بِدَرِجِ التَّقْوَى فَذَلِكَ  
 سَبَبٌ طَمَاحٌ نِيَّتُهَا وَوُصُولُهَا إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ  
 الْوُصُولُ وَوُصُولَانِ اثْنَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ  
 الْعَامُّ الْوُصُولُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

اُن کو تو نہ پاس کے گا اور نہ وہ تجھے ملیں گی۔ اور جس چیز کو تو آخرت  
 سے بھول لیا۔ ہوا ہے پس وہ تجھے ضرور ملے گی۔ تیرا غیر اللہ کے  
 ساتھ مشغول ہونا سراسر اپاہوس ہے۔ اور تیرا خوف اور امید والہ  
 غیر اللہ سے سرتاپا ہوس ہے۔ سوار اللہ عزوجل کے نہ کوئی ہم  
 کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ وہ خدا ایسا ہے جس نے کہ ہر  
 شے کے لیے سبب پیدا کر دیا ہے۔ حکم سبب پر وارد ہوتا  
 ہے۔ جب تو نے سبب کے ساتھ حکم پر عمل کیا تو تو عمل کی  
 حقیقت پر پہنچ گیا سبب تجھ سے ویسے ہی گر جائیں گے  
 جیسے کہ جھاڑ سے پتے گر جاتے ہیں۔ سبب پیدا کرنے والا  
 ظاہر ہو جائے گا اور سبب چلے جائیں گے مغز ظاہر ہو جائے  
 گا اور چھلکا چلا جائے گا۔ مغز وہ سبب پیدا کرنے والے کے  
 ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے وہی اصل ہے وہی مثل درخت کے  
 پھل کے ہے موجد اپنے حالات میں انتقال کرتا رہتا ہے  
 خشکیزہ سے نلے کی طرف اور نلے سے نہر کی طرف اور  
 نہر سے دریا کی طرف انتقال کرتا ہے فرع سے اصل کی  
 طرف والد سے والد کی طرف بندہ سے معبود کی طرف کام  
 سے کاری گر کی طرف عاجز سے قادر کی طرف محتاج سے امیر  
 کی طرف ضعیف سے قوی کی طرف قلیل سے کثیر کی طرف  
 انتقال کرتا ہے۔ تم میرے اوپر زباں درازی نہ کرو۔ تم میں  
 سے اکثر ایسے ہیں جہاں کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ تم میں سے  
 جس کے نفس کو کوئی حاجت ہو پس وہ نفس کے منہ میں سکوت  
 اور حسن ادب کی لگام دے دے اور وہ نفس کو تقوا سے کیڑہ  
 پینا دے پس یہ نفس کے اطمینان اور اس کے وصول  
 الے اللہ کا سبب بن جائے۔ وصول دو قسم کا ہے۔ ایک  
 وصول خاص اور ایک وصول عام۔ وصول عام موت کے بعد اللہ کی طرف

پہنچنا ہے اور وصول خاص بعض افراد اہل اللہ کے قلوب کا قبل موت کے خدا کی طرف پہنچ جانا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں۔ جو کہ اپنے نفسوں سے مخالفتوں کے ساتھ جہاد کیا کرتے ہیں اور ضرور نفع کے متعلق مخلوق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پس وہ جب اس پر مدامت کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف ایسے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ عوام اُس کی طرف بعد موت کے پہنچتے ہیں۔ جس کے لیے یہ حالت صحیح ہو جاتی ہے اُس کو تمکین و بسط قدرت و وسعت اور خدا سے ہم کلامی اور انس حاصل ہو جاتا ہے اُس وقت یہ واصل الی اللہ کہتا ہے تم سب اپنے اہل و عیال کو لے کر اویسٹ علیہ السلام جب کوئیں اور قید خانہ سے نکلے اور اُن مصیبتوں پر جو انھیں جھیلنا پڑیں صبر کیا۔ پس جب وہ صاحب اقتدار ہو گئے اور تمام چیزیں اُن کے قبضہ میں آ گئیں پس انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم اپنے سب اہل کو لے کر آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو غنا و ملک حاصل ہوا اور مقام قبضہ جاکر مقام بسط حاصل ہو گیا اور اس سے پہلے کوئیں اور قید خانہ میں گونگے تھے پس جب اُس سے باہر نکلے تو گویائی حاصل ہو گئی۔

اے قوم تم ہر چیز کو ہر چیز کے پیدا کرنے والے سے طلب کرو تم اپنے گل کو اسی کی طلب میں خرچ کرو۔ اہل اللہ نے قرب الہی کی طلب میں اپنی روحوں کو خرچ کر دیا اور جو اُن کا مطلب تھا۔ اُس کو انہوں نے معلوم کر لیا تو ان پر اپنی روحوں کا خرچ کرنا آسان ہو گیا۔ جس نے اپنے مطلوب کو معلوم کر لیا۔ اُس پر جو کچھ بھی خرچ ہو وہ اُس پر آسان ہو جاتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص بردہ فروش کے حجرہ پر ہو کر گزرا پس اُس نے اُس حجرہ میں ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا پس

بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْخَاصُّ وَصُولُ قُلُوبِ أَحَادٍ  
أَفْرَادٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ  
هُمْ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْخَالَاتِ  
وَيَخْرُجُونَ عَنِ الْخَلْقِ فَيَمَارِجُهُ إِلَى الظَّرِّ  
وَالْتَفَعِ فَإِذَا أَدَامُوا عَلَى هَذَا وَصَلُوا إِلَيْهِ  
كَمَا يَصِلُ الْعَوَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ صَمَّ لَهُ  
هَذَا جَاءَهُ التَّمَكُّنُ وَالْبَسْطُ وَالْمُحَادَثَةُ  
وَالْمُؤَانَسَةُ حِينَئِذٍ يَقُولُ هَذَا الْوَاصِلُ  
إِنَّمَا تَوَفَّيَ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ يُوسُفُ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ لَمْ كَمَا خَرَجَ مِنَ الْجُبِّ وَالسَّجَنِ  
وَصَبَرَ عَلَى تِلْكَ الشَّدَائِدِ فَلَمَّا تَمَكَّنَ وَ  
صَارَ الْكُلُّ تَحْتَ يَدِهِ قَالَ لِأَخَوْتِهِ إِنَّمَا تَوَفَّيَ  
بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ لَمَّا جَاءَهُ الْغِيَا وَالْمَلِكُ  
وَذَهَبَ الْقَبْضُ وَجَاءَ الْبَسْطُ وَكَانَ قَبْلَ  
ذَلِكَ أَخْرَسَ فِي الْجُبِّ وَالسَّجَنِ فَلَمَّا  
خَرَجَ جَاءَتْهُ الْفَصَاحَةُ

يَا قَوْمِ أَطْلُبُوا الْكُلَّ مِنْ خَالِقِ  
الْكُلِّ ابْدُلُوا كُلَّكُمْ فِي طَلِبِهِ  
الْقَوْمُ بَدَلُوا الْأَسْرَاحَ فِي طَلِبِ  
قُرْبِ نَفْسِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمُوا  
بِالَّذِي يَطْلُبُونَ فَهَانَ عَلَيْهِمْ  
بَدْلُ الْأَرْحَامِ مَنْ عَلِمَ مَا يَطْلُبُ  
هَانَ عَلَيْهِ مَا يَبْدُلُ مُحْيَى أَنْ رَجُلًا  
اجْتَنَسَ عَلَى حَجَرَةٍ نَحَاسٍ فَرَأَى

فِيهَا جَارِيَةٌ مُّسْتَحْسِنَةٌ فَتَعَلَّقَتْ  
بِقَلْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَجَاوَزَ  
الْمَوْضِعَ وَكَانَ تَحْتَهُ خَرَسٌ  
يُسَوِّي مَاءً دِيْنَارًا وَعَلَيْهِ أَثَرُ  
جَمِيلَةٍ وَهُوَ مُقَلَّدٌ بِسَيِّفٍ مُحَلٍّ  
بِالدَّهَبِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَمْلُوكٌ  
أَسْوَدٌ يَحْمِلُ الْعَاشِيَةَ فَتَقَدَّمَ إِلَى  
صَاحِبِهَا وَطَلَبَ مِنْهُ يَبْعُهَا فَقَالَ  
لَهُ لَا سِتْلَكَ أَتَكَ قَدْ أَحْبَبْتَ جَارِيَتِي  
وَالْمَحْبُوتُ يَبْذُلُ كُلَّ مَا يَمْلِكُ فِي  
طَلَبِ مَحْبُوبِهِ وَلَا أَبْيَعُهَا إِلَّا بِجَمِيعِ مَا  
تَمْلِكُ يَدُكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَتَزَلُ  
عَنْ فَرَسِهِ وَخَلَعَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ  
مِنَ الْخِيَابِ وَاسْتَعَارَ قَمِيصًا مِنَ  
النَّحَّاسِ وَسَلَّمَ الْجَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مَعَ  
الْمَمْلُوكِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
أَخَذَ الْجَارِيَةَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ  
خَافِيَةً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ لَمَّا بَدَلَ  
الشَّمَنَ أَخَذَ الشَّمَنَ عَرَفَ مَا طَلَبَ  
فَهَانَ عَلَيْهِ مَا بَدَلَ الصَّادِقِ فِي  
الْمَحَبَّةِ لَا يَقِفُ مَعَ غَيْرِ مَحْبُوبِهِ  
إِذْ قَالَ الْوَاحِدُ مِنَ الْخُلُقِ قَدْ سَمِعْتُ  
بِخَبَرِ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنَ النِّعَمِ يَقُولُ  
عَمْرٌ وَجَلَّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُ  
وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ فَمَا تَشْتَهِي قُلْنَا لَهُ

اُس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی پس اس جگہ سے اُگے  
بڑھنے کی قدرت اس میں نہ رہی اور اس کی سواری میں ایک  
گھوڑا تھا جس کی قیمت سو دینار تھی۔ اور بدن پر عمدہ عمدہ  
کپڑے تھے۔ اور گلے میں سونے کی جڑاؤ تھار تھی۔ اور اُس  
کے اُگے ایک حبشی غلام غاشیہ بردار تھا۔ پس شخص اس  
بردہ فروش کی طرف بڑھا اور اُس سے اس لونڈی کی خریداری  
کی خواہش کی۔ اُس نے یہ جواب دیا کہ اس میں یقیناً شک نہیں  
ہے کہ تو میری لونڈی کا عاشق ہو گیا ہے اور عاشق کا قاعدہ ہے  
کہ وہ اپنی تمام ملکیت کی چیزوں کو اپنے محبوب کی طلب میں  
خرچ کر دیا کرتا ہے۔ اور میں اس کو بغیر اس کے کہ تو تمام مملوک  
چیزیں جن کا تو اس وقت مالک ہے اس کی قیمت میں دیدے  
فروخت نہ کروں گا یہ سن کر وہ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے اتر  
آیا اور تمام وہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھا اتار دیئے اور اس  
بردہ فروش سے ایک قمیص عاریت لے کر پہن لی اور تمام موجود  
چیزیں مع حبشی غلام غاشیہ بردار کے اُس بردہ فروش کے  
حوالہ کر دیں اور اُس کی لونڈی کو لپک کر ننگے پاؤں اور نہر نہر  
اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اُس عاشق نے قیمت کو خرچ  
کیا اور اس کے بدلے کی چیز لے لی اُس نے اپنے مطلوب کو  
پہچان لیا پس اُس پر تمام خرچ آسان ہو گیا۔ جو کہ محبت کے  
دعوے میں سچا ہوتا ہے وہ بجز محبوب کے کسی کے پاس قرار  
ہی نہیں لیتا ہے جب مخلوق میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے  
جنت کی اور جو کچھ کہ اُس میں نعمتوں سے ہے مطابق ارشاد الہی  
وفیہا الاشیہ اور جنت میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس  
کی کہ نفس خواہش کریں گے اور انھیں لذت سمجھیں گی خبر سن لی  
ہے پس اُس کی قیمت کیا ہے۔ ہم نے اُس کو جواب دیا کہ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
 بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ سَلِّمِ النَّفْسَ وَ  
 الْمَالَ وَفَرَّ صَارَتْ لَكَ وَقَالَ آخِرُ  
 أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ  
 وَجْهَهُ قَدْ لَمَعَ قَلْبِي بَابِ الْقُرْبِ  
 وَأَمَرَى الْمُحِبِّينَ دَاخِلِينَ فِيهِ وَ  
 خَارِجِينَ مِنْهُ وَعَلَيْهِمْ خَلَعَ  
 الْمَلِكُ قَمِيصًا شَمَّ الدُّخُولَ إِلَيْهِ  
 قُلْنَا لَهُ أَبَدُلْ كَلِمَكَ وَاتْرُكْ شَهَوَاتِكَ  
 وَلَدَّ أَمْرَكَ دَاخِلٌ فِيهِ عَنْكَ وَدَرِ  
 الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا وَاتْرُكْهَا وَدَرِ النَّفْسَ  
 وَالْهَوَى وَالطَّبْعَ وَدَرِ الشَّهَوَاتِ  
 الدُّنْيَوِيَّةَ وَالْآخِرَوِيَّةَ وَدَرِ الْكُلَّ  
 وَاتْرُكْهُمْ وَمَا أَعَاكَ قَلْبِكَ ثُمَّ ادْخُلْ  
 فَإِنَّكَ تَرَى مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا  
 أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ  
 مَنْ تَحَرَّكَ هَذَا وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامُ  
 قَلْبِهِ فِيهِ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ  
 تَكُونَانِ لَهُ نِعْمَةً مُجَرَّدَةً بِلَا نِقْمَةٍ  
 تَصِيرَانِ نَزْلًا لَهُ وَاجْرَتُهُ الْقُرْبُ فِي  
 الدُّنْيَا بِقَلْبٍ وَالنَّظَرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعَيْنِهِ  
 يَا غُلَامُ قَدْ أَلَّفَ اللَّهُ لَكُمْ ذُرِّيَّتَهُ  
 قُلِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتري الاية تحقيق  
 اللہ نے ایمانداروں سے اُن کی جانوں اور مالوں کو جنت کے  
 وعدے پر خرید لیا ہے۔ تو اپنے جان و مال کی سپرد  
 کر دے جنت تیری ہو جائے گی۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں  
 یہ چاہتا ہوں کہ میں اُن لوگوں میں سے ہو جاؤں جو کذات الہی  
 کے چاہنے والے ہیں میں کہ قلب نے باب قرب کو ملاحظہ  
 کر لیا ہے اور میں عاشقوں کو اُس میں آتے جاتے ایسی حالت  
 میں کہ وہ بادشاہی خلعت پہنے ہوئے ہیں دیکھ رہا ہوں پس اُس  
 دروازہ کی طرف داخل ہونے کی کیا قیمت ہے۔ ہم نے  
 اُسے جواب دیا تو اپنے کل کو اُس کے راستہ میں صرف کر دے  
 اور اپنی خواہشوں اور لذتوں کو چھوڑ دے اور خودی سے علیحدہ  
 ہو کر تو اُس میں فنا ہو جا جنت اور ما فیہا اور نفس و خواہش و  
 طبیعت اور شہوات و دنیا و آخرت کو چھوڑ دے اور سب کو  
 چھوڑ کر قلب کے پیچھے ڈال دے پھر تو اُس جگہ داخل ہو جا  
 وہاں پر تحقیق تو وہ چیزیں دیکھے گا جو کہ اُنکھ نے دیکھی ہیں اور  
 نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی انسان کے قلب پر خطہ بن کر گزری  
 ہیں جس کو کامل طور پر یہ مرتبہ مل جاتا ہے اور اُس کے قلب کے  
 قدم وہاں جم جاتے ہیں دنیا و آخرت دونوں اُس کے لیے  
 بلا رنج و مشقت کے خالص نعمت بن جاتے ہیں یہ دونوں  
 اُس کی مہمانی کا سامان ہو جاتے ہیں اور اُس کی اجرت و دنیا  
 میں قلب کے ساتھ قرب الہی ہو جاتا ہے اور قیامت کے  
 دن اُنکھ سے دیدار الہی اجرت ہے۔

اے غلام تو اللہ اللہ کہہ بدہ سب کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ  
 کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے  
 ہدایت دے گا۔

يَا ذَاهِدًا فِي الدُّنْيَا إِذَا خَرَجَ قَلْبُكَ  
مِنْهَا طَالِبًا لِلْآخِرَةِ فَقُلْ الَّذِي خَلَقَنِي  
فَهُوَ يَهْدِينِ وَأَنْتَ يَا مُرِيدُ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ الرَّاعِبُ فِيهِ الرَّاهِدُ فِيهَا سَوَاءٌ  
إِذَا خَرَجَ قَلْبُكَ مِنْ بَابِ الْحَقِّ طَالِبًا  
لِلْمَوْلَا فَقُلْ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ  
إِسْتَعْلَ بِهَذَا آيَتِهِ مِنْ دَعَارِ الطَّرِيقِ  
يَا مَنْ أَرَادَ السُّلُوكَ فِي هَذَيْنِ  
الطَّرِيقَتَيْنِ اسْتَدَلَّ بِتَنْ قَدْ سَكَّهُمَا  
وَعَرَفَ الْمَوَاضِعَ الْمُخَوِّفَةَ مِنْهُمَا  
وَهُمُ الْمَشَاشِعُ الْعَمَّالُ بِالْعَمَلِ بِالْعِلْمِ  
الْمُخْلِصِينَ فِي أَعْمَالِهِمْ

يَا غَلَامُ كُنْ غَلَامَ الدَّرِيلِ  
إِتَّبِعْهُ أَتْرَكَ مَخْلَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
سِرْمَعَهُ تَامَرَةً عَنْ يَمِينِهِ وَتَارَةً عَنْ  
شِمَالِهِ وَتَامَرَةً وَرَاءَهُ وَتَارَةً أَمَامَهُ  
لَا تَخْرُجْ عَنْ رَايِهِ وَلَا تُخَالِفْ قَوْلَهُ  
فَإِنَّكَ تَصِلُ إِلَى مَقْصُودِكَ وَلَا تَضِلُّ  
عَنْ جَادَتِكَ وَحَدِّ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ  
وَقَدْ كُفِّتَ الْمَهَامَ وَمَرَّاتٍ عَنْكَ  
الْكُرُوبُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا  
تَوَكَّلَ فِي الْمَنْجَنِيْقِ حَتَّى يَرَى فِي النَّارِ  
قِطْعَ الْوَسَائِطِ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتَفِ إِلَى  
غَيْرِ مَا بِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا جَرَمَ قَالَ لِلنَّارِ

اسے دنیا میں زہد کرنے والے جب تیرا قلب دنیا  
سے آخرت کا طالب بن کر باہر نکلے پس کہو جس نے مجھے پیدا کیا  
وہی مجھے ہدایت بھی دے گا اور وہی منزل مقصود تک  
پہنچا دے گا۔ اور تو اسے حق کے ارادہ کرنے والے طالب  
مولائے اس میں رغبت کرنے والے ماسوائے اللہ سے زہد  
جب کہ تیرا قلب طلب مولیٰ میں جنت کے دروازہ سے باہر نکلے  
پس کہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس وہی مجھے منزل مقصود پر  
پہنچائے گا تو اس کی ہدایت کے ساتھ راستہ کی ٹانگی سے منہ  
پھیرے چل کھڑا ہوا ہے وہ کہ جس نے ان دونوں راستہ کے  
چلنے کا ارادہ کیا ہے تو ان لوگوں سے رہنمائی طلب کر جو کہ ان  
دونوں راستوں پر چل چکے ہیں اور ان کی خوف ناک جگہوں کو  
پہچان چکے ہیں اور وہ وہ مشائخ ہیں جو کہ علم کی وجہ سے عمل کرنے  
والے اور اپنے عملوں میں اخلاص والے ہیں۔

اے غلام تو رہنما کا غلام بن جا اسی کی تابعداری کر۔ تو اپنی  
سواری اس کے آگے چھوڑ دے اور اس کے ساتھ چلا چل  
کبھی اس رہنما کے دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب  
سے اور کبھی پیچھے سے اور کبھی اس کے آگے سے تو اس کی  
راستے سے باہر نہ ہو اور اس کے قول کی مخالفت نہ کر پس  
تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا اور اپنے راستہ سے  
زبکے گا۔ تو خدا کی توحید پر قائم رہ تیری تمام مشکلات سے  
کفایت کی جائے گی اور تجھ سے تمام مصیبتیں دور ہو جائیں  
گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ وہ گوجھن میں آگ میں  
ڈالنے کے لیے رکھے گئے اپنے تمام واسطوں کو قطع کر  
دیا اور رب عزوجل کے سوا کسی غیر کی طرف توجہ نہ کی۔ اور  
لیے آگ سے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ تو

كُوْنِي بَرْدًا سَلَامًا عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ يَا نَارُ  
 اِنْعَزِيْ تَغْيِيْرِيْ وَتَبَدُّلِيْ كَيْفِيْ حَزَلِكِ وَ  
 شَرِّكِ كَيْفِيْ سِتَانِكَ وَسَيْفِكَ وَحَزَلِكِ وَ  
 غَضَبِكَ اِنْبِرْهِيْ اِنْجَعِدِيْ كُوْنِي بَرْدًا اَوْ  
 قَدْرًا يَلَا اَذِيَّةً كُلُّ هَذَا اِبْرَكَةِ التَّوْحِيْدِ  
 وَالْاِخْلَاصِ فِيْهِ الْعَبْدُ اِذَا وَحَدَّرَتْهُ عَزَّةٌ  
 وَجَلَّ وَأَخْلَصَ لَهُ تَارَةً يَكُوْنُ لَهُ  
 فَيْدٌ خُلِيَ فِيْ تَكْوِيْنِهِ تَارَةً تُسَلَّمُ اِلَيْهِ  
 التَّكْوِيْنُ وَيَكُوْنُ هُوَ لِنَفْسِهِ هَذَا الْخَوَاصَّةُ  
 مِنْ خَلْقِهِ كُلُّ مَنْ دَخَلَ اِلَى الْجَنَّةِ يَقُوْلُ  
 لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُوْنُ الشَّانُ فِيْ تَكْوِيْنِ  
 الْيَوْمِ لَا عَدَا مَا نَزَلَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ عَلٰی قَدَمِ التَّوَكُّلِ فِيْ حَالِ  
 صُغُرِهِ وَكِبَرِهِ كَانَ فِيْ اَذْيَا الْخَلْقِ مِنْ  
 الْجِيْرَانِ وَغَيْرِهِمْ وَكَثْرَةِ الْعِيَانِ  
 مِنَ الْفَقْرِ وَضَبِيقِ الْمَعِيْشَةِ وَجَلَاءِ  
 السَّعْرِ وَرَمَادِ الْاِخْوَانِ اَبْوَابُهُمْ فِيْ  
 وَجْهِهِ سَتَدٌ كُرُوْنٌ قُوْلِيْ وَتَتَدُمُوْنَ  
 اِسْمَعُوْا مَعْنٰى قِيَامِيْ نَائِبٌ عَنِ الرَّسُوْلِ  
 صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ وَعَنْ مَنْ اَرْسَلَهُ

اِلٰهِيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ  
 فِيْ هَذِهِ النِّيَابَةِ اَعْنِيْ عَلٰی هَذَا الْاَمْرِ  
 الَّذِيْ اَنَا فِيْهِ وَتَدَّ اَخَذْتُ الْاَنْبِيَاءَ  
 وَالرُّسُلَ اِلَيْكَ وَقَدْ اَوْقَعْتَنِيْ فِيْ  
 الصَّغْرِ الرَّوْلِ اُقَاسِيْ خَلْقَكَ فَاسْأَلُكَ

ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی  
 ہو۔ اسے آگ تو جدا ہو کر نارا کر لے متغیر ہو جا اور بدل جا۔  
 اپنی گرمی اور شر کو روک لے۔ تو اپنے بھالے اور تلوار اور  
 حرارت و غضب کو روک لے۔ سمٹ جا اور سکڑ جا بغیر ایندھ  
 کے ٹھنڈا ہو کر رہ بن جا۔ کل یہ باتیں آپ میں بابرکت توحید  
 و اخلاص ہوئیں تھیں۔ بندہ جب خدا کا موجد بن جاتا ہے اور  
 اُس کے لیے سراپا اخلاص ہو جاتا ہے تو کبھی خدا اس کا ہو  
 جاتا ہے۔ وہ خود اس میں تصرف فرماتا ہے کبھی بندہ تو تصرف  
 پر دکر دیا جاتا ہے اور بندہ بطاء الہی بذاتہ خود متصرف ہو جاتا  
 ہے یہ مخلوق میں سے خاص بندگان الہی کا حال ہے ہر وہ شخص  
 جو کہ جنت میں داخل ہو گا جب کسی شے سے کئے گا ہو جا۔  
 پس وہ شے موجود ہو جائے گا۔ مگر مرتبہ کمال یہ ہے۔  
 کہ یہ مرتبہ آج ہی مل جائے وہ کہ کل۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مغرور  
 میں قدم توکل پر قائم رہے۔ پڑوسیوں وغیرہ اور اولاد کی کثرت  
 سے مخلوق کی تکلیفوں اور محتاجی اور تنگ عیشی اور گرانی نزع  
 اور بھائی بندوں کی آپ کے آنے کے وقت اپنے دروازوں  
 کو بند کر لینے کی ایذا میں بہتے رہے۔ ترب ہے کہ تم میرے  
 قول کو یاد کرو گے اور نادم ہو گے۔ تم میرا کہنا سنو کیوں کر میں  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے  
 کا نائب ہوں۔

اے خدا میں اس نیابت میں یعنی اس امر میں کہ جس میں  
 میں مشغول ہوں تجھ سے عفو و عافیت طلب کرتا ہوں۔ تو نے  
 انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو اپنی طرف بلا لیا۔ اور تو نے اُن  
 کی نیابت میں مجھے اول صف میں کھڑا کر دیا ہے میں تیری  
 مخلوق کی ایذا میں برداشت کرتا ہوں اس لیے میں تجھ سے

الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ الْكَفَى نَشْرَ شَيْءٍ طِينِ  
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَشَرِّ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ  
أَمِينٌ -

يَا مُهَادُّ يَا عَبَادُ أَخْلِصُوا وَلَا فَلَ  
تَتَعَبُوا وَقَدْ طَابَ لَكُمْ الصُّومُ وَالصَّلَاةُ وَ  
الزَّكَاةُ فِي الْمَطْعِمِ وَالْمَلْبَسِ مِنْ غَيْرِ  
نِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَإِحْلَاصٍ بَلْ مَعَ حُضُورِ  
النَّفْسِ وَدُخُولِ الْهَوَى -

وَيَحْكُمُ لِلْقَوْمِ أَعْمَالٌ مِّنْ ذُرَايِ  
ذَلِكَ مِّنْ حَيْثُ قُلُوبُهُمْ يَدُومُونَ مَعَ  
الْقَدْرِ فِي صُحْبَةِ الْحَكِيمِ وَحِفْظِ حُدُودِهِ  
فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ  
مَعَ الْخَائِفِ وَالْخَلْقِ يُعْطُونَ كُلُّ ذِي  
فَضْلٍ فَضْلَهُ وَكُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ يُعْطُونَ  
كِتَابَ اللَّهِ حَقَّهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ حَقَّهَا وَ  
عِلْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ  
حَقَّهُ يُعْطُونَ الْأَهْلَ وَالنَّفْسَ حَقَّهَا وَ  
الْقَلْبَ حَقَّهُ وَالْخَلْقَ حَقَّ قُلُوبِهِمْ فِي  
تَهْوِيضِ وَتَبْكِيكِ وَحَبْسِ وَإِطْلَاقِ وَ  
أَخْذِ وَعَطَاءِ يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْقُلُوبِ  
وَالْأَسْرَارِ وَالنَّفُوسِ يَحْتَسِبُونَ عَلَى  
الْخَلْقِ هَذَا شَيْءٌ مِّنْ ذُرَايِ مَا مَوَّاهُكُمْ وَ  
مَعْلُومِكُمُ الْمُؤْمِنُ إِذَا وَعَظَ أَخَاكَ وَلَمْ يَقْبَلْ  
مِنْهُ يَقُولُ سَتَذَكَّرُ مَا أَقُولُ لَكَ وَأَفُوضُ  
أَمْرِي إِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ

عفو و عافیت کا طالب ہوں تو تمام انسانوں اور جن اور تمام  
مخلوقات کی برائیوں سے مجھے کفایت کر اور محفوظ رکھ  
آمین۔

اے زاہدو! اور اے عابدو! تم اخلاص اختیار  
کرو ورنہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو تمہیں روزہ اور  
نماز اور موٹا جھوٹا کھانا پینا بغیر نیت صالحہ و اخلاص کے اچھا معلوم  
ہونے لگا ہے بلکہ حضور نفس اور خواہشات نفسانیہ کے داخل  
ہونے کے ساتھ ہیں۔

تم پر افسوس ہے اللہ والوں کے عمل حیثیت قلبی سے  
کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کے احکام کی معیت اور  
ظاہر و باطن اور سر و علانیہ میں حدود شرعیہ کی حفاظت کے  
ساتھ خالق و مخلوق کے ساتھ ہمکنہ گھومتے رہتے ہیں وہ ہر  
صاحب فضل کو اس کا فضل اور حق دار کو اس کا حق دیتے  
رہتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ کو اس کا حق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حق اور اس علم الہی جل مجدہ کو جو ان کے قلوب  
کے اندر ہے اس کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اہل و عیال  
اور نفس کو ان کا حق اور قلب کو اس کا حق اور مخلوق کو ان کے  
حقوق دیتے رہتے ہیں وہ لوگ شان تسلیم اور شان تمکین اور  
تقدور بائی اور لینے اور دینے میں مشغول رہتے ہیں وہ قلوب و  
اسرار اور نفوس پر حدیں قائم کرتے رہتے۔ ان کا اعتساب خلق  
پر جاری رہتا ہے یہ امر ایسے ہیں جو کہ تمہارے مامورات و  
معلومات سے پرے ہیں۔ مومن جب اپنے بھائی کو نصیحت  
کرتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا  
ہے کہ عنقریب تو میرے قول و نصیحت کو یاد کرے گا اور  
میں اپنا معاملہ خدا کو سونپتا ہوں۔ مومن عارف توحید و معرفت

يُجَاهِدُ نَفْسَ الْخَلْقِ بِسَيْفِ التَّوْحِيدِ  
وَالْمَعْرِفَةِ وَمَنْ حَصَلَ فِي أَسْرِهِ مِنْهُمْ  
حَمَلَهُ إِلَى بَابِ مَلِكِهِ هُوَ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ  
أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْمُؤْمِنِ الْعِبَادَةُ  
أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الْيَقِينُ إِلَى  
الصَّلَاةِ فَهُوَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِهِ وَقَلْبُهُ  
يَنْتَظِرُ الْمُؤَذِّنَ هُوَ دَاعِي الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ دَخَلَ عَلَى  
قَلْبِهِ سُورَةٌ وَيَطِيرُ إِلَى الْجَوَامِعِ  
وَالْمَسَاجِدِ يَفْرَحُ بِمَجِيءِ السَّائِلِ  
إِلَيْهِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُعْطِيهِ  
إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلُ هَدِيَّةُ اللَّهِ  
إِلَى عَبْدِهِ كَيْفَ لَا يَفْرَحُ وَقَدْ  
نَقَذَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَسْتَقَرَّ حَقُّ  
مِنْهُ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ هَذَا دَابُّ  
الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ وَأَمَّا الْعَارِفُ  
فَنَاتِهِ يَحْفَظُ حُدُودَ الشَّرْعِ وَ  
يَحْفَظُ قَلْبَهُ مِنْ دُخُولِ غَيْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ فِيهِ يَحْذَرُ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى قَلْبِهِ  
فَيَنْتَظِرُ فِيهِ خَوْفٌ غَيْرُهُ رَجَاءٌ غَيْرُهُ وَ  
إِلَّا تَكَالَ عَلَى غَيْرِهِ يَحْفَظُ قَلْبَهُ مِنْ  
النَّدَاسِ بِالْخَلْقِ وَالْأَسْبَابِ  
يَكْمُرُ لِقَاءَ الْخَلْقِ وَلَا يَدُلُّ لَهُ مِنْهُمْ  
لَا تَهْمُ مَرَضِي وَهُوَ طَيِّبُهُمْ

کی تلوار سے خلق کے نفسوں سے جہاد کرتا رہتا ہے اور جو اُن  
میں سے اُس کی قید میں آجاتا ہے تو وہ اُس کو شاہی دروازہ  
پر لے جاتا ہے خدا ہی اپنے بندوں کی حالت پر خبردار رہتا  
ہے۔ سب چیزوں میں سے زیادہ محبوب بندہ مومن کو  
عبادت الہی ہوتی ہے سب چیزوں میں سے زیادہ محبوب  
اُس کی طرف نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پس وہ اپنے گھر میں  
بیٹھ ہوئے قلب کے انتظار سے مؤذن کا انتظار کرتا رہتا ہے  
جو کہ حق عزوجل کی طرف پکارنے والا ہے جب وہ اذان سن  
لیتا ہے تو اُس کے قلب میں سرور داخل ہو جاتا ہے۔ اور  
قلب جامع مسجد اور دیگر مسجدوں کی طرف اُڑنے لگتا ہے وہ  
سائل کے آنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب اُس کے پاس کچھ  
موجود ہوتا ہے وہ سائل کو دے دیتا ہے کیوں کہ اُس نے  
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنا ہے کہ سائل اللہ تعالیٰ کا اُس  
کے بندہ کی طرف ہدیہ ہے وہ بندہ خوش کیسے نہ ہو حالانکہ اُس  
سائل کو اُس کے رب عزوجل نے اس کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ  
فقیر کے ہاتھ سے قرض حاصل کرے۔ یہ عابد ایمان والے  
کا طریقہ ہے اور لیکن جو عارف ہوتا ہے پس وہ توحد و شریع  
کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے قلب کی غیر اللہ کے اُس میں  
داخل ہونے سے حفاظت کرتا ہے وہ اس سے ڈرتا رہتا  
ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے قلب کی طرف توجہ کرے اور اُس  
میں وہ غیر اللہ سے خوف و امید اور اپنے غیر پر بھروسہ کرنا  
موجود رہے وہ اپنے قلب کی مخلوق و اسباب کے  
ساتھ متعلق ہو کر میلا کھملا کرنے سے حفاظت کرتا رہتا ہے  
مخلوق کی ملاقات کو مکروہ سمجھتا ہے حالانکہ اُس کو بغیر اُس  
کے چارہ نہیں ہے کیوں کہ مخلوق مریض ہے اور یہ اُن کا طبیب

يَكْرَهُ الْحَيَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيَاةَ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنْ عَذَّةٍ قُرْبَ رِيَّةٍ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُوَ  
 كُلُّ أَمْنِيَّتِهِ وَارْتِيَا مَاهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ  
 أَثَرْتُمْ أَخَوَتَكُمْ عَلَى دُنْيَاكُمْ وَأَثَرْتُمْ  
 عِبَادَتِي عَلَى شَهْوَاتِكُمْ وَعَزَّيْتُمْ وَجَلَّيْتُمْ  
 مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ إِلَّا لَكُمْ هَذَا قَوْلُهُ  
 لِهَؤُلَاءِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لِلْمُحْسِنِينَ لَهُ أَنْتُمْ  
 أَثَرْتُمْوَنِي عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي دُنْيَايَ وَ  
 آخِرَتِي عَزَّيْتُمْوَا الْخَلْقَ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَ  
 وَخَيَّيْتُهُمْ مِنْ أَسْرَارِكُمْ فَهَذَا وَجْهِي  
 لَكُمْ وَقُرْبِي لَكُمْ وَأُنْسِي لَكُمْ أَنْتُمْ عِبَادِي  
 حَقًّا مِنَ الْأَوَّلِيَاءِ مَنْ يَأْكُلُ فِي يَوْمِهِ مِنْ  
 طَعَامِ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهَا  
 يَرَى جَنَّتَهُ مَا فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَيَّبُ عَنِ  
 الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَيَعْزَلُ عَنِ الْخَلْقِ  
 وَيَحْجُبُ عَنْهُمْ وَيَعْمُرُ مِنَ الْأَرْضِ بِلَا مَوْتٍ  
 كَالْيَاسِ وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
 عَدَدُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ مَحْجُوبُونَ فِي الْأَرْضِ يَرَوْنَ  
 النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَهُمُ الْأَوَّلِيَاءُ فِيهِمْ كَثَرَةٌ وَ  
 الْأَعْيَانُ مِنْهُمْ فِيهِمْ قَلَّةٌ أَحَادُ أَفْرَادٍ مُفْرَدِينَ  
 وَالْكُلِّيَّاتُ مِنْهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ  
 تُنْشِئُ بِهِمُ الْأَرْضُ وَتُطِيرُ بِهِمُ  
 ف- اولیاد اللہ کی برکتوں کا تذکرہ

یہ دنیا و آخرت کی زندگی کو قرب الہی کی عزت کے مقابل میں  
 جو کہ اس کی تمام و کامل آرزو اور مراد ہے ناپسند کرتا ہے۔ نبی  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا کہ  
 اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے ایماندار بندوں سے  
 فرمائے گا کہ تم نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر اور میری عبادت  
 کو اپنی شہوتوں پر مقدم رکھا اور اختیار کیا قسم ہے میرے  
 عزت و جلال کی کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنت کو مگر تمہارے  
 واسطے ہی۔ یہ قول الہی مومنین کے لیے ہو گا۔ اور لیکن اپنے محبوب  
 لوگوں کے واسطے یہ ارشاد ہو گا کہ تم نے مجھ کو میری تمام مخلوق  
 دنیا و آخرت پر مقدم رکھا اور مجھی کو سب پر اختیار کیا تمام مخلوق  
 کو اپنے قلوب سے علیحدہ کر دیا اور ان کو اپنے باطن سے  
 دور کر دیا۔ پس یہ میرا دیدار اور میرا قرب اور میرا انس تمہارے  
 لیے ہے اور تم ہی میرے سچے بندے ہو۔ اولیاد اللہ میں  
 سے بعض وہ ہیں جو آج ہی دنیا میں جنت کا کھانا کھاتے اور اُس  
 کا پانی پی رہے ہیں اور تمام وہ چیزیں جو جنت میں ہیں وہ اُن  
 کو دیکھ رہے ہیں اور بعض اُن میں سے وہ ہیں جو کھانے پینے  
 سے بے پروا ہیں۔ اور مخلوق سے علیحدہ اور حجاب میں ہیں۔  
 اور زمین کو بغیر موت کے آباد کر رہے ہیں جیسے کہ حضرت الیاس  
 و خضر علیہما السلام۔ اللہ عز و جل کی بہت مخلوق ایسی ہے۔ جو کہ  
 زمین میں مخفی ہے وہ تمام آدمیوں کو دیکھتی ہے اور وہ آدمی اُن کو  
 نہیں دیکھتے۔ ولی اُن میں بہت ہیں اور مخصوص و خواص اُن میں  
 بہت کم۔ اکاد کا ہی ہیں جو تنہائی میں رہنے والے ہیں۔ اور  
 سب لوگ اُن کے پاس آتے ہیں اُن کی طرف نزدیکی ڈھونڈھتے  
 ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے زمین سبزہ آگاتی ہے اور

السَّمَاءَ وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنِ الْخَلْقِ الْمَلَائِكَةُ طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا ذِكْرُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَ أَحَادُ أَفْرَادٍ هَبْنِ الْأُولِيَاءِ يَصِيرُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ مَا لَكُمْ وَلِسَامَ هَذَا إِلَّا كَثْرُكُمْ قَرَّةٌ عَيْنٍ إِبْلِيسَ وَعَبِيدَهُ لَا كَرَامَةَ لَكُمْ وَلَا لَهُ.

يَا دَيْرِيُّ اتْرُكُوا خِدْمَتَهُ فَإِنَّا قَوْمُهُ اُدْخُلُوا عَلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَا قَدَامِرُ قُلُوبِكُمْ وَسَلُوهُ أَنْ يَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يُرِضِيهِ عَنْكُمْ سَلُوهُ أَنْ يَسْتَحْدِمَكُمْ سَلُوهُ أَنْ يَدُلَّكُمْ عَلَى كَنْزٍ لَا يَنْفَدُ أَبَدًا عَلَى مَعِينٍ لَا يَنْصِبُ أَبَدًا إِذَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ ذَلِكَ فَسَلُوهُ أَنْ يُبْعِضَ إِلَيْكُمْ الْأُخْرَى فَإِذَا رَزَقَكُمْ ذَلِكَ سَلُوهُ أَنْ يُبْعِضَ إِلَيْكُمْ الدُّنْيَا وَيَجْتَبِ إِلَيْكُمْ الْأُخْرَى وَيَزِدَّكُمْ الْعَمَلَ لَهُ وَالْحَبْتَ لَهُ وَهَجَرَ مَا سِوَاهُ أَنْتَ عَبْدُ الْخَلْقِ عَبْدُ السَّكْبِ لَوْ كُنْتَ عَبْدَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ أُمُورُكَ كُلُّهَا مَعْقُوضَةً إِلَيْهِ وَحَوَاجَتُكَ كُلُّهَا مُنْزَلَةً إِلَيْهِ لِمَ تَقُولُونَ شَيْئًا وَفَعَلَكُمْ يَكْذِبُ قَوْلُكُمْ أَمَا سَمِعْتُمْ رَيْكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ يَقُولُ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُنْكُمْ تَتَعَجَّبُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

آسمان میں برابر سالتا ہے اور مخلوق سے بلا دفع ہوتی ہے۔ فرشتوں کا کھانا اور پینا حق عزوجل کا ذکر اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور اولیاء کرام میں سے بعض افراد ہی ایسے ہیں جن کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ تمہیں اس کلام کے سننے سے کیا فائدہ تم میں سے اکثر تو شیطان کی آغٹھ کی ٹھنڈک اور اس کے غلام ہیں نہ تمہاری عزت ہے اور نہ اس کی۔

اے دیر والو! تم دیر کی خدمت کو چھوڑ دو۔ تم اس سے جدا ہو جاؤ۔ تم اپنے دل کے قدموں سے حق عزوجل کے دربار آ جاؤ اور تم اس سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہیں اس چیز کی جس سے کہ وہ تم سے راضی ہو ہدایت کرے۔ تم اس سے اس کے طالب بنو کہ وہ تمہیں اپنا خادم بنائے ایسے خزانہ پر تمہیں راہ بتا دے کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ ایسے چشمہ پر پہنچا دے جو کبھی خشک نہ ہو پس جب تم کو دربار الہی سے یہ عطا ہو جائے پس تم اس سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہاری طرف آخرت کو مبغوض کر دے پھر جب یہ حاصل ہو جائے تو یہ سوال کرو کہ وہ دنیا کو تمہارا مبغوض و متنفر بنا دے اور تم کو آخرت کی محبت دے اور تمہیں اپنے عمل کی توفیق دے اور اپنی محبت عطا کرے۔ اور اپنے ماسوا کو چھڑا دے۔ تو تو خلق و سبب کا بندہ بنا ہوا ہے اگر تو حق عزوجل کا بندہ ہوتا تو تیرے تمام امور اسی کی طرف سپرد کیے گئے ہوتے اور تیری تمام حاجتیں اسی کی طرف اتاری جاتیں۔ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جس کی تمہارے فعل تمخیز کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنے رب عزوجل کا قول نہیں سنا کہ وہ کیا فرماتا ہے۔

اے ایمان والو! تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ تمہارے فرشتے تمہاری بے حیائی سے تعجب کرتے

تَتَعَجَّبُ مِنْ كَذِبِكُمْ فِي أَنْوَاعِ أَحْوَالِكُمْ  
تَتَعَجَّبُ مِنْ كَذِبِكُمْ فِي تَوْحِيدِكُمْ كُلَّ حَدِيثِكُمْ  
فِي الْغَلَاءِ وَالرَّخِصِ وَأَحْوَالِ السَّلَاطِينِ وَ  
أَغْنِيَاءِ أَكُلِ فَلَانٍ لَيْسَ فَلَانٌ تَزَوَّجَ  
فُلَانٌ اسْتَعْدَى فُلَانٌ اقْتَتَرَ فُلَانٌ كُلُّ  
هَذَا هَوَسٌ وَمَقَتٌ وَعُقُوبَةٌ تَوْبُودَ  
أَتْرُكُوا ذُنُوبَكُمْ وَأَرْجِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ  
دُونَ غَيْرِهِ أَذْكَرُوهَا انْشُوا غَيْرَ الثَّيَابِ  
عَلَى كَلَامِي عَلَامَةٌ الْإِيْمَانِ وَالْهَرَبِ  
مِنْهُ عَلَامَةٌ الْإِنْفَاقِ .

يَا مَنْ يَطْعَنُ فِي تَعَالَى حَتَّى نَحْكَّ حَالِقِي  
وَحَالَتِكَ عَلَى الشَّرْعِ فَتَنْ خَرَجَتْ حَالَتُهُ  
شَبْهًا وَفِضَةً اسْتَحَقَّ أَنْ يَطْعَنَ فِيهِ  
وَأَنْ يَهْجَرَ وَيَمُوتَ بِسَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَبْرَأُ  
وَلَا تَخْجِي وَلَا تَهْرُبُ كَالْمَخَانِيثِ ذَلِكَ لَا  
تَنْجِي وَهَوَسٌ وَتَوَانِي .

وَيْلَكَ عَنْقَرِيْبٍ يَتَبَيَّنُ خَبْرَكَ  
اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا وَلَا تَقْضُ حَتَا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ .

يَا غُلَامُ أَمْرَكَ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ آسَاسٍ  
فَلَا جَرَمَ يَقَعُ حَيْطَانُكَ آسَاسُكَ الْبَدْعُ وَ  
الصَّلَاةُ وَبِنَاؤُكَ الرِّيَاءُ وَالْإِنْفَاقُ  
يَثْبُتُ لَكَ بِنَاؤُكَ ذَلِكَ هَوَى وَطَمَعٌ تَأْكُلُ وَتَشْبُ  
وَتَنْكُمُ وَتَجْمَعُ بِالْهَوَى وَالطَّمَعِ لَيْسَ لَكُمْ  
رَبِّيَّةٌ لَهَا لِحَاحٌ فِي شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ

ہیں تمام حالات میں تمہارے جھوٹ کی کثرت سے توحید کے  
بارے میں تمہارے جھوٹ سے وہ تعجب کرتے ہیں تمہاری  
ساری باتیں گرانی وارزانی اور بادشاہوں اور امیروں کے حالات  
کے متعلق ہوتی ہیں۔ فلاں نے کھایا۔ فلاں نے پینا۔ فلاں نے  
نکاح کیا۔ فلاں امیر ہو گیا۔ فلاں فقیر ہو گیا۔ یہ تمام باتیں سرتاپا  
ہوس اور عذاب و پھٹکار ہیں تم تو یہ کرو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ  
دو اور اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع کرو نہ کہ اُس کے غیر کی  
طرف۔ تم اُسی کو یاد کرو اور اُس کے غیر کو بھلا دو۔ میرے کلام  
پر ثبات قدم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ اور اُس سے بھاگنا  
نفاق کی علامت ہے۔

اے میرے بارے میں طعنہ کرنے والے اگے آنا کہ ہم  
اپنی اور تیری حالت کو شرع کی کسوٹی پر کسین پس جس کی حالت نیشے  
اور چاندی کی سی نکلے وہ اس بات کا مستحق ہو گا کہ اُس کے بارے  
میں طعنہ کیا جائے اور اُس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ مر جائے  
بسم اللہ اُنکل چھپ مت اور نہ تو مغللوں کی طرح سے بھاگ یہ  
محض لاشے اور بواہوس اور کاہلی ہے۔

تجھ پر افسوس ہے عنقریب تجھے تیری خبر پڑ جائے گی۔  
اے اللہ تو ہم پر تو بڑا دل دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں  
رہوانہ کرنا۔

اے غلام تیرے کام کی تعمیر بنیاد پر نہیں ہے پس نفیاً  
تیری دیواریں گر جائیں گی۔ تیری بنیاد بدعتیں اور گمراہیاں ہیں  
اور تیری عمارت ریاء و نفاق ہے پس یہ عمارت کیسے ثابت  
رہ سکے گی۔ یہ تو محض خواہش و طبیعت ہے۔ تو کھاتا ہے۔ اور  
پینا ہے۔ اور نکاح کرتا ہے اور خواہش و طبیعت سے بھی مال  
جمع کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کام میں تیری نیت صالح

الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ لَهُ نَبِيَّةٌ حَسَنَةٌ  
فِي كُلِّ أَعْمَالٍ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا  
يَلْبَسُ وَلَا يَنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَهَكَذَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا  
بِأَمْرِهِ بِوَسِطَةِ شَرْعِهِ وَفِي الْآخِرَةِ  
بِغَيْرِ وَسِطَةٍ يَرَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَ  
سُرْعَةَ فَنَائِهَا فَيَزُودُ فِيهَا وَيَذْكُرُ  
مَجِيئَ أَفْسَاسِهِ وَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ بِشَهَادَةِ  
الشَّرْعِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ مَا لِي حَاجَةٌ  
فِي هَذِهِ مَا أُمِرْتُ بِهِ وَتَهَرَّبُ قَلْبُهُ  
يَمِينًا وَشِمَالًا فَيُلْزَمُ فَيَجْبُرُ عَلَى تَنَاوُلِهَا  
هَذَا أَحَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا  
يَقْتَرِعُ عَيْنَهُ فِي وَجْهِ الْجَنَّةِ حَتَّى  
يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَنَاوَلَ  
شَيْئًا مِنْهَا لَا يَتَنَاوَلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ جَزْمٍ  
وَتَقْدِيرٍ فَلَمَّا شَارَهُ فَيَقْبَلُ الْأَمْرَ قَضَاءً  
لِحَقِّ الْجَنَّةِ يَقْضِي حَقَّ الْخُورِ وَالْوُلْدَانِ  
وَتِلْكَ الشَّهَوَاتِ يُوَافِقُ فِي ذَلِكَ  
الرُّسُلَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وَ  
الشُّهَدَاءَ وَقَتَادُونَ وَقَتٍ وَالْأَ  
فَمُعْظَمُ أَوْقَاتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
إِذَا تَقَبَّلَتْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ جَاءَ لَكَ  
مِنْهُ الْفَرْحُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ أَمَّا  
سَمِعْتَ كَيْفَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

نہیں ہے مسلمان کے لیے تمام حالات و اعمال میں نیک نیتی ہوا  
کرتی ہے وہ بغیر حکم الہی کے نہ کھاتا ہے اور نہ پنتا ہے اور  
نہ نکاح کرتا ہے اُس کا دنیا و آخرت دونوں میں یہی معاملہ ہے  
دنیا میں اُس کو خدا کا حکم بواسطہ شرع کے ہوتا ہے اور آخرت  
میں حکم الہی بغیر واسطہ کے ہوگا۔ وہ اس دنیا اور اس کی سرعت  
فنا ہو جانے کو دیکھتا رہتا ہے پس دنیا میں بے رغبتی کرتا  
ہے اور اپنے تقدیری مقسوم کو یاد کرتا رہتا ہے اور بر تحقیق  
وہ اُس کو شرع اور قلب کی شہادت سے حاصل کرتا ہے اور  
کہتا ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ نہ میں اس کا خواہشمند  
ہوں اور اُس کا قلب دائیں بائیں بھاگتا ہے پس اُس کے لیے  
اُس کا لینا لازم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس لینے پر مجبور کر دیا  
جاتا ہے۔ یہ تو حال اُس کا دنیا میں ہے اور دین آخرت میں پس  
وہ جب تک اپنے رب عزوجل سے ملاقات نہ کر لے گا۔  
جنت کی طرف اُنکھ کھول کر بھی نہ دیکھے گا پس جب اس کو جنت  
میں کھلے گا وہ اس کو بغیر امر یقینی اور آگے بڑھائے جانے اور  
اشارہ کے لے گا ہی نہیں۔ اُس کا ان چیزوں کو قبول کرنا واسطہ  
ادائیگی حق جنت کے ہوگا۔ وہ حور و غلمان اور ان خواہشات  
کا حق ادا کرتا رہے گا۔ ان معاملات میں وہ انبیاء و مرسلین  
علیہم السلام اور شہداء و صالحین کی وقتاً فوقتاً موافقت کرے گا۔  
ورنہ اکثر اوقات تو اُس کے رب عزوجل کے قرب و حضوری  
میں ہی گزریں گے۔ جب تو اپنے رب عزوجل سے ڈرے  
گا تجھے اُس کی طرف سے تیزی تمام حالتوں میں مسرت حاصل ہو  
گی کیا تو نے اُس کا ارشاد نہیں سنا کہ کیا فرمایا ہے اور جو کوئی اللہ  
سے ڈرتا ہے وہ اُس کے لیے راستہ کشادگی کا کمال دیتا  
ہے اور جہاں سے اُس کا لگان بھی نہیں ہوتا ہے وہ اُس کو

رزق پہنچا تھا ہے۔ اس آیہ کریمہ نے سبوں پر بھروسہ کرنے کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کا دروازہ بند کر دیا ہے اور توکل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کو یہ بدلہ دے گا کہ ہر کام میں اس کے لیے راستہ اور وسعت عطا فرمائے گا جس میں کہ اور لوگوں کو تنگی آتی ہے میں تم سے کیا معاملہ کروں۔ تم سے کیا کہوں رشع۔ اگر تو کسی زندہ شخص کو پکازنا تو اسے سنا بھی دیتا لیکن تو تو ایسے شخص کو پکار رہا ہے جس میں زندگی ہی نہیں ہے تیرا دل ایمان اسلام اور یقین سب سے خالی ہے۔ تجھ میں نہ معرفت ہے اور نہ علم پس تو سرتاپا باہوس ہے اور تجھ سے بات چیت کرنا بیکار ہے۔

اے منافق! تم نے زبان سے توکل پر قناعت کر رکھی ہے۔ حالانکہ تمہارے قلب غلطی کو شریک خدا بنانے والے ہیں۔ میرا قلب غیرت الہی کی وجہ سے تم پر غصہ میں بھرا ہوا ہے۔ اگر تم نے سکوت کیا اور مزاحمت کو چھوڑ دیا بہتر ہے ورنہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی۔

اے وہ ذات جو کہ کھاری اور بیٹھے پانی کے درمیان میں مائل ہے تو ہمارے اور اپنے اوپر غصہ کرنے اور مقدرات کے متعلق جھگڑا کرنے کے درمیان میں مائل ہو جا اپنی رحمت سے ہمارے اور اپنے گناہوں کے درمیان میں تو برزخ و آئین جا آئیں۔

اے غلام جب تو بلا کے نازل ہونے سے پہلے اپنے رب عز وجل سے ڈرنے والا اس کی یاد کرنے والا اس کو بیکتا سمجھنے والا اس کی طرہ اشارہ کرنے والا ہو جائے گا۔ پس تو جب بلا کی آگ میں گرنے لگے گا رب تعالیٰ اس سے

هَذِهِ آيَةُ عَلَّمْتُ بَابَ الْإِكْمَالِ عَلَى الْأَسْبَابِ  
عَلَّمْتُ بَابَ الْإِعْيَاءِ وَالْمَمْلُوكِ وَقَتَحْتُ  
بَابَ التَّوَكُّلِ مَنْ يَتَّقِيهِ يُجَاهِزُهُ بِأَنْ  
يَجْعَلَ لَهُ فَجَاءً وَمَخْرَجًا مِمَّا صَنَعَ عَلَى  
النَّاسِ أَيْ شَيْءٍ أَعْمَلُ بِكُمْ أَقُولُ لَكُمْ  
لَقَدْ أَسْمَعْتُ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا  
حَيَوَةَ لِمَنْ تُنَادِي قَدِ بَكَ فَامْرَأَةً مِنَ  
الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيْعَانِ لَا مَعْرِفَةَ  
لَكَ وَلَا عِلْمَ لَكَ فَانْتَ هُوَسُّ وَالْكَلَامُ  
مَعَكَ مَنَاحِي.

يَا مُنَافِقِينَ قَدْ قَنَعْتُمْ بِالْكَلَامِ فِي  
التَّوَكُّلِ بَالِسَنَتِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ مُشْرِكَةٌ  
بِالْخَلْقِ قُلُوبِي مِلَّةٌ غِيْطًا عَلَيْكُمْ غَيْرَةٌ  
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ سَكَنْتُمْ وَتَرَكْتُمُ الْمُنَاحِمَةَ  
وَالْأُحُوفَ دُورَكُمْ عَلَيْكُمْ.

يَا حَائِلُ بَيْنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَ  
الْعَذَابِ حُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ التَّسَخُّطِ  
عَلَيْكَ وَالْمُنَاحَةِ لَكَ فِي أَقْدَارِكَ  
حُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ بِبَرْتَرَجٍ  
مِنْ رَحْمَتِكَ أَمِين.

يَا عِبَادِمْ إِذَا كُنْتَ مُتَّقِيًا  
لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ذَا كَرَامَةٍ  
مُوحَّدًا لَهُ مُشِيرًا إِلَيْهِ قَبْلَ بَلَاءِكَ  
فَإِذَا وَقَعَتْ فِي نَاوِي الْبَلَاءِ فَتَالِ

لَهَا يَكُنَّ كَوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا .

فرا دے گا کہ اے اگ تو سلامتی کے ساتھ میرے اس بندے پر ٹھنڈی ہو جا۔

اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِنَا كَذَا وَرَانِ كُنَّا  
لَا نَسْتَحِقُّ عَامِلَنَا بِكَرَمِكَ لَا تُحَاقِقُنَا  
وَلَا تُؤَاوِسْنَا وَلَا تُؤَافِقُنَا اَمِيْنُ الْاَدَبِ  
فِي حَقِّ الْعَارِفِ فَرِيضَةٍ كَالْتَّوْبَةِ فِي  
حَقِّ الْعَاصِي كَيْفَ لَا يَكُوْنُ مُتَّادِبًا  
وَهُوَ اقْرَبُ الْخَلْقِ اِلَى الْخَالِقِ مَنْ  
عَاشَرَ الْمُلُوْكَ بِالْجَهْلِ كَانَ جَهْلُهُ مُقَرَّبًا  
لَهُ اِلَى قَتْلِهِ وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اَدَبٌ  
فَهُوَ مَمْقُوْتُ الْخَالِقِ وَ الْخَلْقِ كُلُّ  
وَقَدْ لَيْسَ فِيْهِ اَدَبٌ فَهُوَ مَقْتٌ لَا  
بَدَّ مِنْ حُسْنِ الْاَدَبِ مَعَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
اَحْسِنُوْا الْاَدَبَ اَقْبَلُوْا عَلٰى اٰخِرَتِكُمْ  
وَاعْرِضُوْا عَنْ دُنْيَاكُمْ وَلَا تُقْبِلُوْا عَلَيْهَا  
كَاقْبَالِ الْكُفَّارِ لَا تَهْمُوْا بِقَبُوْلِنَ عَلَيْهَا  
وَيُحِبُّوْنَهَا لِقَلَّةِ خَيْرِهِمْ بِهَا الْعَبْدُ  
يَتُوْبُ مِنْ مَّعَاصِيْهِ وَمِنْ اٰتِيَةِ وَخَطَايَا  
وَيَسْتَغْلِ بِصَوْمِ النَّهَارِ وَصَلَاةِ اللَّيْلِ  
وَيَا كُلُّ مَنْ كَسِبَهُ حِلَالُ الشَّرْعِ  
شُمَّ يَتَرَفَّى فَيَصِيْرُ مُتَزَهِّدًا مُتَوَرِّعًا  
فَيَقِلُّ كَسْبُهُ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوْعِ  
فِي الْحَرَامِ شُمَّ يَتَرَفَّى فَيَجْصِيْرُ  
مُتَزَهِّدًا شُمَّ يَتَرَفَّى فَيَصِيْرُ  
زَاهِدًا شُمَّ يَتَرَفَّى فَيَصِيْرُ

اے اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں اپنے کرم سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر۔ ہماری جانچ پڑتال نہ کر ہمیں اپنی نظر رحمت سے اوجھل نہ کر اور ہمارے عملوں کے موافق جزا و سزا دینا مغفرت فرادینا اُمین۔ عارف باللہ کے حق میں ادب ویسا ہی فرض ہے جیسے کہ توبہ گناہ گار کے حق میں۔ عارف ادب کرنے والا کیسے نہ ہو گا حالانکہ وہ مخلوق میں سے خالق کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو جمالت کے ساتھ بادشاہوں سے میل جول کرے گا اُس کی جمالت اُس کو قتل کی طرف نزدیک کرنے والی ہو گی۔ اور ہر وہ شخص جس کو ادب نہ ہو گا۔ پس وہ خالق و مخلوق دونوں کا مغضوب رہے گا۔ ہر وقت کہ جس میں ادب نہ ہو پس وہ باعث بیزاری و عذاب ہے اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب اختیار کرو۔ تم اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو اور دنیا سے اعراض کرو۔ اور تم اُس پر مثل کافروں کے متوجہ نہ ہو۔ کیونکہ وہ کافراں کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں اور بلو جہ اپنی کم خبری کے اُس کو دوست رکھتے ہیں۔ بندہ اپنے گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرتا ہے اور دن کے روزہ اور رات کی نماز میں مشغول رہتا ہے اور اپنی کمائی سے شرع کی حلال چیزوں کو کھاتا ہے پھر وہ ترقی کرتا ہے پس وہ زاہد و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس کی کمائی اس خیال سے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائے کم ہو جاتی ہے۔ بعدہ وہ ترقی کرتا ہے پس دنیا سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ بعدہ ترقی کرتا ہے پس زاہد بن جاتا ہے بعدہ ترقی کر کے،

عَايَا مَا مُفْتَقِرَ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ فَيُجَالِسُهُ وَيَحَادِثُهُ يَفْرَعُ  
قَلْبَهُ مِنَ الْخَلْقِ يَسْتَعْنِي عَنْهُمْ وَ  
يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ يُجَالِسُهُ وَيَحَادِثُهُ  
أَرْوَاحَ أَنْبِيَائِهِ يَصِيرُ مُسْتَأْنِسًا  
بِهِ قَرِيبًا مِنْهُ وَهَذَا بَعْدَكُمْ  
وَكُمْ.

وَيَحْكُ مَا تَعْرِفُ الْآخَوَالِ فَلِمَ  
تَتَكَلَّمُ فِيهَا مَا تَعْرِفُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ  
فَلِمَ تَدْعُوا إِلَيْهِ أَنْتَ مَا تَعْرِفُ إِلَّا  
هَذَا الْغَنَى هَذَا السُّلْطَانُ مَا لَكَ  
رِسُولٌ وَلَا مُرْسِلٌ مَا تَأْكُلُ بِالْوَسْعِ  
إِثْمًا بِالْحَرَامِ أَكُلُ الدُّنْيَا بِاللَّيْلِ  
حَرَامٌ أَنْتَ مُنَافِقٌ دَجَالٌ وَأَنَا  
بَغَاضٌ ذَكَاءُ الْمُنَافِقِينَ مُحَرِّقٌ  
لِعُقُوبِهِمْ مَعَاوِيٌ تُخَرِّبُ بَيْتَ هَذَا  
الْمُنَافِقِ وَتَذْهَبُ إِيْمَانُهُ الَّذِي  
يَتَدَعِيهِ الْمُنَافِقُ مَا مَعَهُ سِلَاحٌ يُقَاتِلُ  
بِهِ لَيْسَ لَهُ حِصَانٌ يُرْكَبُ وَيَكْرَهُ عَلَيْهِ  
وَيَفْتَرِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ بَيْنَ الظَّاهِرِ  
وَالْبَاطِنِ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ بَيْنَ الْحَكِيمِ  
وَالْعَلَمِ عِنْدَ مِجْحَى الْأَوَاكِي تَبْتَلِي أَنْزِلُ الْإِيمَانَ  
وَعَمَلُ الْإِيْقَانِ وَفَوَاقِ التَّوْحِيدِ وَالنُّوْمُلِ وَالنَّفْعِ  
بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِيمَانُ هُوَ الْبَيْتَةُ عَلَى الدَّعْوَى

عارف باللہ ہو جاتا ہے اُس کا قلب اللہ عزوجل کی طرف محتاج  
ہو جاتا ہے۔ پس اُس کی حضوری میں بیٹھتا ہے اور اُسی سے  
بات چیت کرتا رہتا ہے اُس کا قلب خلق سے خالی ہو جاتا  
ہے اور اُن سے مستغنی اور خدا کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ وہ  
اُس کو انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کے ساتھ بٹھاتا ہے  
اور ہم کلام بنا دیتا ہے۔ یہ ذات الہی سے مانوس اور اُس سے  
قرب ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ کئی اور کئی مدت کے بعد نصیب  
ہوتا ہے۔

تجھ پر افسوس تو حالتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے پس تو اُن  
میں کیوں گفتگو کرتا ہے۔ تو حق عزوجل کو پہچانتا ہی نہیں ہے پس  
تو اُس کی طرف دوسروں کو کیسے بلاتا ہے تو تو اس دولت مند  
اور اس دیوی بادشاہ کے سوا کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔  
مزید یہ کہ یہ کوئی رسول ہے اور نہ خدا جو کہ انکو بھیجنے والا ہے  
تو پرہیزگاری کے ساتھ نہیں کھاتا ہے تیرا کھانا تو محض حرام  
سے ہے۔ دین کے بدلے دنیا کا نا کھانا حرام ہے تو منافق و  
دجال ہے اور میں اُن کا دشمن منافقوں کا مٹانے والا اُن کی  
عقلوں کو پھاڑ ڈالنے والا میرے کہ ایں اس منافق کے گھر کو  
ویران کرتے ہیں اور جس ایمان کے وہ مدعی ہیں اُن کو لے جاتے  
ہیں۔ منافق کے ساتھ ہتھیار ہی نہیں جس کے ساتھ وہ مقاتلہ  
کرے لڑے اُس کے گھوڑے ہی نہیں ہیں جس پر وہ سوار  
ہو اور حملہ کرے۔ اور کروڑوں کھائے مخلوق و خالق اور ظاہر و  
باطن اور سبب اور سبب پیدا کرنے والے اور حکم و علم کے  
درمیان میں اُنہوں کے نازل ہونے کے وقت ایمان کا اثر  
اور ایقان کا عمل اور توحید کی قوت اور اللہ عزوجل پر توکل و بھروسہ  
ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ایمان ہی دعوائے پرگواہ و دلیل ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
 يَتْلُو بِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ دُونَ غَيْرِهِ  
 يُزَكِّيهِمْ حَوَاجِبَهُمْ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ  
 يَرْجِعُونَ إِلَى بَابِهِ دُونَ بَابِ غَيْرِهِ  
 وَأَنَا أَرَاهُ كَيْفَ مَا تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ عَزَّ  
 وَجَلَّ مَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا تَرَكَهَا وَمَنْ  
 عَرَفَ الْآخِرَةَ تَرَكَهَا مَخْلُوقَةٌ مُكُونَةٌ  
 بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فَتَرَكَهَا وَلَحِقَ بِخَالِقِهَا  
 فَيَصْغُرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فِي عَيْنِي قَلْبِهِ  
 وَيَعْظُمُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَيْنِي سِرِّهِ  
 فَيُطْلِبُهُ دُونَ غَيْرِهِ يَصِيرُ الْخَلْقُ  
 كَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ يَرَاهُمْ كَالضُّبْيَانِ  
 يَلْعَبُونَ إِذَا الْعِبَادُ بِالْثُرَابِ يَرَى  
 الْمُلُوكَ الْمُتَوَلِّينَ مَعْرُودِينَ وَ  
 الْأَعْيَاءَ مَعْرُودِينَ يَرَى السُّعْطَانِينَ  
 بِغَيْرِ رَأْيِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ مَحْجُوبِينَ  
 إِنِّي أَرَاهُ كَمَا تَلْعَبُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ وَسُتَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَكَلَامِهِ الصَّالِحِينَ تَلْعَبُونَ بِذَلِكَ  
 بِجَهْلِكُمْ لَوْ اتَّبَعْتُمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَرَأَيْتُمْ  
 عَجَبًا مَا زَالُوا يَصْبِرُونَ مَعَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ  
 حَتَّى أَعْطَاهُمْ مَا يُرِيدُونَ الْفَقْرُ وَالْ  
 الْبَلَاءُ مَعَ عَدَمِ الصَّبْرِ عُقُوبَةٌ وَمَعَ  
 وَجُودِهِ كَرَامَةٌ يَتَنَعَّمُ الْمُؤْمِنُ فِي  
 بَلَائِهِ بِقُرْبِ رَأْيِهِ عَزَّ وَجَلَّ

مسلمان اپنے قلوب سے اللہ عزوجل سے ڈرتے رہتے ہیں  
 اور اُسی سے امیدواری کرتے ہیں نہ کہ اُس کے غیر سے وہ  
 اپنی حاجتیں اُسی کے روبرو پیش کیا کرتے ہیں نہ کہ اُس کے غیر  
 کے پاس وہ اُسی کے دروازہ کی طرف لوٹتے ہیں نہ کہ غیر اللہ کے  
 دروازہ کی طرف میں اُس کو دیکھ رہا ہوں۔ تم اپنے رب عزوجل  
 کو کیسے نہیں پہچانتے ہو جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ  
 دیتا ہے اور آخرت کو پہچان لیتا ہے اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ  
 وہ بھی مخلوق ہے اُس کے بعد کہ وہ نہ متقی پیدا ہوئی ہے پس  
 وہ آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ اُس کے پیدا کرنے  
 والے سے مل جاتا ہے۔ پس دنیا و آخرت اُس کی قلب کی  
 آنکھوں میں ذیل ہو جاتی ہے اور حق عزوجل اُس کے باطن  
 کی آنکھوں میں عظیم ہو جاتا ہے پس وہ اُسی کا طالب بن جاتا ہے  
 غیر اللہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اُس کے روبرو مخلوق مثل  
 چیونٹوں کے ہو جاتی ہے وہ اُن کو مثل اُن بچوں کے کھیلتا ہوا  
 جو کہ مٹی سے کھیل کھیلا کرتے ہیں دیکھتا ہے۔ اُس کو بادشاہ و  
 والی معزول اور امیر مغرور نظر آتے ہیں جو کہ غیر اللہ میں مشغول  
 ہوتے ہیں اُن کو وہ محبوب و محروم دیکھتا ہے تحقیق میں تم کو دیکھ  
 رہا ہوں کہ تم کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وآلہ وسلم کی سنت اور کلام صالحین کے ساتھ کھیل کرتے رہتے  
 ہو۔ تمہارا یہ کھیل تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم  
 کتاب و سنت کی پیروی کرتے تو البتہ تم عجیب عجیب برکتیں  
 دیکھتے۔ ادیاء اللہ ارادہ الہی کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اپنے  
 مقصود پر پہنچ جاتے ہیں صابر بنے رہتے ہیں۔ محتاجی و مصیبت  
 صبر نہ ہونے کی صورت میں ایک عذاب ہے اور صبر کی محبت  
 میں کرامت و بزرگی۔ مسلمان بلاء کی حالت میں قرب الہی اور

مناجات الہی حاصل کرتا رہتا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتا ہے میرے وعظ کا بازار کس قدر کھول پڑ گیا ہے کفوں اور خواہشوں پر اُس کا سکہ نہیں چلتا ہے نفس اُس سے فائدہ نہیں لیتے ہیں یہ پچھلا زمانہ ہے نفاق کا بازار رائج ہو رہا ہے۔ اور میں اُس دین کے قائم کرنے میں کوشش کر رہا ہوں جس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم تھے یہ آخر زمانہ ہے دنیا داروں کا معبود دینار و درہم ہے۔ یہ لوگ مثل قوم موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے ہیں جن کے دلوں میں گوسالہ کی محبت گھل ل گئی تھی۔ اس زمانہ کا گوسالہ درہم و دینار ہیں۔

تجھ پر انفس ہے تو کیسے دنیا کے بادشاہ سے مرتبہ اور مال کو چاہتا ہے اور اپنی مشکلوں میں اُس پر بھروسہ کرتا ہے حالانکہ عقوبت یا توبہ علیحدہ کر دیا جائے گا یا مر جائے گا اُس کا مال اور حکومت اور مرتبہ سب چلا جائے گا اور وہ اسی قبر کی طرف جو کمانڈیر اور وحشت اور تنہائی اور غم و ہم اور کیڑوں کا گھر ہے منتقل ہو جائے گا اور وہ بادشاہت سے ہلاکت کی طرف منتقل ہو جائے گا ہاں اگر اُس کے پاس نیک عمل اور مخلوق کے واسطے نیک نیتی ہوگی پس اللہ عزوجل اُس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اس کے حساب میں آسانی کر دے گا۔ تو اس پر جو کہ معزول ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ بھروسہ نہ کر پس تیری امید ٹوٹے میں پڑے گی اور تیری مدد منقطع ہو جائے گی۔ مومن کی ہمت زمین اور دنیا اور آخرت اور اہل آخرت سب سے اٹھی ہوئی ہے اُس نے معلوم کر لیا ہے کہ رب عزوجل مالی ہمتوں کو محبوب رکھتا ہے پس اُس کی ہمت عالی ہو گئی ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی طرف پہنچ گئی اور اُس کے روبرو سجدہ کرتے ہوئی گر پڑی پس اُس کو سجدہ سے سر اٹھانے کا حکم نہ ملا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے قلب و سر کو

وَمُنَاجَاتِهِ لَهُ وَلَا يُحِبُّ الْبَرَاءَ مِنْ مَكَانِهِ  
مَا أَكْسَدَ سُوقَ كَلَامِي لِأَنَّهُ لَا يَنْفِقُ عَلَى الْفُؤُسِ  
وَالْأَهْوِيَةِ هَذَا الْخِرَازِمَانِ قَدْ قَامَ سُوقُ  
الْبِنَاقِ وَأَنَا مُجْتَهِدٌ فِي إِفْنَاءِ مَةِ الدِّينِ الَّذِي  
كَانَ عَلَيْهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الصَّبَابَةُ وَالشَّاعُونَ لَهُ هَذَا الْخِرَازِمَانِ قَدْ  
صَادَ مَعْبُودُهُمُ الدِّينَارُ وَالْدَّرْهَمُ قَدْ صَارُوا  
كَفَرِيمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ  
الْعَجَلُ عَجَلُ هَذَا الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ  
وَيُحَلِّ كَيْفَ تَطْلُبُ الْجَاةُ وَالْمَالُ  
مِنَ الْمَلِكِ وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي مُهْمَاتِكَ  
وَهُوَ عَنَفَرِيْبٍ إِمَامًا مَعْرُوفًا أَوْ مَبِيتٍ  
يَدَّ هَبْ مَالَهُ وَمُدْكُهُ وَجَاهُهُ وَيَنْفِلُ  
إِلَى قَبْرِهِ الَّذِي هُوَ بِبَيْتِ الظُّلْمَةِ وَ  
الْوَحْشَةِ وَالْوَحْدَةِ وَالنِّمَّةِ وَالْهَمِّ وَالْدُّوْدِ  
وَيَنْفِلُ مِنْ مَلِكٍ إِلَى هَلِكٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ  
عَمَلٌ صَالِحٌ وَنِيَّةٌ صَالِحَةٌ لِيُغْنِيَهُ فَيَتَغَدَّدَهُ  
اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَيُخَفِّفُ حِسَابَهُ لَا تَكُنْ عَلَى مَنْ  
يَعِزُّ أَوْ يَمُوتُ فَيَتَخَيَّبُ رَجَاؤُكَ وَيَقْطِعَ مَدَدُكَ  
الْمُؤْمِنُ ارْتَفَعَتْ هَيْئَتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَعَنِ  
الدُّنْيَا وَأَبْنَانِهَا وَعَنِ الْآخِرَةِ وَأَبْنَانِهَا عَلِمَ أَنَّ  
رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَالِينَ مِنَ الْهَمِّ  
فَعَلَا هَيْئَتَهُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَخَرَّتْ  
بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدَةً فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا بِالرُّفُوعِ  
مِنَ الشُّجُودِ حَتَّى اسْتَدْعَى بِالْقَلْبِ وَالسِّرِّ

بلایا اور اُن دونوں کو نیابت اور ریاست و امارت اور مخلوق میں قدرت عطا فرمادی پس وہ دنیا میں بھی رئیس بن کر رہا اور آخرت میں بھی رئیس ہو گا دنیا میں بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ بنے گا۔

اے قوم تم اپنے رب عزوجل کا اُس کی نعمتوں پر شکر کرو اور تم اُن کو غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کرو کیا تم نے اُس کا ارشاد نہیں سنا اور جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے فقیروں کو تلاش کر پس تو اُن کو اُس میں سے کچھ دے۔ اور تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرے اوپر کسی منافق مکار جھوٹے کا جو کہ غنی ہو کر فقیر بنا پھرتا ہے اور اپنی مخلوقوں اور رویاں صورت بنانے اور خاکساری ظاہر کرنے سے فقیروں میں گھس رہتا ہے داؤ نہ چلے جب کوئی اس مجلس میں سے تجھ سے سوال کرے پس تو تھوڑی دیر تو توقف کر اور اپنے قلب سے فتوے چاہ پس شاید کہ یہ سائل غنی ہو کر فقیر بنتا ہو جو کچھ تیرے دل میں خطرہ گورے اُس پر توجہ کر تو اپنے نفس سے فتوے لیا کر اگرچہ جنتی تھے فتوے دے دیں مسلمان اپنی بصیرت قلبی سے مخلوق کو پہچانتا ہے اُس کے نزدیک کچھ علامتیں ہوتی ہیں اُس کا قلب حساس ہوتا ہے وہ اللہ عزوجل کے اس نور سے جو کہ اُس کے قلب میں سکون پذیر ہو گیا ہے۔ دیکھا کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس تو کس قدر ہے پس ضرور تیرے ہاتھ کچھ نہ لیکھا تیرے پڑوسی اور بھائی بند اور قرابت داروں نے سفر کیا۔ اور جستجو کی اور کھود کھا دی پس خزانے حاصل کیے ایک ایک درہم کا نفع دس دس اور بیس بیس پایا اور وہ قائم و سالم واپس لوٹے اور تو اپنی جگہ ہی پر بیٹھا ہوا ہے غنقریب یہ تھوڑی سی پونجی جو تیرے ہاتھ میں ہے چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد تو دوسرے

وَأَعْطَاهُمَا الذِّكْيَا بَهُ وَالرِّيَاسَةَ وَالْإِمَارَةَ وَالتَّمَكُّنَ فِي الْخَلْقِ كَمَا شَاءَ فِي الدُّنْيَا دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ رَعِيْسًا فِي الدُّنْيَا مَدِيْنًا وَفِي الْآخِرَةِ مَدِيْنًا۔

يَا قَوْمُ اشْكُرُوا رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نِعَمِهِ وَلَا تَصْنِفُوْهَا إِلَى غَيْرِهِ أَمَا سَمِعْتُمْوَهُ يَقُولُ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَنَشِئْ عَلَى الْفَقْرِ آءٍ فَأَعْطِيْهِمْ وَاجْتَنِبْهُ أَنْ لَا يَمْسَرَ عَلَيْكَ حَبْلُهُ مُتَنَبِّسٍ كَذَّابٍ يَتَفَقَّرُ وَهُوَ عَنِّيْ بِزَاجِحِ الْفَقْرِ آءٍ يَخْلَوَاتِهِ وَبَنَاتِكِيْهِ وَذِلَّةٍ إِذَا طَلَبَ مِنْكَ وَاحِدٌ مِّنْ هَذَا الْجَنَسِ فَتَوَقَّفْ سَاعَةً وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ فَلَعَلَّهُ عَنِّيْ وَهُوَ يَتَفَقَّرُ أَنْظِرْ مَاذَا يَخْطُرُ لَكَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ الْمُؤْمِنُ يَعْرِفُ الْخَلْقَ لَهُ فِيهِمْ عَلَامَاتٌ قَلْبُهُ حَسَّاسٌ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي اسْكَنَتْهُ فِي قَلْبِهِ۔

وَيَحْكُ أَنْتَ كَسْلَانٌ فَلَا جَرَمَ لَا يَقَعُ بِيَدِكَ شَيْءٌ جَيْرَانُكَ وَإِخْوَانُكَ وَأَقَارِبُكَ قَدْ سَافَرُوا وَفَتَشُوا وَحَفَرُوا وَفَقَعُوا فِي الْكُنُوزِ دَجْمُ الدَّرْهِمِ عَشْرٌ وَعَشْرُونَ وَرَجَعُوا عَنَانِيْمِينَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ مَكَانَكَ عَنْقَرِيْبٌ يَذْهَبُ هَذَا الْقَدْرُ الْيَسِيْرُ الَّذِي بِيَدِكَ وَتَطْلُبُ

ادیوں سے سوال کرتا پھرے گا۔

تجہ پر افسوس ہے کیا کر رہا ہے تو اللہ عزوجل کے راستہ میں مجاہدہ و ریاضت کر اور تو تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جا کیا تو نے ارشاد الہی نہیں سنا کہ اُس نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے راستہ میں مجاہدہ کیا کرتے ہیں البتہ ہم اُن کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں جلدی کرتیرے سوا اور لوگ آگئے اور تو اپنے کام کو پورا کر چکا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے پس تو کسی چیز کو غیر اللہ سے طلب نہ کر کیا تم نے یہ ارشاد الہی نہیں سنا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے غرض ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم ہر چیز کو معلوم اندازہ کے ساتھ آمار کرتے ہیں۔ اس آیت کے بعد کوئی کلام ہی باقی نہ رہا۔

اسے دنیا کے طالب اور اسے ورہم و دینار کے خواہشمند یہ دونوں خدا کے قبضہ میں ہیں پس تو اُن کو مخلوق سے طلب نہ کر اور اُن کے ساتھ ان کی طلب میں زبانی شرک نہ کر اور نہ اسباب پر بھروسہ رکھ۔

اسے اللہ مخلوق کے پیدا کرنے والے اور اسے سبب اسباب تو ہم کو اپنی مخلوق اور سببوں کے ساتھ شرک کی قید سے رہائی عطا فرما اور ہم کو دنیا و آخرت میں نوحیاں دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں۔

اسے اللہ کے بند و ماتم حکمت کے گھر میں ہو واسطہ کی تمکے واسطے ضرورت ہے تم اپنے معبود سے ایسا طیب تلاش کرو جو کہ تمہارے قلوب کے مرضوں کا علاج کرے۔ تم ایسا دوا دینے والا طلب کرو جو تمہیں دوا سے ایسا رہنما ڈھونڈو جو تمہاری رہنمائی کرے اور وہ تمہارے ہاتھ پکڑے۔ تم خدا تعالیٰ کے قرب اور ادب آموز بندوں اور اُس کے قرب کے دربانوں اور اُس

بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ .

وَبِحَاكٍ جَاهِدُ فِي طَرِيقِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَتَكَلَّ عَلَى قَدْرِهِ أَمَا سَمِعْتَهُ كَيْفَ قَالَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا أَسْرِعُوا وَقَدْ جَاءَ غَيْرُكَ وَتَمَّ شُغْلُكَ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَطْلُبُ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِهِ أَمَا سَمِعْتُمْ يَقُولُ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ؕ مَا بَقِيَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ كَلَامٌ .

يَا طَالِبِ الدُّنْيَا وَيَا طَالِبِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ هُمَا بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَطْلُبُهُمَا مِنَ الْخَلْقِ وَلَا تَطْلُبُهُمَا بِلِسَانِ شُرَكَائِكَ بِهِمْ وَاعْتَمَادِكَ عَلَى الْأَسْبَابِ .

اللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ خَدِّصْنَا مِنْ قَيْدِ الشِّرْكِ لِيُخْلِقَكَ وَأَسْبَابَكَ وَاتَّقِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْتُمْ فِي دَارِ الْحِكْمَةِ لَا بُدَّ مِنَ الْوَاسِطَةِ أَطْبَبُوا مِنْ مَّعْبُودِكُمْ طَبِيبًا يَطِيبُ أَمْرَاضَ قُلُوبِكُمْ مَدَاوِيًا يَدَاوِيَكُمْ دَلِيلًا يَدُلُّكُمْ وَيَأْخُذُ بِأَيْدِيكُمْ تَقَرُّ بَوَالِي مَقَرِّ بَيْتِهِ وَمَوْدِي بَيْتِهِ وَحُجَّابِ قُرْبِهِ وَ

اُس کے دروازہ کے نگہبانوں سے نزدیکی کرو تم تو اپنے نفسوں کی خدمت اور اپنی خواہشوں اور طبیعتوں کی پیروی میں راضی ہو گئے ہو اور میں تمہارے اخلاق کو سنوارنا اور دین اسلام میں تمہیں دلیر بنانا چاہتا ہوں۔ تم ان لوگوں کا قول جو کہ اپنے نفسوں پر خوش ہوتے ہیں تمہیں خوش کرتے ہیں اور بادشاہوں کے روبرو ذلیل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے مثل حیوٹوں کے بن جاتے ہیں ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے اور اگر یہ کرتے بھی ہیں تو نفاق و تکلف سے نہ سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں اور ہر منافق سے پاک کر دے یا ان پر توبہ ڈال دے اور ان کو اپنے دروازہ کی طرف ہدایت دے آمین۔ مجھے عزت آتی ہے جب کسی کو سنتا ہوں کہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اُس کی نظر غیر اللہ پر جاتی ہے۔

اے ذکر کرنے والے تو اللہ کا ذکر یہ جانتے ہوئے کہ تو اُس کے روبرو ہے تو محض زباں سے قلب کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ذکر الہی نہ کیا کر۔ میرے نزدیک میرے دوست و دشمن دونوں برابر ہیں روئے زمین پر نہ میرا کوئی دوست باقی رہا اور نہ دشمن یہ میرا قول صحت توحید اور مخلوق کو عاجزی کی آنکھ سے دیکھنے کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ عزوجل سے ڈرے پس وہ میرا دوست ہے اور جو اُس کی نافرمانی کرے پس وہ میرا دشمن ہے۔ وہ میرے ایمان کا دوست ہے اور یہ اُس کا دشمن۔

اے اللہ تو اس امر کو میرے لیے متحقق و ثابت کر دے اور مجھ کو اُس پر ثابت رکھ تو اس کو دائمی عطیہ بنا دے نہ کہ بطور عارضیت۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ محض دعوے اور بناوٹ اور آرزو اور ناموں اور لقبوں اور زباں زوری سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

بَارِبِ بَابِهِ قَدْ رَضِيتُمْ بِخِدْمَةِ نَفْسِكُمْ وَمَتَابَعَةِ أَهْوَائِكُمْ وَطِبَائِكُمْ وَأَنَا أَحْسَنُ أَخْلَاقِكُمْ وَأَوْقَحُكُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَسْمَعُوا مَنْ هُوَ لَا إِيَّائِي الْكَذِبُ يَغْمُرُ حُجُونَ نَفْسِكُمْ يَذْنُونَ لِلْمُلُوكِ وَيَصِيدُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَالذَّرَّ لَا يَأْمُرُوهُمْ بِأَمْرِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ نَهْيِهِ وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَعَلُوهُ نِفَاقًا تَكَلَّفُوا طَهَّرَ اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَمِنْ كُلِّ مُتَافِقٍ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى بَابِهِ إِنِّي أَعْلَمُ إِذَا سَمِعْتُ وَاحِدًا يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ يَرَى غَيْرَهُ۔

يَا ذَا كِرًا أَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ عِنْدَكَ وَلَا تَذْكُرَكَ يَلِسَانُكَ وَقَلْبُكَ عِنْدَ غَيْرِهِ الْمُعَادِي لِي وَالْمُحِبِّ لِي عِنْدِي سَوَاءٌ مَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لِي صَدِيقٌ وَلَا عَدُوٌّ هَذَا فِيمَا لِي صَحَّةُ الشَّجِيذِ وَمُرُوءَةُ الْخَلْقِ بَعَيْنُ الْعَجْزِ وَأَمَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ صَدِيقِي وَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ عَدُوِّي ذَاكَ صَدِيقِي أَيْمَانِي وَهَذَا عَدُوِّي لَهُ۔

اللَّهُمَّ حَقِّقْ لِي هَذَا وَثَبِّتْهُ وَتَبَيَّنْ لِي عَلَيْهِ لِجَعَلَهُ مُوَهِّبَةً لِأَعَارِيهِ هَذَا أَنِّي لَا يَجِيءُ بِاللَّعْوَى وَالتَّحْلِي وَالتَّصْنِي وَالتَّسَامِي وَالْأَلْقَابِ وَلَقَلَّعَةِ اللِّسَانِ۔

إِنَّمَا يَجِيءُ بِالصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَكَذَلِكَ  
الْثُّبْيَا وَمَعَادَاتِ النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ وَ  
الشَّيْطَانِ كُونُوا عَقْلَاءَ مَا أَرَىٰ لَكُمْ  
قُلُوبًا وَلَا مَعْرِفَةً بِالْقَلْبِ غَيْرَ مَرُوضَةٍ  
غَيْرَ مَعْلَمَةٍ هِيَ مَلَأَتْ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُظَمَةِ  
طَرِيقُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ فِيهَا أَنَاوِي  
وَمَعِيَ كُلُّ هَذِهِ الطَّرِيقِ مَحْوٌ وَقَنَاءٌ فِي  
الْبَدَايَةِ عِنْدَ ضَعْفِ الْإِيمَانِ لَكَ الرَّ  
إِلَّا اللَّهُ وَفِي النِّهَايَةِ عِنْدَ قُوَّةِ الْإِيمَانِ  
لَا دَالَةَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُخَاطَبٌ حَاضِرٌ  
مُشَاهِدٌ كُلُّ مَنْ طَلَبَ مِنَ الْخَلْقِ  
فَقَدْ عَمِيَ عَنِ بَابِ الْخَالِقِ مَا خَدَمَهُ  
وَلَا صَحَبَهُ لَوْ خَدَمَهُ فِي حَالِ نَعْيَابِهِ  
لَا غَنَاءَ فِي كِبَرِهِ هُوَ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ  
يَخْدُمُهُ فَكَيْفَ لَا يُعْطِي مَنْ يَخْدُمُهُ  
الْمُؤْمِنُ كُلَّمَا شَاقَّ قُوَىٰ إِيْمَانُهُ  
وَاسْتَغْنَىٰ عَنِ الْخَلْقِ لِقُرْبِهِ مِنَ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَغْنَىٰ عَنْهُمْ  
وَلَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَرَّةً وَ لَا  
لُفْفَةً وَلَا خَرْقَةً تَنْبَهُوا إِنَّمَا أَقُولُ  
وَلَا تَرْفُضُوهُ وَمَا أَظْهَرُكُمْ رَأْيِي  
أَحَقُّ حَقًّا فِي حَقِّ أَقُولُ عَنْ تَجَرُّبَةٍ  
رَأَيْتُ أَرَىٰ أَلَا كَثُرَ مِنْكُمْ  
مُتَجَوِّبِينَ يَدْعُونَ الْإِسْلَامَ وَمَا عِنْدَهُمْ  
مِنْ حَقِيقَةٍ شَيْءٍ

بلکہ سچائی اور اخلاص اور دنیا کے چھوڑ دینے اور نفس و خواہش اور  
شیطان کی دشمنی سے حاصل ہو کر قی ہے۔ تم عقلمند بنو۔ میں تم  
کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے واسطے دل ہیں اور نہ معرفت قلبی۔  
تمہارے دل غیر منہ ناس ہیں اور غیر تعلیم یافتہ وہ محض غرور و عظمت  
سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں آنالیں  
اور لی (میرے واسطے) اور معنی (میرے سامنے) نہیں ہے۔ یہ  
راستہ تو تمام تر محمود فنا ہی ہے جہاں آنا و انت، انہیں ابتداء میں  
ضعف ایمان کے وقت لا الہ الا اللہ (کوئی معبود تیرے سوا نہیں  
ہے) اور انتہاء میں قوت ایمان کے وقت لا الہ الا انت  
(تیرے سوا کوئی نہیں ہے) کیوں کہ وہ حالت انتہائی میں،  
مخاطب حاضر و شاہد ہو جاتا ہے جس نے مخلوق سے طلب گاری  
کی پس وہ اللہ کے دروازہ سے اندھا ہو گیا نہ اس نے خدا کی  
خدمت کی اور نہ اس کی صحبت میں رہا۔ اگر وہ حالت جوانی میں  
اُس کی خدمت کرتا تو وہ البتہ اُس کو بڑھاپے کی حالت میں غنی  
کر دیتا۔ وہ تو اپنے اُن بندوں کو بھی دیتا ہے۔ جو کہ اُس کی خدمت  
نہیں کرتے پس جو کہ اُس کی خدمت کریں گے۔ وہ اُن کو کیسے نہ  
دے گا۔ ایمان دار جب بڑھا ہو جاتا ہے اُس کا ایمان قوی  
ہو جاتا ہے اور وہ قرب الہی کے سبب سے مخلوق سے  
مستغنی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک ذرہ اور ایک لقمہ اور ایک  
گڈری کا بھی مالک نہ ہو وہ خلق سے استغنا کرتا ہے۔ تم میرے  
قول کو غور سے سنا اور اُس کو پیٹھ پیچھے نہ چھوڑو۔ تحقیق میں سچ  
سچ کہتا ہوں جو حق در حق ہے میں اپنے تجربہ سے بیان کرتا ہوں  
میں تم میں سے اکثر لوگوں کو مجرب دیکھتا ہوں۔ کہ وہ اسلام  
کا دعویٰ کرتے ہیں اور اُن کے پاس حقیقت سے کچھ  
بھی نہیں ہے۔

وَيَجْعَلُ اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْكُمْ  
فَحَسْبُ لَا يَنْفَعُكُمْ تَعْمَلُونَ بِشَرِّ أَعْمَالِهِ  
ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا لَا يُسَوِّىْ عَمَلَكُمْ شَيْئًا  
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَهَا عِلَامَةٌ رَعْنَدًا  
الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَنْ يُكْشَفُ أَبْصَارَهُمْ فَتَرَوْنَ نُورَ  
الْأَلْوِيَةِ الَّتِي بَأْيْدِي الْمَلَائِكَةِ  
وَنُورَ وَجُوهِهِمْ وَنُورَ أَبْوَابِ  
السَّمَوَاتِ وَنُورَ وَجْهِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ لَا تَنَّهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَتَجَلَّى  
لِأَهْلِ الْأَرْضِ الْعَبْدُ إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ  
عَزَّ وَجَلَّ قَرُبَ قَلْبُهُ كُلَّ الْقُرْبِ  
وَأَعْطَاهُ كُلَّ الْعَطَاءِ وَأَنْشَأَ كُلَّ  
الْأَنْسِ وَأَعَزَّ كُلَّ الْوَعِزِّ فَإِذَا سَكَنَ  
إِلَى ذَلِكَ أَزَالَ عَنْهُ يُفْقِرُ يَدًا وَ  
يُرَدُّ إِلَى نَفْسِهِ وَيَجْعَلُ بَيْنَهُ وَ  
بَيْنَهُ حِجَابًا يَخْتَصِرُهُ لِيَنْظُرَ كَيْفَ  
يَعْمَلُ يَهْرُبُ أَوْ يَثْبُتُ فَإِذَا ثَبَّتَ رَفَعَ  
الْحِجَابَ عَنْهُ وَرَدَّكَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ  
كَانَ الْجَنَّةُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي  
مَعْظَمِ أَوْقَاتِهِ أَيْ شَيْءٍ عَلَيَّ مِنْ الْعَبْدِ  
وَمَا يَبْدُكَ لِمَوْلَاهُ كَانَ قَدْ اسْتَمَّ نَفْسَهُ  
إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَالَ إِحْتِيَارَهُ وَ  
مُزَاحَمَتَهُ وَرَضِيَ أَنْ يَتَوَلَّى قَدْرَهُ لَهُ  
صَدَمَ قَلْبُهُ وَأَطْمَأْنَنَتْ نَفْسُهُ فَعَمِلَ يَقُولُ

تم پر انوس ہے محض اسلام کا نام تم کو کچھ نفع دے گا نہ  
باطن کو چھوڑ کر اسلام کی ظاہر شرطوں پر عمل کرتے ہو نہہرا عمل  
ادنے چیز کی برابر بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی اللہ عزوجل کے  
نیک بندوں کے پاس علامتیں ہیں جن کی انھوں سے پر وہ  
اٹھا دیئے جاتے ہیں پس وہ ان جھنڈوں کی روشنی جو کفر و شرک  
کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ملائکہ کے چہروں کا نور اور آسمان  
کے دروازوں کی روشنی اور حق عزوجل کے ذات کریمہ کا نور ملاحظہ  
کرتے ہیں کیوں کہ اللہ عزوجل کی اس رات میں زمین والوں کے  
لیئے غاص تجلی ہوتی ہے۔ بندہ جب حق عزوجل کو پہچان لیتا ہے  
تو اس کا قلب پوری طور سے رب تعالیٰ سے نزدیک ہو جاتا ہے  
اور رب تعالیٰ اسے کامل عطیہ عطا فرماتا ہے اور پورے طور سے  
اُس سے اُس فرماتا ہے اور وہ اُسے کامل عزت دے دیتا ہے  
پس جب وہ بندہ اس کی طرف قرار پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس  
کو خودی سے ناکل کر دیتا ہے اُس کے ہاتھ کو غالی کر دیتا ہے  
اور اس کو اپنی ذات کی طرف لوٹا لیتا ہے اور اپنے درمیان  
میں حجاب کر لیتا ہے اُس کو اُڑاتا ہے تاکہ اُس کے عمل کو دیکھے  
کہ آیا بھاگتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے۔ پس جب اُس کی  
ثابت قدمی ظاہر ہو جاتی ہے اُس سے حجاب ہٹا لیتا ہے اور  
اُس کو اُس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے حضرت جنید  
بغدادی رضی اللہ عنہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے مجھ پر مجھ  
سے ہے ہی کیا بندہ اُس کی تمام ملکیت اُس کے آقا کی ہوتی  
ہے آپ نے اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی طرف سوپ دیا تھا  
اور اپنے اختیار و مزاحمت کو ناکل کر دیا تھا اور آپ اس بات  
پر رضامند تھے کہ تقدیر الہی اُن کی کار سازی کرے۔ آپ کا  
قلب صالح اور نفس مطمئن ہو گیا تھا پس آپ ارشاد الہی پر عامل

إِنَّ وَلِيَیَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِیْنَ ؕ كَانَ الْفَضِیْلُ بْنُ عِیَاضٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَ سُفْیَانَ الشَّوْصِرَیَّ یَقُولُ لَهُ تَعَالَى حَتَّى یَبْکِیَ فِی عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِیْنَا مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ هَذَا كَلَامٌ عَارِفٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٍ بِهِ وَیَتَصَارِیْفُهُ مَا عِلْمُ اللّٰهِ الَّذِیْ أَشَارَ إِلَیْهِ هُوَ قَوْلُهُ هُوَ لَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَائِیْ وَهُوَ لَاءِ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَائِیْ وَخَلَطَ الْكُلَّ مَوْضِعًا وَاحِدًا أَفَلَا یُبْذَرُ مِنْ أَمْرِ الْقَبِیْذَتَیْنِ هُوَ لَمْ یَعْتَرِ وَأَبْنَا ظَهَرَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ لِأَنَّ الرُّعْمَالَ یَبْخَوْنَ تَبِیْهًا قَدْ صَارَتْ أُمُوكُ لِكَثْرِیْرِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَهَةً قَدْ صَارَتْ الدُّنْیَا وَالْغِنَى وَالْعَافِیَةُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَى إِلَهَةً.

وَبِحَكْمِ جَعَلَكُمْ الْفَرْعَ أَصْلًا الْمَرْزُوقُ رَازِقًا الْمَمْلُوكُ مَالِكًا الْفَقِيرُ غَنِيًّا الْعَاجِزُ قَوِيًّا الْحَيُّ مَيِّتًا الْمَيِّتُ حَيًّا لَا كَرَامَةَ لَكُمْ لَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّخِذُوا مَذْهَبَكُمْ بَلْ تَكُونُوا بِنَاحِيَةٍ مِنْكُمْ عَلَى تِلْكَ السَّلَامَةِ عَلَى تِلْكَ السَّنَةِ وَتَرْكُ الْبِدْعَةِ عَلَى تِلْكَ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَتَرْكُ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَتَوْبَةُ الْخَلْقِ بَيْنَ الْعُجْزِ وَالْفَقْرِ وَالضَّعْفِ وَالْقَهْرِ إِذَا عَظُمَتْ جَبَابَةُ الدُّنْيَا وَهَرَّاعَتْهَا وَمُلُوكُهَا وَأَغْنِيَاَهَا وَنَشِيتِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

تھے تحقیق میرا ولی و حاکم وہی اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا اور وہی نیک بندوں کی کار سازی کیا کرتا ہے۔ فضیل ابن عیاض، رحمۃ اللہ علیہ جب کرفیان ثوری علیہ الرحمہ سے ملا کرتے تھے تو ان سے فرماتے تھے اوتا کہ جو علم الہی ہمارے بارے میں ہے ہم تم اس پر پکڑ روئیں۔ کیا ہی اچھا یہ کلام تھا یہ کلام اس شخص کا ہے جو کہ اللہ عزوجل کو جاننے والا اور پہچاننے والا اور اس کے تصرفات پر خبردار تھا۔ وہ اللہ کا کون سا علم ہے جس کی طرف فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا وہ ارشاد الہی ہے یہ جماعت جنتی ہے اور میں بے پروا ہوں کچھ پروا نہیں کرتا اور یہ جماعت دوزخی ہے اور میں بے پروا ہوں کل کو اللہ نے ایک ہی موضع پر مخلوق کر دیا لہذا پتہ نہیں ہم دونوں جماعتوں میں سے میں ایمان دیا اللہ اپنے اعمال ظاہری پر غور نہیں فرماتے ہیں کیوں کہ عملوں کا اعتبار خاتمہ ہے بہت سی مخلوق کے معبود بادشاہ بنے ہوئے ہیں بہت سوں کی دنیا اور امارت اور عافیت اور طاقت و قوتیں معبود بنی ہوئی ہیں۔

تجھ پر انہوں نے تم نے فرع کو اصل اور مرزوق کو رازق اور ملوک کو مالک اور فقیر کو غنی عاجز کو قوی زندہ کو مردہ کو زندہ سمجھ رکھا ہے۔ تمہیں کچھ بزرگی نہیں نہ ہم تمہاری پیروی کریں گے اور نہ تمہارے مذہب کو لیں گے بلکہ ہم تم سے ایک گوشہ پر علیحدہ ہو کر سلامتی اور سنت اور ترک بدعت اور توحید و اخلاص اور ترک ریاء و نفاق کے طیلہ پر جا بیٹھیں گے اور مخلوق کو ہم عاجزی اور فقر اور ضعف و قہر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب تو دنیا کے جباروں اور فرعونوں اور بادشاہوں اور امیروں کی تعظیم کرے گا۔ اور اللہ عزوجل کو بھلا دے گا۔

وَلَمْ تُعْظِمَهُ فَحُكْمُكَ حُكْمُ مَنْ عَبْدَ الْأَصْنَامِ  
يَصِيرُ مِنْ عَظَمَتِهِ صَنَمُكَ .

وَبَيْتِكَ أَعْبُدُ خَالِقَ الْأَصْنَامِ تَقَرَّبَ إِلَى  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ تَقَرَّبَ الْخَلْقُ إِلَيْكَ عَلَى قَدَرِ  
تَعْظِيمِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْظِمُكَ خَلْقُهُ عَلَى قَدَرِ  
حُبِّكَ لَهُ يُحِبُّكَ خَلْقُهُ عَلَى قَدَرِ خَوْفِكَ مِنْهُ  
يَخَافُكَ خَلْقُهُ عَلَى قَدَرِ احْتِرَامِكَ لِأَوَامِرِهِ  
وَنَوَاهِيهِ يَحْتَرِمُكَ خَلْقُهُ عَلَى قَدَرِ تَقَرُّبِكَ مِنْهُ  
يَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ خَلْقُهُ عَلَى قَدَرِ رِغْبَتِكَ لَهُ يَخْذُلُكَ  
خَلْقُهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ دَوَاءٌ لِلْمَرَضِ النَّفْسِ  
وَمَقْمَعَةٌ عَلَى رَأْسِهَا بَقِيَّةُ سَيِّئِينَ  
أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ كِبَلًا وَنَهَادًا  
وَأَفْلَحَتْ بِذِكْرِي لَهُ وَفَهَرْتُ لِنَفْسِي  
بِذِكْرِي لَهُ فَفَوْقَ بَعْضِ تِلْكَ إِلَيَّ  
ذِكْرُ الْمَوْتِ وَبِكَيْتُ مِنْ أَوَّلِ  
الَلِيلِ إِلَى سَحَرٍ فَكُنْتُ فِي تِلْكَ  
الَلَيْلَةِ أَيْكِي وَأَقُولُ .

إِلَهِیَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَإِنْ لَا  
يَقْبِضُ مَلَكَ الْمَوْتِ مَوْجِعٌ وَتَتَوَلَّى  
قَبْضَهَا أَنْتَ فَخَمَضْتُ عَيْنِي فَرَأَيْتُ  
رَجُلًا شَيْخًا بَهِيمًا لَهُ سَمْتُ حَسَنٌ  
فَدَخَلَ مِنَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ تَكُونُ  
فَقَالَ أَنَا مَلَكَ الْمَوْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي  
قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْهُ يَتَوَلَّى

اور اس کی عظمت نہ کرے گا پس تیرا حکم بت پرستوں کا سا ہو جائے  
گا جس کی تعظیم کرے گا وہ تیرا بت قرار پائے گا۔  
تجھ پر انوس ہے تو بتوں کے پیدا کرنے والے کی  
عبادت کرتا تو اللہ عز و جل کی طرف نزدیک ہو مخلوق الہی تیری  
طرف نزدیک ہو جائے گی۔ جس قدر تو اللہ عز و جل کی تعظیم  
کیا کرے گا اسی قدر اُس کی مخلوق تیری تعظیم کرے گی جس قدر  
تجھے خدا کی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی مخلوق تیری محبت  
کرے گی۔ جتنا تجھے خدا کا خوف ہوگا اسی قدر مخلوق تجھ سے  
ڈرے گی جتنا تو خدا کے ادا و نہی کا احترام کرے گا اسی قدر  
مخلوق تیرا احترام کرے گی۔ جس قدر تو خدا سے نزدیکی کرے  
گا اسی قدر مخلوق تیری طرف نزدیک ہوگی۔ جتنی تو خدا کی خدمت  
کرے گا اسی قدر اُس کی مخلوق تیری خدمت کرے گی۔  
موت کا یاد کرنا نفس کی بیماریوں کو دوا ہے۔ اور بیماریوں  
کے سروں پر ٹھوڑا ہے۔ میں برسوں رات دن موت کی یاد  
کثرت سے کرتا رہا میں نے اُس کے ذکر سے فلاح پائی اور  
اُس کی یاد سے میں اپنے نفس پر غالب ہو گیا اُن بعض راتوں  
میں میں نے موت کو یاد کیا اور شروع رات سے سحر تک  
روتا رہا۔ پس میں اُس رات میں روتا تھا اور کرتا تھا۔

اے خدا میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ  
میری روح کو ملک الموت قبض نہ کرے بلکہ تو خود ہی میری قبض  
روح کا متولی بننا پس میں نے اپنی آنکھ بند کی میں نے ایک  
بزرگ بارونقی خوش خصلت شخص کو دیکھا کہ وہ دروازہ سے  
داخل ہوا میں نے کہا تم کون ہو جواب دیا میں ملک الموت  
ہوں پس میں نے اُن سے کہا۔ میں نے تو خدا سے یہ سوال  
کیا تھا کہ وہ خود میری قبض روح کا متولی بنے اور تم میری

قَبَضَ رُوحِي وَلَا تَقْبِضْهَا أَنْتَ فَقَالَ وَلِيهِ  
سَأَلْتَهُ ذَلِكَ أَمْ ذَنْبِي إِنْ أَنَا لَا  
عَبْدُ مَا مَوْرَأُ أَوْ مَرَّ بِالسَّيْرِ فَقِي بِقَوْمٍ  
وَيَا لَفَظَاطَةٍ عَلَى قَوْمٍ وَعَا تَقَرَّحِي وَبَكِي  
وَبَكَيْتَ مَعَهُ ثُمَّ اسْتَبَهَتْ وَأَنَا أَبْكِي  
كَانَ أَحَدُ بَنِي حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
يَقُولُ عَزِيزٌ رَشِيدٌ عَلَى قُلُوبٍ  
أَحْرَقَهَا حُبُّ الدُّنْيَا وَقَدْ جَمَعَتْ  
صُدُورُهَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الْإِخْوَانِ  
الصَّالِحِينَ الْقَائِمِينَ الثَّابِتِينَ  
السَّاجِدِينَ الْأَمْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ  
النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِينَ قَيَّدَ الرُّوحُ  
أَيَّدِيَهُمْ عَلَى الْأَسْبَابِ وَهَمَّتْهُمْ طَلَبُ  
رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ  
لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ سَأَلَهُ سَائِلٌ  
أَيُّهَا أَشَدُّ نَأْمُ الْخَوْفِ أَوْ نَأْمُ الشُّرْقِ  
فَقَالَ نَأْمُ الْخَوْفِ لِلْمُرِيدِ وَنَأْمُ الشُّرْقِ  
لِلْمُرَادِ هَذَا شَيْءٌ وَهَذَا شَيْءٌ أَمْ  
النَّاسُ يَنْتَبِهُنَّ عِنْدَكَ يَا سَائِلٌ

يَا مُعْتَمِدِينَ عَلَى الْأَسْبَابِ نَأْفَعُكُمْ  
وَاحِدٌ ضَائِعٌ كُمْ وَاحِدٌ مَلِكٌ كُمْ وَاحِدٌ  
سُلْطَانٌ نَكَمٌ وَاحِدٌ وَالْهَاسِكُ  
وَاحِدٌ مَا سَمِعْتُمُوهُ يَقُولُ فَمَنْ  
كَانَ يُزْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا  
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

روح کو قبض نہ کرو۔ جو ابال ملک الموت نے کہا آپ نے یہ کیوں  
سوال کیا میرا کیا گناہ ہے میں تو ایک محکوم بندہ ہوں کسی قوم کے  
ساتھ نرمی سے روح نکالنے کا حکم دیا جاتا ہوں کسی کے ساتھ  
سختی کا پھر مجھ سے معاف کیا اور روئے اور میں بھی ان کے  
ساتھ رویا پھر میں خواب سے ہوشیار ہوا اور میں نے اپنے  
آپ کو روتا ہوا پایا۔ احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے میرے  
اوپر وہ دل سخت و ناگوار ہیں جن کو کو دنیا کی محبت نے جلا رکھا  
ہے حالانکہ ان کے سینوں میں قرآن جمع ہے تو ایسے بھائی  
زیادہ پیدا کرو جو کونیک کار ہوں قیام کرنے والے رکوع کرنے  
والے مجدد کرنے والے امر بالمعروف کرنے والے نہی عن المنکر  
کرنے والے ہوں جن کے ہاتھوں کو ان کے تقویٰ سے دیر پہنچا  
نے کمانی سے روک دیا ہو اور ان کی ہمت رب تعالیٰ کی  
طلب گاری ہو۔ تم اُنھیں پر اپنے مال خرچ کیا کرو کیوں کہ کل  
اللہ کے پاس سے اُنھیں بے انتہاد دولت ملنے والی ہے  
آپ سے کسی سائل نے سوال کیا کہ کون سی آگ زیادہ سخت  
ہے۔ خوف کی آگ یا شوق کی آگ جواب دیا مرید کے لیے خوف  
کی آگ اور مراد کیلئے شوق کی آگ۔ یہ اور چیز ہے۔ اور وہ اور چیز۔  
اسے سائل تیرے پاس دونوں آگوں میں سے  
کوئی آگ ہے۔

اے سبہوں پر بھروسہ کرنے والو! تمہارا نفع دینے والا  
تمہارا نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے تمہارا حاکم و بادشاہ  
ایک ہی ہے اور تمہارا امیر و ایک ہی ہے کیا تم نے اُس کا  
ارشاد نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے پس جو تم میں سے اپنے رب  
تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھے۔ پس وہ عمل صالح کرے اور  
وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں کبھی کو شریک نہ کرے

بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ أَنْتَ إِنْ تَفْعَلْ  
إِيَّاكَ وَقَدْ سَأَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ أَفْعَلُ  
إِيَّاكَ قَالَ لَهُ فَأَمَرْتُ نَفْسَكَ بِالْمَخَالَفَةِ  
وَالْمَجَاهَدَةِ وَالتَّطَارُشِ عَنْ إِجَابَتِهَا  
لَا تُجِِبْهَا إِلَى شَهَوَاتِهَا وَلَدَّارَتِهَا وَ  
رُعُونَاتِهَا فَحِينَئِذٍ تَذِلُّ وَتَنْتَحِي عَنْ  
وَجْهِ قَيْدِكَ تَصِيرُ قِطْعَةً لِحَبِّهِ مُلْقَاةً  
بِلَا حَرَكَةٍ فَتَذُبُّ فِيهَا رُوحُ الظَّلَامِيَّةِ  
إِذَا اخْرَجَتْ رُوحُ وَجْهِهَا دَبَّتْ فِيهَا  
رُوحُ ظَلَامِيَّتِهَا فَحِينَئِذٍ تَرَى هِيَ وَالْقَلْبُ  
رَبَّهُمَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا صَارَتْ مُطْمَئِنَّةً  
مَسَاعِدَةً نَفْعَ فِيهَا رُوحٌ غَيْرُ الرُّوحِ  
الرَّوْحِ رُوحُ الرُّوحِ رُوحُ الرُّوحِ  
رُوحُ الرُّوحِ فِي الْخَلْقِ رُوحُ الرُّوحِ  
بِالْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ رُوحُ الظَّلَامِيَّةِ إِلَيْهِ  
وَالنُّبُورِ عَنْ غَيْرِهِ الصَّادِقُ فِي عَمَلِهِ  
يُودِعُ الشُّيُورَ وَيَجْعَلُهُمْ يُثِيرُ  
إِلَيْهِمْ أَقْعَدُوا مَا نَكُمُ حَتَّى أَهْضَى  
إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي دَلَّسْتُمُونِي  
عَلَيْهِ الشُّيُورُ بَابٌ فَهَلْ يُحْسِنُ  
أَنْ يَلْزِمَ الْبَابَ وَلَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَ  
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَدَقُوا اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ فِيهِمَا اخْتَبَرَ آسَاسُ الْوُصُولِ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمَا

تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں تو تو ہی پردہ و حجاب  
بنا ہوا ہے اگر تو اپنے سے علیحدہ ہو جائے پس تو اس کو دیکھ  
سکتا ہے۔ سائل نے کہا میں کیسے علیحدہ ہو سکتا ہوں جواباً ارشاد  
فرمایا اپنے نفس سے مخالفت کر کے اس کو مجاہدہ میں ڈال کر  
اُس کے قول کے سننے سے بہرہ بن کر تو جدائی کر لے نفس  
کی خواہشوں اور لذتوں اور غوتوں کو پورا نہ کر۔ پس اس وقت تک  
نفس ذلیل ہو جائے گا اور وہ تیرے قلب کے چہرہ سے دور  
ہو جائے گا وہ بغیر حرکت کا ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہوائے گار۔  
پس اس میں اطمینان کی روح چلے گی۔ جب اُس میں سے روح وجود  
نکل جائے گی۔ تو اُس میں روح طمانیت سرایت کرے گی پس  
اس مقام پر پہنچ کر نفس و قلب دونوں رب تعالیٰ کو دیکھنے لگیں  
لگے جب وہ روح مطمئن ہو جائے گی اور موافقت کرنے لگے  
گی۔ تو اس میں پہلی روح کے سوا دوسری روح بھونک دی  
جائے گی۔ ربوبیت کی روح عقل کی روح اُس کی طرف  
کنار کشی کی روح حق عزوجل کے ساتھ وجود کی روح اُس کی  
طرف اطمینان کی روح اور غیر اللہ سے نفرت کی روح۔ جو  
شخص کہ اپنے عمل میں سچا ہوتا ہے وہ مشائخ سے رخصت  
ہو کر آگے بڑھتا ہے اور ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم  
اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ یہاں تک کہ اُس جگہ پر جو کہ تم نے بتا دی  
ہو اوّل مشائخ تو اتنا نہ الہی کے دروازہ ہیں پس یہ بہتر معلوم ہوتا  
ہے کہ کوئی دروازہ پر چٹا رہے۔ اور گھر کے اندر داخل نہ  
ہو اللہ تعالیٰ آدمیوں کے لیے مثالیں دیا کرتا ہے۔ تم اللہ  
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ اس  
کے رسول کی اُن چیزوں میں جس کی کہ انھوں نے خبر دی ہے  
تصدیق کرو اللہ عزوجل کی طرف پہنچنے کی بنیاد ایمان ہے۔

أَسَاسُ الْخَيْرِ كُلِّهِ الْإِيمَانُ وَالْإِخْلَاصُ أَسَاسُ  
التَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةُ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَسَاسُ الْوَلَايَةِ وَ  
الْبَدَلِيَّةِ وَالْعَوْنِيَّةِ وَالْقُطْبِيَّةِ .

کل بھلائیوں کی بنیاد ایمان ہے۔ اور اخلاص نبوت کی جڑ ہے  
اور نبوت رسالت کی جڑ اور وہ ولایت کی جڑ اور بدلیت و  
عوثیت و قطبییت کی جڑ ہے اللہم ارزقنا۔ آمین

## أَوَّلُ الْفَتْوحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فتوح اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :

مِنْ كَلَامِ الْأَمَامِ الْعَارِفِ الْمُحْسِنِ  
الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ  
صَالِحِ الْجِيلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا فِي رَجَائِسِ  
وَعُظَمَاءٍ مِنْ غَيْرِ تَشَبَّهَتْ بِلِ مِمَّا  
فَتَحَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَلَقَّفَهُ أَصْحَابُهُ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ  
بُرُكَّتِهِ لَهَا مَا تَعَلَّى بِرَأْفَتِهِ بَرْنِ  
عِيَاضِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَأَلَ أَبُوهُ فِي  
السَّنَامِ فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ  
يَا أَبَتِ مَا أَيْتُ لِلْعَبْدِ خَيْرًا لَهُ مِنْ  
رَبِّهِ يَا بَنِي عَلِيٍّ يَا اللَّهُ وَلَا تَنْتَعِلْ  
بِغَيْرِهِ الدَّارُ دَارُكَ وَالْأَرْضُ رَأَقُ خَلْقِهِ وَ  
وَقَدْ سَرَفِيهَا أَقْوَاتُهَا الْمَلَأَتْكَ  
يُوكَلُونَ بِأَمْرٍ زَاوِكَ الْخَيْرُ مِنْهُ وَ  
الشَّرُّ مِنْهُ يَرْحَمِي الْعَبْدُ فِيهِمْ الْأَفْئَاتِ  
جَحَى إِذَا غَضِضَ الْعَبْدُ عَيْنَيْهِ عَنِ  
الرَّحْمَى جَاءَ طَبِيبُ الْعَذَابِ دَاوَى

کلام امام الائمہ عارف باللہ محی الدین ابو محمد عبدالقادر  
صاحبزادہ حضرت ابوصالح جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما  
سے جن کو آپ نے متفرق مجالس میں ان چیزوں سے  
جن کو اللہ تعالیٰ نے

آپ پر انکافر یا ظاہر کیا اور اس کو آپ کے ہم صحبتوں نے جن  
لیا رضی اللہ عنہ وغنم۔ اللہ ان سب سے راضی ہو اور ہم کو ان سب  
کی برکتوں سے حصہ دے آمین۔ جب کہ علی ابن فضیل ابن عیاض  
علیہما الرحمہ کا انتقال ہو گیا ان کے باپ نے ان کو خواب میں دیکھا  
پس ان سے دریافت کیا خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ  
کیا جواب دیا کہ میں نے بندہ کے لیے رب تعالیٰ سے بہتر  
کسی کو نہ پایا۔ حضور نے فرمایا اے سچے تو اللہ کو لازم پکڑ اور غیر اللہ  
کے ساتھ مشغول نہ ہو گھر اسی کا گھر ہے۔ اور رزق اسی نے پیدا کیا  
ہے اور رزقوں میں مخلوق کی روزی اسی نے مقدر فرمائی ہے۔  
فرشتے تیرے رزقوں کی حفاظت کرتے ہیں متعین ہیں خیر و شر  
سب اسی کی طرف سے ہیں اس حکم سے بندہ پر امنوں کے تیر  
پرستے ہیں جب اس سے بندہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے انوں  
پر صبر کر لیتا ہے تو اس کے پاس طیب توب اگر اس کے زخم کا

علاج کرتا ہے اور طیب محبت اگر اُس کو دفع کر دیتا ہے اور طیب شوق اگر اُس کو اپنے سے ملا لیتا ہے۔ ابتدا تکلیفوں اور مشکلوں سے ہی ہوتی ہے جب کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے پس قرب الہی بغیر اُس کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے مسلمان بندہ دنیا کی بستی میں بادشاہ کی طرف سے عمل کرنے والا کار گزار ہے جب باطن آسمان اور قلب زمین بن جاتا ہے۔ قلب باطن کے آسمان کا بچا کھچا کھانا کھاتا ہے جب وہ چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان میں جمع کر لیتا ہے پھر رحمت الہی کو اپنے سے قریب دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو اُس کی طرف پھیلا دیتا ہے گویا کسی چیز سے وہ معاف کر رہا ہے بعدہ آپ نے فرمایا۔

اے اہل مجلس مجھے معذور سمجھو ہم آج حال کی قید میں اور زندگی کی قید میں ہیں گنگے ہیں۔ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا پس آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچہ تو نے اپنے نسب کو مجھ سے صحیح کر دکھایا تو خلف الصدق ہے وحشت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تجھے موت آئے گی۔ ہر ملنے والا تجھ سے دور ہو جائے گا اور ہر ذراتِ دار تجھے چھوڑ دے گا پس تو اُن کے چھوڑنے سے پہلے اُن کو چھوڑ دے اور اُن سے قطع تعلقی کرے۔ قریح عز وجل کی طرف استہ اور دہیز ہوتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے مر جا۔ تو اپنی خودی سے اور اُن سب سے مر جا اور خدا کے ساتھ زندہ ہو جا۔ تو مثل مردہ کے ہو جا۔ تقدیر کا ہاتھ تجھے لقمہ کھلائے گا اور تجھے کروٹیں بدلوائے گا۔ تو اپنا حصہ بغیر اپنے قصد سے لیا کرے گا۔ جب یہ مرتبہ پورا ہو جائے گا اُس وقت تجھے قرب و علم الہی کے ساتھ زندگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ طائر بینی روح اڑ جائے گی۔ کبھی قسم کی

جُرْحَه وَ طَيِّبُ الْحَبِّ وَ فَعَه وَ طَيِّبُ الشَّوْقِ صَدَّه الْبِدَايَةُ بِالْمَكَارِهِ إِذَا كَانَتْ الْجَنَّةُ مُحْفُوفَةً بِالْمَكَارِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قُرْبُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنُ عَامِلُ الْمَلِكِ فِي قَرِيَةِ اللَّهِ نَبِيًّا إِذَا صَادَ السِّرُّ سَمَاءً وَالْقَلْبُ أَرْضًا يَطْعَمُ الْقَلْبُ مِنْ سُورِ سُورِ سَمَاءِ السِّرِّ إِذَا شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا شَمْسًا أَوْ رَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْهِ قَرِيبًا وَ مَدَّ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يُعَارِنُ شَيْئًا قَالَ۔

يَا أَهْلَ الْمَجْلِسِ اْعْدُوا لَنَا أَنَا فِي قَيْدِ الْحَالِ فِي قَيْدِ مِنَ الْحَيَاةِ الْيَوْمَ أَخْرَسُ أَنَا أَصَمُّ رَأَيْتُ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا بَنِي صَخَّحْتَ نَسِيَّ الْوَحْشَةِ لَا بَدَلَ مِنْهَا إِذَا أَنْزَلَ بِكَ الْمَوْتُ قَطَعَكَ كُلُّ مَوَاصِلٍ وَهَجَرَكَ كُلُّ قَرِيبٍ فَاهْجُرْهُمْ قَبْلَ هَجْرِهِمْ وَ اقْطَعْهُمْ يَكُونُ الْقَبْرُ طَرِيقًا إِلَى الْحَقِّ وَ هَلِيزَا إِلَيْهِ مَتَّ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ مَتَّ عَنْكَ وَ عَنْهُمْ وَ قَدْ حَيَّيْتَ بِهِ نَفْسِي كَالْمَيِّتِ وَ يَدُ السَّابِقَةِ تَلْقُمُهُ وَ يَقْلِبُهَا يَأْخُذُ فَنَسَمَهُ عَنْ غَيْرِ هَبِّهِ إِذَا اسْتَهَذَا جَاءَتْ الْحَيَاةُ بِقُرْبِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْعِلْمُ بِهِ يَتَخَذِي هَذَا الطَّائِرُ

لَا يَبْأَىٰ قَامَتِ الْفَيْمَةُ أَوْلَمَ تَقَمُّ خُلُقِ  
 الْمَوْتِ أَوْلَمَ يُخْلَقُ عِنْدَكَ شَعْلٌ وَصَلَّ  
 إِلَى الْحَقِّ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَهِيَ  
 مَحْفُوظَةٌ مَحْرُوسَةٌ سُبْحَانَ مَنْ  
 سَتَرَ كُمْ بِالْجِلْمِ وَفَضَحَكُمْ بِالْعِلْمِ  
 يَتَكَبَّرُ أَحَدُكُمْ بِزِيِّ الصَّالِحِينَ زَرْقَةً  
 وَصُوفٍ وَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ قَدْ يَأْكُلُ  
 الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ وَيَقْتَوِي إِيْمَانُهُ فَيَعْرَمُ  
 عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ يُقَالُ لَهُ لَا فَتَحْ  
 خَزَانَةَ التَّكْوِينِ خُذْ مِنْ خَزَائِنِ الْعِلْمِ  
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَرَّعُوا  
 مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ يَعْنِي تَذَكُّرُوا  
 الْمَوْتَ وَمَا وَرَاءَهُ وَالصِّرَاطَ وَمَا  
 وَرَاءَهُ أَذْكُرُوا الْآخِرَةَ يَنْبَغِيهَا وَعَذَابُهَا  
 تَقَرَّعُوا مِنَ الدُّنْيَا بِالشَّغْلِ مَعَ اللَّهِ  
 عَزَّ وَجَلَّ يَطْهَرُ رُتَّةَ الْفُلُوبِ وَالْأَسْرَارِ  
 وَمُجَاهَدَةَ الشُّغُوبِ وَمُحَاسَنَةَ  
 الشَّيْطَانِ تَحَرَّوْا بِلَهُ تَعَالَى وَ  
 انْقَطِعُوا إِلَيْهِ التَّوْحِيدُ إِعْدَامُ  
 الْخَلَائِقِ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْكُلِّ  
 وَإِنْ قَلَبَ طَبْعَكَ إِلَى طَبْعِ  
 الْمَلَائِكَةِ شِمَّ فَنَأْوَكَ عَنْ طَبْعِ  
 الْمَلَائِكَةِ وَلُحُوقِ بِرَبِّكَ عَزَّ  
 وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ يُسْقِيكَ وَ  
 فِ الدُّنْيَا اللَّهُ كَوْنًا تَقَرُّاتِ عطاءِ كرومے جاتے ہیں

کوئی پرواز کرے گی قیامت قائم ہو یا قائم نہ ہو موت پیدا کی جائے  
 یا بیدار کی جائے اس کے پاس ایک ایسا مشغلہ ہے جس کی وجہ سے  
 وہ حق عزوجل تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن شرعی حکم پس وہ محفوظ رہے گی  
 کیسے گئے ہیں ان میں یہ سرمو کی نہیں کرتا ہے پاک ہے وہ ذات  
 جس نے تم پر اپنے علم سے پردہ ڈال دیا ہے اور علم سے  
 تم کو ظاہر کر دیا ہے تم میں سے ایک نیلے رنگ اور صوف کا  
 لباس صالحین کا سا پہنتا ہے حالانکہ وہ ہمارے نزدیک کافر  
 ہے بندہ کامل اپنے کسب و کمائی سے کھاتا رہتا ہے۔ اور  
 اس کا ایمان قوت پکڑتا جاتا ہے پس اس پر اس کے کسب کا  
 کھانا حرام کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو تکوین  
 کا خزانہ کھول اور علم کے خزانہ سے لے (اسے تصرف عام اور  
 اختیار تمام دے دیا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے ارشاد فرمایا ہے تم جہاں تک طاقت رکھو دنیا کے غلوں  
 سے خالی ہو جاؤ مرنے کو اور مرنے کے بعد کے واقعات اور  
 پہلے صراط پر چلنے اور اس کے بعد کے واقعات کو یاد کیا کرو آخرت  
 کو اس کی نعمتوں اور عذاب کے ساتھ یاد کیا کرو تم قلب کی پاکی اور  
 باطن کی پاکی اور نفس کے مجاہدہ اور شیطان کے محاربہ کے ساتھ  
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو کر دنیا سے فراغت حاصل کر لو تم  
 اللہ کے لیے آزاد ہو جاؤ اور تمام مخلوقات سے قطع تعلق کر  
 کے اسی کے ہو جاؤ توحید کے معنی ہی یہ ہیں کہ تو تمام مخلوق کو  
 معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور تیری طبیعت  
 کی طرف پلٹ جائے۔ پھر ان فرشتوں کی طبیعت سے نفاذ  
 کر اپنے پروردگار عزوجل کے ساتھ مل جائے۔ پس اس  
 وقت وہ مجھے شراب وصل سے سیراب کرے گا اور تو ایسے

وَتَخْصُ بِأَعْمَالٍ عِنْدَكَ رِيًّا دَعَا عَلَى  
عَمَلِ الظَّاهِرِ إِلَّا سَلَامُ ظَاهِرٍ وَإِلَیَّ  
قُوَّتُهُ ثُمَّ الْمَعْرِفَةُ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
يَعُدُّ ذَلِكَ ثُمَّ التَّوَجُّودُ يَا اللَّهُ تَعَالَى  
فَإِذَا كَانَ وَجُودُكَ بِهِ كَانَ كَذَلِكَ  
لَهُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَ  
سَبِيهِ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ فَإِذَا  
قَوِيَ أَكَلَ مِنْ تَوَكُّلِهِ وَيَرَى  
مِنْ اللَّهِ كَمَا يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ  
الْأَوَّلِ لَوَقَعَدَ فِي دَجَلَةِ أَلْفِ عَامٍ  
كَانَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِاللَّهِ ائْتَعْظَ رَحِمَكَ  
اللَّهُ يَا رَبِّ وَجْهٍ تَلَقَّاكَ وَأَنْتَ تُعَارِضُ  
تُعَارِضُهُ فِي قَضَائِهِ وَقَدَّرَهُ لَا  
تُعَارِضُ وَلَا تُجَادِلُ عَيْنُكَ عَارِضُ  
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ يَخْلُقُ  
خَلْقًا ثُمَّ يُعَدِّمُهُ مَحَاةً مِنْ دِيَوَانِ  
النُّبُوَّةِ أَسْمَاتُهُ مِائَةُ عَامٍ مَعْرُودًا  
ثُمَّ أَحْيَاهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُ  
إِجْعَلِ إِلَّا سَتَغْفَارَ دَابَّ لِسَانِكَ  
وَالْإِعْتِرَافَ دَابَّ قَلْبِكَ وَ  
السُّكُونُ دَابَّ سِرِّكَ الدِّكْرُ أَوْ لَا  
يَلْسَانِ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْقَلْبِ جَاءَهُ  
الْحُبُّ وَالشَّوْقُ تَعَدَّى إِلَى اللِّسَانِ  
صَحَبَتْ مَشَاطِعَ مَا سَأَتْ بَيَاضُ سِنِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّيِّبَاتِ

عملوں سے مخصوص ہو جائے گا کہ جو کما ظاہر عمل سے اُس کے پاس  
زیادہ ہیں۔ اسلام ظاہری تصدیق کا نام ہے اور ایمان اُس کی  
قوت ہے بعدہ معرفت الہی کا مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ وجود  
ہونے کا مقام ہے۔ پس جب تیرا وجود اُس کے ساتھ ہو جائے  
گا وہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا تو بقا کا مرتبہ پلے گا  
ایمان والا ابتدا میں اپنے کسب و سبب سے کھایا کرتا ہے اور  
یہ جانتا ہے کہ تحقیق وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پس جب اُس  
کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے توکل کے ذریعہ سے کھاتا  
ہے اور اُس کو منجانب الہی سمجھتا ہے اور اُس کی پہلی نظر و خیال میں  
سر مو تغیر واقع نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ ہزار برس بھی دجلہ میں بیٹھے  
اُس کا قلب اللہ ہی کے ساتھ متعلق رہے گا۔ تو میری نصیحت  
قبول کر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو ایسی حالت میں کہ قضا و تقدیر  
الہی سے معارضہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے ملے گا  
تو معارضہ چھوڑ دے اور جھگڑا نہ کر عزیز علیہ السلام نے مخلوق کے  
بارے میں رب عزوجل سے معارضہ کیا کہ وہ اولاً مخلوق کو پیدا  
کرتا ہے۔ پھر اُس کو معدوم کر دیتا ہے اُس وقت اُن کو نبوت کے  
دفتر سے محو کر دیا معزول کر کے تو برس تک موت دے دی  
پھر اُن کو زندہ کر دیا اور پہلی اُن کی حالتیں اُن پر لوٹا دیں نبوت  
عطا کر دی تو استغفار کو اپنی زبان کا طریقہ۔ اور اعتزاز و اقرار کو  
اپنے قلب کا طریقہ اور سکون کو اپنے باطن کا طریقہ مقرر کرے۔  
ذکر اول زبان سے ہوتا ہے پھر وہ زبان سے قلب کی طرف  
متعدی ہوتا ہے بعدہ محبت و شوق پیدا ہو کر زبان کی طرف آجاتا  
ہے میں نے بہت ایسے شائخ کی صحبت اختیار کی ہے کہ میں نے  
اُن میں سے کسی کے دانت کی سپیدی بھی نہ دیکھی انھوں نے  
مسکرا کر مجھ سے بات ہی نہ کی۔ لذیذ پاکیزہ غذائیں خود کھاتے

تھے اور مجھے ایک لغز بھی دکھلاتے تھے۔ تم ادب سیکھو تو چھوڑ  
دے دو سکر کو دیتا رہ پیٹ بھرنے دے تو بھوکا رہ تو  
غیر کو عزت دے اور خود ذلیل بن تو غیر کو مستغنی بنا اور اپنے آپ  
حاجت مند بنارہ ہیں تمہاری تربیت اسی دن کے لیے کرتا ہوں  
اور تم کو ہدایت کرتا اور علم سکھاتا ہوں مجھے اس بات کا یقین کی کہ  
یہاں ہے کہ تم مجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ نقصان دے سکتے ہو  
اور نہ تم ذرہ برابر میرے رزق میں کمی بیشی کر سکتے ہو اس کے بعد  
میں نے تم کو وعظ کہنا شروع کیا ہے۔ میں نے اس خیال کو اسی  
وقت مضبوط کر لیا تھا جب کہ میں جنگوں میں اور عسکری میدانوں میں رہتا  
تھا۔ خواہش کے مطابق کھانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور باطن  
کو تنقید کر دیتا ہے اور دانائی کو زائل کر دیتا ہے۔ اور نوم و  
غفلت کو بڑھا دیتا ہے اور حرص کو تقویت دیتا ہے اور آرزو کو  
طویل کر دیتا ہے۔

اے خواہش کے قید خانہ کے قیدی اے مخلوق کے  
بندے اے انجام کار سے جاہل اے مخلوق و حق اور اپنے  
نفع و نقصان سے نادان کیا تجھے عقل نہیں ہے پس تو عقل سے  
کام لے اور موت کو یاد کر کیوں کہ موت کی یاد ہر بھلائی و سلامتی  
کی کنجی ہے۔ جب تو موت کو یاد کرے گا تجھ سے فضولیات  
منقطع ہو جائیں گی جب تیری حرص ضعیف و کمزور ہو جائے  
اور آرزو کم ہو جائے تو تو اتنا اللہ و انا الیہ راجعون  
پڑھ کر اپنے تمام امرا اللہ عز و جل کی طرف سپرد  
کر دے۔

اے غلام تیرے لیے فلاح نہیں ہے یہاں تک کہ تو  
اس کی نعمتوں کا انکار کرے اور وہ نعمتیں تجھ کو توحید الہی  
کے دریا میں ڈبو دیں پھر اس کی توحید میں تو غیر اللہ کی طرف

وَلَا يَطْعُمُونِي لِقْمَةً تَأْكَبُوا دَعْمَ تَشَبَعُ  
غَيْرَكَ وَجُعَ أَنْتَ لِعِزِّ غَيْرِكَ وَتَذِلُّ  
أَنْتَ تَسْتَغْنِي غَيْرَكَ وَتَفْتَقِرُ أَنْتَ إِلَيْهَا  
أُرِيْبِيَكُمْ وَأَهْدِيَكُمْ وَأُعِيْبَكُمْ لِيَذِلَّ  
الْيَوْمَ قَطَعْتُ بِأَتِكُمْ لَا تَنْفَعُونِي وَ  
تَضُرُّونِي وَلَا تَزِيدُونِي فِي بَرِّقِي وَلَا  
تَنْقُصُونِ مِنْهُ ذَرَّةٌ بَعْدَ ذَلِكَ  
تَكَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ أَحْكَمْتُ هَذَا وَأَنَا  
فِي الصَّحَابِ رَأَى وَالْيَقَارِ أَكُلُ الشَّهَوَاتِ  
يُقْسِي الْقُلُوبَ وَيَقْتِيدُ السِّرَّ وَيُزِيلُ  
الْقُوتَةَ وَيُكَثِّرُ النَّوْمَ وَالْعَفْلَةَ  
وَيُقْوِي الْحِرْصَ وَيُطْوِلُ الْأَمَلَ

يَا مَسْجُونًا فِي سَجْنٍ هَوَا  
يَا عَبْدَ الْخَلْقِ يَا جَاهِلًا بِعَاقِبَةِ  
أَمْرِهِ يَا جَاهِلًا بِالْخَلْقِ وَالْحَقِّ وَ  
مَا عَلَيْهِ وَلَهُ أَلَمْ تَعْقِلْ فَمَا عَقِلُ  
ذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنْ ذَكَرَهُ مَفْتَحُ  
كُلِّ خَيْرٍ وَسَلَامَةٍ إِذَا ذَكَرْتَ  
الْمَوْتَ انْقَطَعَ عَنْكَ الْفُضُولُ إِذَا ضَعُفَ  
حِرْصُكَ وَقَلَّ أَمَلُ اسْتَرْجَعْتَ قُوَّتُكَ  
أُمُورُكَ كُلُّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يَا غُلَامُ لَا فَلَاحَ لَكَ حَتَّى  
تَعْتَرِفَ بِنِعْمَةٍ وَالتَّعَمُّ  
تَعْرِقُكَ فِي تَوْحِيدِهِ شَمَّ

نَفَقَ فِي تَوَحُّدِهِ عَنْ ذُوِيَةِ غَيْرِهِ  
 كَيْفَ تُحِبُّ مَنْ يَسْكُو مِنْهُ وَيُنَظِّرُهُ  
 وَيَجَادِلُهُ الْحُبُّ وَالشَّوْقُ وَالْقُرْبُ  
 مِنْهُ لَا يَثْبُتُ مَعَ هَذَا إِذَا صَحَّتِ  
 الْمَحَبَّةُ فَلَا أَلَمَ عِنْدَ مَجِيئِ الْفَقْدِ  
 إِذَا تَمَكَّنَتِ الْمَحَبَّةُ ارْتَفَعَتِ الْمَعَارِضُ  
 وَالتُّهْمَةُ كُلُّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهُ إِلَى الْقَبْرِ  
 أَنْتَ فِي سَفَرٍ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ  
 الْعَارِفُ يَشْتَعِلُهُ مَعْرُوفُهُ عَنِ الْقَبُولِ  
 وَالرَّوْدِ وَالْحَمْدِ وَالذَّمِّ إِذَا نَزَلَتِ  
 النَّفْسُ صَامَةً مَكَانَهَا الْآخِرَةَ وَإِذَا  
 نَزَلَتِ الْآخِرَةُ صَامَةً مَكَانَهَا قُرْبَ  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْهَلُ نَسْ بِقُرْبِهِ وَ  
 يَزْدَادُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ تَقْطَعُ بِكَ  
 يَصْفُ الطَّرِيقَ وَالصَّوْمُ يَقِيمُكَ عَلَى  
 الْبَابِ وَالصَّدَقَةُ يُدْخِلُكَ إِلَى  
 الدَّارِ هَكَذَا قَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ وَ  
 اسْتَعِينُوا عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ  
 بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ سَأَلَكَ لَيْسَ وَ  
 وَحَدَّثَكَ وَاعْرَبْتَ لَوْ لَا حِفْظُ الْحُكْمِ  
 لَنَطَقَ صَامٌ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 بِأَسْرَارِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ لَكِنَّ الْحُكْمَ بِذِيْلِ  
 الْعِلْمِ مُسْتَعِيرٌ بِهِ لَيْلًا يُبْدِي قَدْ يَزْهَدُ  
 بِاللَّعْمَةِ شَغْلًا بِالْمَعْمَةِ وَيُقْطَعُ النِّعْمَةُ عَنْهُ لَيْلًا  
 يَشْتَغِلُ بِهَا فَإِذَا دَامَ شُغْلُهُ بِهِ قَرَبَهُ

نظر کرنے سے فنا ہو جائے۔ وہ تیرا دوست کیسے بن سکے گا  
 جو کہ اُس کی شکایت کرنا ہو گا اور اُس سے تقدیر کے بارے  
 میں مناظرہ و مجادلہ کرے گا۔ اُس سے محبت و شوق اور قرب  
 باوجود ان باتوں کے قرار نہیں پکڑ سکتا۔ جب محبت صحیح ہو  
 جاتی ہے پس مقدمات کے نازل ہونے کے وقت کوئی  
 رنج و تکلیف نہیں ہوتی ہے جب کہ محبت جگہ پکڑ لیتی ہے۔  
 معارضہ و تہمت سب اٹھ جاتی ہے۔ تیرا ہر قدم جو بڑھتا  
 ہے وہ قبر کی طرف بڑھتا ہے تو قبر کی طرف سفر میں مشغول  
 ہے۔ بعض اہل اللہ کا قول ہے کہ عارف باللہ کو اُس کی  
 ٹکڑیاں قبول اور رد تعریف اور برائی سے باز رکھتی رہتی ہیں  
 جب کہ نفس دور ہو جاتا ہے اُس کی جگہ آخرت آ جاتی ہے۔  
 اور جب کہ آخرت زائل ہو جاتی ہے اُس کی جگہ قرب الہی آ جاتا  
 ہے۔ وہ اُس کے قرب سے اُنس لیتا رہتا ہے اور اس کی  
 طرف راحت پاتا ہے۔ نماز ادا حالانکہ تیرا قطع کرا دیتی ہے  
 اور روزہ تجھے اُس کے دروازہ پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے بعض  
 صدقہ تجھ کو گھر کے اندر داخل کر دیتا ہے بعض مشائخ طریقت  
 نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور تم اللہ کا راستہ طے کرنے میں  
 صبر و نماز سے مدد لیا کرو۔ کوئی سالک ہی نہیں اس کی وحدت  
 و غربت پر افسوس ہے۔ اگر حکم شرعی کی حفاظت مد نظر نہ ہوتی  
 تو البتہ یوسف علیہ السلام کا صاع تمہارے اسرار و اعمال کو  
 ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن حکمِ علم کے دامن میں پناہ لینے والا  
 ہے تاکہ وہ ظاہر نہ ہو کبھی وہ منعم کے ساتھ مشغول کی وجہ سے  
 نعمت سے بے رغبتی کرتا ہے اور اُس سے نعمت منقطع  
 کر لی جاتی ہے تاکہ وہ اس نعمت کے ساتھ مشغول نہ ہو جائے  
 پس جب اُس کا مشغلہ خدا کے ساتھ ہر وقت ہو جاتا ہے تو

إِلَيْهِ وَوَضَعَ فِي يَدَيْهِ التَّكْوِينَ مَلَكًا مِنْ  
وَمَا أَلَيْكُم بَعْدَ عَذَابٍ مُّؤَيَّتٍ إِيَّائِكُمْ وَ  
لِذَلِكَ جَاءَ وَرَثَتُ دُنْيَاكُمْ وَجَاءَ وَرَثَتُ  
الْآخِرَةِ نَظَرْتُ إِلَيْكُمْ فَمَرَأَيْتُ لَا ضَرَّ  
بَأَيْدِيكُمْ وَلَا نَفْعَ وَلَا عَطَاءَ وَلَا  
مَنْعَ وَاللَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِيكُمْ لَا  
تُضَرُّونَ إِلَّا بَعْدَ إِصْبَارِ اللَّهِ  
فَرَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ وَآمَنَّا الدُّنْيَا  
فَمَرَأَيْتُهَا قَانِيَةً ذَاهِبَةً قَانِيَةً  
خَادِعَةً فَكَانَتْ مِنَ السُّكُونِ  
إِلَيْهَا وَالْوُقُوفُ مَعَهَا لِسُرْعَةِ ذَهَابِهَا  
وَآمَنَّا الْآخِرَةَ فَوَقَفْتُ عِنْدَ هَاسَأَةٍ  
نَظَرْتُ فِي أَمْرِهَا فَظَهَرَ عِنْدِي عَيْبُهَا  
وَهِيَ كَوْنُهَا مُحْدَثَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَ  
مَرَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ فِيهَا شَهْوَةً  
الْأَنْفُسِ مَا تَكْدُمُنَّهُ الْأَعْيُنُ وَهُوَ  
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيهَا مَا كَشَفْتُمُوهُ  
الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ قُلْتُ فَأَبْرَأَ  
شَهْوَةَ الْقَلْبِ فَأَعْرَبْتُ عَنْهَا  
إِلَى مَوْلَاهَا وَبَادِيَّتِهَا وَخَالِقَتِهَا  
وَالْمُحْدِثِ لَهَا هُوَ شَهْوَةُ الْقَلْبِ  
إِذَا اتَّقَى الْعَبْدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
جَعَلَ لَهُ مِنَ الْجَهْلِ عِلْمًا وَمِنَ  
الْبُعْدِ قُرْبًا وَمِنَ الضَّمْتِ ذِكْرًا  
وَمِنَ الْوَحْشَةِ أُنْسًا وَمِنَ الظُّلَامِ

رب تعالیٰ اُس کو اپنی طرف قریب کر لیتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ  
میں مرتبہ تکوین دے دیتا ہے مختار و متصرف ہو جاتا ہے میرا  
کلام و وعظ تمہیں پس پشت ڈال دینے اور تم سے نظر پھیر لینے  
کے بعد ہے مجھے تمہاری پروا نہیں اور اُسی واسطے میں نے تمہاری  
دُنیا و آخرت دونوں سے تجاوز کر لیا ہے۔ میں نے تمہاری  
طرف نظر ڈالی پس جان لیا کہ تمہارے ہاتھوں میں نقصان ہے  
اور نہ نفع اور نہ دنیا ہے اور نہ منع کرنا اور اللہ عز و جل ہی تم میں  
تصرف کرنے والا حاکم و مختار ہے تم بغیر خدا کے ضرر پہنچائے  
ضرر نہیں پہنچا سکتے ہو پس یہ دیکھ کر میں نے اللہ کی طرف رجوع  
کر لیا۔ لیکن دنیا کو میں نے فنا ہونے والا جانے والا قاتل و  
مکار دھوکہ باز پایا پس اُس کی طرف سکون کرنے سے اور ٹھہرنے  
سے چوں کہ وہ جلد علی جانے والی ہے بے غمٹی کر لی اور ناپسند  
کیا۔ اور لیکن آخرت پس میں نے اُس کے پاس ایک ساعت  
کھڑے ہو کر اُس کے معاملہ کو جانچا۔ پس میرے نزدیک  
اُس کا عیب کہ وہ حادث ہے اور دوسرے موجودات میں  
مشترک ہے ظاہر ہوا اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ تحقیق اللہ نے  
اُس میں نفسوں کی شہوتیں اور وہ چیزیں جس سے انھیں لذت  
پائیں گی تیار کر دی ہیں اور وہ ارشاد الہی ہے اور جنت میں وہ  
چیزیں ہیں جس کی نفس خواہش کریں گے اور انھیں لذت پائیں  
میں نے کہا پس قلب کی خواہش کہاں ہے پس میں نے اس  
سے سفر اختیار کیا اور اُس کے آقا اور ظاہر و پیدائے کرنے والے  
اور اُس کو عدم سے وجود میں لانے والے کی طرف لوٹ آیا اور  
وہی قلب کی خواہش ہے۔ جب بندہ اللہ عز و جل سے ڈرتا  
ہے تو اللہ عز و جل اُس کے واسطے جہل کی جگہ علم اور بعد کی جگہ  
قرب اور سکوت کی جگہ ذکر اور وحشت کی جگہ اُنس اور تریاق کی

نُورًا اِنْ قَنَعْتُمْ مَعِيَ -

جگہ نور مقرر کر دیتا ہے۔

يَا نَفْسُ وَيَا هَوًى وَيَا طَبْعُ وَيَا  
 اِرَادَتُهُ بِالتَّوْحِيدِ وَ قَطْعِ الْخَلَائِقِ  
 وَالشُّكُوفِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
 تَرْكِ رُؤْيَا الْخَلْقِ لَا اخْذَ مِنْهُمْ  
 لِقَمَةٍ اِلَّا بَعْدَ رُؤْيَا الْخَالِقِ وَ  
 اِلَّا حَلَفْتُ اَنْ لَا اَكُلَ وَلَا اَشْرَبَ  
 فَاِذَا مَثُمُ طَهَّرْتُ بِسِرِّي إِلَى الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ حَيْطَانُ دِينِ نَبِيِّنَا صَلَّ  
 تَوَاقَعْتَ تَسْتَوِيغِيْتُ بِمَنْ يَبْنِيهِ  
 نَهْرُهُ قَدْ نَضِبَ مَأْوُكَ وَ التَّرْتِ لَا  
 يُعْبَدُ وَاِذَا عَبْدَ عَبْدَ رِيَاءٍ وَ نِفَاقًا  
 مَنْ يُعَاوَنُ فِي رَاقَمَةِ الْحَيْطَانِ وَ  
 وَتَنْجِيلِ النَّهْرِ وَ كَسْرِ أَهْلِ التَّفَاقِ  
 أَتَكَلَّمُ عَنْ عِلْمٍ لَا يُنْكِنُكَ اَنْ  
 تُفْصَحَ بِهِ وَلَا تُعَلَّمَ بِهِ مَلَكًا وَلَا  
 تُفْشَى بِهِ اِلَّا حِلَّ الطُّورِ قَلْبِكَ لَا  
 يَرَاكَ شَيْطَانٌ فَيُفْسِدُكَ وَلَا سُلْطَانٌ  
 فَيَقْهَرُكَ اَقْسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالطُّورِ  
 بِمَنَاجَاتِ حَبِيبِهِ وَ كَلِيمِهِ عَلَيْهِ  
 وَتَجَلِّيهِ لَهُ اِذَا عَرَفَ الْقَلْبَ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَ شَعْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ  
 وَالْمَلَكِ حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَعْوُفُهُ وَلَا  
 يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَرِيبَ وَ اَوْ فِي اَمَّا سَمِعْتَ بِصَاحِبِ  
 كَيْفَ اَبْتَلَعَتْ كَذَا وَ كَذَا اَحْمَالَ عَمَقَ وَ حِبَالَ

اے نفس اور اے خواہش اور طبیعت اور اے ارادہ  
 اگر تم مجھ سے توحید اور مخلوق سے قطع کر لینے اور اللہ کی طرف  
 سکون پکڑنے اور مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا لینے کے ساتھ  
 قناعت کرو گے تو میں اُن سے ایک لقمہ بھی بغیر دیدار الہی نہ  
 لوں گا ورنہ میں حلف کروں گا کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا پس  
 جب تم مر جاؤ گے میں اپنے باطن سے حق عزوجل کی طرف اُڑ  
 جاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں  
 بنیادیں گر رہی ہیں اپنے بنانے والوں سے فریاد کر رہی ہیں  
 اُس کی نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی عبادت  
 نہیں کی جاتی ہے اور اگر کی بھی جاتی ہے تو یہاں و نفاق کے ساتھ  
 کوئی ہے جو کہ ان دیواروں کے قائم کرنے اور نہر کے وسیع  
 کرنے میں اور اہل نفاق کے شکست دینے میں مدد کرے۔ میں  
 ایسے علم سے کلام کرتا ہوں کہ تجھے اُس کا ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے  
 اور نہ تو اُس کی فرشتہ کو تعلیم دے سکتا ہے۔ اور نہ تو کسی پر اُس کا  
 اظہار کر سکتا ہے۔ تیرا قلب طور (تجلی گاہ الہی ہے) اُس کو شیطان  
 نہیں دیکھ سکتا جو اُس کو خراب کر دے اور نہ بادشاہ دیکھ سکتا  
 ہے جو اُس پر غلبہ کرے اللہ عزوجل نے طور کی قسم اپنے دوست  
 اور کلیم کی مناجات اور اپنی تجلی کے باعث کھائی۔ جب کہ قلب  
 حق عزوجل کو پہچان لیتا ہے تو حق تعالیٰ اُس قلب کو اتنا وسیع  
 کر دیتا ہے کہ اُس میں جن و انس اور فرشتے سب سما جاتے ہیں  
 پھر جب کوئی چیز روکنے والی اُس کی باقی نہیں رہتی اور وہ اُسے  
 نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اُسے نزدیک و قریب کر لیتا ہے کیا  
 تو نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ نہیں سنا کہ اُس نے  
 اتنی اتنی مکڑیوں اور رسیوں کے بوجھوں کو کیسے نکل لیا۔

وَلَمْ يَغْيِرْ سَوَالُ قَالَ لَهُ كَامِلُ الْمَلَأَمْ  
قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَالِمُ  
زَاهِدًا كَانَ عُقُوبَتُهُ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ  
لَمْ كَانَ عُقُوبَتُهُ عَلَيْهِمْ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
لَا إِلَهَ يَتَكَلَّمُ بِغَيْرِ اخْلَاصٍ وَلَا عَمَلٍ  
فَلَا يَقَعُ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَا يَثْبُتُ  
فَيَسْمَعُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ الْقَلْبُ إِذَا صَحَّ  
وَكُنُوهُ بِالْعِلْمِ أَطْفَاءَ يَنْوَرُهُ نَارُ مَعَاصِي  
الْخَلْقِ كَمَا يَطْفِئُ النَّارَ نَوْرُ الْمُؤْمِنِ  
عِنْدَ جَوَارِهِ عَلَيْهَا قِيلَ الرَّادِيَةُ  
مُخَالَفَتُهُ النَّفْسِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْخَلْقِ  
وَالظُّفْرُ بِالرَّفِيقِ ثُمَّ الْقَعُودُ وَالْخَلْقُ  
قُطَاعُ طَرِيقِ الْآخِرَةِ وَالنَّفْسُ لَا تَقْصِلُ  
أَنْ تَكُونَ تَرْفِيقَهُ فِي الطَّرِيقِ وَكَذَا  
فَيُفْصِلُ وَالشَّيْطَانُ عَدُوٌّ لَا يَصْلُحُ  
لِلْجَنَّةِ وَالشَّهَوَاتُ أَقَاتُ تُغَيِّبُ عَيْنَ  
وِطْنَتِكَ فِي طَرِيقِكَ وَالْخَلْقُ قُطَاعُ  
الطَّرِيقِ أَشْرَكَ هَوَاكَ عَلَى بَابِ خَلْقِكَ  
ثُمَّ ادْخُلْ وَحَدِّثْ تَرَى مَوْجِئَكَ  
فِي خَلْقِكَ قَالَ الْخَوَارِثِيُّونَ لِعِيسَى  
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمْنَا الْعِلْمَ الْكَبِيرَ  
فَقَالَ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  
الرِّضَاءُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالْحُبُّ لِلَّهِ  
أَنْتَ زَنْدِيقُ يَخْلُقُ بِمَعَاصِيهِ ثُمَّ  
تُظهِرُ الْعِبَادَةَ وَالزَّهَادَةَ أَمَنْتَ الْعَاقِبَةَ

اور اس میں کچھ تغیر پیدا نہ ہوا (سوال) آپ سے کامل ملاح نے  
سوال کیا کہ حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے جب کہ عالم زاہد نہ ہو تو وہ  
اپنے زمانہ والوں کے لیے عقوبت و باعث عذاب ہو نا کیونکر  
ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس لیے  
کہ اس کا کلام دو عظیم بغیر اخلاص اور بغیر عمل کے ہوتا ہے پس وہ  
نہ دلوں میں اثر کرتا ہے اور نہ قرار پکڑتا ہے پس وہ لوگ اسے  
سننے ہیں اور عمل نہیں کرتے قلب جب کہ صحیح ہو جاتا ہے اور  
علم سے متور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نور سے مخلوق کے گناہوں کی  
آگ کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے کہ دوزخ کی آگ کو مسلمانوں کا نور  
اس پر گزرنے کے وقت بجھا دے گا۔ بعض کا قول ہے کہ نہ نشینی  
نفس کی اور شہوتوں اور مخالفت کرنے اور رفیق کے ساتھ فتح مندی  
حاصل کرنے پھر تنہائی میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ مخلوق آخرت  
کے راستہ کے بھٹ مار میں۔ اور نفس اس بات کی صلاحیت نہیں  
رکھتا کہ وہ رفیق آخرت بن سکے اور ایسے ہی خواہشات نفس پس  
ان کو رفیق بنانا اگر اہی میں پڑتا ہے۔ اور شیطان دشمن ہے۔  
جنت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور شہوات نفسانیہ ایسی آفتیں ہیں  
جو کہ تیری دانائی کی آنکھوں کو راستہ میں اندھا بنا دیں گی اور مخلوق  
قطاع الطریق بھٹ مارے اس لیے تو اپنی خواہش کو اپنی غلوت  
کے دروازہ پر پھوڑ دے پھر تو تنہا اندر داخل ہو جاؤ ہاں تنہائی  
میں تو اپنے منس کو پالے گا۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے  
کہا کہ ہم کو علم اکبر سب سے بڑے علم کی تعلیم دیجئے۔ آپ نے  
جواب دیا کہ اللہ عز و جل سے خوف اور اس کی قضا و تقدیر پر  
راضی ہونا اور اس کے واسطے محبت رکھنا علم اکبر ہے۔ تو تو زندقہ  
(بیدین) ہے غلوت میں گناہ کرتا ہے پھر عابد و زاہد ہونے کا  
اظہار کرتا ہے۔ عاقبت سے بے خوف بن گیا ہے۔

وَيْلَكَ أَلَا قَسَامٌ مَعَهُ اللَّهُ كَرَجُلٍ  
بِخُرَاسَانَ مَاتَ لَهُ نَسِيبٌ بِالْعِراقِ  
لَهُ أَمْوَالٌ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاكَ  
أَكَيْسَ يَتَّصِلُ مَالُهُ إِلَى الَّذِي فِيهِ  
مُلْكُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
عَوَامٌ يَصْلَحُ لَكُمْ الْكَلَامُ فِي الْأَكْلِ  
وَالشُّرْبِ وَالتَّبَسُّبِ يَعْلِبُ عَلَيْكُمُ  
الْأَمْرُ فَتَنْتَكُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْقَلْبُ  
يَسْتَبْقَى مَا دَبَّهَ النَّفْسُ لِيَرْجِعَ إِلَى  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَطْرُقُهَا إِذَا وَفَّعَ  
يَقْلِبُكَ حُبُّ مَاجِلٍ وَبُغْضُ آخِرَاتِي  
شَيْءٌ تَعْمَلُ تَحِبُّ بِطَبْعِكَ وَتَبْغُضُ  
بِطَبْعِكَ لَا كَرَامَةٍ لَكَ حَتَّى  
الْجَمِيعَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  
إِنْ وَافَقَهُمَا وَإِلَّا ارْجِعْ عَنْهُ  
فَإِنْ أَفْتَاكَ بِالصِّحَّةِ ارْجِعْ إِلَى  
قَلْبِكَ إِذَا عَمِلَ الْقَلْبُ بِالْكِتَابِ  
وَالسُّنَّةِ قَرُبَ وَإِذَا هَرَبَ عَلَيْهِ  
وَإِذَا عَلِمَ أَبْصَرَ مَالَهُ وَ عَلَيْهِ مَا  
يَلْحَقُ وَمَا يَلْبِطُ وَمَا لِلشَّيْطَانِ وَمَا  
لِلرَّحْمَنِ يَزِي قُرْبَهُ مِنْ رَّيْبِهِ وَقُرْبُ  
الرَّيْبِ مَعَهُ وَ أَبَدًا يَكُونُ فِي فَرْحَةٍ  
مَعَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَكُونُ بَيَّاعُ  
الْمُلْكِ يَشْتَرِي فَيُفَرِّقُهُ عَلَى الْخَلْقِ  
إِذَا دَخَلَتْ هَهْنَا فَاخْلَمْ عَلَيْكَ

تجھ پر انوس ہے کہ تو مارا مارا پھرتا ہے مقسوم تو اللہ کے پاس  
ہیں مثل ایک مرد کے جو کہ خراسان میں رہتا ہے اُس کا ایک ایسا مالدار  
رشتہ والا عراق میں مر گیا جس کا سوا اس خراسانی کے کوئی وارث ہی  
نہیں ہے۔ تو کیا اس متوفی کا مال اس خراسانی کو ذل جائے گا  
حالانکہ خراسانی کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ ضرور پہنچ جائے گا ایسا  
ہی تیرا مقدر تجھے پہنچ کر رہے گا تم تو عوام میں داخل ہو تم سے محض  
کھانے پینے پہنچنے کے متعلق کلام کرنا درست ہے (نہ کہ معرفت  
کے اسرار) ہم پر امر الہی غالب ہے اس وجہ سے ہم اللہ کے  
مخالف تم سے کلام کرتے ہیں۔ قلب نفس کا کھانقہ کے  
راستہ سے نکال دیتا ہے تاکہ وہ اس کے راستہ سے الٹ کر جبل  
کی طرف رجوع کرے۔ جب تیرے دل میں ایک شخص کی محبت  
اور دوسرے کی عداوت جاگزیں ہو جاتی ہے تو تو کیا عمل کرنا ہے  
اپنی طبیعت سے محبت پیدا کرتا ہے اور اسی طبیعت سے عداوت  
رکھتا ہے۔ تمہیں کوئی بزرگی نہیں۔ تو تمام چیزوں کو قرآن و حدیث  
پر پرکھ لیا کر اگر وہ چیزیں ان کے موافق ہو کر ہیں بہتر ہے ورنہ تو ان  
سے رجوع کر لیا کر پس اگر قرآن و حدیث تجھے اُس کی صحت کا فتویٰ  
دے دیا کریں تو تو اپنے قلب کی طرف رجوع کیا کر جب قلب  
کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے لگے گا تو وہ خدا سے نزدیک  
ہو جائے گا۔ اور جب اُسے قرب الہی حاصل ہو جائے گا تو وہ  
عالم بن جائے گا اور جب وہ عالم ہو جائے گا تو اپنے نفع و نقصان  
حق و باطل اور امر شیطانی اور حکم رحمانی کو جاننے پہچاننے لگے گا  
ایک میں فرق کر سکے گا اُس کو اپنا قرب خدا سے اور خدا کا قرب اپنے  
سے معلوم ہونے لگے گا وہ ہمیشہ رحمن عز و جل کی معیت میں خوشی خوشی  
رہے گا بادشاہ کا دلال بن کر چیزیں خرید کرے گا اور مخلوق کو  
بانٹ کرے گا جب تو یہاں داخل ہوا کرے پس تو اپنے علم اور

وَ اَدْخُلْ عَرِيَانًا وَ كَذَلِكَ اِخْلَعْ  
 عَنْ هَذَلِكَ وَ دَسَّعَكَ وَ اَحْوَالَكَ  
 فَإِنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَنْ لَيْسَ  
 رَبِّمَا يَحْجُبُكَ عَنِّي مَا هَهُنَا  
 اِخْلَعْ عَنْكَ ذَلِكَ اُدْخُلْ خُذْ  
 مَا هَهُنَا وَ ذَلِكَ لَا يَفُوتُكَ  
 وَ خَدْتُ عَلَى بَعْضِ الشَّيْءِ  
 وَ كَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْخَوَاطِرِ فَقَالَ  
 تَحِبُّ هَذَا الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ قُلْتُ  
 نَعَمْ قَالَ أَنَا أَصَوْمُ الدَّهْرِ  
 وَ أَفْطِرُ كُلَّ يَوْمٍ وَقْتُ سَحَرٍ  
 وَ طَعَامُ هَذِهِ الْبَكَّةِ لَيْسَ  
 بِطَيِّبٍ فَأَتَوَّرَعُ عَنْهُ كَانَ  
 سَرِي السَّقِطِي يَشِيرُ عَلَى  
 الْجَنِيِّ بِالْكَلَامِ عَلَى النَّاسِ  
 فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِذَلِكَ فَلَمَّا لَقِيَهُ  
 قَالَ لَهُ مَا قَبِلْتَ مِنَّا حَتَّى أَمَرْتَ وَبِكَ  
 أَنْتَ تَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ وَبَعْدُ عَمَلُكَ سَخَاءٌ  
 كَأَنَّكَ تَوْشِدُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ  
 أَخَافُ مِنْهُ وَلَا أَرْجُوهُ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي  
 الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ سِوَى الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَّ قَدْرُ  
 لِبَعْضِ الصَّالِحِينَ هَلْ تَرَى رَبَّكَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ  
 أَرَاهُ لَتَطَعْتُ مَكَانِي قَالَ كَيْفَ تَرَاهُ قَالَ يَعْصِي عَيْنِي  
 وَجُودُهُ فَيَرَى رَبَّهُ كَمَا أَرَاهُمْ نَفْسَهُ

زہد و تقویٰ اور تمام حالتوں کو چھوڑ کر بہتہ ہو کر اس مجلس میں آیا کہ  
 پس جب کہ تو میرے پاس ان چیزوں کے لیے آئے گا تو بسا اوقات  
 یہ چیزیں تجھے مجھ سے اوجھل رکھیں گی۔ ان تمام چیزوں کو علیحدہ  
 رکھ کر تو میرے پاس چلا آ اور جو کچھ یہاں موجود ہے اس سے تو  
 حصہ لے اور وہ تیری پہلی والی چیزیں تجھ سے فوت نہ ہوں گی۔ میں  
 بعض مشائخ کے پاس گیا جو کہ دلوں کے خطروں پر بات چیت کیا  
 کرتے تھے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تو اس کو دوست رکھتا ہے جس حالت  
 پر کہ میں ہوں۔ میں نے جواب دیا ہاں اس کو دوست رکھتا ہوں فرمایا  
 میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر دن سحر کے وقت افطار کیا کرتا  
 ہوں اور اس شہر کا کھانا پاک نہیں ہے پس اس سے پرہیز کرتا ہوں۔  
 حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے لوگوں  
 سے وعظ کہنے کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے وہ بوجہ انکھار وعظ  
 نہیں فرماتے تھے پس حضرت جنید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کو وعظ کہنے کا حکم دے رہے ہیں پس جب  
 سری سقطی علیہ الرحمہ آپ سے ملے آپ نے جنید سے فرمایا تا وقتیکہ  
 تم کو حکم نہیں دیا گیا تم نے ہمارے کہنے کو قبول نہ کیا۔

اے واعظ! تیرے اوپر افسوس تو لوگوں سے وعظ کہتا ہے  
 اور ابھی تک تیرا عمل خراب ہے گویا تو ایک تکیہ بن گیا ہے اے نبی  
 پر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں ڈرتا ہوں اور امید داری کرتا ہوں  
 میں آسمان و زمین اور آخرت میں کسی سے خائف امیدوار نہ ہوں  
 حق عز و جل کے نہیں ہوں آسمان و زمین اور آخرت میں تم رب تعالیٰ  
 کو دیکھا کرتے ہو پس جواب دیا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتا البتہ ای  
 جگہ پر پارہ پارہ کر دیا جاتا سا مل نے کہا آپ اس کو کیسے دیکھتے  
 ہیں جواب دیا کہ اس کا وجود میری آنکھ کو بند کر دیتا ہے بعد ازاں  
 اس کا رب اس کو اپنا دیدار دے ایسی جیسے کہ مسلمانوں کو جس خشیت

سے چاہے گا جنت میں اپنے کو کھائے گا کھا دیتا ہے اس کے قلب پر اپنی تجلی ڈال کر اپنی صفیتیں اپنے احسان و لطف کرم و کنار رحمت کو ملاحظہ کر دیتا ہے۔ ابوالقاسم ضیاء الدی ضی اللہ عز فرمایا کرتے مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے پاک و صاف ہو گیا اُس کا قلب اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان میں قاصدین گیا۔ اور کوئی صوفی صوفی ہوتا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خواب میں ادب سکھاتا اور وہی فرماتا ہوا نہ دیکھے اُس کا قلب ترقی کرتا چلا جائے اُس کا باطن صاف ہوتا جائے۔ بادشاہ کے دروازے پر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دئے کھڑا ہو۔

آدم علیہ السلام نے اول اول جو کلام کیا زبان سریانی میں تھا قیامت کے دن آدمیوں سے زبان سریانی میں حساب لیا جائے گا پس جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے عربی میں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان ہے کلام کیا کریں گے بعض اہل اللہ کا قول ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اُس کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ پس جب وہ بندہ اُس کی نافرمانی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اُس کو اُس بندہ سے چھین نہیں لیتا ہے تاکہ اُس پر قیامت کے دن اُس کو حجت بنائے۔ مومن کے قلب میں خطرہ ملکی آتا ہے (یعنی اللہ غیبی) پس اُس کے نزدیک اگر کٹھن جاتا ہے مرد مومن اس سے کہتا ہے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نبوت سے تیرا حصہ ہوں۔ میں حق کی طرف سے ہوں میں حق ہوں میں صیب و نگہبان کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ یہ خطرہ اُس مومن کے باطن اور کان اور آنکھ سب کو پُر کر دیتا ہے بعدہ تو اس کو دیکھے گا کہ وہ ممانی

فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَنْشَأُ يَرَى قَبْلَهُ يُرَى صِفَاتُهُ يُرَى إِحْسَانَهُ يُرَى لُطْفَهُ يُرَى بَرَّكَهُ يُرَى كُنْفَهُ كَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدِيدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَشْرَى عَلَيَّ مِثْقَالَ صَوْفٍ مِنْ صَفَا عَنْ وَجُودِهِ يَكُونُ قَبْلَهُ سَقِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَلَا يَكُونُ صَوْفًا حَتَّى يَأْتِيَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ يُؤَدِّبُهُ بِأَمْرِهِ وَيَنْهَاهُ عَنْ شَيْءٍ قَلْبُهُ وَيَصْفُو سِرَّهُ عَلَى بَابِ الْمَلِكِ وَيَدْعُو فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالشَّرِّيَانِيَةِ وَيَحَاسِبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّرِّيَانِيَةِ فَإِذَا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ تَكَلَّمُوا بِالْعَرَبِيَّةِ بِلُغَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ اللَّهَ تَعَالَى آعْطَاهُ الْمَعْرِفَةَ فَإِذَا عَصَاهُ لَمْ يَسْلُبْهَا مِنْهُ لِيَحْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي خَاطِرَ الْمَلِكِ فَيُخْطَرُ فِي قَلْبِ الْمُرْمِي فَيَقِفُ عِنْدَهُ يَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا حَظْلُكَ مِنَ الشُّبُوهَةِ أَنَا مِنَ الْحَقِّ أَنَا الْحَقُّ أَنَا مِنَ الْحَقِيبِ أَنَا مِنَ الرَّقِيبِ يَمْلَأُ ذَلِكَ الْخَاطِرُ بَاطِنَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَرَاهُ يُحِبُّ الْخَلْوَةَ

يُصَاحِرُ مِنْ وَطَنِهِ ثُمَّ يَأْتِيهِ أَمْرٌ آخِرٌ  
فَيَنْزِعُ عَنْهُ أَيْضًا حَتَّى يَأْتِيَ الشُّكُونَ فَيَاذَا  
جَاءَ الشُّكُونَ كَانَ الْحَدِيثُ دَائِمًا تَرَاهُ  
كَأَنَّهُ يُصْنَعُ بِأَدْنَى إِلَى أَحَدٍ بِجَانِبِهِ مُحَدِّثًا  
يُحَدِّثُهُ قَامَ رَجُلٌ يَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا  
فَاقْعَدَكَ وَقَالَ أَنَا أَمْرُكَ يَا الرَّهْدُ فِي  
الدُّنْيَا ثُمَّ فِي الْآخِرَى ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ  
تَعَالَى ثُمَّ تَزْهَدُ حَتَّى يُعْطِيَكَ الْحَقُّ عَزًّا  
وَجَلًّا إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عَيْسَى  
أَحْذَرُ أَنْ أَفُوتَكَ وَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ  
السَّلَامُ لِيُتَبَّعَ عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبِّ أَوْ صِيحُو  
قَالَ أَوْ صِيحُكَ بِي ثُمَّ قَالَ أَوْ صِيحِي قَالَ  
أَوْ صِيحُكَ بِي هَكَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ  
مَرَّةٍ يَقُولُ أَوْ صِيحُكَ بِي حَتَّى يَنْتَفِيسَ  
عَنْكَ بَيْضُهُ وَجُرْدُكَ وَيَبْضُكَ جَنَاحُ  
الشَّعْرِ وَيَفْعَلُ فِيكَ الصِّيَاحَ حِينَئِذٍ  
تَلْقُطُ حَبَابَاتِ الْفَضْلِ وَتُوَثِّرُ بِهِ  
يُزِيدُ بِهَذَا تَوَكُّكَ الْكَلَامَ عَلَى النَّاسِ  
وَدَعَا تَهَمُّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى  
يَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّهِ جَاذِبٌ وَفِيهِ  
أَهْلِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى النَّاسِ وَالِدُعَاءِ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا أَحْكُمُوا هَذَا  
الْحُكْمَ الظَّاهِرَ بِأَعْمَلٍ بِهِ ثُمَّ  
انْظُرُوا مَاذَا تَرَوْنَ مِنْ  
طَيِّبٍ قُرْبِهِ وَمَتَا جَابِهِ

کو پسند کرے گا اپنے وطن سے ہجرت کرے گا اس کے بعد اس  
مومن کے پاس دوسرا امر آتا ہے جو اس کو حرکت دیتا ہے یہاں  
تک کہ اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے پس جب کہ اس کو سکون  
حاصل ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہم کلامی میں رہتا ہے تو ہمیشہ اس کو ایسی  
حالت میں پائے گا گویا کہ اپنے کان جھکائے اس کی طرف  
متوجہ ہے۔ کوئی بات چیت کرنے والا اس کے پہلو میں ہے  
جس سے یہ ہم کلام ہے ایک شخص آپ کے دربار کو کچھ دینا لگتے  
کے لیے کھڑا ہو پس آپ نے اس کو بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا میں  
تجھے دینا بعد از آخرت سے بے رغبت ہونے کا حکم دیتا ہوں۔  
اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ بعد از ہذا اختیار کرنا یہاں  
تک کہ حق عزوجل تجھے دے پس تو نہ لے۔ اللہ عزوجل نے عیسیٰ  
علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے عیسیٰ تو اس بات سے ڈر کہ  
میں تجھے فوت کر دوں (بھلا دوں) موسیٰ علیہ السلام نے رب عزوجل  
سے عرض کی مجھے وصیت نصیحت فرما۔ ارشاد ہوا میں تجھے اپنی  
محبت کا حکم دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکرر عرض کیا۔ میری  
حکم باری ہوا۔ اسی طور سے چار مرتبہ سوال و جواب ہوا ہر مرتبہ  
یہی ارشاد باری ہوا کہ میں تجھے اپنی محبت کا حکم دیتا ہوں یہاں تک  
کہ تیری ہمتی کا بیضہ تجھ سے جدا ہو جائے اور تجھے شرع مقدس کا  
بازو اپنی طرف ملا دیوے اور تجھے آواز کرنا سکھا دیوے اس وقت  
تو فضل کے دانے چکنے لگے گا اور اس سے اثر حاصل کرے گا۔  
آپ کا مطلب اس سے یہ تھا کہ تو مخلوق کو موظف کرنا اور ان کو اللہ عزوجل  
کی طرف بلانا اس وقت تک ترک کر دے کہ تیرے پاس منجانب  
اللہ کشش اور موظف گوئی اور لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلانا کی  
قابلیت پیدا نہ ہو جائے۔ ہم اس حکم ظاہری کو اس پر عمل کر کے  
مضبوط کر لو۔ پھر دیکھو کہ قرب و مناجات الہی سے کیا لذت تم کو

الْعَوَامُّ عُنَى النَّاسِ الطَّعَامِ أَتَكَلَّمُ وَأَنْتَ  
عِنْدِي عَدَمٌ وَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ  
عِنْدِي عَدَمٌ وَلَيْسَ يَنْفَعُنِي وَ لَا  
يَضُرُّنِي إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السُّؤَالُ مَا  
مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُشَافِعِ خُذِ الْعُرْيَدَ  
قَبْلَ أَنْ يَفْطَنَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَيُّ خُذْهُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي  
الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْطَنَ لِقُرْبِهِ  
وَلُطْفِهِ فَإِذَا قَرَّبَهُ وَاللَّذَّةَ فَتَرَعَزَ  
عَمَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْطَنَ بِشْرِيكَ وَمَرَادُكَ  
يَبْطُلُ ذَلِكَ الظَّرِيقُ وَيَدُّكَ كُلُّ  
مِنْهُمْ قَدْ اسْتَعْلَ هَذَا عَبْدٌ جَاهِلٌ وَ  
دُرْهِيمٌ وَ هَذَا عَبْدٌ سُلْطَانٌ وَ هَذَا عَبْدٌ  
دُنْيَاً وَ هَذَا عَبْدٌ نَفْسِهِ وَ شَوَابَهُ كُلُّ مَدَمٍ  
قَدْ اسْتَعْلَ هَذَا ابِصِيَامِهِ وَ هَذَا بِصَلَاتِهِ  
وَ هَذَا ابْنِ أَوِيَّتِهِ وَ هَذَا يَخْوِفُهُ مِنَ النَّارِ  
وَ هَذَا ابْحَبِّهِ لِلْجَنَّةِ قَامَ شَخْصٌ قَلْبُهُ لِلَّهِ  
وَمَعَ اللَّهِ مُتَعَلِّقٌ يَا لِلَّهِ تَرَاهِذَا فِي الْخَلْقِ  
قَامَ لِعَصْرَةٍ دِينِهِ فَتَشَوَّ الْأَرْضَ فَإِنْ  
وَجَدَ صَدُّ هَذَا فَتَعَلَّقُوا بِهِ بِشَرِّ الْمُؤْمِنِ  
فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ ثُمَّ يَنْعَكِسُ  
ذَلِكَ يَصِيرُ حُزْنُهُ مِنْ وَجْهِهِ وَ بِشْرُهُ  
فِي قَلْبِهِ الْحُزْنُ فِي وَجْهِهِ لِتَأْوِيلِ الْخَلْقِ  
وَ الْبَشَرِ فِي الْقَلْبِ فِي وَجْهِهِ الْقَضَاءُ وَ  
الْقَدَرُ يَصْصَحُكَ إِلَيْهِمَا يَسْتَبْشِرُ بِهِمَا

حاصل ہوتی ہے عوام تو کھانے کے عاشق ہیں۔ میں کو کام ایسی حالت  
میں کرتا ہوں کہ تو میرے نزدیک اور آسمان و زمین سب معدوم ہوتے  
ہیں۔ اور یہ جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان پہنچانے  
والا نہیں ہے سوال بعض مشائخ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ  
مرید کو اس سے پہلے پکڑو کہ وہ دانا ہو جائے۔ آپ نے اس کا  
جواب دیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو مرید کو عبادت اور نماز روزہ کے  
مجاہدہ میں اس سے پہلے توجہ کر دے کہ وہ قرب و لطفت الہی سے  
واقف ہو۔ پس جب کہ رب تنہا اس کا اپنا قرب و عطا فرمائے گا  
اور اس پر لطفت فرمائے گے گا تو وہ اپنے عمل سے مست پڑ جائے گا  
اس سے پہلے کہ وہ تیری شرب و مراد کا مزہ چکھے اس راستہ کو تلاش  
کرنے لگے گا اور تجھے چھوڑ دے گا۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی  
کام میں مشغول ہو گیا ہے یہ جاہ و مرتبہ کا بندہ ہے اور وہ درہم کا بندہ  
یہ بادشاہ کا بندہ ہے اور یہ اپنی دنیا کا اور یہ اپنے نفس و ثواب  
کا بندہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کوئی اپنے روزہ میں اور کوئی  
اپنی نماز میں اور کوئی اپنی گوشہ نشینی میں اور کوئی اپنے دوزخ کے  
خون میں اور کوئی جنت کی محبت میں مشغول ہے تم کوئی شخص  
رؤئے زمین پر ایسا تلاش کرو جس کا قلب اللہ کے واسطے اور  
اُس کی معیت میں اُس کے ساتھ متعلق ہو اور وہ خلق سے بے پروا  
ہو کر دین الہی کی نصرت و مدد میں لگا ہوا ہو پس اگر تم ایسے شخص کو پاؤ  
تو تم اُس کا دامن پکڑ لو۔ مومن کی خوشی اُس کے چہرہ پر ہوتی ہے  
اور اُس کا غم قلب میں مخفی ہوتا ہے پھر ترقی کے بعد یہ معاملہ برعکس  
ہو جاتا ہے غم چہرہ سے ظاہر ہونے لگتا ہے اور مسرت اُس  
کے قلب میں ہوتی ہے۔ چہرہ پر غم مخلوق کے ادب کھانے کے  
واسطے ہوتا ہے اور مسرت قلبی تضاد و قدر کی وجہ سے ہوا کرتی ہے  
وہ تضاد قدر کی طرف دیکھ کر ہنستا رہتا ہے اور ان دونوں سے

اللَّهِ يَسْجُنُ الْمُؤْمِنَ سِجْنَهُ مَا دَامَ  
مُؤْمِنًا فَإِذَا دَامَ تَسْوَاةُ أَخْرَجَ مِنْهَا  
أَكْبَرَ مَنْ سِجْنِهِ مِنْ ضَيْقَتِهِ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَنْقُصُ عَنْهُ  
بِصِيصَةِ وُجُودِهِ يَلْقَظُ حَبَّ الْحَكْمِ  
يَحْضُمُهُ جَنَاحُ الْقُرْبِ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ  
هُوَ صَاحِبُ الْأَطْبَاقِ وَهُوَ صَاحِبُ  
السَّمَاطِ

خوش ہوتا ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے جب تک وہ  
مومن رہتا ہے دنیا اس کے لیے قید خانہ بنی رہتی ہے۔ پس  
جب تقویٰ اس میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے  
نکل کر اپنے قید خانہ اور تنگی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی  
ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک راستہ  
نکال دیتا ہے اور جہاں سے خیال بھی نہیں، بتا وہ اس کے لیے  
رزق پہنچاتا ہے وہ اپنے بیضہ وجود سے نکل جاتا ہے شریعت  
کا دارنہ چلنے لگتا ہے قرب الہی کا بازو اس کو اپنے پہلو میں لے  
لیتا ہے اس کو اپنی طرف ملا لیتا ہے۔ ایسا شخص طباقوں اور منہ خزان  
کا مالک بن جاتا ہے

يَا أَحْمَقُ مَعَكَ بَرَقٌ لَا ثَبَاتَ  
لَهُ مَعَكَ عَمَ صُنْ كَمَا يَأْتِي يَنْزُ هَبْ  
تَحْتَابُ تَفِيئِي أَلْفَ مَرَّةٍ وَتَسْوَتْ أَلْفَ  
مَرَّةٍ ثُمَّ أَخِيرًا تَشَبَّهْتُ كَالشَّجَرَةِ كَمَا  
جَاءَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَتَشْمُهُ وَلَا تُحَوِّلُ  
تَنِيئِي وَتَسْمُهُ تَطْلُبُ بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ وَتَدَا  
الْأَرْضِ فِي السَّبْعَةِ لَا تَهْدِي كَأَنْتَ دَرَجَاتُ  
تَقَرُّ صَدِّكَ تَمْلِكُ تَقْوَمُ قِيَامَتُكَ تَقْوَتُكَ  
مِنْ عَشَائِكَ لُقْمَةً تَقْوَمُ قِيَامَتُكَ دَمِ  
الْحَالَةِ يَدْخُلُ فِيكَ وَيَتَرَوُّ بِقَدِّكَ  
وَيَكُونُ لَكَ فَرَاخٌ يَطِيرُ وَيَقْبُ عَلَى مِرْقَاةِ  
سِرِّكَ يَأْتِي شَرْقًا وَعَرَبًا بَرًّا وَبَحْرًا  
أَنْتَ نَابِئُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ  
نِيَامٌ فَإِذَا مَا تَوَّأَ انْتَبَهُوا

اے احمق تیرے ساتھ بجلی ہے جس کو کوثر قرار نہیں ہے تیرے  
ساتھ اباب ہے جیسے اے کا چلا جائے گا۔ تو محتاج ہے کہ  
تو ہزار بار فنا ہو اور ہزار بار مرے۔ پھر آخر میں تو درخت کی مانند  
قرار پکڑے گارات دن آتے اور وہ چھل دیتا رہتا ہے اور  
اپنی حالت سے نہیں پلٹتا رہتا رہتا ہے نشوونما پا کر سایہ ڈالتا  
رہتا ہے اس کے بعد کہ تو ساتوں زمین کی میخ بن جائے یہ حالت  
پیدا ہوگی تو ہدیہ ان نہ بک دلوے نہ کر تجھے ایک چوٹی کا ٹپتی  
ہے تو نچھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تیری غذا میں سے ایک  
لقمہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو  
اپنی حالت کو چھوڑ دے اپنے میں داخل ہوئے دے وہ تیرے  
قلب میں مل جاوے جو پیدا کرے اور تیرے بچہ پیدا ہو جو کہ  
ہو امیں اڑے اور تیرے باطن کی بلند ہی پر جا کر ٹھہرے شرق و  
غرب جنگل و دریا میں آمد رست کرے۔ تو تو سویا پڑا، ہوا ہے  
حضور نبی صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آدمی  
سوئے ہوئے میں پس جب مر جائیں گے ہوشیار ہوں گے۔

يُسِّرَ الرَّجُلُ يَتَنَبَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَنْبَغِي  
لِلْفَوَيرِ أَنْ تَشْرَبَ بِالْفَنَاءِ وَ يَزِدَّ حَى  
بِالْعَفَةِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
وَيَسْجَى بِقَدَمِ الصَّدِّيقِ طَالِبًا لِبَابِ  
الْفَرَبِ مُهْرٍ وَلَا عَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
مُهْرٍ وَلَا عَيْنَ الْحَقِّ وَالْمَوْجُودِ يَسْتَقْبِلُهُ  
عِنَابُهُ الْحَقِّ وَهَافَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَشَوْفُهُ  
إِلَيْهِ وَجَذْبَاتُهُ وَكَظَرَاتُهُ وَمُبَاهَاتُهُ  
وَمَوَاكِبِ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَلَأَتْهُ  
تَضَحُّبُهُ الْمَدَامِكَةُ وَأَرْوَاحُ الشَّيْطَانِ وَ  
الْمُسْلِمِينَ تَرْفَعُهُ إِلَى الْحَقِّ زُفَافًا.

يَا مَوْئِي الْقُلُوبِ طَلَبُكُمْ لِبُعْتَةِ قَبْدِكُمْ  
عَنِ الْحَقِّ ائْزَعُوا ائْزَعُوا ائْزَعُوا ائْزَعُوا عَلَيْكُمْ  
تَقْصِيرُ الْأَمَلِ حَتَّى يَقْرَبَ قَلْبُكَ وَيَصْغُرَ  
عَنِ الْخَلْقِ سِرُّكَ وَيَكْتُمُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَتَقْرَأُ سَائِقِيَّتَكَ تَنْقِفُ عَلَى سَطْرِ  
سَطْرِ وَكَلِمَةٍ وَكَلِمَةٍ وَحَرْفٍ حَرْفٍ عَلَى  
عَلَى أَوْفَاتِكَ وَأَمْرٍ مَا يَكُ وَسَاعَاتِكَ وَ  
لَحْظَاتِكَ وَيَتَبَيَّنُ لَكَ مَا تَوَلَّى إِلَيْهِ كُلَّمَا  
جَذَبَكَ الْخَوْفُ إِلَيْهِ جَذَبَهُ الْقُرْبُ عِنْدَكَ  
حِينَئِذٍ تَحْيِيَّتُكَ الشُّبَابُ وَالْأَبَالُ طَالَ عُمْرُكَ  
أَمْ وَصَرَ قَامَتْ الْفَيَا مَهْ أَوَّلَهُ تَقَرُّ أَحَبَّ  
الْخَلْقِ أَمْ أَبْغَضُوكَ أَعْطَوْكَ أَمْ حَرَمُوكَ  
لَمْ تَقَامْ صَابِرًا خَا وَعَطَى وَجْهَهُ شَمَّ  
كَشَفَهُ ثُمَّ قَالَ.

(جب کہ ہوشیاری فائدہ نہ دے گی) وہ بہت بُرا مرد ہے جو کہ  
بعد موت کے ہوشیار ہو کر فیکر کے لیے ضرورت ہے کہ وہ قناعت کی  
اذا رہنے اور رغبت کی چادر اوڑھے۔ یہاں تک کہ وہ حق عزوجل کی  
طرف پہنچ جائے اور سچائی کے قدم سے اس کی طرف قرب الہی  
کے دروازہ کو طلب کرتا ہو اور دنیا و آخرت تمام خلق و موجودات سے  
بھاگتا ہو اور دُور کرے اُسی کی خواہش میں سرگرداں رہے عنایت و  
رافت الہی اور اُسی کی رحمت و شوق۔ اور اس کے جذبے اور نظریں  
اور اس کا مائع پر فخر مانا اور انبیاء کرام اور فرشتوں کی روحوں کے  
شکراؤں کا استقبال کریں فرشتے اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی روحوں  
اس کے مصاحب ہو کر اس کے ہمراہ اگر اس کو مثل دو لہجوں کے  
دربار الہی میں پہنچادیں۔

اے مردہ دل! تم کہ تمہاری جنت کی طلب نے حق عزوجل  
سے روک رکھا ہے تم اس سے علیحدگی اختیار کرو علیحدہ ہو جاؤ  
لوٹو۔ لوٹو۔ تو اپنی آرزو کو کم کر دے تاکہ تیرا دل نزدیک اور تیرا باطن  
مخلوق سے صاف و پاک ہو کر حق عزوجل کے قریب ہو جائے اور تو  
اپنے سابقہ تقدیر کو پڑھ کر اس کی ایک ایک سطر ایک ایک کلمہ ایک  
ایک حرف پر اپنے تمام دُتنوں اور زمانوں اور گھڑبوں اور لُحظوں پر  
خبردار ہو جائے اور تو جس کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ تیرے  
لیے ظاہر ہو جائے جب تجھ کو خون خدا کی طرف کھینچے گا۔ قرب الہی  
تجھ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اس وقت تجھے ثابت قدمی نصیب  
ہوگی اور تو عمر کے زیادہ اور کم ہوئے قیامت کے قائم ہونے  
یا نہ ہونے مخلوق کے دوست و دشمن رکھنے دینے محروم کرنے کی  
کچھ بھی ہو پرواہ نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ صبح مارتے ہوئے  
کھڑے ہو گئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا پھر کھول دیا اور  
پھر فرمایا۔

يَا نَادُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اللَّهِ لَا بُدَّ  
أَخْبَارَنَا ثُمَّ قَعَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ النَّوْمِيِّ قَالَ  
لِلْفَضِيلِ بْنِ عِيَّاضٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ  
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تَعَالَى حَتَّى نَبْكِ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ  
تَعَالَى فَيُنَاقِضَا نُوَاحِيَيْنِ حَذِيرَيْنِ يُؤْتُونَ مَا أَوْكَا  
وَقُتِرَ بِهِمْ وَجِلَةٌ خَافُوا أَنْ لَا يَقْبَلَ أَعْمَالُهُمْ  
خَافُوا سُوءَ الْحَاكِمَةِ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّهَا هُوَ لِبَاسٌ دُونَ لِبَاسٍ  
وَصَلَامٌ دُونَ طَعَامٍ أَيَّامٌ فَلَا تِلْ.

يَا غَلَامُ أَغْلِقْ بَابَ مَنَّةِ الْخَلْقِ وَقَدْ  
فُتِحَ لَكَ بَابُ مَنَّةِ الْحَقِّ ثُمَّ قَامَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ وَجَعَلَ يَسِيلُ تَارَةً يَمِينًا وَتَارَةً شِمَالًا  
وَإِضْمَاعًا يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ قَابِلًا عَلَى  
يَدَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَقَالَ -

يَا أَعْمَى ادْخُلْ هَذَا الْبَابَ الْمَفْتُوحَ  
إِنَّهَا هُوَ بَابُكَ مُغْلَقٌ وَمَفْتُوحٌ ادْخُلْ هَذَا  
الْمَفْتُوحَ -

يَا أَصْحَبَ السَّبَبِ إِنْ صَحِبَ السَّبَبَ  
بِالسُّنَّةِ أَحْيَاءٌ لِشَرِّعِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْمُسْتَسَبِّ بِإِيتَاءِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِهِ  
الْكُسْبِ سُرَّةً وَالتَّوَكُّلِ حَالَتَهُ  
ثُمَّ إِنَّ قَدَرْتِ تَقْفِي عَنْكَ فَبِأَعْلَى  
لَا مَعَ السَّبَبِ وَلَا مَعَ الْحَالِ مَقْضًى  
لِحَقِّ يَسْنِيكَ يَرْفَعُكَ وَيَقْرِ بِكَ وَيُعْطِيكَ مَا

اے آگ تو مجھ پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو جا۔ اے اللہ  
تو ہماری خیر دل کو ظاہر نہ کر پھر آپ بیٹھ گئے پھر فرمایا یسینا ثوری  
علیہ الرحمہ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا اوستا کہ  
ہم علم الہی پر جو کہ ہمارے متعلق ہے آہ دیکھا کریں۔ یہ لوگ اللہ سے  
ڈرنے والے خائف تھے جو کچھ بھی ہو تا ان کے دل خوفزدہ  
رہتے اس بات سے ڈرتے رہتے کہ ان کے عمل قبول نہ کیے جائیں  
گئے اور سوز خاتمہ کا غم رکھتے احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے  
کہ وہ لباس اس لباس کے سوا ہے اور وہ کھانا اس کھانے کے سوا  
اور دن بہت مختصر ہے یہی دار کام بہت

اے غلام تو غلق کے احسان کے دروازہ کو بند کر دے  
تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے احسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔  
پھر آپ کھڑے ہو گئے اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ سینہ پر  
دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دائیں بائیں جھومتے رہے بعدہ بیٹھ گئے  
اور ارشاد فرمایا۔

اے اندھے تو اس کھلے ہوئے دروازہ میں داخل ہو جاؤ یہی  
دروازہ تو میں ایک بند اور دوسرا کھلا ہوا تو اس کھلے ہوئے دروازہ  
میں گھس آؤ۔

اے سبب والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت  
کے زندہ رکھنے کے واسطے سبب کا ساتھ دو پھر سبب پیدا  
کرنے والے کی طرف بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
حال میں ان کے متبع بن کر کما کی کربا سنت ہے اور پھر دوسرا آپ  
کی حالت۔ پھر اگر تجھے اپنی خوری کے قنا پر قدرت ہو تو اس کو  
بغیر سبب و حالت کی معیت کے اپنے آپ کو حتی عزوجل کے سپرد  
کر کے کرگزر۔ وہ تجھے کفایت کرے گا بلندی دے گا۔ اور وہ  
تجھے اپنا مقرب بنالے گا اور وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ جن کو تو

پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو  
 (خود ارشاد پاک ہے) تو اپنے آپ کو اُس کی تقدیر کی موجوں  
 کے حوالہ کر دے جہاں کہیں بھی تو گرے گا فضل الہی کے دانہ کو  
 چکے گا جہاں کہیں تو متوجہ ہو گا اُسی جگہ ذات الہی کو پالے گا  
 تو اُس کے اُنس اور قرب اور رافت و رحمت کو دیکھنے لگے گا غنی کی  
 مثال جس کو کتنا حاصل ہو جائے مثل اُس اندھے شخص کے ہے جس  
 کو بطیوں پر لگ کر ہر طرف سے کھانا آ رہے اور اُس کو اُنے کی  
 جہت بھی معلوم نہ ہو یہاں تک کہ جب اُس کو اصل جہت معلوم  
 ہو جائے وہ سب جہتوں کو چھوڑ کر اُسی جہت کا طالب بن جائے  
 اسی طرح جب یہ بندہ طالب یہ پہچان لیتا ہے کہ تحقیق اللہ ہی  
 اُساں کرنے والا وہی اُس کی طرف ان چیزوں کو متوجہ کرنے والا  
 ہے تو اُس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے تیرا نفس  
 تیرا مشوق ہے اگر تو اُس کو اپنا دشمن اور فائل ہونا جان لیتا تو تو  
 یقیناً اُس کی مخالفت کرتا۔ اُس کو میٹ بھر کر کھانا لینا نہ دیتا فروری  
 کھانے پینے کے سوا کہ اُس کا حق ہے اور کچھ نہ دیتا۔ تیرے یہ  
 گوشہ نشینی سزاوار نہیں بلکہ تیرے لیے بازار سزاوار ہیں تیرے لیے  
 اسرار الہی پر مطلع ہونا سزاوار نہیں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسرار الہی  
 پر مطلع ہو جاتا ہے وہ بہرہ بن جاتا ہے جو کوئی اُس کے بھید کا  
 مالک نہ ہو جو اُسے چھپانے کے اُس کو مخلوق سے کنارہ کر لینا چاہیے  
 اور اپنا ٹھکانا غاروں اور دریاؤں کے کناروں اور جنگلوں اور  
 چٹیل میدانوں کو بنا لینا چاہیے۔ جو شخص کہ حکم و علم کے درمیان میں  
 جمع کرنے کی قدرت نہ رکھے اُس کو مخلوق سے علیحدہ ہو جانا چاہیے  
 وہ کنارہ کر لے۔ گرانی و قحط بادشاہ کا ادب سکھانے کے لیے ایک  
 کوڑا ہے۔ یہ قول آپ نے شدت و قحط کے زمانہ میں فرمایا تھا۔  
 تیرے ادب انوسوں ہے کہ تو محبت کا مدعی بن کر دنیا آخرت

لَا تَعْرِفُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
 مُسْلِمًا لَا مَوَاجِدَ قَدَرَهُ اَيْنَمَا سَفَطَتْ  
 لَقَطَتْ فَضَّلَ اللّٰهُ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ فَتَمَّ  
 وَجْهُ اللّٰهِ سَرَّ اَيَّتْ اُسْدُهُ وَفَرَّ بَنُو  
 رَافَتَهُ وَسَرَّ حَمَتَهُ مَثَلُ الْغَنِيِّ مَثَلُ  
 رَجُلٍ اَعْلَى يَأْتِيهِ طَعَامُهُ عَلَى اَطْبَاقٍ  
 يَأْتِيهِ وَلَا يَعْلَمُ جِهَتَهَا حَتَّىٰ اِذَا عَلِمَ  
 اَصْلَهَا طَلَبَ تِلْكَ الْجِهَةَ وَ سَدَّ  
 جَمِيعَ جِهَاتِهِ هَكَذَا هَذَا الْعَبْدُ اِذَا  
 عَرَفَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمُسَهِّلُ هُوَ  
 الْمُعْطِي هُوَ الْمُوْجِّهُ اِلَيْهِ ذٰلِكَ تَعَلَّقَ  
 قَلْبُهُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى نَفْسُكَ وَمَعَشُوقَتُكَ  
 تَوَعَّلِمْتَ اَنْهَا عَدُوَّتُكَ وَقَاتِلَتُكَ  
 لِحَالِفَتَهَا مَا شَبِعَتْهَا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ  
 اِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَذٰلِكَ حَقُّهَا  
 لَا تَصْلَحُ لَكَ الزَّوِيَةُ بَلْ تَصْلَحُ  
 لَكَ اِلَّا سَوَاقُ لَا يَصْلَحُ لَكَ اَنْ تَطْلِعَ  
 عَلَى اَسْوَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَطْلِعْ عَلَى اَسْوَابِ اللّٰهِ  
 تَعَالٰى يَكُوْنُ اَحْوَسَ مِنْ لَا يَمْلِكُ سِرَّهُ فَيُخْلِ  
 عَنِ الْخَلْقِ لِيَكُنْ مَا وِيْهِ الْكُھُوفُ وَالسَّوَاحِلُ  
 وَالْبَرَارِىُ وَالْفِتَنَآءُ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ اَنْ  
 يَّجْمَعَ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالْعِلْمِ فَلْيَعْتَزِلْ عَنِ  
 الْخَلْقِ الْغَدَاةُ سَيَاظُ الْمَلِكِ يُؤَدِّبُ بِهِ  
 قَالِ ذٰلِكَ فِى زَمَانٍ شِدَّةٍ وَفَاقَةٍ  
 وَيُحَكِّ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَانْتَ

تَدْعِي الْمَحَبَّةَ

کو طلب کر رہا ہے۔

يَا أَحْمَقُ إِذْ عَيَّتَ مَحَبَّتَهُ وَتَطَدَّبَ مِنْهُ دَفْعَ الضَّرَرِ وَجَلَبَ النَّفْعَ تَزَيَّجَ مَا أَنْتَ مِنَ الْقَوَمِ أَنْتَ عَبْدُ الْخَلْقِ عَبْدُ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّهَوَاتِ عِنْدَنَا مَحَاكُمُ عِنْدَنَا صَيَارِفُهُ عِنْدَنَا نَقَادُ يَا مَدْعِي مَا هَذَا تَقُولُ النَّشِيءُ فِي غَيْرِ وَضْعِهِ أَلَمْ يَأْمُرْ لَهُ مَوْضِعٌ وَوَقْتُ الْكَلَامِ لَهُ حَالٌ وَالسُّكُونُ لَهُ أُخْرَى وَالنَّظَرُ لَهُ حَالٌ وَالْغَضَبُ لَهُ أُخْرَى ابْنُ الْعَامِلِ حَتَّى تَصَحَبَهُ الصِّدِّيقُونَ يَزِيدُونَ جَمِيعَ الزَّمَانِ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ شُكْرُ الْمُتَعَمِّمِ يُقَابِلُونَ التَّعَمُّ بِالنَّظَارَةِ وَالشُّكْرُ نَأْمُرُكَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْحَلَالِ أَقْصَرُ مِنْ هَذَا الْحَلَالِ إِنْ أَكْثَرْتَ أَذَاكَ أَخْذُكَ إِلَى اخِذِ الْمُبَاحِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخَذْتَ ذَلِكَ أَذَاكَ أَخْذُكَ إِلَى اخِذِ الشُّبْهَةِ وَالشُّبْهَةُ إِلَى الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ إِلَى النَّارِ أَلَمْ يَهْدُ مِنْ نَهْجٍ فِي الْحَلَالِ وَآمَرَ الزُّهْدُ فِي الْحَرَامِ فَذَلِكَ وَاجِبٌ قَدْ يَرُدُّ وَإِسْرَادُ إِلَى الْقَلْبِ فَيَعْبُزُ عَنْ حَمَلِهِ كَمَا لَمْ يَرِ إِذَا جَاءَ نَعْيٌ وَلَدَهَا تَضَرَّعٌ وَ

اے احمق تیرا دعوے تو اُس کی محبت کا ہے اور نقصان کے دفع کرنے اور نفع کے کھینچنے کا تو اُس سے طلب گار ہو رہا ہے تو دور ہو جا۔ تو اولیاء اللہ کی جماعت سے نہیں ہے تو خلقِ افرض اور مٹاؤ خواہشوں کا بندہ اور پیر وہ ہے ہمارے پاس تمہاری کسوتیاں صرف تمہارے پر کھنے والے موجود ہیں۔ اے مدعی یکساں دعا ہے۔ تو بات کو اُس کے غیر موقع محل پر رکھ رہا ہے۔ دعا کا ایک محل و وقت ہے۔ کلام کے لیے ایک حالت ہے اگر کون کے لیے دوسری حالت۔ تو بصرہ و نظر کے لیے ایک حالت ہے اور آنکھ بند کرنے کے لیے دوسرا حال عمل کرنے والا کہاں ہے کہ تو جس کی صحبت میں رہے صدیقی لوگ ہر زمانہ میں منعم کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کو واجب جانتے ہوئے عبادت میں زیادتی کرتے رہتے ہیں نعمتوں کا مقابلہ طاعت و شکر کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم تجھے تھوڑے سے حلال مال لینے کی بقدر ضرورت اجازت دیتے ہیں تو ہی تھوڑے سے حلال پر اکتفا کر۔ اگر تو نے اسے زیادتی کے ساتھ لیا تو اُس کا لینا تجھے اُس مباح کے لینے کی طرف پہنچا دے گا جو کہ عام مسلمانوں کے درمیان میں مشترک ہے۔ اور اگر تو نے اسے لیا تو اس کا لینا تجھے مشتبہ مال کے لینے کی طرف پہنچائے گا۔ اور وہ مشتبہ مال حرام کی طرف لے جائے گا اور حرام مال تجھے دوزخ میں لے جائے گا۔ زہد وہی ہے جو کہ حلال میں زہد ہے رغبتی کرے۔ اور حرام میں زہد کہ ناپس وہ تو سب پر واجب ہی ہے کبھی قلب کی طرف ایسی چیز وارد ہوتی ہے جس کے برداشت کرنے سے قلب عاجز ہوتا ہے و جب کرنے لگتا ہے اس کی مثال اُس مال جیسی ہے جس کو اپنے بچہ کے مرنے کی خبر سنیے اور

وَنَحْرُ قُنْيَا بَهَا يَعْجُزُ الْعَقْلُ عَنْ حِيلِهِ  
يَعْنِي بِهِ السَّمَاءَ وَالْوَجْدَ مُخَالَطَ النَّاسِ  
بِالدُّعَاءِ وَنُؤَاغِيَتِهِمْ وَنُعَاثِرُهُمْ بِالْكَعْبَةِ  
وَقُلُوبِنَا بَارِكَةً نَاظِرَةً إِلَى وَعْدِ اللَّهِ  
إِلَى طَعَامِ الْفَضْلِ إِلَى بَيْتِ الرُّسْرِ  
إِثْرُهُدِي فِي مَشِيَّتِكَ لَتَطْفُرَ بِمَشِيَّتِهِ  
الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ مِنْ شَرْطِ الْمُحِبَّةِ  
تَوَلَّيْتُ الْمَشِيَّةَ وَالْإِسْرَافَةَ بَيْنَهُمَا أَنْتَ  
كَذَلِكَ إِذَا نَطَقَ لِسَانُكَ وَاسْتَمِعْتَ  
أُذُنَاكَ وَفَتَحْتَ عَيْنَاكَ جَاءَتْ الْأَنْطَانُ  
وَالْإِكْرَامُ وَجَاءَ صَفَاءُ الْأَسْرَارِ شِمَارُ  
وَجَوَاهِرُ جَاءَتْكَ الْخِدْمَةُ وَالْخِدْمَةُ  
خَدَمَكَ الْكُلُّ وَحَمَدَكَ الْكُلُّ وَبَاهِي  
بِكَ الْحَقُّ الْكُلُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا  
أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا اذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
اعْمَلُوا فِيهَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ أَنَا وَكَ  
نَحْنُ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ  
الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
فِي قَوْلِهِ عَمَّا وَجَلَّ وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ  
أَفْسَمَ اللَّهُ عَمَّا وَجَلَّ بِالسَّمَاءِ وَمَنْ طَرَفَهَا  
طَرَفَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَهَا  
هَيْبَتُهُ ثُمَّ بَيَّنَّاهُ بَيْنَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَمَّا جَرَّ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَكَلِمَةٍ  
رَبِّهِ وَمَا أَكْرَبَ عَيْنِي رَأْسَهُ وَبَعَيْنِي قَلْبَهُ لَمَّا

وہ اس پر چھینے پڑے پھاڑنے لگے عقل اُس کی برداشت سے عاجز  
ہوتی ہے۔ آپ کی مراد اس قول سے حالت وجد و سماع ہے۔ دعا  
میں ہم عام لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے اُن کی موافقت و معاشرت  
کرتے ہیں حالانکہ ہمارے قلوب سرور و رعد الہی کی طرف نظر  
کرنے والے فضل کے کھلنے اور اُن کے مکان کی طرف دیکھنے  
والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی خواہش و ارادہ سے بے پرواہ ہو جانا  
کہ تو حق عزوجل کی مشیت و ارادہ سے فتح مندی حاصل کرے۔  
محبت کی شرط ہی اپنے مشیت و ارادہ کا ترک کر دینا ہے۔  
ناگاہ توجہ اس حالت میں ہو گا تیری زبان گویا ہو جائے گی۔  
اور تیرے کان شنوائیں جائیں گے اور آنکھیں کھلیں۔ ہوئی ہوں گی۔  
الطاف و اکرام الہی آئیں گے اور باطن کی صفائی پھل اور جواہرات  
حاصل ہوں گے خدم و شتم موجود ہو جائیں گے کل کے کل تیری خدمت  
کریں گے اور تیری تعریف میں مشغول ہوں گے اور حق تعالیٰ تمام  
مخلوق پر تیرے ساتھ فخر کرے گا ارشاد الہی ہے جو کچھ تم کو رسول  
دین بتائیں پس تم اُس کو قبول کرو اور جس سے وہ منع کریں اُس سے تم  
باز نہ رہو تم اللہ و رسول کے فرمان کو بجالاؤ اُن دونوں پر عمل کرو۔ اس  
راستہ میں سو امانت انت کے (تو ہی تو ہے) انا و نحن ہم اور میں  
نہیں ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر اور وہی باطن  
ارشاد الہی و السماء و الطارِق کے متعلق آپ نے تفسیر فرمائی کہ اس  
میں اللہ عزوجل نے آسمان اور اُس پر چلنے والے کی قسم کھائی  
ہے۔ آسمان پر جو چلا وہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔ اولاً آپ  
کی ہمت علیانے آسمان پر ترقی کی پھر آپ کے جسم شریف یعنی  
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ساتویں آسمان تک عروج  
کیا اور اپنے رب عزوجل سے کلام کیا اور آپ کے سر کی آنکھوں  
نے بھی اُس کو دیکھا نیز آپ کے قلب مطہر کی آنکھوں نے جب کہ

كَانَ عَبْدُكَ سَرَى فِي السَّمَاءِ وَسِرًّا  
 فِي الْأَرْضِ يَعْنِي قَلْبِهِ وَفِي السَّمَاءِ  
 يَعْنِي رَأْسِهِ وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ صَحَّ قَلْبُهُ  
 يَرَى قَلْبَهُ سَرَّابًا وَيَقْطَعُ الْحُجُبَ  
 بَيِّنَةً وَبَيِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَسْرَارَ فَالْيَهُمَّ  
 تَطَرَّقْ وَالْأَسْرَارُ تَسِيرُ صُدُورُ الصِّدِّيقِينَ  
 يَنْوَرُ أَسْرَارُ دِيَةِ الْعَالَمِينَ صُدُورُ  
 مُضِيَّةٍ اتَّقُوا هَذَا سَةِ الْمُؤْمِنِ الْقَلْبُ  
 إِذَا قَرَّبَ صَكْرَ سَمَاءٍ فِيهَا مُجُومُ الْعِلْمِ  
 وَتَسْمُ الْمَعْرِفَةِ يَسْتَعْنِي الْمَلَائِكَةُ  
 بِهَذِهِ الْأَتْرَاسِ مَا مِنْ نَفْسٍ رَأَتْ  
 عَلَيْهَا حَافِظًا مِنَ اللَّهِ لَعَالَى يَحْفَظُهَا  
 مِنْ أَنْ تَخْطِفَهَا الشَّيْطَانُ وَاحَادُ  
 أَمْرٍ أَحْفَظَتْهُمْ يَفُومُونَ صَفُوفًا  
 يَحْفَظُهُمُ وَاللَّهُ مِنْ دَرَأٍ هُمْ  
 مُحِيطٌ أَنْتَ الْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ  
 خَرَبْتَ بَيْتَكَ تَدْرِي دَرِيءًا مِنْ  
 مَكَانِكَ لَا تَبْرَحْ كَأَنَّكَ جَمَلُ الطَّاحُونِ  
 لَعَلَّكَ دَعَا عَلَيْكَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ قَدْ  
 عَمِيَتْ عَيْنَا بِصِيرَتِكَ ضَيَّعَتْ اللَّهُ  
 فَضِيْعَكَ اللَّهُ فِي السُّلُوقِ تَبَدَّتْ فِي  
 عَيْنِ قَصْدِكَ السَّيْلُ كَثُرَتْ هُمُومُكَ  
 وَانْقَطَعَتْ أَجْنَحُهُ قَصْدُكَ  
 بَقِيَّتْ قِطْعَةٌ لَحْمٍ بَيْنَ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ تَحْتَاجُ إِلَى صَدِيقٍ

اُپ اُس کے بندہ خاص تھے آسمان میں رات کے وقت تشریف  
 لے گئے اور رب تعالیٰ کو زمین میں قلب کی آنکھوں سے اور آسمان  
 میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح سے جس کسی بندہ کا  
 جب قلب صحیح و درست ہو جاتا ہے تو اُس کا قلب اپنے  
 رب تعالیٰ کو دیکھنے لگتا ہے اور جو حجابات اُس بندہ اور آسمان و  
 اسرار کے درمیان میں ہوتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں پس یہیں  
 اُسے بڑھتی ہیں اور اسرار سیر کرتے ہیں۔ صدیقین کے سینے نور  
 اسرار رب العالمین کی وجہ سے روشن سینے ہیں تم مومن کی فراست  
 (داناوی و نظر) سے ڈرتے رہو۔ قلب جب قرب الہی تک پہنچ  
 جاتا ہے وہ ایک ایسا آسمان بن جاتا ہے جس میں علم کے تارے  
 اور معرفت کا آفتاب چمکتے لگتا ہے ان نوروں سے ہمارے روشنی  
 حاصل کرتے ہیں۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کہ اللہ کی طرف  
 سے کوئی محافظ نہ ہو جو کہ اس نفس کے شیطانوں کی دستبرد سے  
 حفاظت نہ کرتا ہو اور بعض افراد اولیاء اللہ میں سے ایسے بھی  
 ہیں جو کہ صفیں باندھ کر فرشتے اُن کی حفاظت کرتے ہیں اور  
 اللہ ان کے پیچھے سے احاطہ کرنے والا ہے۔ تو محض فصاحت  
 و بلاغت میں پڑا ہوا ہے اپنے گھر کو تو نے اُجاڑ کر دیا ہے۔  
 اپنے مکان کے دور میں گھوم رہا ہے وہاں سے مہنہ ہی نہیں  
 ہے گویا کہ توحی کا ایک اونٹ ہے شاید تیرے اوپر کسی ولی اللہ  
 نے بددعا کر دی ہے جس کی وجہ سے تیری دانائی کی آنکھیں  
 پھوٹ گئی ہیں۔ تو نے خدا کو چھوڑا پس اُس نے تجھے راستہ  
 میں چھوڑ دیا۔ تیرے قصد کی آنکھیں ڈھلکی کی بیماری جگمگاتی ہے  
 تیرے غم بہت ہو گئے ہیں۔ اور تیرے قصد کے بازو ٹوٹ گئے  
 ہیں۔ تو دنیا و آخرت کے درمیان میں ایک گوشہ کا پڑا ہوا  
 ٹکڑا باقی رہ گیا ہے۔ تو ایک سچے دوست کا محتاج ہے جو

يَدْعُو لَكَ بَعْدَ الْاِقْرَارِ بِالْاِفْلَاسِ  
اِسْتَانِيسَ الْقَوْمَ بِالْحَقِّ ثُمَّ بِالْمَلَايِكَةِ  
فَاِذَا اَنْتَسَتْ بِهَؤُلَاءِ فَتَمَّ لَكَ بَابُ  
اِخْرَاجِ اَنْتَسَتْ بِالْخَلْقِ مِنَ الْاَنْسِ  
ثُمَّ سَدَّ دُتْ ذٰلِكَ فَتَمَّ لَكَ بَابُ  
الْاَنْسِ بِالْحَيِّ فَاِذَا سَدَّ دُتْ فَتَمَّ  
لَكَ بَابُ الْاَنْسِ بِالْحَيِّ فَاِذَا سَدَّ دُتْ  
فَتَمَّ لَكَ بَابُ الْاَنْسِ بِالْمَلِكِ الْاَشْيَاءِ  
لَا تَفْعَلْ بِاَنْفُسِهَا النَّارُ لَا تُحْرِقُ بِطَبْعِهَا  
وَلَا الْمَاءُ يَرْوِي بِطَبْعِهِ نَارُ نَمُو دِ  
مَا اَحْرَقَتْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
اَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِي رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ  
لَمَّا اُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَتَحَرَّقْ اَلَسَّنَدُ  
لَا تُحْرِقُهُ اَمَّا نَارُ اِذَا اَخْلَصَتْ فِي  
اَعْمَالِكَ اَخْلَصَتْ مِنَ الْخَلْقِ اُخْرِجَتْ  
مِنْ بَيْنِهِمْ اِنَّمَا تَصِلُ اِلَى الْحَقِّ عَمَّا  
وَجَلَّ بِالْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَتُظْلِمُهُ  
عَمَّا وَجَلَّ كَرَجُلٍ غَرِيبٍ دَخَلَ دَرْبًا  
يَطُوفُ عَلَى صَدِيقِهِ يَنْتَهِي اِلَى  
اَقْصَاهُ وَيَعُودُ اِلَى اَوَّلِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ  
بَابَهُ الصَّدِيقُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ حَتَّى اِذَا سَرَّ اِي  
خَيْرَتَهُ اِسْتَحْبَبَهُ الْحُبُّ نَحَرَ اِلَيْهِ وَعَاظَقَهُ  
وَصَدَّقَهُ اِلَيْهِ كَمَا فَعَلَ يُوسُفُ بِيُسُيَا مِ بْنِ  
فَقَالَ لَهُ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ جَعَلَ اللهُ اَرْضَ  
الْقَلْبِ قَمَرًا الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ

تیرے افلاس کے بعد تیری بھلائی کی دعا کرے تو او یا اللہ  
پھر فرشتوں کے ساتھ سچا اُنس پیدا کر پس جب تو ان سب سے  
اُنس پیدا کرے گا تو تیرے لیے دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔  
جب تو مخلوق میں سے انسانوں سے اُنس پکڑ کر اس دروازہ کو  
بند کر دے گا تو تیرے لیے جنوں کے ساتھ اُنس کا دروازہ کھل  
جائے گا پس جب تو اُنس کو بھی بند کر دے گا تو تیرے لیے  
فرشتوں کے ساتھ اُنس کا دروازہ کھل جائے گا۔ تمام چیزیں،  
فی ذاتہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں بلکہ حکم کی تابع ہیں۔ اگ اپنی طبیعت سے  
نہیں جلاتی ہے اور نہ پانی اپنی طبیعت سے سیراب کر سکتا ہے  
غیر وہی اگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی۔ ابو مسلم خولانی میلا رحمہ  
جب کہ اگ میں ڈالے گئے نہ جلے سمند جانور کو باوجود اس  
کے کہ وہ اگ ہی میں رہتا ہوتا ہے۔ اگ نہیں جلاتی ہے۔ جب  
تو اپنے غلوں میں اغلاص کرنے لگے تو تو مخلوق سے رہائی  
پائے گا اُن کے درمیان میں سے نکال لیا جائے گا تو اُن  
سے نکل کر خدا کی طرف پہنچ جائے گا اور اُس کو طلب کرنے  
لگے گا اس کی مثال مثل ایک ایسے مسافر کے ہے جو کو چہ میں  
داخل ہوا اپنے دوست کی تلاش میں پھر لگا ہوتا ہے کہ چہ  
کے تنہا پر پہنچتا ہے اور پھر ابتدا کی طرف لوٹ آتا ہے اور  
وہ دوست کے دروازہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے اور دوست  
اُس کی طرف دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کی حیرت  
کو وہ معلوم کر لیتا ہے اُس کو محبت غالب ہو کر باہر نکال لیتی  
ہے اور وہ باہر آکر اُس سے معافہ کرتا ہے اور اُس کو اپنے  
سے چپا لیتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی  
بنیامین کے ساتھ کیا تھا اُن سے کہا تھا کہ تحقیق میں تمہارا  
بھائی انوں۔ اللہ عزوجل نے قلب کی زمین کو انہی معرفت و علم

بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ تَكْلِشْمَاءَةً وَ سَيَتُونَ  
تَنْظَرَةً إِلَيْهِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَوْ  
لَوْ لَا أَنْ جَعَلَهُ قَدَرًا لَتَقَطَّعَتْ وَتَنَزَّقَ  
الْقَلْبُ إِذَا صَحَّ وَ اسْتَقَرَّ بِقُرْبِ الْحَقِّ  
أَجْرَى خِلَالَهُ أَتَهْمًا مِّنَ الْحِكْمِ  
لَا يُتَقَاعُ الْخَلْقُ بِهَا جَعَلَهُمْ  
لِلدِّينِ رَوَاسِيَ الْكِبِيرِ مِنْهُمْ  
مَوْضِعُ النَّبِيِّ وَالضَّغِيرِ مَوْضِعُ  
الضَّحَاكَةِ وَ دُونَ ذَلِكَ مَوْضِعُ  
السَّابِغِينَ عَمِلُوا بِمَا قَالُوا امْتِثَالًا  
لِّلْمُرْقُورِ وَ فِعْلًا وَ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً  
قَرَّتْ بِهِمْ أَعْيُنُ النَّبِيِّينَ وَ بَاهَى  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ يَا  
طُوبَى لِّمَن اتَّبَعَهُمْ وَ خُفِّفَتْ عَنْهُمْ  
أَثْقَالُ الدُّنْيَا وَ الْعِيَالِ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ  
شُغْلٌ شَاغِلٌ عَنِ الْإِكْتِسَابِ قِيَامٌ  
بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ عِنْدَهُمْ  
كَأَوْلَادِهِ لَا يَتَعَلَّقُونَ بِالدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا  
تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِمْ وَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا  
هَذَا الَّذِي فِي يَدِكَ كَيْسٌ لَّكَ بَلْ هُوَ  
مُشْتَرِكٌ الْجَبِيرَانِ شَرَكَاؤُكَ  
كَسْبُكَ جُعِلَ فِي يَدِكَ لِنَمُو أَخَذَكَ وَ الْأَجْرُ  
وَ انْقُضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ  
لَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَ اسْجُرْ أَنْتَ  
أَطْعِمِ الْفَقْرَاءَ فَإِنَّ دَامَ الصَّدِيقُ

کی قرار گاہ بنایا ہے رات اور دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ عز و جل  
اس کی طرف نظر ڈالتا رہتا ہے۔ اگر وہ قلب کے لیے قرار عطا نہ  
فرماتا البتہ قلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور پھٹ جاتا قلب  
جب درست و صحیح ہو جاتا ہے اور قرب الہی میں قرار پکڑ لیتا  
ہے اللہ عز و جل اُس کے درمیان میں حکمت کی نہریں اُن سے  
خلق کے نفع حاصل کرنے کے لیے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  
نے اولیاء اللہ کو دین کے واسطے بلند بہاؤ بنا دیا ہے اُن  
میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہے اور  
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جگہ اور اُن سے کم مرتبہ تابعین علیہم السلام کی جگہ  
اُن کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اولیاء کرام نے علیہم السلام سے ارشادات  
امر کے لیے تو کافلاً ظاہر و باطناً ان حضرات کرام کے ارشادات  
پر عمل کیا جس سے انبیاء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ  
نے اُن سے فرشتوں پر نحر فرمایا۔ خوبی و برکت ہے اُن کے لیے  
جنہوں نے اُن کا اتباع کیا دنیا اور اہل و عیال کے بوجھ اُن پر  
سے ہلکے کر دیئے گئے۔ یہ ایسی قوم ہیں جن کے پاس ایسا شغل ہے  
جو ان کو کمائی کرنے سے روکتا ہے وہ خلق کی مصلحتوں کے  
لیے قیام کرنے والے ہیں مخلوق اُن کے نزدیک مثل اولاد  
کے ہے۔ وہ دنیا سے علاقت نہیں رکھتے حالانکہ دنیا اپنے آپ  
کو اُن پر پیش کرتی ہے اور وہ اُن سے اعراض کرتے رہتے  
ہیں۔ یہ چیز جو کہ تیرے قبضہ میں ہے صرف تیری نہیں ہے بلکہ  
مشترک ہے تیرے پڑوسی بھی اُس میں شریک ہیں۔ تیری کمائی  
تیرے ہاتھ میں مواخفا و راجع کے لیے دی گئی ہے ارشاد باری  
ہے اور تم اُس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم خلیفہ بنائے گئے  
ہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے تو اپنے پڑوسیوں کی  
خیر گیری کیا کر فقیروں کو کھانا کھلایا کر۔ کیوں کہ دوست کا گھر

صَبِيحٌ وَذَاخِلُهَا وَاسِعٌ أَيْنَ مَنْ عَلَقَ  
بَابَ الْخَلْقِ وَوَقَفَتْ عَلَى بَابِ  
الْحَقِّ وَانْزَلَ خَوَاطِمَ بَرِيَّةٍ اقْطَعِ  
الْأَسْيَابَ وَاحْلَمِ الْأَمْرَ بَابَ شَمِّ انْظُرْ  
مَا تَرَى قِفْ عَلَى بَابِهِ وَتَوَسَّدا  
الصَّبْرَ عَلَى الْأَمْرِ قَدْرُكَ وَقَضَائِهِ  
تَقْطَعُ وَلَا تَتَاكَلَمْ حِينَئِذٍ تَرَى عَجَبًا  
تَرَى التَّنْكِوِينَ كَيْفَ تَجْعَلُ حَالَكُ وَ  
الرَّحْمَةَ كَيْفَ تُرَبِّيكَ وَالْمَحَبَّةَ  
كَيْفَ تَنْزُقُكَ الدَّائِرَةَ كُلَّ الدَّائِرَةِ  
عَلَى السُّكُوتِ بَعْدَ الْحَاجَةِ وَهِيَ  
حَالَةٌ مُبَاهَاةِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَبْدِ  
يَحْرِمُ عَلَيْهِ مَوَاضِعَ الْخَلْقِ وَالْأَسْيَابِ  
حَتَّى يَرُدَّكَ إِلَى مَوَاضِعِ قَرِيبِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَصَلَ فِي حَاجِرٍ لُطْفُهُ  
الرَّائِحَةُ تَكْفِيهِ رَائِحَةُ الْإِمِّ تَكْفِيهِ  
الرَّحْمَةُ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا  
دَعَا يَضْطَرُّكَ حَتَّى تَلْغُوهُ يَحِبُّ  
إِلَاحَاةَ فِي الدُّعَاءِ يَسُدُّ الْأَبْوَابَ  
فِي وَجْهِكَ حَتَّى تَقِفَ عَلَى بَابِهِ  
فَإِذَا رَأَوْا بَابَ الْقُرْبِ مَفْتُوحًا  
كَالْأَمْرِ تَغْلِقُ الْبَابَ دُونَ  
وَلَدَيْهَا وَتَوَمَّى الْجَيْرَانَ  
أَنْ لَا يَفْتَحُوا لَهُ بَابًا  
يَخْرُجُ مِنْ شُرَيْدَةٍ خَرَجَ قَعْدًا

تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والا کشش والا ہے۔ وہ کہاں ہے جس نے  
مخلوق کا دروازہ بند کیا ہو اور حق کے دروازہ پر اگر کھڑا ہوا ہو اور اپنی حاجتوں  
کو اس کے روبرو کر پیش کیا ہو۔ تو سببوں کو قطع کر دے

اور دوستوں سے

علیحدگی کرے۔ پھر دیکھ کہ تجھے کیا کچھ نظر آتا ہے مولیٰ تعالیٰ  
کے دروازہ پر کھڑا ہو جا اور مصیبتوں پر صبر کو تکمیل بنائے۔ اُس  
کی قضاء قدر تجھے پارہ پارہ کر دے اور تجھے تکلیف نہ ہو۔  
اُس وقت تو عجائبات قدرت کو ملاحظہ کرے گا تو تنکوبی کو  
دیکھے گا کہ وہ تیرا کیا حال بناتی ہے اور رحمت کو دیکھے گا کہ وہ  
کوہ تیری کیسی پرورش کرتی ہے۔ اور محبت کو دیکھے گا کہ وہ  
تجھے کیسے رزق پہنچاتی ہے سارا دار و مدار حاجت کے بعد  
سکوت اختیار کرنے پر ہے اور وہی حالت بندہ پر خدا تعالیٰ  
کے نافرمانی کی ہے اُس پر مخلوق اور سببوں کے منافق مواقع  
سب حرام کر دیتا ہے یہاں تک کہ اُس کو اپنے قرب کے  
مواضع پر کوٹا لانا ہے جب اُس بندہ کو خدا کے کنار ماطفت  
اور اُس کے لطف کی گود کی بو آنے لگتی ہے تو اُس کو وہ بو  
تکلیفوں کی بو سے رحمت بن کر کفایت کرتی ہے ارشاد الہی  
ہے آیا ہے کوئی جو مضطر کی دعا کو قبول کرے جب کہ وہ اُس کو  
پیکار سے تجھے وہ مضطر اس لیے کہتا ہے تاکہ تو اُس کو پکارتے  
وہ دعائیں گواہ کر گئے کہ پسند کرتا ہے۔ وہ تمام دروازوں  
کو تیرے اوپر بند کر دیتا ہے تاکہ تو اُس کے دروازہ پر جا  
کو ٹھہرے تزار پکڑے پس جب او بار و مقرب الہی نے  
سببوں کے دروازہ کو بند اور قرب الہی کے دروازہ کو کھلا ہو پایا  
اُس میں داخل ہو گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی  
مال اپنے بچے پر دروازہ بند کر دے اور پڑوسیوں کو وصیت کر

أَنْ لَا يَفْتَحُوا لَهُ بَابًا لِّغُرُصٍ تُرِيدُهَا  
خَرَجَ فَعَدَّ بَابًا كَبِيرًا مَّا كُلَّ بَابٍ  
يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَدَاكَ مُعَلِّقًا يَعْوُدُ  
إِلَى بَابٍ أَمَّهِ الْحَقُّ يُضَيِّقُ عَلَى  
عَبْدِهِ لِيُؤَدِّكَ إِلَيْهِ وَلَا يُعَلِّقُ قَلْبَهُ  
بِالْخَلْقِ يَنْبَغِي لِلْفَقِيرِ الصَّادِقِ أَنْ لَا  
يَطْلُبَ بِرَأْفَتِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْدَأُ  
طَالِبًا فَلْيَطْلُبْ قَدْرًا كِفَايَةً إِذَا  
قَرَّبَكَ وَابْتَلَاكَ تَنَعَّمْ بِبَلَاءِهِ وَ  
لَا تَشْغَلْكَ بِبَلَاءِكَ الرَّغْبَةُ فِي  
الْأَشْيَاءِ تُشَوِّشُ عَلَيْكَ قُرْبَكَ  
مَنْ اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ  
مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى لَا عَقْلَ لَهُ  
بَلَدُهُ بَلَاءٌ شَحَنَةٌ خَرَابٌ عَنْهُ يَلَا  
رَاعٍ مَا كَوْلَهُ الدَّيْبُ الْكَافِرُ الْخَوْفُ مَنْ  
خَافَ أَذْلَهُ لَا يَسْتَقِرُّ مَكَانًا بَلْ يَسِيرُ عَايَةً  
أَسْفَارِ الْقَوْمِ قُرْبُ الْحَقِّ عَزٌّ وَجَلُّ الشَّيْرِ  
سَيْرُ الْقُلُوبِ ثُمَّ سَيْرُ الْأَسْرَارِ إِذَا وَصَلُوا  
إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَ السَّيْرُ فَيُؤْذَنُ لَهُ  
ثُمَّ لَيْسَتْ أذنُ بَعْدَ الْأَنْسِ لِلْقَلْبِ صَارَ  
نَجْمٌ قَلْبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَمَرًا وَالْقَمَرُ شَمْسًا وَالْخُلُوعُ  
جَلُوعٌ وَالْبَاطِنُ ظَاهِرٌ الْعَبْدُ فِي  
حَالَتِهِ الْأَمْرِ وَالْجَزْرِ أَخْذُ رَأْسِهِ فِي  
ذَيْفِهِ وَخَيْمَتُهُ سِرَّةٌ عَلَى حَبْلِهِ يَرَى

وے اس دروازہ کو بربیب ایک غرض کے جس کا کوہ ارادہ  
رکھتی ہے کھول دینا۔ سچا باہر آ یا یہ دیکھ کر شرمندہ رہتا ہوا بیٹھ گیا  
جس دروازہ پر نظر ڈالی سب کو بند پایا مگر پھر پھر ہاں ہی کے  
دروازہ کی طرف لوٹا۔ حق تعالیٰ اپنے بندہ پر اس پتے تنگی ڈالتا ہے  
تاکہ اس کو اپنی طرف پھیر لے اور اس کا قلب مخلوق کے ساتھ  
متعلق نہ ہو جائے۔ سچے فقیر کو لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے  
لیے آرام طلبی نہ کرے۔ پس اگر بدرجہ مجبور ہی ضرورت ہی طلب  
کی تو بقدر کفایت ہی طلب کرے نہ کہ زائد۔ جب رب تعالیٰ  
تجھے قریب کر لے اور بلا میں مبتلا کرے تو تو اس کی بلا پر  
خوش ہو۔ ورنہ وہ تجھے تیری مصیبت و بلا میں گھیر دے گا دنیوی  
چیزوں کی رغبت تیرے اوپر تیرے قرب الہی اور بلا پر  
مصر کرنے کو تشویش میں ڈال دے گی۔ جو کہ اللہ عز و جل سے  
نہیں ڈرتا ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ بغیر کوال کے شہر  
ویران و خراب ہے۔ بحر یاں بغیر چرواہے کے بھیڑیے کی  
خوراک ہیں اصل دین کی خوف الہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے  
وہ رات میں چلا کر تپا ہے کسی مکان میں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ سیر  
کرتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے سفروں کی انتہا قرب الہی ہے  
حقیقی سیر اولیاءوں کا سیر ہے بعدہ باطن کا سیر۔ جب یہ لوگ  
قرب کے دروازہ پر پہنچ جاتے ہیں تو باطن داخل ہونے کی  
اجازت چاہتا ہے۔ پس اس کو اجازت دے دی جاتی  
ہے اس کے بعد اس قلب کے لیے اجازت چاہا کرتا ہے  
حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے قلب مبارک کا تارا اولاً قمر  
بنا پھر چاند سے سورج ہو گیا۔ غلوت جلوت بنی اور باطن ظاہر  
بنا۔ بندہ مخصوص اپنے مد و جزر کی حالتوں میں سر کو گریبان میں  
ڈالے اور باطن کے خیمہ کوری میں باندھے تیرا تپا ہے تمام

وہ جواہرات جو کہ دریا میں ہیں سب اُس کو نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ کو اُن کی طرف نہیں بڑھاتا ہے بلکہ جو اُس کے پاس حاضر ہوتا ہے اُس کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے فلاں تو اس قدر ہے۔ اور اسے فلاں تو اتنا۔ یہ بادشاہ زمینی و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ حتیٰ عزوجل کی حضور می میں بطور نیابت و خلافت حاضر رہتے ہیں میں بادشاہ کے دروازہ پر ان کا منتظر رہتا ہوں بیداری و خواب میں تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں تمہاری خاطر اس شہر کی تکلیفوں کو جھیلتا رہتا ہوں اور مخلوق کی آفتوں پر صبر کرتا ہوں، میں غم و رنج اور فک و حیرت میں دن رات سے ملا دیتا ہوں جب ایک قدم، آگے بڑھتا ہوں واپس ہوا کرتا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ اپنی دعا میں حیرت میں پڑ گئے۔ پس آپ سو گئے۔ اللہ عزوجل کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارشاد کرتا ہے۔

اے ابراہیم کہو اَللّٰهُمَّ رَحْمٰنِیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِرُحْمٰہِکَ اِنِّیْ تَضَارِعُ لِرَاحْمٰہِیْ کَرَمَہِیْ اور اپنی بلا پر صبر و اور اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اور میں تجھ سے تیری پوری نعمت اور ہمیشہ کی عافیت اور تیری محبت پر ثبات قدمی طلب کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر ایک زم آواز ڈالی گئی۔ جس کی وجہ سے قلب پاک نے اہل وعینال سے دوری چاہی آپ غار حرا میں تشریف لے گئے جو کہ طور سینا کا ایک حصہ ہے۔ نسیم وحی کی بو آنے لگی حرا میں ایک غار تھا جس میں ایک عابد ابو کبشہ نامی رہتا تھا آپ وہیں اگر عبادت ربی میں مشغول ہوئے اس حالت میں آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ مثل پسیدہ صبح کے ظاہر ہو جاتی تھی۔ دفعۃً آواز دی گئی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس آواز سے ڈر کر اپنے دو تشریف میں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کئی اڑھاؤ چادر

مَا تَحْتَ الْبَحْرِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَمَا يَدُّ يَدَا إِلَيْهَا يُبْنِي إِلَى حَاضِرٍ عِنْدَكَ أَنْتَ يَا قَلَانُ خُذْ كَذَا وَأَنْتَ خُذْ كَذَا أَهْمُ الْمَوْلَى مَوْلَى الْأَرْمَضِ وَالسَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْبَيِّنَاتِ وَالْخِلَافَةِ أَنَا عَلَى بَابِ الْمَلِكِ أَنْتَ ظَرْهُهُ نَاطِرًا إِلَيْكُمْ يَقْطَعُ وَمَنْ مَّا لَكُمْ أَقْسَى أَذَى هَذِهِ الْبُكَدَةِ أَصْبِرْ تَحْتَ أَفَاتِهِمْ أَوْ اصِلْ الصُّبْحَاءِ بِالْظَّاهِرِ غَمًّا وَهَمًّا وَفَرًّا وَتَرَدِّيًا كَمَا تَقَدَّمْتُ قَدْ مَادَدْتُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ آدَمَ تَحْيِيرٍ فِي دُعَاؤِهِ فَغَضَّتْ عَيْنَاهُ سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ

يَا إِبْرَاهِيمُ قُلِ اللَّهُمَّ رَحْمَتِيْ بِقَضَائِكَ وَصَبْرِيْ عَلَى بَلَائِكَ وَأَوْزِ عَيْنِيْ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ تَتَامَ نِعْمَتِكَ وَدَوَامَ عَافِيَتِكَ وَالنَّجَاتِ عَلَى مَحَبَّتِكَ يَنْبِيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقَى عَلَى قَلْبِهِ طَنِينًا نَبَأَ قَلْبُهُ عَلَى أَهْلِهِ خَرَجَ إِلَى حَوَاءَ وَرَهَى قَطْعَةً مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ جَاءَ نَسِيمٌ رَاحِلَةٌ الْوَحْيِ كَانَ فِيهِ كَهْفٌ كَانَ فِيهِ عَابِدٌ يُقَالُ لَهَا أَبُو كَبْشَةَ جَاءَ مَكَانَهُ يَعْجِدُ رَبَّهُ بَيْنَهُمَا هُوَ كَذَلِكَ يَمْرِي رُؤْيَا يَكُونُ كَفَلَقِ الصُّبْحِ رَاذُ نُوْدَى يَا مُحَمَّدُ هَرَبْ مِنَ الصُّبُوتِ جَاءَكَ إِلَى بَيْتِهِ فَقَالَ تَرْمِلُونِي دَبْرُونِي

إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتًا قَبِيلَ مُحَمَّدٍ هَذَا لَا  
يَتَسَوَّرُ بِالتَّزْمِيلِ وَالشَّدَائِيرِ وَاللَّهُ  
عَالِمٌ عَلَى أَمْرِهِ هَذَا الْقَلْبُ مَثَلُهُ  
مَثَلُ تَوَاتٍ فِي صَحْنٍ دَائِرٍ لَا سَقْفَ  
لَهَا لَهَا أَرْبَعُ حَيَّطَانٍ وَاقِفَةٌ غَيْثُ  
النَّيْتَاءِ وَشَمْسُ الصَّبِيفِ تَنْزِلَانِ عَلَيْهَا  
تَنْدُتُ وَاحِدٌ لَا يَرَاهَا إِذَا ظَهَرَ  
سَعْفُهَا وَشَمَخَتْ وَأَشْمَرَتْ وَأَيْنَعَتْ  
إِلْتَقَطُوا مِنْهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا  
هَكَذَا الْقَلْبُ إِذَا شَاءَ أَشْرَكَ الْوَلَايَةَ  
بَاطِنُهُ مَكْنُونُهُ الْوَلَايَةُ مَثَلُهَا مَثَلُ  
مَا مَرَّرَ الْمَلِكُ فَرَّاشَ مُبَاطِنٍ  
لَا يَزَالُ مَعَهُ إِلَّا إِذَا مَرَّ كَبِ  
لَا تَسْأَلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ  
أَمْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْبَسَائِ  
لَا تَهْرُبُ مِنْهُ لَا تَعْبُدُهُ لِطَلَبِ  
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ شَيْءٍ تَعْمَلُ  
بِالرَّحْمَةِ ثُمَّ قَالَ أَعْدِنَا عَنْ غَيْرِكَ  
لَا تَشْغَلْنَا بِغَيْرِكَ أَكْثَرَ هَذَا  
يَقُولُ ذَلِكَ بِوَجْهِ مُعْصَبٍ مُقْطَبِ  
ثُمَّ عَطَى وَجْهَهُ وَقَامَ صَافِيًا  
ثُمَّ قَعَدَ وَقَالَ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ  
بَعْدَ حِينٍ قَوْمٌ يَكْمُرُهُونَ الطَّلَبَ  
مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَا يُصَافَ إِلَيْهِمْ  
الشَّرَكَ تَرَكُوا التَّفْوِضَ وَالتَّسْلِيمَ الشَّوْقُ

سے چھپاؤ تحقیق میں ایک آواز سننا ہوں عرض کیا گیا یہ آواز  
کلی اُڑھانے چادر میں پٹنے سے مخفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ عزوجل  
اپنے امر پر غالب ہے۔ یہ قلب ہے اس کی مثال مانند ایک  
گٹھلی کے ہے جو کہ ایسے گھر کے صحن میں پڑی ہو جس کے  
چھت نہیں ہے چار دیواری کھڑی ہوئی ہے جاٹے کی  
بارش اور گرمی کی دھوپ دونوں اُس پر پڑتی ہیں اور وہ گٹھلی  
جمتی رہتی ہے کسی کی نظر اُس پر نہیں پڑتی ہے یہاں تک کہ جب  
اُس کی شانیں ظاہر ہوئیں اور وہ بلند ہو کر پھیل لے آیا اور وہ  
پختہ ہو گئے تو لوگ اُس کو پٹنے لگے حالانکہ اُس کی طرف پہنچتے  
کا ان کو کوئی راستہ نہیں ہے اسی طور سے قلب سے جب  
خدا چاہتا ہے اُس کو زندہ کر دیتا ہے ولایت ایک باطنی اور  
مخفی امر ہے۔ ولایت کی مثال مثل اُس چیز کے ہے جو گزری  
(یعنی مثل گٹھلی و درخت کے۔

اے مخاطب تو سوا کھانے اور پینے اور لباس کے جو کہ  
ضروری چیزیں ہیں۔ کچھ اور اللہ سے سوال نہ کیا کر۔ نہ تو اُس  
سے بھاگ نہ ان چیزوں کی طلب کے واسطے تو اللہ تعالیٰ  
کی عبادت کیا کر۔ تو رحمت کے مقابلہ میں کیا عمل کر سکتا ہے  
پھر ارشاد فرمایا کہ اے رب تو ہم کو اپنے غیر سے بے پروا  
کر دے ہم کو اپنے غیر کے ساتھ مشغول نہ کر۔ یہ بات کیا  
ہے۔ اس کو آپ نے غصہ کے ساتھ اور غضب ناک لہجہ میں  
فرمایا۔ بعد ازاں اپنے چہرہ کو ڈھانک لیا اور آپ حیجھ مار کر کھڑے  
ہو گئے۔ پھر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اور البتہ تم اس کی خبر و  
حالت بعد ایک وقت کے جان لو گے اویاء اللہ  
اللہ عزوجل سے طلب کو مکروہ سمجھتے ہیں تاکہ ان کی طرف  
حرص و تفویض و تسلیم کا چھوڑ دینا نسبت نہ کیا جائے شوق

يُسْرِعُ حُطُوَاتِهِمْ إِذَا زَهَدَتْ فِي  
الدُّنْيَا سَهْلٌ عَلَيْكَ بَدَلُهَا لَا وَبِئْسَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْوَالُ تَخْصُمُهُمْ لَا  
يَصِيرُ الْبَدَلُ بَدَلًا حَتَّى يَصِيرَ انْقِطَالُ  
الْخَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ وَالرَّابُّ عَزَّ وَجَلَّ  
يَحْمِلُ عَنْهُ لَاقَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَبْرُمُ  
ظَاهِرُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَبَاطِنُهُ عَلَى يَدِ  
رَحْمَتِهِ عَلَيْكُمْ يَا تَصَدِّيقُ وَإِنَّمَا لَةِ  
اللَّهِ مِنَ الْقُلُوبِ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ  
تَعَالَى إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ هِيَ  
بَعْدَ النَّوْمِ تَوَمُّرُ الْخَلْقِ وَالذَّقْسِ وَ  
الطَّبْعِ وَالْهَوَى وَالْإِسَادَةِ يَتَّقِي الْقَلْبُ  
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَلَمْ يَأْتِ يَذُو عَزَّ  
وَجَلَّ وَالْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ  
بَيْنَ يَدَيْهِ أَمَا تَرَى مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا  
لَيْثًا يَشْتَغِلُ بِهَا عَنْ حَلَبِ الْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ هَكَذَا أَيْزُهُدَ فِي الْآخِرَةِ رِغْلًا  
كَتَشَتَّعْلُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَمَتَّى أَنْ  
لَا تُوجَدَ الْآخِرَةُ لَا تَهْمُ حُلُوهَا ظَاهِرًا  
رَحْمَةً يَصِيرُ الْقَلْبُ وَالْبَشَرُ وَجْهًا يَبْكُو  
عَلَى ظَاهِرِهِ مَا فِي قَلْبِهِ يُحِبُّ دَوَامَ الدُّنْيَا  
لَاقَتَهُ يَعْبُدُ اللَّهَ سِرًّا يَعْمَلُهُ سِرًّا أَنْتَ فِي  
وَحْشَةٍ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ مَتَى يَسْتَوْحِشُ  
قَلْبُكَ مِنَ الْخَلْقِ وَيَسْتَأْنِسُ بِالْحَقِّ عَزَّ  
وَجَلَّ مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ حَتَّى لَا يَبْقَى بَابٌ

ان کے قدموں کو تیز تیز چلاتا ہے۔ جب تو دنیا میں زہد کرے  
گا تو تیرے اوپر دنیا کا خرچ کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ  
کے مخصوص حالات میں جی کو ہر ایک نہیں جان سکتا۔ کوئی بدل  
بدل نہیں بنتا جب تک کہ وہ مخلوق کے بوجھوں کو اپنی پیٹھ پر نہ  
اٹھا لیتے ہیں اور رب عزوجل اُس بوجھ کو اُن سے اٹھا لیتا ہے  
کیونکہ وہ ہمیشہ اُس کی حضور می میں رہتے ہیں۔ ظاہر میں بوجھ  
اُس بدل پر ہوتا ہے اور باطن میں دست و رحمت پر تم اپنے  
اوپر تصدیق اور تمہنوں کو قبولوں سے زائل کر دینے کو لازم پکڑو  
اُپ نے ارشاد الہی ان ناشئۃ اللیل الخ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا  
دلات کا اٹھنا وہ نہایت دشوار ہے (وہ نیند کے بعد مخلوق  
اور نفس اور طبیعت اور خواہش اور ارادہ کے سو جانے کے  
بعد ہے۔ قلب تقوایے کرتا رہے۔ اُس کا کھانا اور پینا صرف  
حق تعالیٰ سے مناجات کرنا اور اس کے روبرو قیام و رکوع  
و سجدہ باقی رہ جائے۔ کیا تو اُن لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا جنہوں  
نے دنیا میں زہد کیا تاکہ دنیا اُن کو طلب مولیٰ سے باز نہ رکھے  
اسی طرح وہ آخرت میں زہد کرتے ہیں تاکہ آخرت اُس کو طلب  
مولیٰ سے باز نہ رکھے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ آخرت پیدا  
ہی نہ کی جاتی کیوں کہ وہ شیریں ظاہر اور سراسر رحمت ہے۔  
قلب و باطن اُس کا چہرہ بن جاتا ہے۔ جو کچھ اُس کے قلب  
میں ہوتا ہے اُس کے ظاہر پر نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی  
ہمیشگی کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھپ کر  
اُس میں عبادت کرے اور اُس سے خفیہ معاملہ کرتا رہے  
تو تو اللہ تعالیٰ سے وحشت میں پڑا ہوا ہے۔ کب تیرا قلب  
مخلوق سے وحشت کرے گا اور کب وہ اللہ عزوجل سے  
اُنس پکڑے گا۔ دروازہ دروازہ پھرے گا کوئی دروازہ باقی

مِنْ بَلَدَةٍ إِلَى بَلَدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى بَلَدَةٌ  
مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ حَتَّى لَا يَبْقَى سَمَاءٌ  
يُقِيمُ الْقِيَمَةَ عَلَى نَفْسِهِ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ  
الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ صَحَائِفَ الْحَسَنَاتِ  
وَالسَّيِّئَاتِ تَرْوَعُهُ رَبُّهَا رَبَّنَا هُوَ  
بَيِّنٌ سَفُوطِ الذِّكْرِ وَالذَّبُّورِ قَدْ أَرَادَ  
اللَّهُ تَعَالَى بِطَنِيهِ أَطْعَامَ النَّارِ بِمَاءِ  
رَحْمَتِهِ وَنَادَتِ النَّارُ جُزْئًا مُؤْمِنٍ  
فَقَدْ أَطْعَمَ نَوْمُكَ لَهْفِي يَقْرُبُ عَلَيْهِ  
الْعُبُورُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَلْفِ سَنَةٍ فِي  
لَحْظَةٍ حَتَّى إِذَا قَرَّبَ مِنْ دَارِ الْمَلِكِ  
رَجَعَ إِلَى عَقْلِهِ وَارَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ  
بِمَوْلَاهُ وَشَوْقِهِ قَالَ لَا أَدْخُلُ إِلَّا  
مَعَ الْمَحْبُوبِ أَمَا تَرَى السَّيْفُ يَقِفُ  
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ لَا أَدْخُلُ  
حَتَّى يَدْخُلَ أَبُوَايَ أَيْنَ انْجَامُ أَيْنَ  
الشَّاهِدُ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يُسَلِّمَهُ يَدُ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْخُلُ  
إِلَى الْمَحْبُوبِ حَتَّى إِذَا شَرَّ لَهُ هَذَا  
مَرَّةً إِلَى الدُّنْيَا لَا سَتِيْفَاءَ الْأَقْسَامِ  
بَلَا يَتَبَدَّلُ الْعِلْمُ وَيُسَدِّدُ  
وَيُنْجِي فَرَخَ رَبِّكَ مِنَ الْخَلْقِ  
لَا تَخْرُجُ نَفْسٌ مِنَ الدُّنْيَا  
حَتَّى يَسْتَرْفِيَ قَسَمُهَا  
فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

ذرہے گا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے گی یہاں  
تک کہ کوئی شہر باقی نہ رہے گا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان  
کی طرف جائے گی یہاں تک کہ کوئی آسمان باقی نہ رہے گا جہاں  
ٹھہرے قیامت کو اپنے نفس پر قائم کرے گا حق عزوجل کی  
حضوری میں کھڑا ہو جائے گا اپنی نیکیوں و برائیوں کے صحیفہ  
پڑھ کر دوزخ میں ڈال دیئے جانے کا متوقع ہو گا اس حال پر  
کوہ آگ میں گرنے اور اس سے گزر جانے کے خیال میں ہوتا  
ہے لطف الہی اگر اس کو پچھڑا لیتا ہے دوزخ کی آگ کو اپنی رحمت  
کے پانی سے بجھا دیتا ہے اور نار دوزخ آواز کرتی ہے اے ایسا  
والے تو جلد گزر جا پس تحقیق تیرے نور نے میرے شعلہ کو بجھا  
دیا۔ اس پر تین ہزار برس کے راستہ کا گزر جانا ایک لمحہ میں،  
قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بادشاہی گھر کے  
قریب پہنچ جاتا ہے تو اپنی عقل و ارادہ اور اپنے مولیٰ تعالیٰ  
کی محبت و شوق کی طرف رجوع لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس  
میں بغیر محبوب کے داخل نہ ہوں گا کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ بچہ  
گر جاتا ہے وہ بروز قیامت جنت کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے  
گا کہے گا کہ میں اندر نہ جاؤں گا۔ تاوقتیکہ میرے والدین اس میں  
داخل نہ ہو جائیں۔ پڑوسی کہاں ہے گواہ حاضر ہونے والا کہاں ہے  
وہ داخل نہ ہو یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ  
پیر کر دے اور محبوب کی طرف داخل کر دے

یہاں تک کہ جب اس کے لیے یہ مرتبہ تمام ہو جاتا ہے وہ دنیا  
کی طرف اپنے مقسوم حصہ لینے کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ  
علم الہی متغیر و منسوخ اور محو نہ ہو جائے۔ تیرا رب مخلوق سے فارغ  
ہو چکا ہے۔ کوئی نفس دنیا سے تاوقتیکہ وہ اپنا حصہ پورا نہیں  
کر لیتا ہے نہیں نکلتا ہے۔ پس تم اللہ عزوجل سے ڈرو۔

وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الْحَقِّ لَا  
 مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا سُبَابُ حِجَابِ أَبْوَابِ  
 الْمَلِكِ مُغْلَقَةً إِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهَا  
 فَتَمَّ لَكَ بَابًا تَعْرِفُهُ بَابُ السِّرِّ  
 سَامًا إِلَى سِرِّ فَيَنْفَتَحُ مِنْ غَيْرِ حَوْلِكَ  
 وَقُوَّتِكَ الْمُؤْمِنُ يَخْرُجُ طَبْعُهُ قَاصِدًا  
 إِلَى تَرَبُّهِ بَيْنَنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ  
 تَسَدُّ الْأَفَاقِ فِي الظَّرِيقِ فِي نَفْسِهِ  
 وَمَالِهِ يَرْجِعُ إِلَى ذُنُوبِهِ وَإِلَى سُوءِ  
 آدِبِهِ وَإِلَى تَحْرِقِ حُرُودِ شَرِّعِ رَبِّهِ  
 لَا يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَالِيٍّ وَلَا يَسْتَعِينُ  
 بِغَيْرِ رَبِّهِ بَلْ يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ وَيَعُودُ  
 عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَلَامَةِ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ  
 مِنْ ذَلِكَ رَاجَعَ إِلَى الْقَدَرِ وَالتَّسْلِيمِ  
 وَالتَّقْوِيضِ مِنْ حَيْثُ الْفُتُوبِ بَيْنَنَا  
 هُوَ كَذَلِكَ إِذَا مَا إِلَى بَابًا مَفْتُوحًا وَمَنْ  
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ابْتِلَاءً  
 لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِأَحْسَنَاتِ  
 النَّسِيئَاتِ إِنَّهُمْ لَا يَسْتَعِينُهُ قَلْبُ ابْنِ  
 آدَمَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِالْعِزِّ وَالذُّرِّ  
 وَالْعَبِي وَالْفَقْرِ حَتَّى إِذَا اعْتَرَفَ  
 بِأَلَيْعِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الشُّكْرُ  
 وَالشُّكْرُ النَّاعَةُ لَا يَتَحَرَّكُ الْإِنْسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَعِنْدَ  
 الْبَلَاءِ الضُّبُّ وَعَدَمُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ إِلَّا اعْتَرَفَ  
 بِالذُّنُوبِ الْجَوَائِمِ حَتَّى انْتَهَتْ تَطَوُّهُ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ

اور تمہاری طلب خوبی کے ساتھ حق تلاش ہی سے ہونا چاہیے  
 نہ مخلوق سے۔ سبب پر وہ اور اڑیں۔ ان کی وجہ سے بادشاہ کے  
 دروازے بند ہیں جب تو ان سببوں سے اعراض کرے گا تو بادشاہ  
 تیرے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دے گا۔ جس کو تو پہچانتا  
 ہے۔ سر کا دروازہ جو مضبوطی سے بند ہے وہ بغیر تیری طاقت و  
 قوت کے کھل جائے گا۔ مسلمان کی طبیعت رب تعالیٰ کی طرف  
 قصد کر کے نکلتی ہے وہ مسلمان اسی حالت میں ہوتا ہے کہ راستہ  
 میں اگر ان کے جان و مال کی بابت اُنقیت پیدا ہوتی ہیں پس وہ  
 گناہوں اور بدادوں اور مخالفت حد و شرعیہ کی طرف لوٹ  
 آتا ہے۔ پھر وہ دعا سے اور خدا کے غیر سے مدد نہیں مانگتا  
 بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے نفس پر ملامت کرتا  
 ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو  
 بحیثیت قلوب تضاوت و تسلیم و تقویض کی طرف رجوع لاتا  
 ہے وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ ناگاہ وہ اللہ کی طرف  
 سے ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے  
 ڈرتا ہے وہ اُس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے اُس کی  
 جانح اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اُس کے عمل کو دیکھے ارشاد  
 ہے۔ اور ہم نے اُن کو جھلایوں اور بُرائیوں کے ساتھ  
 آزمایا۔ ابن آدم کا قلب خیر و شر عزت و ذلت دولت و فقر  
 کے ساتھ ہی درست ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جب  
 خداوندی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اور وہ شکر ہے اور شکر  
 اطاعت کرنا ہے اُس کی زبان و اعضا کچھ حرکت نہیں کرتے  
 ہیں وہ بلا کے وقت صبر کرتا رہتا ہے اور غیر اللہ سے مدد  
 نہیں چاہتا اپنے جرم و گناہوں پر اقرار کرتا رہتا ہے۔  
 یہاں تک کہ جب اُس کے نیکی و بدی کے قدم انتہا پہنچیں

إِذَا هُوَ بَبَابِ الْمَلِكِ خَطَا خُطْوَةً الشُّكْرِ  
وَعُطْوَةً الصَّبْرِ وَالْفَائِدَةِ الشُّوْرِ فَيَقُ  
رَأَى بِابِ الْمَلِكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ  
عَيْنٌ سَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا  
خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ يَنْقُطُ نَوْبُهُ الْحَسَنَاتِ  
وَالسَّيِّئَاتِ يَا قِيَّ الْمَحَادَثَةِ وَالْمَكَالِمَةِ  
وَالْمُحَالَسَةِ أَتَعْقِلُ هَذَا.

يَا عِمَّا قِيَّ يَا جَمَلَ الطَّاحُونِ  
يَا أَحْمَنُ أَنْتَ فِي قِيَامٍ وَقَعُودٍ بِلَا  
إِخْلَاصٍ تُصَلِّي لِلنَّاسِ وَتَصُومُ وَعَيْتُكَ  
إِلَى أَطْبَاقِ النَّاسِ وَإِلَى مَا فِي  
بُيُوتِهِمْ.

يَا خَارِجًا عَنِ الْأَنَامِ يَا مُبَدِّرًا  
عَنْ صِفَةِ الصِّدِّيقِ وَالرَّبَّانِيِّينَ أَمَا  
تَعْلَمُ إِنِّي كَبِيرُكُمْ وَمُنْشَأُكُمْ وَمَحْكُمُكُمْ  
أَجْهَدُ جَهْدًا لَكُمْ أَقْطَعُ طَبْعَكُمْ عَنِّي  
جَرَدُ سَيْفِكُمْ عَلَيَّ مَا أَنْتَ عَلَى شَيْءٍ  
يَا جُوَيْهَرُ فِي حَبْلِكَ أَفْضَلُ لَكَ  
أَنْصَحُ وَأَرْحَمُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَمُوتَ  
زَيْدِيًّا مَرَاتِيًّا دَجَالًا تُعَاقِبُ فِي قَبْرِكَ  
عُقُوبَةَ الْمُنَافِقِينَ فَقَصِّرْ مِمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ  
تَعَرَّالْبَسِ لِبَاسِ الشَّقَاوَى أَنْتَ  
عَنْقَرِيْبٌ مَيِّتٌ لَا عَدَاوَةَ بَيْنِي  
وَبَيْنَكَ سَتَدُكُرُ مَا أَقُولُ  
لَكَ الصَّلَاةُ تَنْجِيءُ مَا دُونَهُ

جالتے ہیں اس وقت وہ بادشاہی دروازہ پر شکرو مہر کے قدموں  
سے چلتا ہے اور توفیق الہی اس کی تائید (کیسے چنے والی) میں جاتی  
ہے وہ بادشاہ کی دروازہ پر پہنچ کر وہاں ایسا جلوہ دیکھتا ہے  
کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھا اور جو نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی ہنجر  
کے دل پر خطرہ بن کر گزرا نیکی و بدی کی نوبت منقطع ہو جاتی  
ہے اسے بات حیات کرنے اور ہم کلامی و ہنم نشینی کا مزہ حاصل  
ہو جاتا۔

اسے عراقی کیا تو اسے سمجھتا ہے اسے چکی کے اونٹ  
اسے احمق تو تو فیض غلام کے قیام و قعود میں مشغول ہے۔ تیری  
غماز و روزہ آدمیوں کے لیے ہوتا ہے اور تیری نگاہ آدمیوں  
کے طبقتوں اور ان کے گھر کی چیمڑوں کی طرف لگی  
ہوئی ہے۔

اے مخلوق سے علیحدہ ہونے والے اے صدیقوں  
اور اللہ والوں کی صف سے علیحدہ ہو جانے والے کیا تو  
یہ نہیں جانتا کہ میں تمہارا بڑا تمہارا چیرنے کا آرا تمہاری کسوٹی  
ہوں۔ تو اپنی کسی کوشش کو اپنا طبق مجھ سے جھین لے اپنی  
ننگی تلوار مجھ پر اٹھا۔ تو کسی چیز پر قائم نہیں ہے۔ نہ قابل اعتبار  
اے ادنیٰ سے ادنیٰ جاہل میں تیری رسیوں میں مضبوطی کے  
لیے بل دیتا ہوں۔ تیری خیر خواہی کرتا ہوں اور مہربانی کرتا ہوں  
بحقیق مجھے ڈر ہے کہ میں تو زندیق ریا کار دجال ہو کر نہ مرے۔  
تجھے تیری قبر میں منافقوں کا سزا عذاب دیا جائے پس تو جس حال  
میں مبتلا ہے اس کو حکم دے۔ تو ننگا ہو جا تو تقوا لے کا لباس  
پہن لے تو عنقریب مرنے والا ہے میرے اور تیرے  
درمیان میں کوئی عداوت نہیں ہے جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں  
عنقریب تو اسے یاد کرے گا۔ نیک ادنیٰ کی صورت اس۔

عَنْ حَالِهِ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ  
لِسَانُهُ نَطَقَ بِهِ اسْتَعْنَى بِهِ وَ  
اِقْتَفَرَ إِلَيْهِ كُنْتُ أَسْمَعُ فِي  
صَغُرِي وَ أَنَا فِي بَكْدِي قَائِلًا  
يَقُولُ لِي .

يَا مُبَارَكُ فَأَهْرُبُ مِنْ ذَلِكِ  
الصَّوْتِ وَإِنِّي لَا أَسْمَعُ فِي الْخُلُوعِ  
قَائِلًا يَقُولُ لِي إِنِّي أَرَاكَ بِخَيْرٍ .

إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ فَعَلَيْكَ  
يُمْلَأُ نَمَاتِي إِذَا سَأَيْتُ النَّسَاءَ يَهْرُبُ  
مِنِّي فَأَعْلَمُ أَنَّ مُنَافِقَ الْمُؤْمِنِ  
إِذَا غَمَصَ عَيْنِي رَأْسِهِ انْفَتَحَتْ  
عَيْنَا قَلْبِهِ سَأَلِي مَا هُنَا لَكَ وَإِذَا  
غَمَصَ عَيْنِي قَلْبِهِ انْفَتَحَتْ عَيْنَا  
سِرِّهِ سَأَلِي مَوْضِعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
وَنَصَارِيقَهُ فِي خَلْقِهِ فِيمَا خَاطَبَ  
اللَّهُ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي  
اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي  
وَبِكَلَامِي وَقَرَّبْتُكَ إِلَيَّ كُنْتُ يَوْمًا  
تَرَعِي عَنْمَا فَشَرَدْتُ مِنْهُمْ وَاحِدَةً  
فَبَتَعَتْهَا إِلَى أَنْ أَدْرَكْتُهَا وَتَدَا  
عَيْنِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيْكَ وَقُلْتُ  
لَقَدْ اتَّعَبْتَ نَفْسَكَ وَاتَّعَبْتَنِي  
دَوَاءَ الْمُحْجُوبِ النَّظَرُ فِي

کے حال سے خبر دیتی رہتی ہے جو کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے اس  
اُس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے وہ اُسی کی مدد سے بولتا ہے اُسی  
سے طالب غنا رہتا ہے اور اُسی کی طرف محتاج بنا رہتا ہے  
میں اپنے بچپن میں اپنے شہر میں ایک کسنے والے کی آواز کو  
سنا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا۔

اے مبارک اے مبارک۔ پس میں اُس آواز سے بھاگ  
کرتا تھا۔ اور تحقیق اب غلوت میں کسی کہنے والے کی آواز سنا  
کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہا کرتا ہے۔ میں تجھ کو بہتری  
میں پاتا ہوں۔

اے مخاطب اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے۔ پس تجھ پر  
میرے ساتھ رہنا لازم ہے جب میں کسی انسان کو اپنے سے  
بھاگتا ہوا پاتا ہوں پس میں یہ جان لیتا ہوں کہ تحقیق یہ منافق ہے  
ایمان دار جب اپنے سر کی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو اُس کے  
قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اُس کو باطنی تجلیاں نظر آنے  
لگتی ہیں۔ اور جب وہ اپنے قلب کی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے تو  
اُس کے باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پس اُس سے وہ مقام الہی  
اور مخلوق میں اُس کے تصرفات کا معائنہ کرنے لگتا ہے اُن  
چیزوں میں سے جس سے اللہ عزوجل نے مومنوں کو سلام  
سے خطاب فرمایا یہ بھی تھا کہ تحقیق میں نے تم کو اپنی رسالت و  
کلام کے ساتھ اور دوسرے آدمیوں پر برگزیدہ بنایا اور تم کو  
اپنے سے نزدیک کر لیا۔ ایک دن وہ تھا جو تم بکریاں چرا  
رہے۔ تھے پس اُن میں سے ایک بکری بھاگ گئی تم نے اُس  
کا پیچھا کیا یہاں تک کہ تم نے اُس کو پکڑ لیا حالانکہ تم تھک گئے تھے  
پس تم نے اُس کو اپنے سے چٹا لیا اور کہا کہ تو نے اپنے آپ  
کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکا دیا۔ محبوب کی دوا اپنے حجاب

کے سبب پر غور کرنا اور اُس سے توبہ کر لینا اور اُس کے ردِ پرو  
اقرار کرنا ہے۔ جو لوگ کہ ہر وجہ سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں اُن  
کے لیے راستہ میں تگ و پھل (یعنی تصرفات و اختیارات کا برتنا)  
نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ توحیدوں اور میدانوں اور دونوں  
بر یعنی بر خلق و بر نفس اور دونوں بحر یعنی دریا حکم اور دریا علم اور  
کنارا کو قطع نہ کرے تیرا کلام معتبر ہو گا اور یاد اللہ کے لیے نہ  
رات ہے اور نہ دن۔ اُن کا کھانا بیماریوں کا سا کھانا ہے اور  
اُن کا سونا ڈوبتے ہوؤں کا سامنا اور اُن کا کلام محض بضرورت  
ہوتا ہے۔ ہو کوئی اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اُس کی زبان گونگی  
ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خدا چاہتا ہے تو اسے نئی زندگی بخش  
دیتا ہے وہ بغیر آلات بغیر ترتیب بغیر مہلت بغیر سبب کے  
بولنے لگتا ہے۔ اُس کی زبان اور اُس کی انگلی میں کچھ فرق نہیں ہوتا  
ہے۔ کیونکہ اس حالت میں نہ حجاب ہوتا ہے اور نہ قیدیں اور  
نہ دروازہ اور نہ دربان اور نہ اذن اور نہ اجازت کا طلب کرنا اور  
نہ تولیت و تقریر اور نہ موقفی اور نہ شیطان اور نہ سلطان۔ نہ قلب  
اور نہ پورے۔ پھر ارشاد فرمایا جو آج غائب رہا اُس نے  
نقصان پایا تو کہہ دے کہ یہ پہلا اور دوسرا قدم رکھنے میں حاصل  
نہیں ہوتا ہے تو کہہ دے کہ اپنے خانہ وجود سے نکلتا پہلا قدم  
ہے اور دوسرا قدم نعمت الہی الحمد للہ رب العالمین  
ہے اور دروازہ پر کھڑے نابعدہ اُس کے دیدار کے وقت  
ایاک نعبد و ایاک نستعین (تیری ہی عبادت کرتے  
ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں) بعد دیدار کے واسجد  
و اقتراب (سجدہ کرنا اور قریب ہوجانا) تو نعمتوں کو غیر اللہ  
کی طرف نسبت نہ کر تو تو مشرک ہے تو نعمتوں کو اُس کے غیر  
کی طرف نسبت کر کے اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنے والا ہے

سَبَبِ حِجَابِهِ وَ التَّوْبَةِ عَنْهُ وَ  
الرَّدْعَانِ لَدَيْهِ الْمُعْصُومُونَ الْمُعْصُومُونَ  
الْمَحْفُوظُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَيْسَ لَهُمُ  
التَّكْوِينُ فِي الطَّرِيقِ كَلَامٌ حَتَّى تَقْطَعَ  
الْقِيَا فِي وَالْفِقَارِ الْبَرِّينَ وَالْبَحْرَيْنِ  
بِرَّ الْخَلْقِ وَبِرَّ النَّفْسِ بِحَوَالِكُمْ وَبِحَرِّ  
الْعِلْمِ وَالسَّاحِلِ لِلْقَوْمِ لَا كَيْلَ لَهُمْ  
وَلَا نَهَارًا أَكْلُهُمْ أَكْلُ الْمَرْضَى وَتَوَهُمُ  
تَوْهُمُ الْغُرْفِ وَ كَلَامُهُمْ عَنْ ضَرْوَةٍ  
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لِسَانِهِ  
لَكِنْ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ يَنْطِقُ بِلَا أَدْوَاتٍ  
بِلَا تَرْتِيبٍ بِلَا مُهْلَةٍ بِلَا عِلَّةٍ لَا فَرْقَ  
بَيْنَ لِسَانِهِ وَاصْبُوعِهِ إِذَا لَا حِجَابَ  
وَلَا قُيُودَ وَلَا بَابَ وَلَا بَوَابَ وَلَا  
إِذْنَ وَلَا إِسْتِيزَانَ وَلَا تَوَلِيَّةَ وَلَا  
عَزْلَ وَلَا شَيْطَانَ وَلَا سُلْطَانَ لَا  
جَنَانَ وَلَا بَنَانَ ثُمَّ قَالَ خَابَ مَنْ  
غَابَ الْيَوْمَ قُلْ لَا يَجِيئُ فِي أَوَّلِ الْخَطْوَةِ  
وَالثَّانِيَةِ قُلْ أَلَا وَ أَوَّلُ الْخُرُوجِ مِنْ  
بَيْتٍ وَجُودِكَ وَالثَّانِيَةِ هِيَ نِعْمَتُهُ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْوُقُوفُ  
عَنِ الْبَابِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  
عِنْدَ رُؤْيَاكَ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بَعْدَ  
رُؤْيَاكَ لَا تُضَعِفُ النِّعَةَ إِلَى غَيْرِهِ  
أَنْتَ مُشْرِكٌ أَنْتَ مُغَيِّرُ نِعَمِ اللَّهِ غَيْرُ

اس لیے اللہ نے جو نعمت کثیرے نفس کے لیے تھی اس کو بدل دیا۔ تو اپنی زنا رکھ کر اور کھڑا ہو کر آج تک کہ تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی اخلاص پیدا نہ کرے تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں۔

اے غلام اے چھوٹے بچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو نبوت حاصل ہوا آپ نے اس کو برسوں چھپایا بعض نے بعض کو کھلایا یہاں تک کہ آپ کو وحی پہنچی گئی کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے اور تو ذرا سی چیز دیکھتا ہے تو اس کو ظاہر کرتا پھرتا ہے۔ اور اس کو چھپاتا نہیں تیرے گھر میں آسمان پر سے کپڑوں کی گٹھری اڑی اور تیرے گھر کا دروازہ کھول دیا اور خریداروں کو بکار نے لگاؤ مجھے خرید کر دو، سو گنا ہے کہ وہ گٹھری پڑوسیوں کی بطور عاریت وامانت ہو چار چیزیں ہیں جن سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ اول لقمہ میں نظر کرنا (کہ حلال ہے یا حرام) دوسرے عبادت کے لیے فارغ البال ہونا تیسرے کرامت کی حفاظت جو کچھ حاصل ہو اس کی نگہبانی کرنا چوتھے ان چیزوں کا چھوڑ دینا جن کی تجھے خبر ہی نہیں۔ یہ امر کامل پر ہیز گاری اور استاذ الہی پر حاضری اور حفاظت دین کی بار بار طبی سے حاصل و درست ہوا کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے کھانے پینے میں ٹھہرا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث سے اجازت طلب کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے مولے عزوجل سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے مال پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے حکم سے حکم اور اس کی ممانعت سے ممانعت کرتا ہے اس کے علم سے علم عالم بنتا ہے اور اس کی بصر سے دیکھنے لگتا ہے۔ تم مرنے سے پہلے خدا سے تجدید عہد کرو عنقریب جب غبار ہٹ

اللَّهُ مَا يَنْفُسِكَ مِنْ نِعْمَةٍ إِنْ قَطَعْتُ  
رُتَابَكَ وَارْجِعْ لَا عِبْرَةَ يَظَاهِرُكَ  
حَتَّى يَتُوبَ بَاطِنُكَ وَتُخْلِصَ  
سِرِّيَّتَكَ۔

يَا غُلَامُ يَا عَلِيُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ مِنَ النَّبُوءَةِ  
كَتَمَهَا سِنِينَ أَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى  
قِيلَ لَهُ بَلِّغْ مَا أُتِيَكَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ  
تَرَى شَيْئًا تَظَاهِرُهُ وَلَا تَكْتُمُهُ وَقَعَتْ  
عَلَيْكَ رُزْمَةٌ ثِيَابٍ مِنْ سَمَاءِ  
دَارِكَ فَتَحَتَ بِأَبِكَ وَقُلْتَ لِشَرِّ  
مِثِّي لَعَلَّهَا لِلْجِيرَانِ عَامِيَّةٌ وَدِيْعَةٌ  
أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ مِنْهَا إِمْلَاحُ الْقَلْبِ  
الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي اللُّقْمَةِ وَالثَّانِي الْفَرَاغُ  
بِلِطَاعَةِ وَالثَّالِثُ حِمَايَةُ الْكِرَامَةِ وَ  
الرَّابِعَةُ تَرْكُ مَا يُشَدُّكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ آمَّا النَّظَرُ فِي اللُّقْمَةِ فَمَنْ عِنْدَكَ مِنْهُ  
خَبَرٌ لَنْتَمَا يَصِلُ لِهَذَا الْأَمْرِ بِالْوَرَعِ  
الشَّافِي وَالْوَقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
الْمُتَأَنِّي لَمْ يَحْفَظِ الدِّينَ الْمُؤْمِنُ  
يَقِفُ فِي أَكْلِهِ وَشَرِبِهِ يَطْلُبُ الْإِذْنَ مِنْ  
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَتَّى إِذَا اقْرَبَ مِنْ مَوْلَاهُ  
عَزَّ وَجَلَّ شَمَّ أَمْرِيَا مِرَّةً وَنَهَى يَنْهِيَهُ  
يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ يَبْصُرُ بِبَصَرِهِ جَدُّو الْعَهْدِ  
بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ سَوْفَ تَرَى إِذَا أَنْجَلِي

الْغُبَارُ

يَا بَطَّالَيْنِ يَا جَاهِلَيْنِ يَا عَافِلَيْنِ  
لَتَعْلَمَنَّ نَبَاكَ بَعْدَ حِينٍ ۝

سؤال۔ النَّفْسُ الْخَائِنَةُ كَيْفَ

يَفْتَوَاهَا فَاجَابَ جَاهِدُهَا حَتَّى تَمُوتَ  
ثُمَّ نَحْيِيهَا نَشْرًا اٰخِرَ فِقِيْهَةٍ عَلِيْمَةٍ  
مُّطَهَّرَةٍ يَفْلُقُ بَابَ شَهْوَاتِهَا وَلَذَائِهَا  
اِحْبِسْهَا عَنْ شَهْوَاتِهَا حَتَّى اِذَا ذُلِلَتْ  
رَجَعْتَ شَهْوَاتِهَا اِلَى كَسْرَةِ تَصْيِرِ قَلْبِكَ  
بِالنَّجَاهِ هَذِهِ الْقَوْمُ يَتَسَنُّوْنَ مَجِيئِي النَّبِيِّ  
نَوْمَ الْعِيَالِ لَا تَهْمُ مُكَلَّفُوْنَ مُحْتَمِلُوْنَ  
اَنْقَالَ الْعِيَالِ وَالْاَسْبَابِ مَعَ سُكُوْنٍ  
قُلُوْبِهِمْ اِلَى رَبِّهِمْ جَوَابًا حَمِيمًا تَتَحَوَّلُ  
فِي الْاَسْبَابِ اِذَا كُنْتَ مُتَقِيًّا قَبْلَ  
الْبَلَاءِ لَمْ تَرْجِعْ حِيْنَ الْبَلَاءِ اِلَّا  
اِلَيْهِ لَمْ تَرَلَهُ كَانِشْفَا اِلَّا هُوَ تَرَى الْخَيْرَ  
وَالشَّرَّ يَخْرُجَانِ مِنْ عِنْدِهِ وَالصَّرَّ وَالْثَقَمَ  
وَالْعَرَّةَ وَالذَّلَّ وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ

سؤال۔ مَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ مَنْ

لَمْ يَنْفَعَكَ لِحْظُهُ لَمْ يَنْفَعَكَ لَفْظُهُ  
قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْمٌ غَابَتِ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةُ عَنْ عُيُوْنِهِمْ وَعَنْ قُلُوْبِهِمْ  
وَسَرَّاقًا مَرَبِّهِمْ فَإِنْ لَحِظُوا لَفْظُ قَوْلِهِ  
إِذَا نَظَرَ الْوَلِيُّ إِلَى أَمْرٍ يَنْبَغِي

جلئے گا تم حقیقت کو معلوم کر لو گے۔

اے جھوٹا رے جاہل اے غافل البتہ تم اس کی خبر نہ پڑی  
دیر کے بعد معلوم کر لو گے۔

(سوال) خیانت والے نفس کے فتوے کا کیا اعتبار کیا  
جاوے جواباً ارشاد فرمایا تو نفس سے یہاں تک جہاد کر کہ وہ  
مر جائے پھر اس کو دوسری زندگی فقیر و عالم و مطہر بنا کر دے  
اس کی شہوتوں اور لذتوں کے دروازے بند ہو جائیں تو نفس کو  
اس کی شہوتوں سے یہاں تک روک کر وہ دبلا ہو جائے جب  
وہ دبلا ہو جائے گا اس کی خواہشیں ٹوٹ جائیں گی اور پھر وہ  
مجاہد کی وجہ سے اپنا قلب بن جائے گا۔ اولیاء اللہ رات کے  
آنے اور بال بچوں کے سو جانے کی آرزو کیا کرتے ہیں کیوں کہ  
وہ مکلف ہیں وہ بیویوں اور بچوں کے بوجھوں کو خدا کی طرف کون  
و قرب کی حالت میں اٹھانے والے ہیں ان کے اعضاء ظاہری  
بہیوں میں حرکت کرتے رہتے ہیں جب تو بلا سے پہلے متقی و  
پرمیزگار ہو جائے گا تو تیز ارجوح بلا کے وقت بھی اسی کی طرف  
ہو گا تو بلا کا دفع کرنے والا سوا اس کے کسی کو خیال نہ کرے گا  
تو غیر و شر دونوں کو اسی کے پاس سے آنا ہوا جانے گا۔ اور  
نقصان و نفع۔ عزت و ذلت امیری و فقر کو اسی کی طرف سے  
سمجھے گا۔

(سوال) بعض اہل اللہ کا جو یہ قول ہے کہ جس کی نظر تجھے  
فائدہ نہ دے اس کا کلام تجھے فائدہ نہ دے گا اس کے کیا  
معنی ہیں آپ نے جواباً ارشاد فرمایا۔ اولیاء اللہ کی آنکھوں  
اور دلوں سے دنیا و آخرت دونوں غائب ہو گئی ہیں اور انھوں  
نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ پس اگر وہ تجھے دیکھتے  
ہیں تجھے نفع پہنچاتے ہیں۔ ولی جب خشک زمین کو دیکھتا ہے۔

تو اس کو اللہ زندہ کر دیتا ہے اور اس میں سبزہ اگادیتا ہے یا جب یہودی و نصرانی کی طرف دیکھ لیتا ہے البتہ اللہ عزوجل ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اس لکڑی کی کرسی کے پایہ سے معاملہ کرتے رہتے ہیں اسے گلے لگاتے ہیں جواب دیا اس لیے کہ وہ مجھ سے قریب ہے اور بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ کسی کو خبر نہیں دیتی اور چغلخوری نہیں کرتی پس اسی واسطے میں اسے گلے لگاتا رہتا ہوں۔ سائل نے آپ سے کہا پس ہم آپ کے قلب کی طرف بہت زائد قریب ہیں جواب دیا۔

اے میرے بھائی تم ایسے جب کہوتے جب کہ تم اللہ سے ڈرتے اور تم اس کا دھیان رکھتے اور تم اس کا خوف کرتے اور تم اس کے طلب گار ہوتے اس حالت میں میں تمہارا خادم و دوستدار خود بن جاتا جب بندہ زہد کرتا ہے اور خدا کی طرف رجوع لاتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ دروازہ قرب کا کھول دیتا ہے اور اس کو اپنا قرب بخشتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا ہے جب وہ علم پر خبردار ہونے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس کو ہر قسم کا علم دے دیتا ہے اور اس پر خبردار ہونے سے گمنامی و خموشی اور خوف الہی سے ڈبلا ہو جاتا ہے۔ اور مجاہدہ نفس کرنا حسن ادب میں سے ہے۔ ادیان اللہ مکارم الہیہ کو اپنے اعضا اور قلوب اور بواطن و خلوات سے ظاہر کیا کرتے ہیں پس اللہ کے نزدیک وہ متقی و کریم ہو جاتے ہیں۔ تمہارا معبود تو درہم و دینار ہے۔ جب تم میں سے کسی کے پاس سے وہ جاتا رہتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور اس کی جمعہ و جماعت فوت ہونے لگتی ہے

أَحْيَاهَا اللَّهُ وَأَبْنَاهَا أَوْ يَهْودِيٍّ أَوْ  
نَصْرَانِيٍّ لَهَذَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ  
لَهُ قَائِلٌ لَمْ تَزَلْ تُعَانِقُ هَذِهِ  
الْخَشَبَةَ وَهِيَ رُمَانَةٌ الْكُرْمِيِّ فَقَالَ  
لَا تَهْمَا قَرِيبَةٌ مِنِّي وَتَرَامِي أَشْيَاءُ  
وَلَا تُخْبِرُ وَلَا تَنْمُ فَبَذَلَكَ أَعَانِقَهَا  
فَعَالَ لَهُ فَتَحَنَّنَ أَقْرَبُ إِلَى قَلْبِكَ قَالَ  
يَا ابْنَ دَايَتِي إِنَّمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ إِذَا  
اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَأَيْتُمُوهُ وَ  
خَفَعْتُمُوهُ وَطَلَبْتُمُوهُ كُنْتُمْ أَكُونُ  
خَادِمًا لَكُمْ مُحِبًّا إِذَا نَهَكَ الْعَبْدُ  
وَتَرَا جَمَعَ وَتَجَاهَدَ فَتَحَهُ اللَّهُ  
تَعَالَى وَفَرَّ بِهِ وَأَدْنَاهُ  
إِذَا أَعْمَضَ عَنِ الْإِطْلَافِ  
عَلَى الْعِلْمِ أَسَاهُ الْعِلْمُ وَأَظْلَعَهُ  
الْإِحْسَانُ وَالذُّبُولُ وَالتَّجَاهُدُ  
مِنْ حُسْنِ الْأَذْبِ الْقَوْمُ نَطَقُوا  
بِجَوَارِحِهِمْ وَفُكْرِيهِمْ وَسَرَائِرِهِمْ  
وَأَخْلَوْا إِلَهُهُمْ مِنْ مَكَارِمِ مَرِيَّتِهِمْ  
صَامُوا وَأَتَّقِيَاءَ صَارُوا كَرَمَاءَ  
عِنْدَهُ مَعْبُودٌ أَحَدَكُمْ  
وَمَرَاهِمُهُ وَدِينَاهُمْ إِذَا  
ذَهَبَ عَنْهُ فَامَتْ  
قِيَامَتُهُ وَتَفُوتُهُ  
صَلَاةُ جُمُعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ

لَا يُبَالِي أَوْ يَمُوتُ لَهُ وَلَكَ فَاسِقٌ  
فَاجِرٌ يَكْثُرُ جَزَعُهُ وَ يَطْدُبُ  
الْإِسْتِينَاسَ بِأَخْذِ الْخَلْقِ وَالْمَلَايِكَةِ  
مَعَهُ لَا يَسْتَأْنِسُ بِهِمُ الْعَبْدُ إِذَا صَفَا  
قَلْبُهُ اسْتَأْنَسَ بِالْمَلَايِكَةِ وَ قَدْ  
يُحَدِّثُهُ فِي خَلْقِهِ

يَا غَائِبًا عَنِ الْحَقِّ يَا غَائِبًا عَنِ  
الدِّينِ وَالشَّرْعِ يَا قَائِمًا مَعَ الدُّنْيَا  
وَالنَّفْسِ وَالطَّبْعِ يَا عَايِدَ الْخَلْقِ  
يَا نَاسِيَ الْحَقِّ لَا بُدَّ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ  
تَعَالَى إِنَّهُ أَلَانَ أَسْرَكَ الْخَلْقِ وَ  
النَّفْسِ وَ قَدْ آمَنَتْ الْحَقِّ إِنَّهُ سَوَى  
الْعِلْمِ لَهُ بَاطِلٌ سَوَى ذِكْرِهِ بَاطِلٌ كُلُّ  
مُعَا مَلِكَةٍ يَغْيِرُهُ حَاسِرَةً طَالِبِ الدُّنْيَا  
كَثِيرٌ وَ طَالِبِ الْآخِرَةِ قَلِيلٌ وَ طَالِبِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَ جَلَّ قَلِيلٌ مِّنْ قَلِيلٍ أَنْتَ مَعَ دُنْيَاكَ  
كَلِيلًا وَ تَهَارَاتِ اسْتَحْدِ مَلِكٌ وَ تَقْطَعُكَ نَحْنُ  
نَسْتَحْدِ هُمْهَا وَ مَا نَتَقَلَّبُ فِيهَا

فَكَيْفَ أَنْتَ يَا مُدْبِرُ لَا بُدَّ فِيهَا  
بَيِّدِ الشَّرْعَ وَالْعِلْمَ مَا يُفْتِيَا نِيَاكَ بِهِ  
خُذْ وَ مَا لَمْ يُفْتِيَاكَ بِهِ فَا مُتَنِعْ  
مَا تَحْسِبُ تَنَاجَى رَبِّكَ تَوَقَّفْ عِنْدَ  
بَيْعِكَ وَ شَرَايِكَ وَ لَقَمَتِكَ وَ  
أَخْذِكَ وَ عَطَايِكَ وَ كَلِمَتِكَ  
مَا كَانَ لِلَّهِ فَا نَتَمِّدُكَ

وہ اُس کی پروا بھی نہیں کرتا ہے۔ یا کسی کا فاسق و فاجر بیٹا مارجاتا  
ہے تو کثرت سے جزع فزع کرتا ہے اور مخلوق سے اُس  
طلب کرتا ہے حالانکہ فرشتہ اُس کے ساتھ رہتے ہیں وہ  
اُن سے اُس نہیں پکڑتا۔ بندہ کا جب قلب صاف ہو جاتا ہے۔  
وہ فرشتوں سے انوس ہو جاتا ہے اور وہ غلوٹ میں اُس سے  
ہم کلام ہوتا ہے۔

اے حق اور دین اور شریعت مقدسہ سے غفلت کرنے  
والے۔ اے دنیا و نفس و طبیعت کے ساتھ قائم رہنے والے  
اے خلق کے بیماری اے حق عزوجل کے بھول جانے والے  
تیرے لئے اللہ عزوجل سے ملاقات کرنا ضروری ہے تعالیٰ شانہ  
تو اُس سے ابھی ملے تو خلق و نفس کو چھوڑ دے۔ بہ تحقیق تو اس  
پائے گا۔ حق یہ ہے کہ خدا کے علم و ذکر کے سوا ہر چیز باطل و غیب  
ہر معاملہ جو کہ غیر اللہ کے واسطے کیا جاوے ٹوٹے و نقصان والا  
ہے۔ دنیا کے طلب گار بہت ہیں اور آخرت کے طلب گار کم  
اور حق کے طلب گار تو بہت ہی کم کم سے بھی کم ہیں تو رات دن  
اپنی دنیا کے ساتھ رہتا ہے وہ تجھ سے خدمت لیتی ہے اور  
وہ تجھ سے قطع کر لیتی ہے۔ ہم اُس سے خدمت لیتے ہیں  
اور اُس میں ہم تو جہ نہیں کرتے۔

پس اے بد نصیب تیری کیا حالت ہے۔ دنیا میں تیرے  
یہ شریعت و علم کے ہاتھ سے حصہ کا لینا ضروری ہے جو کچھ  
وہ دونوں فتولے دیں اُس کے مطابق لے اور جس کا وہ دونوں  
تجھے فتولے نہ دیں پس تو اُس سے باز رہ۔ تو اپنے رب تعالیٰ  
سے اچھی طور پر راز و نیاز کا طریقہ ہی نہیں جانتا ہے تو اپنی  
خرید و فروخت اور خورد و نوش اور اپنے دین میں اور گفتگو کے  
وقت تو قف کیا کر۔ جو کچھ کہ اللہ کے واسطے ہو پس اُس کو نصیبت

وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مَا نَتَه عَنْهُ إِذَا  
غَلَبَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَ التَّمَيُّزُ بَيْنَ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَ  
النَّمْعِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ لَامَتْ لَأَمُّ  
قَلْبِهِ مِنْ حُبِّهِ إِتَّحَدَ خَيْرٌ مُحِبُّوهُ  
وَسُرُّهُ إِتَّحَدَتْ أَبْوَابُهُ وَجَهَاتُهُ  
الْحُبُّ جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ لِتَحَدُّ  
النَّخْبِ وَالْإِعْيَانِ السُّرُّ وَالنَّمْعُ أَبَدًا  
قَلْبُهُ فِي وَجْدِهِ قَائِمَةٌ بِحُجْدِ بَذَرِ  
اللَّهِ جَلَالًا وَأُخْرَى بِذِكْرِ اللَّهِ لَهُ  
جَمَالًا نَهَارُهُ دَاهِشٌ كُلَّمَا قَرُبَ  
إِلَيْهِ بَعْدَ كُنَّاسٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهَا بَعْدَتْ حَتَّى انْتَهَى  
إِلَى إِيَّيْ أَنَا اللَّهُ هَكَذَا الْقَلْبُ يَذِي  
أَنْوَارَ الْقَرِيبِ كُلَّمَا تَقَدَّمَ بَعْدَتْ  
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ انْقِطَاعُ  
الْخَطَرَاتِ أَجَلُهُ يَنْقَلِبُ الْإِمَامُ  
يَصِيرُ الطَّالِبُ مَطْلُوبًا وَالْقَاصِدُ  
مَقْصُودًا وَالْمُرِيدُ مَرَادًا أَجْزَبَةً  
مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ  
الثَّقَلَيْنِ يَذِي عَبْدُهُ خَائِرًا مِنْ  
بَيْتِ طَبْعِهِ وَشَهْوَتِهِ وَهَوَاهُ  
مُؤَدِّيًا لِلْخَلْقِ وَتَأْمِينًا  
لِلشَّهَوَاتِ طَالِبًا لَهُ  
مَتَغَيِّرًا يَفْتَوِمُ وَيَقْعُدُ

سمجھا کر اور جو کچھ کہ غیر اللہ کے واسطے ہو تو اُس سے بچا کر جیب  
محبت غالب ہوتی ہے دنیا و آخرت میں دین قبول و رد کرنے  
کے درمیان میں تمیز کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ محب کا قلب محبوب  
کی محبت سے پُر ہو جاتا ہے اُس کی بھلائی و برائی ایک ہو  
جاتی ہے۔ اور اُس کے دروازے اور چھتیں متحد ہو جاتی  
ہیں۔ محبت اُن کے درمیان میں جمع کر دیتی ہے تفرق کو اٹھا دیتی  
ہے۔ خبر و مشاہدہ نقصان و نفع یکساں و

برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے قلب سے وجد میں رہتا ہے  
کبھی اُس کا وجد ذکر بھلائی میں ہوتا ہے اور کبھی ذکر جمالی میں غرض  
ہر دم مولے کی یاد سے مزے لیتا رہتا ہے۔ اُس کا تمام دن  
مدہوشی میں گزرتا ہے جیسے جیسے یہ اُس کی طرف قریب ہوتا ہے  
وہ اس سے دوری کرتا ہے جیسے جیسے مولے علیہ السلام کی طور والی  
اگل جوں جوں یہ اُس سے قریب ہوتے گئے وہ اُن سے دور  
ہوتی گئی یہاں تک کہ مولے علیہ السلام صداداتی انا اللہ کا طرف  
داخل ہو گئے (میں ہی تو اللہ ہوں) یہی قلب کا حال ہے وہ قریب  
کے نوروں کو دیکھتا ہے جب آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ نور  
دور ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ نوشتہ امر اپنی میعاد پر  
پہنچ جاتا ہے خطروں کا منقطع ہو جانا اس مقام کی انتہائی مدت  
ہے یہاں پر پہنچ کر معاطر برکس ہو جاتا ہے طالب مطلوب  
اور قاصد مقصود اور مرید مراد بن جاتا ہے۔ اللہ عزوجل کے  
جذبات میں سے ایک جذبہ دونوں جہان کے عمل سے  
بہتر ہے وہ اپنے بندہ کو اپنی طبیعت و شہوت و خواہش کے  
گھر سے باہر اور خلق کو رخصت کر دینے والا اور شہوتوں کو چھوڑ  
دینے والا اپنا طالب ایک حالت پر قائم نہ رہنے والا  
ملاحظہ کرتا ہے کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا

لَا تَزَادُ وَلَا تَحِلُّ وَلَا رَفِيقٌ  
يُؤَاحِلُ الصَّبِيَّ بِالظَّلَامِ صَبِيًّا  
وَصَلَوَةً وَمُجَاهِدَةً بَيْنَهُ هُوَ عَلَى  
ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ عَلَى بَابِ قَرْبِهِ  
فِي حُجْرٍ لَطِيفٍ عَلَى مَا عِدَّةٍ وَفَضْلِهِ  
نَاطِقٍ إِلَى سَابِقَتِهِ تَحِبُّ الْعَالِي وَانْتِ فِي  
النَّحْوِ نَحِبُ الْجَنَّةِ وَلَا تَعْمَلُ عَمَلَهَا  
قَالَ بَعْضُهُمْ رَحِيسُ نَفْسِكَ عَنِ  
الْمَلُوفَاتِ لَا تَأْكُلُ بِطَبْعِهِ وَلَا تَتَنَاوَلُ  
لُقْمَةً إِلَّا بِتَوْقِيعٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَتَنَاوَلُ  
دَوَاغًا إِلَّا بِأَمْرِهِ يَتَقَلَّبُ مَرَّاجُهُ بِمَا يَخْرُجُ  
عَنْ كُتُبِ الْقَلْبِ وَفَتَوَاهُمُ وَهُوَ يَتَوَلَّى  
الصَّالِحِينَ وَطَبِيبُهُ الْمَحْبُوبُ فِي بَيْتِهِ  
هُوَ يَتَوَلَّى أَغْدِيَّتَهُ وَمَشْرُوبَاتِهِ شَمَّةٌ  
صَوْرُهُ صَرْحُهُ عَظِيمُهُ وَقَامٌ يَمِيلُ تَارَةً  
عَنْ يَمِينِهِ وَتَارَةً عَنْ شِمَالِهِ وَدَفْعٌ يَدِيهِ  
إِلَى السَّمَاءِ مُتَسِيرًا بِالسَّلِيمِ وَكَذَلِكَ  
أَوَّلُ آخِرِ مَجْلِسِهِ شَمَّةٌ قَالَ وَاحْرِيقَاهُ وَ  
أُحْيِيَنَّاهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ لِلدُّعَاءِ  
وَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ عَادَ وَ  
قَامَ يَتَلَوُّنَ وَجْهَهُ تَارَةً صَفْرَةً وَ  
تَارَةً حُمْرَةً الْقَلْبُ إِذَا ارْتَفَعَ عَنِ  
الدُّنْيَا وَصَارَ ضَرِيعَتِ قَرِيبِ الْحَقِّ تَأْتِي  
الْعِصْمَةُ مِنَ الْخَلْقِ فِي الْجُمْلَةِ مِنَ الْعَرْشِ  
إِلَى الثَّرَى كَانَ الْخَلْقُ لَمْ يَخْلُقُوا كَانَ اللَّهُ

ہے نہ اس کے پاس تو شہ ہے اور نہ سواری اور نہ ساتھی دن کو رات  
سے روزہ اور نماز اور مجاہدوں سے ملتا رہتا ہے ناگاہ وہ اپنی اسی  
حالت میں ہوتا ہے کہ دفعۃً اپنے آپ کو بندہ ترب الہی کے  
دروازہ پر لطف خداوندی کی آغوش میں اس کے فضل کے دست خوان پر  
اپنے سابقہ تقدیر کی طرف متوجہ پاتا ہے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے  
تیری خواہش بلدی کی ہے اور تو تحت الشریٰ میں پڑا ہوا ہے توجہ  
کو دوست رکھتا ہے لیکن تو اس کے سے عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک  
بزرگ کا قول ہے کہ تو اپنے نفس کو مرغ چیزوں سے روک لے  
نہ تو اپنی خواہش طبع سے کچھ کھا اور نہ ایک لقمہ اٹھایاں تک کہ فرمان  
نشاہی ملے اور نہ تو بغیر اس کے حکم کے کسی دوا کا استعمال کر بغیر اس کے  
قلب کا مزاج غلات کتب طب اور طبیبوں کے فتوے کے بوجھے  
گا۔ ارشاد الہی ہے وهو يتولى الصالحين وہ نیک بندوں کا  
خود کار ساز ہے اس کا محبوب طبیب اس کے گھر کے اندر موجود ہے  
وہ اس کی غذاؤں اور شرابوں کا نگران کار ہے یہ فرما کر آپ نے  
ایک بڑی پیچ ماری اور کھڑے ہو گئے آپ کبھی دائیں طرف اور  
کبھی بائیں طرف جھک جاتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان  
کی طرف تسلیم و رضا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹھادیئے تھے۔  
آخر مجلس تک آپ کی یہی حالت رہی پھر فرمایا اے سوزش نا ملے  
تمہارے لیے اس کی مصیبت۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے  
پھیلا دیئے اور دعا کے واسطے بیٹھ گئے اور کلام نہ کیا بعد اسی  
اول حالت میں آپ پھر کھڑے ہو گئے آپ کے چہرہ کانگ متغیر  
ہو رہا تھا کبھی زرد پڑتا تھا اور کبھی سرخ۔ قلب جب دنیا سے  
اٹھ جاتا ہے اور قرب الہی کا مہمان بن جاتا ہے تو مخلوق کی طرف  
سے فی الجملہ اس کو عصمت حاصل ہو جاتی ہے عرش سے لے کر زمین  
تک گویا مخلوق کے نزدیک پیدا ہی نہ ہوئی۔ گویا اللہ نے اس کے

مَا أَحَدَتْ شَيْئًا كَانَ اللَّهُ مَا أَحَدَتْ  
 شَيْئًا كَانَ لَا خَلْقَ غَيْرُهُ يَعْنِي صَاحِبُ  
 هَذَا الْقَلْبِ الْمُوصُوفِ وَاحِدٌ لِيَا حِدِ  
 مُحِبٌّ وَمَحْبُوبٌ طَالِبٌ وَمَطْلُوبٌ ذَاكِرٌ  
 وَمَذْكُورٌ لَا يَرَى غَيْرَهُ وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ جَاءَ فِي خَبَرٍ فِيهِمَا يَكُونُ مِنْ بَلَاءٍ  
 يَأْتِي هَذِهِ الْبَكْدَةَ شَقَّةٌ دَعَا لَا هِلَ  
 الْبَكْدَةَ بِالْأَفْعِ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ كَالْمِذَلِّ  
 لَعَنَهُمُ أَنْ فِي هَذِهِ الْبَكْدَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ  
 الْقَتْلَ وَالصَّدْبَ وَلَكِنْ لَعْنُ تَكْرُمُ الْفَعْلِ  
 عَيْنِ تَهْلِكُنَا بِهِمْ تَأْخُذُنَا بِذُنُوبِهِمْ أَلَيْسَ عَيْلَنَا  
 نَحْنُ يَقُولُ ذَلِكَ بِكَلَامٍ مُعْصِبٍ جَعَلَتِ الصَّدِيقُ  
 وَالْعَدُوُّ فِي كَيْدِ الْقَدَرِ ذَابَا صَارَ سَبِيكَةً وَاحِدَةً  
 لَا تَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ الْكِرَامَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ  
 تَكُنْ هُوَ لَا إِيَّاهُ أَنْتَ لَا تَزَاجِرُ الْأَنْبِيَاءَ فِي  
 الْمُعْجَزَاتِ وَالْأَوْلِيَاءَ عَنِ الْكِرَامَاتِ  
 أَنْ أَرَادَتْ قُرْبَ الْحَقِّ وَصَحْبَتَهُ إِذَا  
 دَامَتِ الصُّحْبَةُ لَقَمَكَ شَيْئًا أَكَلْتَ  
 كَسَاءَ شَيْئًا لَيْسَتْ تَمَيِّزُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ  
 حِجَابٌ وَرَدُّهَا بَعْدَ مَجِيئِهَا حِجَابٌ  
 الْأَوْلِيَاءُ إِذَا سَلَكَ بِهِمْ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ  
 وَجَلَّ يَخْدُمُهُمُ الْجَنُّ وَالْإِنْسُ وَالْمَلَكُ  
 أَيْنَمَا سَقَطُوا لَقَطُوا حَتَّى يَبْلُغُوا  
 حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُمْ وَهُمْ الدُّنْيَا وَ  
 التَّوَجُّدُ يَخْدُمُهُمُ اللَّطْفُ هُنَا لَكَ

سو کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اُس کے سوا کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ یعنی  
 ایسے قلب والا جس کا ذکر کیا گیا واحد (یعنی خداوند عالم) کے لیے  
 واحد ایک ہی ہے وہی محب و محبوب طالب و مطلوب ذاکر و  
 مذکور ہے اُس کی غیر پر نظر ہی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد  
 فرمایا اس شہر میں جو بلا آنے والی ہے اُس کی مجھے خبر لگئی ہے۔  
 بعد اُس کے دن کی شہر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ پھر انکار و عاجزی  
 کے ساتھ فرمایا کہ قسم ہے اپنی جان کی کہ تحقیق اس شہر میں ایسے لوگ  
 ہیں جو کہ قتل اور سولی پر چڑھا ئے جانے کے مستحق ہیں اور لیکن ایک  
 آنکھ کے واسطے ہزار آنکھوں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو میں اُن کے  
 گناہوں سے ہلاک کرے گا اور پکڑے گا ہم نے کیا کیا ہے۔  
 آپ یہ کلام غصہ و غضب کے ساتھ فرما رہے تھے۔ دوست اور  
 دشمن دونوں کو تقدیر کی بٹھی میں ڈال کر کچلا کر الیا کر دیا کہ دونوں  
 ایک ڈلی بن گئے۔

اے مخاطب تو کرامتوں اور معجزوں میں سے کسی چیز کو  
 طلب نہ کر، تو بھول گئے ہی تو انبیاء کرام سے اُن کے معجزوں میں  
 اور اولیاء سے اُن کی کرامتوں میں مزاحمت نہ کیا کر۔ اگر تیرا مقصود  
 قرب و صحبت الہی ہے سکوت اختیار کر۔ جب تو اُس کی صحبت  
 میں مداومت کرے گا تو وہ تجھے جو کچھ کھانا دے اُسے کھا لینا  
 تجھے جو کچھ پہنائے اُسے پہن لینا۔ ان چیزوں کی تمنا کرنا حجاب  
 ہے اور اُجانبانے کے بعد اُن کا واپس کرنا قبول نہ کرنا حجاب  
 ہے۔ اولیاء اللہ جب حق عزوجل کی طرف چلائے جاتے  
 ہیں جن و انسان اور فرشتہ سب اُن کے خادم بن جاتے ہیں۔  
 جہاں کہیں وہ گرتے ہیں اُٹھا لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ  
 منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں یہاں تک کہ اُن سے دنیا اور وجود  
 کے شعلہ و کوشش سب دور ہو جاتی ہے۔ لطفت الہی اور ناز و نیاز

وَالَّذِينَ لَا يُحِثُّ اِذْ ذُنُوبُهُمْ يَالِئِذَا هُوَ اِلَى  
 دَارِ الْمَرْبِ صَدَّ مِنْهُمْ اَفْئَاتُ  
 الْجَدَلِ يَتَذَوَّبُ عَنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ  
 مِنَ الْجُودِ هُمْ يُحْبَسُ عَنْهُ فَنُفُوهُمُ  
 الظَّاهِرِ وَطَعَامُ الظَّاهِرِ وَلِبَاسُهُ  
 وَعَافِيَتُهُ يَبْقَى الْقَلْبُ مُجَوَّدًا مَعَ  
 السِّرِّ الصَّارِفِ تَعَدَّم لَهَا طَعَامُ  
 الْفَضْلِ وَشَرَابُ الْاَنْسِ تَابَهُ الْكِرَامَةُ  
 لِبَاسُ الْمَيْتَةِ يُلْفَتُهُ الْعِلْمُ الدُّنْيَى وَ  
 الْحِكْمَةُ شَمَّ يَحْمِلُهُمُ الْمَلِكُ  
 اَسْمَاءُ هُمْ يَحْمِلُهُمْ نِعْمَةُ السَّابِقَةِ  
 وَالْاَيْفَةُ وَبَسْتَكْبَهُمْ جَمِيعُ ذَلِكَ  
 وَيَرُدُّهُمْ اِلَى الْوُجُودِ لِاصْلَاحِهِمْ  
 وَهَذَا اِيْتِيهِمْ وَدَلَّيْتِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ  
 ثُمَّ يَمْكِنُ قُلُوبَهُمْ مِنَ التَّكْوِينِ  
 وَالْاِسْتِنْتَهُمْ مِنَ السُّؤَالِ وَالِدُّعَاءِ  
 مَعَ الْاِجَابَةِ هَذَا الْخَوَالِ الْمَكَانِ زَمَانِ  
 التَّفَاقُ عَجَبٌ دَائِمٌ وَكَمَرٌ دَائِمٌ وَ  
 حِجَابُ الْعَجَبِ يُسَوِّطُكَ مِنْ عَيْنِ  
 الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا هُنَا صِدْدَانِ  
 عَنِ الطَّرِيقِ حَاجِبَانِ قُبْلَكَ لِأَنَّ  
 قَالَ قَالَ مَا التَّفَاقُ لِنَجْتَنِبَهُ قِيلَ  
 لَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الْمُنَافِقُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا  
 حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اُمِّنَ خَانَ

وہاں اُن کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اُن کو دارقرب  
 میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تو جلال کی آفتیں اُن کو اکڑ  
 گھیرتی ہیں تاکہ اُن سے اُن کے نفس اور جو کچھ کہ اُن کے وجود سے  
 باقی رہا ہے سب چیزیں فنا ہو جائیں۔ اُن سے فتوح ظاہری اور  
 طعام ظاہری اور لباس اور صحت و آرام سب روک لیا جاتا ہے۔  
 صرف سنا قلب صاف باطن کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اُس  
 وقت اُن کے اُگے فضل کا کھانا اور اُس کی شراب اور کرامت کا  
 سماج اور احسان کا لباس بڑھایا جاتا ہے اُن کو علم لدنی اور حکمت  
 کی غذا دی جاتی ہے پھر بادشاہ حقیقی اُن کو اُن کے نام بتاتا ہے  
 اور اپنی پچھلی اور موجودہ نعمتوں سے آشنا کر دیتا ہے اور اُن سب  
 سے اُن کو واقف کار کر دیتا ہے بعدہ مخلوق کی ہدایت و اصلاح  
 اور اُن کی رہنمائی و سفارت کے لیے اُن حضرات کو وجود کی طرف  
 لوٹا دیتا ہے تاکہ وہ انتظام عام کریں پھر رب تعالیٰ اُن کے قلوب  
 کو مرتبہ تکوین سے فائز کر دیتا ہے اور اُن کی زبانوں کو سوال و  
 دعا کی قبولیت کے ساتھ قوت بخشنا ہے۔ یہ تو آخر زمان نفاق  
 کا زمانہ ہے اب تو عجب و غرور دائمی ہے اور کفر دائمی ہے  
 اور غرور کا حجاب تجھے رب عز و جل کی آنکھ سے گرا دے گا۔  
 تو بے قدر ہو جائے گا یہ دونوں ضد ہیں یہی جو کہ اللہ کے راستہ  
 سے تیرے قلب کو روکنے والی ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نفاق  
 کیا چیز ہے تاکہ ہم اُس سے بچیں اُس سے کہا جائے گا کہ  
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ منافق جب  
 وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب بات چیت کرتا ہے  
 جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جاتی  
 ہے خیانت کرتا ہے۔ ایمان والا جب تک کہ اپنی جائے کونست  
 کو معلوم نہیں کر لیتا ہے اور اپنے اُس لقب کو جو کہ عالم ملکوت

میں ہے نہیں سن لیتا ہے دُاس کو لباس اچھا معلوم ہوتا ہے نہ نکاح نہ کسی طرح کی خوشی دُاس کو اس ہوتی ہے اور نہ قرار یہاں تک کہ وہ اپنے سابقہ تقدیر کو اور اپنے نام کو غلط میں سن لیتا ہے وہ تقدیر اور فرشتوں پر اعتماد کر کے میدانوں اور جنگوں میں سو جاتا ہے وہ اپنی حالت کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے لقب کو سن لیتا ہے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ کون ہے اس کے جواب میں بعض فرشتے بعض سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں محبوب اور دوست ہے۔ چالیس ابدال میں سے ایک بدل ہے یا سات غوثوں میں سے ایک غوث ہے یا تین قطبوں میں سے ایک قطب ہے۔ اس کا ایسا مرتبہ ہے یہ مرتبہ ہے اور ایسا مرتبہ ہے۔ تقدیر الہی اس کو دُاسیں بائیں کوٹیں دلاتی رہتی ہے۔ تقدیر بھی اس کے پہلو بدلواتی رہتی ہے اور اُس کو غذا پہنچاتی ہے۔ اور اللہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے اُس اس کے قلب کی جانب سے اُس کو بات چیت آتی ہے۔ اُس سے کہا جاتا ہے اپنے گھر کی طرف لوٹ اپنے خزانہ کی حفاظت کر۔ اپنے نفس و لقب کو چھپا اُس کو ایسا گردانے لے گیا کہ وہ خواب میں تھا تیرا قلب و باطن اُس کی طرف ترقی کر رہا ہے اور کوئی کہنے والا موجود نہیں ہے۔

اے مخاطب تو شریعت کے مدرسہ میں بیٹھ پھر علم کے مدرسہ میں سو جایاں تک کہ تو بالغ ہو جائے اور تیرا بچپن جاتا رہے۔ اس وقت وہی تجھے کپڑا پہنائے گا۔ اور وہی تجھے کھانا کھلائے گا تیرا ارادہ تو یہ ہے اور تو طبیعت اور خواہش اور شہوت سے مجھرا ہوا ہے تو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے خرید و فروخت اور کھانے پینے اور نکاح کے دھیان و خیال میں اپنے قلب سے دوسرے کے ساتھ لگا رہتا ہے سوال کیا گیا اس کی دوا کیا ہے ارشاد فرمایا اپنے لقمہ کو غذا کو

الْمُؤْمِنُ لَا لِبَاسَ لَهُ وَلَا زِينَةَ لَهُ وَلَا سُرُورَ لَهُ وَلَا أَمَنَ لَهُ وَلَا قَرَارَ لَهُ حَتَّى يَرَى مَوْضِعَهُ وَيَسْمَعَ لِقَبَهُ حَتَّى يَرَى سَابِقَتَهُ وَرَاسَتَهُ فِي خَلْقَتِهِ يَتَنَاقَشُ فِي الْبَرَابَرِ وَالصَّحَابِ عَلَى الْقَدْرِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ يَرَى حَالَتَهُ وَيَسْمَعُ لِقَبَهُ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ مَنْ هَذَا أَقِيضُوا بَعْضُهَا لِبَعْضٍ هَذَا فُلَانٌ وَالْمُحِبُّوبُ الصَّدِيقُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعِينَ أَمْرٍ سَبْعَةٍ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَهُ كَذَلِكَ كَذَا لَهُ وَالْقَدْرُ يَقْبَلُهُ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشِّمَالِ الْقَدْرُ يَقْبَلُهُ وَيَلْقِيهِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَأَيْهِمْ مُحِيطٌ يَا تَبِيَهُ الْحَدِيثُ مَنْ قَبِلَ قَلْبَهُ يُقَالُ لَهُ ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ احْفَظْ كَنْزَكَ أَلَتُمْ نَفْسَكَ وَلَقَبَكَ اجْعَلْهُ كَانَهُ كَانَ مِنْمَا يَسْمُوا قَلْبَكَ وَسِرِّكَ إِلَيْهِ وَقَالَ عَلِيٌّ لَا أَقْعُدُ فِي كِتَابِ الْحُكْمِ ثُمَّ نَزَلَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حَتَّى تَبْلُغَ وَيَزُودُ صِبَاكَ حِينَئِذٍ يَكْسُوكَ وَيُطْعِمُكَ تُرِيدُ هَذَا وَأَنْتَ مُمْتَلِئٌ طَبْعًا وَهَوًى وَهَوًى أَنْتَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ بَعَثَ وَاهْتَرَيْتَ وَأَكَلْتَ وَشَرِبْتَ وَنَكَحْتَ بِقَلْبِكَ يَوْسُوسَتِكَ قِيلَ لَهُ مَا دَأَاءُ ذَلِكَ قَالَ تَصَفِيهِ لِقَمَّتِكَ

مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبُهَةِ وَاللَّذِّ وَأَعِ الثَّانِي  
مُتَحَالِفَهُ النَّفْسُ فِيهِمَا تَأْمُرُكَ بِهِ  
مِنْ أَرْتِكَابِ الْمَنَاقِبِ إِذَا أَرَزَعَبَ الْعَبْدُ  
مِنْ كَلِمَةٍ تُلْقَى فِي قَلْبِهِ وَقَلْبُ أَصْنِيفَ  
إِلَيْهَا أُخْرَى يَأْتِي بِقَلْبِهِ قَلْبَهُ وَ يَفْتَرُ  
إِنْزَعَا جَهْ وَيُضَافُ إِلَيْهَا أُخْرَى يَأْتِي  
السُّكُونُ وَالْهَدْوُ وَيَذْهَبُ قَلْبُهُ  
يُحَا طِبَةُ الْحَجَرِ وَالْمَدْمُ فِي طَرِيقِهِ  
تَشْبِيهُتَا لَهُ وَتَسْكِينَا يَقُولُ لَهُ .

حرام و شُبہ سے بچنا اور دوسری دوافع کی ان امور کے اختیار کرنے میں جو کہ خلاف شرع منوعات میں سے ہوں مخالفت کرنا جب بندہ کسی اس کلمہ سے جس کا اظہار اس کے قلب کی طرف کیا جاتا ہے متحیر و مضطرب ہوتا ہے اس کی طرف دوسرا کلمہ اضافہ کیا جاتا ہے جو اس کے قلب و اضطراب کو کم کر دیتا ہے اور اس کی حیرت کو سست کر دیتا ہے بعد اُس کی طرف دوسرا کلمہ ملا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سکون و آرام مل جاتا ہے اور اس کا قلب چلا جاتا ہے اس سے پتھر ڈھیلے راہیں خطاب کرتے ہیں تاکہ اس کو سکون و ثبات قدمی حاصل ہو جائے اس سے پتھر وغیرہ کہتے ہیں۔

يَا وَرَى اللّٰهُ يَا مَرَادَ اللّٰهُ يَا حَيِّيَّة  
يَا مُقَرَّبَةً وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اُدْعُ لِي  
فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي عَنِ الْخَلْقِ  
بِكَ اَعِزَّنِي بِذِكْرِكَ عَنِ السُّوَالِ  
فَاِذَا اسْتَعْنَى عَنِ الْخَلْقِ لَزِمَ  
بَابَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَيُعْزِيهِ  
بِقُرْبِهِ فَاِذَا اَعْتَنَاهُ بِقُرْبِهِ  
اِسْتَعْلَ بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ  
عَنِ السُّوَالِ لَهُ اِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ  
تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي  
السَّبَرِ اِسْرَى نَبَعَتْ لَكَ عَيْنٌ فِي  
قَدَامِكَ اَقْوَى سِلَاحِ الشَّيْطَانِ  
عَلَيْكَ الْخَلْقُ حَسْبُ قَدْرِكَ  
ثُمَّ ظَاهَرَكَ الشُّغْلُ كُلُّ  
الشُّغْلِ فِي دَارِ الْخَلْقِ وَثَبَاتِهِمْ

اے اللہ کے ولی اے اللہ کے مقصود اے خدا کے دوست اور اے اس کے مقرب آپ سے ایک شخص نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیے پس آپ نے کہا اے اللہ تو اس کو اپنے قرب سے مخلوق سے لاپرواہ کر دے تو اپنے ذکر کی وجہ سے اس کو سوال سے لاپرواہ کر دے پس جب یہ خلق سے متغنی ہو جائے گا اللہ عز و جل کے دروازہ کو لازم بچوٹے گا پس وہ اس کے اس قرب کی وجہ سے اس کو غنی و بے پروا کر دے گا پھر جب وہ اس کو اپنے قرب کی وجہ سے بے پروا کر دے گا تو یہ اس کے ذکر و شکر میں مشغول ہو جائے گا اور یہ اس کے ذکر و شکر کی وجہ سے سوال سے باز رہے گا جب تو جنگلوں میں رہ کر کھانے اور پینے سے باز رہے گا تو یہ گھر کے اندر ایک چشمہ جوش مارے گا سب سے زیادہ قوی ہتھیار شیطان کا تیرے اوپر مخلوق ہے اس میں متوجہ ہو کر تو خدا کو بھلا دیتا ہے اولاً تو اپنے قلب کو اچھا بنائے پھر اپنے ظاہر کو بڑا مشغول و مشغول خلق کے گھر میں ان کے ساتھ میں رہ کر ثابت قدم

مُحِبِّ مُسْتَحْسِنٍ خَرَجَ فِي طَلَبِ  
مَحْبُوبِهِ يُوسُفُ خَرَجَ فِي طَلَبِ  
يَعْقُوبَ كَانَ مَنْ رَأَاهُ أَحَبَّهُ  
عَشَقَهُ تَبَوَّعَهُ وَتَسَجَّنَ مَقْصُودَهُ  
يَعْقُوبَ لَا أَلْعِيَاكُ شِعْرَ فَيَا لَيْتَ  
مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي  
وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ جَاءَ  
مُنَادِي الْحَقِّ اقْطَعُوا بَنَاءَ الْخُلُقِ  
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ لَا كَلَامَ  
حَتَّى يَنْضَبِ الْمَاءُ مِنْ ضِفْدَعِكَ  
حَتَّى تَخْلُوَ الْبَيْرَ لِعِبَادَةِ سِرُّكَ  
عُدَّةً فِي سَفِينَةٍ وَدُرَّتِيهِ لَقْنَةُ  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسَلُهَا فِي  
بَحْرِ الْعِلْمِ صُحْبَةُ عِبَادِ اللَّهِ  
كَصُحْبَةِ الْأَسَدِ مَعَ الْخَوَافِ  
وَالْوَجَلِ الَّذِي شَبَعَ بِغَيْرِكَ  
لَا يَشْتَغِلُ بِكَ لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِكَ  
فَإِنْ التَفَتَ إِلَيْهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ  
إِفْتَرَسَكَ صُحْبَةُ الصَّدِيقِ  
كَذَلِكَ لَا تَهْمُ فِي صُحْبَةِ  
الْمَلِكِ كَذَلِكَ كَانَ رَجُلٌ  
مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ يُتَهَمُ  
عَلَى النَّحْوِ طَرَفًا عَلَيْهِ بِذَلِكَ  
الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا يَقُولُونَ  
عَنْكَ أَحَقُّ هُوَ قَالَ

رہنے میں ہے ایک محب غرض صورت اپنے محبوب کی طلب میں  
گھر سے نکل کھڑا ہوا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی طلب  
میں نکلے جو ان کو دیکھتا تھا ان کو محبوب بناتا اور ان کا عاشق،  
بن جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے برقع ڈال لیا اور چلیا دیں  
پڑ گئے ان کا مقصود یعقوب علیہ السلام تھے نہ کہ دوسرے پس کاش وہ  
تعلقات جو میرے اور تیرے درمیان ہیں آباد و برقرار رہیں۔  
اور میرے اور تمام عالم کے درمیان میں جو تعلقات ہیں۔ وہ  
خراب و برباد ہو جائیں حتیٰ کا منادی اگیا ہے ندا کرتا ہے  
کہ تم مخلوق کی بنیاد کو قطع کر دو یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی  
میعاد پر پہنچ جائے تجھے کلام کرنا زیبا نہیں تاؤ فلیک پانی تیرے  
وجود کے میڈک سے خشک نہ ہو جائے اور جب تک کہ تو  
کسی کنوئیں کو عبادت کے لیے خالی نہ کرے۔ تیرا باطن خدا کی  
حضوری میں اس کی قدرت کی شستی میں ہے تو اس کو دریا کے  
علم میں بسم اللہ مجرب بنا و مرسل بنا اس کا چلنا اور ٹھہرنا خدا کے نام  
کے ساتھ ہے کی تعین کر۔ خدا کے بندوں کی صحبت و غوث  
و دہشت کے ساتھ مثل اس شیر کی صحبت کے ہے جس نے تیرے  
غیر پر حملہ کر کے اپنا پیٹ بھر لیا ہے اس وجہ سے وہ تیری  
طرف مشغول نہیں ہوتا لیکن اس شیر کے فارغ ہونے کے بعد  
اگر تو اس کی طرف توجہ کرے گا تو وہ تجھے پھاڑ ڈلے گا۔ ایسی  
ہی حالت مدیق کی مصاحبت کی ہے کیوں کہ وہ شاہی مصاحبت  
میں اسی حالت میں رہتے ہیں کہ ان کو قرب الہی کی وجہ سے غیر کی  
طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص رفقاء جنید بغدادی قدس سرہ  
میں سے مہتمم کیا جاتا تھا کہ وہ خطرات قلبی پر مطلع ہو جایا کرتا ہے  
حضرت جنید کو اس کی اطلاعات ہوتی پس آپ نے اس سے  
دریافت کیا کہ لوگ جو کچھ کہتے تیری طرف سے کہتے ہیں کیا سچ ہے جواب دیا

نَعَمْ تَكَلَّمْتُ وَتَدَّ تَكَلَّمْتُ قَالَ مَا  
هُوَ قَالَ بِقَلْبِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ  
تَكَلَّمْتُ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَا شَكَّ  
تَكَلَّمْتُ مَرَّةً أُخْرَى بِقَلْبِهِ وَآخَرَةً  
فَقَالَ لَا شَكَّ مَرَّةً أُخْرَى بِقَلْبِهِ  
وَآخَرَةً فَقَالَ لَا فَقَالَ

يَا نَبِيَّيْنِ مَا مَعِيَ حَقٌّ قَاتَا نَظَرُ  
مَا مَعَكَ قَالَ صَدَقْتَ فِي الْجَمِيعِ  
إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُخْبِرَ صَفَاءَ قَلْبِكَ  
وَتَبَاتَتْ قُلُوبُهُمْ مَجَارِي إِرَادَتِهِ  
تَخَرَّجَتْ مِنْ عِلْمِهِ صُدُورٌ سِرَّةٍ خَرَّجَتْ  
الْقَدَرِ فِي وَادِ الْقَدَرِ كُلُّهَا دَارَتْ  
أَسْرَارُهُمْ فِي مَنَاقِبِ دَارِ الْقَدَرِ  
الْتَقَطَتْ الْعُلُومَ وَالْأَسْرَارَ مَا  
يُصْنَعُ بِخَشَبٍ مُسْتَدَّةٍ مَا يُصْنَعُ بِالنُّورِ  
بَلَا مَعْنَى صُلْبٍ بَكْمَ عَمَى ذَهَبٍ لَا يَعْقِلُونَ وَ  
بَعْضُ النَّاسِ كَتَبَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ  
قِصَّةً يُوَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ قِصَّةً إِلَى أَمِيرِ  
الْبَلَدِ وَلَمْ يَسْأَمْ حَتَّى خَرَجَ أَحْيَا تَوْفِيعُ  
بِمُرَادِهِ وَأَنْتَ تَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى يُؤَيِّمُكَ  
لَوِيْلَاتٍ تَسْأَلُ وَتَرْجِعُ إِلَى الْخَلْقِ هَلَا  
ذَكَرْتَ صَاحِبَ الْقِصَصِ مَا دُمْتُ مَعَ  
الْخَلْقِ لَا تُفْلِمُ شَيْئًا تَبَّ عَنِ الْخَلْقِ  
إِلَى الْحَقِّ وَلَيْكُنْ وَقُوفُكَ عَلَى عَتَبَةِ  
بَابِ مُرَبِّهِ يَجْذِبُكَ يَدُ الْمَحَبَّةِ وَالْقُرْبِ

ہاں آپ اپنے دل میں اُس وقت کوئی بات لائے آپ نے فرمایا  
میں نے دل میں بات سوچ لی بتاؤ وہ کیا ہے اُس نے جواب دیا  
کہ آپ نے دل میں ایسا ایسا سوچا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا  
غلط آپ پھر دوبارہ اپنے دل میں ایک بات لائے اور اس نے  
خبر دی آپ نے فرمایا غلط۔ سربارہ پھر ایسا ہی سوال و جواب ہوا  
بعد اُس نے کہا۔

اے شیخ جو کچھ کہیں نے کہا اور میرے پاس ہی سب پہنچ  
ہے آپ اپنی حالت پر غور فرمائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے ارشاد  
فرمایا تو تمام باتوں میں سچا ہے میرا ارادہ مقصود تیری صفات قلبی اور  
اُس کی ثابت قدمی کے جانچنے کا تھا کہ تو بٹ توڑ جائے گا اولیاء اللہ  
کے قلوب ارادہ الہی کے راستے اُس کے علم کے خزانہ میں اُس  
کے اسرار کے سینے تقدیر کے میدان میں تقدیر کے مخزن میں۔ جب  
کبھی بھی ان اولیاء کے اسرار و قدرت کی زمینوں میں دورہ  
کرتے ہیں وہ علوم و اسرار الہیہ کو حاصل کرتے رہتے ہیں خشک  
لکڑی کا کیا کیا جائے اُس کا کیا بنایا جائے بے معنی صورتوں  
سے کیا حاصل کیا جائے گونگے بہرے اندھے ہیں پس وہ کچھ  
سمجھتے ہی نہیں۔ ایک شخص نے تین سو ساٹھ قصے گڑھے ہر ایک  
دن سال کے دنوں میں ایک قصہ شہر کے بادشاہ کی طرف پہنچا تا رہا  
اور وہ تھکا گھبرا یا نہیں یہاں تک کہ آخر میں اُس کی مراد کا فرمان صادر  
ہو گیا اور تو اسے عز و جل سے چند دن رات ہی سوال کرتا ہے۔  
اور گھبرا کر خلق کی طرف رجوع لاتا ہے۔ تو نے اس قصہ گو کو یوں  
نریا دیا اس سے کیوں نہ نصیحت پکڑ لی جب تک تو خلق کے  
ساتھ رہے گا کچھ فلاح نہ پائے گا۔ تو مخلوق سے خالی کی طرف  
رجوع کر تیرا قیام استاد و قرب الہی کے دروازہ پر ہونا چاہیے  
اُس وقت تجھ کو محبت و قرب الہی کا ہاتھ اپنی طرف کھینچنے لے گا

تَصِيرُ جَلِيسَ ذَلِكَ الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ  
تِلْكَ الْمَافِقَ وَالْأَمْدَنَ جَاءَكَ الْبَسْطُ  
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ قَوِي جَنَاحَكَ طَرَتْ إِلَى  
شَرَافَاتِ ذَلِكَ الْبَيْتِ صَارَتْ تِلْكَ  
الشَّرَفَاتُ بُرْجَكَ إِنْ سَقَطَتْ سَقَطَتْ  
فِي صَحْنِ الدَّارِ تَنْقَلِبُ بَيْنَ يَدَيِ صَاحِبِ  
الدَّارِ تَكُونُ دَاعِيًا مُجَابًا إِنْ أَرَدْتَ لَفْعَ  
الْخَلْقِ فَا فَعَلْ وَلَا تَهْذِهِ يَا فَارِغًا كَانَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرِيدُ بِهَذَا الْكَلَامِ الَّذِينَ  
يَغْتَمُونَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْوَعَاظِ الصَّلَوَةِ  
صِلَةً بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِفْصَالِ عَنْ غَيْرِهِ  
الْجِسْمِ لَا يَتَجَزَّى فِي مَكَانَيْنِ إِلَّا فُفْصَالُ  
مِنَ الْخَلْقِ وَالِفْصَالُ بِالْحَقِّ هَذِهِ صَلَوَةُ  
الْقَوْمِ أَمَّا صَلَوَةُ الْعُبَادِ أَنْ يَجْعَلُوا الْجَنَّةَ  
عَنْ يَمِينِ الْقَدْبِ وَالنَّارَ عَنْ شِمَالِهِ وَ  
الْبَصْرَ أَطْبِيقَ يَدَيْهِ وَالرَّبَّ مُطْلِعًا عَلَيْهِ  
وَأَمَّا صَلَوَةُ الْمُحِبِّينَ فَهِيَ الْإِفْصَالُ  
عَنِ الْخَلْقِ وَالِفْصَالُ بِهِ عَلَامَةُ صِدْقِ  
طَلَبِ نَفْسِكَ الطَّعَامِ أَنْ تَسْمَعَ صَارِخًا  
مِنْ بَاطِنِكَ كَوَسِيحِ الْفَرْدَوْسِ عِنْدَ ذَلِكَ  
أَوْ صِلَ إِلَيْهَا مَا يَقُومُ بِهِ أَوْ دَهَا قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى فَاتْلُوهَا وَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  
هُوَ أَصْحَابُكَ وَأَبْنَى لَا تَعْمَلُ بِهَا سَبِينَ  
الْأَيَّامِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْقَلْبِ عَلَى مِيلِكُمْ عِنْدَ  
ذَلِكَ يَأْتِي الْفِعْلُ وَإِلَيْهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ

تو اُس گھر کا ملیں بن جائے گا۔ بعدہ جب تو وہاں کے آرام و مکانات  
کو ملاحظہ کرے گا۔ تیرے لیے ہر طرف سے بسط و کشادگی حاصل  
ہوگی۔ تیرا بازو قوی ہو جائے گا تو اُس مکان کی بندیوں کی طرف  
پر واز کرنے لگے گا وہ بندیاں تیرے لیے برج بن جائیں  
گی۔ اگر تو گرے گا بھی تو اُسی گھر کے صحن میں گرے گا اور صاحبانہ  
کے ہی روبرو پڑے کھائے گا تو پھیکارنے والا اور تو متجانب و طاعت  
بن جائے گا۔ اگر تو مخلوق کو نفع پہنچانا چاہتا ہے پس ایسا کر  
گو اور محض فضول بکواس ذکر آپ کا مقصود اس کلام سے وہ  
واعظ تھے جو دوسرے لوگوں پر تہمت دھرتے تھے۔ اور خود  
پر غور کرنے والے نہ تھے۔ نماز خدا کے ساتھ غیر اللہ سے  
جدا ہو کر مل جانا ہے ایک جسم و مکانوں میں متجزی نہیں ہو  
سکتے۔ خلق سے جدا ہو جانا اور حق عز و جل سے مل جانا یہ  
اہل اللہ کی نماز ہے۔ لیکن عابدوں کی نماز یہ ہے کہ وہ جنت  
کو قلب کی داہنی طرف اور دوزخ کو اُس کی بائیں طرف اور پہل طرف  
کو اپنے روبرو رکھتے ہیں اور رب تعالیٰ کو اپنے اوپر خبردار  
جانتے ہیں۔ اور لیکن عاشقوں کی نماز پس خلق سے جدا ہو جانا  
اور مولیٰ تعالیٰ سے متصل ہو جانا ہے نفس کی سچی طلب سے  
کھانا مانگنے کی پہچان یہ ہے کہ تیرے باطن سے مرغ کے  
بچوں کے چیخنے کی سی آواز آنے لگے اور تو اسے سننے اُس  
وقت تو نفس کی طرف اُس قدر غذا پہنچا کر جس سے وہ اپنی  
پیٹھ کو قائم رکھ سکے۔ ارشاد الہی ہے پس اللہ تعالیٰ نے نفس  
کو اُس کے فحور اور تقویٰ کا الہام کر دیا ہے۔ وہی ہنسنا ہے  
اور وہی رولنا ہے۔ ان دونوں آیتوں پر بغیر اس کے کہ تیرا  
قلب بادشاہ کے حضور میں داخل ہو عمل ذکر بعد دخول حال کھل  
جائے گا۔ بعد دخول فعل و الہام آنے لگے گا اور قبل دخول

تَفَرَّقَ بَيْنَ وَارِدٍ يَرُدُّ فِي بَاطِنِكَ  
 إِلَهُامٌ شَيْطَانٍ وَإِلَهُامٌ طَيِّبٌ وَإِلَهُامٌ  
 نَفْسٍ وَإِلَهُامٌ مَلِكٍ إِذَا آمَدْتَ  
 أَنْ تَصْحَبَ أَحَدًا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 فَاسْمِعْهُ وَضُوءَكَ عِنْدَ سُكُونِ الْهَمِيمِ  
 وَتَوَمُّرِ الْعُيُونِ ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ  
 تَفْتَحْ بَابَ الصَّلَاةِ بِطَرِكِمْكَ وَبَابَ  
 رَبِّكَ بِصَلَاتِكَ ثُمَّ أَسْأَلُهُ بَعْدَ  
 قَرَأَتِكَ مَنْ أَصْحَبُ مِنَ الدَّلِيلِ  
 مِنَ الْمُخْبِرِ عَنْكَ مِنَ الْمُرَادِ مِنَ  
 الْخَدِيفَةِ مِنَ النَّائِبِ هُوَ كَرِيمٌ لَا  
 يُحِبُّ ظَنَكَ لَا شَكَّ يَكْلِمُ قَلْبَكَ  
 يُرْجِي إِلَى سِرِّكَ يُبَيِّنُ لَكَ يَدْرُسُ الْأَبْوَابَ  
 يُضِيءُ لَكَ الطَّرِيقَ مَنْ طَلَبَ وَجَدَ  
 وَجَدَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ  
 سُبُلَنَا أُولَئِكَ فِيكَ لَا فِي كَلَامِهِ فَإِذَا  
 اتَّحَدَتِ الْجِهَاتُ عِنْدَ قُبَيْكَ وَعَلَبَ  
 الْأَمْرُ عَلَى تَعْيِينٍ وَاحِدٍ دُونَكَ وَ  
 اقْصِدْهُ صَحْبَتِكَ لَهُ كَصَحْبَتِ السَّبَاعِ  
 وَالْحَيَاتِ لَا تَنْظُرْ إِلَى فَقْرِهِ وَفَقْرِكَ  
 دَنِيَّتِهِ وَاحْتِلَالِ حَالِهِ وَتَرْيِهِ وَقُصُورِ  
 عِبَادَتِهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِي بَاطِنِهِ لَا فِي  
 ظَاهِرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا تَبْدُلُهُ  
 حَالًا أَنْتَظِرْ فَإِنَّهُ مِنْ رَبِّهِ هُوَ الْكَاتِبُ وَ  
 الْأَمْرُ لِقَبِيرِهِ هُوَ سَفِيرُهُ هُوَ الْمُشَارُ

واردات قلبی میں تفریق کی جائے گی کیوں کہ الہام چند قسم پر ہے  
 الہام شیطانی اور الہام طبعی۔ اور الہام نفسانی اور الہام ملکی جب تو  
 یہ چاہے کہ تو کسی کی فی سبیل اللہ مصاحبت کرے پس تو ہمنوں کے  
 سکون اور آنکھوں کے سو جانے کے وقت نصف شب کے بعد  
 کامل طور پر وضو کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کا دروازہ تیری  
 طہارت سے اور رب تعالیٰ کے دروازہ تیری نماز سے کھلے  
 گا بعد فراغت از نماز تو اللہ سے سوال کر کہ میں کسی کی صحبت اختیار  
 کروں۔ رہبر کون ہے۔ تجھ سے خبردار کرنے والا کون ہے  
 فرد کون ہے خلیفہ و نائب کون ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ وہ  
 تیرے ظن کو نامراد نہ رکھے گا۔ بلا شک وہ تیرے قلب کو الہام  
 فرمائے گا تیرے باطن کی طرف وحی بھیجے گا وہ تیرے مقصد کو تیرے  
 لیے ظاہر کر دے گا وہ دروازوں کو کھول دے گا وہ تیرے لیے  
 راستہ کو روشن کر دے گا جس نے طلب کی اور کوشش کی مراد پائی  
 خود ارشاد فرمایا ہے جو ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم البتہ  
 ان کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں خرابی تجھ میں ہے نہ کراؤں کے  
 کلام میں۔ پس جب تمام خستیں تیرے قلب کے نزدیک متحد ہو جائیں  
 اور امر ایک معنی شخص پر غلبہ پائے۔ پھر تیرا اس کی مصاحبت  
 میں رہنا ایسا ہونا چاہیئے جیسے درندوں اور سانپوں کی صحبت  
 میں رہنا۔ تو نہ اس کی فحش کی طرف نظر کرنا اور نہ اس کی خرابی  
 نسب پر اور نہ اس کی حالت کے اختلال پر اور نہ بے سامانی  
 اور کمی عبادت کی طرف کیونکہ حقیقت مقصودہ اس کے باطن  
 میں مخفی ہوگی نہ کراؤں کے ظاہر میں تو نہ اس کے جسم و چہرہ پر نظر  
 ڈال۔ تو کسی حال میں اس سے ابتداء کلام نہ کر کسی حال کو اس  
 پر ظاہر رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے فائدہ کا منتظر رہ۔ وہ  
 کھنے والا ہے اور حکم غیر کا ہی ہے۔ وہ قاصد ہے وہ اشارہ

وَالطَّبَقُ لِغَيْرِهِ هُوَ الْمَعْبَرُ وَ  
 الْعِبَارَةُ لِغَيْرِهِ فَاقْبَلْ مَا يَفْتَحُ  
 اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ وَيَدِهِ لَا تَتَجَاوَزُ  
 لِحِظَهُ لَا تَخْرُقُ حَدَّكَ أَبَدًا كُنْ  
 أَبَدًا مُطِرًا خَائِفًا وَجَلًّا لِاسْمِهِ  
 فِي حَالِهِ وَلَا أَفْعَالِهِ فَضَلَّهُ عَلَى  
 كُلِّ مَنْ يَعْقِلُ وَلِيَكُنْ يُقْبَلُكَ  
 مِنْ عِنْدِهِ إِلَى رَبِّهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ  
 مُتَفَلِّهًا لَا تُطْعِمُهُ مِنْكَ لَمْ لَا تُجِبْهُ  
 طَبْعًا عَلَى مَا طَبَعَتْ عَلَيْهِ أَبْهَانُهُ  
 لَكِنَّ الْعَقْلَ يُمَيِّزُ الْكُشْرَ يُمَيِّزُ  
 الْعِلْمَ يُمَيِّزُ وَالْقُرْبَ يُمَيِّزُ وَالْمَعْرِفَةَ  
 وَالطَّاعَةَ يُمَيِّزُ الْأَصْلُ وَاحِدٌ  
 إِذَا عَمِلُوا بِالْعِلْمِ وَمَرُّوا عَلَى  
 مَيِّتٍ أَحْيَوْهُ أَوْ عَاصٍ ذَكَّرُوهُ بِآيَتِهِ  
 أَطْبَاقُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِهِ يَسْعَى  
 فِي تَحْصِيلِ الْخَرَاجِ فَإِذَا حَصَلَتْ  
 سَلَّمَهُ إِلَى الْمَلِكِ وَلَهُ جَاءَ  
 مَكِّيَّةٌ يَأْخُذُ مِنَ الْخَلْقِ  
 لَا لَهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِكَ  
 خَيْرًا نَبَّهَكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ  
 وَعَرَّفَكَ عَائِدَكُمْ جَاهِلًا  
 جَاهِلَكُمْ مُعْتَرِّئًا هَهُ كُمْ  
 رَاغِبًا لَا تَأْكُلْ بِدِينِكَ إِنَّمَا  
 نَشُوكُلُ بِالْذِّئْبِ الْآخِرَةَ

کرنے والا ہے اور طبق اُس کے غیر کا ہے۔ وہ محض تعبیر کرنے  
 والا ہے اور عبارت اُس کے غیر کی ہے جو کچھ اللہ اُس کی زبان  
 و ہاتھ پر نکلوائے تو اُسے قبول کرتا رہے تو اُس کی نظر سے تجاوز  
 نہ کر ہمیشہ اُس کے مقرر کردہ حد سے اگے نہ بڑھے۔ اُس کے روبرو  
 تو ہمیشہ سر جھکا کے خوف و دہشت کی حالت میں ٹھہرا رہے۔ تو اُس  
 کو اُس کے کسی حال اور قول و فعل میں تہمت نہ لگا۔ تو اُس کو ہر ذی عقل  
 پر فضیلت دیتا رہے۔ اس حالت میں وہ تجھے اپنے پاس رب  
 تعالیٰ تک پہنچا دے گا نہ کہ غیر اللہ کی طرف وہ میوہ کھانے  
 والا ہے تو اُسے کھانا نہ کھلا وہ خود کلام کرنے والا ہے تو اُس  
 کو جواب نہ سکھا۔ ہماری طبیعتیں مثل چوپایوں کی طبیعتوں کے ہیں۔  
 لیکن عقل کھوٹے کھرے میں تمیز دیتی رہتی ہے جس سے انسان  
 و چوپایوں میں فرق معلوم ہوتا ہے شریعت و علم قرب و معرفت اور  
 اطاعت الہی دونوں میں تمیز دیتے رہتے اور ہر ایک کو جدا جدا  
 کرتے رہتے ہیں۔ جز ایک ہی ہے۔ علم پر عمل کرنے والے  
 جب علم پر عمل کرتے ہیں اور وہ کسی مردہ پر گزرتے ہیں تو وہ اُس  
 کو زندہ کر دیتے ہیں یا کسی گناہ گار پر گزرتے ہیں تو وہ اُس کو زندہ کر  
 بنا دیتے ہیں۔ اُس کے گھر میں غیروں کے لیے طبق آیا کرتے ہیں  
 مارت بالا خراج کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پس  
 جب وہ اُس کو حاصل کر لیتا ہے بادشاہ کی طرف سپرد کر دیتا  
 ہے اس کے پاس ٹھکول کوئی ہے مخلوق سے لے کر اُس میں ہوتا  
 جاتا ہے اُس کا لینا اپنے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ  
 تیری بہتری چاہتا ہے وہ تجھے نفس کے عیبوں پر خبردار کر  
 دیتا ہے اور اُن کو تجھے پہنچا دیتا ہے تمہارے عالم جاہلی میں  
 اور تمہارے جاہل دھوکہ باز تمہارے زاہد دنیا پر حرص میں  
 تو دین کے بدلہ دنیا زکا دین سے تو آخرت حاصل کی جاتی ہے

آپ نے ارشاد الہی ادعو بکم تصدعوا الخ کو (ا) تم اپنے رب کو عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر پکار کر و تحقیق وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے اس کے ظاہر پر عمل کر کے تفسیر فرمائی کہ تحقیق حد سے تجاوز کرنے والا غیر اللہ سے تجاوز کرنے والا اور خدا کے سوا دوسروں سے مانگنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے رفقا سے فرمایا کرتے تھے تم میرے قلب کی روشنی ہو جو شخص میرے کلام کو اللہ کے واسطے سے اور میرے کلام سے نفع حاصل کرے پس وہ اس کے لیے قلب کی روشنی بنے ورنہ میرے پاس وہ حاضر ہی نہ ہو کہ اس کی حاضری باعث کدورت ہوگی جب کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے اور آپ کے موشی اور نوکر چاکر زیادہ ہو گئے تو انچے ملک شام میں ایک گھر بہت سے دروازوں والا بنایا اور بعد اس کی تیمت ادا کر دینے اور اپنی قوم کے معالجے سے فارغ ہونے کے آپ وہیں ٹھہر گئے مخلوق الہی کی نرمیت کو لازم پکڑا غفلت کیا ہے۔ صحبت اور محبت کیلئے مل جلنے کا نام ہے۔

سوال قول کی اقتدا پیروی کی جائے یا حال کی۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا۔ رضی اللہ عنہ۔ عوام لوگ قول کی پیروی کرتے ہیں اور خواص حال کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ کون اہل ہے تو کون ہے۔ مجھے اپنی توفیق دکھانا کہ میں تجھ کو تیرے حال پر بٹھاؤں اور تیرے مرض کی شدت کو دور کروں اور اس کو اچھا کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کہ یمتھی کہ آپ بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ اور ہم اس سے منع کیے گئے ہیں مگر ہم تندرستوں کی عیادت اپنی ہمت سے کرتے ہیں ہمارے پاؤں تمہارے گھروں کی طرف چلنے سے اور ہمارے ہاتھ

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ هُ حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَنَّ الْمُعْتَدِيَ الظَّالِمِ مِنْ غَيْرِهِ السَّائِلِ لِسَوْأِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ لَا صَحَابِيهِ أَنْتُمْ جَلَاءُ قُلُوبِي مَنْ كَانَ يَسْمَعُ لِلَّهِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِكَلَامِي فَيَكُونُ جَلَاءً وَلَا أَفَلَا يَحْضُرُ عِنْدِي فَيَكُونُ مُكَدِّرًا لِمَا خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّارِ وَكَثُرَتْ مَوَاشِيهِ وَعِلْمَانُهُ عَمِلَ دَارًا فِي الشَّامِ كَثِيرَةً الْأَبْوَابِ أَكْثَرُ هُنَالِكَ هُنَالِكَ بَعْدَ مَا أَغْنَاهُ مِنَ الشَّيْنِ وَدَوَّاءِ قَوْمِهِ أَثَرُ تَرْبِيَةِ خَلْقِهِ مَا الْخُلَّةُ الصُّحْبَةُ وَالْمَحَبَّةُ الْوَاصِلَةُ.

سُؤَالُ الْقَالَ يُقْتَدَى بِهِ أَمِ الْحَالُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَالَ يُقْتَدَى بِهِ الْعَوَامُ وَالْحَالُ يُقْتَدَى بِهِ الْخَوَاصُّ مَنْ أَهْلٌ مَنْ أَنْتَ أَمْرِي بِنِعْمَتِكَ أَقْعُدُ عَلَى حَالِكَ وَأَمْرِي بِشِدَّةِ مَرَضِكَ وَأَمْرِي بِكَانَ مِنْ دَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبَادَةُ الْمَرْضَى وَنَحْوُ قَدْ مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ نَعُوذُ الْأَصْحَاءَ بِهَمَّتِنَا مُنَعَتْ أَرْجَلُنَا عَنِ الْمَشْيِ إِلَى بَيْوتِكُمْ وَأَيْدِينَا

تمہارے طعام و مال لینے سے روک دیئے گئے ہیں۔ بہرحقیقت حال و تقدیر کے مامور ہیں جو مقدر ہے اُس پر راضی اور کام کرنے کو مستعد ہیں۔ آپ نے (رضی اللہ عنہ) ایک دن ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دس بیٹے چھوڑ کر مر جائے اور وہ ہر ایک ایک ہی درجہ میں باپ کے ساتھ ٹھوکی کرنے والے ہوں بعد موت وہ اُس باپ کے ترکہ کو برابر ہی کے ساتھ تقسیم کر لیں۔ اور ان میں ایک بیٹا ایسا ہو جس کی طرف باپ کا دل زیادہ مائل تھا اور وہ تمنا کیا تھا کہ یہی سا بیٹا اُس کے تمام ترکہ کا وارث ہو۔ پس تقدیر الہی سے باپ کے بعد ایک ایک بیٹے کو موت آئی صرف وہی ایک محبوب بیٹا باپ کا باقی رہ گیا اور اُس نے تمام متروکہ حاصل کر لیا قضاء و قدر الہی آگئی۔ کیا اس میں یہاں تک کچھ عجیب ہے اس میں غور کر۔ والسلام۔

اے اللہ تو ہم سے مخلوق کو روک دے اے بارالہا تو ہم سے نفس اور خواہشوں اور طبیعتوں کو روک دے۔ آمین۔ اے مخاطب تو کہے گا کہ اس دریا میں تیز تے ہوئے پھر کیسا ڈرنا ڈر ہے تو تیز تہا ہی کیوں ہے حالانکہ خوف تو اس کی ضد ہے اس کا جواب یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ میرے بندوں میں سے مجھ سے علم ہی ڈرا کرتے ہیں۔ جب انھوں نے اُسے جان لیا ڈرنے لگے جب تو کسی چیز کی مصرت کو جان لے پس اُس سے ڈر اور پرہیز کر۔ موت تو ضرور آنے والی ہے اُس سے چارہ کار نہیں پس تو اس کے لیے عمل کر۔

اے وہ شخص جس کا گھر بغیر چھت کے ہے اور بال بچوں کے لیے اٹا موجود نہیں ہے اور نہ نیچے اوپر کا کپڑا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ اُس کے پس تیار کر لے۔ بادشاہ آ رہا ہے پیادہ ہو جا درندہ آگیا ہے پس اُس سے ڈرو موت کا درندہ ہے

عَنْ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَأَمْوَالِكُمْ أَمْرًا مِنْ حَيْثُ الْحَالِ وَالْقَدَرِ وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَيُخْلَفَ عَشْرَةً مِنْ الْأَوْلَادِ كُلُّهُمْ بَأْسُ وَنَبِيٍّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ تَقَاسَمُوا تَرَكْتَهُ عَلَى السَّوَاءِ وَفِيهِمْ وَاحِدٌ كَانَ قَلْبُ وَالِدِهِ إِلَيْهِ وَكَانَ يَتَمَشَّى أَنْ يَرِثَ جَمِيعَ تَرَكْتَهُ فَجَاءَ الْقَدَرُ إِلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ بِالْمَوْتِ فَبَقِيَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ حَاضِرًا جَمِيعَ تَرَكْتَهُ فَجَاءَ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ آفِي هَذَا عَيْبٍ إِلَى هُنَا وَالسَّلَامُ.

اللَّهُمَّ كَفِّ الْخَلْقَ عَنَّا اللَّهُمَّ كَفِّ النَّفْسَ عَنَّا وَالْأَهْوِيَةَ وَالطَّبَاعَ.

قُلْتُ اتَّخَذَ هَذَا الْبَحْرُ وَأَنْتَ تَسْبِيحُ فِيهِ وَالْخَوْفُ بِضِدِّ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ لَمَّا عَلِمُوا خَافُوا عَلِمْتَ بِمَضَرَّةِ النَّفْسِ فَاحْذَرُهَا وَاجْتَنِبْهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ لَا بَدَّ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلْ لَهُ.

يَا مَنْ كَيْسَ لِدَارِهِ سَقْفٌ وَكَأَعْيَالِهِ ذَقِيقٌ وَلَا شِعَارٌ وَلَا دِيَارٌ جَاءَ الشِّتَاءُ فَتَاهَبْ جَاءَ الْزَمِيرُ فَتَرَجَّلْ جَاءَ السَّبْعُ فَاحْذَرُ هُوَ سَبْعُ الْمَوْتِ فَامْنَعْ

تو جو نمازیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اس کے کیا معنی ہیں یہی کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تجھی کو یکتا و فردو جانتے ہیں۔ تو نے خدا کو کب ایک جانا تو نے اُس کے لیے کب باخلاص عمل کیا تو نے مخلوق اور دکھاوے اور نفاق اور خود بینی اور رفیقوں سے کب بے رغبتی کی تو حق تعالیٰ کے سامنے کب جھکا جھکنا عاجزی کرنا تو قلب کی حیثیت سے ہو کر تباہ تہائی میں اوتا ہے دکھوت میں جب شہوت نفس رویت الہی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو بندہ رویت الہی سے حیا کر کے اپنی شہوت نفسی کو چھوڑ دیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے (جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے) دیکھا تھا اپنی غلوت میں بحالت شدت شہوت کب دیکھے گا۔ تو اپنی پاک دامنی پر کب نظر ڈالے گا۔ پاک دامنی غیرت الہی سے ہے جب یوسف علیہ السلام اُس عورت زلیخا کے سامنے جمع ہو گئے اور زلیخا نے دست درازی کی غیرت الہی آگئی یوسف علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یہ اس لیے تھا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے بُرائی و بے شرمی کو پھیر دیں کیوں کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔

اے مخاطب تیری حالت خصل یوسف علیہ السلام کے کب بدلے گی۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہ بتکلف اللہ کے گھر میں پاکدامنی کو اختیار کیا اپنے رب کے حکم کی قید خانہ میں موافقت کی اللہ تعالیٰ نے اُن کو غلوت میں پاک دامنی عطاء فرمائی۔ اے بندگان خدا تم بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ اے مریدو! تم اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام جیسی جو کہ صدیق تھے حالت طلب کرو تو کل سبوں کا قطع کر دینا ہے اور سب کا چھوڑ دینا

قَوْلِكَ فِي صَلَوَتِكَ إِلَيَّ نَعْبُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْتَعِينُ إِلَيْكَ نُطِيعُ وَإِلَيْكَ نُوَجِّدُ مَتَى إِتَّهَدْتَ الْحَقَّ عَزَّ وَ جَلَّ مَتَى أَخْلَصْتَ الْعَمَلَ مَتَى زَهَدْتَ فِي الْخَلْقِ وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَالْعُجْبِ وَالصُّحْبِ مَتَى تَذَلَّلْتَ لِلْحَقِّ الدَّلَالَةَ مِنْ حَيْثُ الْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْخُلُوعِ إِذَا أَرْدَحَمْتَ شَهْوَةَ النَّفْسِ مَعَ رُؤْيَا الْحَقِّ اسْتَجَلِي مِنْ رُؤْيَايِهِ فَتَرَكَ شَهْوَةَ نَفْسِهِ مَتَى تَرَى يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَاظًا عَلَيَّ أَنَا مِيلَهُ فِي خَلَوَتِكَ عِنْدَ شِدَّةِ شَبَقِكَ مَتَى تَرَى عَصَمَةَ بِنْتَكَ عِصْمَةً غَيْرَةً الْحَقِّ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا اجْتَمَعَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَيْتِكَ الْمَرَّةَ جَاءَتْ الْغَيْرَةُ وَلِي هَاهُنَا كَذَلِكَ لِيَنْصَرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ مَتَى تَتَقَلَّبُ

حَالَتَكَ حَالَهُ يُوسُفُ لَمَّا تَكَلَّفَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعِصْمَةَ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَحَجَرَهُ وَافَقَ رَبَّهُ فِي حَبْسِهِ تَرَكَ عَصَمَةَ عِنْدَ خُلُوعِهِ .

كُونُوا كَذَلِكَ عِبَادَ اللَّهِ يَا مَرْيُومُ اسْتَعِيرُوا حَالَةَ الصِّدِّيقِ أَطْلَبُوهَا مِنَ اللَّهِ التَّوَكَّلْ قَطْعُ الْأَسْبَابِ تَرَكَ الْكُلَّ

قلب جب کہ پلٹتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے۔ جیسے فرشتہ سنتا ہے ہے۔ ویسے ہی یہ سننے لگتا ہے جیسے کہ فرشتہ پہچانتا ہے ویسے ہی اس کو پہچان ہو جاتی ہے بعدہ ترقی کر کے فرشتوں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ آپ نے رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے میرے قصہ میں فرمایا واقعی میرا بطن کا میرا ہے۔ جب کہ اپنے جانب طور سے آگ کو دیکھا تھا اپنے اہل کو چھوڑ کے اُس کی طرف بڑھتے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا تھا سر کی آنکھ سے آگ کو اور قلب کی آنکھ سے نور کو دیکھا تھا سر کی آنکھ نے مخلوق کو اور قلب کی آنکھ نے حق کو دیکھا تھا اپنے اہل سے فرمایا تم ٹھہرو میں نے آگ کو دیکھا ہے۔ اس آگ نے اُن کے قلب کو کھینچ لیا اور زندہ کی وجہ سے اُن کو بیوی سے بے رغبت کر دیا۔ بلند ندا میں آگئیں ہیں تقدیر کے آنکھ سے آگئے ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ سے اُن کے اہل و عیال کو چھین لیا ہے۔

اے حکم ثابت و برقرار رہ اے علم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ۔

اے نفس ثابت قدمی اختیار کر اے قلب اور اے بطن تم دعوت الہی کو قبول کرو۔ ہائے اُس شخص کی بد نصیبی جو اس کا اور اک ذکر کرے اور وہ اس کو پسند نہ کرے اور اس کی تصدیق نہ کرے۔ ہائے اس کی بد نصیبی ہائے اُس کا حجاب ہائے اُس کا عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم ٹھہر جاؤ شاید میں تمہارے لیے اُس سے کچھ خبر لاؤں تم اپنی جگہ پر ٹھہری رہو تاکہ میں راستہ کی خبر تمہارے پاس لاؤں کیوں کہ اس سے قبل آپ راستہ بھول گئے تھے آپ کی نظر سے راستہ کی علامتیں غائب ہو گئی تھیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس نقیب النقباء ابن النقیہ حاضر ہوئے اور اس سے پہلے

اَلْقَلْبُ اِذَا اَلْقَلْبَ صَا رَ مَلَكًا  
يَسْمَعُ مَا يَسْمَعُ الْمَلِكُ يَعْرِفُ  
مَا يَعْرِفُ الْمَلِكُ ثُمَّ يَزِيدُ فَتَصِيرُ  
مَلِكًا عَلَيْهِ وَقَالَ فِي قِصَّةِ مُوسَى  
عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّيْرُ سَيْرًا لَسِيرٍ  
تَرَكَ اَهْلَهُ حِينَ اَنَسَ مِنْ جَانِبِ  
الطُّورِ نَارًا اَيْثُرَ رَاى رَاى  
بَعَيْنِ الرَّاسِ نَارًا وَ بَعَيْنِ  
الْقَلْبِ وَ نُوْرًا رَاَتْ عَيْنُ  
الرَّاسِ خَلْقًا وَ عَيْنُ الْقَلْبِ حَقًّا  
قَالَ لَا اَهْلِيهِ اَمْكُثُوا اِنِّي اَنْتَسْتُ  
نَارًا بِقَلْبِي جَذَبْتُ وَ لِلزُّهْدِ  
مِنْ يَدِهِ فِي سَرَوْجَتِهِ نَرَاهُ جَاءَتْ  
يَدَا عَاتٍ عَلَيْهِ جَاءَتْ خَطَا طَيْفٍ  
الْقَدْرِ سَكَبَتْ الْقَوْمَ مِنْ اَهَالِيهِمْ  
وَ اَوْلَادِهِمْ يَا حَكْمُ اُثْبِتْ يَا عِلْمُ بَسْمِ  
اللّٰهِ تَقَدَّمْ يَا نَفْسُ اُثْبِتِي يَا قَلْبُ وَ  
يَا سِرُّ اُحْيِيْوْا يَا خَبِيْئَةً مَنْ لَا يَدْرِيْ هَذَا  
وَلَا يَحِبُّ هَذَا وَ لَا يُؤْمِنُ بِهَذَا يَا خَبِيْئَةً  
يَا حَبَابَةَ يَا مَقْتَنَةً لِعَلِّيْ اَتِيْتَكُمْ مِنْهَا  
بِخَبَرٍ اُثْبِتُوْا مَكَانَكُمْ حَتّٰى اَتِيْتَكُمْ  
بِخَبَرِ الطَّرِيقِ لِاِنَّهُ كَانَ قَدْ ضَلَّ  
عَنِ الطَّرِيقِ عَنَّا بَتَّ عَنْهُ دَلَالُهُ  
حَضَرَ عِنْدَكَ نَقِيْبُ النُّقَبَاءِ ابْنُ  
الْاَتَقِيْ وَ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ قَبْلَ

وہ حاضر نہ ہوئے تھے آپ نے اُن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔  
کاش کہ تم پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جب پیدا کیے گئے تھے تو  
اپنی پیدائش کی غایت کو جان لیتے۔

اے سونے والے بیدار ہو جا کیوں کہ تیرے اگے سے  
راستہ کو گھیر لیا گیا ہے وہ گھرا ہوا ہے قیامت کے دن ہلا کر سوال  
کیا جائے گا تیری کتاب کون سی ہے تیرا معلم دعا کی کون ہے تیرا ربی  
کون ہے۔ تیرا نسب صحیح نہیں ہے۔ اللہ و رسول کے نزدیک صحیح  
انساب صرف اہل تقویٰ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت  
کیا گیا آپ کی آل کون ہے فرمایا ہر حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے  
تو سکوت اختیار کر تو عقل سے کورا ہے نیز اگر تود جل پر ہے اور تو  
پیا سا مر رہا ہے چند قدم ہیں۔ انھیں اٹھا بہ تحقیق تو رحمان تک  
پہنچ جائے گا۔ ایک قدم نفس ہے اور دوسرا مظلوم۔ اور اے  
مرید تیرے لیے بھی چند قدم ہیں اُسے تو نے اٹھایا اور پہنچا  
دنیا و آخرت۔ اگر تو اپنی فلاح چاہتا ہے تو میرے وعظ کے  
ہتھکڑوں پر مبر کر لے۔ بہ تحقیق جب مجھ پر میرا جنوں سوار ہو جائے  
گا تو میں تجھے نہ دیکھوں گا کچھ حیرانِ لحاظ پاس نہ کروں گا۔ جب  
میرے باطن اور اخلاص کی طبیعت جوش میں آجائے گی میں  
تیرے چہرہ کو نہ دیکھوں گا میں بہتری کا اور تیرے قلب سے  
خباثت کے دور کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور اس بات کا کہ  
میں تیرے گھر سے آگ کو بجھا دوں اور تیرے گھر بار کی  
حفاظت کروں۔ تو اپنی انٹھوں کو کھول دے اور اپنے اگے  
اُنے والے حال پر نظر ڈال عذاب و مواخذوں کا شکریہ تیری  
طرف بڑھا ہوا رہا ہے۔

اے احمق تیرے اوپر انسو ہے تھوڑے زمانہ کے بعد  
تو مرنے والا ہے۔ ہر حالت اُس میں زائل و تفرق ہونے والی ہے

ذَلِكَ فَقَالَ مُشِيرًا إِلَيْهِ لَيْتَكَ لَمْ  
تَخْلُقْ وَإِذَا خُلِقْتَ عُدَّتْ مَا خُلِقْتَ  
لَهُ.

يَا نَابِعُ انْتَبِهْ فَإِنَّ السَّبِيلَ  
قَدْ أَحَاطَ بِكَ مِنْ أَمَامِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
يُدْعَى مَا كَتَبْتُكَ مِنْ مُعَلِّمِكَ مَنْ  
دَاعَيْكَ مَنْ يَدِيكَ لَا نَسَبَ لَكَ  
صَحِيحُ النَّسَبِ عِنْدَ اللَّهِ وَرِعْنَدَ  
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَهْلُ  
التَّقْوَى قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَلَك  
قَالَ كُلُّ تَقِيٍّ إِلَّا مُحَمَّدًا أَسَكْتَ أَنْتَ  
لَا عَقْلَ لَكَ بَيْنَكَ عَلَى الدَّجَلَةِ وَ  
تَمُوتُ عَطَشًا خَطَوَاتٍ وَقَدْ وَصَلْتَ  
إِلَى الرَّحْمَنِ النَّفْسُ وَالْخَلْقُ وَأَنْتَ يَا مُرِيدُ  
خَطَوَاتٍ وَقَدْ وَصَلْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنْ  
أَرَدْتَ الْفَلَاحَ فَاصْبِرْ عَلَى مَطَارِقِ كَلَامِي  
إِنِّي إِذَا أَخَذَنِي لَا أَمَّا لَكَ إِذَا شَاءَ طَبَعُ  
سِرِّي وَطَبَعُ إِخْلَاصِي لَا أَرَى وَجْهَكَ  
وَأُمرِيدُ الصَّلَاحَ وَإِذَا لَهَ الْخُبْرُ عَنْ  
قَلْبِكَ وَأُظْفِي الْحَرِيقَ عَنْ بَيْتِكَ وَ  
أَصُونُ حَرِيمَكَ إِفْتَحْ عَيْنَكَ وَانْظُرْ  
مَا أَمَامَكَ أَنْتَ جُنُودُ الْعَذَابِ وَ  
الْمَوَاحِدَاتِ.

وَيْلَكَ يَا أَحْمَقُ أَنْتَ بَعْدَ قَلِيلٍ  
مَيِّتٌ كُلُّ حَالَةٍ فِيهِ غَرَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

یہ اپنی اولاد اور گھر اور جو رو سے جدا ہو جائے گا اور مٹی اور قبر اور ملائکہ عذاب یا ملائکہ رحمت سے رفاقت کرنا پڑے گی۔  
اے کوچ کرنے والے اے زائل ہونے والے۔  
اے انتقال کرنے والے اے سہ تپا عاریت پاک ہے  
وہ ذات جس نے تم پر آگاہ کرنے والوں عالموں کو بھیج کر احسان فرمایا ہے پس تم اُن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

اے بد بخت تو تو میرے پاس تمام سال یا پورے مہینہ یا سارے ہفتہ میں ایک مرتبہ بھی نہیں آتا جس میں تجھے دایک ذرہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ ایک دانہ دینے کی تو بغیر کسی چیز کے دیے ہم سے ایک چیز لے لے اور کل بغیر ذرہ دیئے لاکھوں چیزیں لے لینا۔ میں تو تیرے بوجھ اٹھانے والا ہوں تو اس سے ڈرتا ہے کہ میں تجھ کو اپنے بوجھ اٹھانے کی تکلیف دوں گا۔ میرے بوجھوں کے اٹھانے کے لیے اللہ عز وجل کافی ہے تجھے مجھ سے ایک کلمہ سننے کے لیے ہزار برس کا سفر کرنا چاہیئے تھا پس اس حالت میں کہ میرے اور تیرے درمیان میں چند ہی قدم ہیں تو نہیں آتا تیری کیا کیفیت ہے تو کامل نادان اور نا سمجھ ہے تیرے نزدیک رہے کہ تجھے کچھ دے دیا گیا ہے دنیا نے تجھ جیسے کو فریب کیا اور اُس کو کھا گئی۔ اُس کو جاہ اور کثرت مال سے فریب بنایا پھر اُسی کو کھا گئی۔ اگر دنیا میں ہم بہتری دیکھتے تو تو اُس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتا خبردار ہو جا کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم سب ہی کاموں میں مشغول ہیں سب اُسی کی طرف سے ہیں جب آپ کسی سے نیچے آئے آپ سے آپ کے بعض شاگردوں نے کہا ابلتہ آپ نے وعظ میں بہت مبالغہ فرمایا اور گفتگو میں بہت سختی فرمائی پس آپ نے اُن کو جواب دیا اگر میرے کلام نے

هَذَا اَيُّ بَرَاءٍ وَلَدَكَ وَ دَارَكَ وَ نَزَّ وَجَّتَهُ  
وَيُؤْفِقُ التُّرَابَ وَ الْقَبْرَ وَ التُّرَابَ بَانِيَةً  
أَوْ مَلَأَ بِكَ الرَّحْمَةَ يَا رَاحِلُ يَا رَاحِلُ يَا  
مُنْتَقِلُ يَا عَائِرِيَّةُ سُبْحَانَ مَنْ مَتَّقَ  
عَلَيْكُمْ بِالْمُنْتَهِيْنَ فَلَا تَرَوْنَ

يَا مَدِّ بَرًّا لَا تَأْتِيْنِي فِي كُلِّ سَنَةٍ  
مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ فِي كُلِّ  
أُسْبُوعٍ بَلَا ذَمِّهِ وَلَا حَبَّةٍ  
خُدْ شَيْئًا بَلَا شَيْءٍ وَغَدًا أَلْفَ  
أَلْفِ شَيْءٍ بَلَا ذَمِّهِ أَنَا حَامِلُ  
أَثْقَالِكَ تَخَافُ أَنْ أُكَلِّفَكَ  
أَثْقَالِي إِنَّمَا يَكْفِيْهَا اللَّهُ عَمَّ وَ  
جَلَّ سَائِرُ أَلْفِ عَامٍ لِّسَمْعٍ  
مِّثْلِي كَلِمَةً فَكَيْفَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ  
خَطَوَاتُ أَنْتَ كَسَلَانُ أَنْتَ  
جَوِيْهِلُ الْكَمْرِ عِنْدَكَ أَثَقَلُ  
أَعْطَيْتَ شَيْئًا سَمَنْتِ الدُّنْيَا وَمِثْلَكَ  
وَأَكَلْتَهُ سَمَنْتَهُ بِالْجَاهِ وَالْكَثْرَةِ  
ثُمَّ أَكَلْتَهُ لَوْ رَأَيْتَ فِيْهَا خَيْرًا مَا  
سَبَقْتُنَا إِلَيْهَا أَلَا رَأَى اللَّهُ تَصْوِيرُ  
الْأُمُورِ مَا نَحْنُ فِيْهِ كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ  
لَمَّا نَزَلَ عَنِ الْكُرْسِيِّ قَالَ لَهُ بَعْضُ  
تَلَامِيْذِهِ لَقَدْ بَالِغَتْ الْعِظَةُ وَخَشَشَتْ  
الْقَوْلُ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ عَمِمْ مَعَهُ كَلَامِي

فَسَيَعُودُ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْضُرُ  
مَجْدِسَةً وَيَأْتِيهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْمَجْلِسِ  
فَيَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَاصِعًا مُتَصَاعِرًا  
رَحْمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ۔

رحمت ابرو

اُس میں کچھ عمل واثر کر لیا ہے پس ابنِ تلقی پھر عنقریب اُسے گا۔  
اس کے بعد وہ برابر آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا رہا اور غیر وقت  
مجلس میں بھی آتا تھا اور آپ کی حضوری میں نہایت ادب کے  
ساتھ تواضع اور انکسار کی حالت میں بیٹھا رہتا تھا اللہ کی اُس پر

اے اللہ میں صبر و عفو اور غنا کو طلب کرتا ہوں جب تو مخلوق  
میں سے کسی کے سامنے اُس چیز کے کرنے کے لیے جو کہ اُس  
کے پاس ہے ٹھہرے گا اللہ تنہا تجھے پر غصہ فرمائے گا۔ جو  
کوئی امیر کے سامنے اُس کی دولت مندی کی وجہ سے جھکے گا  
اُس کا دل تہائی دین چلا جائے گا۔ تحقیق تو نے مخلوق سے طلب  
کرنے کی عادت ڈال لی ہے گدا گرین گیا ہے اور تو اسی حالت  
میں خدا سے ملے گا میں نے ایک شخص کو مغلہ جبر میں دیکھا کہ لوگوں  
سے بھیکے لگتا پھرتا تھا حالانکہ اُس نے اپنے دیا کے جبہ  
کو پکھیس اشرفیوں میں فروخت کیا تھا پس میں اُس کے پیچھے  
ہو لیا وہ ایک شخص کے پاس جو کہ ہر بیمہ کھارہا تھا اگر کھڑا ہو گیا  
پھر تا وقتیکہ اُس نے ہر بیمہ میں سے اس سائل کو ایک لقمہ نہ  
دے دیا وہی کھڑا رہا۔ میں نے یہ حال دیکھ کر اس سے کہا  
کہ کیا تو نے اتنے اتنے داموں میں اپنا جبہ نہیں بیچا ہے اس  
نے جواب دیا کہ کیا میں اپنے پیشے کو تیری وجہ سے چھوڑ دوں  
گا۔ جو شخص انتہائی درجہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے وہ طلب  
ہو جاتا ہے۔ تمام مخلوق کے بوجھوں کو اٹھالیتا ہے مگر  
اُس کو ایمان بھی تمام مخلوق کی مقدار عطا فرمایا جاتا ہے۔ تاکہ  
اُن بوجھوں کے اٹھانے پر مضبوط ہو جائے۔ تو میری قمیص  
اور فرش کو نہ دیکھ۔ یہ لباس موت کے بعد کا ہے یہ کفن ہے  
کفن ہے اور میت کو کفن عمدہ دیا جاتا ہے۔ یہ قمیص و فرش مرقوں

اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَفْوًا اللَّهُمَّ غِنًى  
إِذَا وَقَعْتَ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ  
يَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ مَقْتَلَكُ اللَّهُ مَنْ  
تَضَعُصَمَ لِيَغْنِي لِحَاجِلِ مَا فِي يَدَيْهِ  
يَذْهَبُ ثُلُثًا دِينُهُ أَنْتَ قَدْ  
تَعَوَّدْتَ الطَّلِبَ مِنَ الْخَلْقِ تُلْقِي  
اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا آيَتْ  
فِي الرَّحْبَةِ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ مِنَ  
النَّاسِ وَقَدْ بَاغَ حُبَّةَ دِينَارٍ بِخَمْسَةِ  
وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَتَبِعْتُهُ فَوَقَفَ عَلَى  
رَجُلٍ يَأْكُلُ هَرِيرَةً فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى  
أَعْطَاهُ لُقْمَةً قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَبِعْ حُبَّةً  
يَكْذًا وَكَذًا قَالَ أَشْرَكَ صَنَعْتِي لِأَجْلِكَ  
مَنْ بَلَغَ غَايَةَ الْوِلَايَةِ صَارَ قَاطِبًا  
يَحْمِلُ أَثْقَالَ الْخَلْقِ جَمِيعًا وَلَكِنْ  
يُعْطَى كَأَيِّمَانِ الْخَلْقِ جَمِيعًا لِيَتَقَرَّ بِهِ  
عَلَى حَمْلِ مَا حَمَلَ لَا تَنْظُرْ قَبِيصِي  
وَكُفْرِي حَتَّى هَذَا اللَّبَاسُ بَعْدَ  
الْمَوْتِ هَذَا كَفَنٌ وَكَفَنٌ  
وَكَفَنٌ الْمَيِّتِ تَجَمَّلُ هَذَا

نک میرے صوف کے پہننے اور ٹوٹا جھوٹا کھانے اور بھوکا رہنے کے بعد دیا گیا ہے۔ میرے پاس ایک مشغلہ ہے میں تمہارے بغیر کے ساتھ مشغول رہتا ہوں۔

اے بغداد کے رہنے والو! اے زمین و آسمان والو! تم عاقل بنو (خدا وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جیسے تم نہیں جانتے ہو) یہ مرتبہ محض آرائش اور بناوٹ و سنگھار سے نہیں ملتا کرتا ہے بلکہ یہ ظاہر ہے جس کی تصدیق باطن اور باطن ہے جس کی تصدیق ظاہر کیا کرتا ہے جب تک کہ تمام تیرے رب ایک رب نہ ہو جائیں تو سب کو چھوڑ کر ایک کو نہ پکڑے اور تمام تیری جہتیں ایک جہت نہ ہو جائیں اور تیرا محبوب صرت ایک نہ ہو جائے اور تیرا قلب متحد نہ ہو جائے تیرا کلام معتبر نہیں تیرے قلب میں قرب الہی کب خیمہ زن ہو گا۔ تیرا قلب مجذوب کب بنے گا اور تیرا باطن مقرب کب بنے گا۔ تو رب تعالیٰ جب ہی ل سکتا ہے۔ جب کہ مخلوق سے جدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سب سے توڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے

گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی تمام ضروریات میں کفایت کرے گا اور جو دنیا کا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کو دنیا کے سپرد کر دے گا وہ جانے اور اُس کو دنیا۔ اللہ والے میں خرق عادات ہونے لگتے ہیں انسان وہ مرتبہ جو کہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ جب ہی پاتا ہے جب کہ وہ سب سے انقطاع کر کے اُسی کی طرف قلب سے کھینچا مل ہو جائے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ جو کوئی میرے بغیر کے ارادہ سے عمل کرتا ہے پس میں غنی تر شریکوں کا ہوں (میں کسی کا محتاج نہیں ہوں) تو وہ عمل میرے شریک کے لیے کرتا ہے نہ کہ میرے لیے۔

مسلمان کے لیے اخلاص زمینا ہے اور عمل اُس کی

بَعْدَ لُبْسِي الصُّوفَ وَأَجْلَى الْحَشِينِ  
وَالْجُوعِ عِنْدِي شَعْلٌ شَاعِلٌ مَعَ  
غَيْرِكُمْ۔

يَا أَهْلَ بَغْدَادِ كُونُوا عُقَدَاءَ يَا  
أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَا أَهْلَ السَّمَاءِ وَ  
يَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَيْسَ بِالتَّخَلِّي  
هَذَا ظَاهِرٌ يُصَدِّقُهُ بَاطِنٌ وَبَاطِنٌ  
يُصَدِّقُهُ ظَاهِرٌ لَا كَلَامَ حَتَّى تَصِيرَ  
أَوْ بَابَكَ سَابًّا وَاحِدًا وَجِهَاتُكَ  
وَاحِدَةً وَجِهَاتُكَ وَاحِدَةً وَ  
مَحْبُوبُكَ وَاحِدًا وَيَتَّحِدُ قَلْبُكَ مَعِيَ  
تَحْتِمَ قَرُبِ الْحَقِّ فِي قَلْبِكَ مَتَى تَصِيرُ  
قَلْبُكَ مَجْدُوبًا وَسِرُّكَ مُقَرَّبًا تُلْقِي  
رَبِّكَ بَعْدَ الْعُرُوجِ مِنَ الْخَلْقِ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ  
مُؤْنَتَهُ وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ  
اللَّهُ إِلَيْهَا تَحْرَقُ الْعَادَاتُ فِيهِ لَا  
يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ  
الْانْقِطَاعِ إِلَيْهِ بِقَلْبِهِ وَكَلْبَتِهِ  
اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ عَمِلَ  
عَمَلًا يُرِيدُ بِهِ غَيْرِي فَإِنَا  
أَعْنَى الشَّرِيكِينَ هُوَ  
بِشْرِيكِي دُونِي الْإِخْلَاصُ  
أَرْضُ الْمُؤْمِنِ وَالْأَعْمَالُ

حِطَّانَهَا كَالْحِطَّانِ تَتَبَدَّلُ وَتَتَغَيَّرُ  
وَأَمَّا الْأَرْضُ فَالْأَرْضُ لَا تَتَبَدَّلُ وَتَتَغَيَّرُ  
عَلَى التَّقْوَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ انْقَطَعَتْ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَكُنْ مَوْجِبًا  
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْخَلْقَ فِيكَ لَا فِي الرَّسُولِ  
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى هَلْ عِنْدَكُمْ  
خَبْرٌ مِنَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ عُشْقَانِ الدُّنْيَا  
وَمَا يَنْبَغِيهَا لَوْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَا تَدْعِيهِ  
لَمْ تَحْتَلْ فِي طَلَبِ ذَمِّهِ إِحْرَامُ نَفْسِكَ  
فِي وَادِ الْقُدْرَةِ حَتَّى إِذَا نِيلَ أَمْرُهَا  
إِنْصَلَ دَأْسُ دَرَجَتِكَ بِبَابِ الْقَرَبِ  
اسْتَقْبَلَكَ وَجْهٌ أَحْسَنُ مِنْ رِيَّتِهِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ تَتَبَتِ السَّوْدَةُ  
بَيْنَكُمَا وَادْقَعَتِ الْحُجُبُ وَالْوَسَائِطُ  
سَمِعَتْ اسْتِغَاثَتَهَا مِنْ وَادِي قُدْرَةِ  
فَنَسَلَتْ وَدَائِعَكَ وَاسْتَوَى خِدْمَتِي  
لَكَ أَنَا مُحْبُوسٌ هُنَا عَلَيْكَ وَلَكَ لِيَشْفَعُ  
فِي إِجَابَتِهَا قَرْبُكَ حِينَئِذٍ اْمْتَدَّتْ يَدُ  
الْعِلْمِ إِلَيْهَا وَسَاعَدَتْهَا يَدُ الْحُكْمِ  
أَمَّا غَوْصُكَ فِيهَا فِي بَدْوَ أَمْرِكَ قَبْلَ  
مُخَالَفَةِ طَبْعِكَ وَهَوَاكَ وَإِمَارَتِكَ مَعَ  
زَعْمِكَ أَتَىكَ مِنَ الْمُفَرِّبِينَ  
الْمُحْبُوبِينَ فَذَلِكَ تَحَسُّرُ  
يَلَا زِمَ مَكَ وَحُزْمَانٌ يَخْدَعُكَ لَوْ  
عَدِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا تَقْطَعُكَ لَمَّا

دیواریں پس دیواریں تو بدل سکتی ہیں اور لیکن زمین نہیں بدلتی ہے۔  
جسٹریں نیست کہ عمارت کی بنیاد تقوے پر ہے پس اگر کوئی یہ  
کہے کریں تو سب سے قطع تعلق کر کے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ  
ہو گیا تھا پس اُس نے میری ضروریات کی کفالت رکھی پس اس  
کا جواب یہ ہے کہ خلل و خرابی تیرے اندر ہے نہ کہ معاذ اللہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں  
فرمایا کرتے تھے کیا تمہیں کچھ اللہ سے خبر ہے قسم بخدا کچھ بھی نہیں  
بلکہ تم تو دنیا اور اُس کی زینت کے عاشق بنے ہوئے ہو اگر تو  
اپنے دعوے میں جس کا کہ تو مدعی بنا ہوا ہے سچا ہوتا تو ایک  
ذوہ کی طلب میں بھی حیل نہ کرتا تو اپنے نفس کو تقدیر کے جکڑ میں  
ڈال دے یہاں تک کہ جب اُس کا معاملہ کامیابی پر پہنچ جائے  
گائری سینڈھی کا سراپا قرب سے جا کر مل جائے گا تیرے  
روبرو ایسا حسین چہرہ آجائے جو کہ دنیا و آخرت کی زینت سے  
نہایت خوبصورت ہو گا۔ تم دونوں کے درمیان میں دوستی،  
کامل ہو جائے گی اور تمام حجاب و واسطے اٹھ جائیں گے۔ تو  
اپنی تقدیر کے میدان سے دنیا کی فریاد سننے لگے گا پس تو اپنی  
امانتیں سپرد کر دے اور مجھ سے پوری پوری اپنی خدمت لے  
میں تیرے نقصان و نفع کے لیے یہاں قید ہوں دنیکے جواب  
دینے کے لیے تیرا قرب الہی سفارش کرے گا اس وقت علم کا  
ہاتھ اُس کی طرف بڑھے گا اور شریعت کا ہاتھ اُس کی مدد کر  
گا لیکن ابتدا امر میں تیل مخالفت اپنی طبیعت اور خواہش و ارادہ  
کے تیرا دنیا میں غوطہ لگانا اور یہ خیال کرنا کہ مقربین و مجربین سے  
ہے پس یہ تو ایک حسرت ہے جس نے تجھے لازم بکڑیا ہے  
اور ایک محرومی ہے جو تجھے دھوکا دے رہی ہے۔ اگر تیری  
جان لیتا سا کہ تحقیق دنیا تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے البتہ

سَأَلْتَهَا إِذَا تَهَدَّيَ بِأُطْنِكَ إِلَهُ عَزَّ وَجَلَّ  
تَهَدَّيْتُ الدُّنْيَا لَكَ تَبَدُّو الْحَلَا وَهَلْ لَكَ  
سَمَّهَا شَرَابٌ هِيَ تَبَدُّو الْحَلَا وَهَلْ لَكَ  
نُتْنِي بِهَا أَمْرٌ حَتَّى إِذَا صَارَتْ قَلْبُكَ  
وَجُعِلَتْ تَحْتَ جَنَاحِهَا انْقَلَبَتْ  
سَمًّا وَذَبَحْتِكَ كَأَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ  
يُمَيِّزُونَ بَيْنَ خَوَاطِرٍ قَبْلَ الْإِقْطَاعِ  
إِلَى الرَّوَايَا

يَا مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ خَوَاطِرِ النَّفْسِ  
وَالشَّيْطَانِ وَالْقَلْبِ كَيْفَ نَنْقِطِمْ خَوَاطِرَ  
الشَّيْطَانِ يَا الْمَعَاصِي وَالزَّلَّاتِ بِالْكَفْرِ  
فِي الْأَصْلِ وَالْمَعَاصِي فِي الْفَرْعِ  
وَالْخَوَاطِرِ الْمَلِكِ بِالطَّعَاتِ  
الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قِيلَ لِلَّذِي  
صَلَبَ يَعْنِي الْحَلَّاجَ أَوْصِي قَالَ  
هِيَ نَفْسُكَ إِنَّ مَكِيدَتَهَا وَرَاكِبَتُكَ  
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ  
الْمُلُوكِ فَعَلَيْكَ بِالْخَرَابَاتِ وَ  
الْفِيَاقِي وَالْقَفَارِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ  
الصَّحْوُ مِنْ سُكْرِكَ لِكَيْلَا تُفْشِي  
أَسْرَارَهُمْ فَيَهْذَبُوا وَهَذَا  
طَعْنُهُمْ خَيْرٌ مِنْ إِقَامَتِهِمْ هَذِهِ  
الدُّنْيَا جُعِلَتْ مَرَاكِبَهُ إِنَّ  
نَشِئْتَ أَنْ تَلْقَى مَرَاتِكَ  
الْخَلْوَةَ بَعْدَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ

تو اُس کا سوال نہ کرتا جب تیرا باطن اللہ عزوجل کے لیے مہذب  
بن جائے گا تو دنیا تیرے لیے مہذب بن جائے گی۔ ظاہراً  
دنیا تیرے لیے شیریں معلوم ہوتی ہے اُس کا شربت زہر ہے  
اولادہ میٹھا پن ظاہر کرتی ہے اور بعد کو تلخی و کڑوا پن دکھاتی ہے  
یہاں تک کہ وہ جب تیرے قلب میں اثر کر لیتی ہے اور وہ تجھے  
اپنے پہلو میں دبا لیتی ہے تو اس وقت زہر بلا اثر دکھاتی ہے  
اور تجھے قتل کر دیتی ہے۔ اگلے بزرگ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے  
پہلے خطرات کے درمیان میں تمیز و جدائی کر لیا کرتے تھے  
اسے دوسرے نفس اور دوسرے شیطان اور دوسرے قلب کے درمیان  
میں تمیز نہ کرنے والے تو دوسرے شیطان میں (جو کہ معاصی اور لغزشوں  
سے مالا مال ہے اور اصل میں کفر سے اور فرائض میں نافرمانیوں کے  
ساتھ لاحق ہے) اور الہام ملتی (فرشتہ) میں جو کہ طاعتوں اور اعمال صالحہ  
سے تعلق رکھتا ہے کیسے تمیز کر سکے گا۔ اُن صاحب سے جنہیں سولی  
پر چڑھایا گیا یعنی منصور حلاج علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ مجھے وصیت  
فرمائیے گا جواب دیا وصیت نفس کے لیے ہے اگر تو اُس پر سوار  
ہو گیا بہتر ہے ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو کر تجھے خوار و ذلیل کر دے  
گا جب تیرا ارادہ بادشاہوں کی معیت میں رہ کر شراب پینے کا ہو۔  
پس تو اولاً ویرانوں اور بیابانوں اور جنگلوں کو لازم پکڑ یہاں تک  
کہ تجھے اپنے نشہ سے ہوش آجائے تاکہ تو بادشاہوں کے بھیدوں  
کو جن کی تو معیت چاہتا ہے ظاہر نہ کرے پس اُن کے ہلاک کر ڈالنے  
سے تو نجات پالے وہ تجھے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اسی واسطے اُن  
کی معیت میں رہنے سے سفر کر جانا بہتر ہے (یا اُن کا سفر  
اتمامت سے بہتر ہے) یہ دنیا سفر کی سوار می بنائی گئی ہے  
اگر تیرا ارادہ رب تعالیٰ سے ملنے کا ہے تو تو اُس پر سوار ہو  
کر احکام شریعی کے لازم پکڑنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار

بَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِعَانَةٍ  
 دَعَزَمَ عَلَى شَيْءٍ سَبِيحَةٍ ثَانِي بَابُ الْعِلْمِ  
 بِطَرِيقِ الْحُكْمِ الْحُكْمُ هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّوْهُ  
 فَتَقْبِلُ مَا يَأْمُرُنَا الْحُكْمُ وَلَسَمْعُ وَ  
 نُطِيعُ حِينَئِذٍ كَاتِبِنَا الْأَفَاتُ فَهَذَا هُنَا  
 يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ عَالِمًا يَقُولُ  
 أَحَدُنَا مَا بَالِي إِبْتَلَيْتُ مَعَ قِيَامِي فِي  
 الطَّاعَةِ يَقَالُ لَهُ تَحْتَاجُ إِلَى قَلِيلٍ  
 مِنَ الْعِلْمِ صَاحِبِ الْحُكْمِ يَدْخِرُ  
 صَاحِبِ الْعِلْمِ يُخْرِجُ الْحُكْمُ مَعَ  
 الرَّهَادِ وَالْعِلْمُ مَعَ الصِّدْقِ يَقِينِ  
 الْمُحَبُّونَ الْمَوَاسِينِ الرَّهْدُ مَعَ  
 الْحُكْمِ وَالْحُبِّ مَعَ الْعِلْمِ هَذَا شَرِيكُهُ  
 وَهَذَا وَرِثَتُهُ الْمُتَزَهِّدُ مَحْمُومٌ وَالزَّاهِدُ  
 مَسْئُولٌ وَالْعَارِفُ حَيٌّ بَعْدَ الْمَوْتِ هَذَا  
 الْمُتَزَهِّدُ تَرَكَ الشَّهَوَاتِ وَصَامَ فَهَسَّتْ  
 نَفْسُهُ وَالزَّاهِدُ دَامَ تَوَكُّهُ فَدَامَ  
 مَرُصَتُهُ أَوْ سَأَلَهُ السَّيْلَ مَا تَرَى الدُّنْيَا  
 بِإِلْضَافَةٍ إِلَيْهِ بَيِّنًا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى  
 فَرَاشٍ لُطِيفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَّهُ أَفْسَامُ  
 عَلَى بَابِ زُهْدٍ طَعَامٌ قَدْ قَنَّ لِبَاسٍ عَلَى  
 الْأَوْ تَأِيدَ قَدْ تَغَيَّرَتْ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا  
 حَتَّى اسْتَوْفَى مَالَهُ الْكُفَّارُ وَالْعَصَاةُ  
 مَا اجْتَمَعُوا فِي الطَّلَبِ أَخَذُوا الْحَرَامَ  
 أَحْبَبَى اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْعَبْدَ ثُمَّ انْشَأَ

کر دروازہ الہی پر پہنچنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ اور  
 ارادہ کرنا کسی شے پر سبب ہے تو علم کے دروازہ پر حکم شرع کے  
 واسطے سے آئے گا۔ حکم شرع دو قسم پر ہے۔ اوامر اور نواہی پس جو  
 شرع ہم کو حکم کرتی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور سنتے اور اس کی  
 اطاعت کرتے ہیں اُس وقت ہم پر امتحان ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ  
 اس بات کا حاجت مند ہوتا ہے کہ وہ عالم ہو تم میں سے کوئی کہہ دیتا  
 ہے کہ باوجود اس کے کہ میں طاعت پر قائم ہوں پھر بھی مبتلا آفات  
 ہوں یہ کیا حال ہے۔ اس کو جواب دیا جائے (کچھ یہ سمجھنے کے لیے)  
 تو تھوڑے سے علم کا محتاج ہے۔ صاحب شرع ذخیرہ کرتا  
 ہے اور صاحب علم اس کو ظاہر کرتا اور خرچ کر کے سبب شرع  
 زاہدوں کی معیت میں ہے اور علم صدیقیوں محبوبوں اُس رکھنے والوں  
 کی معیت میں۔ زہد شریعت کی معیت میں ہے اور محبت علم کی معیت  
 میں۔ یہ اُس کا شریک ہے اور وہ اس کا وزیر زاہد بننے والا مثل بخار  
 والے کے ہے اور زاہد مثل سل والے کے اور عارف گویا مرنے  
 کے بعد زندہ ہو جانے والا ہے۔ اس زاہد بننے والے نے  
 خواہشوں کو چھوڑ دیا اور روزہ رکھا پس اُس کا نفس بخار میں مبتلا ہو  
 گیا اور زاہد بنے ہمیشہ کے لیے ترک شہوات کیا اُس کے مرض  
 نے بڑھ کر سل کو پیدا کر دیا۔ اُس کے اعتبار سے گویا دنیا مری  
 وہ سچا زاہد اسی حالت میں لطف الہی کے فراش پر بل جلا روم نوال  
 ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کہ وہیں اُس کے زہد کے دروازہ پر قسم قسم  
 رنگ رنگ کے کھانے اور کھونٹوں پر مختلف لباس پڑے  
 موجود ہوتے ہیں وہ دنیا سے بغیر اس کے کہ اپنے مقسوم کے  
 حصوں کو پورا کر لے نہیں سکتا ہے کافروں اور نافرمانوں نے  
 دنیا کی طلب میں خوبی نہیں برقی حرام میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے  
 اُس بندہ کو زندہ کر دیا پھر اس کو فنا کے بعد دوسری زندگی عطا

خَلَقًا آخَرَ لَحْمٌ قَدْ تَلَا شَلَى عَظْمٌ قَدْ  
 صَعَفَ جِلْدٌ دَقَّ نَفْسٌ قَدْ ذَابَتْ  
 غَدَّتْهَا وَالهَرَى قَدْ عَزَلْ وَالطَّعْمُ قَدْ  
 غَلَبَ وَالْقَلْبُ فِيهِ الرُّوحُ وَالْمَعْنَى  
 وَالْمَعْرِفَةُ وَالتَّوْحِيدُ مَا شَاءَ مَلِكٌ إِلَّا  
 الْقَلْبُ وَالْحَقُّ بَيِّنٌ لَا يُحْبِيهِ بَعْدَ  
 مَوْتِهِ شَهَوَاتُهُ وَنَدَائَتُهُ مَا تَتَّ  
 مَوْتًا مَعْنِيًا مَوْتٌ عَلَيَّ كَدِّي مَوْتٌ  
 صِدْقِي أَحْيَا اللَّهُ يَعْدُ مَا أَمَّا مَا  
 هُنَا لَكَ مَنْ تَرَكَهُ عَلَى بَابِهِ مَيِّتًا يُرِيدُ  
 وَفُوتَ الْحَكِيمَ وَالْأَسْرَارَ وَفُوتَ الْجُنْدِ  
 وَالرَّعَايَا فَلَمَّا أَمَّا مُلْكُهُ وَاطْلَعَهُ عَلَى  
 بَيِّنَةٍ جَمَعَ بَيْنَ رُوحِهِ وَجَسَدِهِ  
 فَاهْبَرَهُ وَبَاطِنَهُ لَا سَنِيْفَاءَ أَقْسَامِهِ  
 قَبْلَ ذَلِكَ كَوَعْرَ صَدَقَ عَلَيْهِ أَقْسَامُ  
 الْفُرْقِ وَالْغَرْبِ لَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا  
 كَمَاءٌ وَاحِدَةً قَدْ رَمَاهُ خَفِيَّةً إِرَادَةً  
 بَاهِيَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْلِيَاءُ وَكَ  
 وَكَلَامًا وَالنَّحَاطِ مِنْ خَلْقِهِ يَحُولُ  
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ لَا تَبْقَى  
 فِيهِ شَهْوَةٌ وَلَا إِرَادَةٌ ذَرَاءَةً  
 حَتَّى مَمَرٌ بَوَاطِنُهُمْ لَهُ فَيَا ذَا  
 أَمَّا أَرْيُوْقِيَهُمْ أَقْسَامُهُمْ  
 أَوْ فِيهِمْ حَيَاةٌ الْوَجُودِ  
 لَا تَحْتِيْفَاءَ إِلَّا فَتَسَامُ

فرمانی اُس کا گوشت تلاش کیا باقی زربا ہڈیاں ضعیف ہو گئیں کھال  
 پتلی پڑ گئی نفس پگھل گیا اُس کے غدد درمک باقی رہے اور خواہش  
 معزول ہو گئی نفس پگھل گیا طبیعت غلبہ بن گئی محض قلب باقی رہا جس  
 میں روح اور معنی اور معرفت و توحید بطورہ افروز ہیں۔ یہاں پر  
 اگر سو اقلب کے کوئی بادشاہ نہیں رہتا اور حق تعالیٰ اس کی  
 ننگداشت فرماتا ہے اُس کو مرنے کے بعد زندہ کرتا رہتا  
 ہے اُس کی شہوتیں اور لذتیں منوی طور پر مری ہوئی رہتی ہیں۔  
 یہ موت علم لدنی والی اور موت صدیقی ہے وہاں کی نعمتیں دکھانے  
 کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اُس کو زندہ کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے  
 باب قرب پر مبرا ہوا چھوڑ دیتا ہے اُس کو کثیر حکمتوں اور بھیدوں  
 اور بہت شگردوں اور رعایا کا نظارہ کراتا ہے۔ پس جب وہ ملک و  
 ملکوت دکھا دیتا ہے اور اُس کو اپنے بھیدوں پر خبردار کر دیتا  
 ہے تو اس کے روح و جسم اور ظاہر و باطن کے درمیان میں مقسوم  
 حصوں کے حاصل کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے  
 حصوں پر قبضہ کر لے اور اس سے قبل اگر اُس پر شترق و غرب  
 کے اقسام و انواع کی چیزیں پیش کی جائیں تو ان سے ایک  
 ذرہ بھی ذلیلت و قدرت خفیہ الہی اور اس کے ارادہ باطنی کی موافقت  
 میں رہتا۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام اور خواص بندہ  
 مخلوق الہی میں سے ان بندوں کے اور ان کی شہوتوں کے  
 درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں قطعاً  
 شہوات اور کوئی ارادہ ذرہ برابر باقی نہیں رہتا ہے یہاں  
 تک کہ ان بندوں کے باطن خدا کے لیے صاف ہو جاتے  
 ہیں پس جب رب تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ  
 بندہ اپنے مقسوم حصوں پر قبضہ کر لیں تو ان میں ان حصوں کے  
 پروراکر لینے کے لیے وجود کی زندگی کا ایسا دکر دیتا ہے

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تَكْتُمُ مَا مَلَكَ  
 الْخِزْيَانُ مَا يَنْزِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى  
 الْأَرْضَ فَيَرْوِجُهُ بِجَارِيَةٍ مِّنْ  
 قَهْرٍ لِّشَيْءٍ وَيُؤَلِّدُ لَهُ مِنْهَا الْعَارِفُ  
 يَتَنَاوَلُ بَعْدَ أَحْكَامِ الْعِلْمِ وَالرُّهْدِ  
 فَيَتَنَاوَلُ أَقْسَامَهُ مَعَكُمْ يَتَنَاوَلُ  
 الشَّهَوَاتِ بَعْدَ أَنْ يَزْهَدَ فِيهَا عِنْدَ  
 الشُّكِّ فَإِذَا عَلِمَ طَابَتْ لَهُ الْمَاءُ  
 الْبَارِدُ وَالطَّعَامُ السَّيِّئُ عِنْدَ الرَّهَادِ  
 كَثُرِبِ الْخَيْرِ وَآكَلِ لَحْمِ الْخَيْزُورِ كَمْ  
 مِنْ زَاهِدٍ مَّحْجُوبٍ بُزْهَدٍ ۝ عَنِ الْحَقِّ  
 كَمْ مِنْ عَارِفٍ مَّحْجُوبٍ بِظُهُرِهِ إِلَى  
 مَعْرِفَتِهِ وَهَذَا نَادِمٌ وَالْغَالِبُ أَنْ  
 يَكُونَ سَابِقًا وَفِي الْجُمْلَةِ قَهْرٌ بِكَ  
 إِلَى آتَاءِ الدُّنْيَا يَبْعُدُكَ عَنِ اللَّهِ  
 عَمَّا وَجَلَ وَالصَّوَابُ لَكَ أَنْ تُقْبَلَ عَلَى  
 الْآخِرَةِ وَعَلَى الطَّاعَةِ لَعَلَّكَ تَنْجُو  
 وَأَقْسَامُكَ تَأْتِيكَ وَهِيَ كَأَمْرَةٍ  
 يَا مُرَدُّ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ طَبْعِكَ وَتَجْعَلَ  
 مَكَانَهُ رُخْصَ الشَّرِّ ثُمَّ يَا مُرَدُّ أَنْ  
 تَتَرَكَّ مِنَ الرُّخْصِ شَيْئًا إِلَى أَنْ يَصِيرَ  
 كُلُّ أَعْمَالِكَ عَزِيْمَةً فَإِذَا اصْبَرْتَ عَلَى  
 الْعَزِيْمَةِ جَاءَ الْحُبُّ بِاللَّهِ عَمَّا وَجَلَ فِي  
 قَلْبِكَ فَإِذَا اشْبَهْتَ الْحُبَّ جَاءَتْ الْوَلَايَةُ  
 مِنَ اللَّهِ عَمَّا وَجَلَ لَكَ إِنْ كُنْتَ حَاقِلًا

عیسی علیہ السلام نے دنیا کو کیا اور کسی شے کے مالک بنے۔  
 آخر زمان میں اللہ تعالیٰ اُن کو زمین پر اتارے گا۔ پس قریش کی  
 ایک لڑکی سے اُن کا نکاح کر لے گا اور اُس لڑکی سے آپ کو  
 اولاد دی جائے گی۔ عارف باللہ علم و زہد کے مضبوط کر لینے کے  
 بعد کھایا کرتا ہے۔ پس وہ اپنے مقسوم حصہ تمہارے ساتھ مل  
 کر کھاتا ہے۔ خواہشات کی چیزیں اس کے بعد کھاتا ہے کہ  
 شک کے وقت ان میں زہد کر چکتا ہے۔ پس جب اُس کو معلوم  
 کر لیتا ہے اُس کے واسطے وہ چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے۔  
 ٹھنڈا پانی اور عمدہ کھانا زاہدوں کے نزدیک مثل شراب پینے  
 اور سرور کے گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت سے زاہد ایسے  
 ہیں جو اپنے زہد کی وجہ سے حق عزوجل سے محبوب ہیں کتنے عارف  
 ہیں کہ وہ اپنی معرفت پر نظر کرنے کی وجہ سے اللہ سے محبوب  
 رہتے ہیں اور یرہیت کم ہے اور اکثر یہی ہے کہ وہ اس آفت  
 سے سالم رہتے ہیں۔ علامہ کلام یرہے کہ دنیا داروں سے  
 نیز اقرب تجھ کو اللہ تعالیٰ سے دور ڈال دیتا ہے۔ عزوجل۔  
 اور تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تیری توجہ آخرت اور طاعت پر  
 ہو ہو سکتا ہے کہ تو ایسی حالت پر پہنچ کر نجات پالے۔  
 تیرے مقسوم حصہ زبردستی تجھے پہنچیں گے۔ وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ  
 تو اپنی طبیعت سے باہر آیا اور اُس کی جگہ پر توشیحی رخصتوں  
 کو جگہ دیدے۔ بعد ازیں حکم دیتا ہے کہ ہستہ ہستہ رخصتوں کو  
 چھوڑ کر عزیمت کی طرف آجیاں بانک کر تیرے کمال فعل مطابق  
 عزیمت ہونے لگیں پھر جب تو عزیمت پر صبر کرنے لگے گا  
 اُس وقت محبت الہی تیرے قلب کے اندر آجائے گی۔  
 (عزوجل) پھر جب محبت قرار پکڑے گی اللہ عزوجل کی طرف  
 سے ولایت آئے گی اور تجھے گلے لگائے گی۔ اگر تو قائل نہ ہے

عَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِيَحْمِلَكَ ذَلِكَ  
عَلَى إِحْسَانِ الْعَمَلِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ  
الْجَنَّةِ فَقَدْ أَذَيْتَ شُكْرَهُ إِذَا خَرَجْتَ  
مِنْ بَيْتِكَ كَأَنَّكَ خَافِرٌ إِلَى الْحَرْبِ كَأَنَّكَ  
لَا تَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ  
مُبْتَلَى بِكَسْبِكَ وَتَيَقَّنْ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ  
أَنْ يَرْمِيَنَّكَ مِنْ غَيْرِ مَسْجِي وَبَطْنِ الْمُؤْمِنِ  
كَالْجَبَلِ مَرَّةً وَالرَّيْشَةِ أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ  
الْبَلَاءِ كَالْجَبَلِ وَعِنْدَ صُحْبَةِ الْحَقِّ  
عَزَّ وَجَلَّ كَالرَّيْشَةِ تَقْلِبُهُ أَرْيَاحُ  
قَدِيرَةٌ

يَا قَوْمًا فَاتَتْكُمْ الرِّسَالَةُ وَ  
الْمُبَوَّاةُ لَا يَفُوتُكُمْ الْوَلَايَةُ لَا مَحْبَةَ  
لِلْمَلِكِ مَعَ الْوُجُودِ كَأَنَّكَ لَأَبْصَرُ  
كَأَنَّ سَرَيَانًا لَا تَشْرَبُ كَأَنَّكَ مَيِّتٌ لَا  
حَرَاكَ يَدٍ وَذَيْلٌ لِلْمُحْجُوبِينَ الَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُحْجُوبُونَ لَا تَعْمَلُ  
خَيْرًا وَلَا تَعِينُ أَهْلَ الْخَيْرِ عَلَى الْخَيْرِ  
إِنَّكَ أَنْتَ فَتَرُ تَحِبُّ دُنْيَا بِلَا آخِرَةٍ  
ظَاهِرًا بَاطِنًا مَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَنْفَعُكَ  
وَصَاحِبُكَ عَنْ قَرِيبٍ تَمُوتُ وَتَذِلُّ  
بَعْدَهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ  
الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ وَلِلْأَوْلِيَاءِ وَ  
الصَّالِحِينَ الْبَحْرُ الدُّنْيَا وَالْمَكَبُ  
الْشَّرُّ وَالْمَلَأَمُ لُطْفُ اللَّهِ

تو اپنے نفس کو دوزخ والوں میں سے شمار کرتا کہ یہ امر تجھے نیکو کاری  
کرنے پر برا سمجھ کرے پس اگر تو اہل جنت سے بھی ہوا تو تو نے  
عمل کر کے شکر مولے گا و اگر یہاں جس وقت تو گھر سے نکلے یہ سمجھ کر  
تو لڑائی کی طرف جا رہا ہے گویا کہ تو اپنی منزل کی طرف لوٹ کر آئے  
گا۔ اور تو اس بات کو جان لے کہ تو اپنے کسب کے ذریعہ سے  
آزایا گیا ہے اور اس بات کا یقین رکھ کہ اللہ عز و جل بلا کسب و  
کوشش کے بھی تجھ کو رزق دینے پر قادر ہے۔ ایمان والا شخص  
کبھی مثل پہاڑ کے ہوتا ہے اور کبھی مثل پر کے۔ بلا کے نازل  
ہونے کے وقت مثل پہاڑ کے ہوتا ہے اور صحبت الہی کے  
وقت وہ مثل پر کے ہوتا ہے کہ اس کو قضا و قدر کی ہوائیں اٹھ  
پلٹ کرتی رہتی ہیں۔

اے ہماری قوم والو! تم سے رسالت و نبوت کے  
مرتبہ تو فوت ہو چکے اب تم سے ولایت کا مرتبہ بھی فوت نہ  
ہو جائے۔ خودی کے ساتھ میں بادشاہی صحبت نصیب نہیں  
ہو سکتی ہے تو ایسا اندھا بن جاگیا کہ تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے  
گویا تو ایسا سیراب ہے کہ تجھے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے  
گویا کہ تو ایسا مردہ ہے کہ تجھ میں حرکت ہی نہیں ہے افسوس  
ان مجبوروں کے لیے جو یہ نہیں جانتے کہ یہ تحقیق وہ محبوب ہیں۔  
نہ تو تو بھلائی کرتا ہے اور نہ اہل خیر کی تو خیر پہ مدد کرتا ہے  
یہ تحقیق تو سراپا بشر ہے دنیا کو بغیر آخرت کے ظاہر کو بغیر باطن  
کے تو دوست رکھتا ہے تیری حکومت اور تیری امیری اور  
تیرا صاحب تجھ کو کچھ نفع نہ دے گا۔ عنقریب تو مرجھائے گا۔  
اور بعد ذلیل ہوگا۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو پس عزت  
اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ و صالحین کے ہی واسطے  
ہے۔ دنیا سمندر ہے اور شریعت جہاز ہے اور نا خدا لطف الہی

عَزَّ وَجَلَّ فَسَمَّ شَدَّ عَنْ مُتَابَعَةِ  
الشَّرِّ عِرْقٌ فِي بَحْرِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
أَدَّى إِلَى مَرْكَبِ الشَّرِّ وَأَقَامَ  
هُنَاكَ اسْتَنَابَهُ الْمَلَكُ وَسَلَّمَ  
الْمَكَّكَ بِمَا فِيهِ إِلَيْهِ وَصَاهُكَ وَ  
هَكَذَا مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا وَاسْتَعْلَى  
بِالْعِلْمِ وَصَبَرَ عَلَى الْإِذَى صَارَ  
مَحْبُوبَ الشَّرِّ بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ  
إِذْ جَاءَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلُطْفِهِ  
جَاءَهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَخَلَعَ بِخُصَّةٍ وَلَايَةً  
حَقِّقَ وَلَايَتَكَ فِي اللَّهِ مَعْدُودَةً عَنْ  
قَوَاتٍ غَيْرِهِ إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ فَلَا تَحْزَنْ  
عَلَيْهِ فَإِنَّ السَّلَاحَ يَنْصَرِفُ فِي مَالِهِ  
الْعَبْدُ وَمَا مَلَكَ لِمَوْلَاكَ مَا يَأْخُذُ بِهِنَّ  
تَجِدُهُ عَدَا قَتْلُ لَهُ النَّاسُ

يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْعَاءَ نَوْمُكَ  
لَهَبِي هَكَذَا فِي الدُّنْيَا إِذَا قَرَى الْإِيمَانَ  
وَاتَّصَلَ الْبَاطِنُ بِقَرِيبِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
جَاءَتْكَ تَامُّ الْأَقَاتِ فَوَقَفْتَ عَلَى طَرِيقِ  
الْقُلُوبِ تَامُّ الْمَجَاهِدَةِ تَقَعْتَ فِي  
طَرِيقِ الْمُرِيدِينَ قَاتِلِ يَدِ يَأْخُذُكَ لَمَّا  
بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ بَقِيَّةِ الدُّنْيَا وَرُؤْيَا الْخَلْقِ وَ  
كَامِلِ الْإِيمَانِ تَقُولُ لَهُ جُزْ

يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْعَاءَ نَوْمُكَ  
لَهَبِي فَدَرَّ يَصُورُ هُمْ فِي الدُّنْيَا

عزوجل ہے۔ پس جو شخص شریعت کی متابعت سے ہٹے گا دنیا  
کے سمندر میں ڈوبے گا اور جو شریعت کے جہاز میں سوار ہو گا۔  
اور وہاں کھڑا ہو گا خدا اُس کو اپنا نائب بنائے گا اور جہاز  
مع سامان کے اُس کے حوالہ کر دے گا اور اس سے رشتہ جوڑ  
لے گا۔ اور ایسا ہی حال ہے اُس شخص کا جو کہ دنیا کو چھوڑے  
اور علم میں مشغول ہو جائے اور تکلیفوں پر صبر کرے وہ شریعت  
کا محبوب بن جائے۔ ناگاہ وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس  
کو اللہ عزوجل کا لطف اپنی معرفت اور خلعت مخصوصہ لے کر پہنچتا  
ہے تیرے لیے ولایت پر ولایت ہے غیر اللہ کے فوت  
ہو جانے پر تیرے لیے اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے  
جب تجھ سے کوئی شے فوت ہو جائے پس تو اُس پر غم  
نہ کیا کر کیوں کہ بادشاہ اپنے مال میں تصرف کیا ہی کرتا ہے غلام  
اور اُس کی تمام مملوکہ چیزیں اُس کے مولے ہی کی ہوتی ہیں جو  
کچھ خدا آج تجھ سے لے گا کل تو اُس کو پالے گا۔ دوزخ  
کی آگ اُس سے کسے گا۔

اے مومن تو جلد مجھ پر سے گزر جا پس تحقیق تیرے  
نور نے میرا شعلہ بجھا دیا اسی طرح سے جب دنیا میں ایمان  
قوی ہو جاتا ہے اور باطن قرب الہی سے متصل ہو جاتا ہے  
تو آنسوؤں کی آگ آتی ہے اور قلوب کے دروازہ پر اکٹھڑ  
باقی ہے مجاہدہ کی آگ آتی ہے مریدوں کے راستہ میں اگر  
ٹھہر جاتی ہے پس وہ مرید جس میں دنیا کا بقیہ اور خلق کی رویت  
کا سامان موجود ہوتا ہے اُس کو یہ آگ پکڑ لیتی ہے اور کامل  
الایمان مرید سے کہتی ہے

کہ اے ایمان دار تو مجھ پر سے جلد گزر جا پس تحقیق  
تیرے نور نے میرا شعلہ بجھا دیا۔ پس ایسوں کو دنیا میں وہ

سِيَاهُمْ نَفَعٌ فِي حِدَارِ الْفَلَمَةِ اَعْمَلُوا  
عَمَلًا لَا يَشْكُرُكُمْ تَاَمُّ الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادُ كَيْسِيْنِهِمْ  
اَطْبَاءُ يُحْيِيهِمْ فِي عَارِفِيَةٍ وَ  
يُمِيْتُهُمْ فِي عَارِفِيَةٍ وَ يَدْخُلُ  
الْجَنَّةَ فِي عَارِفِيَةٍ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ  
عَزَّ وَجَلَّ اِنْقَطَعَ عَنِ الشَّهَوَاتِ  
وَاللَّدَاتِ وَاِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى  
اِسْتِيفَاءِ اَلْاَقْسَامِ اَلْجَاوِ قَبْلَ  
الدَّارِ حَصَلَ لَهُ اَلْجَاوُ طَفَعَ هَذَا  
اَلْمُبَارَكُ بِالدَّارِ تَتَكَّنْ مِنْ  
اَلْمَلِكِ اِذْكَ اَلْيَوْمَ لَدَيْتَا مَكِيْنُ  
اُمِيْنُ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ وَ اَدْخَلَ عَلَيْهِ  
لَا يَمُدُّ عَيْنِيْهِ اِلَى شَيْءٍ مِّنْ مُّلكِهِ  
وَلَا يَدِيْهِ كَعَمْرِ دِيْسٍ رُفَّتْ  
اِلَى الْمَلِكِ طَعَامُهَا وَ شَرَابُهَا  
قُرْبُ الْمَلِكِ جَمِيْعَ شَهَوَاتِهَا  
تَجِدُهُ فِي قُرْبِهِ اِذَا طَاعَتْ  
النَّفْسُ كَانَتْ مَعَ الْقَلْبِ صَاْرَ  
سَبْجَانُهَا اُخْرِجَ الْقَلْبُ مِنْ  
السَّجْنِ قَالَ الْمَلِكُ اُمْتُوْنِيْ بِهِ  
بَعْدَ ظُهُوْرِ بَحَابَتِهِ وَ حُسْنِ  
اَخْلَاقِهِ وَ اَدَبِهِ جِئْتِيْ بِهِ  
اَسْتَقْبَلْهُ يَا لَكَ رَامَةً  
وَ قَرَابَةً وَ اَدْنَاكَ وَ

تیر بھی نقصان نہیں پہنچا تے جو کہ قلو کی دیوار پر گر کر دیوار کو توڑ  
دیں۔ تم عمل کیے چلے جاؤ تمہیں دنیا و آخرت کی آگ نقصان  
نہ پہنچا سکے گی۔ اللہ عزوجل کے کچھ بندہ ہیں جن کا طیب نام لکھا  
جاتا ہے ان کو وہ عافیت میں زندہ رکھتا ہے اور عافیت میں  
ماتا ہے اور وہ ان کو عافیت میں ہی جنت میں داخل کرے  
گا۔ جو اللہ عزوجل کو پہچان لیتا ہے وہ شہوتوں اور لذتوں سے  
علیحدہ ہو جاتا ہے اور اسے مقسوم حصوں پر قبضہ کرنے کے  
لیے مجبور کیا جاتا ہے پڑوسی کا دیکھ لینا گھر سے پہلے ہے۔  
اس کو اچھا پڑوسی مل گیا اس بابرکت شخص نے گھر پر فتح مندی  
پائی اس نے بادشاہ کی طرف سے مرتبہ پایا اس نے فرمایا۔  
تحقیق آج کے دن تو ہمارے پاس مرتبہ والا امانت والا ہے  
جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس کی حضوری میں داخل ہو جاتا  
ہے وہ اپنی دونوں آنکھیں اس کے ملک میں سے کسی چیز کی  
طرف نہیں اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا  
ہے۔ مثل اس دھن کے جو کہ آراستہ کر کے بادشاہ کی طرف  
بھیجی گئی ہو اس کا تمام کھانا پینا بادشاہ کا قرب ہوتا ہے وہ  
اپنی تمام خواہشیں اس بادشاہ کے قرب میں پالیتی ہے جب  
نفس تابعدار ہو جاتا ہے تو قلب کی معیت میں رہتا ہے  
قلب نفس کا قیدی بن جاتا ہے قلب قید خانہ سے نکالا  
جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ  
جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا اس کی نجابت  
اور حسن اخلاق اور حسن ادب کے ظاہر ہونے کے بعد جب  
اس کو بادشاہ کے نزدیک لایا جاتا ہے اس وقت بادشاہ  
اس کو کرامت کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور مقرب بنا لیتا  
ہے اور اپنے سے نزدیک دیتا ہے اور اس کے ساتھ

أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَخَاطَبَهُ  
 مِنْ غَيْرِ وَاسْطَرَّ إِنَّكَ الْيَوْمَ كَدِينَا  
 مَكِينٌ أَمِينٌ هَ لَا يَشْغَلُهُ بَغِيرُهُ ثُمَّ  
 صَدَرَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْصَنَاهُ  
 وَقَالَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ حَيِّبٌ غَائِبٌ  
 قَدِمَ كَيْشْغَلُ حَتَّى لَا يَشْغَلَ إِذَا طَالَتْ  
 صُحْبَتُهُ وَذَهَبَ عَنْهُ عَنَاءُ سَفَرِ  
 بَنَتْ لَحْنُهُ وَشَدَّ عَظْمُهُ وَطَابَ  
 عَيْنُهُ وَسَكَنَتْ رَوْعَتُهُ صَارَ يَطَانَةُ  
 السَّكَلِكِ حِينَئِذٍ وَلَا هَ وَآمَرَ عَلَى  
 رَعِيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِقْلِيْمِهِ وَ  
 أَمَرَ سَلَكُهُ إِلَى الْبَحْرِ لِيَنْقُذَ الْغُرَقَى وَ  
 إِلَى الْبَرِّ لِيَأْخُذَ الرِّجَالَ وَالْأَطْفَالَ  
 مِنْ أَفْوَارِهِ السِّبَاعِ لَنَّا خَرَجَ مِنْ  
 بَيْتِ طَبْعِهِ وَأَهْلَهُ لِلنِّيَابَةِ  
 وَإِلَّا مَا مَتَّهَ يَخْلَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
 كَمَا خَلَعَ عَلَى قُلُوبِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ  
 وَالْفُتَاةِ بِهَمِّ الْقَابِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْدَالِ  
 يَا سَوْفَهُ هَهُنَا بَطَائِنُ لِيَلْمُوكِ  
 أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى مَنْ  
 يَحْضُرُ مَجْدِسَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَهُمْ أَحْقِيَاءُ لَا يَعْلَمُهُمْ مَنْ  
 حَضَرَ

سوال متى يصير القبط بسطا والهنل  
 جدا قال اذا باسطك انبسطت

نکوی کتاب ہے اور غلعت بختا ہے اور اس سے بغیر واسطے  
 کے خود کلام کرتا ہے کہ تحقیق تو آج میرے نزدیک صاحب مرتبہ  
 امین ہے وہ اپنے غیر کے ساتھ پھر اس کو مشغول نہیں کرتا یہ  
 کہہ کر حضرت شیخ رضی اللہ عنہ دارشاہ عنانے پیچ مارا اور فرمایا۔  
 یا اللہ یا اللہ یا اللہ غائب حبیب تیرے ساتھ مشغول  
 ہونے کے لیے آگے بڑھتا کہ وہ دوسرے مشغول میں نہ پڑے  
 جب اس بندہ کی صحبت طویل ہو جاتی ہے اور اس سے سفر کی  
 تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کا گوشت بڑھتا ہے اور ہڈی  
 مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے اور اس کی  
 دہشت سکون پالیتی ہے بادشاہ کا مخصوص رازدار بن جاتا ہے  
 اس وقت بادشاہ اس کو ماکم اور اپنی رعیت و اصحاب و ولایت  
 پر امیر بنادیتا ہے اور اس کو دریا کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ بتوں  
 کو بچائے اور جنگ کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ مردوں اور بچوں کو  
 درندوں کے مونہوں سے چھڑائے۔ جب کہ وہ بندہ اپنی طبیعت  
 کے گھر سے باہر نکل گیا اللہ نے اس کو نیابت و امانت کا اہل بنا  
 دیا ان کے قلوب پر ویسے ہی غلعت عطا کرتا ہے جیسے کہ نبیوں  
 اور رسولوں کے قلوب پر غلعت عطا کئے تھے علیہم السلام اور ان  
 کے لقب اولیا و ابدال کے لقب ہیں۔

اسے بازار یوہیاں مجلس میں بادشاہی رازدار اور اصحاب  
 خیر لوگ موجود ہیں تم باادب ہو۔ اس سے آپ کا اشارہ ان ولوں  
 اور فرشتوں کی طرف تھا جو کہ آپ کی مجلس مبارک  
 میں حاضر تھے اور وہ دوسرے حاضرین سے پوشیدہ تھے وہ ان کو  
 نہ جانتے تھے

سوال تبش کب بسط ہو جاتا ہے۔ اور ہزل کب جد بنتا ہے  
 جواب ارشاد فرمایا جب وہ تجھ سے بسط کرے گا تجھے انبساط

اِنْقَلَبَتْ رُحُصَتُكَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَزِيْمَتُكَ  
 وَلَا اِلَّا حَتّٰى اِذَا صُرْتَ كَمَلَكٌ عَيْنِ يَمِيْنِهِ  
 اَدْخَلَكَ دَارَ الْفَضْلِ وَالْاُنْثٰى تَبْقٰى  
 بِلَا رُحْصَةٍ وَلَا عَزِيْمَةٍ فِعْلًا مُّجَدِّدًا  
 يَكُوْنُ مَثَلُكَ مَثَلُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ  
 اَكَلَ فِيْهِ بَعْضُ الْاَكْلِ فَتَالَهُ اَدْخَلَ بَيْتًا  
 اَخْرَجَ كُلُّ هٰذَا لَكَ الْوَحْصُ لِنَا قِصِ الْاَكْلِ  
 وَالْعَوَاثِمُ لِكَامِلِ الْاِيْمَانِ وَالْمُلْكُ  
 لِلْعَانِيْنَ مَا قَعَدَتْ عَلَى الْاَمْرِ مِنْ اَلَا  
 فِيْ خَلْوَةٍ فَيَمَّا تَقْتَدِمُ وَالْاَنَ يَخْلُفُ  
 ذٰلِكَ اَنَا مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ لَا يَسْتَحْيِيْ  
 مِنْ ذِكْرِ حَالِهِ لَا تَقِيْ لَا اَمْرٰى اَحَدًا  
 حُسْنُ الْاَدَبِ فِيْ مَوْصِعَيْنِ فِيْ تَوَلّٰى  
 الدُّنْيَا وَفِيْ اَخْذِهَا لَا تَاْتِيْ الْخَلْوَةَ  
 وَمَعَكَ جَهْلٌ لَا تَتَّخِذْهَا قَبْلَ اَنْ  
 تَتَهَدَّبَ تَفَقُّهُ ثُمَّ اَعْتَزِلْ كَمْ تَحْضُرُ  
 الْمَجَالِسَ وَلَا تَعْمَلْ بِكَلِمَةٍ كَمْ  
 مَنْ رَاىَ وَلِيًّا وَاحِدًا فَاسْتَوْصَاهُ  
 خَيْرًا فَوَصَّاهُ فَعَمِلَ بِهَا وَجَعَلَهَا  
 زَادًا وَاَنْتَ تَطْلِعُ عَلَى الْاَخْيَارِ  
 وَتَنْظُرُ الْاَثْقَارَ وَتَحْضُرُ مَجَالِسَ  
 الْاَذْكَارِ وَلَا يَتَقَدَّمُ لَكَ وَتَدْمُرُ  
 فَلَئِنَّكَ تَبَيْتَ قَدَمَكَ مَكَانَهَا بَلْ  
 كَلِمًا جِئْتَ فَاَخْرَجْتَ مِنْ اسْتَوْتِ  
 يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُوْتٌ اِنْ تَبَيْتَ

حاصل ہو جائے گا تیرے حتیٰ میں تیری رخصت عنایت بن جائے  
 گی اور تیری عنایت ناز بنے گی یہاں تک کہ جب تو سراپا عنایت  
 بن جائے گا تو وہ تجھ کو اپنے فضل و اُنس کے گھر میں داخل فرمائے گا  
 تو تو وہاں بغیر رخصت اور بغیر عنایت کے فعل مجبور نہا ہوا باقی رہ  
 جائے گا تیری مثال اُس شخص کی سی ہو جائے گی جس کے سامنے  
 طبق کھانے کا بھرا ہوا رکھا ہو اُس میں سے اُس نے کچھ ہی کھا  
 پایا ہو کہ اُس سے کہہ دیا جائے کہ اب تو دوسرے گھر میں جا کر کھا  
 رخصتیں ناقص عمل والوں کے لیے ہیں اور عنایتیں کامل الایمان کے  
 لیے اور بادشاہت تحقیقی فنا ہو جانے والوں کے واسطے،  
 میں پہلے زمانہ میں بغیر خلوت و گوشہ نشینی کے زمین پر نہیں بیٹھتا تھا  
 اور اب اُس کے خلاف حالت ہے میں مغلہ اور لوگوں کے ہوں  
 جو کہ اپنی حالت کے بیان کرتے ہیں کسی سے سنا رہا ہوں کہ میں کیونکہ  
 میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اسی ادب تو دو جگہوں میں ہے۔  
 دنیا کے چھوڑنے میں اور اُس کے لینے میں تو خلوت میں جہالت  
 کو ساتھ لیے ہوئے نہ جا قبل اس کے کہ تو مہذب بن جائے  
 گوشہ نشین نہ بن۔ اولاً تفقہ حاصل کر پھر گوشہ نشینی کرنا تو کتنی مجلسوں  
 میں جاتا ہے اور عمل ایک کلمہ پر بھی نہیں کرتا بہت لوگ ایسے ہیں  
 جنہوں نے صرف ایک ہی دلی کو دیکھا پس اُس ولی سے۔  
 (اس نے وصیت چاہی اُس نے) اُس کو بھلائی نکوئی کی،  
 وصیت کی پس اُس نے وصیت کو قبول کر کے اُس پر عمل کر  
 لیا اور اُس کو اپنا گوشہ بنا لیا اور تو خبروں پر مطلع ہو جاتا ہے اور  
 اُتار کو دیکھتا ہے اور ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے اور تیرا  
 قدم اُگے نہیں بڑھتا اس سے تو بہتر تھا کہ تیرا قدم اپنی جگہ پر  
 ہی قائم رہتا۔ بلکہ جب تو اُگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے جس  
 کے دو دن آج اور آئندہ کل دونوں برابر ہیں پس وہ ٹوٹے نقصان

اِنْتَبِهْ۔

میں ہے۔

رَحِمَكَ اللهُ الدُّنْيَا بُلْغَةٌ سَاعَةٌ  
فَلَا تَرْكُنْ إِلَيْهَا قَوْمٌ أَضَعَفَتْهُمْ الْهَيْبَةُ  
وَتَقَيَّدَتْ بِجَوَارِحِهِمْ اسْتَوَكَّتْ عَلَى  
قُلُوبِهِمُ الدَّهْشَةُ مِنَ الْحَقِّ فَصَارَ  
مَا فِي أَخْوَابِهِمُ الذُّرُومُ وَالْقُصُورُ  
إِذَا جَاءَ وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْأَفْسَامِ  
بَعَثَ اللهُ مَنْ يُلْقِيهِمْ كَيْسَ لِيَنْتَقِذَ  
وَلَا يَمُنَّ تَأَخَّرَ اعْتِرَاضٌ عَلَى هَذَا  
الْعَبْدِ يَعْنِي نَفْسَهُ۔

اِحْفَظْ وَابْسِ دِينَكَ وَإِلَّا قِطْعُ  
نَسَبَتِي وَطَرِيقِي لَا تَكُنْ جَاهِلًا تَقْعُدُ  
فِي بَيْتِكَ وَتَهْدِي هَذِيكَ أَوْ دِيَةَ  
فَرَبْنَاهَا وَتَجْعَلُ مَعْنَا تَدُلُّكُمْ  
عَلَى شَيْءٍ مُجَرَّبٍ مَعْنَا اتَّقُوا يَوْمًا  
لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ أَيْ  
تَمْنَى مَالٌ مَالٌ جَمَعْتَهُ مِنْ حَيْثُ  
وَأَكْتَسَبْتَهُ وَاكْتَسَبْتَهُ مِنْ وَجْهِهِ  
وَأَدْعَيْتَ أَنَّهُ عَدَا تَأْفِكَ مَعَ  
مَالِكَ مِنَ الْبَيْنِ كَمَا زَعَمَتِ الْعَرَبُ  
السَّالِفَةُ قَالَ اللهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ  
مَالٌ وَلَا بَنُونَ هَذَا مِنْ آتَى اللهُ  
بِقَلْبٍ سَيِّئٍ هُوَ لَمْ يَنْظُرْ بِقَلْبِهِ  
إِلَى أَمْوَالِهِ وَبَيْنِهِ وَلَمْ يَسْكُنْهُمْ  
قَلْبُهُ بَلْ يَرَى أَنَّهُ وَكَيْلٌ

اے مخاطب اللہ تجھ پر رحم کر۔ ہوشیار ہو جا دنیا ایک  
گھڑی کا کھیل ہے پس تو اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اور ایسا نہ کر جو بیت  
نے ضعیف بنا دیا ہے اور ان کے اعضا کو مقید کر دیا ہے۔ ان کے  
قلوب پر اللہ عز و جل کی طرف سے دہشت غالب ہو گئی ہے پس  
ان کی حالتوں میں ایک جگہ پر پڑا رہنا اور بیٹھنا لازم ہو گیا ہے جب ان  
پر مقسوم روزی پر قبضہ کرنے کا وقت آئے گا ہے اللہ تعالیٰ ایک نعم دینے  
والا ان کے پاس بھیج دینا ہے وہ ان کو اگر غدا کھلا جاتا ہے۔  
اگلے اور پچھلوں کے واسطے اس بندہ کے پاس یعنی مجھ پر کوئی  
اعتراض نہیں۔

اے میرے سرمد تو اپنی حفاظت کر دین کے ساتھ موافقت کر  
ورنہ تو میری نسبت اور طریقہ کو قطع کر دے تو جانے اور تیرا کام جال  
مت بن تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور فضول باتیں بکتا رہتا ہے۔  
ہم نے بہت دوامیں پی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ موافقت  
کی ہے۔ ہم تجھے ایک مجرب و احو ہمارے پاس ہے بناتے  
ہیں تو اس کا استعمال کر۔ تم اس دن سے ڈرو جس میں مال اور اولاد  
کچھ نفع نہ پہنچائیں گے کون سا مال وہ مال جس کو تو نے حلال طور  
سے اور محنت سے جمع کیا اور اس کو اس کے طریقے سے حاصل  
کیا اور مثل گذشتہ اہل عرب کے تو نے دعوے کیا کہ تیرا مال  
مع اولاد کے قیامت کے دن تجھے نفع پہنچائے گا۔ ارشاد الہی  
ہے اُس دن کو یاد رکھ جس دن مال اور اولاد کچھ نفع نہ دیں گے  
مگر وہ شخص جو کہ اللہ کے روبرو سلامتی والا قلب لے کر حاضر  
ہو گا نفع پائے گا۔ یعنی جس نے اپنے قلب سے مالوں اور  
اولاد کی طرف نظر نہ ڈالی اور نہ ان دونوں کو اس کے قلب نے  
جگہ دی بلکہ وہ یہی خیال کرتا رہا کہ ان دونوں میں اللہ ہی کیل ہے

فِيهِمَا يَصْخَبُهَا مُوَافَقَةً لِرَبِّهِ  
فَيَسْلِمُ قَلْبُهُ مِنْ آفَاتِ الْمَالِ وَ  
الْوَلَدِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أُحِبَّ أَنْ الْمَلِكُ  
يُرِيَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ جَارِيَةً وَيُرِيَهُ  
قَتْلَهُ عَلَى يَدِهَا قَالَ رَفَى نَفْسِهِ  
إِنْ هَرَبَتْ أَدْرَاكِتِي بِجَنُودِهِ وَ  
إِنْ خَالَفَتْهُ أَهْلَكْتِي بِسُلْطَانِهِ وَ  
إِنْ وَافَقَتْهُ هَلَكْتِي بِجَارِيَتِهِ أَمْرَهُ  
الْمَلِكُ يَتَزَوَّجُ جَارِيَةً مِنْ  
جَوَارِيهِ وَآمَرَهَا أَنْ تَسْمَهُ وَ  
إِذَا نَامَ أَنْ تَذْبَحَهُ.

یہ اُن دونوں کی مصاحبت میں بھی صرت موافقت حکم الہی کے لیے  
رہا پس اس کا قلب مال اور اولاد کی آفتوں سے سلامت رہا۔ اس  
کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس کو یہ خبر دی جائے کہ بادشاہ  
اپنی لونڈی سے اس کے نکاح کر دینے کا ارادہ کرتا ہے اور  
اس کے ہاتھ سے اس کا مروا ڈالنا چاہتا ہے یہ سن کر اُس نے  
اپنے دل میں سوچا کہ میں اگر کہیں بھاگ جاؤں گا تو یہ بادشاہ مجھے  
اپنے لشکر سے پکڑ لو لے گا اور اگر میں اس کی مخالفت کروں گا۔  
تو وہ اپنی حکومت کی وجہ سے مجھے مروا ڈالے گا اور اگر میں اُس  
کی موافقت کروں گا تو وہ اپنی لونڈی سے مروا ڈالے گا۔  
حکم شاہی کو منظور کر لے گا بادشاہ نے اپنی لونڈیوں میں سے اُس کو  
ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر دینے کا حکم دے دیا۔ اور اُس  
لونڈی کو حکم دیا کہ تو اس کو زہر دے دینا اور جب یہ سو جائے  
تو ذبح کر ڈالنا۔

اے افسوس و حسرت و نقصان ایسے شخص پر اور لیکن اولیٰ  
حسن ادب اور بادشاہی حکم کی موافقت کا اظہار قلبی خوف کے  
ساتھ تھا۔ اس شخص نے کہہ دیا میں نے حکم سنا اور تعمیل کو تیار ہوں  
یہ کہہ کر داخل مجلس ہو گیا نکاح و ہدیہ کو قبول کر لیا۔ شب باشی کا  
وقت آیا اُس نے بدن پر خوف و اختیار کی زرہ پہن لی قلب کی  
آنکھوں میں بیدار می کا سرمہ لگایا تاکہ وہ اپنی عورت کی حرکتوں  
اور سکون و عمل کی طرف نظر کرتا رہے اُس کی خوشی بدل گئی بادشاہی  
نوکر چاکر گمان کرتے رہے کہ جو امر اس شخص کو پہنچا ہے اس میں  
وہ قابل رشک ہے یہاں تک کہ  
دن نکل آیا اور وہ لونڈی اپنے زہر سے اس کو ہلاک کر سکی یہ مطلب  
ہے الامن اتے اللہ الایہ کا قلب سلیم دالے کے لیے نفع ہے  
دنیا وہ زوجہ ہے۔ نہ یہ بندہ خدا اُس کے ساتھ سویا اور نہ اُس کے

يَا نَحِيْبَةً لَهُ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَى  
جُسْنُ آدَبٍ وَإِظْهَارُ مُوَافَقَتِهِ  
مَعَ حَدِّ رَأْيِهِ قَالَ السَّمُّ وَالطَّاعَةُ  
دَخَلَ فَقِيلَ لِلنَّكَاحِ وَ الْهَدِيَّةِ جَاءَ  
الرُّفَافُ لَيْسَ دُرْعَةُ الْحَدِّ بِكَحَلٍ  
عَبِيَّتِي قَلْبُهُ كَحَلٍ سَهْمٍ لِيَنْظُرَ إِلَى  
حَرَكَاتِهَا وَ سَكُونِهَا وَ عَمَدِهَا  
إِنْ قَبِلَتْ فَرَحَتْهُ وَ الْخَوَاشِي وَ  
الْخَدَمُ يَطْنُونَ أَنَّهْ مَغْبُوطٌ فِيهِمَا  
وَ صَلَّ إِلَيْهِ جَاءَ النَّهَامُ لَمْ تَمْلِكْ  
بِسَيِّمَاهَا إِلَّا مَنْ أَتَى بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  
الْكَثِيْفَا وَ هُوَ الرِّزْقُ وَ جِهَةٌ كَانَامَ مَعَهَا وَ كَا

خَلَّاهَا فِي عَمْرٍ ۴ وَجَاءَ إِلَى الْأَخِيرَةِ  
وَلَمْ تَكُنْ سَكَبَتْ تَقْوَاهُ وَلَا غَيْرَتِ  
وَدِينَهُ قِتْلِكَ السَّلَامَةَ هَكَذَا الْعَارِفُ  
بِاللَّهِ الرَّاهِدُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
فِي الْأَخِيرَةِ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الْعِلْمِ  
عِنْدَ صَفَاءِ سِرِّهِ بِأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ  
أَنْ يُضَيِّفَ إِلَيْكَ طَائِفَةً مِّنَ الدُّنْيَا  
لِتَكُونَ حَيَاةً لِّقُلُوبِ الصِّدِّيقِينَ وَ  
هِيَ تَوْعَمُ مَشْغَلَةٍ وَتَعِبٍ وَكَدِّهِ وَ  
الْتِمَاعَاتِ أَنْظِرْ كَيْفَ تَعْمَلُ كَيْفَ  
تَسْلِمُ قَلْبَكَ وَسِرَّكَ فَيَتَنَبَّهُ السِّرُّ  
لِذَلِكَ يَقُومُ وَالْقَلْبُ يَصْطَحِبَانِ  
إِلَى بَابِ الْمَلِكِ يَقُولَانِ مَا تَرِيدُ أَنْ  
تَفْعَلَ بِنَا أَتَرِيدُ أَنْ تَحْجُبَنَا عَنْكَ  
عَنْكَ تَقْطَعْنَا عَنْ بَابِكَ تَنْخُصُ عَيْشَنَا  
لَا تَبْرَحْ إِلَّا بِالْمَوَاسِيحِ وَالْعَهْدِودِ  
لَا يَبْرَحَانِ حَتَّى يَقُولَ لَهُمَا لَا تَخَافَا  
إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَيَرْجِعَانِ  
إِلَى الدُّنْيَا مَعَ حُرَّاسٍ وَحَفَظَةٍ إِلَّا  
مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَدِيدٍ مِّنَ الْأَقَاتِ  
وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَرُؤْيَا الْخَلْقِ

أَيُّهَا الْمُرِيدُ الْمُنْتَحَيِّرُ أَيُّهَا النَّائِمُ فِي  
رَيْهِ الْقَدْرُ تَحْتَاجُ أَنْ تَنْطِفَ عَيْنُكَ  
لَا تَدْعُ فِيهِ لَا دُرْهَمًا وَدِينَارًا

ساتھ مہر غلوت کی اور آخرت کی طرف آگیا اور دنیا نہ اس کے،  
تقوے کو چھین گئی اور نہ اس کے دین کو بدل سکی پس یہ سلامتی مقصود  
ہے ایسا ہی حال عارف باللہ کا ہے جو کہ اس دنیا میں زہاد اور  
آخرت میں راغب ہے جب ولی اللہ کے پاس صفاء باطن  
کے وقت قاصد علم آکر یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ  
ارادہ ہے کہ تیری طرف ایک دنیا کے حصہ کو منسوب کرے  
تا کہ وہ قلوب صدیقین کے لیے باعث حیات بن جائے اور  
وہ ایک قسم کا مشغلہ اور مشقت اور کدورت اور توجہ ہے۔ اگر  
ایسا ہو تو تو بتا تو کیا عمل کرے گا تو کیسے اپنے قلب و باطن کو  
سلامت رکھے گا۔ پس باطن اس پر آگاہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے  
اور یہ اور قلب دونوں ساتھ ہو کر شاہی دروازہ پر جا کر کہتے ہیں  
ہم سے کیا کام لینے کا ارادہ ہے کیا تیرا ارادہ ہم کو اپنے  
سے محبوب کر دینے کا ہے۔ کیا تو ہم کو اپنے دروازہ سے  
جدا کرنا اور ہمارے عیش کو منقص کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس استاد  
سے بغیر عہد و پیمان کے نہ ہٹیں گے۔ اور یہ دونوں وہی اس  
وقت تک جے رہتے ہیں کہ ان سے ارشاد الہی ہوتا ہے تم  
دونوں خوف نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سُننا اور دیکھنا  
ہوں یہ مشرکہ کن کہہ دوںوں دنیا کی طرف نگہبانوں اور محافظین  
کی معیت میں لوٹ آتے ہیں یہی مطلب ہے الامن اتی اللہ  
بقلب سلیم کا یعنی جو آفتوں اور ریا اور نفاق اور مظلوق کی  
طرف متوجہ ہونے سے سلامت رہنے والے ہیں۔  
ان کو نجات ہے۔

اے مرید حیرت میں پڑ جانے والے اے تقدیر کے  
جنگل میں بھٹکنے والے تجھے اس کی حاجت ہے کہ تو اپنے مخدع  
(یعنی قلب) کو پاک صاف ستھرا بنائے تو اُس میں درہم و دینار

وَجَوَاهِرَ فَحَسْبُ وَالْبَقْتَا حُ فِي حَبِيبِكَ  
تَحْتَانِجُ تَفْرَغُ قَلْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ  
وَاللَّذَاتِ وَفِي جَمِيعِ الشَّرَاهَاتِ تَتْرَكَ فِيهِ  
الذِّكْرَ وَالْفِكْرَ وَذِكْرَ الْمَوْتِ وَذِكْرَ مَا وَرَاءَ  
النُّوبِ وَتَعْمَلُ فِيهِ كَيْسِيَاءَ قَصِيرِ الْأَمَلِ تَقُولُ  
إِنِّي مَيِّتٌ أَلَا إِنَّ لَكَ الْأَعْمَالَ تَصْغُرُ يَقْصُرُ  
الْأَمَلُ وَأَمَّا إِذَا طَوَّلْتَ الْأَمَلَ رَأَيْتَ هَذَا  
وَنَا قَفَّتْ هَذَا صَاحِبِ قَصِيرِ الْأَمَلِ مَهْجُودِ  
الْكُلِّ قَاطِعِ الْكُلِّ يَلْبَسُ لِبَاسَ الزُّهْدِ ثُمَّ  
لِبَاسَ الْفَنَاءِ ثُمَّ لِبَاسَ الْمَعْرِفَةِ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلُوكَا  
لِي يَسِيرَتِ الْكُفْلُ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْبَحْثَةُ إِذَا  
حَدَّثْتُمْ فَلَا تَكْذِبُوا وَإِذَا أَوْثَقْتُمْ فَلَا  
تَخُونُوا وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تَخْلِفُوا احْفَظُوا  
أَيْدِيَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَفُرُوجَكُمْ إِذَا  
صَفَا سِرُّكَ وَاتَّحَدَ سَبْعَتِ دُعَاءَ رَبِّكَ  
مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةِ إِذَا اتَّحَدَ خُرُوفُكَ وَ  
رَجَاؤُكَ جَاءَ خَطَابُكَ مَرَّكَ وَ  
مَوْلَاكَ.

و جواہر کی بھی محبت کو نہ چھوڑ سب کو نکال کر کفایت کرے  
کبھی تیری جیب میں ہو۔ تو اس کا محتاج ہے کہ تو اپنے قلب  
کو دنیا و شہوتوں اور لذتوں اور تمام نفسویات سے خالی  
کرے۔ اُس میں محض ذکر و فکر اور ذکرِ مَوْت کو چھوڑے  
اور اس میں کیمیا بنایا کر۔ تو آرزو کو کوتاہ کر دے یہ کتنا رہ کر میں اس  
وقت بھی مردہ ہوں اس واسطے کہ عمل آرزو کے کم کر دینے سے  
مضائق قبول کرتے ہیں اور لیکن جب تو آرزو کو لمبی کر دے گا  
تو کبھی تو اس پر نظر ڈالے گا اور کبھی تو اس سے نفاق برتے گا۔  
کم آرزو والا سب سے جدا اور سب سے قطع تعلقی کرنے والا  
ہوا کرتا ہے اولاً وہ لباسِ زہد پہنتا ہے بعدہ لباسِ فنا پھر لباسِ  
معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے  
چھ چیزوں کے کفیل بنو میں تمہارے لیے اللہ پر جنت کا کفیل  
بن جاؤں گا۔ جب تم باتِ حیات کیا کرو پس تم جھوٹ نہ بولو اور  
جب تم امین بنائے جاؤ پس خیانت نہ کرو۔ اور جب تم  
وعدہ کرو پس وعدہ خلافی نہ کرو۔ تم اپنے ہاتھوں اور اکھوں اور  
شرمگاہوں کی حفاظت کرو جب تیرا باطن پاک و صاف ہو جائے  
گا تو تو بغیر واسطہ کے خدا کی پکار کو سننے لگے گا۔ جب تیرا  
خوف اور امید واریح متحد ہو جائے گی تو تیرے رب و مولیٰ  
کا خطاب آنے لگے گا۔

اے بچہ تو اپنے آپ کو تقدیر کے گھوڑے کے کھروں  
کے سامنے ڈال دے۔ خواہ وہ تجھے روند ڈالے یا تیرے  
اوپر ہو کر گزر جائے۔ جس کی ہلاکت و موت اللہ کے راستے  
میں ہوتی ہے اُس کا نعم البدل اللہ پر لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ تیرے  
اوپر ہو کر گزرے پس تو اُس سے چمٹ جا تو تقدیر الہی کے  
تیر کا نشانہ بنارہ اُس پر سے گزرا محض زخم ہو گا نہ کہ قتل۔

يَا بَنِي اسْتَطْرَحْ بَيْنَ يَدَيِ حَوَافِرِ  
فَرَسٍ قَدِيرٍ إِمَّا أَنْ تَسْتَحَقِّقَ أَوْ  
تَجُومَرَ مَنْ كَانَ فِي اللَّهِ تَلَقُّهُ  
كَانَ عَلَى اللَّهِ خَلْقُهُ وَإِنْ جَاوَزْتَكَ  
فَتَعَلَّقُ بِهَا نَهْضًا وَبِسَهَامٍ وَتَدَارِيهِ  
كَانَ وَفَوْعَهَا خَدَّ شَا لَا قَتَلًا

اے ان سب امور سے خالی دنگے تو مہذب بن اور آگے  
بڑھ اور اگر نہ عمل کو شروع کر سب پر لات مار دے۔ اپنے  
گھر میں بیٹھنے سے جب کہ میں وعظ کہوں تو تو بر کرے یہاں دیر  
دکال ہیں۔

اے بال بچوں میں مبتلا ہونے والے چاہیے کہ تیری کمائی  
بڑے بال بچوں کے لیے ہو اور تیرا قلب فضل رب کے لیے  
ایک قوم کی حلال روزی جسے وہ طلب کرتے ہیں ان کے کسوں  
کے ذریعہ سے ملتی ہے ایک قوم والے وہ ہیں جن کو حلال روزی  
بذریعہ ان کے دعا کے ملتی ہے۔ ایک قوم وہ ہے جن کو  
حلال روزی بغیر سوال کے غیروں سے ملتی ہے اور ایک قوم وہ  
ہے جن کو حلال روزی لوگوں سے طلب کرنے سے ملتی ہے  
اور یہ حالت ریاضت کی ہے (جو کہ ہمیشہ نہیں رہتی) اول حالت  
اور وہ کسب و کمائی کرنا ہے سنت ہے۔ اور دوسری حالت  
اور وہ سوال ہے کمزوری ہے اور تیری حالت عزیزیت ہے  
اور آپس میں گداگری کرنا زحمت ہے۔ اور کبھی ایسا شخص بھی  
گداگری کرنے لگتا ہے جسے خود کھانا منظور نہیں ہوتا ہے۔  
اور وہ سوال کیے گئے کے لیے صرف چاپخ اور فتنہ ہوتا ہے  
اور اس بندہ کا سوال کرنا مثل رات کے سوال کے ہے جس کی  
نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم رات کے  
سوال کو رد نہ کیا کرو۔ کیوں کہ کبھی وہ سائل جو آتا ہے نہ جن ہوتا ہے  
اور نہ انسان بلکہ کسی دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس مال میں  
جو کہ تم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے تمہارے کثرت دیکھے  
ایسے ہی اس بندہ کو سوال کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ  
دیکھے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمت میں تمہارے کیا عمل ہیں  
تو بکثرت علماء کی مجلس میں جایا کرو اور قبور اور صالحین کی زیارت

يَا عَامِيَائِمَنْ هَذَا كُلِّهِ تَهْتَدُ وَ  
تَقْتَدُمْ وَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ اصْرِبْ عَلَى  
الْكُلِّ ثَبَّ عَنْ قَعُودِكَ فِي بَيْتِكَ عَنِ  
قَعُودِي يَلْكَلَامُ هَهُنَا الدَّرَجَاتُ  
يَا مُبْتَلَى بِالْعِيَالِ لِيَكُنْ كَسْبُكَ  
لِعِيَالِكَ وَتُكْبِكَ يَفْضُلُ رَبِّكَ فَتَوْمُ  
حَلَالُهُمْ (مَا يَطْلُبُونَ) فِي أَكْسَابِهِمْ  
وَقَوْمُ حَلَالُهُمْ فِيهِمَا يَأْتِي دَعَا نُهُمْ  
وَقَوْمُ حَلَالُهُمْ مَا يَأْتِي مِنْ غَيْرِهِمْ يَلَا  
سُؤَالٍ وَقَوْمُ حَلَالُهُمْ مَا يَطْلُبُونَ مِنْ  
أَيْدِي النَّاسِ وَذَلِكَ حَالُهُ الرِّيَاضَةِ  
وَتِلْكَ لَا تَدْرِي أَوَّلُ وَهُوَ الْكَسْبُ  
سُنَّتُهُ. وَالثَّانِي وَهُوَ السُّؤَالُ صُنْعُ  
وَالثَّلَاثُ الْعِزِّيمَةُ وَالْكَدِّيَّةُ رُحْصَةُ  
فِيهِمَا بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَكْدِي مَنْ لَا يَأْكُلُ  
وَهُوَ فَتْنَةٌ لِلْمَسْئُولِ إِنْ بَلَغَ لَهُ  
وَسُؤَالُ هَذَا الْعَبْدِ كَسُؤَالِ اللَّيْلِ فَتَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرُدُّ دَا  
سُؤَالَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِيكُمْ كَيْسٌ يَجِي  
وَلَا إِنْ يَنْظُرَ مَا تَصْنَعُونَ فِيهِمَا  
خَوَّلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ هَذَا  
الْعَبْدُ يَوْمَ رَأْسِ السُّؤَالِ لِيَنْظُرَ الْحَقُّ  
مَا تَصْنَعُونَ فِيهِمَا خَوَّلَكَ اللَّهُ بِهِ  
مِنْ تَعْمَلَةٍ اسْتَدْرَكَ مِنْ  
مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَرِيَا مَرَّة

الْقُبُورِ وَالصَّالِحِينَ فَلَعَلَّكَ مِجْلِي  
 قَلْبِكَ إِذَا أَحْكَمُوا أَمْتَنَ قَالَ أَلَا وَرِ  
 وَانْتِهَاءَ النَّوَارِ هِيَ سَاعِدَتُهُمُ الْقَدَارُ  
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِّيرِ كَانَ يَأْكُلُ رَفِي  
 أَسْبُوعٍ أُمَّةً لَا يَسْتَقِيمُ حَالُكَ  
 حَتَّى تَكُونَ كَانَاءً مُنْتَلِمٍ لَا يَشَبُتُ  
 فِيهِ مَا يَغِي كَسْفِيئَةِ الْمَسَاكِينِ الَّتِي  
 كَانَ فِيهَا الْخَضِرُ أَعَابَهَا ثُمَّ جَاءَهُ  
 حَالَهُ فِيهَا جَمْعٌ وَحَالَهُ فِيهَا تَفَرُّقٌ  
 فِيهَا قِلَّةٌ وَحَالَهُ فِيهَا كَثْرَةٌ مِّنْ  
 خَرَجَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى النَّكَارِ لَا رَحْمَةَ  
 اللَّهُ

بہت کیا کرو پس کیا عجب ہے کہ تیرا قلب زندہ کر دیا جائے۔  
 جب اللہ والوں نے حکموں کی بجا آوری اور منوعات سے  
 باز رہنے کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لیا۔ اس لیے تقدیروں  
 نے بھی ان کی موافقت کی۔ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہفتہ میں  
 ایک لقمہ کھایا کرتے تھے۔ تیری حالت درست نہیں ہو سکتی۔  
 جب تک کہ تو مثل سوراخ والے برتن کے نہیں جائے جس میں  
 بسنے والی چیز ٹھہرنے کے تو مثل میکنوں کے اس کشتی کے نہ ہو جائے  
 جس میں کہ خضر علیہ السلام سوار ہو گئے تھے اور اس کو عیب دار  
 کر دیا تھا پھر مجھے ایک حالت طاری ہوگی۔ ایک حالت وہ  
 جس میں جمعیت ہوگی اور ایک حالت وہ جس میں تفرقہ و انتشار  
 ہوگا ایک حالت میں قلب اور ایک میں کثرت ہوگی ثابت قدمی  
 کی ضرورت ہے جو کوئی میرے سامنے سے دوزخ کی طرف  
 چلا گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔

اللَّهُمَّ عَنَّا اللَّهُمَّ سَتْرًا اللَّهُمَّ ثَبَاتًا  
 اللَّهُمَّ بِرَأْسِنَا إِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَ  
 جَلَّ اقْتَنَعَتْ مِنْكَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ شَاءَ  
 طَبَاخُ الْمَلِكِ مَا بَقِيَ الْعَقْلُ وَالنَّظَرُ وَالشَّمَّةُ  
 وَالْإِسْتِمَارَةُ أَجْرِي عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ فِي  
 حَالَتِهِ عَلَيْهِ

اے اللہ میں معافی پر درہ پوشی ثابت قدمی تیری رضامندی  
 کا طالب ہوں۔ جب تو حق عزوجل تک پہنچ جائے گا وہ تجھے  
 محض ادا کے فرض پر قناعت کرے گا نوافل کی ضرورت نہ  
 رہے گی بادشاہ کا باورچی بوڑھا ہو گیا عقل و نظر سننے اور اشارہ  
 کی طاقت باقی نہ رہی بادشاہ نے اس پر وہی وظیفہ جو کہ اس  
 کو کام کرنے کی حالت میں دیتا تھا جاری کر دیا۔

بِاللَّهِ أَيُّهَا الْمُرِيدُ الصَّادِقُ عَلَى زَيْمِكَ  
 مَتَى أَثَرْتُ بِقُرْبَتِكَ جَاءَكَ مَتَى أَثَرْتُ  
 بِقَبْلِصِكَ وَعِمَامَتِكَ وَمُصَلَّاتِكَ مَتَى  
 أَثَرْتُ بِمَمْلُوكِكَ هُوَ لَأَيُّ الْقَوْمِ إِذَا أَبَوَا  
 نَفْسَهُمْ وَطَبَا عَمَهُمْ وَآهَوِيَّتَهُمْ  
 وَشَرَابَهُمْ حَتَّى مَا تَوَا مَعْنَى فَنَوَا مَعْنَى

اے اپنے گمان پر سچے مرید تجھے خدا کی قسم ہے یہ بتا کہ  
 کب تو اپنی روزی میں اپنے ہمسایہ کو ترجیح دے گا کب تو اپنی  
 قمیص اور عمامہ و مصلے کے ساتھ دوسروں پر ایثار کرے گا۔  
 کب تو اپنے مال کا دوسروں پر ایثار کرے گا۔ اولیاء اللہ  
 نے اپنے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں کو کچھلا دیا اور اپنے  
 کھانے پینے کو بھلا دیا یہاں تک کہ وہ معنا ہر گئے اور فنا ہو گئے۔

قَوْلَتَهُمْ يَدُ الْقُدْرَةِ غَايِلُ الْقُدْرَةِ  
يُقَلِّبُهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشِّمَالِ وَ  
كُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ يَكُونُ صِيدُ بَقَايَا النَّفْسِ  
بَاسِطُهُ تَحْتَ عَتَبَةِ الْقُدْرَةِ ذَوَاءُ الْجَوَارِحِ  
الْكُفَّ عَنِ الْمَأْثِمِ هِيَ الرِّكَابُ الْفَوَاحِشُ  
مِنَ الْمَعَاصِي وَالزَّلَّاتِ تَكْفُ يَدَاكَ عَنِ  
السَّرَفَةِ وَالضَّرْبِ وَالرَّجُلُ عَنِ الْمَشْيِ  
فِي الْمَعَاصِي وَالْمَشْيُ إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ  
لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَهَذِهِ الْعَيْنُ تَكْفُهَا عَنِ  
النَّسْتِخْسَانِ نَامَتِ النَّفْسُ أَمَامَ الْحُكْمِ  
طَارَ الْقَلْبُ فِي صَحْبَةِ الْمُحْبُوبِ وَرَى اللَّهُ  
تَعَالَى إِذَا أَحْسَنَ الْأَدَبُ انْصَفَ لِبَصَائِتِ  
النُّبُوَّةِ الْحُكْمُ يَتَحَيَّرُ بَيْنَ الطَّبَعِ وَالْعِلْمِ  
تَأْمَنَّا بِرُؤُوسِ الطَّبَعِ وَتَأْمَنَّا بِرُؤُوسِ الْعِلْمِ وَ  
يَقُولُ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَيَقُولُ  
الْحُكْمُ لِلْقَلْبِ مَا يَكْفِيكَ إِنْ قَاتِلَهُ كَانَتْ حَادِمٌ  
لَكَ دَعَاكَ وَأَنْتَ مَعَ الْمَلِكِ الْبَلِ سَرِيْرٌ  
مُلْكِهِمُ الْخَلْوَةُ مَرَضُهُ عَمْرُوسِهِمُ الْتَهَامُ  
يُعْرِيهُمْ لِبَنِيٍّ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُصَائِبِ  
نُكِّنَهُ

يَا بَنِي لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى  
إِخْوَتِكَ تَغْرَبُ بَيْنَهُمْ تَخَارِسُوا تَجَاعِدُوا  
إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْكِتَابُ وَ أَجَلُهُ إِسْأَلُ عَنِّي  
مُسْكِرٌ أَوْ نَكِيرٌ أَعِنْدَ مَجِيئِهَا إِلَى قَبْرِكَ  
فَلَا تَهْمَا يُخَيِّرُ إِلَيْكَ عَنِّي إِسْمُكَ مُخَلِّبٌ

قدرت کا ہاتھ اُن کا متولی بنا اور مثل اصحاب کہف کے تقدیر کا  
عمل دینے والا ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلوںاتا رہتا ہے اور اُن  
کا کتنا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پڑا رہتا ہے  
آستانہ قدرت کے نیچے بازو پھیلائے ہوئے پڑا رہتا ہے۔  
اعضا کی دو اگلی ہوں سے بچتا ہے گناہ بُرے کاموں کا لغزش  
اور مصیبتوں میں سے اختیار کرنے کا نام ہے تو اپنے ہاتھ کو  
چوری مار پیٹ سے اور اپنے پیر کو گناہوں کی طرف اور  
بادشاہوں اور کسی نبی آدم کی طرف چلنے سے روک لے اور اس  
آنکھ کو اچھی چیزوں کی طرف پڑنے سے روک لے نفس شریف  
کے اگے سر جھکا کے سو جائے۔ قلب صحت محبوب میں اڑ  
جائے ولی اللہ جب کن ادب برتا ہے صفات نبوت سے  
مقتصد ہو جاتا ہے۔ حکم طبیعت و علم کے مابین متحرک رہتا ہے  
کبھی وہ طبیعت کو رد کرتا ہے اور کبھی وہ علم کو رد کرتا ہے  
اور کہہ دیتا ہے جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں  
اُسے قبول کر لو۔ حکم قلب سے کہتا ہے کہ تیرے لیے یہ کافی نہیں  
کو میں مثل خادم کے تیرے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اپنے آپ کو  
بادشاہ کی معیت میں چھوڑ دے اولیاء اللہ کے لیے رات  
بادشاہی تخت ہے اور تنہائی ان کی دلہنوں کا چہرہ کھٹ دن  
ان کو بعض سببوں میں مشغولیت کی وجہ سے پریشان رکھتا  
ہے مصیبتیں چھپائی جاتی ہیں۔

اے بچہ تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا  
(قصہ یوسف علیہ السلام) لوگوں کے درمیان میں مسافر بنا رہ  
جب تک کہ موت اُسے تم کو لگے اور خاموش بنے لاگو۔  
تو میرا مال منگو و نیکر سے جب کہ وہ تیری قبر میں آئیں دریافت  
کر لینا وہ تجھے خبر دے دیں گے کہ میں کون ہوں آج تیرا نام ذہن

(گناہ گار) ہے کل تیرا نام محاسب (حساب کیا گیا) اور مناش (جھگڑا کیا گیا) ہو گا تیرا حال قبر میں مہموم ہے۔ نہ معلوم کہ تو دوزخیوں میں سے ہے یا کہ جنت والوں میں سے تیرا انجام کار مبہم ہے پس تو اپنی صفائی حال پر دھوکہ نہ کھا۔ کیا معلوم کل تجھے کیا لاحق ہو گا اور تیرا کیا نام ہو گا۔

اے بچہ جب تو صبح کئے تو تو اپنے نفس سے شام کی بات نہ کر اور جب تو شام کرے پس تو اپنے نفس سے صبح کی بات نہ کر کیا معلوم کیا ہوتا ہے کل گزشتہ تیری بھلائی و برائی کی گواہ بن کر جو کچھ بھی اُس میں ہوا تمنا جلدی کل اُسہ نہ معلوم تجھے ملتی ہے یا نہیں جنزائیں نیست کر نیزے لیے آج کا ہی دن ہے تو کس قدر غافل ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافلوں سے تیری مصاحبت ہے۔

اے احمق جس پر کس کی نشانی ظاہر نہیں ہے اُس سے تو کیوں متا ہے پھر تیرا اسی شخص سے کیوں ہے جس کی بنیاد ضعیف ہے۔ ظاہر ٹھیک لگتا ہے اور باطن سخت دل اور حق عزوجل پر بے حیا یرمز تبر و لایت کندھوں کے جمع کرنے ہلانے اور اور آنکھوں میں سرمہ لگانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے شب بیداری کی ضرورت ہے تمام مخلوق کا کچھ اعتبار نہیں تمام تکلفات قابل اعتبار نہیں۔

اے احمق تو کبھی اس دروازہ پر کبھی اُس دروازہ پر سوال کرتا پھر تا ہے تاکہ تیری جمع اُس سے زائد ہو جائے تیرے لیے علاج کی کیسے امید کی جائے۔ تو بادشاہ کے دروازہ پر شل دربان کے ہو کر کیوں نہیں بیٹھ جاتا ہے جو کوئی آتا تو بادشاہ کو اُس کے آنے کی خبر دیتا رہتا ہے۔ اس کا قصہ سنتا اور وحدت الہی سے اُس پر کھڑا رہتا۔ تو نے مخلوق کو اپنا کنبہ کیوں

اسْمُكَ عَدَا مُحَاسِبٌ وَمُنَاقَشٌ أَنْتَ فِي الْقَبْرِ مَوْهُومٌ لَا تَدْرِي أَمِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْتَ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَارِفَتُكَ مِنْهُمْ فَلَا تَغْتَرَّ بِصَعَاءِ حَالِكَ لَا تَدْرِي مَا تُلْحِقُهُ مَا اسْمُكَ عَدَا۔

يَا بَنِي إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ إِذَا امْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ ذَهَبَ أَمْسٍ يَمَافِيهِ شَاهِدُكَ وَعَيْدُكَ عَدَا لَا تَدْرِي تُلْحِقُهُ أَوْ لَا إِنَّمَا أَنْتَ ابْنُ يَوْمِكَ مَا أَغْفَلَكَ عِلَامُهُ عَفْوَكَ مَصَاحِبَتُكَ الْغَفْلَةُ۔

يَا أَحْمَقُ مَنْ لَا تَنْظُرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَرَاةَ الْحَقِّ يَمَاذَا تَصْحِيهِ ثُمَّ تَصْحَبُ مَنْ آسَاسُهُ وَاهٍ ظَاهِرُهُ كَتَمَتْهُ بَاطِنُهُ تَجَلَّدُ وَتَوَافِعُ عَلَى الْحَقِّ عَمًّ وَجَلَّ هَذَا شَيْءٌ لَا تَحِيثُنِي بِجَمْعِ الْأَكْتَافِ وَكُلِّ الْأَعْيُنِ بِالْكُلِّ إِلَّا بِاللَّهِ جَمِيعُ الْخَلْقِ لَا عِبْرَةَ بِهِ جَمِيعُ التَّكَلُّفِ لَا عِبْرَةَ بِهِ۔

يَا أَحْمَقُ تَأْتِي بَابَ هَذَا وَبَابَ هَذَا تَسْأَلُهُ حَتَّى يَكْثُرَ مِنْهُ جَمْعُكَ كَيْفَ يَرْجِي حَتَّى لَكَ الْفَلَاحُ هَلَّا كُنْتَ عَلَى بَابِ الْمَلِكِ كَالْحَاجِبِ مَنْ جَاءَ أَحْبَبْتَ الْمَلِكَ يَمَكَانِهِ أَخَذْتَ قِصَّتَهُ وَالنَّسْتِ وَحَدَّثَكَ هَلَّا جَعَلْتَ الْخَلْقَ عِيَا لَكَ

وَأَنْزَوْنَاهُ عَنْهُمْ إِنْ شِئْتُمْ بِصَنَعَتِكَ  
فِي بَيْتِكَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا بِكَ مَا وَ  
عِنْدَكَ مَا يُصِلُهُمْ بَيْتَكَ وَخَلُوتَكَ  
بَيْتِكَ قَلْبُكَ بَيْتَكَ مِثْلَكَ بَيْتَكَ  
بَابُكَ بَيْتَكَ مُجْتَمَعُكَ لِرَبِّكَ بِالْقِيَامِ  
بِأَمْرِهِ وَإِنْ شِئْتُمْ نَهْيِهِ وَالْمَوَافَقَةِ  
لَهُ فِي مَقْعَدٍ وَرَبِّهِ أَمْرًا فِي الْخَلْقِ فِي  
وَعَائِكَ وَهَيْئَتِكَ لَوْ عَيْنُكَ يُكْرِمُ الْفَتْ  
عَيْنُكَ إِذَا أَكْرَمْتَ الْكِرَامَ الْبَرَّةَ فِي خَلُوتِكَ  
وَأَطَعْتَ مَوْلَاكَ وَلَمْ تَعْصِهِ وَأَكْرَمْتَ  
الْقَوْمَ وَلَمْ تَقْضِهِمْ نَفْسَكَ عِنْدَهُمْ  
سَمِعْتَ كَرِيمًا فَإِذَا حِزَّتْ كَرِيمًا أَوْ كَرِيمًا لِحَالِكَ  
أَلْفَ عَيْنٍ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِكَ وَ  
بَحَائِرِكَ وَبِكْرِكَ أَبَدَ الدَّهْرِ تَكْدِي أَيْدِي  
الدَّهْرِ تَأْتِي الْأَبْوَابَ مَعِيَ يُكْدِي مِنْكَ  
مَعِيَ يُسْتَطْعَمُ مِنْكَ مَعِيَ يُؤْتَى بِأَبِكَ مَعِيَ  
تَغْرُمُ مِنْ شَأْنِكَ مَعِيَ تَضْرِبُ حَوْلَكَ  
خَيْمَةً مَعِيَ تُعْرَسُ فِي قُرْبِ الْمَلِكِ مَعِيَ تُظْهِرُ  
رِجَابَتَكَ وَأَهْلِيَّتَكَ وَصَلَا حَيْثُكَ  
لِقُرْبِ الْمَلِكِ وَتُخْرِجُ الْقَائِلَ وَ  
تُظْهِرُ مِبَاهِاتَكَ وَتَكُونُ أَنْجَبَ أَنْجَبِ  
أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حَتَّى نَشْكُرَ إِلَيْكَ تَوَكُّفَكَ  
الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلًا  
وَفِعْلًا حَالًا وَمَقَالًا

نہ بنایا اور اُن سے خود علیحدہ دیکھو کیوں نہ رہا تو اپنا کام گھر میں  
بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آئے  
اپنی اصلاح کی چیزیں وہاں موجود پاتے۔ تیرا گھر تیری خلوت  
ہے تیرا گھر تیرا قلب ہے تیرا گھر تیرا سر ہے تیرا گھر تیرا اہل ہے تیرا گھر تیری  
صحبت رب کے ساتھ ہے جو اُس کے حکم کے بجالانے  
اور اس کے ممنوعات سے باز رہنے اور اُس کے مقدرات  
میں اُس کی موافقت میں قیام کرنے کے مخلوق کے رزق تیری دعا  
اور رحمت میں ہیں۔ ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا اکرام کیا جاتا  
ہے جو تو اپنی خلوت میں کما کما کاتبین کا اکرام کرے گا اور اپنے  
موملے کی اطاعت کرے گا اُس کی نافرمانی نہ کرے گا۔ اور  
تو اولیاء اللہ کا اکرام کرے گا اور ان کے روبرو اپنے نفس کو  
روا نہ کرے گا تو تیرا نام کریم رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تو کریم  
ہو جائے گا تو تیری وجہ سے ہزار آنکھ کا اکرام کیا جائے گا۔  
تیرے اہل اور ہمسایوں اور شہر سے بلا دفع کی جائے گی تو ہمیشہ  
گداگری کرتا ہے ہمیشہ دوسروں کے دروازے پر بھیک مانگتا  
ہوا جاتا ہے تجھ سے کب گداگری کی جائے گی تجھ سے کب  
کھانا طلب کیا جائے گا۔ کب دوسرے لوگ تیرے دروازہ پر  
آئیں گے کب تو اپنی حالت سے فارغ ہو گا۔ کب تو اپنے گدا  
گرد خیمہ لگائے گا کب تو بادشاہ کے قرب میں دھاننا یا  
جائے گا تو قرب شاہی کے لیے اپنی شرافت و اہلیت قابلیت  
کب ظاہر کرے گا۔ اور کب تیرے لقب تجویز کیے جائیں گے  
اور تیرا فخر کب ظاہر کیا جائے گا اور تو کب سعادت مند سے  
سعادت مند اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو گا تا کہ تیری  
طرف رسول کریم علیہ السلام کا ترکہ سپرد کیا جائے عام لوگ تو لا اور  
فعلًا۔ حالًا اور مقالًا انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث اموال ہیں۔

لَا إِسْمًا وَلَقَبًا التَّبَوُّهُ إِلَهُكُمْ وَالرَّسَالَةُ لَقَبٌ  
يَا جَاهِلٌ فَاتَّكَ الرِّسَالَةُ وَالشُّبُوهُ لَمْ  
تَقْتَكِ الْوَلَايَةَ وَالْخَوَاتِمَةَ وَالْبَدَلِيَّةُ ارْضَيْتُمْ  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ حَيَاةُ الدُّنْيَا فَتُسَكِّ  
وَهَؤَالِكَ وَطَبْعُكَ هَذِهِ الدُّنْيَا لَا مَا يُزُولُ لَا  
تَزُولُ مِنَ الشَّهَوَاتِ فِتْنَتِكَ أَفْسَاكُمْ لَكَ الدُّنْيَا  
مَا نَأْخُذُكَ بِهَيْئَتِكَ وَجَوَارِحِكَ وَمَا يَلْزَمُ  
لَكَ الْمَلَكُ لَيْسَ مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا بَدَلَ مِنْهُ لَيْسَ  
مِنَ الدُّنْيَا بَيْتٌ يَكُنُّكَ وَلِبَاسٌ يَسْتُرُكَ  
وَحَبِيرٌ يَتَّبِعُكَ وَرَوْجَةٌ تَسْكُنُ إِلَيْهَا  
الْحَيْرَةُ الدُّنْيَا إِنْ قَبَالَ عَلَى الْخَلْقِ إِنْ دَبَّارُ  
عَيْنِ الْحَقِّ الْهُوَى صِنْدُ الْفِكْرِ الْهُوَى صِنْدُ  
الْعِبَادَةِ السَّبَبُ صِنْدُ الْمُسَبِّبِ الظَّاهِرُ  
صِنْدُ الْبَاطِنِ إِذَا أَحْكَمْتَ الظَّاهِرَ أَمَزَتْ  
بِأَحْكَامِ الْبَاطِنِ إِذَا أَحْكَمْتَ الْحُكْمَ  
بِالْعَمَلِ بِهِ كُنْتَ عَلَامَةً كُنْتَ تَابِعَهُ  
كُنْتَ صَاحِبَهُ كُنْتَ قَانِي الْيُسْيَةِ عَنْ  
طَبْعِكَ يَلْمُحُكَ الْعِلْمُ فَيَعْتَشِقُكَ كُنْتَ  
كَمُورٍ بَيْنَ رُوحَيْنِ كُنْتَ كَحَاجِبٍ بَيْنَ  
الْمَلِكِ وَالْوَرِثَةِ كُنْتَ مَحْبُوبَ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَالْخَلْقِ وَالْحَقِّ وَالْمَلَكِ  
فَرَحَهُ لِقُتُوبِ لَنَا حَالَهُ تَغَيَّبَ عَنْ  
حُضُورِهِ كَمَا قَالَ دَاوُدُ رَبِّهِ سُبْحَانَ  
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ

مخلص اسم و لقب سے نبوت اسم ہے اور رسالت لقب  
اسے جاہل مرتبہ رسالت و نبوت تو تجھ سے فوت ہو گیا لیکن  
ولایت اور غوثیت و بدلیت فوت نہیں ہوئی ہے اس کی کوشش  
کر۔ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے  
دنیا کی زندگی تیرا نفس اور تیری خواہش و طبیعت ہے۔ یہی دنیا  
ہے نہ وہ خواہشیں جو کہ زائل ہو جائیں گی پس وہ تو تیرے نفسانی  
مقسوم حصہ ہیں۔ دنیا وہ ہے جس کو تو اپنی ہمت اور غصوں کی  
محنت سے حاصل کرے اور جو چیز کہ بادشاہ سڑال دے  
وہ دنیا نہیں ہے جو چیزیں ضروری ہیں وہ دنیا نہیں کہلاتی ہیں  
رہنے کے گھر ستر کا لباس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور سکون  
حاصل کرنے کے لیے بیوی دنیا نہیں ہے حیولہ دنیا مخلوق  
کی طرف متوجہ ہونا اور حق تعالیٰ سے پیٹھ پھیر لینا ہوئی فکر کی  
ضد ہے (یعنی مخالفت) ہونے کی عبادت کی ضد ہے سبب سبب  
پیدا کرنے والے کی ضد ہے ظاہر باطن کی ضد ہے جب تو ظاہر  
کو مضبوط و مستحکم کر لے گا تجھے باطن کے استحکام کا حکم دیا جائے  
گا جب تو حکم شری کو اس پر عمل کر کے مضبوط کر لے گا تو تو  
اُس کا علامہ و تابع اور مصاحب بن جائے گا تیرا جسم تیری طبیعت  
سے فنا ہو جائے گا تو علم تجھے دیکھے گا پس وہ تیرا عاشق بن جائے  
گا۔ اُس وقت تو ایسا ہو جائے گا جیسے دو بیبیوں کے درمیان  
ایک خاوند بادشاہ و وزیر کے درمیان ایک دربان تو دنیا و  
آخرت خلقی و حق جل مجدہ اور فرشتوں کا محبوب اور قلوبوں کے  
واسطے فرحت بن جائے گا۔ ہماری ایک ایسی حالت ہے۔  
جو کہ ہم کو تمہارے پاس سے غائب کر دیا کرتی ہے۔  
حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے ان دونوں پر  
اور تمام نبیوں اور رسولوں اور مقرب فرشتوں اور اولیاء و

وصالحین پر سلام فرمایا تھا

وَالصَّالِحِينَ

اے صاحبزادے فقیر و محتاجی کے بعد خطا کاری  
کس قدر قبیح و خراب بات ہے۔ اور اس سے زیادہ خراب  
وہ مرد ہے جو عبادت گزار ہو کر اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ  
دے۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو تیرا  
وجود دنیا کی زندگی ہے اور تیرا فنا ہو جانا آخرت ہے۔ ہمتوں  
کے لیے تفسیر ہے اور اسرار کے لیے تفسیر اور عوام کے لیے  
تفسیر اور خواص کے واسطے تفسیر ہے دنیا وہ ہے جسے تو کچھ  
رہا ہے اور آخرت کا حال تجھ پر کھلا نہیں ہے تجھے وہ  
چیزیں ملیں گی جو تیری عقل سے پرے ہیں پس تو حیرت میں  
پڑ جائے گا اور تجھے حال معلوم ہو جائے گا۔ جو کچھ تجھے بذریعہ  
عقل مشترک کے حاصل ہو پس وہ دنیا میں سے ہے اور جو چیز  
تجھے بذریعہ اس عقل کے جو کہ عقل العقول ہے حاصل ہو پس  
وہ آخرت سے ہے۔ تیرا باطن آخرت ہے اور تیرا ظاہر  
دنیا۔ دنیا کے حالات ماسوی اللہ میں عزوجل اور مولیٰ کے  
ساتھ تعلق پیدا کرنا اور قیل و قال اور تعریف و مذمت سے منہ  
پھیر لینا اور غم کی معیت میں سیر کرنا آخرت ہے۔ نیز مقصد وہ  
ہے جو تجھے ملگین رکھے جب تو اپنے ارادہ میں صادق ہو جائے  
گا تو حق عزوجل تیرا ہاتھ پکڑ لے گا اور تجھ کو اپنی تقدیر کی  
مصاحبت میں چلائے گا۔ تیرے دو قدموں کے درمیان  
کا فاصلہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے فاصلہ سے تیرے  
ارادہ کی سچائی اور تیرے حسن ادب کی وجہ اور تیرے پڑوسیوں  
کے قول سے بہرہ بن جانے کے سبب سے بہت وسیع  
ہو جائے گا۔

اے وہ جاہل جو کہ حق عزوجل سے اور اس کے فضل سے

يَا بَنِي مَا أَقْبَحَ الْخَطِيئَةُ بَعْدَ  
الْمَسْكَنَةِ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ كَانَ  
عَابِدًا فَفَرَكَ عِبَادَةَ رَبِّهِ أَرْضِيئْتُمْ  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَجُودُكَ وَالْآخِرَةُ فَتَنٌ وَلَكِ  
لِلْهِمَمِ تَفْسِيرٌ وَلِلْأَسْرَارِ تَفْسِيرٌ وَلِلْعَوَامِ  
تَفْسِيرٌ وَلِلْخَوَاصِّ تَفْسِيرٌ الدُّنْيَا مَا تَرَاهُ  
وَالْآخِرَى مَا يَفْتَنُكَ لَكَ يَا بَنِيكَ مَا كَا  
تَعْقِلُ فَتَحْتَرِ فَيَتَبَيَّنُ لَكَ مَا يَا بَنِيكَ  
يَعْقِلُ مُشْتَرِكٌ فَهُوَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يَا بَنِيكَ  
مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ الَّذِي هُوَ عَقْلُ الْعُقُولِ  
فَهُوَ مِنَ الْآخِرَى سِرُّكَ الْخَوِيُّ وَظَاهِرُكَ  
دُنْيَا حَالَاتُ الدُّنْيَا مَا سَوَى الْحَقِّ عَمَّا وَ  
جَلَّ وَالْآخِرَى وَالتَّعَلُّقُ بِالْمَوْلَى وَ  
الِدَعَاؤُ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَعَنِ الْمَذْجِ  
وَالشَّتَاءِ وَالذَّمِّ وَالسَّيْرِ مَعَ الْهَجْرِ  
هَمُّكَ مَا أَهَمَّكَ إِذَا صَدَقْتَ فِي  
أَمْرٍ أَدَّتِكَ أَخَذَ الْحَقُّ عَمَّا وَجَلَّ بِبَيْدِكَ  
مَشَاكَ فِي صُحْبَةٍ قَدِيرَةٍ كَانَ وَسَعَةً  
مَا بَيْنَ مَخْطَوَتَيْكَ أَوْ سَعَةً مِنْ خُطَوَاتِ  
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَدِّقُ وَإِنَّ أَدَّتِكَ  
وَحُسْنِ أَدَبِكَ وَتَطَاوُرِ شَيْءِكَ عَنْ قَوْلِ  
جَبْرِائِيلَ إِنَّكَ تَبَّأُ لَكَ

يَا جَاهِلُ جَهْلُ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ وَمَا عِنْدَكَ

مِنْ فَضْلِهِ وَمَا عِنْدَهُ مِنْ عِبَادِهِ سَمِعُوا  
فَأَطَاعُوا يَرَى الْعَبْدُ أَقْسَامَهُ فِي التَّوَجُّهِ  
الْمَحْفُوظِ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى رُؤْيَا أَقْسَامِ  
أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ حَتَّى إِذَا تَعَجَّبَ تَوَدَّى  
فِي بَاطِنِهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا عَلَيْهِ  
وَأَرْثُهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ  
هَذَا الشَّيْءُ يُجَنَّبُ بِالسَّابِقَةِ ثُمَّ يَصِفُوا  
بِمَتَابَعَةِ أَقْدَامِ الْمَشَافِعِ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ فِي سَمَاعِهِ وَوَجِدَهُ أَتَتْهُ رُقْعَةٌ فِيهَا  
مَسْئَلَةٌ فِيهِ هِيَ فَقَالَ اسْتَأْذِنُ فِي الْكَلَامِ  
عَلَيْهَا وَأَحَاطَ لُحُوثُهُ قَالَ الزَّكَارُ هَلْ هُوَ  
وَاجِبٌ أَمْ لَا وَهَذِهِ مَسْئَلَةٌ فِيهَا خِلَافٌ  
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  
إِلَّا شَيْعَالٌ بِالْعِبَادَةِ إِذَا لَمْ تَشُقْ نَفْسُهُ  
أَوْ لَمْ يَعْنِدِ الشَّافِعِي وَآخَرَهُ وَعِنْدَ  
أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا شَيْعَالٌ بِالزَّكَارِ  
أَفْضَلُ.

جو کہ اُس کے پاس ہے اور اُس کے اُن بندوں سے جنہوں نے  
اُس کے حکموں کو سن کر تابعداری کی اور حضورؐ میں میں جاہل رہا۔  
تیرے لیے ملاکت ہے۔ ولی بندہ اپنے حصول کو لوح محفوظ  
میں لکھا دیکھتا ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال کے حصول کے دیکھنے  
کی طرف بڑھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ تعجب کرنے لگتا ہے  
تو اُس کے باطن میں ندا دی جاتی ہے نہیں ہے یہ مگر وہ بندہ  
جس پر تم نے انعام کیا ہے اور تحقیقی وہ ہمارے نزدیک بزرگ  
اور مختار بندوں میں سے ہے۔ یہ مرتبہ تقدیر سے حاصل ہوتا  
ہے پھر مشائخ کرام کے قدموں کی پیروی سے صفائی حاصل ہوتی  
ہے حضور سماع و وجد کی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس ایک رقعہ  
جس میں فقہی مسئلہ تھا آیا ارشاد فرمایا کلام کرنے کی اجازت لے  
لوں اور سوچ لوں (تو جواب دوں) پھر ارشاد فرمایا نکاح کرنا  
آیا واجب ہے یا نہیں اور یہ ایک  
مسئلہ ہے جس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا  
نکاح کو ناسنت ہے بعض نے فرمایا جب کہ نفس پر بھروسہ ہو  
تو نکاح سے عبادت میں مشغول ہونا اولیٰ ہے یہ مذہب  
شافعی و احمد کا ہے۔ ابو حلیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح میں مشغول  
ہونا افضل ہے۔

أَنْتَ مَتَى كُنْتُ مُرِيدًا فَإِلَّا شَيْعَالٌ  
يُجِبُكَ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ كُنْتُ  
مُرَادًا فَلَا تَذِيرُ لَكَ فِي  
نَفْسِكَ إِنْ شَاءَ هُوَ تَوَجُّهُكَ وَ  
إِنْ شَاءَ أَشْغَلَكَ يَسْوَاهَا إِنْ كَانَ  
شَيْءٌ قَسَمَ أَدْرَكَهُ  
يَأْخُذُ الْقَسَمَ بِذَنبِكَ وَيَقُولُ

اے سائل جب تک تو درجہ ارادت میں ہے مرید ہے  
پس نیز عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے اور جب تو مراد و مطلوب  
ہو جائے گا (یعنی مرتبہ کمال پر پہنچ جائے گا) تو تیرے لیے  
میں تیری تدبیر کوئی چیز نہیں اگر وہ چاہیں گے نیز نکاح کر دیگے  
اور اگر وہ چاہیں گے اس کے سوا دوسرے امر میں تجھے مشغول  
کر دیں گے اگر وہاں مقدر میں کوئی حصہ مقسوم ہو تو چکا ہے  
تو لا محالہ تو اُسے پائے گا وہ حصہ تیرا دامن پکڑ کر حق عروبل

لِحَقِّ خُدِّ يَحْتَقِي مِنْ هَذَا هُوَ هَارِبٌ  
مِيٍّ وَ أَنْتَ قَسَمْتَنِي لَهُ مَا أَصْنَعُ  
وَهُوَ مُكْتَفٍ عَنِّي يَكْتَفِيكَ إِلَيْهِ أَمَّا  
السَّيِّدُ فَإِنَّ التَّزْوِيَةَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مِنْ  
حَيْثُ الْبَاطِنُ أَوْ يَكُونُ لَهُ زِيَادَةٌ قَبِيصٍ  
أَوْ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ مِنَ الْأَرْضِ  
هَذَا سِيَاحٌ مَا لَهُ نِيَابٌ وَلَا أَفَاتٌ بَلْ  
يَكُونُ مُتَعَرِّياً عَنْ جَمِيعِ أَثْوَابِهِ فَإِذَا  
وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ وَانْقَضَتْ سِيَاحَتُهُ  
هُنَالِكَ إِنْ أَرَادَ مِلْكُهُ أَنْ يُزْوَجَهُ  
يَمْدُكُهُ يُوْجِدُهُ أَوْ يُفْقِدُهُ مَنْ  
صَاحِبُ الْأَحْسَنِ فَهُوَ أَحْسَنُ مَنْ لَمْ  
يَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ بِالْحَيَوَةِ  
الدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ -

يَا غُلَامُ قَسَمْتُكَ لَا يَأْكُلُ كُلُّهَا غَيْرُكَ  
لَا تَأْكُلُ بِطَبْعِكَ وَهَوَاؤُكَ مِنْ يَدِ  
شَيْطَانِكَ بَلْ تَوَقَّفْ وَاصْبِرْ سَاعَةً  
حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَارِ جَنَّتِكَ أَوْ قَرِيبٍ  
رَيْكَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ لِي وَمَرَدٌ  
مِنْ صِغَرِي إِلَى الْإِزْنِ أَلَا نَأْتِيهِمْ  
أَرْكَبُ مَا كَعْتَيْنِ أَتَصَرَّعُ مِنْ دَقِيقِي قَالَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَكُونُ لَهُ نَظَرَةٌ  
لَمَحَّةٍ السَّابِقَةِ لَمَحَّتْكَ عَيْنُ صَدِيقٍ  
فِي دُجْوَانِهِ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَحْسَنَكَ  
فَقَالَ بِإِخْوَانِهِ خُدُّهُ مَعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ فِي آيَاتِهِ

سے کہے گا کہ اسے حق تھا لے تو میرا حق اپنے اس بندہ سے دلا  
دے یہ مجھ سے بھاگتا ہے اور تو نے مجھ اس کے لیے  
مقسوم کر دیا ہے میں کیا کروں وہ تو مجھ سے بے توجہی برتنے  
والا ہے حق تھا لے لی رہن کر تجھے اس کی طرف متوجہ کر دے گا۔  
لیکن مرید پر تحقیق بحیثیت باطن نکاح کرنا حرام ہے تا وقتیکہ اس  
کے پاس ایک فیصلہ حاجت سے زیادہ نہ ہو یا اس کے پاس  
چار انگل زمین نہ ہو مرید تو سیاح ہے نہ اس کے لیے کپڑے  
ہیں اور نہ اسباب بلکہ وہ تمام کپڑوں سے ننگا ہوتا ہے۔ پس  
جب وہ اپنے مقصود پر پہنچ جائے گا اور اس کی سیاحت ختم ہو  
جائے گی اس وقت اس کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہے  
اس کا نکاح کر دے اس کو مالک بنا دے اس کو موجود کر دے  
یا مفقود کر دے جو اس حق کی مصاحبت میں رہے پس وہ اس حق ہے  
جس نے اللہ عز و جل کو نہ پہچانا پس وہ آخرت کے بدلے،  
حیوة دنیا پر راضی ہو گیا۔

اے غلام تیرے مقصود کو کوئی غیر نہ کھائے گا۔ تو اپنی  
طبیعت و خواہش سے اپنے شیطان کے ہاتھ سے نہ کھایا  
کر بلکہ توقف کر اور ایک گھڑی صبر کر یہاں تک کہ تو اپنے  
دار جنت یا قرب مولیٰ میں پہنچ جائے۔ آپ سے ایک شخص  
نے کہا میرا بچپن سے اس وقت تک ایک ورد تھا اب  
کھڑا ہوتا ہوں دو رکعتیں پڑھتا ہوں اسی وقت گر جاتا ہوں  
جواباً ارشاد فرمایا۔ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو لمحہ سابقہ کی  
نظر ہو تجھ کو کسی صدیق کی آنکھ نے اپنے حق عز و جل کی طرف  
گزرنے میں دیکھ لیا ہے پس تجھ کو اچھا کر دیا۔ بعد اس  
کے بھائیوں سے جو اس کے ساتھ ہے فرمایا اس کو اپنے  
ساتھ رکھ تحقیق اللہ تعالیٰ کے تمہارے بعض دونوں میں

دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ اَلَا فَتَعَرَّضُوا لِلنَّفْحَاتِ  
 لَا يَكُونُ فَاذًا شَاخَ قَلْبِكَ اَقْعَدَا مِدْكَةً  
 عَلٰی بَابِ قُرْبِهِ لَا يَكُونُ ضَعْفُ  
 الْعُظْمِ مِنْ قَلْبِكَ رَقِّ جِلْدًا  
 احْتَطَفَتِ الْمِثْنَةُ سِدْرًا يَرٰى قَلْبِكَ  
 بَابِ رَيْكِ عَنِّيَّتُهُ الْقُرْبُ وَصَرَعَتْهُ  
 اِنَّ فِي حِفْظِ الْقَلْبِ كَشْفًا شَاغِلًا  
 دَسَّاهُ عَنْ اَعْمَالِ الْقَلْبِ خَيْرٌ  
 مِنْ اَعْمَالِ الظَّاهِرِ اَلْفَ مَرَّةً مَا  
 دَامَ النَّفْسُ وَالسُّنَّةُ مُبْقَاةً  
 عَلَيْكَ لَا ضَيْرَ قِيلَ لِلْجَنَنِدِ اَنْ  
 الْحَضِرُ قَاتِلُهُ عَلَى رُحَى تَدْرُ  
 بِهِ وَهُوَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرِبُ  
 فَقَالَ اَنْظُرُوا حَالَهُ فِي اَوْقَاتِ  
 الصَّلَاةِ فَخِيلَ لَهُ لَاقَهُ اِذَا اَذَّنَ  
 الْمُؤَذِّنُ سَكَنَ قَاتِلُ لَا ضَيْرَ مِنْهُمْ  
 مَنْ تَقَوَّى عَلَى الْاَعْمَالِ مِنْ حَيِّنٍ  
 صَعِرَ اِلَى حَيِّنٍ الْمَوْتِ وَ مِنْهُمْ  
 مَنْ يَعْمَلُ اِلَى اَنْ يَبْضَعَفَ اِنْ كَانَ  
 هَذَا مِنْ حَيْثُ قُرْبٍ مِنْ حَيْثُ  
 عِلْمٍ مِنْ حَيْثُ اَلْمُشَاهَدَةِ فَلَا  
 بَأْسَ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ  
 شَيْطَانٌ يُغْوِيكَ وَ نَفْسٌ  
 يُؤْذِيكَ صَحْبَهُ الْحَكْمُ يُنْتِجُ  
 الْعِلْمَ يُنْتِجُ لَهُمُ السِّرَّ اَعِنْدَكَ

توجہات خاص ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤ تم اس کی توجہات کے لیے  
 متوجہ رہا کرو ہر وقت دماغ میں مشغول رہا کرو۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیرا  
 قلب بوڑھا ہو جائے اور اس کو بادشاہ اپنے قرب کے  
 دروازہ پر بٹھالے نہیں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ضعیف ہو جائے  
 اور باطن قوی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہڈی تیرے قلب  
 سے ضعیف ہو جائے اس کی کھال پتلی پڑ جائے منیت الہی  
 (احسان) نے اس کے باطن کو اچک لیا ہو۔ تیرا قلب استاد الہی  
 کو دیکھ رہا ہے اس قلب کو قلب الہی نے ڈھانپ لیا ہے  
 پس اس کو گراتا ہوتا ہے تحقیق قلب کی حفاظت میں ایک بہت  
 بڑا شغل ہے دوسرے مشغلوں سے روکنے والا ایک ذرہ قلب  
 کے عملوں سے ظاہر کے ہزار عملوں سے بہتر ہے۔ جب تک  
 فرائض و سنت باقی رہیں تجھے کوئی چیز ضرر نہ کرے گی۔ حضرت  
 جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شہری آدمی چکی پر  
 کھڑا ہے جو اس کے ساتھ گھومتی ہے اور وہ نہ کھاتا ہے اور نہ  
 پیتا ہے (حالت وجد میں بیہوش ہے) آپ نے فرمایا تم اس  
 کی حالت نماز کے وقتوں میں دیکھو کہ کیا رہتی ہے آپ سے  
 کہا گیا کہ تحقیق وہ جب کہ مؤذن اذان دیتا ہے سکون میں آجاتا  
 ہے فرمایا کوئی ضرر نہیں۔ بعض اولیاء الہی میں سے وہ ہیں جو کہ  
 اپنے بچپن سے لے کر مرنے کے وقت تک عملوں پر  
 قوی رہتے ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ ضعیف ہونے  
 تک عمل کرتے ہیں اگر یہ کمی قرب اور علم اور شاہدہ کی حیثیت  
 اعتبار سے ہو پس کوئی مضائقہ نہیں اور اگر اس کے سوا ہو پس  
 وہ شیطان ہے جو کہ تجھے بہکا رہا ہے اور نفس ہے جو کہ تجھے  
 ایذا دیتا ہے۔ حکم کی صحبت علم کا نتیجہ دیتی ہے اور ان کو  
 باطن کا نتیجہ دیتی ہے

مِنْ هَذَا أَخْبَرَ انْقِطَعَتْ ثُمَّ اتَّصَلَ وَاتَّصَلَ  
ثُمَّ اتَّصَلَ يَا حَبِيبَةَ الْقَاعِدِينَ عَلَى  
ذَكَالِكَيْنِ الْحَرْصِ وَالْأَمَلِ وَالْعِزَّةِ لَا  
جَرَمَ يَمُوتُ سِرُّكَ وَكَيْسُودُ قَلْبِكَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
الْقُلُوبَ لَتَتَصَدَّدُ وَإِنْ جَلَدَاءُ هَاقِصَاءُ  
الْقُرْآنِ . اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِ بَنَاءَ  
ارْحَمْنَا وَارْحَمْ بَنَاءَ غَيْرِنَا وَغَيْرِنَا  
بَنَاءَ رَاجِعِي مَبَاسَرًا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ  
النَّفْصَ ثُمَّ اتَّصَلَ تَفَقَّهُ ثُمَّ اعْتَزَلَ مَنْ  
عَبَدَ اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ كَانَ مَا أَتَسَدَّدَ أَكْثَرَ  
مِمَّا أَصْلَحَهُ خُذْ مَعَكَ مِصْبَاحَ شَرِّهِ ذَلِكِ  
بِالْحُكْمِ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلْمِ اقْطَعْ  
عَنْكَ قَائِمِي الْإِخْوَانِ وَالْجِيرَانِ الْأَقْسَامِ  
الرُّهْدِ فِيهَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْطِ ظَهْرُكَ رُزْجَمَكَ  
أَعْطِ الْأَقْسَامَ ظَهْرَكَ تَرْهَدُ ثُمَّ تَكْلِفُ الرُّهْدَ  
تَكْلِفُ الْإِعْرَاضِ أَتُرِكَ لَشْرَهْدَكَ حَتَّى آدَبَكَ  
كُنْ مَقَاطِعًا مِمَّنْ سَوَاكَ مُتَفَصِّلًا عَنِ الْأَعْيَارِ  
وَالْأَسْبَابِ خَائِفًا عَنِ الْإِطْفَاءِ مِصْبَاحِكَ  
عَلَى دَوَامِ ظُلْمَتِكَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ  
جَاءَ الْحَقُّ بِدُهُنِ رَامِدَادِهِ رَالِي  
مِصْبَاحِكَ تَوَرُّكَ فِي عَمَلِكَ مَنْ  
عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ أَوْ رَمَاهُ اللَّهُ  
عِلْمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ  
أَمْرَ بَعِيْنٍ صَبَاحًا تَفَجَّرَتْ يَنَابِيعُ

کو اس کی کچھ خبر بھی ہے۔ غیر اللہ سے علیحدگی کر پھر خدا سے اتصال  
کو اور اتصال کر پھر واصل الی اللہ ہو جاو اور دوسروں کو پہنچاوائے  
حسرت اُن پر جو کہ حرص اور آرزو اور دھوکے کی دوکانوں پر بیٹھنے  
والے ہیں ضرور ہے کہ تیرا باطن مر جائے اور تیرا قلب سیاہ پڑ جائے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قبول  
پر زنگ آجاتی ہے۔ اور تحقیق اس کی صفیق قرآن کا پڑ جاتا ہے۔  
اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں  
کو ہدایت دے اور ہم پر رحم کر اور ہمارے سبب سے دوسروں  
پر رحم کر ہم کو اپنی معرفت دے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو  
معرفت دے میں جہاں ہمیں رہوں مجھے بابرکت بنا آمین۔ تو اولاً  
پھر واصل ہو سمجھ و دانائی حاصل کر علم یکہ پھر گوشہ نشین بنی شخص جہالت  
کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اُس کا بگاڑ اُس کی اصلاح  
کی بر نسبت بہت زیادہ ہو اکتل ہے۔ تو اپنے رب کی شریعت  
کا چراغ اپنے ساتھ رکھ حکم کے سبب سے تو علم پر داخل ہو  
جائے گا تو اپنے سے تمام سببوں کو قطع کر دے تو بھائیوں اور  
پر دوسیوں سے علیحدہ ہو جا۔ جواز فی حصہ مقرر ہو چکے ہیں اُن میں  
زہد ٹھیک نہیں وہ تجھے لا بدی پہنچیں گے۔ تو اپنی بیوی کو بیٹھنے  
تو زہد بن پھر زہد بر تکلف بن ماسوے اللہ سے روگردانی نہ تکلف  
حاصل کر تو اپنی حرص کو چھوڑ دے حسن ادب اختیار کر ماسوے اللہ سے  
قطع تعلقات کر لے اغیار و اسباب سے جدا کی کر اس سے ڈرتا  
رہ کہیں تیرا چراغ گل ہو کر ہمیشہ کا اندھیرا نہ ہو جائے ایسی حالت  
میں حق تعالیٰ تیرے چراغ کے لیے اپنی امداد کا تیل عطا فرمائے گا  
تیرا تیرے عمل میں ہے۔ جو کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔  
اللہ تعالیٰ اسے نامعلوم چیزوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص  
اللہ کے لیے چالیس دن اخلاص سے عبادت کرے گا اُس کے

الْحِكْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ بَيِّنًا هُوَ كَذَلِكَ  
 إِذْ رَأَى نَارَ الْحَقِّ عَرَّ وَجَلَ كَمَوْسَى عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ حِينَ رَأَى نَارًا فَقَالَ لَا هَـلَـلَـه  
 امْكُثُوا مَكَانَكُمْ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا أَنَا دَاهُ  
 الْحَقِّ يَطْلُقُ نَارَهُ جَعَلَ النَّارَ فَرْجَ بَهْ  
 جَعَلَ رُؤْيَاهُ لَهَا دَلِيلَهُ يَرَى نَارًا مِنْ  
 شَجَرَةٍ قَلْبِهِ يَقُولُ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَ  
 طَبْعِهِ وَاسْتِبَائِهِ وَدُجُودِهِ امْكُثُوا  
 مَكَانَكُمْ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا أَنَا دَاهُ السِّرِّ  
 الْقَلْبِ إِنِّي أَنَا ذُبْتُ أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدُونِي  
 لَا تَزِلَّ لِغَيْرِي رِجْلُ فَنِي وَاجْهَلْ غَيْرِي  
 اتَّصِلْ بِي وَانْقَطِعْ مِنْ غَيْرِي أَطْلُبْنِي  
 وَاعْرِضْ إِلَى عَيْنِي إِلَى مُلْكِي إِلَى  
 سُلْطَانِي حَتَّى إِذَا نَمَّ هَذَا لَكَ شَمَّ  
 الْيَقَاضِ كَجَلَى مَا جَرَى أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ  
 مَا أَوْحَى نَمَّ الْيَقَاضِ الْحُبِّ نَمَّ الْكُدُورَةُ  
 سَكَنَتِ النَّفْسُ جَاءَ السُّكُونُ جَاءَتِ  
 الرُّنُطَاتُ إِذْ هَبَّ إِلَى رَمَّةٍ عَوْنٌ يَا قَلْبُ  
 ارْجِعْ إِلَى الْمَشِيْطِ وَالنَّفْسِ وَ  
 الْهَوَى كُلِّ قَهْمٍ إِلَى آهْلِهِمْ إِلَى  
 قُلُوبِهِمْ.

قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمہ جاری ہو جائیں  
 گے۔ وہ اسی حالت میں ہو گا کہ اس کو شل موسے علیہ السلام کے سخن عربی  
 کی آگ نظر آئے گی۔ جب کہ موسے علیہ السلام نے آگ کو دیکھا  
 تھا پس اپنی اہل سے کہا تھا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ برحق میں  
 نے آگ دیکھی ہے۔ آگ کے ذریعے سے اُن کو حق تعالیٰ نے آواز دی  
 تھی آگ کو اُن کے لیے اپنا قریب قرار دے دیا موسے علیہ السلام کے لیے  
 آگ کے دیکھنے کو اپنی دلیل بنا دیا اسی طرح یہ عارف باللہ اپنے  
 قلب کے درخت سے آگ دیکھے گا اپنے نفس و خواہش اور طبیعت  
 اور اسباب اور وجود سے کہے گا تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے لاؤ حق تعالیٰ  
 میں نے آگ کو دیکھا ہے باطن قلب کو آواز دے گا بے شک میں تیرا  
 رب ہوں میں ہی تیرا خدا ہوں پس تو میری عبادت کر میرے غیر  
 کی طرف نہ جھک مجھی کو پہچان اور میرے غیر سے جاہل بن مجھ سے  
 مل جا اور میرے غیر سے قطع کر لے مجھی کو طلب کر اور تو دوسروں  
 سے اعراض کر کے میرے علم میرے قرب میری حکومت میری  
 سلطنت کی طرف نفس و وقت پر مرتبہ تمام ہو جا تا ہے نقاد الہی کامل  
 طور پر حاصل ہو جاتی ہے اُس کے اور خدا کے درمیان میں جاری  
 ہوتا ہے جو کچھ کہ جاری ہوتا ہے وہ اپنے بندہ کی طرف الہام  
 کرتا ہے جو کچھ کہ الہام کرتا ہے حجاب اور کدورت زائل ہو جاتی  
 ہے نفس ٹھہر جاتا ہے کون آجاتا ہے الطاف الہی اگر اسے گھیر  
 لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسے قلب تو موعون کی طرف جا۔ تو شیطان  
 اور خواہش کی طرف رجوع کر اُن کے سروں کو میری طرف جھکا  
 اُن میں میرے اہل بننے کی قابلیت پیدا کر تو اُن سے کہو۔

اے میری قوم تم میری پیروی کرو میں تمہیں ہدایت  
 کا راستہ بتاتا ہوں۔ مل۔ پھر جدا ہو جا۔ پھر مل۔ پھر اصل ہو جا  
 لیکن تو تو اسے مسکین قریب ہے کہ تیری قوتیں منقطع ہو جائیں گی۔

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ  
 اتَّصِلْ شَمَّ انْقَطِعْ شَمَّ اتَّصِلْ شَمَّ أَوْصِلْ  
 أَمَّا أَنْتَ يَا مَسْكِينٌ سَوِّفَ تَنْقَطِعُ قُوَاكَ

وَتَحَوَّلَكَ وَتَهَجَّرَكَ خُلَا نَكَ وَيَجْمَعُ  
نَكَ بَيْنَ فَقَرِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ  
تَأْتِي الْقَبْرَ يَضِيْقُ عَلَيْكَ حَتَّى يَحْتَلِفَ  
أَصْلَا عَكَ وَيُحْرِسُكَ عَنْ مُجَاوَبَةٍ  
مُنْكَ وَكَكْبَرٍ تُعَذِّبُ فِي قَبْرِكَ وَتُقْتَحِرُ  
لَكَ بَابٌ مِنَ النَّارِ يَا نَبِيَّكَ عَذَابُهَا  
وَسُمُومُهَا.

اور وہ خیانت کریں گی کچھ کام نہ کریں گی اور تیرے دوست تجھ کو چھوڑ  
دیں گے اور دنیا کی منجانبی اور آخرت کا عذاب دونوں چیزیں تیرے  
لیے جمع ہو جائیں گی۔ تو مر کر قبر میں چلا جائے گا وہ تیرے اوپر تنگی  
کرے گی یہاں تک کہ تیری پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں  
گی۔ اور یہ حالت تجھے منکروں کے جواب دینے سے بہرہ نواز  
گی تجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا اور تیرے لیے دوزخ کا  
دروازہ کھول دیا جائے گا اور اُس کی زہریلی ہوا اور غلب ہونے  
لگے گا۔

يَا قَوْمَنَا أَحْسِنُوا الْأَدَبَ فِي هَذِهِ  
الدَّارِ يَسْلَمُ دِينُكُمْ وَظَاهِرُكُمْ وَبَاطِنُكُمْ  
حَتَّى تُقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَنَّةٌ يَزَالُ الْحَبَابُ  
عَنْ عَيْنَيْكَ وَعَنْ فَيْدِكَ وَعَنْ أُذُنَيْكَ  
وَيُلْقِمُكَ وَيَزِيدُكَ قُوَّةً إِلَى قُوَّةٍ وَ  
بَصِيرَةً إِلَى بَصِيرَةٍ عُمَرَا إِلَى عُمَرَ  
بَقَاءً إِلَى بَقَاءٍ رِزْقًا إِلَى رِزْقٍ يَشْكُرُ  
سَعْيِكَ وَيَحْمَدُ حُسْنَ أَدَبِكَ يُسَمِّيكَ  
شَاكِرًا بَعْدَ أَنْ سَمَّاكَ صَابِرًا عَاقِلًا  
دَيِّتًا يُغَيِّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  
بِقَوْلِهِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ أَخْلَقَ  
السُّوءَ يُغَيِّرُ ذُنُوبَهَا بِنَتَا بَعَثَ الشَّرَّ ثُمَّ  
ثُمَّ الْعِلْمَ ثُمَّ الْقَدْرَ كَمَا تَهْمُ بِنَجْوِ الْفِطْمِ  
أَيُّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ يَقْطَعُ أَعْضَاءَهُمْ  
الْحَبِيثِ الْبَشَرِ فِيهَا أَكْلَةٌ لَا حِرَالَةَ لَهَا  
وَلَا كَيْفَ ذَهَبَتْ أَنْفُسُ الْبَشَرِ يَهُ حَتَّى  
حَتَّى إِذَا ذَهَبَتْ أَنْفُسُ الْبَشَرِ يَهُ

اے میری قوم والو اس دار دنیا میں تم حسن ادب کرو۔  
تمہارا دین اور تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن درست و سلامت رہے  
گا۔ یہاں تک کہ تم اُس کے روبرو کھڑے کیے جاؤ اُس وقت  
تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حجاب دور ہو جائے گا۔ نیز  
تیرے منہ اور کانوں سے۔ اور وہ تجھے خدادے گا اور قوت پر  
قوت اور بصیرت پر بصیرت عمر پر عمر بقا پر بقا رزق پر رزق زیادہ  
کرنے چلا جائے گا۔ تیری سعی و کوشش پر شکر کرے گا۔ اور تیرے  
حسن ادب کی تعریف کرے گا اس کے بعد کہ وہ تیرا نام صابر و عاقل  
اور دین دار رکھے گا تیرا نام شاکر رکھے گا۔ تیری حالت بدل دے گا  
بلاشبک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے حتیٰ کہ وہ خود  
اپنے نفس کی حالتوں کو نہ بدل لیں۔ اویا اللہ برے اخلاق کو  
شریعت کی متابعت سے بعد علم لدنی کے ذریعے سے بدلتا حکم  
تقدیر سے بدل دیا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اور  
اُن جیٹ اعضاء کے کاٹ ڈالنے کے لیے جن میں بیماری پیدا  
ہو گئی ہے شراب معرفت پی کر حالت سکریں ہو گئے ہیں۔ نہ  
اُن میں حرکت باقی رہتی ہے اور نہ چوں و چرا بشری عقلیں جاتی  
رہتی ہیں یہاں تک کہ جب زمانہ سکرو نشہ کا چلا جاتا ہے۔ اور

ان کی عقل لوٹ آتی ہے۔ تو اطاعت الہی حالت بدلنے کے لیے  
 ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور بغیر جھوک کے بعد کھانا پیاس کے  
 بعد پانی اور ننگا و برہنہ ہونے کے بعد کپڑا ملتا ہے۔ جب تک تو  
 معرفت کے راستہ میں رہے گا وہ کچھ کمی کے ساتھ استعمال کا  
 حکم دے گا تا کہ تیری شہوت سمجھ جائے۔ تو حکم کو اس کا حق ادا  
 کرتا ہے شرعی حکموں کو پکڑتا رہے اور اس کے ممنوعات سے بچتا  
 رہے۔ یہ دن گزر جائیں اور تیرے قدم حق عزوجل کی طرف رات  
 دن کے گزرنے کے ساتھ قریب ہو جائیں۔ اولیاء اللہ چند  
 قسموں پر ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا سفر ایک دن میں تمام  
 ہو جاتا ہے۔ اور بعض کا ایک مہینہ میں۔ اور بعض کا برسوں میں ختم  
 ہوتا ہے۔ تیرا زمانہ لم (کیوں) اور کیف (کیسے) اور سوف (قریب  
 ہے) میں نہ چلا جائے بلکہ تو اپنی فکر کو مضبوط باندھا اور چل دے چل کر  
 شاید کہ وہ تجھے جب کہ تو اس کے گھر میں کام کرنے لگے دل بہلوانے  
 والی گویا عورت بنا لے۔ شاید کہ اس کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی  
 تیرے اوپر عاشقی ہو جائے پس وہ اس کے ساتھ تیری شادی کر  
 دے۔ تیری صورت بدل دی جائے اور تیری ٹوکی اور پچھاؤڑہ  
 کام کرنے کے آلات نیچ ڈالے جائیں اور تجھے سردار یا بادشاہ  
 نائب یا وزیر مقرر کر دیا جائے۔ جو اللہ عزوجل کو پہچان لیتا ہے اس  
 کے لیے ایسی حالتیں بہت ہوا کرتی ہیں۔ جب تو اس کی طرف پہنچ  
 جائے گا وہ تجھے پہننے لگے گا۔ زہد و ترک دنیا معرفت سے پہلے  
 اس سے پہلے کہ تو بادشاہ کی طرف پہنچے اس سے پہلے کہ تو اپنے  
 آپ کو پہچانتے یا جانے کہ تو کون ہے تیرا نام اور نیا لقب کیا  
 ہے اور کتنا ہے خاص بندہ اپنی لذتوں اپنے کپڑوں اور اپنے  
 سامان اپنے گھر اپنے اہل و اولاد اپنے پڑوسیوں اپنی عورت  
 اپنے دوستوں کو نصرت کر دیا کرتا ہے ایک قدم اگے بڑھتا ہے

عَادَ الْعَقْلُ إِلَيْهِمْ جَاءَتْ أَلْطَافُ  
 رَبِّهِمْ بِالْتَّغْيِيرِ وَالتَّغْيِيرُ طَعَامٌ بَعْدَ  
 الْجُوعِ شَرَابٌ بَعْدَ الظَّمَاءِ يَأْمُرُكَ  
 بِالتَّقَلُّلِ حَتَّى يَنْطَفِئَ شَهْوَتُكَ تُعْطَى  
 هَذَا الْحُكْمُ حَقًّا يَا حُذْرًا وَأَمْرًا شَرِّعًا  
 وَيَنْتَهَى عَنْ تَوَاهِيهِ هَذِهِ الْأَيَّامُ  
 تَنْقَضِي وَخُطَوَاتُكَ تَقْرُبُ إِلَى الْحَقِّ عَزًّا  
 وَجَلَّ مَعَ مُضِيِّ اللَّيْلِ وَ مَجِيءِ النَّهَارِ هُمْ  
 عَلَى أَقْسَامٍ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَهَى سَفَرُهُ  
 فِي يَوْمٍ وَ شَهْرٍ وَ سِنِينَ لَا يَذْهَبُ  
 زَمَانُكَ يَلَمُّ وَ كَيْفَ وَ سَوْفَ بَلْ شَرِّ  
 وَ سَطَطَ وَ اسْلُوكُ إِعْمَلْ لَعَلَّكَ إِذَا  
 عَمِلْتَ فِي دَارِهِ اتَّخَذَكَ قَنِيَّةً لَعَلَّ  
 جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيهِ تَعَشِفُكَ  
 فَيَزَوِّجُ بِهَا تَغْيِيرُ صُورَتِكَ وَ يُبَاعُ  
 زَنْبُكَ وَ قَسَاؤُكَ يُجْعَلُ سَائِسًا  
 أَوْ مَلِكًا نَائِبًا أَوْ زَيْجَرًا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ  
 كَسْتَكْتَرَتْ لَهُ تِلْكَ الْحَالَاتُ إِذَا  
 وَصَلَتْ إِلَيْهِ لِيُشْهِمَكَ الرَّهْءُ وَ  
 التَّرُّكُ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ  
 إِلَى الْمَلِكِ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ مَنْ أَنْتَ  
 وَ مَا لَقَبُكَ مَا اسْمُكَ يُودِعُ الْعَبْدُ  
 حُظْرَ ظُهُ رَثِيَابَهُ وَ وَمَتَاشَهُ  
 دَارَهُ أَهْلَهُ أَوْ لَدَا جِيرَانَهُ  
 امْرَأَتَهُ خِدَانَهُ يَتَقَدَّمُ رَجُلًا

وَيُوحِي خَيْرُ أُخْرَى يَأْتِي بِخَطَوَاتِنِ  
رِجَاءٍ وَخَوْفٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ  
جَاهِلٌ بِالْكُلِّ فَتَرَكَ الْكُلَّ  
جَاهِلًا بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا تَرَكَ  
الْكُلَّ يَأْتِي بِبَابِ الْمَلِكِ يَفْتَحُ مَعَ  
غُلَامَانِ وَدَوَابَّهُ خَائِفَتًا سَاجِدًا  
لَا يَدْرِي مَا يُرَادُ بِهِ وَالْمَلِكُ نَاطِقٌ  
إِلَيْهِ وَخَبِيرٌ عِنْدَهُ يَقُولُ لِلْغُلَامَانِ  
أَشْرُوهُ عَلَى الْكُلِّ ثُمَّ لَا يَزَالُ  
يُقَلِّبُ مِنْ شُغْلٍ إِلَى شُغْلٍ حَتَّى يُجْعَلَ  
حَاجِبًا بَيْنَ يَدَيْهِ مُفَرِّدًا بَيْنَ  
يَدَيْهِ مُطْلَعًا أَسْرَارًا لَا يَخْلَعُهُ وَ  
تَاجٌ يَكَانُ تَبَ آهْلُهُ ائْتُونِي بِأَهْلِكُمْ  
أَجْمَعِينَ هُ بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ الْمَلِكُ عَلَى  
نَفْسِهِ إِنِّي لَا أَتَغَيَّرُ عَلَيْكَ يُوقَعُ لَهُ  
بِصُحْبَةِ دَائِمَةٍ وَوَلَايَةِ دَائِمَةٍ إِذَا  
لَا يَبْقَى زُهْدٌ مَعَ التَّعَرُّفِ وَهَذَا  
مِنْ كُلِّ أَلْفِ أَلْفٍ وَاحِدٍ هَذَا شَيْءٌ يَنْتَبِهُ  
الْقَدَرُ وَالسَّابِقَةُ وَالْعِلْمُ

لَا تَكُونُ أَنْتَ مَسْنُونٌ قَالَ  
اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَا أُفْسِيهِ بِالنَّفْسِ  
الَّتَوَاصِيَةُ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ مَا أَرَدْتُ  
بِكَلِمَتِي مَا أَرَدْتُ بِخَطَوَاتِي مَا  
أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي مَا أَرَدْتُ  
بِكَلِمَتِي مُحَاسِبَةٍ لِنَفْسِهِ مَوْدِبًا

اور دوسرا پیچھے کتاب ہے پھر خوف و اندوہ کے دو قدموں سے آگے  
بڑھتا ہے۔ وہ سب چیزوں سے بے خبر ہو کر سب کو چھوڑ دیتا ہے  
اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو کر سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے  
پس جب وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے تو شاہی دروازہ پر آکر اس کے  
غلاموں چوپایوں کے ساتھ خائف و امیدوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے  
یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور بادشاہ اس کی طرف  
دیکھنے والا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے اور بادشاہ کو اس کی تمام خبر ہوتی  
ہے اس وقت وہ اپنے غلاموں سے فرماتا ہے کہ میرے اس  
بندہ کو سب پر برگزیدہ کر لو۔ پھر وہ ہمیشہ ایک مشغلہ سے دوسرے  
مشغلہ کی طرف لوٹ لوٹ کر پڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دربان آستانہ  
قرب کا بنالیا جاتا ہے اس کے سامنے بادشاہی اسرار پر خجدار ہو کر  
غلطی اور طوق اور ٹیکہ اور تاج لے کر تنہائی میں کھڑا رہتا ہے۔ اور  
اپنے اہل و عیال کو کھ دیتا ہے کہ تم اپنے سب اہل کو لے کر میرے  
پاس چلے آؤ۔ یہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ اولاد بادشاہ کو اپنے نفس  
پر اس بات کا گواہ بنالیتا ہے کہ میں تیرے اوپر کچھ تغیر و تبدل و کروں  
گا۔ اس کو صحبت دائمی اور ولایت دائمی کا فرمان عطا کر دیا جاتا ہے  
اس حالت پر پہنچ کر معرفت کے ساتھ زہد پاتی نہیں رہتا ہے۔  
اور اس مرتبہ والا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسی  
چیز ہے جو تقدیر و سابقہ ازلی اور علم الہی سے ملا کرتی ہے۔

اے مخاطب تو اس جماعت میں سے نہ ہو جن کے بارے  
میں ارشاد الہی ہے۔ میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں  
(یعنی گناہ گار نہ ہو جو کہ بعد کو نفس پر ملامت کرنا پڑے) مومن سوچا کرتا  
ہے کہ میرا اپنے کلام سے کیا مقصود ہے میں نے اپنا قدم کیوں  
اٹھایا ہے میرا مقصود اپنی بات بحیثیت سے کیا ہے۔ میں نے لقمہ  
کیوں کھایا ہے مقصود معین کا نفس سے حساب لینا اور اس کو ادب

لَمْ فَعَلْتُ لِمَ صَنَعْتُ هَلْ هَذَا يُوَافِقُ  
الْكِتَابَ وَالسُّنَنَةَ.

عَلَيْكُمْ يَا بَلِيعَيْنِ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ فَإِنَّهُ  
لُبُّ الْإِيمَانِ مَا أُدِّيتَ الْفَرَأِضُ إِلَّا  
يَا بَلِيعَيْنِ مَا نُوْهِدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا يَا بَلِيعَيْنِ  
عِنْدَ رِجَابَةِ الدُّعَاءِ سَكُونٌ وَوَدْعَةٌ  
فَإِنْ لَمْ تُجِبْ دَعْوَتَكَ تَعْتَزِضْ مِنْ  
عَلَامَتِ الصِّدِّيقَيْنِ الرَّجُوعُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ  
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُمَانَ أَخَوَاهُمَا رَجَعَا إِلَى  
الْخَلْقِ فِي الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ قُلُوبُهُمْ مَعَهُ  
وَأَبَدَ اللَّهُ مَعَ خَلْقِهِ يَحْتَاجُ بَيْنَ أَدَمَ  
أَنْ يَعْمَلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا تَغَيَّرَ طَبْعُهُ  
يَجَاهِدُ نَفْسَهُ وَشَيْطَانَهُ حَتَّى يَنْقُلَ  
مِنْ صِفَاتِ الْبَهَائِمِ إِلَى اخْلَاقِ الْإِنْسَانِيَّةِ  
أَكْفَرْتَ بِهَذَا الرَّبِّ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ  
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا أَفَلَا تَعْلَمُ  
أَنْ تَكْفُرَ وَتُجْهَدَ وَتَسْتَجِيبَ مِنْ أَعْيُنِ  
الْخَلْقِ أَنْ تَرَاكَ وَلَا تَسْتَجِيبَ مِنْهُ وَهُوَ يَرَاكَ  
يَا مَدَّعِي الْوِلَايَةِ فِي الظَّاهِرِ وَبِجَاهِهِ  
الْحَقُّ بِالْمَعَاصِي مَا تَسْتَجِيبُ مِنْهُ وَهُوَ  
مُطْلِمٌ عَلَى سِرِّكَ وَسَرِّيرَتِكَ وَأَنْتَ يَا  
مَنْ يُظْهِرُ الْعَقْرَ وَيَكْشُرُ الْوَعْيَ مَا تَسْتَجِيبُ  
رَبِّيعَ دِيْلِكَ بِدُنْيَاكَ وَمَا لَكُمْ مِنْ  
نِعْمَةٍ فَبَيْنَ اللَّهِ آيَنَ شُكْرُكَ.

کھانا ہوتا ہے کہ اُس نے ایسا کیوں کیا یا یہ قرآن و حدیث کے موافق  
ہے یا اُس کے مخالف۔

اے لوگو! تم حساب کے بعد یقین کو لازم پکڑ لو کیوں کہ یقین  
ایمان کی اصل ہے نہ بغیر یقین کے فرض ادا کیے جائیں نہ بغیر یقین  
کے دنیا میں زہد کیا جائے۔ دعا کے قبول ہونے کے وقت  
سکون و آرام ملتا ہے پس اگر تیری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے تو  
تو اعتراض کرنے لگتا ہے (افسوس) صدیقین کی علامتوں میں سے  
ہر چیز میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے پس جب وہ اپنی حالتوں  
کو چھپانا چاہتے ہیں تو لینے اور دینے میں مخلوق کی طرف رجوع  
کرتے ہیں۔ اُن کے دل خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور بدن اُس  
کی مخلوق کے ساتھ اپنی آدم اس دنیا میں عمل کرنے کا اُس وقت  
تک حاجت مند ہے کہ اُس کی طبیعت بدل جائے۔ وہ اپنے  
نفس و شیطان سے اُس وقت جدا کرتا ہے کہ وہ چوپایوں کی  
صفتوں سے انسانی عادت کی طرف منتقل ہو جائے کیا تو اس پروردگار  
کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر تجھے  
آدمی بنایا کفر کرے گا یا اُس کا بدلہ لے گا ہے کہ تو اُس کے ساتھ کفر  
کرے اور اُس کا منکوب بنے اور خلق کی آنکھوں سے شرمائے کہ وہ  
تجھے دیکھ رہا ہے

اے ظاہر میں ولایت کے دعوے کرنے والے اور کلمہ کلا  
حق سے نافرمانیاں کرنے والے تو اللہ تعالیٰ سے شرماتا نہیں۔  
مالانکہ وہ تیرے بھید اور تیرے اندرونی حالات پر خبردار  
ہے۔ اور تو اے فقیر و محتاجی کے ظاہر کرنے والے اور  
امیر کی کھچپانے والے اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہوئے  
شرم نہیں کرتا۔ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے پس وہ  
اللہ ہی کی طرف سے ہے پس تیرا اُس پر شکر کہاں ہے۔

يَا غَدِيْمٌ لَا تَتَّهِمْ أَحَدًا فِي خِلَافِكَ لَعَلَّكَ  
تُخْطِئُ أَوْ يُصِيبُكَ لَا تُقْبِلْ عَمَلٌ غَيْرَكَ حَتَّى  
تَسْتَحْسِنَ عَمَلَكَ اللَّهُ حَسِينٌ وَالتَّقِيْبُ إِلَى الشَّرِّ  
لَا إِلَى الْعُقُولِ هَذَا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَتَوَقَّى  
الرُّحُوْلَ بِأَنْ تَبْكُوْنَ التَّقِيْبُ وَالتَّحْسِينُ إِلَى  
الْبَاطِنِ فَتَوَى الْقَلْبُ تَقْضَى عَلَى فَتَوَى الْفَقِيْهِ  
لَا أَنَّ الْفَقِيْهَ يَقْتَضِيْ بِنَوْعِ اجْتِهَادِهِ وَالْقَلْبُ لَا يَقْتَضِيْ  
إِلَّا بِالْعَرِيْثَةِ مَا يَرْضَى الْحَقُّ وَمَا يُوَافِقُ هَذَا  
قَصْدًا أَلَيْسَ عَلَى الْحُكْمِ كُنُوْا عِبَادَ الْحُكْمِ ثُمَّ عِبَادَ  
الْعِلْمِ مَعَ عِبَادَةِ الْحُكْمِ يَمَعْنِيْ كُنُوْا مُوَافِقِيْنَ  
لَهُ مُتَذَلِّلِيْنَ تَذَلُّوْا مَعَ الْعِلْمِ فِي صُحْبَةِ  
الْحُكْمِ كُلِّ حَقِيْقَةٍ لَا تُشْهَدُ لَهَا الشَّرُّ يَكْفُرُ  
فَهِيَ تَرْدَقُهُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ  
عَرَّ وَجَلَّ أَقَمْتُ فِيْمَا فِيْهِ آفَاقًا مُوَادَّ  
أَكَلْتُ وَمَتَّأَ كَلُّوْا وَاشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى السِّرِّ وَالْغُورِ  
يَا أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ جَمِيْعُ مَا أَنْتُمْ  
مِنْكُمْ عِنْدِيْ وَجَمِيْعُ مَا أَنَا فِيْهِ مِنْكُمْ  
عِنْدِيْ وَجَمِيْعُ مَا أَنَا فِيْهِ مِنْكُمْ عِنْدَكُمْ  
نَحْنُ صِدْقٌ إِنْ لَا تَتَّفِقُ بَعِيْشُ بَيْنَكُمْ  
بِقُوَّةِ صَاحِبِ السُّلُوْبِ لَا قَرَارَ لِحُبُوْبِهِ  
فَلَوْ بِنَا شَبَابُكَ قَدْ ذَهَبَ فِي سَخِطِ  
الْخُلُقِ عَرَّ وَجَلَّ تَرْضَى تَرْدَقُكَ  
وَوَلَدَكَ وَجَارَكَ وَسُلْطَانَكَ وَكَسَطَ الْمَلِكُ  
وَالْحَقُّ عَرَّ وَجَلَّ وَإِلَيْهِ الدَّعِيْرُ لَا بَدَلَكَ مِنَ الْإِجَابَةِ  
إِلَى السُّرُوْبِ تَلْقَى الرُّبَاءَ وَالْأَهْقَابَ وَالْإِخْوَانَ وَالْأَمْحَابَ

اے بچہ تو کسی پر اپنے خلاف میں تہمت نہ دھرہ ہو سکتا ہے  
کہ تو خطا پر ہو یا وہ صواب پر۔ تو کسی غیر کے عمل کو بُرا نہ کہتا تو قیاس  
تو اپنے عمل کو اچھا نہ کرے اچھائی اور بُرائی کا تعلق شرع شریف  
سے ہے نہ عقول سے۔ یہ حکم ظاہر کی حیثیت سے ہے احوال باطنی سوا  
کی بُرائی و بھلائی کو باطن کی طرف حوالہ کر دینا اعتقاد ہے تل کا فتویٰ فقہ کے فتوے پر  
حاکم بنایا جاتا ہے کیونکہ فقہ اپنے ایک قسم کے اجتہاد سے فتویٰ دیتا ہے اور تل کا  
فتویٰ حق تعالیٰ کی مرضی اور اس کی موافقت میں علم کی کھنگی کے ساتھ ہوتا ہے۔  
یہ علم کا حکم پر قوت ہے۔ تو اولاً حکم کے بندہ بندہ  
اس کے حکم کی بندگی کو لیے ہوئے مسلم کے بندہ  
بنو۔ یعنی اس کے موافق بن جاؤ اس کے سامنے اپنے سروں کو  
بھٹکائے رکھو۔ علم کی معیت میں حکم کی صحبت میں داخل ہو جاؤ۔  
ہر وہ حقیقت جس کی کشریعت کو اسی نہ دے پس وہ بے دینی  
و زندیقیت ہے۔ جب تو اہل حق کے پاس حاضر ہو گا وہیں ٹھہرے  
گا جہاں وہ ٹھہریں۔ تو وہی کھائے گا جو کہ وہ کھائیں گے۔ اور  
تو جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کر۔

اے اس شر کے رہنے والو اتمام وہ باتیں جو تم کہتے ہو میرے نزدیک  
برسی ہیں اور تمام وہ باتیں جو میں کہتا ہوں تمہارے نزدیک بُری ہیں۔ ہم تم  
دو ضدیں ہیں جو کہ متفق نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم تم  
اُس میں آسمانوں کے مالک کی قوت سے زندگی بسر کر رہے ہیں  
ہمارے طائر قلوب بے قرار ہیں اُن کو قرار نہیں تمہاری جوانی غافل  
عز و جل کے خلاف اُس کی ناراضی میں جا رہی ہے تو اپنی جو رو  
اور اولاد اور پڑوسیوں اور بادشاہ وقت کو ناراضی کر رہا ہے۔  
اور فرشتوں اور حق عز و جل کو ناراض کر رہا ہے حالانکہ اسی کی  
طرف لوٹنا ہے بغیر موت کے قبول کرنے کے تجھے چارہ نہیں ہے  
تو اپنے باپوں اور ماؤں اور بھائیوں اور دوستوں اور بادشاہوں

سب سے ملاقات کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کفایت کب قائم ہوگی پس جو جب مرا اس کی قیامت قائم ہوگئی اویا اللہ قرب الہی میں ہیں اُن کی زندگی حق تعالیٰ کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے۔ وہ کئی بار مر چکے ہیں۔ اولادہ حرام سے مرچکے ہیں۔ ثانیاً شہوالی چیزوں سے مثلاً کھانا مباح چیزوں سے۔ رابعاً حلال مطلق سے۔ خامساً ہر چیز سے جو کہ اللہ کے سوا ہے۔ عز و جل۔ وہ ان تمام چیزوں سے مرے ہوئے ہیں زندہ ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں اور زندہ اُن کے نزدیک جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ بغیر صورت کے معنی بنے ہوئے ہیں پھر اُن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمادی ہے۔ اُن کا چلنا اور ٹھہرنا سب خدا ہی کے نام سے ہوتا ہے جب قلب تقدیر کے سمندروں میں چلتا ہے تو اُن کا ٹھہراؤ علم و قرب الہی کے دروازہ پر ہوتا ہے۔ بیداری خدمت ہے اور سونا وصال جب بندہ نمازیں سو جائے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ فرشتوں پر فرخ کیا کرتا ہے جسے ہمہ جہ ہے۔ اور روح ایک پرند مخلوق اہل معرفت کے نزدیک مثل مکیوں اور بطخروں اور ریشم کے کیڑوں کے ہیں اُن کی حالتیں ہمارے ضبط میں نہیں آسکتی ہیں۔ تم غفلت نہ ہو۔ اللہ کے سامنے وہی ہلاک ہوتا ہے جو کہ امتی یا ہلاکت میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ تم غفلت میں نہ رہو جو تجھے جو دوسنا اور خیر کرنے کا حکم دے پس وہ ہی تیرا دوست ہے جو کوئی فقیروں کے مال سے دولت مند بناوہ اُس کے سبب سے محتاج بنا۔ تجھے سے محض دعوایے اسلام سے فتاعت نہ کی جائے گی تو کہ اللہ کے لیے عمل کرے گا۔ اور کب وہ تجھے نفع دے گا جب میرے اعضا مجھے حرکت میں ڈالیں پس تم جان لو کہ قیامت میرا قلب بل رہا ہے۔

اے دنیا تو ابتداء میں میرے دوستوں پر کڑوی بن

وَالسَّلَاطِينَ لَا يَقُولُونَ أَحَدُكُمْ مَتَى تَقُومُ الْقِيَمَةُ  
فَإِذَا مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ أَوْ لِيَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
يَقْرِبُ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ عَاشُوا بِالْإِصْصَافَةِ إِلَى  
الْحَقِّ مَا تَوَاتُوا مَوَاتَاتٍ مَا تَوَاتُوا وَلَا عَنِ الْحَرَامِ  
وَتَأْنِيهِ عَنِ الشُّبْهَةِ وَتَأْنِيهِ عَنِ الْمُبَاحِ  
وَرَابِعًا عَنِ الْحَدَلِ الْقَلْبِيِّ وَخَامِسَةً  
عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْتِي  
عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَطْبُقُ نَهَا وَلَا يَقْرُبُ نَفَا  
كَأَنَّهُمْ مَسْخُوعُونَ مَعَانِي بِلَا صُورٍ شَحْمَ  
أَحْيَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِسَمِ اللَّهِ مَجْبَرِيهَا  
وَمُرْسَهَا إِذَا أَجَزَّتِ الْقُلُوبُ عَلَى بَجَارِ  
الْقَدْرِ مُرْسَهَا عَلَى بَابِ عَلَيْهِ وَقَرَّبِهِ  
الْيَقْظَةُ خِدْمَتُهُ وَالنَّوْمُ وَصَلَتُهُ إِذَا  
نَامَ الْعَبْدُ فِي صَلَوةٍ بَاهِيَ اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ  
الْبَيْتِيَّةُ قَفْصُ وَالسُّوْحِ طَائِرُ الْحَلَقِ  
عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كَالذُّبَابِ وَالزَّيْبَانِيرِ  
وَكَدُوحِ الْقَرَارِ أَخَوَالُهُمْ لَا تَنْضِيطُ لَكُمْ  
كُونُوا عُقْلَاءَ مَا يَهْدِيكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا  
الْأَحْمَقُ وَلَا يَهْدِيكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ  
مَنْ أَمَرَكَ بِالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ فَهُوَ صِدِّيقُكَ  
مَنْ اسْتَعْنَى عَنْ مَالِ الْفَقْرِ آءِ فَقَرَّ بِهِ  
يُمَجِّدُ الْإِسْلَامَ لَا يَقْتَرِعُ مِنْكَ مَتَى تَعْمَلُ  
لِلْحَقِّ وَلَفْعَكَ الْحَقُّ إِذَا تَحَرَّكْتَ أَعْضَائِي  
فَاعْلَمُوا إِنِّي قَدْ اخْتَرَقْتُ قَلْبِي

يَا دُنْيَا بَيْتِي كَمَرَّ رَأْيِي عَلَى أَوْلِيَايَ

فِي بَدْوٍ أَلَمْرٍ لِكَيْلًا يُحْبُوتُوا وَاحْذَرُوا مِنْهُمْ فِي  
 آخِرِ الْأَمْرِ لِكَيْلًا يَشْتَعِلُوا بِكَ كَانَ عَيْسَى ابْنُ  
 مَرْيَمَ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَكَ بَصِيصُهُ كَمَا تَصْبِيهُ  
 الْمَرْأَةُ الشَّكْلَى وَقَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِابْنِ آدَمَ إِذَا  
 ذُكِرَتْ عِنْدَهُ السَّاعَةُ أَنْ يَسْكُنَ أَنْتَ عَدَمٌ  
 لَا حِسَّ فِيكَ مَا عَشَقْتَ قَطْرَ حَزْنٍ لَطُولِ  
 مَقَامِهِ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّ خَوْفَهُ وَحَزْنَهُ مَنْ  
 تَقَلَّبَ الْأَعْيَارَ وَالْحَاجَةَ إِلَى الْخَلْقِ وَ  
 الْحِجَابِ عَنِ الرَّحْمَنِ لَغَلْبَةِ الْهَوَى وَ  
 النَّفْسِ وَالطَّبْعِ وَالشَّيْطَانِ مَنْ أَمِنَ فِي  
 هَذِهِ الدُّنْيَا فَقَدْ جَهَلَ جَهْلًا عَظِيمًا

يَا عَالِمُ اَمِنْ مَا تَكُونُ أَخَوْفُ مَا  
 تَكُونُ لِعَمْرِي يَقْرَبُكَ وَيُدْنِيكَ وَيَحْدِثُكَ  
 وَيُفْتَحُكَ وَيُطْلِعُكَ وَيُشَاهِدُكَ  
 وَيَفْتَحُكَ لَكَ الْأَبْوَابَ وَيَقْعِدُكَ عَلَى  
 مَا يَشَاءُ وَفَضْلِهِ وَقُرْبِهِ وَيُبَاسِطُكَ  
 وَلَكِنْ يَطْلُبُ مِنْكَ الْحَزْنَ قَامَ  
 إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ  
 وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْحُزْبِ  
 الْبَرِّ كَمَعَهُ أُسْبُوعٌ غَيْثٌ  
 وَمَطَرٌ يَقْرُبُ الْعَبْدَ إِلَى الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَالْقُرْبُ إِلَهًُا يَكُونُ  
 بَعْدَ أَحْكَامِ الْحُكْمِ بَعْدَ وَجْعِ كِتَابِ الْبَقِيَّةِ  
 فِي يَدِهِ وَالْإِطْلَافُ عَلَى آسَرَايَا

نما کردہ تجھے دوست نہ بنالیں اور آخر میں جا کر تو ان کی خدمت کرنا کہ  
 وہ تجھ میں مشغول نہ ہو سکیں۔ جیسے علیہ السلام کے روبرو جب قیامت  
 کا ذکر کیا جاتا تھا تو آپ ایسی ہیچ مارتے تھے جیسے مال اپنے  
 مردہ اکلوتے بیٹے پر اس کے مرنے پر رویا کرتی ہے۔ اور فرمایا  
 کرتے تھے کہ انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ جب اس کے ملنے  
 قیامت کا ذکر کیا جائے وہ چپکا آرام سے بیٹھا رہے۔ تو مردہ  
 ہے تجھ میں حس نہیں ہے تو کبھی عاشق ہوا ہی نہیں۔ تو دنیا میں اپنے  
 زیادہ ٹھہرنے سے غم کیا کر کیوں کہ عارف کا خوف و حزن اغیار  
 کے پاس آمد و رفت اور مخلوق کی طرف حاجت لے جانے اور  
 رحمن کی طرف حجاب بسبب غلبہ خواہش اور نفس اور طبیعت اور  
 شیطان کے ہوا کرتا ہے جو دنیا میں بند رہا پس تحقیق اس نے  
 بڑی نادانی کی۔

اے سچے سب سے زیادہ امن والا وہ ہے جو سب سے  
 زیادہ خوف ناک ہو۔ میری زندگی گانی کی قسم خدا تجھے مقرب بنا لے  
 گا اور تجھے اپنے سے نزدیک کر لے گا اور تجھ سے بات  
 چیت کرے گا اور تجھے لقمہ کھلائے گا اور اپنے اسرار پر مطلع  
 کر دے گا اور مشاہدہ کر لے گا اور تیرے لیے دروازوں کو کھول  
 دے گا۔ اور تجھ کو اپنے فضل و قرب کے دسترخوان پر بٹھائے  
 گا اور تجھ سے انبساط فرمائے گا اور لیکن تجھ سے خوف کرتے  
 اور غمگین رہنے کا سوال کرے گا۔ اس وقت آپ کی طرف ایک  
 مرد سائل کچھ سوال کرنے کو کھڑا ہوا۔ پس آپ نے اس کا قول  
 نہ سنا اور فرمایا یہ موقع غم کا ہے۔ بجلی ایک ساعت چمکتی ہے۔ بعد  
 بارش ہفتوں ہوتی رہتی ہے۔ بندہ حق عزوجل کی طرف نزدیک ہو  
 جاتا ہے مگر قرب کا حصول بعد حکم کے مضبوط کر لینے اور بقیہ  
 کا کتاب کے ہاتھ میں رکھ دینے اور بعد اپنے اسرار پر مطلع کر

دینے کے اور جو کچھ کراؤندہ ہونے والا ہے اس پر آگاہ کر دینے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص بنو عقیل میں سے جو کفاری و فقیہ تھا نصرانی ہو گیا (مرتد بن گیا) اور کافروں کے شہروں میں اس حالت میں دیکھا گیا کہ اس کی گردن میں صلیب پڑی ہوئی تھی اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اس قرأت و عبادت کو کیا کر دیا یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ میں قرآن میں سے سوئے ایک آیت وقد منا الی ما عملوا الا یہ کے کچھ نہیں جانتا اور ہم اس عمل کی طرف جو کراہتوں نے کیا تھا۔ بڑھے پس ہم نے اس کو غیار پر لگندہ بنا دیا دے کار کر دیا اولاً لہم (باطن) مرتد ہوتا ہے پھر قلب پھر نفس بعدہ اعضاء جب کہ سر مرتد ہو جاتا ہے اس کا ظہور ضرور ہو جاتا ہے۔ منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجوہ میں۔ ظاہر شرع اس کا پنجوہ اگر ہم ظاہر علم کے ساتھ چھوڑ دیئے جاتے کہنے کی اجازت ہوئی تو ہم تیرے گناہوں کو ظاہر کر دیتے اور کہہ دیتے۔

وَمَا سَيَكُونُ مِنْهُ اَخْوَبِي عَقِيلٍ كَانَ  
صَاحِبَ قِرَاءَةٍ وَفِيهِ تَنْصَرُّوْا مِرِّي فِي  
بَلَادِ الْكُفَّارِ وَفِي عُنُقِهِ صَدِيبٌ قِيْلَ  
مَا فَعَلْتَ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّنْسُكِ فَقَالَ  
لَا اَدْرِ مِی مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا سَمِعْتُ اَيَّةً  
وَاحِدَةً وَقَدْ مَنَّا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ  
فَجَعَلْنَا لَا هَبَاءَ مَنُشُورًا اَوَّلَ مَا يَزِيدُ  
السِّرَّ ثُمَّ الْقَلْبُ ثُمَّ النَّفْسُ ثُمَّ الْجَوَارِحُ  
اِذَا ارْتَدَّ السِّرُّ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ  
الْمُتَافِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالظَّيْرِ فِي  
الْقَفْصِ طَاهِرُ الشَّرْعِ فَخَصَّهُ لَوْ  
خُلِيْنَا وَطَاهِرُ الْعِلْمِ بَيِّنَاتُكَ ذُرُوبُكَ  
وَقُلْنَا يَا كَاذِبًا يَا فَاسِقًا لَكِنَّ الشَّرْعَ  
قَبَضَ اَيُّدِيَنَا عَنْ ذَلِكَ اِخْدَمُوا الْحُكْمَ  
وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ لِاِنَّ الْعِلْمَ يَكْشِفُ  
لَكُمْ تَعْلِمُ الشَّرْعِ ثُمَّ اعْتَزَلْ فَإِنْ  
كُنْتَ مِنْ خَوَاصِّهِ اِطْلَعَكَ عَلَى  
عِلْمِهِ اِذَا انْتَهَتْ بِكَ النَّفْسُ اِلَى  
مَوْلَاهَا وَقَفْتَ عَلَى الْبَابِ مَفْتُوحًا  
قِيْلَ لَكَ لَا تَدْخُلْ كَمَا اَنْتَ لَا هَلِكَ  
عِنْدَكَ حَقٌّ اِشْتَرَيْتَ بِاَهْلِيَّةٍ مَّ  
اجْمَعِيْنَ .

اسے کافر۔ اسے فاسق۔ لیکن شرع نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے باندھ دیا ہے تم شرع کی خدمت کیئے جاؤ اور علم کو طلب کرتے رہو کیوں کہ علم تمہارے لیے تمام حالات کو کھول دے گا۔ تو علم شرعی یکہ پھر گوشہ نشین بن جا پس اگر تو اس کے مخصوص بندوں میں سے ہو جائے گا تو وہ تجھے اپنے علم پر مطلع کر دے گا جب تیرا نفس تجھ کو اپنے مولے کی طرف پہنچا دے گا۔ تو اس کے دروازہ پر جا کر کھڑا ہو جائے گا اور تیرا داخل ہونا مثل بادشاہ کے داخل ہونے کے ہو گا۔ جب تو دروازہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ تو تجھ سے کہا جائے گا تو اپنی حالت پر تنہا آتیرے اہل کا بھی تجھ پر حق ہے تم اپنے اہل کے ساتھ سب کو لے کر

اور۔

اسے سر تو اپنے قلب اور اعضا اور کلیت کے ساتھ

يَا سِرُّ اُثْبِتْ وَقَبْلَكَ وَجَوَارِحُكَ وَطَلِيَّتَكَ

حَيْذُ لَا بَيْعَ وَلَا شِرَى وَلَا مَعَاوَةَ -  
 كُلُّ يَأْمَنُ لَمْ يَكُنْ يَأْمَنُ وَلَا يَشْرِبُ يَأْمَنُ  
 لَمْ يَكُنْ يَشْرِبُ لَمْ يَكُنْ صَبْرٌ عَلَى الْحَقِّ  
 وَالْمَعَاوِلَ ظَهَرَ مِنْهَا الْمُعِينُ صَامًا مَأْوَى  
 النَّارِ وَالْأَوَارِدِ - إِذَا لَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْآلِ  
 السُّجَّاهَاتِ وَالْبَلَايَا مَتَى تَكُونُ عَارِفًا -  
 يَا قَفِيرُ صَابِرٌ عَنَقَرٌ يُبْ يَنْطَرُ إِلَيْكَ  
 الْحَقُّ فَيَرْفُكُ وَيَتَوَجَّعُ وَيُلْبِسُكَ بِلَاسِ  
 الْعُظْمَةِ وَالْمُلْكِ وَالْجَلَالِ -  
 اللَّهُمَّ عَنْهُمْ بَعْدًا وَإِلَيْكَ قُرْبًا -

اللَّهُمَّ عَنَّهُمْ غِيًى وَإِلَيْكَ فَقْرًا  
 احْفَظِ اللَّهَ بِالْعَنَى عَمَّا سِوَاهُ إِذَا  
 تَعَلَّقَ قَلْبُكَ بِبَابِ الْقُرْبِ وَهُوَ فِي  
 ظُلْمَةِ الْوُجُودِ طَلَمَ عَلَيْهِ فَجَّرَ الْعِلْمِ  
 وَكَحَلَ بَصَرَ قَلْبِكَ بِكَمَلِ السَّيْرِ وَ  
 أَقْبَرْتَ فِيهِ سَهَةً الْأَقْدَامِ حَيْثُ نَدَى  
 دَوْلَتِكَ وَالْأَكْلَ وَالشَّرْبَ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ  
 مَنْقُودٌ يَمْلُوكَ خَلْقَهُ وَالنَّجَبَاءَ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ  
 تَأْمَنُ كُلُّ وَتَشْرِبُ وَتَنَامُ طَوِيلًا وَيَصْنُوبِينَ تَقُولُ  
 أَنَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ أَنَا مِنَ الْآبِدِ الْكَائِنِ  
 هَذَا بِالنَّمِيِّ نَجَبَاءَ خَلَقَ اللَّهُ تَاطِلًا وَنَ  
 إِلَى مَرَادِ اللَّهِ مَا عِنْدَ كَمٍّ مِنْ هَذَا  
 خَبَرٌ -

يَا أَهْلَ السُّجَّاسِ يَا أَبْنَاءَ قَبِيلٍ وَقَالَ وَ

یہاں اگر جم جاس وقت نہ خرید و فروخت ہے اندر نہ کسی معاوضہ۔  
 اسے نہ کھانے والے تو اب کھا اور اسے نہ پینے والے  
 تو اب پی۔ جب کنوئیں نے کھونے اور کدالوں پر ۱۰۰ لا صبر  
 کر لیا اس سے چشمہ ظاہر ہو گیا اور پھر وہ وارد مدار کا جائے پناہ  
 بن گیا۔ جب تو مجاہدوں اور بلاؤں کی تکلیفوں پر صبر نہ کرے گا تو  
 تو عارف کب ہو سکے گا۔

اے فقیر صبر کر عنقریب حق تعالیٰ تیری طرف نظر فرمائے گا  
 پس تجھے بلندی دے گا اور وہ تجھے تاج اوڑھائے گا۔ اور عظمت  
 اور بادشاہت اور جلال کا لباس پہنائے گا۔  
 اے اللہ میں اُن سے دوری اور تیری طرف قرب کو طلب  
 کرتا ہوں۔

اے اللہ تو مجھے اُن سے بے نیازی اور اپنی طرف مائل رہی  
 عطا کر تو اسوای سے بے نیازی کر کے خدا کی یاد کی حفاظت کیا  
 کر۔ جب تیرا قلب وجود کی تاریکی سے نکلا قرب الہی کے  
 دروازہ پر تعلق ہو جائے گا اُس وقت علم کی صبح اُس پر طلوع  
 کرے گی۔ اور تیرے قلب کی آنکھ ابھار کا سرمہ لگائے گی اور  
 تجھے تقدیروں کی فرست پڑھادی جائے گی اُس وقت تو اپنے  
 لیے کھانا پینا لازم پکڑنا جو کہ جنت کے داخل ہونے کے بعد  
 اُس کی مخلوق کے بادشاہوں اور نجباء اولیاء اللہ کے واسطے  
 بنایا گیا ہے۔ تو کھاتا اور پیتا ہے اور زمانہ دراز تک سوتا رہتا  
 ہے اور دو آوازوں سے کتنا رہتا ہے کہ میں اولیاء اللہ میں سے  
 ہوں۔ میں ابدال میں سے ہوں۔ یہ مرتبہ محض تمنا و آرزو سے حاصل  
 نہیں ہوا کرتا ہے نجباء مخلوق الہی مراد الہی کی طرف تو جہ کرنے  
 والے ہوتے ہیں ہمیں تو اس سے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔  
 اے مجلس والدہ! اے قیل و قال کے بیٹو! یہ کہہ کر

وَلَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَادَّارَ وَجْهَهُ إِلَى جَمِيعِ الْحِمَاتِ  
 مِنَ الدَّعَى حُبَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ وَمَرَجَعَ  
 فِي خَلْوَتِهِ ذَهْرًا كَذَّابًا مِنْ الدَّعَى حُبَّ  
 الْحَيَّةِ مِنْ غَيْرِ بَدَلِ الْمَالِ وَالْمَلِكِ ذَهْرًا  
 كَذَّابًا مِنْ الدَّعَى حُبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ حُبِّ الْفَقْرِ وَالْفُقَرَاءِ  
 فَهُوَ كَذَّابٌ بَعَيْنِ الرَّاسِ يُشَاهِدُ الدُّنْيَا  
 وَبَعَيْنِ الْقَبْرِ يُشَاهِدُ الْآخِرَةَ وَبَعَيْنِ  
 السِّرِّ يُشَاهِدُ الْمَوْلى تَتَذَكَّرُ مَعَ الْخَلْقِ  
 بِحَيْثُ لَا يَرَفَعُ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِ أَحَدِهِمْ  
 حِفْظًا لِذَلِكَ وَتُبَارِزُ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ  
 بِالْمَعَاوِي وَتُبَارِزُهُ فِي أَفْعَالِهِ قَبِيحٌ  
 بِكَ لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ إِلَّا عَلَى جَاهِدٍ  
 إِلَّا مَنْ آثَرَ اللَّهَ عَلَى هَوَاهُ وَطَبِيعِهِ وَ  
 نَفْسِهِ هَذَا شَيْءٌ مِنْ دَرَأِ الْعُتُولِ  
 تَوَاجَدُ الرُّوحُ وَالْقَدْبُ بِالنُّورِ طَارَةً وَ  
 النُّورُ أَفْقَةً وَرَامًا بِإِلَافَةٍ فَلَا إِلَّا  
 مَنْ أُكْرِئَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ التَّوَكُّلِ  
 الصَّادِقِ كُلُّ وَارِدٍ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَعْزِضُ  
 أَعْمَالَهُ الظَّاهِرَةَ عَلَى مِرَاةِ الْحَكِيمِ  
 يَعْزِضُ أَعْمَالَهُ الْبَاطِنَةَ عَلَى مِرَاةِ الْعِلْمِ  
 فَإِنَّ وَافَقَ أَعْمَالَهُ الْإِيمَانُ اتَّبَعَ أَذْخَلَهُ  
 عَلَى الْمَلِكِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ وَافَقَ عَمَلُهُ  
 مِرَاةَ دُونِ مِرَاةٍ لَا يَقَعُدُ عَلَى  
 الْبَابِ وَ يُقَالُ لَهُ أَحْكَمُ أَمْرًا

اپنے ہاتھ میں دم کیا اور اپنے چہرے کو سب جہتوں کی طرف پھیر  
 کر فرمایا جو کوئی (یعنی اس کے) مخلوقات نشین ہو اور ترقولے اختیار  
 کرے محبت الہی کا دعویٰ کرے پس وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی  
 بغیر مال اور ملک کے خرچ کیے جنت کی محبت کا دعویٰ کرے  
 پس وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی بغیر محبت فقر اور فقیروں کے حضور نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے پس وہ جھوٹا  
 ہے۔ سر کی آنکھ سے دنیا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے نہ اور قلب کی  
 آنکھ سے آخرت کا اور سر کی آنکھ سے مولیٰ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا  
 جاتا ہے تو مخلوق کے ساتھ اپنے ادب کی نگہداشت سے ایسا  
 ادب کیا کرتا ہے کہ تیری آواز کسی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے اور  
 حق تعالیٰ سے لوگنہوں کے ساتھ مقابلہ اور اس کے افعال میں  
 اس سے معارضہ (جھگڑا) کرتا ہے۔ یہ تیرے فعل بہت برے  
 ہیں آفتاب جاہل ہی کہہ پر اور اس پر جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہش  
 اور طبیعت اور اپنے نفس پر اختیار کرتا ہے۔ طلوع نہیں کیا کرتا۔ یہ غیر منظر  
 پر ہے روح و قلب کا تواجد و جد موافقت سے ہوتا ہے  
 اور لیکن بجز پس ممکن نہیں۔ ارشاد الہی ہے الامن اكل الاية  
 مگر جس پر اکراہ کیا جاوے اور قلب اس کا ایمان سے مطمئن ہو۔ سچا  
 مرید جب اس پر کوئی معاملہ بھی وارد ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال  
 ظاہری کو حکم کے آئینہ پر پیش کرتا ہے اور اپنے اعمال باطنی کو  
 علم کے آئینہ پر پیش کرتا ہے جانچ کرتا ہے پس اگر اس کے  
 اعمال دونوں آئینوں کے موافق ہوتے ہیں۔ ٹھیک نظر آتے ہیں  
 اس وقت اپنے کو بادشاہ حقیقی عزوجل کے روبرو داخل کر دیتا  
 ہے اور اگر اس کا عمل ایک آئینہ کے موافق ہوتا ہے۔ دوسرے  
 کے نہیں تو وہ داخل نہیں ہوتا ہے دروازہ پر بھی میٹھ جاتا ہے  
 اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے معاملہ کو درست کر لے۔

حَتَّى يَشْكُرَ سَعْيَكَ وَ يُحْمَدَ أَمْرَكَ فَإِنَّهُ  
بَابُ لَا يُدْخَلُ إِلَيْهِ إِلَّا مِنَ الْخُصْمِ  
الْعُلُوفِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَقْتَضِي لَكَ أَعْمَالًا  
تُمَيِّزُ بَيْنَكَ الْأَعْمَالِ هِيَ بَابُهَا بَيْنَكَ  
وَبَيْنَ مَرَاتِكَ عَمَّا وَجَلَّ لَا يَطْلِعُ عَلَى  
ذَلِكَ الْعَمَلِ لَا مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ  
مُرْسَلٌ ذَهَبَتْ عَنْهُمْ الْعُقُولُ  
الشَّرْعِيَّةُ وَ ذَهَبَ لَهُمُ عَقْلُ الْعُقُولِ  
حَتَّى إِذَا ذَهَبَتْ آيَاتُهُ التَّبَيُّهُ مَادُّوا  
إِلَى طَعَامٍ بَعْدَ الْجُوعِ وَ شَرَابٍ بَعْدَ  
الظَّمَاءِ وَ تَوَرَّعَ بَعْدَ النَّهْرِ وَ رَاحَةَ  
بَعْدَ التَّعَبِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى شُغْلٍ شَاغِلٍ  
رَاحَتُهُ يَطْلِعُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَسْرَارِ ثُمَّ  
يَطْلِعُ ذَلِكَ الْعَبْدُ عَلَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ  
مِنْ أَهْلِ الْبَنَدَةِ وَالْإِقْلِيمِ وَإِذَا كَانَ  
الْقُطْبُ رَاقِعًا عَلَى أَعْنََالِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ  
أَقْسَامِهِمْ وَ مَا يَتَوَلَّى أُمُورُهُمْ لِيَسِيرَ  
وَيَطْلِعُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَسْرَارِ وَ لَا  
يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَ  
شَرٍّ لِأَنَّهُ مُقَرَّبٌ إِلَيْكَ بِطَائِفَةٍ نَائِبَةٍ  
أَنْبِيَائِهِمْ وَ رُسُلِهِ أُمِّيَّةِ الْمَمْلَكَةِ فَهَذَا  
هُوَ الْعَيْنُ الْقُطْبُ فِي رَمَائِهِ الْقَلْبُ مَوْرِدُ  
السَّلَاطِيكِ وَ السُّرُورِ مُنْظَرُ الْحَقِّ إِذَا أَرَادَ  
اللَّهُ عَمَّا وَجَلَّ أَنْ يَقْطَعَ عَبْدٌ إِلَيْهِ  
أَوَّلُ مَا يُوجِبُهُ مِنْ بَنِي آدَمَ

یہاں تک کہ تیری گوش مشکور ہو جائے اور تیرے عمل کی تعریف  
کی جائے کیوں کہ یہ ایسا دروازہ ہے جس میں بغیر واسطہ حکم و علم  
کے داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پس جب ایسا معاملہ درست  
ہو جائے گا تو اللہ عز و جل تیرے لیے ایسے عملوں کو کھول دے گا  
جو کہ پہلے عملوں سے متمیز ہوں گے وہ تیرے اور تیرے رب کے  
درمیان مغنی ہوں گے اس عمل پر کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی  
مرسل بھی مطلع و خبردار نہ ہو گا۔ ان مخصوص بندوں کی شرعی عقلیں  
جاتی رہتی ہیں اور ان کو عقل العقول عطاء فرمادی جاتی ہے۔  
یہاں تک کہ جب ان کے نشرو ثمر کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ  
بھوک کے بعد کھانے کی طرف اور پیاس کے بعد پینے کی طرف  
اور جاگنے کے بعد سونے کی طرف اور تکلیف کے بعد راحت  
کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں پھر یہ ایسے شغل کی طرف لوٹایا  
جاتا ہے جو کہ اس کو تمام مشغلوں سے روکنے والا ہوتا ہے۔  
کیوں کہ یہ بھیدوں کے خزانوں پر مطلع ہو جاتا ہے پھر اس  
کو اہل شہر و اہل اقلیم کے حالات پر موافق ارادۃ الہی جو کہ اس  
سے مقصود ہے خبر مل جاتی ہے۔ اس کو اطلاع دے دی جاتی  
ہے اور اگر وہ قطب بنایا جاتا ہے تو وہ تمام دنیا والوں کے عملوں  
اور ان کے ازلی حصوں اور انجام کار سے واقف ہو جاتا ہے۔  
اور اسرار کے خزانوں پر مطلع ہو جاتا ہے کوئی چیز بھی بڑی اور  
بھلی دنیا میں اس پر مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اس واسطے  
کہ وہ شاہی یکتا فرد اس کا راز دار رسولوں اور انبیاء کرام کا نائب  
اور سلطنت کا امین ہوتا ہے۔ پس یہی قطب زمانہ ہوتا ہے جس کا  
قلب فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ اور جس کا سر خدا کا منظر ہوتا ہے  
بل جلالہ جب اللہ عز و جل کسی بندہ کو اپنی طرف مخلوق سے  
انقطاع کر کے متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اولاً اس کے دل میں نبی آدم

ثُمَّ يُؤْنِسُهُ بِالْإِسْبَاعِ وَالْوَحْشِ  
وَالْجِنِّ حَتَّى إِذَا ذَهَبَتِ الْوَحْشَةُ  
الْأَدِمِيَّةُ بِالنَّاسِ بِالْجِنِّ وَالْإِسْبَاعِ  
النَّسَاءُ بِالْمَلَأِ ثَكْرَةً عَلَى اخْتِلَافِ  
صَوَرِهَا يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ فِي الْبَرَارِيِّ  
وَالْقَفَارِ وَالْبَحَارِ -

يَا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْإِنْقِطَاعِ أَسْمَعُ  
يَا طَالِبَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَلَامًا ثَمَّ  
رُؤْيَاهُ حَتَّى إِذَا انْشَرَفَ كَلَامُهُمْ وَ  
اشْتَقَاقُ إِلَى رُؤْيَاهُ صَوَرُهُمْ مُرِيفَةُ  
الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ فِي  
خَلْقِ اللَّهِ أَلَدٌ حَدِيثًا مِمَّنْ  
الْمَلَأَ ثَكْرَةً أَحْسَنَ الْخَلْقِ صَوْرًا  
وَأَلَدَهُمْ كَلَامًا ثَمَّ يُعْجَبُ عَنِ  
الْمَلِكِ هُوَ دَهْشَتُهُ وَخَيْرُهُ عَلَى  
بَابِهِ ثُمَّ جَاءَ لَا مَنْ يَأْنِسُ قُرْبَهُ  
ثُمَّ يَكُونُ مَا يَكُونُ فَنِيْمًا بَعْدَ  
السُّكُوتِ يُوحَى إِلَى الْقَلْبِ كَمَا أُوحِيَ  
إِلَى أُمِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ  
خَافَتْ عَلَيْهِ يَا قَلْبُ إِذَا خِصَّتْ  
عَلَى السَّيْرِ الَّذِي فِيكَ أَلْبَسَ الْبَيْتِ  
فِي بَحْرِ الْبَرَارِيِّ وَالْقَفَارِ وَفَارِقَ  
الْأَهْلَ وَالْأَصْحَابَ تَكُونُ أَمْرًا خَيْرًا  
مِمَّا تَلْقَى وَلَكِنَّهَا فِي الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَخْرُجُ  
خُطْوَتَيْنِ تَخَافُ وَذَلِكَ لِنَقْصَانِ إِيْمَانِكَ

سے وحشت ڈال دیتا ہے پھر اُس کو درندوں اور وحشیوں سے  
اور جنوں سے مانوس کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب وحشیوں اور جنوں  
اور درندوں میں رہ کر اس کی اُدمیت کی وحشت جاتی رہتی ہے تو  
اُس کو ملائکہ سے انس دیتا ہے وہ مختلف صورتوں میں اس کے  
پاس آتے جاتے رہتے ہیں جنگلی اور میدانوں اور دیوؤں میں اُن  
کے کلام منتار ہوتا ہے۔

اسے انقطاع کا ارادہ کرنے والے سن لے۔ اسے طالب  
مولیٰ اولیٰ کلام کا انتظار کر پھر دیدار کا۔ یہاں تک کہ جب یہ بندہ  
فرشتوں کے کلام سے مانوس ہو جاتا ہے اور اُن کی صورتوں  
کے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتا ہے تو اس کے اور اُن کے درمیان  
سے حجاب اٹھادیا جاتا ہے اور مخلوق الہی میں فرشتوں سے زیادہ  
لذیذ کلام والا کوئی نہیں ہے وہی مخلوق میں سب سے زیادہ ،  
غلبہ صورت اور عمدہ و طیف کلام والے ہیں پھر فرشتے سے حجاب میں  
کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ سراپاد ہشت و حیرت بن کر اللہ عزوجل  
کے دروازہ پر پڑا رہتا ہے پھر اُس کے پاس انیس تہ رب الہی آجاتا  
ہے پھر اُس کے بعد ہوتا رہتا ہے جو کچھ بھی ہو جاتا ہے سکوت  
کے بعد میں اُس کے قلب کی طرف ویسی ہی وحی بھیجی جاتی ہے  
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اُن کے خوف کرنے کے  
وقت وحی بھیجی گئی تھی کہ اے قلب جب کہ تو اپنے اُس بھید پر  
جو تجھ میں مخفی ہے آشکار ہونے کا خوف کرے تو تو اپنے جسم کو  
جنگلوں اور میدانوں کے سمندر میں ڈال دے اور اپنے اہل و  
اصحاب سے جدائی کرے تجھ سے ایک عورت ہی رہی یعنی  
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہن تھی جس نے اپنے بچہ کو دریائیں  
ڈال دیا تو دو قدم باہر نکلتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اور یہ معاملہ  
ترے ایمان کے نقصان کے باعث ہے ارشاد الہی ہے۔

لَوْلَا أَنْ رَّبَّنَا عَلَي قَلْبِهَا هَكَذَا إِذَا  
خِصَّتْ فِي بَرِيئِكَ عِنْدَ الْقَطَاعِ مُرَادِكَ  
وَمَا لَيْفَكَ حَتَّى تَكَادَ تَرْجِعَ إِلَى الْخَلْقِ  
وَالسَّبَبِ مُرَبِّطَ حَيْثُ نَشِئَ عَلَى  
قَلْبِكَ.

يَا نَقَصَ التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ وَالْتَقْوَى  
أَيْنُ أَنْتُمْ وَالتَّوْبَةِ فِي كُلِّ حَالَةٍ يَا  
مُدِيرُ الْأَكْلِ بِاللَّيْنِ يَفَاكُ وَالْأَكْلِ  
بِالضَّنَةِ سُنَّةٌ أَوْ قَعْدٌ مَعَ هَذِهِ السُّنَّةِ  
حَتَّى يَأْتِيَ الْإِيمَانُ يَأْخُذُ الضَّنَّةَ مِنْ  
يَدِكَ وَيَنْبُتُ أَبْوَابَ الْخَلْقِ مِنْ قَلْبِكَ  
حَيْثُ نَشِئَ أُخْرِجَ أَوْ اقْعُدْ تَقَلُّبُ فِي دَارِ  
عَلَيْهِ أَعْلَى وَاصْتَدَّ لَا تَسْمَعُ غَيْرَ  
الْحَقِّ وَلَا تَرَى غَيْرَ فَضْلِ الْحَقِّ وَلَا  
تَرَى غَيْرَ فَضْلِ الْحَقِّ لَمْ يَسْبَحْهُ  
يَا بَرِّ الْكَافِ الْأَرْضِ مَعَ الشَّحْنَةِ يَا  
عَوَامُّ الْكَيْسِ أَحَدَكُمْ إِذَا لَحِقَ  
شَيْئًا أَخَذَكَ وَتَغَرَّبَ وَسَاَهَرَ حَالَهُ  
الْأَخْذَ مِنَ الْخَلْقِ وَحَالَهُ الْأَخْذَ مِنَ  
الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَ حَقِيقَتُهُ وَكَذَلِكَ الْأَخْذَ  
إِذَا لَحِقَ شَيْئًا أَخَذَكَ وَتَغَرَّبَ وَسَاَهَرَ  
حَالَهُ الْأَخْذَ مِنَ الْحَقِّ وَأَمَّا إِذَا تَرَقَّتْ  
دَرَجَتُهُ وَتَحَقَّقَتْ وَلَا يَتَّهَى لَا يَخْطُرُ بَلْبِهِ  
أَخْذُ وَلَا عَطَاءُ نَأْتِيهِ الْأَشْيَاءُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا  
يُقَسِّمُ بَيْنَنَا وَلِهَا يَا أُمُّ مُوسَى إِذَا اخِصَّتْ عَلَيْهِ

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے قلب پر گرہ لے  
دیتے تو وہ راز فاش کر دیتیں۔ ایسے ہی جب تو اپنی مراد و مقصود  
کے منقطع ہونے کے وقت اپنے توکل کے جنگل میں خوف کرنے  
لگے گا یہاں تک کہ تیرا مخلوق و سبب کی طرف لوٹنا قریب ہو جائے  
گا تو تیرے قلب پر اطمینانی گرہ لگا دی جائے گی۔

اے توحید اور علم و تقویٰ میں ناقص رہنے والو تم اور  
ہر حالت میں تمہاری توبہ کہاں ہے۔ توبہ کرتے رہو۔ اے بد نصیب  
دین کا بدلہ لے کر کھانا لگاتے ہو۔ اور کام کر کے بذریعہ کسب کھانا  
سنت ہے تو اس سنت کی معیت میں بیٹھ جا کسب کرتا کہ تیرے  
پاس ایمان آجائے اور اس کام کو تیرے ہاتھ سے لے لے  
اور مخلوق کے دروازوں کو تیرے قلب سے بند کر ڈالے تو اس  
وقت خواہ باہر نکلتا یا بیٹھ رہنا تو اس کے دارالعلم میں اندھا  
اور بہرا بنا ہوا اور رفت کرتا رہے حق کے سوا کچھ نہ دیکھتا اور فضلِ خلوفی  
کے سوا کسی کی طرف نظر نہ ڈال پھر محافلین الہی کی ہمراہی میں جس  
طرف تو زمین میں جانا چاہے یہی سیاحت کو لازم پکڑے عوام لوگوں  
کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز ملتی ہے  
تو وہ اس کو مخلوق سے لے کر چل دیتا ہے اور سفر کرتا ہے۔  
اور اللہ سے لینے کی حالت حقیقت ہے۔ پس ایسے ہی جب  
ہم میں کا کوئی کچھ پالیتا ہے تو اس کو لیتا ہے تو اس کو حق تعالیٰ  
سے لینے کے لیے مسافرت اختیار کرتا ہے اور لیکن جب اس  
کا درجہ ترقی کر جاتا ہے اور اس کی دلالت متحقق ہو جاتی ہے  
تو اس کے دل میں لین اور دین کا خطرہ بھی نہیں آتا ہے چیزیں  
اس کے پاس خود بخود آتی رہتی ہیں حالانکہ وہ ان سے غائب  
ہوتا ہے۔ اس کو ان کے لینے کی قسم دی جاتی ہے۔ موسیٰ  
کی ماں سے کہا گیا تھا۔ جب تم موسیٰ پر خوف کرو تو ان کی

فَالْقِيَةِ وَ أَنْتَ إِذَا اخِضَتْ عَلَى دِينِكَ أَلْقَى  
 قَتْلِكَ إِلَى اللَّهِ سَلَّمَ قَتْلَكَ إِلَيْهِ سَلَّمَ  
 أَهْلَكَ إِلَيْهِ قَتْلَ أَنْتَ الطَّاحِبِ فِي السَّعْرِ  
 وَالْخَيْفَةِ فِي الْآهْلِ وَالْوَلَدِ مَعْرِفَتِكَ  
 يَلَهُ عَمْرٌ وَ جَلَّ وَ مَحَبَّتِكَ لَهُ كَشَلْ هَيْئَةً  
 فِي وَسْطِكَ أَيْمَانًا تَوَجَّهْتَ هُوَ مَعَكَ فَتَنَامُ  
 مَعَ الْقَدْرِ وَ تَسْمَعُ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْقَادِرِ  
 وَاللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ إِنَّ أَحْوَالَ الْأَنْبِيَاءِ  
 كَأَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ لَكِنْ لَقَبَهُمْ غَيْرَ الْقَادِرِ  
 الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يَنْزِلُ إِلَيْهِمْ  
 مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ لَا تَهُمُّ شَفَعَاءُ الْخَلْقِ  
 هَكَذَا هُوَ لَا يَحَاسِبُونَ لَا تَهُمُّ  
 خَوَاصُّ الْحَقِّ

يَا عَبْدَ الْهُوَى وَالطَّبِيعِ يَا عَبْدَ  
 الشَّكَاةِ وَالْحَمْدِ مَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ  
 وَ سَبَقَ بِهِ الْعِلْمُ مِنَ الْأَفْسَامِ لَا  
 بُدَّ مِنْ اسْتَيْقَظَتْهَا لَكِنَّ الشَّانَ هَلْ  
 تَأْخُذُ هَا يَكْ أَوْ بِهِ تَوَجُّدُكَ أَوْ تَفْقِدُكَ  
 مَعَ التَّوْحِيدِ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ الْحَقِّ عَزَّ وَ  
 جَلَّ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ لَا يَطْطِيعُ  
 عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَلَا الْعُقُولُ وَلَا  
 الْمَلَكُ أَطْلُبُ الْعَرْبَ مِنْ بَابِ  
 فَنَائِكَ إِذَا رَضِيتُ أَحَبَّكَ فَإِذَا أَحَبَّكَ  
 أَطْلَمَكَ أَحَبَّكَ كُنْتُ أَبَا  
 فِي مَحَبَّتِهِ مَعَ عَلَيْهِ

دریائیں ڈال دینا اور تو اسے عارف جب اپنے دین پر خور  
 کرے تو تو اپنے قلب کو اللہ عزوجل کی طرف ڈال دے اور  
 اپنے قلب و اہل کو اُس کے سپرد کر اور کہہ دے کہ اے مولیٰ تو ہی  
 سفر کا ساتھی ہے اور اہل و عیال میں غلیفہ تیری اللہ کے لیے  
 تیری صحبت ماننا اُس ہیانی کے ہے جو کہ تیری کم پر بندھی رہتی  
 ہے۔ جہاں کہیں تو متوجہ ہو گا وہ تیری جہت میں رہتی ہے  
 پس تو تقدیر کے ساتھ سوئے گا اور قدرت و قادر سے کام لے  
 گا۔ خدا کی قسم پھر خدا کی قسم بلا شک اولیاء اللہ کے حالات مثل  
 حالات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہیں لیکن ان کا لقب اُن کے  
 سوا ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کی طرف منکر و نکیر نہیں آیا کرتے  
 ہیں کیوں کہ وہ مخلوق کے شفیع ہیں اسی طور سے اولیاء اللہ سے  
 معاشرہ نہیں کیا جاتا ہے کیوں کہ وہ حق عزوجل کے مخصوص بندہ  
 ہیں۔

اے خواہش و طبیعت کے بندہ اے تعریف و ثنا کے  
 بندہ جن مقسومات پر ظلم چل چکا ہے اور علم الہی اُس پر سبقت کر  
 چکا ہے اُس کا پورا کرنا حاصل کرنا ضرور ہے۔ لیکن دیکھنا چاہیے  
 کہ آیا تو اُس کو اپنے ہاتھ سے اپنی خودی کے ساتھ لیتا ہے۔  
 یا خدا کے ساتھ رہ کر اُس سے تو اپنے کو موجود سمجھتا ہے یا مفقود  
 سمجھتا ہے۔ معرفت والے بندہ کے قلب میں توحید کے ساتھ  
 اللہ عزوجل کی طرف ایک ایسا بھید اُس کے بھیدوں میں  
 سے ہوتا ہے کہ نہ اُس پر شیطان مطلع ہوتا ہے اور نہ عقلیں  
 اور نہ فرشتے تو اپنی فنا کے دروازہ سے قرب الہی کو ڈھونڈ  
 جب تو اُس پر راضی ہو جائے گا وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا پس  
 جب وہ تجھ سے محبت کر لے گا تجھے خبردار کر دے گا تجھے  
 اپنی مصاحبت میں رکھے گا تو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ اُس کی محبت

وَالْعَابِ يَصْحَبُهُ بَعِيْدَاتٍ لَا يَعْلَمُ  
 اَنَّ السَّمِيْدَ هَذَا السَّمِيْدُ اِلَّا الْعَارِفُ  
 اَنْتَ فَسَخَّرْ لَهُ قَائِنًا وَاقْفَتَ  
 اِنَّهُ فِي ذَلِكَ وَالْاَوَّلَ وَاَنْتَ مَطْرُوْدٌ  
 كُنَّا كَمَشْنِي خَلْفَهُمْ وَنَحْنُ كَالْمُتَرَا  
 مِنْ جُلَسَائِهِ لِنَسْتَفِيْدَ مِنْهُمْ  
 كَلِمَاتِ الدُّخُوْلِ مِنْ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ  
 صَلَّ وَبَعْدَ كَلَامٍ قَالُ وَ  
 يَكُوْنُ نَائِبُ الرَّسُوْلِ فِي الْبَايَعَةِ  
 يَتْرُكُ ثُمَّ يَتْرُكُ ثُمَّ يَأْخُذُ يَتْرُكُ  
 الْمَتْرُوْكُ وَيَأْخُذُ الْمَأْخُوْذُ يُصْنَعُ  
 لَكَ اَلَمْزُ كَفَلَيْكَ الصَّبِيْحُ يُجَدِّدُ عَلَى  
 الْعَبْدِ ثَوْبِي الْوُجُوْدِ وَالْفَنَاءِ الْوُجُوْدُ  
 تَأْمَرُ وَالْفَنَاءُ تَأْمَرُ وَتَأْمَرُ يُفْتَقَدُ  
 فَيَقْبَلُ الْحَقُّ عَلَيْهِ وَتَأْمَرُ يُوجَدُ  
 فَيُخْبِرُ عَنِ الْحَقِّ مَا وَى قَلْبِي عَنْ رَأْيِي  
 اجْعَلْ بِخُلُوْقِكَ بَابَيْنِ بَابًا اِلَى الْخَلْقِ  
 وَبَابًا عَلَى الْحَقِّ تَوَدِّي حَقُوْقِ الْخَلْقِ  
 وَتَوَدِّي حَقُوْقِ الْحَقِّ اَصْحَابِ الْخَلْقِ  
 لِلْخَلْقِ فَيَكُوْنُ شَرَّ الْخَلْقِ وَيَدُوْمُ لَكَ  
 قَرْبُ الْحَقِّ الْخَلْقُ مَا سَوَى الْحَقِّ وَ  
 هَذَا مَعْنَى يَعْنِي جَمِيْعَ الْاَحْوَالِ مَعْنَى مُجِبِّكَ  
 الْخَلْقَ لِلْحَقِّ تَصِيْحَتِكَ لَهُمْ بَعْدَ صُحْبَةِ  
 الْحَقِّ اَصْحَابِ الْخَلْقِ اِذَا اصْبَحْتَ الْخَلْقَ بَعْدَ  
 صُحْبَةِ الْحَقِّ فَاَنْتَ مَعَ الْحَقِّ لَا مَعَ الْخَلْقِ

میں رہے گا۔ اور عابد اپنی عبادت کی وجہ سے اُس کی صحبت میں  
 رہتا ہے۔ لیکن اس بات کو کہ تحقیق ایسا مہدکون ہے۔ اُس کو  
 عارف ہی جانتا ہے۔ تو ایسے عارف کا تابعدار بنارہ۔ پس اگر  
 تو اس امر میں اللہ کا موافق بنارہ پس بہتر ہے ورنہ تو دربار الہی  
 سے ہانکا ہوا ہوگا۔ نکال دیا جائے گا۔ ہم اولیاء اللہ کے پیچھے  
 پیچھے اُن کے ہم نشینوں میں سے مثل جیونٹی کے چلا کرتے تھے  
 تاکہ ہم اُن سے دربار الہی کے داخل ہونے کے کام لے سکیں جو  
 اپنی رائے سے بے نیاز ہوا بہک گیا۔ آپ نے بعد کچھ گفتگو کے  
 ارشاد فرمایا۔ بندہ مومن انجام کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 و سلم کا نائب بن جاتا ہے۔ یکے بعد دیگرے چھوڑتا ہے اور  
 پھر لیتا ہے وہ حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ اور  
 اختیار کی ہوئی چیزوں کو لیتا ہے۔ یہ امر تجھ پر سپیدہ صبح کی طرح  
 ظاہر ہو جائے گا بندہ مومن پر دو کپڑے وجود و فنا کھینٹے  
 ہوتے رہتے ہیں کبھی وجود اور کبھی فنا کبھی یہ فنا و مفقود کر دیا جاتا  
 ہے پس یہی حق تعالیٰ کی خبر دیتا رہتا ہے۔ میرے قلب نے  
 رب تعالیٰ سے روایت کیا کہ تو اپنی خلوت میں دروازہ بنا  
 ایک دروازہ خلق کی طرف اور ایک دروازہ حق کی طرف ایک سے  
 حقوق خلق کو ادا کیا کر دے سے حقوق حق تعالیٰ جل مجدہ حق  
 کے واسطے مخلوق کے ساتھ رہیں یہ تیرے لیے شرعے کفایت  
 کرے گا اور تجھے ہمیشہ قرب الہی حاصل ہوگا۔ ماسوے اللہ خلق  
 ہے اھریہ یعنی میں کہ جو تمام حالتوں کو عام ہوتے ہیں حق  
 کے واسطے مخلوق کے ساتھ رہنے کے معنی تیری مخلوق کے لیے  
 غیر خواہی کرنا ہے۔ تو حق کی صحبت کے بعد مخلوق کے ساتھ رہ  
 پس جب تو حق کی صحبت کے بعد خلق کے ساتھ رہے گا پس تو  
 حق کی ہی معیت میں ہوگا کہ خلق کی معیت میں اور حق کے ساتھ تیری

وَعَلَامَةٌ صُجَّتِكَ الْحَقُّ أَنَّكَ لَا تَرَى  
النَّفْعَ وَالضَّرَرَ مِنْ جَانِبِ الْخَلْقِ بَدَ الْكُلِّ  
مُسْتَطُونَ مُسْتَحَرُونَ قُلُوبُكَ أَكَلَتْ مِنْ  
طَعَامِ فَضْلِهِ وَسَمِعَتْ حَدِيثَ أَنْبِيَاءِهِ  
وَرَأَتْ قَرْحَةَ قُرْبِهِ خَاطَبَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ  
فِي خَاطَبُونَ فِي الْآخِرَةِ وَاحْدًا أَمْرًا  
يُخَاطَبُونَ فِي الدُّنْيَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَنِيدُ  
قَالَ مَا تَكَلَّمْتُ إِلَّا بَعْدَ سَهَادَةٍ أُرْبِعِينَ  
مِنْ الزُّبْدِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ سَرَى الشَّعْطُ  
وَلَمْ يَفْعَلْ بِقَوْلِهِمْ مَا آوَى الرَّسُولَ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ

يَا جُنَيْدُ تَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَإِنَّهُ قَدْ إِنْ  
لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ إِنْ إِذَا أَرَدْتَ الْحَقَّ وَالزِّيَادَةَ  
وَالثَّبَاتَ فَافْعَلْ مَا أَقُولُ وَإِلَّا فَالْوَيْلُ لَكَ  
عِنْدَ الصَّلَاةِ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَعِنْدَ الْبَلَاءِ  
تَسْتَقْبِلُ أَيْضًا وَهُوَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِ قَلْبِكَ  
الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا اسْتَقْبَلْتَ بِوَجْهِكَ الْخَلْقَ  
عِنْدَ الْوَفَاةِ كَانَ إِيْمَانُكَ بَاطِلًا لِأَنَّ الْإِيْمَانَ عِنْدَ  
الْبَلَاءِ يَتَبَيَّنُ إِنْ كَسَا الْقُلُوبُ فِيهِ كَثِيرٌ  
وَلَكِنْ إِنْ كَسَا قُلُوبُ الْعَوَامِ لِدُنْيَا وَ  
الْخَوَاصِّ لِلْآخِرَى وَخَاصُّ الْخَاصِّ يَنْكَسِرُ  
قُلُوبُهُمْ لِعَوَاثِ الْمَوْلَى أَوْ لِحِجَابِ وَقَعِ  
بَعْدَ انْكَسَافِ كُلِّ أَحَدٍ إِنْ كَسَا يُخْصَصُ إِلَّا  
أَحَادُ أَمْرًا إِنْ كَسَا لَهُمْ لِأَجْلِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ

صمیمت کی نشانی یہ ہے کہ تو نفع و نقصان کو خلق کی طرف سے  
خیال نہ کرے۔ بلکہ کل کے کل اُس کے نابعدار و مسخر ہیں یہ سمجھتا رہے  
بہت سے قلوب نے اُس کے فضل کا کھانا کھا یا ہے اور اُس  
کے انس کی گفتگو سنی ہے اور اُس کے قرب کی فرحت کو دیکھا ہے  
اللہ تعالیٰ نے اُن کے قلوبوں سے دنیا ہی میں قبل اُن کی موت کے  
خطاب فرمایا ہے پس اُن سے تیامت میں بھی خطاب کیا  
جائے گا۔ اور اُن کا وہ کامی ایسے افراد ہیں جن سے دنیا میں خطاب  
کیا جاتا ہے۔ ابوالقاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ  
میں نے بعد شہادت چالیس ابدالوں کے جن میں سے حضرت سرری  
سقطی رضی اللہ عنہ بھی ہیں وعظ کہنا شروع کیا بغیر اس کے کلام نہ  
کیا اور ان کے قول پر بھی عمل نہ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں۔

اے جنید ارمیوں پر وعظ کہو جو تحقیق اب تمہارے لیے  
وعظ کہنے کا وقت آگیا ہے۔ اگر تو حق کا اور زیادتی مراتب اور  
اور ثابت قدمی کا طالب ہے پس جو کچھ میں کہوں تو وہ کر ورنہ  
تجھ پر انکسوس ہے۔ تو نماز میں قبلہ کو منہ کیا کرتا ہے اور وقت  
نزول بلا کے بھی قبلہ کو منہ کرتا ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ تو اپنے  
قلب کے چہرے سے حق عزوجل کا استقبال کر۔ جب نزول  
آفات کے وقت تو اپنے چہرے کا استقبال خلق کی طرف کرے  
گاہ۔ تیرا ایمان باطل ہو جائے گا کیوں کہ بلا کے آترنے کے وقت  
قلوب کی شکستگی ہوتی ہے ایمان ظاہر ہو تاہیں عوام کے قلوب کی شکستگی  
دنیا کے واسطے ہوتی ہے اور خواص کے قلوب کی شکستگی آخرت کے لیے  
ہوتی ہے اور خواص الخاص کے قلوب کی شکستگی کوئی تعالیٰ کے قوت ہونے پر یا کس  
کے بعد حجاب واقع ہوئے پر ہو کر رہتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک  
شکستگی ہوتی ہے۔ لیکن اکادو کا افراد کی شکستگی حق عزوجل کے لیے

سَمِعَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ مَذْحُوفٍ فَإِنْ لَا  
يَقْبَلُ دُعَاءَ مُتَضَعًا مَسْجَعًا مُتَضَعًا  
فِيهِ أَنَا وَالْأَنْفِيَاءُ مِنْ أُمَّتِي بَرَاءً  
مِنَ التَّكْلِيفِ وَلَمْ يَغْلِبِ الْمُؤْمِنِينَ الرَّجَاءُ  
يَنْظُرُ إِلَى دِيْوَانٍ مَعَا صِيْهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ  
مَعْصِيَةً لَقِيَ الرَّشِدَ مِنْ حَالٍ صَغِيرَةٍ  
مِنْ كِتَابٍ إِلَى مُقَرَّبٍ إِلَى مُحَرَّابٍ فَتَدُ  
يَكُونُ هَذَا وَهُوَ نَادِرٌ فَلَا يَزِي لَهُ  
مَعْصِيَةً وَفِي دِيْوَانِ الْأَوَامِرِ فَلَا  
يَزِي لَهُ أَمْرًا مَثْرُودًا فَيقْضَى عَلَيْهِ  
بِنُوعٍ مَعْصِيَةٍ لِكَيْلًا يَهْلِكَ شَمُّ  
يَتَدَارَكُ فَيَتَوَبُّ فَيَكُونُ يَتَلَكَّ  
الْمَعْصِيَةِ سَابِقَتَهُ كَمَا لَتَفَقَّهُ عَلَى  
رَأْسِهِ هَذَا الذَّنْبُ فِي حَقِّ هَذَا  
الْمُذْنِبِ فِي حَقِّ هَذَا الْمُؤْمِنِ الصِّدِّيقِ  
كَذَنْبِ آدَمَ وَهَذَا نَادِرٌ نَشَاذٌ  
لَا يَلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَلَا يُعْبَأُ بِهِ  
إِلَّا مَا دَاخِلٌ فِي النَّفْسِ إِمَّا ادْتِنَانٌ وَهُمَا  
صِنْدَانِ إِمَّا دَاخِلٌ مَا سَوَى الْحَقِّ وَإِرَادَةُ  
الْحَقِّ فَهُمَا لَا يَصْنَعُ لِحَاثٍ وَبِقِشْرَانِ  
إِلَى أَنْ يَبْتَدَأَ بَعِيْنُ سَنَةٍ وَهُوَ  
مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبِ  
خَيْرُهُ شَرًّا فَلْيَجْهَرْ إِلَى النَّكَارَةِ

ہوا کرتی ہے آپ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ارشاد  
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ مَذْحُوفٍ) کے معنی دریافت کئے  
گئے۔ اللہ تعالیٰ دعا مذحوف کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ نے  
جواب دیا اللہ تعالیٰ تصنع بناورٹ کرنے والے کی دعا کو جس  
میں تاقیہ بندی سبب کی جاوے قبول نہیں فرماتا ہے اور میری  
امت کے مفتی تکلف سے بری ہیں کبھی مومن پر امید واری کا  
غلبہ ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کے دفتر کو دیکھتا ہے اس کو کوئی گناہ  
اُس میں نظر نہیں آتا ہے اس کو بچپن سے ہی ہدایت کی تلقین کی  
گئی وہ کتاب سے پڑھانے والے کی طرف محراب عبادت کی  
طرف جاتا ہے ایسا شافو نا در اسی ہوا کرتا ہے پس وہ اپنا کوئی  
گناہ نہیں دیکھتا ہے اور جب وہ ادا امر کے دفتر میں نگاہ ڈالتا ہے  
پس اُسے کوئی ایسا امر جس کے کر کرنے کا اُس کو محکم تھا چھوٹا ہوا  
نظر نہیں آتا ہے پس اُس پر ایک قسم کی معصیت مقدر کر دی جاتی  
ہے تاکہ وہ خود بینی سے کہیں ہلاک نہ ہو جائے پھر ملائق مقدر وہ  
گناہ کر لیتا ہے پس اُس سے فوراً توبہ کرتا ہے پس یہ معصیت  
اُس کے لیے امر تقدیری ہوتا ہے جس کا کرنا الابدی ہے جیسے کہ  
اُس کے ذمہ اہل و عیال کا نفقہ۔ یہ گناہ اس گناہ گار اس سچے مومن  
کے حق میں مثل گناہ آدم علیہ السلام کے ہوتا ہے۔ اور یہ شافو نا در  
ہے جس کی طرف نہ توجہ کی جاتی ہے اور نہ کوئی اُس کی پروا کی جاتی  
ہے نفس میں دو قسم کے ارادہ ہیں ارادہ دونوں آپس میں دو ضرب  
ہیں ایک حق تعالیٰ کا ارادہ اور ایک اُس کے ماسوا کا ارادہ۔ پس  
یہ دونوں یہاں کے چالیس برس پر سے ہو جانے ہیں صلح نہیں  
کرتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اور یہی معنی ہیں ارشاد نبوی  
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جو کہ چالیس برس کی عمر پر پہنچ جائے  
اور اُس کی بھلائی اُس کی برائی پر غالب نہ ہو پس وہ جہنم کا سامان

إِنَّمَا دَعَا إِلَى هَذِهِ الْأَصْلِ يَا أَبَتَا  
بُنَيَّانِ الطَّرِيقِ الظَّاهِرِ خَيْرٌ وَرُؤْيَا  
الْبَاطِنِ الْفِطَامُ مَا دُمْتَ تَعْرِفُ مَا  
يَسَوَاهُ وَتَعْرِفُ نَفْسَكَ فَانْتَ هَوَسَ تَارَةً  
تَتَّبِعُهُمْ وَتَتَارَكُ تَذَلُّهُمْ هَذِهِ الدَّارُ  
إِلَيْهَا طَرِيقَانِ عِلَامَةٌ الْوَلَايَةِ قُلْتُ  
الْأَسْتَعِينَا يَا اللَّهُ عَمَّا وَجَلَّ فِي كُلِّ  
شَيْءٍ وَالْأَقْنَاعَةُ يَا اللَّهُ عَمَّا وَجَلَّ عَنْ  
كُلِّ شَيْءٍ وَالرَّجُوعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ  
فَإِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ آتَاكَ إِدْعَاءُ الْوَلَايَةِ  
فَخُذْهَا بِهَذِهِ الْخِصَالِ فَإِنْ لَمْ تَفِ  
فَنَسْتَ بِرَبِّكَ لَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِينَ أَنْ يَدْخُلَ  
عَلَى الْمُلُوكِ إِلَّا بَعْدَ إِتْقَانِ إِيْمَانِهِ وَ  
إِتْقَانِهِ وَقُوَّةِ عَلَيْهِ يَا اللَّهُ وَنَزْهُدِهِ  
وَتَكْنِيَتِهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْأَنْبَسِ يَا اللَّهُ  
فَيَدْخُلُونَ إِلَيْهِمْ بِقُوَّةٍ وَيَخْرُجُونَ  
عَنْهُمْ بِقُوَّةٍ كُنْتُ أَصْحَابَ بَعْضِ النَّاسِ  
يُحَدِّثُنِي بِكُلِّ مَا قَدْ جَرَى لِي وَيَجْرِي  
لِي وَكَانَ يَهْدِي مَعَهُ صَبِيٌّ مُسْتَحْسِنٌ  
وَيَدْخُلُ إِلَى السَّلَاطِينِ فَخَطَرَ بِعَيْنِي  
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ يَا وَلَدِي هَذَا  
الصَّبِيُّ هُوَ فِي دِرْبَاطٍ وَأَخَافُ أَنْ  
تُرَكِّبَهُ هُنَاكَ هَكَوَا بِهِ وَأَقَادُ خُولِي  
عَلَى السَّلَاطِينِ فَلَيْسَ لِي إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ  
وَأَلَمَّا أَدْخَلَ إِلَيْهِمْ أَعْظَمَهُمْ

کرے۔ یہ حدیث اسی اصل کی طرف اشارہ ہے۔  
اسے راستہ کی عمارتوں کے بچہ! (طالبین راہ) ظاہر و باہر  
ہے اور باطن کی طرف نگاہ کرنا دودھ چھوڑنا جب تک تو اسوے اللہ  
کو اور اسے اللہ سمجھ کر پہچانتے رہیں پس تو سراپا ہوس ہے کبھی  
تو ان کا اتباع کرے گا اور کبھی تو ان کے سامنے جھکے گا۔ یہ گھر  
اس کی طرف دور راستہ ہیں ولایت کی تین علامتیں ہیں۔ ہر چیز  
میں اللہ عزوجل کی وجہ سے استغنا کرنا اور ہر چیز سے اللہ عزوجل  
پر قائل رہنا اور ہر چیز میں اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا پس  
اگر تیرے نفس بزار و دعوے بھی ولایت کے کرے پس تو اس  
کو ان خصلتوں کے ساتھ پکڑ پس اگر تو اس کو پورا نہ کر سکے۔  
پس تو ولی نہیں ہے کسی عالم کے لیے بغیر اس کے کہ وہ اپنے  
ایمان و ایقان کو مضبوط کرے اور اللہ کے ساتھ اس کی قوت علی  
وزہد پوری ہو جائے اور معرفت و انس الہی اس میں ممکن ہو جائے  
بادشاہوں پر داخل ہونا سزاوار نہیں ہے۔ پس ایسی حالت  
میں عالم بادشاہوں کی طرح قوتوں کے ساتھ داخل ہوں گے  
اور وہاں سے قوتوں کے ساتھ باہر آئیں گے۔ میں ایک  
بزرگ کی خدمت میں رہا کرتا تھا وہ تمام واقعات گزشتہ  
اور آئندہ میرے متعلق بیان کر دیا کرتے تھے اور ان کے  
ساتھ ایک خوبصورت لڑکا رہا کرتا تھا اور وہ بادشاہوں  
کے یہاں آیا جایا کرتے تھے پس اس وجہ سے میرے دل  
میں خطرہ گھرا کہ ولی اور یہ حالت پس اس خطرہ پر آپ نے  
فرمایا کہ یہ بچہ خانقاہ میں رہتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر  
میں اس کو وہاں چھوڑ دوں تو لوگ اس کی وجہ سے ہلاکت  
میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن میرا بادشاہوں کے پاس جانا پس  
میری کوئی حاجت ان سے نہیں ہے محض ان کو نصیحت

وَ اكْتَسَبَتْ لَهُمْ طُرُقَ الْعَدْلِ أَنْتُمْ فِي صُحُبَيْكُمْ  
 خَلَلٌ وَلَحْنٌ نَصَحْتُهُمْ بِالْأَدَبِ سَأَلَ سَائِلٌ  
 إِذَا كَانَ الطَّعَامُ مُخْتَلِطًا كَيْفَ يَصِفُهُ الصَّيَّامُ  
 وَالصَّائِلُ فَقَالَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ  
 بَيْنَ الشَّرْعِ بَيْنَ نَكَ وَالتَّوَقُّفُ أَيْضًا  
 إِذَا قَالَ لَكَ الْقَلْبُ لَا فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ  
 قَالَ نَعَمْ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ  
 يَقُلْ نَعَمْ وَلَا لَا فَهُوَ شُبْهَةٌ إِنْ عِدِمَتْ  
 بِالنَّمَا لَوْ فَاتٍ وَصَبَرْتَ فَفَسَدَ فَهُوَ  
 قَنَاعَةٌ تَذَكُّرٌ كَمْ عِنْدَ كَوْنِ الطَّاعَاتِ  
 وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ يَغْبَأُ بِهِمَا اسْمَا  
 مُرَادٌ كَمْ مِنْكَ قَلْبٌ صَافٍ مِنَ الْكَذَابِ  
 وَالْأَعْيَارِ الزَّاهِدُ الْفَنَافِقُ ظَاهِرٌ  
 صَافٍ وَبَاطِنُهُ مُكَدَّرٌ الصِّغَارُ فِي  
 حَدِيدِهِ وَالْحَشْوُ فِي كَتْفَيْهِ وَجَبَّةٌ  
 الصُّوفُ عَلَيْهِ مُرْهُدٌ فِي كَيْفِ آيِدِيهِ  
 بَاطِنُهُ يَكْبِي نَفْسَهُ مُرْ تَقَبُّهُ إِلَى  
 الْحَدِّ وَالذَّمَّ عَيْنُهُ طَامِحَةٌ مَبَايِدِي  
 النَّاسِ . أَمَّا الْعَارِفُ فَظَاهِرُهُ مُتَلَطِّفٌ  
 بِشَيْءٍ مِنَ الْإِقْسَامِ آقْسَامِ نَفْسِهِ  
 وَآقْسَامِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ جَهَنَّمُ الْمَلِكِ  
 كَاتِبُهُ اسْتَاذُ دَارِهِ عَارِضٌ بِحَيْثِهِ  
 مَعَ سَلَامَةٍ سِرِّهِ مَعَ صَفَاءِ قَلْبِهِ مَعَ  
 رُوحِيَّةِ حَضَرَتِهِ أَمْوَاجُ الْعِلْمِ تَتَلَطَّفُ  
 بِهِ بِحَارِ الْمُنْيَا لَا يَمْلَأُ قَلْبُهُ

کرنے کے واسطے آتا جاتا ہوں اور اُن کو عدل و انصاف کے  
 راستہ بتاتا رہتا ہوں۔ تمہاری صحبت میں بزرگوں کے ساتھ  
 غلط ہے اور ہم اُن کی صحبت میں ادب کے ساتھ رہتے ہیں۔  
 ایک سائل نے سوال کیا کہ جب کو طعام میں حرام و حلال مخلوط ہو  
 روزہ نماز کیسے درست ہو گا۔ پس جواباً فرمایا حلال غلبہ ہے اور  
 حرام بھی ظاہر ہے تیرے لیے شرع بھی ظاہر ہے اور  
 توقف بھی ظاہر جب قلب انکار کرے پس وہ حرام ہے اور  
 اگر اقرار کرے پس وہ حلال ہے اور اگر سکوت کرے اقرار و  
 انکار کچھ نہ ہو پس وہ مشتبہ ہے۔ اگر تجھے الفت کی چیزیں میسر  
 نہ ہوں اور تیرا نفس صبر کرے پس یہ قناعت ہے۔ تو جانتا ہے  
 کہ خدا کے پاس کتنی طاقتیں ہیں اور وہ نماز روزہ کی پروا نہیں  
 کرتا ہے اُس کی مراد تو تجھ سے وہ قلب ہے جو کہ درتوں  
 اور اغیار سے پاک و صاف ہو منافی زاہد کا ظاہر صاف و پاک  
 اور اُس کا باطن خراب و مکدر ہوتا ہے اُس کے رخساروں پر  
 ذلت اور اُس کے کاندھوں پر خشوع اور اُس کے بدن پر صوف  
 کا جبہ اور اُس کا زہد اُس کی باتوں کی میتلی پر ہوتا ہے اُس کا  
 باطن گدگری کرتا ہے اُس کا نفس تعریف و بُرائی کی طرف متوجہ  
 ہوتا ہے اور اُس کی آنکھ آدمیوں کے مال کی لالچے کرنے والی  
 ہوتی ہے لیکن عارف پس اُس کا ظاہر تو مقسومات میں سے  
 کسی چیز کے ساتھ ملوث ہوا کرتا ہے وہ مصنوعات خواہ اُس  
 کے نفس کے ہوں خواہ اُس کے متعلقین کے وہ شاہی کارندہ  
 ہے گویا کہ وہ اُس کے گھر کا خادم اور اُس کے لشکر کا بخشی ہے۔  
 یہ تمام باتیں اُس کی باطن کی سلامتی اُس کے قلب کی صفائی  
 کے ساتھ اور دربار الہی کی نظر کے ساتھ ہوتی ہیں علم کی موصی،  
 اُس کے دل سے اٹھتی ہیں دنیا کے سمندر اُس کے قلب کو نہیں بھر

جَمِيعُ مَا فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَيْنِ  
وَسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ بِالْإِصَافَةِ إِلَى  
قَلْبِهِ مُتَلَا شَيْهَهُ هَذِهِ صُورَةُ الْعَارِفِ  
ذَلِكَ صُورَةُ الرَّاهِدِ مَا عِنْدَكَ مِنْ  
هَذَا اخْبِرْ فَلِمَ لَا تَقْطَعُ لِسَانَكَ عَنِ  
الطَّعْنِ فِي الْخَلْقِ يَا سَلَّابِينَ الدُّنْيَا  
بِطَرِيقِ الْآخِرَةِ مِنْ آيَتِي أَمْ بَارِهًا  
يَا جَهْلًا بِالْحَقِّ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِالنُّوبَةِ  
مِنْ هَؤُلَاءِ الْعَوَامِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْإِعْتِرَافِ  
بِالدُّنُوبِ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا خَيْرَ عِنْدَكُمْ وَلَا  
رُبَّكُمْ وَلَا رَوْحَ وَلَا نَجَاةَ وَلَا دِيْنََ  
عِنْدَكُمْ وَآمَّا دُنْيَاكُمْ فَلَا يَبْقَى تَأْخُذُونَ  
بِطَبَاعِكُمْ وَأَهْوَايِكُمْ تَأْخُذُونَ الدُّنْيَا  
لَهَا لَا لِلْآخِرَةِ شُعْلَى مَعَكُمْ كَلَامِي عَلَيْكُمْ  
يُشِيرُ بِذَلِكَ كَلِمَةً إِلَى وَغَاظِ مَعَانِيهِ وَ  
بَلَدِهِ تَطَارَشُوا وَتَعَامُوا لَا تَتَكَلَّمُوا أَحَدٌ  
كَانَ الْكَلَامَ لِغَيْرِكُمْ أَسْتَعِيْرُ لِسَانِي  
الْيَوْمَ أَسْتَعِيْرُ قَالِي الْيَوْمَ اِلْسَتِيْنَاْسُ  
بِالْغُرْبَةِ وَالْخُلُوَّةِ وَفَتَاْسُ الْغُرْبِ يَأْمَنُ  
صَمَتٌ فِي خَلْوَتِهِ الشَّانُ فِي صَمَتِ  
جَلْوَتِكَ يَا بَنَى خُلُوَّةً ثُمَّ جَلُوَّةً خُرُسُ  
ثُمَّ نَطَقَ اِقْبَالَ عَلَى الْمَلِكِ ثُمَّ اِقْبَالَ  
عَلَى الْمَمْلُوكِ قَالَ بَعْضُ الصِّدِّيقِيْنَ  
الْحَلَالُ الطَّلُقُ فِي الرَّيْحَانِيَيْنِ يُرِيدُ  
أَنْ تَكُونَ فِي التَّوْحَانِيَيْنِ

سکتے ہیں۔ تمام وہ چیزیں جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں  
ہیں اور تمام موجودات اُس کے قلب کی نسبت سے معدوم  
قابل تلاشی ہوتے ہیں۔ یہ صورت عادت کی ہے اور وہ صورت  
زاہد کی تھے تو اس سے کچھ خبر ہی نہیں ہے پس تو اپنی زبان کو  
مخلوق کے طعنہ کرنے سے قطع کیوں نہیں کر لیتا ہے۔

اے دنیا داروں سے اُن کی دنیا کو بطریق آخرت کے  
چھیننے والو اے حق سے جاہلو تم بہ نسبت ان عوام کے توبہ  
کے زیادہ مستحق ہو تم بہ نسبت ان کے گناہوں کا اقرار کرنے  
میں زیادہ مستحق ہو۔ تمہارے پاس نہ بھلائی ہے نہ نفع اور نہ  
راحت ہے اور نہ نجات اور نہ تمہارے پاس دین ہے۔  
اور لیکن تمہاری دنیا پس وہ باقی نہ رہے گی۔ تم اُس کو اپنی طبیعت  
اور خواہشوں سے لیتے ہو۔ تمہارا اُس کو لینا دنیا ہی کے لیے  
ہے نہ کہ آخرت کے واسطے۔ میرا مشغلہ تمہارے ساتھ ہے  
میرا کلام تم پر محبت ہے آپ کا اس کل گفتگو سے اشارہ اپنے  
زبان اور ٹھکرے و اعظوں سے تھا۔ تم گونگے ہو جاؤ۔ اور  
اور اندھے بنو تم میں سے کوئی وعظ نہ کہے گویا کہ وعظ کوئی دور رس کا  
حصہ ہے میں آج اپنی زبان اور اپنے قالب کو بطور منگنی کے  
لیے ہوئے ہوں (رعایۃ) اُنس حاصل ہونا تنہائی و مسافرت  
میں ہے اور خلوت قرب کی کنجی ہے۔

اے خلوت میں خاموش رہنے والے تیری شان و جلوت  
میں خاموش رہنے میں ہے۔ اے بچے اولاً خلوت ہے۔ پھر  
جلوت۔ اولاً گونگاپن ہے پھر گویائی اولاً بادشاہ کی طرف  
توجہ و اقبال کرنا ہے ملوک رعایا کی طرف بعض صدیقیں کا قول  
ہے کہ محض حلال روزی ریحانیوں میں ہے (یعنی عنایت ربی  
کی بوسو نگھنے والوں میں) اس سے مقصود یہ ہے کہ تورا و جانیوں

حَتَّىٰ يَكُونَ حَالُكَ فِي الرَّيْحَانِيِّينَ حَالُكَ  
 تَمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ مِثْلَ  
 شَمْسٍ مَعْرِفَتِكَ قَدْ قَرَّبَكَ مِنْ رَبِّكَ  
 الْحَرَامُ عِنْدَ وَجُودِ النَّفْسِ وَالشُّبُهَةِ عِنْدَ  
 وَجُودِ الْقَلْبِ وَالْحَلَالُ الْطَلْقُ عِنْدَ صَفَاءِ  
 السِّرِّ هَذَا مِنْ وَرَاءِ الْعُقُولِ مَا كَادَ أَمَّ ثَمَّ  
 نَفْسٌ فَأَنْتَ تَأْكُلُ حَرَامًا وَمَا كَادَ أَمَّ ثَمَّ  
 قَلْبٌ فَتَأْكُلُ شُبُهَةً وَإِنْ كَانَ ثَمَّ  
 صَفَاءُ سِرِّ فَأَنْتَ تَأْكُلُ الْحَلَالَ الْطَلْقُ  
 وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْرًا ضَاهٍ عَنَّا لِمَا  
 قِيلَ أَنَّ النَّفْسَ لَا تَهْتَكُ إِلَّا بِالشُّعْرِ لَا بِأَيِّ  
 أَكَلَتْ كَالرَّوْجَةِ الشُّعْرُ تَقُولُ لِرَوْجِهَا اسْرِقْ  
 وَأَطْعِمْنِي فِيهِ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  
 وَبِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَلَيْكَ يَدَايِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ذَاتُ  
 الدِّينِ تُعِينُكَ عَلَىٰ مُوَرِّاخَةِ إِخْوَتِكَ النَّفْسِ  
 كَهَذَا الرَّوْجَةِ بَاطِنُهُ تَرِيدُ أَنْ  
 تُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ إِذَا  
 حَضَرَ الطَّبَقُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَإِنْ كَانَ  
 مِنْ كِسْبِكَ تَوَقَّفْ رَاحِسِبْ أَنَّ مَا  
 خَبِرَ وَمَا طِبَخَ فَتَوَسَّلْ قَلْبِكَ إِلَى  
 سِرِّكَ وَتَوَسَّلْ سِرِّكَ إِلَى رَبِّكَ  
 عَمَّ وَجَلَّ يُوَجِّهُ الْحَقُّ عَمَّ وَجَلَّ إِلَى  
 قَلْبِكَ مَلَكًا إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ لَكَ  
 كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا مَرَرْنَا كُمُ الْآيَةُ

میں سے ہو جاتا کہ تیری حالت ریحانیوں کی سی ہو جائے۔ وہ  
 پاک اور ناپاک حلال و حرام میں تمیز کرنے لگے۔ یہ حالت تیرے  
 باطن کے لیے چراغ تیری معرفت کا سورج تیرے رب تعالیٰ  
 سے قرب کا چاند ہے۔ حرام غذا وقت وجود نفس کے اور  
 مشتبہ غذا وقت وجود قلب کے اور حلال محض وقت صفائی  
 باطن کے ملا کرتی ہے۔ یہ بات عقولوں سے پرے ہے جب  
 تک وہاں قلب ہے پس تو مشتبہ غذا کھا رہا ہے اور اگر  
 وہاں باطن کی صفائی ہے پس تو غذاء حلال کا کھانے والا ہے  
 آپ نے اُن سے راضی ہوا اور اُن کو ہم سے راضی کر دے  
 فرمایا۔ یہ کیوں ارشاد الہی ہے کہ تحقیق نفس البتہ بُرائی کا حکم دینے  
 والا ہے اس لیے کہ وہ کھانے میں اس کی پروا نہیں کرتا کہ کمال  
 کھایا مثل بُری مجرور کے جو کہ اپنے خاوند سے کہتی ہے تو چوری  
 کر اور مجھے کھلا پس یہ مجرور حلال و حرام کے درمیان میں تمیز  
 نہیں کرتی (یہی حال نفس کا ہے) اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 و سلم نے فرمایا ہے تو دین دار عورت کیا کرتی ہے ہاتھ گرداؤد  
 ہوں، دین دار عورت تیری امور آخرت پر مدد کیا کرے گی  
 نفس باطن میں مثل اسی بُری مجرور کے ہے۔ تیرا ارادہ حلال و حرام  
 کے درمیان تمیز کرنے کا ہے پس تو یہ کیا کر کہ جب کھانے کا طبق  
 تیرے روبرو حاضر ہوا کرے اگرچہ وہ تیری پاک کاشی سے  
 ہی ہو تو تو کھانے میں توقف کیا کر یہ خیال کر لیا کہ ابھی روٹی و  
 سالن پکایا ہی نہیں گیا ہے۔ پس اس حالت میں تیرا قلب  
 تیرے باطن کی طرف اور تیرا باطن تیرے رب تعالیٰ کی طرف  
 توسل کرے گا عزوجل اُس وقت حق عزوجل تیرے قلب کی  
 طرف ایک فرشتہ کو متوجہ کر دے گا اگر وہ طبق والا کھانا  
 حلال ہو گا تو فرشتہ تجھ سے کہے گا۔ کھلو امن طیبات الایہ

يَتْلُوا هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى قُلُوبِكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ كُلِّ وَرَانٍ كَانَ حَرَامًا وَشَبَّهَهُ قَالَ لَكَ وَكَانَا كُلُّوَا مِنْهَا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَلِكَ هُوَ الْحَرَامُ وَلَا تَشِيرَبُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَوِّضُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ قَعْدَ بَيْنَ يَدَيْ قَضَائِهِ وَ قَدَّرَهُ مُسْتَسْلِمًا حَتَّى يَأْتِيَ يَدَ فَضْلِهِ فَمَدَّ يَدَكَ إِلَى اسْتِيقَاءِ حُظُوظِكَ الرَّهْدُ عَمَلٌ سَاعَةٍ وَالْوَرَعُ عَمَلٌ سَاعَتَيْنِ وَالْمَعْرِفَةُ عَمَلٌ أَبَدٍ إِذَا قَاتَيْنَا أَحْوَالَكَ بِأَحْوَالِكَ مَا تَقَدَّمَ لَمْ نَجِدْ لَكَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَطْعَمَتْ نَفْسَكَ فَنَظَرْتُكَ بَلَّغْتَهَا شَهْوَاتِهَا فَاسْتَطَلَّتْ عَلَيْكَ وَكَوَأَتْكَ قَطَعَتْ مَرَادَهَا اسْتَغْلَتْ بِكُسْرِهَا بَلْ بَلَّغْتَهَا شَهْوَاتِهَا وَفَتَحَتْ بَابًا لِشَيْطَانِكَ لِأَنَّهُ يُلْقِنُهَا التَّمَنَّى مَا لَهَا لِيَبَيِّنَ بَلْ يُلْقِي إِلَيْهَا شَيْطَانُ الْجَنِّ لَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا بِشَيْطَانِ الْإِنْسِ إِذَا سَبَقَتْ يَا لَفُضُولِ إِنْ أَحْسَمْتَ الْمَادَّةَ وَفَطَمْتَهَا عَنِ الْحَرَامِ وَ الشَّيْهَاتِ الْمُسْتَبْهَاتِ سَكَنْتَ نَائِثَتَهَا لَوْ قَلَّتْ مِنَ الْمُبَاحِ ذَابَتْ عَذَابُ

تم ہماری سطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ وہ اس آیت کو تیرے دل پر پڑھ دے گا اُس وقت وہ کھانا تو کھانا۔ اور اگر وہ حرام و مشتبہ کھانا ہو گا تو وہ فرشتہ تجھ سے کہے گا۔ ولا تاكلوا مما لم يذكر الله عليه جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے پس یہ وہ حرام کھانا ہے پس تو اس کے نزدیک نہ چاہیں تحقیق اللہ عزوجل اس کے عوض میں تجھے وہ دے گا جو کہ اس سے بہتر ہو گا۔ تو اس کی قضا و قدر کے سامنے دست بستہ سر جھکائے بیٹھا رہا کر یہاں تک کہ اس کے فضل کا ہاتھ اکر تیرے ہاتھ کو نیزے و مقدار حصوں کے حاصل کرنے کے لیے اُگے بڑھادے نہ ہر ایک گھڑی کا عمل ہے۔ اور تقویٰ و گھڑی کا عمل اور معرفت بیلشہ کا عمل ہم جب تیری حالتوں کا اگلے لوگوں کی حالتوں پر قیاس کرتے ہیں تو ہم تجھ میں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پاتے۔ تو نے اپنے نفس کو کھانا کھلایا پس اُس نے دیکھ لیا کہ تو نے اُس کی خواہشوں کو پورا کر دیا پس وہ تیرے اوپر غالب آگیا اور دست درازی کرنے لگا۔ اور کاش تو اُس کی مراد کو قطع کر دیتا تو تو اُس کے توڑنے میں مشغول ہوتا ہے بلکہ تو نے تو اُس کی خواہشوں کو پورا کر دیا اور تو نے اپنے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا کیوں کہ شیطان تو اُس کی آرزو و تمنا کی تلقین کیا کرتا ہے نفس کو طاقت بیان نہیں ہے بلکہ اس کی طرف شیطان جن خواہشیں ڈالتا رہتا ہے اور اُس شیطان کو تیرے اوپر بغیر شیطان انس کے قدرت و قابو نہیں، ہوتا ہے۔ جب وہ فضولیات کی طرف سبقت کرتا ہے تو وہ قابو پا لیتا ہے۔ اگر تو اُس کے مادہ کو قطع کر دیتا اور اُس کو حرام اور شبہات و مشبہات سے بچا لیتا۔ تو اُس کی آگ بجھ جاتی۔ اگر تو مباح چیزوں کے استعمال میں کمی کرتا تو اُس کی

وَضُرُّهَا نَقَلَتْ الشَّهَوَاتِ مِنْهَا  
تَنَبَّأَتْ أَشْجَارُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فِيهَا  
اسْتَضَاءَتْ ظُلُمَةُ بَاطِنِهَا إِطْمَأْنَنْتِ  
إِلَى قَلْبِهَا نُورُ دِيْنِهَا

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي  
إِلَى رَبِّكِ الْعَامِي يُبَادِي بِهَا عِنْدَ  
الْمَوْتِ آيْنَ أَنْتَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقُرْبِ  
مِنْ مَخْدَعِ الْحَضْرَةِ وَاللَّهِمَّ عِنْدَنَا  
لِمَنِ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارُ لَا يَصْفُو  
قَلْبَكَ حَتَّى تَصْفُو نَفْسَكَ حَتَّى  
تَصِيرَ كَكَلْبٍ أَمْحَابِ الْكَهْفِ تَابِعَهُ  
تَرَبَّعَ بَابُ عَتَبَةِ الْقُرْبِ الْقَلْبِ  
فِي الْحَضْرَةِ وَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لِخُرُوجِهِ  
عَلَيْكَ بِطَاهِرِ الشَّرْعِ عِنْدَ ضَعْفِ  
إِيْمَانِكَ تَاخُذُ الرَّحْمَةَ بِأَلِكِتَابِ  
وَالسُّنَّةِ حَتَّى إِذَا قَوِيَ إِيْمَانُكَ  
عَلَيْكَ بِرُكُوبِ الْعَزِيمَةِ وَالْأَشَدِّ  
إِنْ كُنْتَ نَفْسَكَ سِيرَتَ مَعَ الْقَدْرِ  
وَأَقْفَتَهُ قِيلَ لِدَلَالِهِ جَنَّ صُلْبِ  
أَوْ صِيٍّ قَالَ نَفْسَكَ إِنْ لَمْ تُشْغَلْهَا  
وَالْأَشْغَلُكَ كَانَ لِي قَبِيضٌ فِي دَبْدُو  
أَمْرِي كَانَ نَاعِمًا أَحْرَجْتُهُ إِلَى  
الشَّوْقِ مَرَّأً عَدَا لَمْ يَشْرَهْ  
أَحَدًا فَصَيَّيْتُ إِلَى الْإِنْسَانِ قَادَ هُنْتَهُ عِنْدَهُ  
عَلَى دِينَارٍ إِلَى أَنْ جَاءَتْهُ آيَاتُ الْعِيدِ فَإِذَا

فضولیات کا غندہ پھل جاسا اُس کی خواہشیں منتقل ہو جاتیں خوف و  
امید کے جھاڑ اُس میں اُگنے لگتے۔ اُس کے باطن کی تاریکی نور  
بن جاتی۔ وہ قلب کی طرف اطمینان و سکون پکڑتا۔ اس کو رب تعالیٰ  
کی طرف ندائی جاتی۔

اُسے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر عامی آدمی  
کو موت کے وقت ندائی جاتی ہے تو قرب کے دسترخوان  
سے اور مخدع الہی حضور کی کے آستانہ سے کہاں دور چلا گیا۔  
تحقیق مقررین بارگاہ ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ و پسندیدہ  
لوگوں میں سے ہیں تیرا قلب صاف نہیں ہو سکتا ہے بناؤ تنقید  
تیرا نفس صاف نہ ہو جائے اور اصحاب کہف کے کتے کی طرح  
تو تابع ذہن جلے۔ تو قرب الہی کے آستانہ کی چوکھٹ پر انتظار  
کر قلب حضور میں آوا اور نفس اُس کے نکلنے کا باہر آنے کا  
تیرے اوپر منتظر ہو تو اپنے ضعف ایمان کے وقت ظاہر شرع  
کو لازم پکڑ قرآن و حدیث سے جو غصتیں تجھے ملتی ہوں اُس  
پر حصول قوت ایمانی تک عمل کیے جا۔ یہاں تک کہ جب تیرا ایمان  
قوت پکڑ لے تو تو عزیمت و قوت کی سواری کو لازم پکڑ لینا  
اگر تو اپنے نفس پر سوار وغالب ہو جائے گا تو تو قضا و قدر کے  
ساتھ سیر کرے گا اور تو اُس کے موافق ہو جائے گا منصور  
علاج سے سولی دینے کے وقت کہا گیا مجھے وصیت کیجئے  
فرمایا تو اپنے نفس کو سنبھال اگر تو اُس کو اپنی خدمت میں نہ لگائے  
گا تو وہ تجھے اپنا خادم بنالے گا۔ ابتداء امر میں میرے پاس  
ایک بہت عمدہ قمیص تھی میں بارہا اُس کو فروخت کے لیے بازار  
لے گیا۔ لیکن کسی نے اسے خرید نہ کیا پس میں اُس کو ایک آدمی  
کے پاس لے گیا اور اس قمیص کو اُس کے پاس ایک دینار کے  
بدلے میں گرو کر دیا یہاں تک کہ عید کے دن اُسے پس بیکار وہ

بِذَلِكَ الرَّجُلِ قَدْ جَاءَ بِالْقَبِيصِ قَالَ  
 خُذْ لُبْسَهُ وَانْتَ فِي حِلٍّ مِّنَ  
 الدِّينَارِ فَإِذَا مَتَنَعْتُ فَقَالَ خُذْهُ  
 وَلَا مَرْقُوتَهُ فَإِنَّمَا مَنَى بِلُبْسِهِ  
 عِندَ ذَلِكَ عِدِمْتُ أَنَّهُ قَسَمِي لَا  
 تُرْهِدُنِي فِيهِ سِئِلَ عَنْ قَوْلِ بَعْضِ  
 الْعُلَمَاءِ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ بِغَيْرِ اللَّهِ  
 قَابِلِي أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ فَقَالَ هَذَا  
 الْقَوْلُ ثُبُورٌ فِي حَقِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ  
 لِأَنَّ التَّعَلَّمَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ  
 وَنَحِيلُهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ أَنْ  
 يَكُونَ يُرِيدُ بِهِ الْآخِرَةَ وَهُوَ  
 تَقْصُرُ أَيْضًا فَلَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ  
 بِهِ حَتَّى آتَى بِهِمُ الرَّبُّ وَاللَّهُ وَفَرَّغَهُ  
 أَخَذُوا وَطَاهَرُوا مِنْ بَاطِنٍ فَزَعَا  
 مِنْ أَصْلِ أَقْبَعُوا عَلَى مَا بَدَا  
 الْعَوَامُّ ثُمَّ خُصُّوا بِطَعَامٍ  
 الْفَضْلِ أَكَلُوا أَكَلَتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ  
 شَاءَ كَوَالِ الْعَوَامِّ فِيهِمَا أُعْطُوا إِذَا  
 أَرَادُوا لَا مَرَكِيكَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ بَدَوُ  
 أَمْرِي وَقَعَدَ عَنِّي فَهُوَ مُذْنِبٌ إِلَى  
 الْحَقِيقَةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا رَأَاهُ رَأَى  
 عَلَى خَرَقٍ عَادَةٍ مِّنَ الْكِرَامَاتِ  
 يَقُولُ لَهُ رَأَيْتَ هَذِهِ هَاتِي يَدَكَ فَيُشْرِدُ  
 اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ حَتَّى السَّمَاوَاتِ

شخص متعین لے کر آیا اور کہا کہ تم اسے لو اور پہنوا اور میں نے  
 تمہیں دینار معاف کر دیا پس میں نے منع کیا پس اُس نے کہا  
 لو اور پہنو در نہ میں اُس کو پھاڑ ڈالوں گا۔ پس اُس وقت  
 اُس نے میرے لیے اُس کا پہنا لازم کر دیا۔ میں نے یہ جان  
 لیا کہ وہ میرے مقدر کا ہے میرا زہد اُس میں نہ چلے گا۔ آپ  
 سے بعض علماء کے قول کی نسبت کہ ہم نے علم غیر اللہ کے لیے  
 لیکھا پس اُس نے انکار کیا کہ وہ خدا کے سوا اور کسی کے لیے ہو  
 وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سوال کیا آپ نے جواب دیا یہ  
 قول اولیاء الہی کے حق میں ہلاکت ہے کیوں کہ غیر اللہ کے لیے  
 علم لیکھنا شرک ہے۔ اور ہم اس کو دوسری وجہ پر کہ اُس کی مراد  
 یہاں غیر سے اختہ ہو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی نقص ہے۔  
 پس وہ ہمیشہ اس علم پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ علم اُن  
 کو اللہ کی طرف سے آیا اور اُس سے قریب کر دیا۔ انہوں نے  
 ظاہر کو باطن سے فرع کو اصل سے حاصل کیا یہ اولیاء عوام کے  
 دسترخوان پر بٹھا دیئے گئے پھر یہ فضل کے طعام کے ساتھ  
 مخصوص کر دیئے گئے۔ ایک حالت میں انہوں نے دولقم کھائے  
 جو کچھ عوام کو دیا گیا تھا اُس میں بھی شرکت کی جب اللہ تعالیٰ  
 تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا اُس وقت وہ تجھ کو اُس کے  
 لیے آمادہ کر دے گا جس نے میرا ابتدائی حال معلوم کیا اور وہ  
 میرے پاس آنے سے بیٹھ رہا پس وہ حقیقۃً گناہ گار ہے۔  
 اولیاء اللہ میں سے ایسے شخص تھے کہ جب کوئی دیکھنے والا اُن  
 سے کوئی خرق عادت کراستوں میں سے دیکھ لیتا تھا تو آپ  
 اُس سے فرمایا کرتے تھے کہ تو نے یہ اسے دیکھا ہے اپنا ہاتھ لائے  
 کھا بعدہ اُس کو قسم دیتے تھے اللہ کو گواہ بناتے تھے کہ اُن کے  
 مرنے کے وقت تک اس پر کسی دوسرے کو خبردار نہ کرنا اور

وَسَجَّلَ مَسْكِينَ يَعْمَلُ آيَا مَا حَتَّى يَأْتِيَهُ  
 سِرُّ مِنَ اللَّهِ كَيْلًا يُحَدِّثُ بِهِ نَهَارًا  
 سِرِّبَ وَاللَّهُ الرَّجُلُ دَاخِلُ الْعِلْمِ وَ  
 الْكَرَامَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ يَوْمَ صَاحِبُهَا بِالْكَفَانِ  
 حَتَّى يَأْتِيَ الْقَضَاءُ وَالْقُدْرُ بِإِظْهَارِ ذَلِكَ  
 مَعَ حِفْظِ قَلْبِهِ وَسِرِّهِ مَعَ الْحَقِّ إِذَا  
 كَانَ وَقَعَ بِقَلْبِكَ حُسْنُ الدُّنْيَا وَ  
 وَبِرُئُوتِهَا هَرُولٌ مِنْهَا فَلَا شَكَّ  
 أَنَّهَا تَتَّبِعُكَ سُرْعًا قِيلَ لَهُ الْفُطَامُ  
 صَغَبُ قَالَ عَلَيْكَ لِأَنَّهُ مَا يَصْغَبُ  
 الْفُطَامُ إِلَّا عَلَى طِفْلِ لَا يَعْرِفُ إِلَّا  
 أُمَّهُ فَحَسَبُ أَمَّا مَنْ عَقَلَ وَ  
 عَرَفَ الْغُلَّ وَالشَّرْبَ فَزَهْدٌ فِي  
 ذَلِكَ أَمَّا الْخَاصِرُ مِنْ صَرَعٍ كَأَنَّهُ  
 تَحْرُمُ إِبْرَهُ بِاللَّهِ هَرُولٌ وَاقْصِدِ  
 الْبَابَ لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ  
 وَاصْفِيَاءِهِ وَيَحْبِسُهَا عَنْكَ حَتَّى  
 يَصْفُرَ قَلْبُكَ عَنْهَا وَيَتَنَحَّى مِنْ  
 قَلْبِكَ ذِكْرُهَا وَتَدْوَمُ عَلَى فَوْقِكَ  
 حَسْرَتُهَا وَيَقَامُ حُبُّكَ لِلْبَلَاكِ مَقَامُ  
 حُبِّهَا حَتَّى إِذَا امْتَلَأَ قَلْبُكَ بِحُبِّ  
 رَبِّكَ وَالْأَنْسَ بِهِ وَانْقَطَعَ الْأَلَاتُ  
 جِيءَ بِهَا تَحَادُّمَهُ مَعَ دِرْعٍ عَلَيْكَ  
 وَحُوسٍ مَعَ حَفْظَةٍ وَهِيَ مَنْزُوعَةٌ  
 السُّمُومُ تَأْتِي بِلسَانٍ مُحِيطٍ

اب ایک محتاج مرد چند دنوں عمل کرتا ہے یہاں تک کہ ایک رات  
 اُس کو اللہ کے اسرار میں سے کوئی سر معلوم ہو جاتا ہے تو دن میں  
 وہ اُس کو وہ کہتا پھرتا ہے اچانک وہ سر اُس سے سلب کر لیا جاتا  
 ہے قسم بخدا امر ایک ہے اور علم و کرامت بھی ایک شے ہے صاحب  
 علم و کرامت کو چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے یہاں تک کہ انصاف قدر  
 اس کے اظہار کا (اُس کی حفاظت قلب و سر کے ساتھ معیت الہی  
 میں رہ کر) حکم لاتی ہے پس وہ کجا اظہار کرنے لگتا ہے۔ جب  
 تیرے دل میں دنیا کا حسن اور اُس کی زینت موع پائے تو تو اُس  
 سے جلد بھاگ پس بلا شک وہ تیرا بیچا کرے گی۔ آپ سے  
 سوال کیا گیا کہ دودھ چھوڑنا سخت امر ہے (یعنی ترک دنیا اجواب  
 دیا کہ تیرے اوپر کیوں کہ دودھ چھوڑنا اسی بچہ پر دشوار ہوتا ہے  
 جو کہ فقط اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا ہے لیکن جو کہ کھانے  
 پینے کو جان لیتا ہے اُس کو پہچان لیتا ہے۔ پس وہ اس دودھ  
 سے جو کہ ایسے تھن سے نکلے جس میں گویا سوئی کے سے سوراخ  
 ہیں بے رنجی کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف دوڑ اور اُس کے دروازہ  
 کا قصد کر ہو سکتا ہے کہ تو ادب و اوصاف میں سے ہو اور اُس کو  
 تجھ سے اُس وقت تک روکا جا رہا ہو کہ تیرا قلب دنیا سے  
 صاف ہو جائے اور تیرے قلب سے اُس کی یاد چلی جائے  
 اور تیرے جدا ہو جانے پر اُسے ہمیشہ حسرت رہے اور تیری  
 شاہی محبت اُس کی محبت کی جگہ پر آ جائے یہاں تک کہ جب  
 نیزا قلب تیرے رب کی محبت سے بھر جائے گا اور اُس سے  
 مانوس ہو جائے گا اور تمام ذریعہ اور اکر منقطع ہو جائیں گے۔ تو  
 دنیا تیرے روبرو خادم بنا کر تیرے واسطے ذرہ اور چوکیداروں  
 اور مخالفین کے ساتھ اس حالت میں کہ اُس سے زہر علیحدہ کر لیا  
 گیا ہو گا لائی جائے گی وہ محبت والی زبان سے تیرے پاس آکر

کے گی تیرا مقدر حصہ ہر لحظہ فلاں موضع میں اور فلاں موضع میں ہے۔  
فلاں کی لڑکی تیرے حصہ میں ہے۔ ہر لحظہ زیادہ چاہو سکی میں رہتی  
ہے۔

اے عراق والو اے دنیا کی حکومت والو اے دنیا کے  
بادشاہو! اے دنیا کے باپ ولایت والو میرے پاس ہیبت  
سے کپڑے ہیں جو نسا چاہو پین لو پس تم میرے بارہ میں  
سلامت روی کو اختیار کرو یا میں تمہارے پاس ایسا لشکر لے  
کر آؤں جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو والسلام چھوڑنا زہد ہے اور پکڑنا  
معرفت۔ اگلوں کے اقوال کو چھوڑ کر شخص ان میں کا شیخ زمانہ تھا۔  
اور زہاد عارف کا غلام ہے جب تک کہ اس میں دنیا اور  
مافیہا اور آخرت کی بہتری میں سے کچھ ہو اور آخرت بھی  
ایک قسم کا طبیعت و خواہش کا بقیدہ ہے آیا تیرے پاس ایسا چھوڑ  
دینا ہے۔ پس اگر زہاد کا قلب وہ چیزیں لینے لگے جس کو کعارف  
لیتا ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ تمام لذتیں اس  
کے قلب سے جاتی رہیں اور اس درخت کا مع اس کی جڑوں  
کے قلع قمع ہو جائے تو زہد ختم ہو جائے گا۔ معرفت اُجلائے  
گی کہ درخت چلی جائے گی صفائی اُجلائے گی معرفت میں استغراق  
حاصل ہو گا حق سبب کا پیدا کرنے والا اُجلائے گا سبب منقطع  
ہو جائے گا اُس وقت اُس کی طرف ثبات واستقامت رجوع  
کرے گی اور وہ آستان الہی کے دروازہ پر بیٹھ جائے گا حق کو  
اچھے کاموں کا حکم دے گا اور اُن کو بُرے کاموں سے روکے  
گا۔ تیرے گناہ تیرے ساتھ تعلق ہو رہے ہیں دشمن تاک لگا  
رہے ہیں۔ اگر تو دشمنوں کو خوار و ذلیل کرنا چاہتا ہے پس ابھی  
تو بر کرے اور اپنی آخرت میں مشغول ہو جا۔ اللہ تیرے اوپر گواہ  
ہے اور وہ جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے ساتھ ہے ابن عطاء علیہ الرحمہ دعا

تَقُولُ قَسَمُكَ كُلَّ لَحْظَةٍ فِي الْمَوْضِعِ  
الْفُلَانِ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِ فِي بَيْتِ فُلَانٍ  
قَسَمُكَ كُلَّ لَحْظَةٍ فِي زَيْنَا دَرَةِ تَمَلُّقٍ  
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ يَا أَهْلَ مَمْدُكَةِ  
الدُّنْيَا وَمَكُوكَهَا وَمَلَابِسَهَا وَلَا يَتِيهَا  
عِنْدِي نِيَابُكَ مُعَلَّقَةً فِي بَيْتِ آيَتِهَا  
شَدْتُ لِكِسْتِ فَعَلَيْكُمْ يَا سَلَامَةً فِي  
أَوَائِيكُمْ بِجُودٍ لَا قَبْلَ لَكُمْ بِهَا  
وَالسَّلَامَةُ التَّرَكُّ مِنْ هَذَا وَالْأَحَدُ  
مَعْرِفَهُ دَعِ يَا قَاوِيلَ مَنْ تَقَدَّمَ كُلُّ  
وَاحِدٍ شَيْئُهُ مِنْ مَآرِبِهِ وَالرَّاهِدُ غَلَامُ  
الْعَارِفِ مَا دَامَ ثَمَّةُ تَوْعُ خَيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا  
وَمَا فِيهَا وَالْآخِرَةُ تَوْعُ بَقَايَا طَبْعٍ وَهُوَ  
أَعِنْدَكَ ذَلِكَ التَّرَكُّ فَإِنْ أَخَذَ قَلْبُهُ  
مَا يَأْخُذُكَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الْكُلُّ عَنِ  
الْقَلْبِ وَانْقَدَمَ بِعُرُوقِهِ انْتَهَى الزَّهْدُ  
جَاءَتِ السَّعْرَةُ جَاءَ الصَّفَاءُ ذَهَبَ  
الْكُدُورُ جَاءَ الْغَرَقُ جَاءَ الْحَقُّ جَاءَ  
الْمُسَبِّبُ انْقَطَعَ السَّبَبُ حِينَئِذٍ يَرْجِعُ  
الْثَبَاتُ إِلَيْهِ وَيَقْعُدُ عَلَى بَابِ دَارِهِ  
يَأْمُرُ الْخَلْقَ وَيَنْهَاهُمْ تَتَعَلَّقُ بِكَ  
مَعَاصِيكَ الْأَعْدَاءُ يَشْتَفُونَ إِنْ أَرَدَتْ  
أَنْ تَرْعَاهُ الْأَعْدَاءُ فَتَبِ الْأَنْ وَاشْتَمَلُ  
بِاخْوَتِكَ اللَّهُ عَلَيْكَ شَهِدٌ وَهُوَ مَعَكَ  
أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ كَانَ ابْنُ عَطَاءٍ يَدْعُو

اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرَبَاتِي فِي دُنْيَايَ الْمَوْتِ  
مَوْتَانِ مَوْتُ السَّوَامِ وَهُوَ مَوْتُ الْمُعْهُودِ  
وَمَوْتُ الْخَوَاصِ وَهُوَ مَوْتُ الْأَهْرِيَّةِ  
وَالْتَّفُوسِ وَالطَّبَاعِ وَالْعَادَاتِ فَيُحْيِي  
الْقَلْبَ فَإِذَا جِئِيَ الْقَلْبَ جَاءَ الْقُرْبُ  
جَاءَتِ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ حِينَئِذٍ  
يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْمَوْتِ  
فِي بَاطِنِهِ نَفْسٌ يَخْصُهُ وَظَاهِرُهُ  
يُذَكِّرُ النَّاسَ بِالْمَوْتِ وَيَذَكِّرُ  
هُوَ مَعَهُمْ حُكْمًا ظَاهِرًا أَمَّا  
ظَوَاهِرُهُمْ تَشْهَدُ يَا لَوْحَدَانِيَّةُ وَبَوَاطِنُهُمْ  
يَا لَعَكْسٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا وَجُوهُهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ  
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى الدَّرْهِمِ وَالْيَدَيْنِ نَارٍ مَنْ  
خَافَ أَذْلَجَ آيِنَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ خَلِّصْنَا يَا  
شَيْطَانُ الْقَلْبِ النُّفْسَ فِي الْخَلْقِ فِي أَرْضِ  
اللَّهُ طَائِعًا مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيْهِ مَتَى ذَكَرْتَهُ  
فَأَنْتَ مُحِبٌّ فَإِذَا اسْمَعْتَ ذِكْرَكَ كَأَنَّكَ  
تَأْتِبُ فَإِذَا ذَكَرَكَ لَكَ فَأَنْتَ مُحِبُّوبٌ مَتَى  
ذَكَرْتَهُ بِلِسَانِكَ فَأَنْتَ تَأْتِبُ فَإِذَا ذَكَرْتَهُ  
بِقَلْبِكَ فَأَنْتَ سَائِلٌ فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِسِرِّكَ  
فَأَنْتَ عَارِفٌ يَتَمَيَّنُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَضْحَبَ  
الصَّالِحِينَ إِلَّا بَعْدَ تَهْدِيْبِ أَخْلَاقِكَ الشُّعُورِ وَ  
الْأَمَادِمُ تُغَيِّرُ لَكَ لِقْمَةً وَحَرَقَةً فَلَا تَصْغَبُ  
فَإِنَّ قَسَادَرَ فِي صُحْبَتِهِمْ يَغْلِبُ عَلَى  
صَلَاحِكَ دَعْمُ عَنْكَ هَذِهِ الرَّغْوَنَاتِ

کیا کرتے تھے الہی میری غربت پر دنیا میں رحم کر موت کی دو قسمیں  
ہیں۔ ایک عوام کی موت جو کہ معمولی روزمرہ ہے۔ اور ایک خواص کی  
موت اور وہ خواہشوں اور نفسوں اور طبیعتوں اور عاداتوں کا مرجانا  
ہے اس موت سے قلب زندہ ہوتا ہے پس جب قلب زندہ  
ہو گیا قرب الہی مل گیا ہمیشہ کی زندگی آگئی۔ اس کے اور موت کے  
ذکر کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کے باطن  
میں ایک ایسی چیز آجاتی ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے  
اور اُس کا ظاہر دوسرے آدمیوں کو موت کی یاد دلاتا رہتا ہے اور  
وہ اُن کے ساتھ حکم ظاہری کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میں تمہارے  
ظاہر کو دیکھتا ہوں کہ وہ وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور تمہارے  
باطن اس کے برعکس ہیں اسی وجہ سے میں تمہارے چہرہ کو کعبہ  
کی طرف اور تمہارے قلب کو درہم و دینار کی طرف متوجہ دیکھ  
رہا ہوں جو خوف کرتا ہے اندھیرے سے چل دیتا ہے۔ خوف  
کہاں ہے۔ الہی میں غلامی طلب کرتا ہوں۔ جو قلب مطلق الہی میں  
زمین پر بیٹھا و فرد ہوتا ہے شیطان اُس کے روبرو دشمن بندھا ہوا  
مابعد از فرمانبردار بن کر آتا ہے جب تک تو خدا کو یاد کرے گا۔  
پس تو محب ہے پس جب توبہ سے گا کہ وہ تجھے یاد کرتا ہے  
پس تو محبوب ہے جب تو اُس کی اپنی زبان سے یاد کرے گا  
پس تو تائب ہے پس جب تو اُس کو اپنے قلب سے یاد کرے  
گا پس تو سالک ہے پس جب تو اُس کو اپنے باطن سے یاد کرے  
گا پس تو عارف ہے۔ سچ پر لازم و متعین ہے کہ جب تک تو اپنے  
برے اخلاق کو درست نہ کرے صالحین کی صحبت میں نہ بیٹھے  
اور جب تک تجھے ایک نوالہ اور ٹکڑا در بدر پھر اتارے پس  
تو اُن کی صحبت میں نہ جا کیونکہ اس حالت میں تیری قربانی ان کی صحبت میں  
تیری اصلاح پر غالب ہوگی۔ تو ان رعوتوں کو چھوڑ دے

اور غیر اللہ کو دوست نہ بنا اور نہ اس کے غیر سے دوستی کر اور نہ اس کے غیر کی مصاحبت میں رہ تیرے اوپر بیٹھنا ہے۔

اے سب نبیوں سے زیادہ نبیؐ اے احق کیا تجھے مجھ سے زیادہ یہودی و نصرائی پسندیدہ ہے۔ وہاں خراسان سے اُسے گا اُس کا ظاہر ستھرا ہو گا اور تجھ پر علم کا انبار کرتا ہو گا کیا وہ برہنہ میرے تجھے زیادہ محبوب ہے۔

اے اللہ کے بند و خیر دار ہو جاؤ تم بھی کسی کی زندگی کی طرف اور ایسے چتر کی طرف جو کبھی خشک نہ ہو گا ایسے دروازہ کی طرف جو کبھی بند نہ ہو گا اؤ تم ایسے سایہ کی طرف بڑھو جس کے لیے زوال نہیں ہے ایسے چل کی طرف دوڑو جو کبھی کم نہ ہو گا اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔

اے شہوتوں اور لذتوں کے تربیت یافتہ۔ اسے خواہشوں کے پلے ہوؤ! بھلائی اس کے اسوای میں ہے۔ تو ہمارے ارادہ کی بچائی کی آگ میں جل۔ تمام پردوں اور دروازوں کو توڑ دے گاہیں ہمارے اور تیرے درمیان میں کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا تو اس کو ایسے ہی دیکھنے لگے گا جیسے کہ تو ہم کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مقصودات میں مشغول ہو نا مفید ہو گا۔

اے ولایت کے دعوے دار تو ولایت کا مدعی نہ بن کیوں کہ یہ ایسا علم ہے جو کہ خود تیرے سر پر چڑھ کر پھلے گا بوجہ گاہ۔ نذا کرنے والا تیرے اوپر نذا کرے گا۔ ولایت افعال ہیں نہ اقوال باطن کی بنیاد ہے اور اس کی عمارت قلب کا متصل ہو جانا ہے اُس کی کنجیاں ایمان ہے۔ اور اس کی حقیقت سے تیرے پاس کچھ خبر نہیں ہے تو اُس کے بعض پیکتا اور اطمینان والے بندوں کے دامن و نفسوں سے وابستہ ہو جا اور اُن سے ایک لقمہ طلب نہ کرتا کہ وہ تجھ کو اس بات پر قدرت دیں کہ

وَلَا تُؤَاوِدْ غَيْرَكَ وَلَا تَصْحَبْ غَيْرَكَ وَلَا تُصَافِيَ غَيْرَكَ شَوْهَةً عَلَيْكَ .

يَا أَحَبُّتِ الْخَبِيثَ يَا أَحْمَقُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنِّي دَجَالٌ يَأْتِي مِنْ خُرَاسَانَ يَنْظِفُ ظَاهِرَهُ وَ يَتَّقِفُهُ عَلَيْكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنِّي .

يَا عِبَادَ اللَّهِ أَكَا هَلُمُّوا إِلَى حَيَلَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى مَعِينٍ لَا يَنْصُبُ أَبَدًا إِلَى بَابٍ لَا يَغْلُقُ أَبَدًا هَلُمُّوا إِلَى ظِلٍّ لَا يَزُولُ إِلَى شَجَرَةٍ لَا يَنْقُصُ لَا تَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

يَا تَرْبِيَةَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ يَا تَرْبِيَةَ الْهَوَى الْخَيْرِ فِيهَا وَمَا ذَاكَ احْتَرَفُ بَنَاءِ صِدْقٍ إِمَّا ادْتِنَا تَخَرَّقُ الْحُجُبَ وَالْأَبْوَابَ فَلَا تَبْقَى بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ حِجَابٌ تَرَاكَ كَمَا تَرَانَا حِينَئِذٍ التَّلَبُّسُ بِالْأَقْسَامِ .

يَا مُدَّعِي الْوِلَايَةِ لَا تَدْعِي إِلَيْهِ عِلْمٌ يَنْشُرُ عَلَى رَأْسِكَ مُتَادِيًا دَعَى عَلَيْكَ الْوِلَايَةُ أَعْمَالٌ لَا أَقْوَالُ بِنَاءٌ بَاطِنٌ وَ عِمَامَةٌ اتِّصَالُ الْقُلُوبِ مَقَاتِلُهَا الْأَيْمَانُ حَقِيقَتُهَا لَيْسَ عِنْدَ مَنْهَا خَبَرٌ تَعَلَّقُ بِذَيْلِ بَعْضٍ مُفَرِّدٍ بَعْضٍ نَفْسٍ عِبَادَةٍ الْمُطْمَئِنِّينَ وَلَا تَطْلُبُ مِنْهَا لِقْمَةً لِيَمْكُنُوكَ

مَنْ لُبِسَ أَثْوَابُهُمْ وَالْوُحُوفِ بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا دُمَّتْ عَلَى ذَلِكَ  
لَعَلَّهُ يُقَرَّبُكَ وَيُكَيِّسُ بَعْضَ خَلْقَانِ  
كَلِمَاتِهِ وَيُطْلِعُكَ عَلَى بَعْضِ أَحْوَالِهِ  
يُثَبِّتُ بِجَاشِدِكَ وَيُطَيِّبُ مَقَامَكَ حَتَّى  
رَأَيْتَ مَوَارِدَ الْحَقِّ إِلَى قَلْبِكَ غَبِضَ  
عَيْنَيْكَ وَاخْتَبَيْتُ لَا تُفْشِيَ إِلَى الْغَيْرِ  
سِرَّهُ وَوَارِدَ الْحَقِّ يَأْتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى  
اِخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ وَمَقَامَاتِهِمْ  
تَتَغَيَّرُ طَوَائِفُهُمْ لِتَغْيِيرِ بَوَاطِينِهِمْ وَ  
يَحْتَاجُ الْمُرِيدُ الْمَطْلِعَ عَلَى أَسْرَارِهِمْ  
أَنْ يَكُونَ أَعْيُنُ أَصَمِّ سَكْرَانًا حَتَّى  
إِذَا ظَهَرَتْ نِجَابَتُهُ عِنْدَكَ وَتَحَقَّقَ  
أَدَبُهُ يَكْنُزُ سِرَّهُ لَعَلَّهُ يَكْسُو قَلْبَهُ  
بِبَعْضِ ثِيَابِهِ يَدْعُو اللَّهَ يَطْهَرُ سِرَّهُ  
قَلْبَهُ بِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

يَا غَلَامَ مَا لَيْسَ فِي مَلِكِكَ فَهُوَ خَارِجٌ  
عَنْ مَمْلَكَتِكَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ أَوْ  
لِغَيْرِكَ مَعْنَاهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَسَمُكَ أَوْ قَسَمُ  
غَيْرِكَ فَإِنْ كَانَ لَكَ فَسَوْفَ يَأْتِيكَ وَأَنْتَ نَائِمٌ فَهَذَا  
النَّعْبُ الَّذِي يَقْصُصُ فِيهِ دُنْيَاكَ لِمَا دَاوَاكَ دُمَّتْ عَلَى  
سَعَاءِ الْعِلْمِ وَمُصَاحَبَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّفَكُّرِ  
فِيمَا هُوَ آتٍ لَسَهَّلَ عَلَيْكَ تَرْكَ الْأَسْبَابِ وَالْأَرْبَابِ

تو اُن کے کپڑے پہن سکے اور اُن کے روبرو کھڑا رہے۔ ممکن  
ہے کہ جب تو اس حالت پر ہمیشگی اختیار کرے تو وہ تجھے اپنے  
سے قریب کر لے اور تجھے بعض گڈریاں اپنے کلمات کی بناء پر  
اور تجھے اپنے بعض حالات پر مطلع کر دے تیرے قلب کے جوش  
کو ثابت قدمی دے اور تیرے مقام کو پاکیزہ کر دے۔ اس حالت  
میں جب تو اپنے قلب کی طرف موارِدِ حق کو دیکھنے لگے تو اپنی دونوں  
آنکھوں کو بند کر لینا اور اُن کو مغفّر رکھنا کسی غیر کو اُس کے سر پر اطلاع  
نہ دینا۔ موارِدِ حقِ قلوب پر اُن کے حالات و مقامات کے اختلاف  
کے موافق نازل ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کا ظاہر ان کے باطنوں  
کے تغیر کے واسطے متغیر ہوتا رہتا ہے۔ جو کوئی ان کا مرید ان کے  
اسرار پر خبردار ہو جائے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اندھا  
بہر انشہ والابن جائے۔ اس کے شیخ کو جب اُس کی نجابت ظاہر  
ہو جائے گی اور اُس کا ادب متحقق ہو جائے گا کہ وہ ان کے مجید  
کو چھپاتا رہا ہے کیا عجب کہ وہ اس مرید کے قلب کو اپنے بعض  
کپڑے پہنا دے اس کے لیے اللہ سے اُس کے طہارت  
قلب کی دعا کرے جیسا کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ  
السلام کی معیت میں حال ہوا کہ خدمت کرتے کرتے پیغمبر  
ہو گئے۔

اے غلام جو چیز تیری ملک نہیں ہے پس وہ تیری حکومت  
سے خارج ہے۔ ایسی چیز دو حال سے خالی نہیں یا وہ تیرے  
لیے ہوگی یا تیرے غیر کے لیے یعنی یا تو وہ تیرے مقدر حصہ  
کی ہوگی یا تیرے غیر کے حصہ کی پس یہ تعب و مشقت جو کہ تیرے  
دین میں کمی کر رہی ہے کس لیے ہے اگر تو عملی باتوں کے سننے اور  
اہل دین و معرفت کی مصاحبت میں اور آنے والی چیز کے تفکر میں  
ہمیشگی کرے گا تو تیرے اوپر سببوں اور ارباب کا چھوڑ دینا آسان

ہو جائے گا۔ اخلاص کے بعد خلق کے لیے عمل کا چھوڑنا ریا ہے لیکن رویت مخلوق کے وقت حصول اخلاص کے لیے عمل کا چھوڑنا فتح مندی حاصل کرنے کے لیے پس قابل امید ہے کہ وہ ریا نہ ہو جب تک تو مرید رہے اس حکم کو لازم پکڑ شاید کہ تیرا عمل تجھ کو علم تک پہنچا دے کہ وہ تیرے قلب اور اعضا اور باطن سے عمل کرانے لگے۔ علم ہی تجھے حکم دے گا اور وہی نواہی سے تجھے روکے گا الہی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ تیرا خواہش مند نہ ہو اور لیکن امتیں ہم کو تجھ سے روکتی رہتی ہیں۔ اور امر الہی۔

اسے مخاطب تیرے اوپر فرض میں اگر باوجود قدرت تو ان کے ادا کرنے میں تاخیر کرے گا اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تو کفر کرے گا۔ تو دنیا سے بے مقدار اپنی حاجت کے لیے کھیل کود اور کثرت مال کے خیال سے نہ لے جب تیرا اسلام تسلیم کی شان کے ساتھ متفق ہو جائے گا اور تو اپنے نفس کو تقدیر کے ہاتھ میں حوالہ کر دے گا۔ پس وہ اولاً تیرے قلب کو غفلت غافل پہنا دے گا پھر تیرے ظاہر اور باطن کو آراستہ کر دے گا اور تو ایک دن میں بار بار مرے گا اور زندہ ہوتا رہے گا وہ زندہ کر کے تیرے قلب سے خباثتوں اور کدورتوں کو نکال دے گا۔ جی اٹھے گا اور جب وہ خلق کو دیکھے گا مر جائے گا اور جب خلق پر اس کی نگاہ پڑے گی محتاج ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو گا۔ مادت اس کو نگل لے گی۔ پس جب وہ حق کو دیکھے گا زندہ ہو گا اور حرکت کرنے لگے گا اور اٹھ بیٹھے گا مخلوق سے اپنے نفس و وجود سے غائب ہو جائے گا حق کے ساتھ زندہ رہے گا اور مخلوق سے مر جائے گا یہ سچے مریدین کے فرائض ہیں۔ جب کوئی مرید ان کے پاس آتا ہے وہ اس کو خود نسا کا حکم دیتے ہیں

تَرْكُ الْعَمَلِ لِلْخَلْقِ بَعْدَ الْإِحْلَاصِ دِيْبَاءٌ  
أَمَّا إِذَا تَرَكَ عِنْدَ رُؤْيَا الْخَلْقِ لِيُطْفِرَ  
بِالْإِحْلَاصِ فَيُزْجِي لَهُ مَا دُمْتَ مُرِيدًا  
فَعَلَيْكَ بِمَلَانِمَةِ هَذَا الْحُكْمِ لَعَلَّ عَمَلَكَ  
يُوصِلَكَ إِلَى الْعِلْمِ لِيَسْتَعْمِلَ قَلْبَكَ وَ  
جَوَارِحَكَ وَبَشَرَكَ يَا مُرِيدَ الْعِلْمِ وَ  
يَنْهَاكَ اللَّهُ مَا مَنَّا إِلَّا مَنْ يُرِيدُ لَكَ  
وَلَكِنَّ الْأَفَاتِ تَمْنَعُنَا عَنْكَ أَوْ أَمِيرُ  
اللَّهُ.

دَيْنٌ عَلَيْكَ فَإِنْ أَخَّرْتَ مَعَ قَدْرَتِكَ  
ظَلَمْتَ وَإِنْ تَرَكَتَ كَفَرْتَ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا  
بِقَدْرِ حَاجَتِكَ لَا لِلْعِبِّ وَالْإِسْتِكْشَافِ  
إِذَا تَحَقَّقَ إِسْلَامُكَ بِالتَّسْلِيمِ وَسَلَّمْتَ  
نَفْسَكَ إِلَى يَدِ قَدْرِهِ أَوْ لَا كَسَا قَلْبَكَ  
ثُمَّ كَسَا ظَاهِرَكَ وَبَاطِنَكَ وَتَمَوْتُ فِي  
يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُحْيِيكَ ثُمَّ يُخْرِجُ  
مِنْكَ النِّبَايَةَ وَالْكَدُومَاتِ كُلَّمَا  
رَأَى الْحَقَّ عَاشَ وَإِذَا رَأَى الْخَلْقَ  
فَاتَ وَإِذَا رَأَى الْخَلْقَ افْتَقَرَ وَذَلِكَ  
وَهَآنَ ابْتَلَعَتْهُ الْعَادَةُ فَذَا سَأَى  
الْحَقَّ عَاشَ وَانْتَعَشَ وَامْرُ تَقَعَمَ  
غَابَ عَنِ الْخَلْقِ وَ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ  
وُجُودِهِ عَاشَ مَعَ الْحَقِّ وَمَاتَ  
عَنِ الْخَلْقِ كِتَابُ السَّرِيدِينَ الْقَادِقِينَ  
كُلَّمَا جَاءَهُمْ مُرِيدٌ يَا مُرُودَتُهُ

بِالْمَحْوِ يَمْحُو الْخَلْقَ وَالتَّقْسِ تَهْ يَمْحُو  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَإِذَا تَهْ هَذَا فَمَقَلَبُ  
الْحَقِّ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ إِذَا مَرَّتْ  
التَّرْقِي إِلَى هَذَا الْمَقَامِ فَعَلَيْكَ بِتَرْكِ الْحَرَامِ  
وَالشَّبَهَةِ حَتَّى إِذَا تَهْ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِتَرْكِ  
الْحَلَالِ الْمُشْتَرَكِ ثُمَّ عَلَيْكَ بِتَرْكِ الْمُبَاحِ  
ثُمَّ عَلَيْكَ بِالْحَلَالِ التَّطَلُّقِ وَهُوَ إِجْمَاعُ الْحُكْمِ  
وَالْعِلْمِ إِجْمَاعُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ هُوَ مَا  
لَا يَدْخُلُ فِي يَدِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا فِي الْبَرَابَرِيِّ وَ  
الصَّحَارِيِّ وَالسَّوَا حِيلَ يَأْتِيكَ وَأَنْتَ نَائِيَةٌ  
تَفْتَحُ عَيْنِي قَلْبِكَ تَرَى حَوْلَكَ الْمَلَائِكَةَ  
وَأَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ وَالْعِلْمُ يُفْتِيكَ يَتَنَاوَلُهُ  
يَضُمُّنُ لَكَ سَلَامَةَ الْقُرْبِ قُفْ فَاغْبِرْ غَائِبِينَ  
الْخَلْقَ لَا خَوْفَ وَلَا مَرَجَاءَ هُمْ وَلَا مَدْحُ هُمْ  
وَلَا ذَمُّ هُمْ وَلَا صُورُ هُمْ وَلَا مَعْنَا هُمْ  
تَأْتِيكَ مِنَّةُ اللَّهِ يَا لَأَنْتَ عَاشَ ثُمَّ يَا تَيْكَ  
الْقُرْبِ وَالْإِنْفَاءِ دَوَامُ الصُّحْبَةِ وَالْبُعْدِ  
عَنِ الْخَيْفَةِ وَالْفَنَاءِ عَنِ الْوُجُودِ أُطْلُبُوا  
الْمَحْوَ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْعَدَمَ بَعْدَ الْوُجُودِ  
الْقُرْبَ بَعْدَ الْبُعْدِ وَالصَّفَاءَ بَعْدَ الْكُدْرِ  
وَالْوَصْلَ بَعْدَ الْقَطْعِ وَاللِّقَاءَ بَعْدَ الْبُعْدِ  
صَحَّةَ الْقَلْبِ بِلَا لِسَانٍ صِحَّةَ الْبَاطِنِ بِلَا  
قَلْبٍ صِحَّةَ السِّرِّ بِلَا وَجُودٍ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ  
بِاللهِ الْحَقِّ إِذَا شَاءَ الشَّرُّكَ إِلَى الْخَلْقِ وَبِهِ  
الْعِبَادَةُ أَصْلَحَ وَبِهِ قَرَّبَ.

اولاً خلق و نفس نے فنا کرنے کا پھر دنیا و آخرت سے محو و فنا پس ب  
اس کے لیے یہ محویت تمام ہو جاتی ہے پس مقلب القلوب اُس کو  
جیسا چاہتا ہے لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے جب تو اسی مقام  
کی طرف ترقی کا قصد کرے پس تو حرام و مشتبہ چیزوں کے چھوڑنے  
کو اپنے اوپر لازم پکڑ پھر جب یہ مرتبہ تمام ہو جائے تو تو مشترک  
حلال کے چھوڑنے کو لازم پکڑ پھر مباح کے چھوڑنے کو پھر محض  
حلال کو اپنے اوپر لازم کر لے اور وہ حکم و علم کا اجماع ہے اور وہ  
ظاہر و باطن کا اجماع ہے جو کہ کسی کے دست ملکیت میں نہ ہو مثلاً  
وہ چیزیں جو کہ جنگلوں اور بیابانوں اور کناروں پر ہیں تیرے پاس  
رزق حلال سمونے میں آجائے گا تو اپنے قلب کی آنکھیں کھولے  
گا اپنے گرد اگر ملائکہ اور ارواح انبیاء کو کھڑا دیکھے گا۔ اور علم تجھے  
اُس کے کھانے کا نٹوے دے گا تیرے لیے سلامتی قرب کا  
ضامن بن جائے گی۔ تو مخلوق سے خالی و فارغ ہو کر کھڑا ہو جاوے  
اُن کا خوف ہو اور نہ اُن سے امید اور اُن کی تعریف اور بُرائی  
اور نہ اُن کی صورتوں پر نظر اور نہ اُن کے معنوں پر نگاہ۔ اُس وقت  
احسان الہی خوش عیشی و زندگی کا پیغام لائے گا۔ پھر تجھے قرب و  
امیری و دوا می صحبت اور خلق سے دوری اور وجود سے فنا  
حاصل ہو جائے گی تم بعد اثبات کے محو کو اور بعد وجود  
کے عدم کو اور بعد دوری کے قرب کو اور بعد میلے پن کے  
صفائی کو اور بعد قطع کے وصل کو اور بعد دوری کے ملاقات کو  
طلب کیا کرو قلب کی صحت و درستی بغیر زبان کے ہے باطن  
کی درستی بغیر قلب کے اور سر کی درستی بغیر وجود کے۔ یہاں الہی  
کی ولایت ختم ہے جب چاہے گا اُس کو مخلوق کی طرف اٹھا  
کر کھڑا کر دے گا اور اُس سے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائے گا  
اور اسی کی وجہ سے اپنے سے نزدیک کر لے گا۔

يَا بَاطِلُ يَا هَوَسُ اقْطِعِ الْأَسْبَابَ وَ  
 اخْلَعْ الْأَرْبَابَ وَقَدْ وَصَلْتَ مَا تَرَكْتَ  
 يَسْتَقْبِلُكَ هُنَاكَ كُلُّ طَعَامٍ عَلَى طَبَقٍ  
 الْطَبِيبُ فِي دَارِ الْمُحْبُوبِ فِي دَارِ الْقُرْبِ  
 قَامَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً قَالَ لَهُ  
 أَمْسِكْ أَمْرِي سَوَالِكَ يَخْرِجُ مِنْ طَبْعِكَ  
 وَتَفْسِكَ لَا تَخَاطِرُ مَعِيَ أَنَا سَيِّفٌ أَنَا  
 قَتَالٌ وَيَحْذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ أَمَا أَنْتَ يَا  
 عَامِي فَيَحْذِرُكَ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَنْتَ يَا  
 خَاصُّ فَيَحْذِرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ يَا خَاصُّ الْخَاصِّ  
 يُحْذِرُكَ اللَّهُ بِهِ تَقْلِيلًا يَحْذِرُكَ يَا  
 عَامِي أَنْ يَأْخُذَ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَقَوَاكَ  
 وَمَالَكَ وَأَهْلَكَ ثُمَّ يَنْقَلِبُ إِلَى آخِرَةٍ  
 فَتَوَّأْ أَخْذَهُ يَا خَاصُّ الْخَاصِّ  
 يُحْذِرُكَ مِنْهُ فَكُنْ عَلَى قَدَمِ الْحَذَرِ  
 حَتَّى وَحَتَّى لَا تَعْمَلُ يَشَأُ وَمِنْ الْحَقِّ  
 سِرُّكَ يَقُولُ لَهُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا تَخَفْ  
 وَلَا تَحْذَرْ إِذَا شَمَّ هَذَا كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ  
 إِلَى الْخَوْفِ مَنَعَكَ كُلَّمَا تَكَدَّرَ أَمَلُكَ  
 بِالْخَوْفِ صَفَاكَ إِذَا تَمَتَّتْ صِحَّةُ الْقَلْبِ  
 لَا يَصْرُكَ مُلْكُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ  
 الْأَرْضِ كَيْسَ هَذَا يَجِيئُ بِالنَّحْوِ وَ  
 السَّيِّئِ وَالتَّكَلُّفِ هَذَا بِأَهْلِيَّةٍ تَأْتِي  
 مِنَ السَّمَاءِ يُرْقِيكَ الْفِعْلُ مَعَ قِيَامِ  
 الزُّهْدِ فِي قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ تُنَوِّلُ عَلَيْكَ

اے باطل اے ہوس نمیبوں کو قطع کر دے۔ اور  
 ارباب کو چھوڑ دے تو یقیناً واصل الی اللہ ہو جائے گا جو کچھ تو  
 چھوڑے گا وہ خود بخود تیرا استقبال کرے گا یہاں ہر قسم کا کھانا  
 طبق میں جتنا موجود ہے۔ محبوب کے گھر میں قرب کی منزل میں  
 طبیب بھی موجود ہے۔ ایک شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے  
 لیے کھڑا ہوا۔ ارشاد فرمایا خاموش رہو میں تیرے سوال کو دیکھتا ہوں  
 کہ تیرے نفس و طبیعت سے نکل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ  
 خطرہ میں نہ پڑیں صاحب شمشیر اور قتل کر ڈالنے والا ہوں  
 اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ مگر اے عامی  
 تو پس تجھے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اے  
 خاص تو پس تجھے اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے ڈراتا ہے خاص الخاص  
 تجھے وہ اپنی تبدیلیوں حالتوں کے پلٹ دینے سے ڈراتا ہے  
 کہ وہ تیرے کان اور آنکھ اور قوتوں اور مال اور اہل و عیال کو لے  
 لے گا پھر تجھے آخرت کی طرف لے جائے گا پس تجھ سے مواخذہ  
 کیا جائے گا اور اے خاص الخاص تجھے اللہ اپنے سے ڈراتا  
 ہے پس تو اپنے خوف کے قدم پر کھڑا رہ۔ یہاں تک کہ تو  
 غافل نہ ہو حق تعالیٰ تیرے سر سے مشورہ کرے اُس سے کہے کہ  
 تحقیق میں ہی خدا ہوں تو خوف نہ کر اور ڈر مت جب تجھے یہ مرتبہ  
 مل جائے گا جب بھی تو خوف کی طرف بڑھے گا وہ تجھے منع کرے  
 گا جب بھی تیرا امن خوف سے کمزور ہو گا اُس کو وہ صاف کرنے  
 لگے جب قلب کی صحت تمام ہو جائے گی۔ اُس کو آسمان وزمین  
 کے درمیان کی سلطنت ضرور پہنچا سکے گی۔ یہ امر بناؤ نگھار اور تمنا  
 اور تکلف و بناوٹ سے حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ اس اہلیت  
 و قابلیت سے ملتا ہے جو کہ آسمان سے اترتی ہے۔ تجھ کو تیرے  
 قلب میں زہد کے ساتھ قیام کرنے سے عمل ترقی دے سکتا ہے یہاں پر

وَعَلَىٰ أَهْلِ مَجَلِسِكَ الْمَبَاهَاتِ وَالْزَّوَادِ تَرَادَفَ جَاءَ هُيُيْلَ إِلَى الْحَكِيمِ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَمَتِي بُعْعَهُ فِي الْجَنَّةِ لَا أَطْلُبُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ الْحَكِيمُ كَيْتَكَ فَنَعَتَ مِنَ الدُّنْيَا كَفَنَاتِكَ مِنَ الْآخِرَةِ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقًّا لَا بُدَّ مِنْهُ فَدَتِ السَّاعَةُ الْبَيْتَ لَا مَخَالَطَةَ لَهُ لَا عَطَاءَ لَهُ لَا مَنَعَ لَهُ لَا خَوْفَ لَا رِجَاءَ لَا مُعَادَاةَ وَلَا مُصَادَقَةَ سُكُونٌ سُكُونٌ كُنْ كَالْمَيِّتِ فِي جَلْبِ النَّفْعِ وَ لِيَدْفِعِ الضَّرَّ الْمَيِّتِ لَا يَتَكَلَّمُ شَمَّ انْشَاءَ اللَّهُ أَنْطَقَكَ وَأَنْتَ مَيِّتٌ إِذَا مِتَّ عَنِ الْخَلْقِ وَعَنْكَ نَطَقْتَ بِكَلَامٍ كَانَ صِدْقًا وَحَقًّا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُخْبِرُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ كَيْتَبَتْ إِلَيْهِ رُفْعَهُ رَجُلٌ صَوْفِيٌّ يُرِيدُ شَيْئًا فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ الصُّوفِيُّ يَصْفُو عَنِ الْخَلْقِ لَا يَرَاهُمْ الصُّوفِيُّ يَطْلُبُ وَلَا يَطْلُبُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا اتَّسَعَ الْخَرَقُ عَلَى الرَّافِعِ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَقْعُدُ سَاكِنًا مُوَافِقًا حَتَّى يَصْعَقَ الْقَدْرُ فِي يَدِهِ خَرَقَهُ يَقْدِرُ الْكَانِ أَوْ تَسُدُّ غَيْرَهُ عَنْهُ إِذَا صَنَعَ الْبِقْتَامَ مِنْكَ نَمَّ عَلَى الْبَابِ عَلَى الْعَتَبَةِ أَنْتَ جَاهِلٌ أَنْتَ عَبْدُ الْخَلْقِ سَمَنَكَ إِذَا أَقْبَلُوا هَذَا لَكَ

اور تیری مجلس والوں پر رحمت اترتی ہے۔ مباحات اور زواید ہم معنی (تیرے اس مرتبہ سے فرشتوں پر نغمہ ہو گا اور ترانیاں زیادہ ہوں گی ایک مرید حکیم کے پاس اگر اس کے رد پر روٹیجھ گیا اس سے کہنے لگائیں جنت میں تھوڑی جگہ چاہتا ہوں اس کے سوا کچھ طلب نہیں ہے حکیم نے اسے جواب دیا کاش کہ جیسے تو نے آخرت سے قناعت کر لی ہے ایسے ہی تو دنیا سے بھی قناعت کر لیتا اگر مزاجی رہتا ہے بغیر اس کے چارہ نہیں پس تو ابھی مر جا بیت کو کسی سے میل جول نہیں رہتا دینے نہ دینے امید و خوف سے علاوہ نہیں رہتا زاپس کی دشمنی، موتی ہے اور نہ دوستی محض سکون و سکوت، ہوتا ہے تو نفع حاصل کرنے اور مصیبت کے دفع کے واسطے مثل مردہ کے ہو جا مردہ بات چیت نہیں کرتا ہے پھر اگر اللہ چاہے گا۔ تو تیری مردہ ہو جانے کی حالت میں تجھے گویائی دے دے گا جب تو اپنی خودی اور خلق سے مر جائے گا تو تو ایسے کلام سے گویا ہو جائے گا جو کہ مر یا صادق اور حق ہو گا۔ کیونکہ مرد سچی اور حق ہی خبر دیا کرتا ہے۔ آپ کو ایک رقعہ لکھا گیا کہ ایک صوفی شخص ہے وہ کچھ طلب کرتا ہے۔ اپنے فرمایا باطل ہے۔ صوفی تو خلق سے صاف ہوتا ہے ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے صوفی طلب کیا جاتا، وہ طلب نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ سے کسی شخص نے کہا کہ جب پیوند لگانے والے پر اس کی گڈری زیادہ پھٹ جائے تو وہ کیا کرے فرمایا قضاء و قدر کی موافقت میں خاموش ہو کر بیٹھ جائے یہاں تک کہ قضاء و قدر بقدر ضرورت اس کے ہاتھ میں پیوند رکھ دے۔ یا اس کی گڈری کی جگہ کوئی دوسری پھٹی گڈری دے دے جب تیرے پاس سے کتنی جاتی رہے تو تو جو کھٹ پر سر رکھ کر دروازہ پر سو جا۔ تو تو جاہل ہے تو تو خلق کا بندہ ہے جب وہ تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تیرے اوپر بوٹا پاڑھا ہوتا ہے اور

إِذَا أَذْبَرُوا أَنْتَ هَالِكٌ أَنْتَ مُشْرِكٌ  
قَلْبِكَ فَارْعَمَنَّ التَّوْحِيدَ أَنْتَ عَبْدُ الْخَلْقِ  
أَنْتَ فَارْعَمَنَّ مِنَ الْخَيْرَاتِ أَنْتَ خَارِجٌ عَنِ  
الْعَدَا لَا تُعَدُّ مَعَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُرِيدِينَ  
وَالْمُؤَدِّينَ وَلَا الصَّالِحِينَ كَوَلَا حَيَاتِي  
مِنْكَ لَا تَقِيبُ بَابَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَ  
اسْتَصَفْتَهُ وَكُنْتُ أَعْرَأُ أَذُنُهُ وَ  
أَهْدِي بِهِ وَأُذِي بِهِ يَاجِبُ هَذَا الدَّارِ لِمَا  
يَقُودُ النَّاطِلَ إِلَيْهِ الْمَلْتَسِ بِهِ -

وَيَحَكَ تَطْلُبُ مَتَى الدُّنْيَا فَهِيَ بِالْمُشْرِقِ  
وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ أَخَذُ أَفْصَحِي مِنْهَا بِالتَّوْحِيدِ  
أَطْلُبُ مَتَى الْآخِرَةَ وَقَرُبَ الْحَقِّ عَمَّ وَجَلَّ دِينُ  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَاقَعُ حَيْطَانُهُ وَ  
يَكْتَنُ شُرَاسَا سَهْ هَلُمُّوا -

يَا أَهْلَ الْأَرْضِ نَشِيدًا مَا يَهْدِيكُمْ وَ  
لُعِيمٌ مَا وَقَعَ هَذَا شَيْءٌ يَتِيمٌ يَا شَمْسُ  
وَيَا قَمَرُ وَيَا نَهَارُ تَعَالَوْا نَعْمُ مِنَ الْحَالِ  
مَا يَكْتُمُ نَتْنَا وَمُ لِيَحْيَى الْقَدْرُ بِسْمِ  
اللَّهِ ثُمَّ اتَّكَأ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَتَرَكَ يَدَهُ  
تَحْتَ رَأْسِهِ وَعَمَّصَ عَيْنَيْهِ وَمَكَثَ  
هُنَاكَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَعَدَ وَقَالَ أَنْتُمْ  
بُلَهٌ وَمَجَانِبِينَ قُودَكُمْ عَنِّي تَحْسَادَةً  
فِي رَأْسِ مَالٍ -

لَا عَنْ عَذْرَاءٍ لَا تَهْوَسُ وَلَا يَغْلِبُ عَلَيْكَ

جب وہ بیٹھ پھیر لیتے ہیں تو تو دیکھنا نظر آتا ہے تو ہلاکت والا ہے  
تو مشرک ہے تیرا قلب تو حیدر خالی ہے تو خلق کا بندہ ہے  
تو مخلوقوں سے خالی ہے تو شمار سے خارج ہے۔ نہ تو علم کے ساتھ  
شمار کیا جاسکتا ہے نہ مریدین نہ مرادین اور صالحین کے ساتھ  
اگر تجھ سے مجھے چاہا دامن گیر نہ ہو تو میں تم میں سے ہر ایک کے  
دروازہ پر آتا اور میں اُس سے اپنا مہمان ہونا طلب کرتا اور میں  
اُس کے کان میں آتا اور اس کو تہذیب و ادب سکھا دیتا۔ اسے  
اس روپے پیسے کے عاشق و فریفتہ کہ وہ اپنی طرف دیکھنے  
والے اور اپنی طرف شامل ہونے والے کو کھینچتا رہتا ہے  
تجھ پر انوس ہے تو مجھ سے دنیا کو طلب کرتا ہے حالانکہ  
وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں میں دنیا سے اپنے حصے توحید  
سے لینا رہتا ہوں۔ تو مجھ سے آخرت اور قرب الہی کو طلب کر۔  
عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں برابر گر رہی ہیں  
اور اُس کی بنیاد کل رہی ہے۔

اے اہل زمین! اؤ ہم تم گرے ہوئے کو مضبوط بنادیں اور  
جو گر چکا ہے اُس کو درست کر دیں اے سورج اور اے  
چاند اور اے دن اؤ یہ چیز تو پوری ہو کر رہے گی۔ ہاں بعض  
حال وہ ہیں جو مخفی رکھے جاتے ہیں۔ حکم الہی کے آنے کے واسطے  
ہم ہوتے ہیں بسم اللہ پھر یہ کہہ کر کرسی پر آپ نے ٹیکہ لگالیا۔  
اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور اپنی دونوں  
انگوٹھیں بند کر لیں اور یوٹی تھوڑی دیر تک آپ ٹھہرے رہے  
پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا تم یوقوت اور مجنون کو بغیر عذر  
کے تمہارا میرے پاس سے بیٹھ رہنا زانا اس اموال میں نقصان  
کرتا ہے۔

اے مخاطب! تو بولو البوس بن بن اور تیرے اوپر منکبرو

عَلَيْكَ شَرُّكَ الْإِشْرَارِ وَالْبَطْرَانَتْ عَنْقَرِيْب  
مَبِيَّتٍ وَحَضَرَ مَجْلِسَهُ أُسْتَاذُ دَارِ الْإِمَامِ  
عِزُّ الدِّينِ بْنُ رَئِيسِ السُّوْءِ سَاءَ مَعَهُ خَدَمٌ  
وَعِلْمَانٌ كَثِيرَةٌ وَلَمْ يَكُنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ  
قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا اجْتَمَعَ بِهِ فَعِنْدَ دُخُولِهِ  
قَالَ رَحِمَنِي اللَّهُ عَنْهُ كُلُّكُمْ يَخْدُمُ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا. اللَّهُ مَنْ يَخْدُمُهُ كُلُّكُمْ خَلَقَ كُلُّكُمْ  
وَجُودٌ.

يَا مَيِّتُ يَا تُرَابُ تَصِيرُ تُرَابًا  
تُدَاسُ قَبْرُكَ مِنْ تُرَابٍ إِلَى تُرَابٍ  
مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ مَا عِنْدَكَ وَخَبَرٌ  
جَاءَكَ الشَّيْبُ أَنْتَ اصْتَمَدَ بِكَ خَبْلُ  
بِكَ جُنُونٌ انْتَبَهَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَبِهَكَ الْمَوْتُ  
كُنْ وَاعْظُ نَفْسَكَ وَظَهْرَ قَرْنٍ مَا نَكَ  
أَنْتَ مُسَافِرٌ عَلَى رَعِيْلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ  
كُلُّ مَا تَمْلِكُ عَلَيْكَ كُلُّ مَنْ يُعْطِيكَ  
عَلَيْكَ كُلُّ مَنْ يُفَحِّمُكَ عَلَيْكَ صَدِيقُكَ  
مِنْ حَذَرَكَ وَعَدُوُّكَ مِنْ أَعْوَاكَ  
اللَّهُمَّ نَبِّهْنَا مِنْ رَقْدَةِ الْعَافِيَيْنِ وَالْقَمِ  
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اسْتَغْلِنَا بِنَاوِيكَ حَتَّى تُصْلِحَ  
نُفُوسَنَا وَتَهْدِيَهَا لَكَ وَاسْتَغْلِ بِقِيَّةِ  
الْعُمْرِ مِنْ شَرْطٍ وَعُظْمِكَ بِغَيْرِكَ  
أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنًا لَا يَنْبَغِي أَنْ  
يَدْعُو الْعَبْدُ الْخَلْقَ إِلَى الْحَقِّ

غزوی کا شرک غلبہ نہ کرے تو عنقریب مرے والا ہے۔ آپ کی  
مجلس میں استاذ دارالامام عزالدین پسر رئیس المومنین حاضر ہوا اس  
کے ہمراہ بہت سے خادم اور غلام تھے اور اس سے پہلے  
وہ کبھی نہ آپ کی مجلس میں آیا تھا اور نہ آپ کے ساتھ کبھی اس کو  
جمع ہونے کا اتفاق ہوا تھا پس اس کے داخل ہونے کے  
وقت آپ نے ارشاد فرمایا تم سب کی یہ حالت ہے کہ بعض  
تمہارے بعض کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی کون خدمت کرتا ہے  
تم سب کے سب مخلوق و موجود ہو۔

اے مردہ اے مٹی تو مٹی ہو جائے گا تیری قبر ایک مٹی  
سے دوسری مٹی کی طرف روندی جائے گی۔ گہوارہ سے لحد کی  
طرف تو لوٹے گا۔ تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے تجھے بڑھاپا آگیا تو  
بہرہ ہے تجھے ضبط ہے تو مجنون ہے تو اس سے پہلے

کہ تجھے موت بیدار کرے بیدار ہو جا۔ تو اپنے لہس کا نا صبح ہی  
چا اور اس کو پا مال کر ڈال تو اپنے مال کو تقسیم کر دے تو بلا منہی  
و خوشی کے یقیناً سفر کرنے والا ہے ارشاد باری ہے جب ان کا وقت  
آجاتا ہے تو ایک گھڑی وہ آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتے تمام وہ  
جو کہ تجھے بزرگ بنا رہا ہے ان کا وبال و مواخذہ تیرے اوپر ہے  
نیز دوست وہ ہے جو تجھے ڈرائے اور تیرا دشمن وہ ہے جو کہ  
تجھے بہکائے گمراہ کرے۔ الہی تو ہم کو غافلوں کی نیند سے بیدار  
کر دے اور ہمارے بعض کو بعض سے نفع پہنچا تو ہم کو ہمارے  
اور اپنے ساتھ مشغول فرمایا سال تک کہ تو ہمارے نفسوں کی  
اصلاح فرما دے اور ان کو اپنا راستہ دکھا دے اور بقیہ  
عمر اپنے ساتھ مشغول رکھ۔ آمین تیرے غیر کو نصیحت کرنے  
کی تیرے لیے یہ شرط ہے کہ تو خود مومن ہو کسی بندہ کو یہ سزاوار  
نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے پہنچے ہوئے خلق کو حق کی طرف دعوت

إِلَّا بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لَا تَقْدَرُ وَبَلَّ  
 الْحَايِنُ خَانَ نَفْسَهُ وَرَبَّهُ نَبِيَّهٗ  
 بِأَمْرٍ وَلَا يَمْتَنِعُ وَلَا يَنْطَعِي وَلَا يَنْتَهِي  
 وَيَقُولُ وَلَا يَحْسُ بِهِ لَا عِبْرَةَ بِجَمْعِ  
 الْكَتَائِفِ وَحَقَّ شَوَابُكَ وَصَفَا دَرَّةُ  
 وَجْهِكَ الْإِيمَانُ هَهُنَا أَشْنَأُ إِلَى قَوْمٍ  
 كَانُوا يَغْتَشُونَ أَسْتَأْذِنُ الدَّارَ هَذِهِ  
 صِفَتُهُمْ أَهْلُ اللَّهِ كُلٌّ مِمَّنْ عَلَى قَلْبِهِ  
 شَحْنَةٌ يُحَارِبُونَ النَّفْسَ وَالطَّبْعَ  
 وَالْهَوَىٰ وَقُطَاعَ الظَّرِيقِ عَنِ اللَّهِ  
 نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ  
 أَقْوَامًا ثَقُرُضْ شَفَا هُمْ بِالْمَقَارِضِ  
 فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ  
 هَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ أُمَّتِكَ يَا مُرْدُونَ النَّاسِ  
 بِالْبِرِّ وَيَتَمَهَّوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتَكُونُونَ  
 الْكِتَابَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَرْكَلَ اللَّهُمَّ  
 اجْعَلْنَا صَالِحِينَ وَاصْلِحْ بَنَاءَ اجْعَلْ  
 نَحْوًا اجْعَلْنَا إِلَيْكَ وَإِقْبَالَكَ عَلَيْكَ ثُمَّ  
 وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَدَيْ لَيْثِيئٍ بِذَلِكَ  
 إِلَى أَسْتَأْذِنُ الدَّارَ حَتَّى تُهْزِلَ إِلَى  
 رَبِّنَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الْخَرَابِ وَمَالِكَ  
 وَقَلْبِكَ وَتَنْزَوِي إِلَى اللَّهِ إِلَى الْعَبْلِ  
 عَنَقَرِ يَبِ تَرْدُ إِلَى الْحَقِّ يَسْأَلُكَ  
 عَنْ أَعْمَالِكَ خَلَقَكَ لِتُوجِّدَهُ مَا خَلَقَكَ  
 لِلدُّنْيَا وَلَا لِآخِرَةِ الدُّنْيَا لَا تُشْبِعُكَ

دے تو بروں کی پیروی نہ کر۔ خائف پرانوس ہے کہ وہ اپنے  
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرتا ہے وہ حکم کرتا ہے  
 اور خود وہ فعل نہیں کرتا منع کرتا ہے اور خود باز نہیں رہتا ہے۔  
 دوسروں سے کہتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا ہے۔  
 تیرے کا ندھے ہلانے سمیٹ لینے اور مونچھوں کے پست کرنے  
 اور چہرے کے زرد کر لینے کا اعتبار نہیں ہے۔ قلب کی طرف  
 اشارہ کر کے فرمایا ایمان یہاں ہے۔ آپ کا اس قول سے اشارہ  
 اس قوم کی طرف تھا جو بیرون کے پردہ پکڑ کر ارد گرد جمع ہوتے  
 تھے ہی ان کی حالت تھی۔ اہل اللہ میں سے ہر ایک کے قلب پر محافظ  
 و چوکیدار ہوتے ہیں وہ نفس اور خواہش اور اللہ تعالیٰ سے بھٹ  
 کرنے والوں سے لڑتے رہا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے چند قوموں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ  
 قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے پس میں نے جبریل علیہ السلام سے  
 دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے  
 وہ عالم ہیں جو کہ دوسروں کو نگوئی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے نفسوں کو  
 بھٹاتے ہیں حالانکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں خود عمل نہیں کرتے الہی  
 توکل کی اصلاح فرما دے الہی توہم کو صالح بنا دے اور ہمارے  
 ذریعے سے دوسروں کی اصلاح کر دے تو ہماری حاجتوں اور  
 توبہ کو اپنی طرف کر لے یہ کہ کر عز الدین سے کہا تو کھڑا ہوا اور اپنا  
 ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا آپ کا اشارہ استاد دار کی طرف تھا تاکہ  
 ہم اس اوجڑ گھر سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور مال و  
 اولاد سب کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں اور ہم اللہ کی طرف بذریعہ  
 عمل کے چلیں عنقریب تو حق تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا وہ تجھے  
 تیرے عملوں کا سوال کرے گا اس نے تجھے اپنی توحید کے لیے  
 پیدا کیا ہے نہ کہ دنیا و آخرت کے واسطے۔ دنیا نہ تیرا بیٹ بھتی

وَلَا تُدْرِيكَ عَذَابُهَا مَكَاسَاةَ دَاهِيَتِكَ  
 وَوَيْتِكَ لِنَفْسِكَ نَظْرًا إِلَى وَجْهِ  
 الدُّنْيَا مِنْ تَدْبِيرِ نَفْسِكَ وَجَعَلِكَ  
 كَهَا وَرَئِيزًا الْمُؤْمِنِ مُدْبِرٌ وَلَا مُدْبِرٌ  
 إِذَا أَحَلَّكَ عَنْ نَفْسِكَ كَلَمَكَ قَلْبُكَ  
 ثُمَّ خَالَطَكَ السِّرُّ ثُمَّ تَوَلَّى كَمَا الْحَقُّ  
 عَزَّ وَجَلَّ فَتَكُونُ شَحْنَةَ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ  
 وَهَذِهِ النَّفْسُ رَاغِبًا بِنَادٍ إِذَا رَأَيْتَ  
 نَفْسِيَا قُلْتَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ قَبْلِي وَعَبْدُهُ  
 الضَّالِّهِ وَالْفَاسِقِ وَالشَّابِّ وَالصَّغِيرِ  
 بِهَذَا تَنَحَّلُ النَّفْسُ وَتَنْجَعُ الدُّنْيَا  
 عَنْ قَلْبِكَ تَأْخُذُ الْأَخِرَةَ عَيْنَ قَلْبِكَ  
 فَتَرْمِيكَ بِبَابِ قُرْبِهِ فَتُرِيدُ بَابَ قُرْبِهِ  
 بَابَ سُلْطَانِهِ بَابَ كَيْرِيَا عِهِ وَجَلَّ لَهُ  
 تَصَوُّرُ الْأَخِرَةَ مِنْ عَيْنِ قَلْبِكَ تَشْتَاقُ  
 إِلَيْهِ وَتُحِبُّ لِقَاءَهُ لَا تَنْظُرُ إِلَى الدُّنْيَا  
 فَتَرَاهَا أَوْ حَتَّى خَلَقَ اللَّهُ فَتَخْرِجُ مِنْ  
 قَلْبِكَ فَتَصِيرُ كَالْمُطْلَقَةِ بَعْدَ ظَهْرِهَا  
 الْعُيُوبِ تَعْرِفُ النَّفْسَ عَنْهَا ثُمَّ تَأْتِي  
 الْأَخِرَةَ مُرْتَبَةً فَتُظْهِرُ السَّابِقَةَ إِلَى  
 عُيُوبِهَا وَآتَاهَا مُحَدَّثَةً مَخْلُوقَةً يُشَارِكُ  
 فِيهَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا اسْتَمُوا  
 الْجَنَّةَ الْمَنْقُودَةَ الصَّافِيَةَ قُرْبُ الْحَقِّ  
 عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِسْتِغْنَاءُ وَالْوُصُولُ إِلَيْهِ  
 لَا تَشْتَغِلُ بِهِوً لَا بِإِسَاءِ الْمُهَوِّسِينَ جَاهِلُوا

ہے اور تجھے سیراب کر سکتا ہے دھوکہ باز مکار ہے تیری  
 بڑی مصیبت تیرا اپنی نفس کی طرف دیکھنا اپنی تدبیر نفس کے  
 لیے تیرا دنیا کی طرف متوجہ ہونا اس کو نفس کا وزیر بنالینا ہے  
 تو اس سے بچے مومن انجام کار کا سوچنے والا ہوتا ہے بخت  
 نہیں ہوتا ہے جب تو اپنے نفس سے علیحدہ ہو جائے گا  
 تیرا قلب تجھ سے بات چیت کرنے لگے گا پھر تم دونوں سے  
 سرخا طلت کرے گا پھر تم کو خدا دوست رکھے گا پس تو بندوں  
 اور شہروں کا کووال ہو جائے گا تو جس طرح اس کے اس نفس کو  
 معزول کر دے۔ جب تو کسی بوڑھے کو دیکھے تو یہ کہہ دے کہ یہ  
 بندہ خدا مجھ سے پہلے کا ہے اور ایسا ہی ایک بندہ اور ماضی  
 جو ان ویچہ کو خیال کیا کہ اس سے تیرا نفس جدا ہو جائے گا اور  
 دنیا تیرے قلب سے نکل جائے گی تیرے قلب کی اٹکھ آخرت  
 کو لے کر تجھے باب قرب پر ڈال دے گی تو اس کے قرب حکومت  
 اس کے کبریا و جلال کے دروازہ کا قصد کرے گا آخرت تیرے  
 قلب کی آنکھوں میں چھوٹی و ذلیل ہو جائے گی تو اللہ کا مشتاق  
 ہو جائے گا اس کی ملاقات کا خواہاں بنے گا دنیا کو دیکھے گا پس  
 وہ تجھے تمام مخلوقات سے زیادہ وحشت ناک نظر آئے گی۔ وہ  
 تیرے قلب سے باہر ہو کر مثل اس طلاق دی گئی ہوئی عورت کے  
 ہو جائے گی جس کو بعد عیوب کے ظاہر ہونے کے طلاق دی گئی  
 ہو نفس اس سے دوری کرے گا پھر بن سندر آخرت آئے گی  
 پس سابقہ الہی اس کے عیب کو ظاہر کرے گا اور یہ بتا دے گا کہ  
 برحق یہ بھی حادث و مخلوق ہے اسلام لانے پر اس میں تیرے  
 یہود و نصارے بھی شریک ہوں گے۔ نقد جنت تمام چیزوں  
 سے صاف و پاک قرب الہی ہے بل جلالہ اور اس سے انس پکوتا  
 اور اس کی طرف پہنچ جانا ہے۔ تو ان بواہر ہوسوں کے ساتھ ہر دنیا

اللَّهِ نَبَاً فَطَلَبُوا جَهْلُوا الْآخِرَةَ فَطَلَبُوا  
جَهْلُوا الْخَلْقَ فَسَكَنُوا إِلَيْهِمْ۔

سے جاہل ہو کر اس کو طلب کرنے لگے جو آخرت سے جاہل ہو کر  
اُسے چاہنے لگے جو مخلوق سے جاہل ہو کر ان میں ٹھہر گئے ہوں  
مشغول مرت ہو۔

يَا قَوْمَنَا اِحْذَرُوا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى بَعْضِ  
اَنْبِيَآئِهِ اِحْذَرُوا لَا اخْذَكَ عَلَى عِمْرَةٍ يَعْقُوبُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَبْقَى فِي الْاَوَّلِ عَلٰى يُوْسُفَ  
ثُمَّ عَادَ بَكَاءَ نَفْسِهِ تَوَسَّعَ فِيْهِ كَوْنُهُ  
يَنْبَغِي خَافَ عَلَى عِصْمَتِهِ لِمَا كَانَ فِيْهِ مِنَ  
الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ اَنْتُمْ صُمْمُكُمْ عَنِّي  
لَكُمْ اِذَا انْ الرَّؤُوسِ وَلَا اِذَا ابْ  
الْقُلُوبِ۔

اے ہماری قوم تم خدا سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے اپنے  
بعض نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی تم ڈرو کہ میں تمہیں کہیں اچانک  
نہ پکڑ لوں۔ یعقوب علیہ السلام ابتداء پر سب علیہ السلام پر رویا کرتے  
تھے پھر گرفت کے خوف سے اپنے نفس پر رونے لگے تھے۔ اُن  
کا نبی ہونا معلوم کر لیا تھا اُن کے حسن و جمال سے اُن کی عصمت و  
پاک دامنی پر ڈرنے لگے تھے۔ تم تو گو نگے میرے اندر سے ہو  
تمہارے سروں کے کان ہیں اور دلوں کے کان نہیں  
ہیں۔

يَا حُطَبَ النَّاسِ يَا عَوَامُ يَا  
طَعَامُ اَنْتُمْ فِي هَوَاسٍ اَلَا رَأَى اللّٰهُ  
تَصْنِيْرُ الْاُمُورِ اَلَا رَأَى رَاى لَكُمْ وَسَاقِ  
لَكُمْ نَاطُورُ لَكُمْ مَا تَرَفَيْتُمْ هُنَا وَآلَى  
لَكُمْ وَجُودًا فِيْهَا يَرْجِعُ اِلَى الصِّرِّ وَالنَّفْعِ  
بَعْدَ مَا قَطَعْتَ الْكُلَّ بِسَيْفِ التَّوْحِيدِ  
اَلَمْ تَنْتَ هَذَا الْمَقَامَ حَمْدُكُمْ وَذَمُّكُمْ  
وَاقْبَالُكُمْ وَارْبَابُكُمْ عِنْدِي سَوَاءُكُمْ  
مِمَّنْ يَذْمُونِي كَثِيْرًا اَنْتُمْ يَتَقَلَّبُ ذِمَّتُهُ  
حَمْدًا اَوْ كَلَاهُمَا مِنَ اللّٰهِ لَا مِنْهُ اِقْبَالِي  
عَلَيْكُمْ لَنَلَهُ اَخَذَنِي مِنْكُمْ لَنَلَهُ لَوْ اَمَكْنَنِي  
دَخَلْتُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ الْقَبْرَ وَجَاوَبْتُ  
عَنْهُ مِنْكُمْ اَوْ نَكِيْرًا رَحْمَةً وَتَشْفَعَةً  
عَدِيْكُمْ اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا ا

اے جہنم کی لکڑیو! اے عام لوگو! اے کمینوں! تم سراپا  
ہو جس میں مبتلا ہو خبردار ہو جاؤ اللہ کی طرف تمام امر لوٹیں گے  
خبردار ہو جاؤ میں تمہارا چرواہا اور ساتی اور تمہارا محافظ ہوں  
میں نے یہاں تک ترقی تمہارے وجود اور نفع و نقصان پر نظر  
کر کے نہیں پائی ہے بلکہ کل کو توحید کی تلوار سے قطع کر کے میں  
نہ یہ مقام لازم پکڑا اور حاصل کیا ہے۔ تمہاری تعریف اور  
برائی تمہارا اقبال و ادبار میرے نزدیک برابر ہے کسی کی پروا  
نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اکثر میری برائی کرتے رہتے ہیں۔  
پھر اُن کی برائی تعریف ہو کر پلٹتی ہے دونوں اللہ کی طرف سے  
ہیں نہ کہ بندہ کی طرف سے میرا تمہارے اوپر منوجہ ہونا بھی اللہ  
کے لیے ہے تم سے لینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر مجھے قدرت  
دی جاتی تو میں تمہارے اوپر رحمت و شفقت کر کے تمہارے  
ہر ایک کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا اور اُس کی طرف سے  
منکر و نکیر کو جواب دے دیتا جب اللہ عز و جل اپنے بندوں

میں سے کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اُس کے قلب میں اپنا وجد و شوق ڈال دیتا ہے ابو یزید سلطانی علیہ الرحمہ سات مرتبہ جب کہ اُن سے عجیب کلام سُنے گئے شہر بدر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اوینا را اللہ کے قلوب پر اپنے قرب کے دروازہ کو کھول دیتا ہے بجز پانچ غاروں اور آدمیت و بشریت کے لقب کے ان کو مخلوق کے ساتھ جمع نہیں کرتا ہے اُن کی صورتیں انسانوں جیسی ہیں اور ان کے دل تقدیر کے ساتھ اور ان کے باطن محبت الہی میں رہتے ہیں۔ تیری طاقتیں تیرے چہرے پر اور تیرے کپڑوں اور ظاہر پر ہیں اور تیری بے دینی تیری مخلوقوں میں ہے اور تیرا کفر تیرے باطن پر قلب نفاق اور غرور اور مخلوق سے بدگمانی سے بھرا ہوا ہے تجھے سوا تلوار کے کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی تو برسے پاک ہونا ممکن ہے اہل شرع نے سکوت اور خاموشی اور پردہ پوشی کا حکم دیا ہے ورنہ میں تیری طرف اشارہ کرتا وہ تجھے آستینیں پھوٹ کر نکال دیتا تو باہر کر دیا جاتا ہمارا کلام تمہارے ظاہر میں اثر کرتا ہے اور ہمارے قلب تمہارے باطن میں جو کوئی مجھے تہمت لگاتا ہے اور میری تکذیب کرتا ہے اللہ اس کو جھٹلائے گا اُس کے اہل و عیال مال اور شرکے درمیان میں تفریق ڈال دے گا مگر یہ کردہ تو بر کر لے۔ کوئی نماز کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس بات کا ارادہ نہ کرتا ہوں کہ کسی کو لوگوں کی نماز پر جانے کے لیے غلیف بنا دوں یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہوں اور ایسا ہی حال ہر مجلس میں ہے الہی تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو خوش ہونے والے کے ساتھ خوشی نہ کر بلکہ غم کرنے والے کے ساتھ غم کیا کر۔ تو ہنسنے والے کے ساتھ ہنس مت بلکہ رونے والے کے ساتھ

مِنْ عِبَادِهِ أَلْقَىٰ فِي قَلْبِهِ وَجْدًا شَوْقًا إِلَيْهِ  
لَقِيَ أَبُو يَزِيدَ الْبُسْطَامِيُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمَّا  
سَمِعَ مِنْهُ مِنَ الْكَلَامِ الْعَجِيبِ يَفْتَحُ إِلَى قُلُوبِهِمْ  
بَابَ الْقُرْبِ لَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْخَلْقِ سِوَى  
الصَّلَاةِ الْخُصِّسَ وَ لَقِيَ الْأَدَمِيَّةَ الْبَشَرِيَّةَ  
صَوْرُهُمْ صَوْرُ الْإِنْسِ وَقُلُوبُهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ  
أَسْرَارُهُمْ مَعَ الْمَلِكِ أَنْتَ طَاعَا تُلْكَ  
عَلَى وَجْهِكَ وَ نِيَابِكَ وَ ظَاهِرِكَ وَ  
زُنْدَقَتِكَ فِي خَلْقِكَ وَ كُفْرِكَ عَلَى  
بَاطِنِكَ قَلْبٌ مَشْحُونٌ بِالنِّفَاقِ وَ الْعُجْبِ  
وَ سُوءِ الظَّنِّ بِالْخَلْقِ مَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا  
السَّيْفُ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ الشَّرْعُ أَمَرْنَا  
بِالنُّكْرَةِ وَ الْكِتْمَانِ وَ السُّتْرِ وَ إِلَّا  
كُنْتُ أَشْرَفُ إِلَيْكَ يَا خُذْكَ وَ يَمُوكَ  
وَ يُخْرِجُكَ كَلَامُنَا يَعْمَلُ فِي ظَاهِرِكُمْ  
وَ قُلُوبُنَا يَعْمَلُ فِي بَوَاطِنِكُمْ مَنْ  
يُتَّهِمُنِي وَ يُكَذِّبُنِي كَذَّبَهُ اللَّهُ فَارَقَ  
اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِيَالِهِ وَ مَالِهِ وَ بَلَدِهِ  
إِلَّا أَنْ يَتُوبَ مَا مِنْ صَلَوةٍ إِلَّا وَاعِظُكُمْ  
أَنْ أَسْتَحْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حَتَّى  
إِذَا جَاءَ وَ قَتَّ الصَّلَاةُ أُعِدَّتْ إِلَى  
الصَّلَاةِ وَ كَذَلِكَ فِي وَ قَتَّ كُلِّ مَجْلِسٍ  
اللَّهُمَّ لَا تُحَمَّدْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ كَا  
تَفَرَّحَ مَعَ مَنْ يَفْرَحُ بِلِ احْزَنْ مَعَ مَنْ يَحْزَنْ  
لَا تَضْحَكْ مَعَ مَنْ يَضْحَكُ بَلْ اِبْكْ مَعَ

تو دیکھو کہ تم بلند ہستی کے ساتھ طریقت کے راستہ میں سیر کیا کرو اپنے  
مقدس حصوں کو اس کے قرب کے دروازہ کی چوکھٹ سر رکھ کر کھایا کرو  
تیرے پاس تو عقل ہی نہیں ہے تو دنیا سے اپنے مخصوص حصوں نہیں  
اعراض کیا کرو اور اگر تیرے متعلق اہل و عیال کر دیئے جائیں تو ہم سے  
ان کے لیے کیا کرو کہ اپنے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
و سلم صدقات کا مال لیا کرتے تھے اور اس کو فقرا و مساکین اور  
مجاہدین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے پھر اپنی ازواج مطہرات کے  
حجروں میں تشریف لاتے تھے آیا کوئی چیز بھی لکھی کوئی چیز  
ہمارے لیے آئی پس جب جواب دے دیا جاتا تھا نہیں  
ہے آپ فرماتے تھے کہ اچھا اب ہمارا روزہ ہے اس بندش  
سے آپ اطلاق دینے والے ہوتے تھے کہ اس سے ہمارا  
روزہ رکھنا مقصود ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی حالت ہے کبھی وہ  
گرمی کی شدت سے گھر کی چھت پر سونے کے ارادہ سے  
چڑھنا چاہتے ہیں سینہ ہی پر دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر جان لیتے  
ہیں کہ ان سے مقصود گھر میں سونا ہے نہ کہ اوپر چلے آتے ہیں  
اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اس وقت  
ان سے مقصود جنگل و میدان کی طرف جانا ہے پس صحرا و میدان  
کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نبوت مخلوق میں باقی ہے  
جس کے اثر اور فائدہ اور معنی اولیاء اللہ کے قلوب پر منتقم  
ہیں نبوت ایک کامل کھانا اور پینا تھا اب ان کا بچا کھچا باقی رہ  
گیا ہے۔

اے حرام اور سود کے کھانے والو تم میرے پاس سے  
نکل جاؤ قاضی نہیں ہوں جو حد لگا دوں۔ میں توجہ اخلاص کی  
تربیت دینے والا ہوں تمہاری کثرت سے بغیر منفعت کے  
کیا کروں تمہارے اعمال تمہارے چہروں پر بھلائی یا بُرائی

مَنْ يَنْبَغِي سِيرُ دَامَةَ إِلَهُمُ الْعَالِيَةِ كَلُوا  
أَفْسَاكُمْ عَلَى بَابِهِ عَلَى عَتَبَةِ قُرَيْمِ عَقْلُ  
نَبِيٍّ عِنْدَكَ أَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيَا فِيمَا يَحْضُرُكَ  
وَأَنْ عِلْقَ عَلَيْكَ عِيَالٌ خَذُوا مَتْلَكُمْ لَا  
لَكَ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيُفَرِّقُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ  
وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُجَاهِدِينَ ثُمَّ يَأْتِي بَيُوتَ  
أَزْوَاجِهِ يَقُولُ هَلْ فِيكُمْ شَيْءٌ جَاءَنَا  
شَيْءٌ فَإِذَا قِيلَ لَا يَقُولُ إِنْ إِذَا صَاحَتْكُمْ  
مَعْلَمٌ بِأَحْتِبَابِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْهُ الصِّيَامَ  
هَكَذَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَدْ يُرِيدُ أَنْ يَصْعَدَ  
إِلَى سَطْحِ بَيْتِهِ لِيَسْتَأْمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ  
يَبْرَى عَلَى الْمَرْجَةِ بَابًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرَادُ  
مِنْهُ الصَّوْمُ فِي دَارِهِ يَبْرَى بَابَ دَارِهِ  
مَقْشُورًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرَادُ مِنْهُ الصَّوْمُ إِلَى  
الصَّحَرَاءِ وَالْبَرِّيَّةِ فَيُخْرِجُهُ إِلَى الصَّحَرَاءِ  
وَالْبَرِّيَّةِ هَذِهِ الشُّبُوهُ بَأَقْبِهِ فِي الْخَلْقِ  
أَثَرُهَا فَإِنَّهُمَا مَعْنَاهَا مُنْقَسِمَةٌ عَلَى  
قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ الشُّبُوهُ كَانَتْ طَعَامًا وَ  
شَرَابًا بَقِيَ صَوْمُ الصَّوْمِ أَخْرَجُوا مِنْ  
عِنْدِي۔

يَا أَكَلَةَ الْحَرَامِ وَالرِّبَا لَسْتُ بِقَابِلٍ أَنَا  
مُرِّي التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ أَيْشَ أَعْمَلُ يَكْتُرُكُمْ  
بِلَا مَنْفَعَةٍ أَعْمَالُكُمْ تُنَادِي عَلَيْكُمْ فِي  
وَجْهِكُمْ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا

الْشُّكُوتُ خَيْرٌ يَنْتَظِرُ لَعَلَّ يُمْسِي ذَلِكَ مِنْ  
وَجْهِكَ لَعَلَّ تَتَغَيَّرَ خُلُوتُكَ فَيُمْسِي السَّوَادُ  
مِنْ وَجْهِكَ قَدِمَ مِنَ الْحَبِيبِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ  
الْبَلَدَةِ فَجَاءَ إِلَى فَقُلْتُ لَهُ تَبَّ إِلَيَّ  
اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ فِي الْحَبِيبِ  
قُلْتُ لَهُ قَدْ عَرَفْتُ وَلَكِنْ لَمْ يَنْتَظِرْ  
وَفُسُقَى وَفُجُورٌ فَلَمْ يَتَّبِ فَلَمَّا مَاتَ  
رَأَيْتُهُ حِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ  
مِنَ السَّابُوتِ وَتَعَلَّقَ بِذَيْلِي فَقُلْتُ لَهُ  
مِنْ هَذَا حَدِّثْكَ مَا أَكْثَرَ كَيْدُكُمْ وَ  
مُرُورُكُمْ فِيمَا تَدْعُونَ لَكُمْ شَيْئًا وَ  
يَكُونُ لَكُمْ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَكُمْ  
كِتَابَ عَنَفِكِ وَمَحَاكَ عَنْكَ لَعَلَّ تَضَعَفَ  
عَنِ الطَّاعَةِ وَالْخَيْرِ فَتَقْرَأَ ذَلِكَ عِنْدَ  
النُّبُوتِ عِنْدَ الْوَهَّاقِ أَرْجُوا شَفَاعَتَكُمْ  
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ شَرُّكُمْ تَوْحِيدٌ  
مِّنَ الصَّغَرِ أَصْبَغُهُ الْيَوْمَ بَابٌ مَّفْتُوحٌ  
عَلَى أَغْلِقُهُ عَنِّي يَسْبِيكُمْ لِأَحَبِّ وَلَا  
كَرَامَةٍ صَرَخَ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ  
اللَّهُ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَوَفَ تُشَالُ عَنْ  
هَذَا تَحَاسِبُ عَلَيْكَ لِمَ قُلْتَ يَا بَيَّاءُ  
وَيَفَاقًا إِخْلَاصًا أَوْ شَرِّكَاهُ هَذَا  
الْيَوْمَ بِالْفُطَيْسِ مَنَ شَاءَ فَلْيَقْعُدْ  
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُخْرِجْ ثُمَّ صَرَخَ وَقَامَ  
إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَتَوَبُّونَ صَارِيخِينَ بَاكِينَ

کو خود پکار رہے ہیں خاموشی بہتر ہے اس کا انتظار کیا جائے کہ  
شاید یہ حالت تیرے چہرے سے محو کر دی جائے شاید تیری  
خلوت متغیر ہو جائے پس تیرے چہرہ سے سیاہی محو کر دی جائے۔  
ایک شخص اہل شہر سے حج سے واپس آکر میرے پاس آیا پس  
میں نے اُس سے کہا تو اللہ سے توبہ کر اُس نے جواب دیا میں تو  
حج میں تھا میں نے اُس سے کہا یہ میں نے جانا اور لیکن پھر جو زنا  
اور فسق و فجور ہوا اُس سے توبہ نہ ہوئی پس اُس نے توبہ کی جب  
وہ مر گیا تو نماز جنازہ کے بعد میں نے اُس کو دیکھا کہ گویا قیامت  
سے نکلا اور میرے دامن سے چمٹ گیا پس میں نے اُس سے  
کہا اسی سے تو میں نے تجھے ڈرایا تھا غم جس چیز کا دعویٰ کرتے  
ہو اُس میں تمہارا کس قدر زیادہ جھوٹ و کج ہے۔ آیا تیرا کوئی شیخ  
ہے اور ہو گا پس اُس کو اُس کے حوالہ کر دے یہاں تک کہ وہ تجھ کو  
تیری آزادی کا پروانہ دیدے اور تیری سیاہی کو وہ تجھ سے  
محو کر دے تاکہ تو طاعت و بھلائی سے کمزور نہ پڑ جائے پس  
اُس کو تو موت کے وقت جدائی کے وقت پڑھ لے گا۔ میں اُس  
دن کے لیے تمہاری شفاعت کی امید کروں کیوں کہ یہ شرک ہے  
توحید بچنے سے ہے اُس دن کیا اُس کو ضائع کر دوں گا۔ میرے  
اب پر دروازہ کھلا ہوا ہے کیا اس کو تمہارے سبب سے بند کر  
دوں گا۔ نہ دوستی ہے اور نہ کوئی بزرگی۔ آپ کی مجلس میں ایک  
شخص نے چیخ ماری اور کہا اللہ پس آپ نے فرمایا عنقریب  
تو اس سے سوال کیا جائے گا اس پر حساب لیا جائے گا۔  
کیوں کہ تو نے کہا تمہارا یا دنفاق سے کہا تھا یا اخلاص سے  
یا شرک سے۔ یہ دن تھوڑا ہے کہ آیا ہے جو چاہے بیٹھا ہے  
اور جس کا دل چاہے چلا جائے یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری مخلوق  
کثیر آپ کی طرف کھڑی ہو گئی سب چیخ چیخ کر رو رو کر توبہ کرنے

إِذَا جَاءَ عَصْفُورٌ فَقَعَدَ عَلَى رَأْسِهِ فَحَنَّنَا  
رَأْسَهُ لَهُ وَمَكَثَ لِيَذِلَّكَ وَهُوَ عَلَى رَأْسِهِ  
وَالنَّاسُ عَلَى دَرَجِ الْكُرْسِيِّ وَالصُّرَاحُ حَوْلَهُ  
وَهُوَ لَا يَبْرُحُ حَتَّى مَدَّ يَدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ  
نَحْوَهُ فَطَأَ ثَمْرَةً دَعَا وَصَبَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ  
وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ فَتَزَلَّ وَخَرَجَ عَلَى حَالِهِ  
إِلَى جَامِعِ الرِّصَافَةِ وَتَبِعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ بِالْبُكَاءِ  
وَالصُّرَاحِ وَالْوَجْدِ وَالتَّعَرُّي عَنِ  
الْقِيَابِ هَذَا إِخْرَاجُ الرِّمَانِ اللَّهُمَّ إِنَّا  
نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ يَكُونُ شَيْءٌ أَتَمَّتْ  
مِنْهُ الْهَرَبُ لَكِنْ تَوَافَقَ الْقَدَرُ وَ  
الْقَضَاءُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا دِينَكَ  
إِحْقَظْ مَاءَ وَجْهِكَ اكْتَسَبَ لِيَجْمَعَ هَتَكَ  
هُوَ بَابُ الْإِخْدِ مِنَ اللَّهِ اسْتَعْنِ بِهِ عَنِ  
الْعَلْقِ يَخَاطِبُ الْمُسْتَبِيبَ الْمُسْتَبِيبَ  
الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ التَّعَبُّ فِي شَيْءٍ مَعْرُومٌ  
مِنْهُ أَوْ فِي شَيْءٍ مُسْتَأْنَفٍ مُبْتَدَأٌ يُقَالُ  
لَهُ قُمْرِيْنَا سَاقِي الْمُسْتَبِيبِ نَاقِي الْمَعِينِ  
نَاقِي الْأَصْلِ نَقْرَعُ مَصَاعِرَ الْقَضَاءِ وَ  
الْقَدَرِ نَقِفْ عَلَى بَابِ الْعِلْمِ عَلَى رَأْسِ  
وَادِي الْقُضْلِ نَشْتِى وَعَلَى التَّهْرِ السَّاقِيَةِ  
نَاقِي أَصْلَهَا حَتَّى إِذَا آتَيْنَا أَصْلَ التَّهْرِ  
رَأَيْنَا الْمَاءَ يُخْرَجُ مِنْ أَصْلِ جَبَلِ الْقُضْلِ  
فَعَدَاهُمَا وَخَتِيمَا جَاءَتِ الْكَفَايَةُ وَ  
الْعِنَايَةُ جَاءَتِ الْهَدَايَةُ جَاءَتِ

لگے اُس وقت ایک چڑیا اگلی پس وہ اگر آپ کے سر پر بیٹھ گئی  
آپ نے اپنا سر اُس کے لیے جھکا دیا اور آپ اسی طرح مرجھائے  
بیٹھے رہے اور وہ چڑیا آپ کے سر پر تھی اور آدمی کرسی کی  
سینڈھیل پر اور چیخ لگا کر آپ کے ارد گرد تھی اور وہ چڑیا ہمتی نہ  
تھی یہاں تک کہ آپ کے دونوں میں سے ایک شخص نے اپنا  
ہاتھ اس کی طرف بڑھایا پس وہ چڑیا لڑ گئی پھر آپ نے دعا مانگی  
اور لوگوں نے رونے و دعا و توبہ کا شور مچا پس آپ منبر سے اتر  
آئے اور اپنی اس حالت پر جامع مسجد رضا فہ کی طرف چلے اور  
آپ کے پیچھے پیچھے مخلوق کثیر روتی ہوئی چیخ و پکار کرتی اور وجد  
کی حالت میں کپڑوں سے برہنہ ہو کر چلی جاتی تھی پھر آپ نے فرمایا  
یہ آخری زمانہ ہے الہی میں تجھ سے اس زمانہ کے شر سے پناہ  
مانگتا ہوں ایک شے ظاہر ہوئی ہے میں اُس سے بھاگنے کی تمنا کرتا  
ہوں لیکن قضاء و قدر کی موافقت کرتا ہوں کہیں دنیا تیرے دین  
کو نہ لے جائے تو اپنے چہرہ کے پانی (ابرو) کی حفاظت کر۔  
کسب کرنا کہ تیری فوج جمع ہو جائے کسب اللہ سے لینے کا دروازہ  
ہے تو کسب کر۔ ملاحظہ فرمائیے اسے بے نیاز بن جا سبب مسبب سے  
اور ظاہر باطن سے اسے آیا مشقت کرنا ایسی چیز  
میں ہے جس سے فراغت کرنا گئی ہے یا، عیشتہ نئی بات کے  
لیے نئی حکیمت اٹھانا پڑتی ہے اُس کو جواب دیا جاتا ہے کھڑا  
ہو ہمارے ساتھ چل ہم مسبب اور حتمہ واصل کے پاس چلیں  
قضاء و قدر کی چوکھٹ کو چل کر کھٹ کھٹائیں علم کے دروازہ پر ولدی  
فضل کی چوٹی پر ٹھہریں بھری ہوئی نہر پر چلیں جڑ کی طرف آئیں۔  
یہاں تک کہ جب وہ دونوں نہر کی جڑ پر آئے دونوں نے دیکھا  
کہ پانی نسل کے پہاڑ کی جڑ سے نکل رہا ہے پس یہ دونوں وہیں  
بیٹھ گئے اور خیمہ ڈال دیا کفایت و عنایت متوجہ ہوئی ہلا بیت

الْمَعْرِفَةُ جَاءَتْ الْعُلُومُ كُنَّا أَجْوَابُ  
 كُنْتُمْ نَدْخُلُ عَلَيْهِ لَهَا أَنْتَ تَذَبُّ  
 إِبْرَاهِيمَ الْخَوَاصُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 قَالَ بَقِيَّتُ فِي بَادِيَةِ آيَا مَا لَمْ أَرِهَا  
 أَحَدًا فَأَفْضَى إِلَى الشَّيْرِ إِلَى مَكَانٍ  
 أَخَذَ فِي مَنَّهُ وَحُشَّةٌ وَإِذَا أَنَا  
 بِشَايِبٍ فَتَأَيَّمْتُ هُنَاكَ فَوَجَّهْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ  
 لَهُ مِنْ آيِنٍ قَالَ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ إِلَى آيِنٍ  
 قَالَ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَاجْعَلْ  
 نَفْسَكَ لَهُ فِدَاءً فَصَرَّ صَرَحَةً وَ  
 وَقَعَ فَتَعَدَّ مَنَ رَأَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ  
 فَتَوَارَيْتُ عَنْهُ لَا جَمْعَ لَهُ حَصًّا وَأَرَاهُ  
 بِهَا فَجِئْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا ذَا إِبْهَاتٍ  
 يَهْتِفُ يَا إِبْرَاهِيمُ هَذَا الَّذِي كُتِبَ عَلَيْكَ  
 الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْهُ طَبَبْتُهُ الْبَحْتَةُ فَلَمْ  
 تَجِدْهُ كُتِبَتْهُ النَّارُ فَلَمْ تَجِدْهُ فَقُلْتُ  
 آيِنَ هَذَا أَفْعَالَ الْإِبْهَاتِ فِي جَنَاتٍ وَنَهْجٍ  
 فِي مَعْدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ  
 يَا هَوَسٌ لَا تَفْعَلْ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  
 أَبْوَابِهَا مِنْ أَبْوَابِ الشُّيُورِ الْفَتَّاحِ  
 الَّذِينَ فَتَوُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 صَامِرٌ وَمَعَانِي صَامِرٌ وَاجْلِسْ بَيْتِ  
 الْقُرْبِ صَامِرٌ وَأَحْصِيَا فِ الْمَلِكِ يُعَدُّ  
 عَلَيْهِمْ بِطَبَقٍ وَيُرَاحُ عَلَيْهِمْ بِالْخَرِّ وَيُغَيَّرُ  
 عَلَيْهِمْ أَنْوَاعُ الْخَلْعِ وَيَطُوفُ بِهِمْ

معرفت و علوم حاصل ہو گئے ہمارے لیے متفرق دروازہ ہیں۔  
 جن کے واسطے سے ہم دربار الہی میں داخل ہوتے ہیں تو ابواب  
 رہا براہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک زمانہ جنگل میں ٹھہر  
 رہا وہاں میں نے کسی کو بھی نہ دیکھا۔ آخر بادیہ پیمائی نے مجھے ایک  
 ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ اس سے وہاں مجھے وحشت طاری ہو گئی اور  
 وہاں اپنا تک میں نے ایک نوجوان کو کھڑا ہوا دیکھا پس میں نے  
 اس سے تعجب کیا اور دریافت کیا تم کہاں سے آرہے ہو اس  
 نے جواب دیا تمہارا وہاں ہے میں نے دوبارہ اس سے کہا،  
 کہاں سے آرہے ہو کہا ہو۔ پس یہ سن کر میں نے اس سے کہا  
 کہ اگر تو اپنے تول میں سچا ہے پس تو اپنے نفس کو اس پر قربان کر  
 دے یہ سن کر اس نے ایک تیغ ماری اور گر پڑا پس میں اس کی  
 طرف بڑھانا گاہ وہ مردہ تھا مگر چکا تھا پس میں اس کے پاس سے  
 پتھر وغیرہ لینے کے لیے آیا تاکہ اس کو دفن کر دوں غائب ہو گیا جب  
 پھر واپس آیا پس میں نے اس کو نہ پایا ہاتھ غیبی کی میں نے آواز  
 سنی کہ اسے ابراہیم یہ شخص ہے کہ جس کو ملک الموت نے طلب کیا  
 پس اس کو نہ پایا یا اس کو جنت نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا دوزخ  
 نے طلب کیا پس اسے نہ پایا میں نے ہاتھ سے عرض کیا آخر ہے  
 کہاں ہاتھ نے جواب دیا اچھے ٹھکانے میں قدرت والے  
 بادشاہ کے پاس جنتوں اور نہروں میں اسے بواہوس تو غافل  
 رہا۔ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ خدا تک پہنچنا  
 ان فانی مشائخ کے دروازوں سے ہو سکتا ہے جو کہ طاعت  
 الہی جل جلالہ میں فنا ہو چکے ہیں سر نہ پایا معنی بن گئے ہیں خاندان قرب  
 کے مجلس و ہم نشین ہو چکے ہیں بادشاہ کے حمان ہو چکے ہیں ایک  
 طبق ان پر صبح کو دوسرا طبق شام کو پیش کیا جاتا ہے طرح طرح  
 کے خلعت ان کے بدلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اس کی

مَمْلُكَتُهُ أَمْ أَصْنِيَهُ وَسَمَوَاتٍ أَسْرَارُهُ  
 وَمَعْرِفَتُهُ أَنْتَ مِنْ وَمَا آءٍ حَاطِطٌ عَنْهُ  
 فَزَسَخْ وَمَعَكَ إِبْرَؤُكَ كَيْفَ لَكَ أَنْ تَنْقُبَ  
 الْقَوْمَ إِذَا وَصَلُوا إِلَى ذَلِكَ الْحَاطِطِ  
 فَنُتِحَ لَهُمْ أَلْفُ بَابٍ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا  
 يَدْخُلُونَ بِأَلْفِ خُورٍ فِيهِ خُذِ النِّعْمَةَ  
 وَفَرِّ إِلَى الْمُنْعِمِ لَا تُقَيِّدْكَ دَعْوَاهَا وَ  
 مَنْ يُقَيِّدْكَ أَنْ تُظِرَّ فِي وَجْهِ النِّعْمَةِ  
 أَوْ نِعْمَةٍ أَمْ هِيَ نِقْمَةٌ أَمْ رَحْمَةٌ  
 لَا تَخْتَرِ يَطَاهِرَهَا لَا تُنْسِي الْمُنْعِمَ  
 فِيهَا لَا تَنْظُرْ يَبِينَا وَشِمَارًا لَا تُعْدِلْ  
 عَيْنَاكَ عَنِ الْمُنْعِمِ لَا تَأْكُلْ مِنْ يَدِ  
 الدُّنْيَا لَعَلَّه مَسْمُومٌ إِذَا جَاءَ تَكَ  
 بِطَعَامٍ فَانْظُرْ إِلَى وَرَئِكَ الْكِتَابِ  
 وَالسُّنَّةِ خُذْ مَشُورَةً نَهْمًا فَإِنْ أَفْتِيَاكَ  
 تَوَقَّعْ لَا تَسْتَعْجِلْ لَا تَسْتَبْشِرْ اسْتَفْتِ  
 نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ النَّفْسُ  
 إِذْ جَاهَدَتْهَا وَخَالَفَتْهَا انْسَبَكَ مَعَ  
 الْقَلْبِ صَامَتِ شَيْئًا وَاحِدًا خُوطِبَتْ  
 وَتَوَدَّيَتْ.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ صَارَ  
 عِنْدَ هَاجِبٍ مِنَ الْقَلْبِ وَلِلْقَلْبِ خَبْرٌ مِنَ  
 السِّرِّ وَلِلسِّرِّ خَبْرٌ مِنَ الْحَقِّ عَمَّا وَجَلَّ  
 أَعْطِ التَّوَرَّعَ حَقَّهُ ثُمَّ كُلْ وَلَا تَبَالِ  
 أَعْطِ التَّقْوَى حَقَّهَا ثُمَّ كُلْ وَلَا تَبَالِ

بادشاہت طواف کرتی ہے نیز اُس کے زمین و آسمان اسرار معرفت  
 تو ایسی دیوار کے پیچھے ہے جس کی چوڑائی تین میل کی ہے اور  
 تیرے ساتھ محض ایک سوئی ہے تو اُس دیوار میں کسے سوراخ کر  
 سکتا ہے اولیاء اللہ جب اس دیوار کی طرف پہنچے اُن کے لیے  
 ہزار دروازہ کھول دیئے گئے ہر دروازہ اُن میں سے ان کو پھارتا  
 ہے کونجھ میں سے داخل ہو۔ اولاً تو نعمت کو لے پھر نعمت دینے  
 والے کی طرف دوڑیں کہیں وہ نعمت تجھے اپنا قیدی نہ بنائے تو نعمت  
 کو اور جو تجھے قیدی بنائے چھوڑ دے تو نعمت کے چہرے میں  
 دیکھا کر آیا وہ نعمت ہے یا وہ عذاب ہے یا رحمت ہے تو اُس کی  
 ظاہر پر غور نہ کر تو نعمت دینے والے کو بھول مت جاتو بائیں  
 اور دائیں طرف نہ دیکھ تو اپنی آنکھوں کو نعمت دینے والے سے  
 نہ پھیر۔ تو دنیا کے ہاتھ سے دکھا ہو سکتا ہے کہ اُس میں زہر ملا  
 ہوا ہو جب تیرے پاس کھانا اُسے پس تو اپنے دونوں وزیروں  
 کتاب و حدیث کی طرف دیکھا کر اُن دونوں کا مشورہ لے پس  
 اگر وہ دونوں تجھے فتوے دیں تو بھی توقف سے کام لے  
 جلدی نہ کر خوش نہ ہو جا۔ اپنے نفس سے فتوے لیا کر اگرچہ تجھے  
 مفتی فتوے دیا کریں۔ جب تو نفس سے جہاد اور اُس کی مخالفت  
 کرے گا وہ کچھل کر قلب کے ساتھ ہو کر ایک شے بن جائے  
 گا اُس کو پکارا جائے گا اور خطاب کیا جائے گا۔ یا ایتھا  
 النفس المطمئنة۔

اے اطمینان والے نفس۔ اُس کو قلب کی جانب سے  
 اطلاع ملا کر۔ گے اور قلب کو باطن کی جانب سے اور باطن  
 کو حق عزوجل کی طرف سے۔ تو فتوے پر رہنمائی کا حق ادا  
 کیا کر پھر کھا اور کچھ پروا دیکر فتوے کا حق پورا ادا کر پھر کھا اور  
 بے پروا ہو جا۔

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْنُ حَاجُّوكَ قَضَادُكَ  
مُرِيدُكَ هَلَّا بَكَ مُجِبُوكَ طَالِبُوكَ نَايِبُوكَ  
أَوْلَادُنَا وَأَهْلُونَا وَدِيَارُنَا لَا تَخْذُلْنَا  
إِلَّا شَيْتَانُ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَ وَ  
بِالنَّاسِ مَعْصِيَهُ وَبِالْخَلْقِ إِنْزِعَاجُ  
عَنْ بَابِهِ مِنَ الْوُجُوهِ مَنْ تَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ  
لَهُ وَيَكْنِفُ أَيْدِيَهُمَا إِلَى وَجْهِهِ أَرْثَا أَحَادُ  
أَفْرَادٍ مِنَ الْوُجُوهِ اللَّهُ تَرَى الْمَلَائِكَةَ  
ذَلِكَ الصَّالِحِ قَدِمَ فِي مَسْجِدٍ بِالشَّامِ  
جَائِعًا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ كَيْتَنِي كُنْتُ أَعْلَمُ  
اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ وَإِذَا اشْتَخَصَانِ نَزَلَا  
فَقَعَدَا لِي جَنِيهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَخِي  
تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ قَالَ  
نَعَمْ فَقَالَ لَهُ قُلْ اللَّهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي  
إِنِّي أَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ كَيْسَ ذَلِكَ تُرِيدُ  
أَنْ تَقُولَ اللَّهُ وَكَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَيْرُهُ  
ثُمَّ صَعَدَا بِحَدَائِي إِلَى السَّمَاءِ اجْعَلْ  
ظَاهِرَكَ الْخَلْقَ وَقَلْبَكَ الْآخِرَةَ وَ  
سِرَّكَ أَوْفِقْهُ مَعَ الْخَائِقِ خَارِجًا عَنِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ قَدَرْتِ وَإِلَّا فَلَا  
تَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ أَهْرَبُ فِي الْغِيَا فِي  
وَالْقَفَا بِرَ الْكُنُسِ إِلَّا يَمَانُ فِي الْخَلُوقِ  
وَالصَّحَارِي وَالْقَفَا بِرَ ثُمَّ ادْخُلْ إِلَى الْخَلْقِ  
أَطْلُبْ رَفِيقًا فِي خَلُوتِكَ قَبْلَ الظُّلُوقِ  
إِلَى الْخَلْقِ وَ بَعْدَ كَلَامِ

آپ نے ارشاد فرمایا الہی ہم تیری طرف جھکنے والے تیرے قصد  
کرنے والے تیرے مرید تیرے طالب تیرے محب اور  
تیرے خواہاں ہیں ہماری اولاد گھر اہل ہم سے سب چھوٹے  
ہوئے ہیں تو ہمیں ذلیل و سوا نہ کرنا غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا  
کھیل کود ہے اور نفس کے ساتھ مشغول ہونا معصیت ہے اور  
مخلوق کے ساتھ مشغول ہونا اللہ کے دروازہ سے بکروی ہے  
بعض اولیاء اللہ میں سے وہ ہیں جن کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور  
اور ہاتھ باندھے ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں ایک دو کا اولیاء اللہ  
میں سے ایسے ہیں جو کفر و شتوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں۔  
ایک نیک جدہ ملک شام کی مسجد میں بھوک کی حالت میں پہنچا پس  
اپنے نفس میں کہا کہ کاش کہیں اسم اعظم جانتا ہوتا۔ رفتاً و شفص  
آسمان کی طرف سے اترے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے پس  
ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تیری خواہش اسم اعظم کے جان  
لینے کی ہے دوسرے نے کہا ہاں اُس نے جواب دیا  
تو اللہ کو میں نے یس کر  
اپنے نفس میں کہا کہ یہ تو تحقیق میں بھی کہا کرتا ہوں اُس نے کہا کہ  
یہ بات نہیں ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ تو اللہ کے اور تیرے  
قلب میں اُس کا غیر مدوم ہو یہ کہ وہ دونوں میرے سامنے  
آسمان کی طرف چڑھ گئے تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے کر لے  
اور اپنے قلب کو آخرت کے لیے۔ اور تو اپنے باطن کو خدا کی  
معیت میں دنیا و آخرت سے نکل کر کھڑا کر دے۔ اگر تو ایسا  
کر سکتا ہے کہ گزردہ تو سلامتی کے ساتھ نہ رہے گا۔ جنگوں اور میدانوں  
میں جہاں غلو توں میں اور جنگوں اور میدانوں میں ایمان کو باطل کر  
پھر مخلوق کی طرف آ۔ اذکار مخلوق کی طرف راستہ لینے سے پہلے  
اپنی خلوت میں کسی مرشد رفیق کو طلب کر لے۔ کچھ تقریر کے بعد

يَا خُذْ ذَنْ لِيغَيْرِهِمْ يُفَرِّقُونَ يَفْتَسِمُونَ هُمْ  
 قِيَامٌ مَعْنَى يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْكَ يَا لَاحُذْ مِنْكَ  
 الْمُرِيدُ يَا خُذْ مِنَ اللَّهِ الْعَارِثُ يَا خُذْ مِنَ  
 الْخَلْقِ لَآنَ الْعَارِثُ يَا خُذْ مِنْهُمْ لَآنَهُ  
 عَامِلٌ بِجَهْدٍ نَائِبُ الْمَلِكِ يَا خُذْ مِنَ الْخَلْقِ  
 إِلَى غَيْرِهِ وَطَبَقَهُ مَعَ الْمَلِكِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ  
 وَرَاءِ الْأَبْوَابِ وَالْحُجُبِ شَهَوَاتُهُ تَحْتَ أَفْدَانِهِ  
 وَالْخَلْقُ تَحْتَ قَدَمِهِ عَصَا مَوْسَى يَنْتَلِمُ الْكُلَّ وَلَا  
 يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ لَآنَ لَمْ تَقْلُدْ عَلَى يَدَيِ فَلَا فَلَاحَ  
 لَكَ قَطُّ لَا أَعْلَمُكَ بِطَبَقِكَ وَلَا أَرُدُّ  
 الْعَصَا عَنْكَ خَوْفًا مِنْ سَطَوَتِكَ وَلَا  
 سُلْطَانِكَ شَغْلٌ يَشْغَلُكَ عَنِّي قُلُوبُ مَيْشُومٍ  
 عَلَيْكَ عِيَالُكَ عَنْقَرِيْبٌ يَلْحَقُهُمْ  
 شُومُكَ وَبِكُورُ الْأَصْقَالِ يَكِلُ عِيَالَهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَيُسَلِّمُهُمْ رَأْيِيهِ وَالْمُنَافِقُ  
 الْفَاجِرُ يَكِلُ عِيَالَهُ إِلَى دِرْهِمِهِ وَدَيْنَارِهِ  
 وَتَرْكُوتِهِ مِنْ عِقَارِيَاهُ وَصِنَاعِيَاهُ لَا جَزْمَ تَكُونُ  
 عَاقِبَتُهُمْ إِلَى الْفَقْرِ أَنْتَ جَاهِلٌ مَقْشُورٌ  
 مُبْعَدٌ مَلْعُونٌ قَدْ أَشْرَبَ فِي قَدْرِكَ حُبَّ  
 عَجَلِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أُرْزُقْ مَنْ طَلَبَ  
 الدُّنْيَا رِمْعُوْنَتِهِ عَلَى الدِّيْنِ وَمَنْ  
 طَلَبَ الْآخِرَةَ يَوْجِهْكَ وَمَنْ طَلَبَ  
 الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا فَلَا تَزِرْ قُلُوبَهُ وَمَنْ  
 طَلَبَ الْآخِرَةَ رِيَاءً فَلَا تَزِرْ قُلُوبَهُ  
 لَا تَهْمُ أَحْبَابُكَ عَنْكَ كَيْتَ أَفْكَمَ وَاحِدٌ

ارشاد فرمایا اولیاء اللہ اپنے غیروں کے لیے لیتے ہیں بانٹتے اور  
 تقسیم کرتے رہتے ہیں وہ معنی قائم ہوتے ہیں تجھ سے بے کزبہ  
 اہی اوپر مدد کرتے رہتے ہیں مرید اللہ عزوجل سے لیا کرتا ہے  
 عارف مخلوق سے وصول کرتا ہے کدوہ شاہی صوبہ کارگردار بادشاہ  
 کا نائب ہے خلق سے لیتا ہے غیر کی طرف پہنچاتا رہتا ہے اور  
 اس کا طبق بادشاہ کی معیت میں اس کے دربر و دروازوں اور  
 حجابوں سے پرے رکھا ہوتا ہے اس عارف کی خواہشیں اور  
 تمام غلوں اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہیں عصا موسیٰ تمام  
 چیزوں کو نکل لیتا تھا اور اس میں کچھ تغیر و تبدل واقع نہ ہوتا تھا۔  
 اگر تو میرے ہاتھ پر فلاح نہ پائے گا پس کبھی تیرے لیے فلاح  
 نہ ہوگی۔ میں تجھے تیرے طبق کے سبب سے تسلیم نہ دوں گا اور نہ  
 تیری سطوت و حکومت سے ڈر کر تجھ سے اپنے ڈنڈے کو  
 ہٹاؤں گا جو مشغلہ تجھے مجھ سے روکے پس وہ تیرے اوپر  
 منحوس اور تیرے حق میں بُرا ہے۔ تیری یہ نحوست عنقریب  
 نیزے اہل و عیال پر اثر ڈالے گی پس وہ بھیک مانگیں گے۔  
 نیک بندہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اسی کی  
 طرف سونپ دیتا ہے اور منافق فاجر اپنے اہل و عیال کو اپنے  
 درہم و دینار اور اپنی متروک زمین و پیشہ کی طرف حوالہ کرتا ہے  
 اس وجہ سے ان کا انجام کارفرقی کی طرف ہوتا ہے تو تو جاہل بنو  
 رحمت الہی سے دور ملعون ہے تیرے دل میں دنیا کے گوسالہ کی  
 محبت پلا دی گئی ہے تو اسی پر ریس بھاگتا ہے الہی تو اس کو رزق  
 دے جو کہ تجھ سے دنیا کو دین پر مدد کے لیے طلب  
 کرے۔ اور جو تجھ سے دنیا کو دنیا کے واسطے اور آخرت کو ریا  
 کے طور سے طلب کرے تو تو اسے رزق نہ دے کیوں کہ  
 یہ دونوں طلبیں تجھ سے حجاب ہیں کاش کہ تم میں سے ایک ہی

مِنْكُمْ لَنَا نَتَّقُ بِذَلِكَ عَدَا إِذَا جَاءَ فِي  
رَجُلٍ صَاحِبٌ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ لَكَ  
عَدَا شَيْءٌ فَاصْبِرْ مَعَكَ وَادْعُنَا فِي دَعْوَيْكَ  
وَإِنْ كَانَ لَنَا شَيْءٌ فَتَسْتَبَلِكْ مِنْهُ حُدُوكَ وَكَلَامِي  
حَاصِلًا لَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ أَفْلَحْتُمْ فَإِنْ صَحَّ هَذَا  
فَقَدْ هَزُنْتُ وَكُنْتُ تَعْدُ وَإِنْ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ  
فَقَدْ هَزُنْتُ تَعْدُ وَخَسِرْتُ الْخَلْقَ سِدْرَتُهُ  
مَلِكٌ شَيْطَانٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَلِكُ خَيْرٌ مِنْهُ  
وَالشَّيْطَانُ شَرٌّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَلِطٌ  
مُتَزَيِّجٌ خَيْرٌ وَشَرٌّ فَإِذَا غَلَبَ الْخَيْرُ لِحَقِّ  
بِالْمَلِكِ وَإِنْ غَلَبَ الشَّرُّ رَلْتَحَقَّ  
بِالشَّيْطَانِ -

يَا قَوْمِ الْإِسْلَامُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ يَدٌ كَرِيْمَةٌ  
رَأْسُهُ مِنْ هَوَاجِرِ الْعُجَابِ مِنْ هَوَاجِرِ  
الْفُسَاقِ مِنْ هَوَاجِرِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ  
مِنَ الظُّلُمَةِ مِنَ الْأَرِيسِينَ نِيَابِ الرُّؤُوسِ مِنَ  
الْمُدَّعِيْنَ مَا لَيْسَ فِيهِمْ أَنْ نُنْظَرُ إِلَى مَنْ تَقَدَّمَ  
وَالِي مَنْ كَانَ مَعَكَ أَمْرًا نَاهِيًا إِلَّا شَارِبًا  
كَانَ لَمْ يَكُونُوا مَا أَقْنَى قَلْبَكَ الْكَلْبُ يَنْصَحُ  
صَاحِبَهُ لِيَصِيْدَهُ وَتَرْدِعُهُ وَمَا شَيْكَتَهُ  
وَحِرَاسَتَهُ وَتَبْصِيصُ عِنْدَ دُؤَيْتِهِ  
وَالشَّمَا يُطْعِمُهُ عِنْدَ عَشَائِهِ لِقَمَّهُ  
أَوْ لِقِمَاتٍ أَوْ يُطْعِمُهُ هَبِيئًا يَسِيرًا وَ  
أَنْتَ تَأْكُلُ نِعَمَ اللَّهِ وَتَسْتَبِعُ مِنْهَا لَا تُعْطِيهِ  
مَطْلُوبُهُ لَا تَرْفِيهِ حَقَّهُ تَرُدُّ أَمْرًا

اُدھی فلاح حاصل کر لینا تاکہ ہم کل اُس کا دامن پکڑ لیتے جب میرے  
پاس کوئی صالح شخص آتا ہے تو میں اُس سے کہتا ہوں کہ اگر کل (بروز)  
قیامت کے لیے تمہارے پاس کچھ ہو پس ہمیں ساتھ لے لینا اور  
اپنی دعوت میں ہم کو بلالینا اور اگر ہم کو کچھ ملا پس ہم تجھ کو اُس میں  
سے کچھ دے دیں گے۔ تم میرے کلام کو خالصاً وجہ اللہ لے سکو  
نہ کسی غرض سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ پس اگر یہ معاملہ صحیح  
ہو گیا پس میں اور تم دونوں کمال پر پہنچ گئے۔ اور اگر اس کے خلاف  
ہو پس تم ناکام ہو گئے اور میں نے نقصان اٹھایا۔ مخلوق میں قسم کی  
ہے فرشتہ اور شیطان اور انسان۔ پس فرشتہ سراپا خیر ہے۔ اور  
شیطان سراپا شر اور انسان ملا ہے خیر بھی ہے اور شر بھی پس  
جب خیر غالب ہوتی ہے تو وہ فرشتہ سے مل جاتا ہے اور اگر  
شر غالب ہوتی ہے تو وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔

اے قوم اسلام روتا ہے اور ان عاجزوں اور ناسقوں اور  
ان بدعتیوں اور گمراہوں ظالموں مکر کے پکڑے پہننے والوں جھوٹے  
مدعیوں سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے فریاد کر رہا ہے۔ اے  
مخاطب تو ان لوگوں کی طرف دیکھ جو تجھ سے پہلے گزر چکے اور  
ان لوگوں کی طرف جو تیرے ساتھ میں حکم دینے والے منع کرنے  
والے کھانے پینے والے ہے وہ مکر کا کلام کہیں ہو گئے۔ تیرا  
قلب کس قدر سخت ہے۔ کئی اپنے مالک کی اُس کے شکار و کھیتی  
اور اس کے مویشی اور اُس کی حفاظت میں خیر خواہی کیا کرتا ہے  
اور اُس کی دیکھنے کے وقت پاؤں سی کرتا ہے۔ حالانکہ وہ شام  
کے وقت اُس کو صرف ایک لقمہ یا چند لقمہ یا تھوڑا سا کھانا  
کھلا دیا کرتا ہے۔ اور تو برابر اللہ کی نعمتیں کھانا رہتا ہے اور  
اُس سے پیٹ بھرنا رہتا ہے تو نہ اُس کے مطلوب کو ادا  
کرتا ہے اور نہ تو اُس کا حق پورا کرتا ہے تو اُس کے حکم رد کرتا

وَلَا تُحْفِظْ حُدُودَكَ۔

يَا عَلَّامُ لَا تَعْدِلْ مَعَ الْفَقِيرِ وَالضَّعِيفِ وَ  
السَّالِمَةِ شَيْئًا اسْتَعِزَّ بِاللَّهِ فِي فَقْرِكَ  
فَإِنَّ الْعَنَى يُطْغَى وَيُنْسِي رَبَّكَ فَاتْرَا الْحَيَاةَ  
الدُّنْيَا أَتْرَهْوَاهُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَتَرَا  
النَّفْسَ وَالطَّبْعَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ أَتَرَا الْغَفْلَةَ عَلَى  
الصَّوْمِ وَأَتَرَا الْحَرَامَ عَلَى الْحَدِّ أَتَرَا الْغَفْلَةَ  
عَلَى الْيَقَظَةِ أَتَرَا الْمَعْصِيَةَ عَلَى التَّوْبَةِ وَنَجَّكَ  
سَوْتُكَ بِأَدْيِهِ اسْتَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَإِنْ تَسَمِعَ  
بِرَجُلٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْتِيَهُ وَلَا تَأْتِيَهُ  
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْبِرَهُ فَإِذَا أَخْبَرْتَهُ مَقَّتَهُ وَ  
مَقَّتَ عَمَلَهُ هَذَا الرَّمَّانُ مَا تَرَى أَكْثَرَ  
الْخَلْقِ إِلَّا لَعَنَهُ عَلَيْكَ حَرْفٌ ظَاهِرٌ وَلَا  
بَاطِنٌ فَقُلْ عَلَى حَرْبِهِ حَتَّيْبَةُ مُسْتَدَّةٌ  
نَحْرَةً لَا تُصْلِحُهُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ فِي  
الدُّنْيَا مَلِكٌ وَفِي الْآخِرَةِ مَلِكٌ عَمِلَ بِطَاعَتِهِ  
وَتَرَكَ مَعْصِيَتَهُ وَحَدَّهُ فِي خَلْوَتِهِ وَ  
جَلْوَتِهِ مَقَّتَ الدُّنْيَا طَلَقَهَا وَهِيَ وَمَاءٌ  
مُنَاشِدَةٌ۔

يَا بَنِي خُذْ طَعَامَكَ وَشَرَّابَكَ  
يَقُولُ لَا أَكُلُ حَتَّى أَتَى بَابَ الْآخِرَةِ  
لَعَلَّهُ مَسْمُومٌ يَا أُمَّةَ لَا حُطِّي مَا مَعَكَ  
حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمُ مَانَةَ الْآخِرَةِ فَإِذَا  
جَاءَتْ وَفُتِّشَتْ طَعَامُكَ وَقُلَّتْ

رہتا ہے اور تو اُس کی حدود کی حفاظت بھی نہیں کرتا ہے۔  
اے غلام تو فقر اور صبر اور سلامتی کے ساتھ کسی شے کو برابر  
نہ کیا کرنا اپنے فقر میں خدا کے قرب سے غنی بن فقیر بن کے بے پروا  
ہو جا کیوں کہ غنی سرکشی کرتا ہے اور رب تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اسی  
وجہ سے وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اپنی خواہش کو بمقابلہ  
امر الہی کے اختیار کرتا ہے نفس و طبیعت کو امر الہی پر ترجیح دیتا ہے  
روزہ پر غفلت کو اختیار کرتا ہے حرام کو حلال پر ترجیح دیتا ہے۔  
تجھ پر افسوس تیری شرم گاہ کھلی ہوئی ہے تجھے جیسا نہیں ہے  
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب بے شک آپ نے فرمایا ہے۔  
البتہ یہ کہ تو کسی شخص کے حال کو سن لے اس سے بہتر ہو گا کہ تو اُس کے  
پاس جائے اور البتہ تیرا انا اس سے بہتر ہو گا کہ تو اُسے آزمائے  
پس جب تو اُسے آزمائے گا تو تو اُس کے عمل کو مبغوض رکھے گا۔ یہ  
زمانہ ایسا ہے کہ تو اکثر مخلوق کو اس میں اپنے اوپر لعنت کرنے والا  
پاسے گا بغیر باطن کے ظاہری حرفت میں دیرانہ پرتغزل ہے ٹیک کی  
گھٹی ہوئی لکڑی ہے جو جلانے کے سوا کسی کام کی نہیں ہے۔ مومن دنیا  
میں بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ اُس نے طاعت الہی  
کی ہے اُس کی معصیت کو چھوڑ دیا ہے اُس نے اپنی خلوت و بطوت  
میں اُس کو ایک جانا مانا ہے دنیا کو بُرا سمجھ کر اُس کو طلاق دے دی  
ہے مالا محرو وہ اُس کے پیچھے پیچھے نہیں دیتی ہوئی پھرنے والی  
ہے کتنی ہے۔

اے بچہ اپنا کھانا اور پینا لیتا جاوہ کہہ دیتا ہے کہ تا وقتیکہ  
میں آخرت کے دروازہ پر نہ پہنچ لوں کچھ کھانے پینے کا نہیں اس  
میں زہر ملا ہوا ہے۔ اے ماں جو کچھ تیرے پاس تیرے حقہ کلمہ  
تو اسے ڈالتی جا یہاں تک کہ آخرت کا دار و مدار خادماً جائے  
اور وہ اگر تیرے کھانے کی تقشیش کرے اور لوٹ پوٹ کرے

وَسَمَّيْتُ جَنَّيْزًا كُلُّ مَنْ يَدِيهَا تَأْخُذُكَ  
 الْاُخْرَىٰ اِلَيْهَا تُطْعِمُكَ طَعَامُهَا وَتُسْقِيكَ  
 نَسْرَابَهَا وَاعْلَقَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الدُّنْيَا بَابًا  
 اَنْتَ كَذَلِكَ اخَذْتَكَ يَدُ الْغَيْرَةِ فِي سَبْعَةِ  
 يَدِ الْعَزَّةِ قِيلَ لَكَ اَيْشَ هَذَا السُّكُونُ  
 اِلَى غَيْرِي رَامَا هِيَ مَخْلُوقَةٌ اَمْرٌ هِيَ  
 مَصْنُوعَةٌ هَلَا اَتَيْتَنَّا قَبْلَ الدَّارِ حَتَّى  
 اِذَا عَلَّمَكَ وَكَسَاكَ وَاسْتَكَّ وَاَطْعَمَكَ  
 التَّوْدِيَاتِ وَدَمَرَكَ بِالشَّرْفَيْنِ وَالْوَرَعِ  
 وَالْحِفْظِ خَرَجْتَ اِلَى الدُّنْيَا فِي صُحْبَةٍ  
 بِنَا لَكَ دَكَّةً تُخَاطِبُ اَهْلَ الدُّنْيَا  
 وَالْاُخْرَىٰ مَا لَكَ مَاذَا قَصْنَمُ بِهِ  
 يَدُ قَمُ عَنْكَ حَتَّى سَاعَةٍ يَا تَيْفَ  
 الْمَوْتِ يَدُ فَعَةٍ عَنْكَ وَرُبَّمَا يَكُونُ  
 ذَلِكَ بَعْدَ سَاعَةٍ تَعْلُقُ بِرِجَالِ  
 النِّعَةِ عِنْدَهُمْ مَجَانِنٌ عَنْهُ فِي رَفِ  
 تَجْرِ الدُّنْيَا يَدِ اَوْ ذُنِ الْمَضَىٰ وَ  
 يَتَجَوَّنُ الْغَرْقُ وَيَزْحَمُونَ اَهْلَ  
 الْعَذَابِ كُنْ عِنْدَكَ اِذَا عَرَفْتَهُ فَاَنْ  
 لَمْ تَعْرِفْهُ فَاَبْكِ عَلَى تَشْيِكَ  
 يَتَبَسَّمُ الْقُدْرُ فِي وُجُوهِ الرَّاغِبِينَ  
 بِالْقَضَاءِ وَيَا خُذْ اَيْدِيَهُمْ اِلَى اَنْبِيَا  
 وَيَتَقَفُّ لَهُمُ الْبَابُ وَيَقْرَأُ لَهُمُ اِلَى الْمَلِكِ  
 فَيَجْزِيهِمْ صَامَةً وَاَمِنْ حَرْبِ اللَّهِ مَا هَذَا هَوَسٌ  
 اَصْلُ هَذَا كَامِلٌ وَاَقْبُوا الْقُدْرَ

اور نوگھ لے اس وقت میں سے ہے۔ توہمات شریف کا آخرت کی  
 حالت میں تجھے دنیا کی طرف لے جائے گی اس کا کھانا کھلائے گی  
 اور پانی پلائے گی اور تیرے اور دنیا کے درمیان میں نفل لگا دے  
 گی۔ تو ایسی حالت میں ہو گا کہ غیرت الہی کا ہاتھ عزت کے پاک ہاتھ  
 میں تجھے پکڑ لے گا تجھے کہا جائے گا میرے غیر کی طرف مائل ہونا کیا  
 چیز ہے آخرت تو یا مخلوق ہے یا مصنوعی چیز تو قبل کھر کے ہمارے  
 پاس کیوں نہ آگیا۔ یہاں تک کہ جب وہ تجھے تعلیم دیدے گا اور  
 لباس پہنا دے گا اور تجھے اپنے سے مانوس کرے گا اور  
 تجھے تزیینت معرفت کھلا دے گا اور توفیق اور تقویٰ و پرہیزگاری  
 اور حفاظت کی زرہ پہنا دے گا اس وقت تو دنیا کی طرف اس کی  
 مصاحبت میں آئے گا وہ تیرے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دے گا  
 تو دنیا و آخرت والوں سے خطاب کیا کرے گا تو اپنے مال کا کیا  
 کرے گا کیا وہ تجھ سے ایک لحظہ کے لیے بخار کو دفع کر سکتا  
 ہے اور ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے ایک لحظہ کے بعد ہی موت  
 آجائے۔ تو خدا والوں کے دامن سے لپٹ جاؤ ان کے پاس  
 مجنون بھر دنیا میں ڈوبے ہوئے ہر قسم کے لوگ ہیں وہ بیماروں  
 کی دوا کرتے ہیں اور ڈوبنے والوں کو نجات دیتے ہیں اور  
 اہل عذاب پر رحم کیا کرتے ہیں۔ جب تو ایسے شیخ کامل کو معلوم کر  
 لے تو تو اسی کے پاس پڑھ پس اگر تجھے ایسا شیخ نہ ملے تو اسے  
 نہ پہچانے پس تو اپنے نفس پر رویا کر تضرع و تضرع پر راضی ہونے  
 والوں کے چہرہ دل کو دیکھ کر تقدیر مسکراتی ہے اور ان کو بادشاہ  
 کی طرف لے جاتی ہے اور ان کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور  
 ان کو بادشاہ سے نزدیک کر دیتی ہے پس اس وقت یہ لوگ خدا  
 کی جماعت سے ہو جاتے ہیں۔ یہ محض ہوس نہیں ہے ایک اصل  
 ہے یہ ایک کامل امر ہے تم تقدیر کی موافقت کئے جاؤ اس سے

لَا تَخَاجِمُوهُ وَلَا تَغْلِبُوهُ الْمُوَافَقَةُ قَالَ  
يَجِبُ بَنُ مَعَاذِ كَلَامِ الصِّدِّيقَيْنِ الْقَائِمَيْنِ مَقَامَ الرَّسُولِ  
أَبْدَانُهُمْ عَلَى أَسْرَارِهِمْ وَحُجَّتُهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَلَامُهُ  
عَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفِي اللَّهِ اتَّعَدُ بِمَقْبَرَةٍ -  
خَاطِبُ الْمَوْتَى مَا ذَا لِعَيْتِنَهُ إِلَى مَا صِرْتُهُ  
أَيُّنَ الْأَهْلِ أَيْنَ الْأَوْ لَدَ أَيْنَ الدُّرِّ أَيْنَ الْأَمْوَالِ  
أَيْنَ الشَّكَابِ أَيْنَ الْعُتُوَّةِ أَيْنَ الْأَمْوِ أَيْنَ النَّهْيِ  
أَيْنَ الْأَخْذِ أَيْنَ الْعَطَاءِ أَيْنَ الْمُحَابَةِ  
أَيْنَ الشَّهَوَاتِ كَمَا تَهْمُهُ يَخَاطِبُونَكَ  
نَدِمْنَا عَلَى مَا خَلَقْنَا فِرْحَانًا بِمَا قَدَّمْنَا  
لِهَكَذَا الْكُنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرَوْهُ الْمُتَقَابِرُ  
خَالِيًا عَنِ الرِّفْقِ وَخُلُوهَا عَنِ النِّسَاءِ  
وَالرِّجَالِ كُونُوا عَقْلَاءَ أَنْتُمْ مَوْلَى  
عَنْفَرِيْبٍ دَخَلَتْ جَنَانًا تَوَّ يَوْمًا فِي  
مَجْلِسِهِ فَتَالَ آ لَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا  
الْمَيِّتِ لَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ  
أَدْهَشَتْهُ وَغَيَّبَتْ رُشْدَهُ حَتَّى لَمْ يَعْرِفْ  
أَحَدًا مِنْ أَقْبَابِيْهِ فَكَذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ إِذَا  
أَوْرَدَتْ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَدْهَشَتْهُ وَ  
غَيَّبَتْ رُشْدَهُ حَتَّى لَا يَعْرِفَ سِوَى رَبِّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ

جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے لڑو نرمی برتنا ہی موافقت ہے یہ سیکھو  
ابن معاذ علیہ الرحمہ نے فرمایا اُن صدیقوں کا کلام جو کہ رسولوں (ﷺ) کے  
قائم مقام ہیں۔ اور ان کے اسرار پر بدل ہیں اللہ عزوجل کی وحی ہے ان  
کے کلام اللہ ہی سے اور اللہ کے ساتھ اور اللہ ہی میں ہیں۔  
اے مخاطب تو کسی قبرستان میں بیٹھ جا مردوں سے خطاب  
کر تم نے کیا پایا تم نے کس طرف رجوع کیا اہل و عیال کہاں ہیں۔ گھر  
کہاں ہیں مال کہاں ہیں جوانی کدھر ہے قوت کہاں گئی۔ امر و نہی کہاں  
ہے لینا دینا کہاں ہے دوست کہاں ہیں شہوتیں خواہشیں کہاں ہیں گویاں  
کے جواب میں وہ تجھ سے خطاب کریں گے ہم جو چھوڑ آئے اس پر  
نارم ہیں ہم نے جو آگے بھیج دیا اس پر خوش ہیں۔ جب تو مقابر کی  
زیارت کا رفق اور مرد و عورتوں سے خالی ہو کر ارادہ کیا کرے اسی  
طرح جایا کر یہی عمل کیا کرتا اے مخاطبین عقل مند بنو تم متغریب مرنے  
والے ہو۔ آپ کی مجلس میں ایک دن ایک جنازہ داخل ہوا پس  
آپ نے فرمایا کیا تم اس مردہ کو نہیں دیکھتے جب کہ اس پر موت  
آئی اس نے اس کو دہشت میں ڈال دیا اور اس کی عقل کو غائب  
کر دیا یہاں تک کہ اپنے قرابت داروں میں سے کسی کو نہ پہچان  
سکا پس اسی طور پر جب معرفت الہی کسی مسلمان کے قلب پر وارد ہو  
جاتی ہے تو اس کو دہشت میں ڈال دیتی ہے اور اس کی عقل کو  
غائب کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو،  
پہچانتا ہی نہیں (اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)



## ذکر وفاتہ رضی اللہ عنہ

اَسْتَوْصِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالِدَهُ الشَّيْخَ  
 اَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفِیْ  
 مَرَضٍ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَتَّقُوا اللّٰهَ وَ  
 طَاعَتِهِ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا وَلَا تَرْجُهِ وَرَبِّي  
 الْحَوَاشِي إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّهَا وَاطْلُبْهَا  
 مِنْهُ وَلَا تَتَّقِ بِأَحَدٍ سِوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ التَّوْحِيدُ  
 وَجَمَاعَةُ الْكَلِّ التَّوْحِيدُ وَقَالَ فِي مَرَضِ  
 الْمَوْتِ إِذَا صَنَعَ الْقَتْلَ مَعَ اللّٰهِ عَزَّ وَ  
 جَلَّ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ  
 شَيْءٌ أَنَا لَبٌّ لَا قُشُورًا قَالَ لَا وَلَدِهِ  
 أَبْعُدُ دَا مِنْ حَوْبِي فَكُنَا مَعَكُمْ يَاطَّاهِرُ  
 وَمَعَ غَيْرِكُمْ يَاطَّاهِرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ  
 بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بَعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ  
 وَالْأَرْضِ فَلَا يُقَيِّسُونِي عَلَى أَحَدٍ وَلَا  
 يُقَيِّسُوا عَلَى أَحَدٍ وَقَالَ قَدْ حَضَرَ عِنْدِي  
 غَيْرُكُمْ فَأَوْسِعُوا لَهُمْ وَتَادَبُوا مَعَهُمْ  
 هَهُنَا رَحْمَةُ عَظِيمَةٌ لَا تُصَيِّقُوا عَلَيْهِمْ  
 الْمَكَانَ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِهِ أَنَّهُ كَانَ  
 يَقُولُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ  
 غَفَرَ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ وَتَابَ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ  
 بِعَمِ اللّٰهِ غَيْرَ مُؤَدِّعِينَ قَالَ ذَلِكِ يَوْمًا وَ

## حضور کی وفات کا بیان

آپ کے صاحبزادہ سید عبدالوہاب نے اپنے والد ماجد شیخ  
 ابو محمد عبدالقادر رضی اللہ عنہ سے آپ کے مرض الموت میں آپ سے  
 وصیت کی خواہش کی پس آپ نے اُن سے فرمایا تم اپنے اوپر  
 اللہ کے تقویٰ و طاعت کو لازم پکڑو اس کے سوا دیکسی سے  
 ڈرو اور نہ کسی سے امیدواری کرو۔ اور اپنی کل حاجتوں کو اللہ عزوجل  
 کی طرف سونپو اور حاجتیں اُسی سے طلب کرو۔ اور اُس کے سوا  
 کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اور تمہارا اعتماد اُسی پر ہو۔ توحید کو لازم پکڑو  
 توحید کو لازم پکڑو۔ توحید کو لازم پکڑو۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ توحید  
 ہے۔ اور آپ نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا جب قلب اللہ عزوجل  
 کی میمت میں درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اُس سے خالی اور  
 کوئی چیز اُس سے باہر نہیں ہوتی ہے یہی سراپا مغز ہوں چھلکا نہیں  
 ہوں اپنی اولاد سے فرمایا۔ میرے گرد اگر دوسرے ہسٹ جاؤ دور  
 ہو جاؤ پس میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں تمہارے  
 غیر کے ساتھ ہوں۔ میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے  
 درمیان میں اُس قدر دوری ہے جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان  
 میں پس تم میرا کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ مجھ پر کسی دوسرے کا قیاس  
 کرو۔ اور فرمایا میرے پاس تمہارے غیر حاضر ہوئے ہیں پس تم اُن  
 کے لیے دعوت دے دو اور اُن کے ساتھ ادب کرو اس جگہ  
 بڑا اشد ہام ہے تم اُن پر جگہ تنگ نہ کرو آپ کے بعض صاحبزادوں  
 نے مجھ کو خبر دی کہ حضور تحقیق فرماتے تھے علیکم السلام ورحمۃ اللہ  
 اللہ مجھے اور تمہیں بخشے اور میرے اور تمہارے اوپر توبہ ڈالے تم  
 خدا کا نام لے کر غیر نصت کیے گئے اؤ اپنے یہ ایک دن اور ایک

وَلَيْكُمُ الَّذِي قَالَ وَيْلَكُمْ أَنَا لَا أَبَايَ  
 بِشَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُ وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْتُ يَا  
 مَلِكُ الْمَوْتِ تَدْرِكُنَا مَنْ تَتَوَلَّى نَاسُواكَ  
 وَصَاحَ صَاحِبُهُ عَظِيمَةً وَذَلِكَ فِي  
 الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِي عَشِيِّتِهِ وَسَأَلَهُ  
 بَعْضُ وَلَدِهِ عَمَّا يَجِدُهُ فَقَالَ لَا يَسْأَلُنِي  
 أَحَدٌ عَنْ شَيْءٍ أَنَا هُوَذَا أَتَقَلَّبُ فِي  
 عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِوَلَدِهِ  
 عَبْدُ الْجَبَّارِ أَنْتَ نَالِيكُمْ أَوْ مُنْتَبِهٌ  
 مُؤْتَوَانِي وَقَدْ أَنْبَهُمْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ  
 جَمَاعَةُ أَوْلَادِهِ عِنْدَهُ وَوَلَدُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ  
 يَكْتُبُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْطِ عَفِيفًا لِي كُتُبَ  
 فَتَأْخُذْتُ وَكَتَبْتُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرِي يُسْرًا مُرَوِّدًا بِأَخْبَارِ الصِّفَاتِ عَلَى  
 مَا جَاءَتْ الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ وَالْعِلْمُ لَا يَتَغَيَّرُ  
 الْحُكْمُ يُنْسَخُ وَالْعِلْمُ لَا يُنْسَخُ لَا يَنْقُصُ  
 عِلْمُ اللَّهِ بِحُكْمِهِ وَأَخْبَرَانِي وَلَدَاهُ  
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَرَفَعُ  
 يَدَهُ وَيَمْدُدُهَا وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ  
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَوَلَّوْا وَادْخُلُوا  
 فِي الصَّفِّ هُوَذَا أَجِئْتُ إِلَيْكُمْ وَكَانَ يَقُولُ  
 إِذْ يَقُولُ أَشْمَأَنَّا الْحَقُّ وَسَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ  
 كَانَ يَقُولُ اسْتَعْنُ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ  
 الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَخْشَى الْعَوْتَ سُبْحَانَ مَنْ  
 تَعَزَّيْنَا بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ

لات فرمایا اور فرمایا تمہارے اوپر انفسوس میں کسی چیز کی پروا نہیں  
 کرتا ہوں اور دیکھی فرشتہ کی اور ملک الموت کی۔ اسے ملک الموت  
 تم علیحدہ ہو جاؤ۔ ہمارے لیے تمہارے سوا وہ ذات ہے جو کہ  
 ہماری تولیت فرماتی ہے یہ کہہ کر آپ نے بڑی پیغمبری اور  
 اور یہ واقعہ اُس دن کا ہے جس دن کی شام کو آپ نے وفات فرمائی  
 آپ کے کسی صاحبزادہ نے آپ کا حال دریافت کیا پس ارشاد  
 فرمایا مجھ سے اس وقت کوئی کچھ نہ پوچھے میں اس وقت علم الہی میں  
 کرو میں بدل رہا ہوں اور آپ نے اپنے صاحبزادہ عبد الجبار سے  
 فرمایا تم سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو۔ تم میرے اندر ہو جاؤ یقیناً  
 بیدار ہو جاؤ گے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے پاس آپ  
 کی اولاد میں سے ایک جماعت موجود تھی اور آپ کے صاحبزادہ  
 عبد العزیز جو کچھ آپ فرماتے تھے کھڑے تھے مجھے دیکھ کر فرمایا  
 قلم کاغذ عقیقت کو دے دو تاکہ وہ لکھے پس میں نے لے لیا اور لکھنے  
 لگا قریب ہے اللہ کتنی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ تم اخبار  
 صفات الہی کی طرف جس طریقہ پر وہ آئی ہیں جو کرو۔ حکم بدلتا ہے اور  
 علم متغیر نہیں ہوتا ہے حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور علم منسوخ نہیں  
 ہوتا ہے اللہ کا علم اُس کے حکم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے  
 آپ کے دو صاحبزادہ سید عبدالرزاق و موسیٰ نے خبر دی کہ آپ  
 اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور کھینچتے اور کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ  
 وبرکاتہ۔ تم تو برکات وادب میں داخل ہو جاؤ۔ میں اس وقت تمہارے  
 پاس آتا ہوں اور آپ فرماتے تھے تم نرمی کرو۔ پھر اس کے بعد آپ  
 کے پاس حق اور کرات موت آگئی اُس وقت آپ فرماتے تھے کہ  
 میں مدد لیتا ہوں اُس معبود برحق سے جو زندہ ہے اور مرے گا  
 نہیں اور جو فوت سے نڈر ہے پاک ہے وہ ذات جس نے  
 قدرت سے خلق پر غلبہ پایا اور بندوں پر موت کے سبب سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي وَكَدَّ  
 مُوسَى أَنَّهُ لَمَّا قَالَ تَعَزَّزْ لَمْ يُؤَدِّهَا لِسَانُهُ عَلَى  
 الصِّحَّةِ فَمَنَّا إِلَ يُكْرَهُهَا حَتَّى قَالَ تَعَزَّزُوا  
 مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَشَدَّ دَهَا حَتَّى صَمَّ لِسَانُهُ  
 بِهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ خَفِيَ صَوْتُهُ وَلِسَانُهُ  
 مُتَنَصِّصٌ يَسْقِفُ حَلْقَهُ ثُمَّ مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عَتَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ وَصَلَوْتُهُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ  
 وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝

غالب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ  
 سید موسیٰ نے خبر دی کہ جب آپ نے لفظ تعزز فرمایا اس کو آپ  
 کی زبان مبارک صحیح طور سے ادا نہ کر سکی پس آپ کی برابر دہراتے  
 رہے یہاں تک کہ آپ نے سختی کے ساتھ اپنی آواز کو بڑھایا اور  
 اور صحت کے ساتھ زبان سے لفظ تعزز فرمایا پھر کما اللہ اللہ اللہ  
 پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور آپ کی زبان تالو سے ملی ہوئی تھی  
 پھر آپ نے انتقال فرمایا انا للہ وانا الیراجعون۔ اللہ ان سے راضی  
 ہوا اور ہم سب ان کو راضی کر دے آمین والحمد للہ رب العالمین و صلوتہ  
 علی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین



## یا غوث

طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث  
 دو ہائی یا محی الدین دو ہائی  
 وہ سنگیں بدعتیں وہ تیسری کفر  
 عَزَّوَمَا قَاتِلًا عِنْدَ الْقِتَالِ  
 ترے سونے سے سویا بختِ دِل جاگ  
 خدا رانا خدا آدے سارا  
 جلا دے دیں جلا دے کفر و الحاد  
 ترا دقت اور پڑے یوں دیں پرفت  
 رہی ہاں شامتِ اعمال یہ بھی  
 کئے ترساؤ گبر اقطاب و ابدال  
 یہ محض اسلام کا سائل ہے یا غوث

رضا کا خاتمہ بالآخر ہوگا  
 تری رحمت اگر شامل ہے یا غوث

(امام احمد رضا بریلوی)

# شَیْئاً لِلّٰہِ

دستگیری کا طلب گار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ  
میرے بندہ میں ناچار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

حالِ دل شرم سے اب تک نہ کما تھا لیکن  
آج میں درپے نظر ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

کرمِ خاص کے لائق تو نہیں میں پھر بھی  
آپ کا غاشیہ بردار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

آپ ہی سینے کہ اب اور کہوں میں کس سے  
بستہ دامن سرکار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

مجھ سے اب دین کی پستی نہیں دیکھی جاتی  
غلبہ کفر سے بے زار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

پائے رفتن ہے نہ ہند میں جائے ماندن  
سختِ مشکل میں گرفت رہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

جلوہ پاک نظر آئے تو بر آئے مراد  
تشنہ شربت دیدار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

کیا کروں میری دعا بھی تو نہیں ہے مقبول  
میں کہ اک فرد گنہ گار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ

غوثِ اعظم سے جو مانگو ملے گا حسرت  
بس کو حاضر دربار ہوں شَیْئاً لِلّٰہِ !

(حضرت مولائی)

## شرح صحیح مسلم

(جلد ۱)

تصنیف

علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

اس صدی کی بہترین شرح جس میں عصر حاضر کے جدید مسائل کا متفقانہ حل پیش کیا گیا ہے۔

● یہ شرح قارئین کو دوسری شرح سے بے نیاز کرے گی۔

## سنن ابوداؤد شریف مترجم

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بختانی رحمہ اللہ (جلد ۳)  
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری

## سنن نسائی مترجم

(جلد ۳)

امام ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل بن علی بن جریر بن زبیر  
ترجمہ مولانا دوست محمد شاہ مولانا مظہر محمد عبدالستار قادری

## مشکوٰۃ شریف مترجم

(جلد ۳)

امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمہ اللہ  
مترجم: فاضل شہیر مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری

## بخاری شریف مترجم

(جلد ۳)

امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ  
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری

## طحاوی شریف مترجم

مع خلاصہ مضامین  
(سیٹ چار جلد پر مشتمل)

محدث جلیل امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ  
مترجم: علامہ محمد صدیق ہزاروی مترجم ترمذی شریف ریاض الضائکین  
تقدیم: علامہ غلام رسول سعیدی شاعر علم شریف

## جامع ترمذی مترجم مع شمائل ترمذی

(جلد ۲)

محدث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ  
مترجم: مولانا علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاری

## ریاض الضائقین مترجم

(جلد ۲)

شیخ الاسلام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی  
مترجم: مولانا محمد صدیق ہزاروی مدظلہ  
تقدیم: محمد عبدالحکیم شرف قادری

## سنن ابن ماجہ مترجم

(جلد ۲)

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الربیع القشیری رحمہ اللہ  
مترجم: مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری

○ دیگر مبلوعات کے فہرست کے لیے جوائے لفافہ ارسال فرمائیں

فریدیک سٹال ○ ۳۸۔ اردو بازار ○ لاہور ۲ فون ۴۳۱۲۱۴۳  
۴۲۲۳۸۹۹

# شرح مشکوٰۃ

## جلد ۱

تصنیف منیف

عارف باللہ شیخ متقی نصر مولانا عبدالحی محمد دہلوی رضویہ

اردو ترجمہ و حواشی

حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مدظلہ العالی

علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی

# فیوض غوثیہ

ترجمہ

## افتح الرّبانی

از محبوب جانی حضرت شیخ عید القادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی مدظلہ العالی

# شواہد الحق

فی الاشیئنا للخلق

تصنیف، امام علامہ نورسلف بن اسماعیل نہانی قدس

ترجمہ، مولانا علامہ محمد اسد شرف سیالوی مدظلہ

# موطأ امام مالک

ترجمہ تحشیہ علامہ مولانا عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری مدظلہ

صحیح بناماری سنن ابن ماجہ سنن ابوداؤد وغیرہ

# حجۃ الالبان

تصنیف حضرت قطب الحکیم علامہ مولانا شمس الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ مولانا عبدالحی حقانی

# غنیۃ الطاہرین

از محبوب جانی حضرت شیخ عید القادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ، مولانا علامہ محمد صدیق ہزاروی سعیدی

تقدیم علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

فرید بک سٹال © ۳۸- اردو بازار لاہور فون ۴۳۱۲۱۴۳ / ۴۲۲۳۸۹۹







[www.maktabah.org](http://www.maktabah.org)



# **Maktabah.org**

This book has been digitized by [www.maktabah.org](http://www.maktabah.org).

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [[www.archive.org](http://www.archive.org)]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to [ghaffari@maktabah.org](mailto:ghaffari@maktabah.org), or go to the website and click the Donate link at the top.

[www.maktabah.org](http://www.maktabah.org)